


ترجمة معانـي



إلى اللغة الرواندية

IBISOBANURO BYA

# QUR’AN NTAGATIFU

MU RURIMI RW’IKINYARWANDA

Yasobanuwe ku bufatanye hagati y'

Umuryango w’Abayisilamu mu Rwanda (RMC)

na

Africa Development and Education Foundation (ADEF)

يوزع مجاناً ولا يباع

Gitangirwa ubuntu, ntikigurishwa





## HEAD OFFICE

### IJAMBO RYA NYAKUBAHWA MUFTI W'U RWANDA

Ishimwe n'ikuzo byuzuye bikwiye Allah, we wohereje Intumwa n'Abahanuzi mu bihe bitandukanye akabahishurira ibitabo bikubiyemo umuyoboro ku batuye isi, amahoro n'imigisha nibisakare ku Ntumwa Muhamadi we wasozereje izindi Ntumwa zose n'Abahanuzi Imana yohereje, bityo nta yindi Ntumwa cyangwa Umuhanuzi w'ukuri uzaza nyuma y'Intumwa Muhamadi.

Nyuma y'uko icapwa rya mbere ry'ibisobanuro bya Qur'an ryo muri 2011 rigaragayemo amwe mu makosa yagombaga kwitabwaho no gukosorwa, Umuryango w'Abayislamu mu Rwanda (R.M.C) ku bufatanye n'umuryango w'Abafatanyabikorwa AFRICAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOUNDATION (A.D.E.F) washyizeho itsinda ryo kongera kureba ibyo bisobanuro no kubisubiramo, bityo ubuyobozi bukur bw'Umuryango w'Abayislamu mu Rwanda (RMC) bunejejwe no gutangariza abavuga n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda ko uwo murimo warangiyne neza kandi bwawakiriye.

Ubuyobozi bukuru bw'Umuryango w'Abayislamu mu Rwanda (R.M.C) bukaba bwongeye gushimira Umuryango A.D.E.F ku ruhare runini wagize mu mirimo itandukanye y'ivugabutumwa by'umwihariko gusobanura Qur'an ntagatifu mu rurimi rw'ikinyarwanda, bukaba buboneyeho kuwuha uburenganzira bwo gucapisha no gukwirakwiza icapwa rya kabiri ry'iki gitabo cyiswe "**IBISOBANURO BYA QUR'AN NTAGATIFU MU RURIMI RW'IKINYARWANDA- Ugushyingo 2020**".


Ubuyobozi bukaba buboneyeho gushimira uwo ari we wese wagize uruhare muri uyu murimo w'ingenzi mu byiciro wanyuzemo byose, bunasaba abazagisoma bose kuzagisoma bizeye ko basoma ibisobanuro by'amagambo matagatifu ya Allah asemuye mu rurimi rw'ikinyarwanda. Turasaba Allah ko iki gikorwa yakigira ingirakamaro kandi ko abakigizemo uruhare bose Allah yakibakirira mu bikorwa byabo byiza akazakibagororera Ijuru.


Bikorewe i Kigali, kuwa 26/02/2021

**Sheikh HITIMANA Salim**

**Mufti w'u Rwanda**

B.P. 594 KIGALI-RWANDA OFFICE TEL:+250 788505698/+250 788453891 Email: islamour@yahoo.fr





## **IJAMBO RY'IBANZE RY'ICAPWA RYA KABIRI.**

Ishimwe n'ikuzo byuzuye bikwiye **Allah**, We wahishuye igitabo gitagatifu cya Qur'an akakigira umurongo n'umuyoboro ku batuye isi bose. Amahoro n'imigisha bisakare ku Ntumwa ye Muhamadi, yo yasohoje ubutumwa yahishuriwe uko bikwiye, kugira ngo abantu basobanukirwe icyo **Allah**, Umuremyi wabo abashakaho; bityo babashe kubahiriza amategeko ye, bakora ibyo yabategetse ndetse banirinda ibyo yababujije.

Nyuma y'ibyo, tunejejwe no kugeza ku basomyi icapwa rya kabiri ry'ibisobanuro bya Qur'an Ntagatifu biri mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Ibi bisobanuro byakorewe isubirwamo n'ikosorwa, bije byunganira ibyari byarasobanuwe mbere, kuko nk'uko bisanzwe, umurimo ukozwe n'abantu ukomeza kugenda unozwa kurushaho kugeza igihe utunganiye.

Nyuma y'aho itsinda ry'abasemuzi bakoze umurimo ukomeye wo gusemura Qur'an yose mu Kinyarwanda rirangije umurimo waryo, hacapwe ibitabo bya mbere hagamijwe kubigeza ku bantu b'ingeri zitandukanye kugira ngo basome ibyo bisobanuro, maze bazagaragaze ibitekerezo byabo ku haba hakenewe ubugororangingo cyangwa gukosorwa, kugira ngo bizitabweho mu icapwa rya kabiri.

Ni muri urwo rwego, ubuyobozi bukuru bw'Umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda (RMC) ku bufatanye n'Umuryango w'abafatanyabikorwa witwa AFRICA DEVELOPMENT AND EDUCATION FOUNDATION (ADEF), washyizeho itsinda ryashinzwe gusubiramo no kunoza ibyakozwe n'itsinda rya mbere.

Iryo tsinda ryahawe inshingano zo gusubiramo no kunoza, ryari rigizwe n'abantu bafite ubumenyi n'ubuhanga bunyuranye, ari bo:

1. Sheikh MUSHUMBA Yunusu
2. Bwana KAYIHURA Issa
3. Sheikh SINDAYIGAYA Musa
4. Sheikh TWAGIRAMUNGU Mudathir
5. Sheikh BAKERA Ally

6. Sheikh MUKUNZI Soudy
7. Bwana FUNGAROHO Issa
8. Haji CYIMANA Sudi
9. Sheikh UWAMUNGU Idrissa
10. Haji MUNYENTWARI Soudy
11. Sheikh MBARUSHIMANA Hussein
12. Bwana BANZUBAZE Amani

Nyuma yo gushyiraho itsinda ry'abakosozzi no kuriha inshingano, abagize itsinda bakoze inama yabo ya mbere babanza kwemeranya ku mabwiriza azagenga uwo murimo ndetse banemeranya ku bitabo bazajya bifashisha.

Iri tsinda ryatangiye inshingano zaryo kuwa 03/02/2014 risoza uwo murimo kuwa 30/11/2020 bihwanye na tariki 15/04/1442H. Umurimo wo gukosora wakorerwaga mu isomero ry'Ikigo Ndangamuco wa Kisilamu i Nyamirambo buri munsi nimugoroba, hakiyongeraho no gukora ku manywa mu minsi y'ikiruhuko.

Uyu murimo bigaragara ko watwaye igihe kirekire cyarenze icyo twari twarihaye, bitewe n'uko twagiye duhagarara kubera impamvu zinyuranye, ndetse no kuba nyuma yo gusoza icyiciro cya mbere twarongeye gusubiramo inshuro zirenze imwe mu rwego rwo kunoza uyu murimo. Aha kandi hiyongeraho no kuba nyuma ya ho, igitabo cyarahawe abantu b'ingeri zitandukanye barenga mirongo itandatu kugira ngo na bo batange umusanzu wabo hagamijwe kurushaho gutunganya iki gikorwa.

**IBY'INGENZI IBI BISOBANURO BIKOSOYE BITANDUKANIYEHO  
N'IBYASEMUWE BWA MBERE.**

Abakoze isubiramo n'ikosora bibanze cyane ku kureba igisobanuro cy'ikigamijwe mu murongo wa Qur'an, nyuma yo gusoma no kureba ibindi bitabo byasobanuye Qur'an mu ndimi zitandukanye, birinda gusobanura bagendeye ku ijambo ku ijambo.

Bajyaga impaka rimwe na rimwe zikaba ndende, na buri wese agahabwa umwanya wo kugira icyo avuga ku bisobanuro by'ijambo cyangwa se umurongo (Ayat), ariko hakiyambazwa *A-Tafsîr al Muyassar y'Icapiro ry'Umwami Fahad wa Arabiya Sawudite ryibanda*

ku kwandika no gucapa Qur'an, hanyuma bakemeranywa ku ijambo rikwiye gukoreshwa. Ibi bisobanuro kandi bifite udukubo twinshi ndetse n'ibisobanuro mpezarupapuro (Footnotes) byose byakozwe hagamijwe gufasha abasomyi gusobanukirwa birenze ibyanditse mu murongo wa Qur'an.

Zimwe mu ngero twatanga ni izi zikurikira:

<b>UKO BYARI BISOBANUYE MBERE</b>	<b>UKO BISOBANUYE UBU</b>
Umurongo wa 31 wo muri Surat al Maidat wari usobanuye mu buryo bukurikira:	
<b>ALLAH</b> yohereza icyiyoni gicukura mu butaka, kugira ngo kimwereke uko ahishira ubwambure bw'umuvandimwe we. Aravuga: Ayiwe! Ese naniwe kumera nk'iki cyiyoni ngo mpishire ubwambure bw' umuvandimwe wanjye!? Aba abaye mu bicuza.	Nuko <b>Allah</b> yohereza icyiyoni gicukura mu butaka (gihamba kigenzi cyacyo), kugira ngo kimwereke uko ashyingura umuvandimwe we. (Gahini) aravuga ati "Mbega ibyago! Ubu koko nananiwe kuba nk'iki cyiyoni ngo nshyingure umuvandimwe wanjye?" Ubwo aba abaye mu bicuza (icyatumye yica umuvandimwe we).
Umurongo wa 6-11 muri Surat al Qari'at wari usobanuye mu buryo bukurikira:	
6.Uwo iminzani ye izaremera.	6. Bityo, uwo umunzani we (w'ibikorwa byiza) uzaremera (bikaruta ibibi),
7. Azaba ari mu buzima bushimishije.	7. Azaba mu buzima bw'umunezero (Ijuru),
8.Na ho uwo iminzani ye izoroha.	8. Arikoo uwo umunzani we (w'ibikorwa byiza) uzaba utaremereye (bikarutwa n'ibibi),
9.Nyina azaba ari Haawiyah	9. Ubuturo bwe buzaba ari mu muriro witwa Hawiya.
10.N'iki cyayikumenyesha?	10. Ni iki cyawukumenyesha (umuriro wa Hawiya)?

11.Ni umuriro ushyushye.	11. Ni umuriro ugurumana bikabije!
<p>Allah aragira ati: {Yemwe abemeye! Ntimukavuge: Raainaa ahubwo muvuge: Un'dhurnaa, kandi mwumve. Abahakanyi bazahabwa ibihano bibabaza} Al Baqarat: 104.</p>	<p>Yemwe abemeye! Ntimukavuge (mubwira Intumwa Muhamadi) muti “Cisha make tukumve (Raainaa)”, ahubwo mujye muvuga muti “Twihanganire tubanze dufate ibyo watwigishije (Un'dhwurna)”, ndetse mwumve. Kandi abahakanyi bazahanishwa ibihano bibabaza.</p>

Twanogeje amategeko y’imyandikire y’ururimi rw’Ikinyarwanda. Nko muri Surat Ra’adu, umurongo wayo wa 16, haragiraga hati:

{Vuga: Ni nde Nyagasani w' ibirere n' isi ? Vuga: Ni <b>ALLAH</b> . Vuga: Ese mwaba mwaragine abatari We abarinzi? Nta cyo bakwimarira ubwabo cyaba cyiza cyangwa kibi. Vuga: Ese impumyi n' ubona barangana? Cyangwa se umwijima n' urumuri birangana ? Cyangwa bageneye <b>ALLAH</b> ibigirwa-mana byaremye nko kurema kwe ibyaremwe birababyobera !? Vuga: <b>ALLAH</b> ni Umuremyi wa buri kintu cyose. Ni na We Umwe, Uganza}.	Vuga (yewe Muhamadi) uti “Ni nde Nyagasani w'ibirere n'isi?” Vuga uti “Ni <b>Allah</b> .” Vuga uti “None se kuki mwishyiriraho abarinzi batari We, batagira icyiza bimarira cyangwa ngo bagire ikibi bikiza?” Vuga uti “Ese utabona ahwanye n'ubona? Cyangwa se umwijima n'urumuri ni bimwe? Cyangwa (abantu) babangikanya <b>Allah</b> n'ibigirwamana (bibwira ko) byaremye nk'uko (Allah) yaremye, ku buryo ibyo (bigirwamana byaremye n'ibyo <b>Allah</b> yaremye) bibatera urujijo kubera ko bisa?” Vuga uti “ <b>Allah</b> ni Umuremyi wa buri kintu, kandi ni Umwe rukumbi, Umunyembaraga z'ikirenga.”
---	--

## **INZITIZI TWAHUYE NA ZO MURI UYU MURIMO**

Umurimo wo gusubiramo no gukosora ibisobanuro bya Qur'an mu rurimi rw'Ikinyarwanda ntiwari woroshye, ari na yo mpamvu twawuhuriyemo n'inzitizi zitandukanye; zirimo:

- Kuba abagize itsinda barafatanyaga uyu murimo n'izindi nshingano basanganywe;
- Kuba hari bamwe mu bari bagize itsinda ry'abakosozi batajyaga baboneka ndetse hakaba hari n'abo twabuze burundu ku buryo batabashije gusozanya natwe uyu murimo;
- Byaratugoye cyane gusemura ururimi rukize cyane nk'Icyarabu turuhuza n'Ikinyarwanda gikennye kuri amwe mu magambo, cyane ko hari amagambo twasanze abasemuye bwa mbere bararekeye mu Cyarabu uko yakabaye kuko bayaburiye ibisobanuro mu Kinyarwanda.

## **IBITABO TWIFASHISHIJE:**

- ✓ Al Muyassar, cyateguwe n'Itinda ry'abamenyi, Mujama'ul Maliki Fahad li Twiba'at il Musw'haf Shariif, Riadh-Kingdom of Saudi Arabia, 1433 H.
- ✓ Mukhtaswar Tafsiir Ibn Kathiir, Muhamad Ally A-Swabuniy, Dar ul Qur'an, Beirut-Lebanon, 1981.
- ✓ Swafwat at Tafasiir, Muhamad Ally A-Swabuniy, Dar A-Swabuniy, 1417 H Cairo-Egypt.
- ✓ The Noble Qur'an-English Translation, Dr. Muhamadi Taqi-ud-Din Al-Hilali, & Dr. Muhamadi Muhsin Khan, Darussalam Publishers and Distributors, Riadh- Kingdom of Saudi Arabia.
- ✓ Le Noble Qur'an-Traduction en Français, King Fahd Complex for the printing of the Holy Qur'an, Madinah- Kingdom of Saudi Arabia
- ✓ Isomero rusange (Maktabat Shamela), ikubiyemo ibitabo byinshi byasobanuye Qur'ani mu rurimi rw'Icyarabu, <https://shamela.ws/help.php/page/8>
- ✓ Imbuga nkoranyambanga z'Abamenyi ba Kisilamu zitandukanye

Turashimira Ubuyobozi bw'Umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda (R.M.C.) ndetse n'Ubuyobozi bw'Umuryango w'abafatanyabikorwa, Africa Development

and Education Foundation (ADEF), bakomeje kutuba hafi no kudushakira ibikoresho byari bikenewe muri uyu murimo;

Turashimira kandi ubuyobozi bw'Ikigo Ndangamuco wa Kisilamu bwadutije aho gukorera hatuje kandi haduhaye ubwisanzure buhagije;

Turashimira abo twafatanyije muri uyu murimo wo gusubiramo no gukosora ibisobanuro bya Qur'an;

Turashimira nanoneabantu batari mu itsinda ryacu ariko baduhaye umusanze w'ibitekerezo, barimo abamenyi b'idini banyuranye, abarimu n'abanyeshuri muri za Kaminuza, ndetse n'abandi bafite ubumenyi butandukanye badufashije muri uyu murimo; tutibagiwe Enjeniyeri NSHIMIYIMANA Yusufu, wakoze umurimo wo kunoza ishusho rusange ry'iki gitabo mu buryo bw'ikoranabuhanga;

Ntitwasoza tudashimiye by'umwihariko abari bagize itsinda ryasemuye bwa mbere Qur'an mu rurimi rw'Ikinyarwanda, ku murimo utoroshye bakoze ndetse n'ubwitange bawukoranye.

Ntawakwirengagiza ko uyu murimo wakozwe n'abantu; bityo nta gitangaza kuba hagaragaramo amakosa cyangwa ahakeneye ubugororango. Tukaba tuboneyeho umwanya wo gusaba buri wese uzasangamo ikosa iryo ari ryo ryose kubitumenyesha kugira ngo rizakosorwe, mwatwakira kuri email ikurikira [quranintagatifu@gmail.com](mailto:quranintagatifu@gmail.com)

Turasaba **Allah** ko abagize uruhare urwo ari rwo rwose muri uyu murimo yabakirira iki gikorwa akazakibahembera ku munsi w'imperuka, kandi ko iki gitabo yakigira ingirakamaro ku bazagisoma.

Ugushyingo 2020.

Mu izina ry'abakosoye ibi bisobanuro bya Qur'an  
mu rurimi rw'Ikinyarwanda (Icapwa rya kabiri)

Sheikh MUSHUMBA Yunusu



## IRIBURIIRO RY'ICAPWA RYA KABIRI.

### Ese Qur'an ni iki?

Qur'an ni amagambo matagatifu y'lmana yahishuriye Intumwa Muhamadi (Imana iyihé amahoro n'imigisha) ibinyujije kuri Malayika Jibril. Ayo magambo ari mu rurimi rw'icyarabu, akaba ari na yo akoreshwa mu masengesho ndetse kuyasoma no kuyatega amatwi bikaba ari igikorwa cyo kwiyegereza Imana (Ibadat). Akusanyirijwe mu gitabo cyitwa Musw'hafu, akaba abimburirwa na Surat Al Fatihat agasozwa na Surat An-Nas. Qur'an ni igitangaza **Allah** yeretse abantu, kandi yiye meje kuzayirinda igakomeza kubaho ari umwimerere kuzageza ku munsi w'Imperuka. **Allah** yaravuze ati “*Mu by'ukuri ni tue twahishuye urwibutso (Qur'an), kandi rwose ni natwe tuzarurinda.*”

#### **Qur'an 15: 9.**

Nanone kandi ikigaragaza ko Qur'an ari igitangaza ndetse ko irinzwe n'lmana, ni uko abantu bananiwe guhimba indi imeze nkayo, yaba yose cyangwa se bimwe mu bice (amasura) biyigize.

**Allah** yategeye abantu guhimba Qur'an yose ariko byarabananiye. **Allah** yaravuze ati: *Vuga (yewe Muhamadi) uti "N'iyo abantu n'amajini baza kwishyira hamwe ngo bazane igisa nk'iyi Qur'an, ntibari kuzana igisa na yo, kabone n'iyo baza kwifatanya."* **Qur'an 17: 88.**

Abantu bamaze kunanirwa guhimba Qur'an yose, **Allah** yaraborohereje ababwira guhimba nibura ibice (Surat) icumi bimeze nk'ibya Qur'an, ariko na byo byarabananiye.

**Allah** yaravuze ati “*Cyangwa baravuga bat "Intumwa Muhamadi yarayihimbiye (Qur'an)." Vuga uti "Ngaho nimuzane isura (ibice bya Qur'an) icumi mwihimbiye zimeze nka yo, maze muniyambaze abo mushoboye bose batari Allah, niba koko muri abanyakuri.*” **Qur'an 11: 13.**

Abantu bamaze kunanirwa guhimba amasura icumi, **Allah** yaraborohereje ababwira guhimba nibura igice (Surat) kimwe kimeze nk'icya Qur'an, ariko nabyo birabananira.

**Allah** yaravuze ati “*Kandi niba mushidikanya ku byo twahishuriye umugaragu wacu (Muhamadi), ngaho nimuzane igice cya Qur'an (Surat) kimwe kimeze nka yo (Qur'an), ndetse munahamagare abunganizi banyu batari Allah, niba muri abanyakuri. Niba rero mutabikoze, nta n'ubwo muteze kubikora na mba, ngaho nimwirinde umuriro, wo ibicanwa byawo (bizaba ari) abantu n'amabuye; wateguriwe abahakanyi.*” **Qur'an 2: 23-24.**

### **IHISHURWA RYA QUR'AN MU BYICIRO N'IMPAMVU ZABYO.**

Qur'an ntabwo yahishuwe icyarimwe, ahubwo yagendaga ihishurwa mu byiciro, ugasanga hahishurwa ibice cyangwa imirongo runaka bitewe n'impamvu zinyuranye.

**Allah** yaravuze ati “*Kandi Qur'an twayihishuye mu bice bice kugira ngo ujisomere abantu buhoro buhoro (babashe kuyisobanukirwa). Twanayihishuye mu byiciro (mu myaka makumyabiri n'itatu).*” **Qur'an 17: 106.**

Ibyo **Allah** yabikoze kugira ngo abantu boroherwe no kumva Qur'an no kuyifata mu mutwe, ndetse no gushyira mu bikorwa ubutumwa buyikubiyemo; kuko iyo Qur'an iza guhishurwa icyarimwe ikabarundaho amategeko menshi, abantu bari kuremererwa n'amategeko ayikubiyemo bityo bikabananira kuyubahiriza.

Indi mpamvu yari mu rwego rwo gukomeza Intumwa Muhamadi ndetse no kugaragaza agaciro kayo, kuko mu myaka makumyabiri n'itatu yose y'ubutumwa, Intumwa Muhamadi yashyikiranaga na **Allah**, bahuzwa n'imirongo cyangwa ibice bya Qur'an yamuhiburira muri iyo myaka yose. Ibi bikaba bitandukanye no kuba yari kumuhiburira Qur'an ingunga imwe bigahita birangira.

**Allah** yaravuze ati “*Na ba bandi bahakanye baravuze bati “Kuki (Muhamadi) atahishuriwe Qur'an icyarimwe ari imbumbe?” (Allah aravuga ati) “Uko (kuyihishura itatanye) ni ukugira ngo tuyikoreshe tugukomeza umutima (yewe Muhamadi). Kandi twayiguhiburiye buhoro buhoro (kugira ngo yorohere abayisoma).*” **Qur'an 25: 32.**

## **IBICE BYA QUR'AN BYAHISHURIWE I MAKAN'IBYAHISHURIWE I MADINA.**

Qur'an igizwe n'ibice (Ijuzu) mirongo itatu na Surat ijana na cumi n'enye. Zimwe muri izo Surat zahishuriwe i Maka izindi zihishurirwa i Madina.

**Ibyahishuriwe i Maka** ni ibice bya Qur'an cyangwa imirongo byahishuriwe Intumwa Muhamadi (Imana imuhe amahoro n'imigisha) ikiri i Maka, mbere yuko yimukira i Madina. Aho hiyongeramo n'ibyo yahishuriwe mu nkengero za Maka, hakabamo kandi ibyo Intumwa yahishuriwe iri mu nzira iva i Maka ijya i Madina. Bimwe mu biranga ibyahishuriwe i Maka ni uko akenshi na kenshi usanga byibanda ku nyigisho zo kugaragira Imana imwe rukumbi (*Tawhid*) no kwirinda kuyibangikanya. Usanga kandi bitangizwa n'имвugo igira iti “*Yemwe bantu!*”

Naho **ibyahishuriwe i Madina** ni ibice bya Qur'an cyangwa imirongo byahishuriwe Intumwa Muhamadi (Imana imuhe amahoro n'imigisha) iri i Madina, nyuma yuko yimutse iva i Maka. Ibyo byiyongeraho ibyo Intumwa yahishuriwe iri mu nkengero za Madina. Harimo kandi ibyahishuwe mu mwaka Intumwa yasubiraga i Maka ndetse n'igihe cy'umutambagiro (Hija) wayo. Hakabamo n'ibyo yahishuriwe iri mu ngendo nyuma yo kwimuka.

Ibyahishuriwe i Madina akenshi na kenshi birangwa no kugaragaza amategeko akubiyemo ibyategetswe n'ibyaziririjwe ndetse n'ibihano byabyo. Binagaragaza akenshi aho Imana ihamagara abantu ikoreshje imvugo igira iti “*Yemwe abemeye!*”

## **UBURYO IBICE (AMASURA) N'IMIRONGO (AYAT) BYA QUR'AN BIKURIKIRANA.**

Intumwa Muhamadi (Imana imuhe amahoro n'imigisha) yari ifite abanditsi bandikaga ibyo yahishurirwaga. Icyo gihe bandikaga ku mpu, imbaho, ku mabuye ndetse n'ahandi hashobokaga, kandi ibyandikwaga byose byabikwaga mu rugo rw'Intumwa y'Imana Muhamadi (Imana imuhe amahoro n'imigisha). Mu kwandika kwabo, Intumwa yajyaga ibereka aho bashyira umurongo runaka mu isurat

runaka, kandi ikanababwira uko bakurikiranya iyo mirongo. Icyo gihe Intumwa na yo yabaga ibizaniwe na Malayika Jibril abikuye kwa Nyagasan.

Mu mwaka wa nyuma w'ubuzima bw'Intumwa Muhamadi (Imana imuhe amahoro n'imigisha), Malayika Jibril yamusubirishijemo Qur'an inshuro ebyiri nk'uko isura zayo zikurikiranye. Abasangirangendo b'Intumwa na bo bayifashe nk'uko bumvise Intumwa y'Imana iyisoma, ndetse ni n'uko Qur'an yakomeje gusomwa uko ibihe byagiye bisimburana kugeza ubu.

### **ZIMWE MU NGERO Z'IBITANGAZA BIFATIKA BIBONEKA MURI QUR'AN NTAGATIFU.**

Qur'an imaze ibinyejana cumi na bine birenga ihishuwe, yagaragaje ubuhanga bwaje kuvumburwa cyangwa bukunze kugaragazwa n'abahanga mu bihe bya vuba. Ibi bigaragaza nta gushidikanya ko Qur'an ari Ijambo ry'Imana ry'umwimerere, ryahishuwe na yo, rigahishurirwa Intumwa Muhamadi (Imana imuhe amahoro n'imigisha), kandi ko Qur'an itigeze yandikwa na Muhamadi cyangwa se ikindi kiremwa muntu icyo ari cyo cyose. Ibi kandi bigaragaza ko Muhamadi ari Intumwa y'ukuri yoherejwe n'Imana. Ntibyumvikana ukuntu umuntu nka we yari kuba yaramenye ubwo buhanga mbere y'imyaka irenga igihumbi na magana ane, bukaba bwaraje kuvumburwa cyangwa bukemezwa mu gihe gito gishize, hakoreshejwe ibikoresho kabuhariwe n'uburyo bwa Siyansi bwo mu rwego rwo hejuru.

Izi ni zimwe mu ngero:

#### **A) Icyo Qur'an ivuga ku mikurire y'igi rivamo umuntu**

Muri Qur'an Ntagatifu, Imana ivuga ku bijyanye n'ibyiciro igi rivamo umuntu rinyuramo. Imana iragira iti "Kandi mu by'ukuri twaremye umuntu (Adamu) tumukomoye mu ibumba ry'umwimerere. Maze tumuha kororoka (kw'abamukomokaho) binyuze mu ntanga (twashyize) mu cyicaro gitekanye (nyababyeyi). Hanyuma intanga (tuyiremamo) urusoro rw'amaraso, hanyuma (tururemamo) ikinyama, muri icyo kinyama turemamo amagufa, maze amagufa tuyambika umubiri, hanyuma (duhuhamo roho) tugihindura ikindi kiremwa (kigaragaza ishusho). Bityo, ubutagatifu ni ubwa **Allah**, Umuremyi uhebuje." **Qur'an 23:12-14**


Ibivugwa muri uyu murongo byaje gushimangirwa n'ubuhanga bugezweho kandi Qur'an yarabigaragaje mbere.

### **B) Icyo Qur'an ivuga ku misozi.**

Igitabo cyitwa *Earth* ni cyo cy'ibanzé gishingirwaho muri za Kaminuza nyinshi ku isi hose. Umwe mu banditsi bacyo babiri ni Professor Frank Press. Yari Umujyanama mu bya Siyansi w'uwaheze ari Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Jimmy Carter, kandi yamaze imyaka cumi n'ibiru ari Umuyobozi w'Ikigo cy'Igihugu cya Siyansi, Washington, DC. Igitabo cye kivuga ko imisozi igira imizi, kandi ko iyo mizi ynjira mu butaka kure, ndetse ko imisozi ifite ishusho nk'iy'urumambo.

Uku ni ko Qur'an yagaragaje imisozi. Imana yaravuze muri Qur'an iti: "Ese isi ntitiwayigize nk'isaso? N'imisozi tukayigira nk'imambo?" **Qur'an 78: 6-7**

Imisozi igira imizi ynjira mu butaka kure. Ishobora kugera muri kilometero mirongo itandatu imbere mu butaka. (Earth, Press and Siever,p.413.)



*Imisozi kimwe n'imambo, ifite imizi ynjira mu butaka cyane. (Anatomy of the Earth, Cailleux, p. 220.)*

Amateka ya Siyansi atubwira ko ibijyanye n'uko imisozi igira imizi ijya ikuzimu kure byaba byaravumbuwe mu mwaka w'1865, bikozwe n'Umuhanga mu by'Ubumenyi bw'Ikirere w'i Bwami, Sir George Airy.<sup>1</sup>

Imisozi kandi ifite akamaro kanini mu gutuma isi ishikama.<sup>2</sup> Ituma hatabaho uguhungabana kw'isi. Imana yaravuze muri Qur'an iti "Yanashyize imisozi ku isi aranayishimangira kugira ngo itabahungabanya, (anayishyiramo) imigezi (kugira ngo munyuwe amazi yayo), ndetse n'inzira kugira ngo zibayobore (aho mugana)" **Qur'an 16:15**

None se umuntu wo ku gihe cya Muhamadi (Imana imuhe amahoro n'imigisha) yari kubasha kumenya imiterere nyakuri y'imisozi? Yari kubasha gutekereza ko imisozi abona imbere ye, ifite imizi ijya ikuzimu nk'uko abahanga babyemeza? Ubumenyi bugezweho bw'ibijyanye n'ubutaka ndetse n'ibibugize bwemeje ukuri k'ubutumwa bwahishuriwe Intumwa Muhamadi bukubiye muri Qur'an.

---

<sup>1</sup> Earth, Press and Siever, p. 435. Wareba kandi The Geological Concept of Mountains in the Qur'an, p. 5.

<sup>2</sup> The Geological Concept of Mountains in the Qur'an, pp. 44-45

## 1 - SURAT AL FATIHAT

(URUFUNGUZO)

Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirongo 7.

الْجُنُوبُ ١

1. Ku izina rya Allah<sup>1</sup>,  
Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

2. Ishimwe n'ikuzo byose  
bikwiye Allah, Nyagasan  
w'ibiremwa byose.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ②

3. Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ③

4. Umwami w'ikirenga wo ku  
munsi w'imperuka.

مَلِكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ④

5. Ni wowe (wenyine) dusenga,  
kandi ni wowe (wenyine)  
twiyambaza

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ⑤

6. Tuyobore inzira igororotse

أَهْدِنَا أَصْرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ⑥

7. Inzira y'abo wahundagajeho  
inema, itari iy'abo warakariye  
cyangwa abayobye.

صَرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ  
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ⑦

<sup>1</sup> Allah: Ni izina bwite ry'Imana.

## 2 - SURAT AL BAQARAT (INKA)

*Yahishuriwe i Madina, igizwe n 'imirongo 286.*

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

Ku izina rya **Allah**, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Alif Laam Miim<sup>2</sup>.

الْأَلْفَ

2. Icyo ni igitabo (Qur'an) kidashidikanywaho, kikaba umuyoboro ku batinyamana.

ذَلِكَ الْكِتَبُ لَرَبِّ فِيهِ هُدَىٰ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٦﴾

3. Ba bandi bemera ibitagaragara (byahanuwe), bagahozaho iswala<sup>3</sup> (z'itegeko) kandi bagatanga mu byo twabahaye.

أَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقْبِلُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ  
يُنِفِّقُونَ ﴿٧﴾

4. Ni na bo bemera ibyo (wowe Muhamadi) wahishuriwe (Qur'an n'imigenzo y'Intumwa), bakanemera ibyahishuwe mbere yawe (ibitabo byahishuriwe Intumwa zakubanjirije), ndetse bakemera imperuka badashidikanya.

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ  
وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٨﴾

<sup>2</sup> Alif Laam Miim: Izi nyuguti eshatu ni zimwe mu zigize ururimi rw'icyarabu, ari na rwo Qur'an yahishuwemo. **Allah** yositangije zimwe muri Sura za Qur'an, kugira ngo agaragaze ko Qur'an ari igitangaza kandi akaba ari we wenyine uzi ibisobanuro byazo.

<sup>3</sup> Iswala ni inyito ya Kisilamu isobanura ibikorwa runaka biherekejwe n'imvugo runaka bitangirirwa n'ijambo **Allah** Akbar (Imana isumba byose), bigasozwa n'ijambo Assalaam Alaykum (amahoro y'Imana ababeho) ari byo twakwita Isengesho. Iswala ikaba irimo amoko abiri: Hari iz'itegeko ari zo Umuvisilamu ategetswe gukora ku munsi, n'izitari iz'itegeko z'umugereka twita (*Sunat*) zisobanurwa mu bitabo by'amategeko y'idini rya Isilamu (Fiq'hi).

5. Abo ni bo bari mu nzira iboneye yagenwe na Nyagasan ni wabo, kandi ni bo bakiranutsi.

أَوْلَئِكَ عَلَى هُدَىٰ مِنْ رَّبِّهِمْ وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾

6. Mu by'ukuri (wowe Muhamadi), abahakanye wababurira utababurira, byose ni kimwe kuri bo, ntibazemera.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ إِنَّ رَبَّهُمْ أَمْ لَمْ يُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾

7. Allah yadanangiyi imitima yabo n'ukumva kwabo, ndetse no ku maso yabo (ahashyira) igikingirizo (ibyo byose bituma batemera ukuri), kandi bazahanishwa ibihano bihambaye.

خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَرِهِمْ غِشْوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٧﴾

8. No mu bantu hari abavuga bati “Twemeye Allah n'umunsi w'imperuka”; nyamara mu by'ukuri atari abemera.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَبِيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾

9. (Bibwira ko) baba babeshya Allah n'abemera, nyamara baba bibeshya ubwabo ariko ntibabyiyumvisha.

يُخَذِّلُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ إِيمَانُهُمْ وَمَا يَحْدَدُونَ إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾

10. Mu mitima yabo harimo uburwayi (bwo gushidikanya n'uburyarya), bityo Allah yarabubongereye; kandi bazahanishwa ibihano bibabaza kubera ko barangwaga no kubeshya.

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْبِرُونَ ﴿١٠﴾

11. N'yo babwiwe bati “Ntimugakore ubwangizi ku isi”, baravuga bati “Ahubwo ni twe dukora ibitunganye.”

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَخْرُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾

12. Mu by'ukuri, ni bo bangizi ariko ntibabyiyumvisha.

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾

13. N'yo babwiwe bati “Nimwemere nk'uko abandi bantu (abasangirangendo b'Intumwa Muhamadi) bemeye”, baravuga bati “Ese twemere nk'uko abadafite ubwenge bemeye?” Ahubwo ni bo badafite ubwenge ariko ntibabisobanukirwa.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ إِنْمَاءً كَمَا أَمْنَىٰ نَفْسَهُمْ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا ءَامَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾

14. N'yo bahuye n'abemeye, baravuga bati “Twaremeye.” Nyamara bakwiherera bari kumwe n'ibikomerezwa byabo bibayobora mu buhakanyi, bakavuga bati “Rwose turi kumwe namwe, naho bo (abemeramana) mu by'ukuri tuba tubannyega.”

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا إِنَّمَا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَخْرُ مُسْتَهْزِئُونَ ﴿١٤﴾

15. Allah arabannyega (aburizamo umugambi wabo), akanabarekera mu kwigomeka kwabo barindagira.

اللَّهُ يَسْتَهِنُ بِهِمْ وَيَمْدُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ  
يَعْمَهُونَ

16. Abo ni bo bahisemo ubuyobe babugurana kuyoboka, ndetse n'amahitamo yabo nta cyo yabunguye; kandi ntibananayobotse.

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَشْرَقُوا الظَّلَلَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَيَحَتْ تَجَرَّعُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

17. Urugero rwabo ni nk'urw' uwacanye umuriro, nuko wamara kumurika no kubonesha ibimukikije byose, Allah agatwara urumuri rwabo, akabasiga mu mwijima batabona.

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي أُسْتَوْدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَاحُولَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِ وَرَكَّهُمْ فِي ظُلُمَّتِ لَا يُبَصِّرُونَ

18. (Abo bameze) nk'abatumva, abatavuga, ndetse n'abatabona; kandi nta n'ubwo bazisubiraho (ngo bagaruke mu nzira itunganye).

صُمْبُكُمْ عَمَّىٰ فَهُمْ لَا يَرَجِعُونَ

19. Cyangwa (urundi rugero rwabo) ni (nk'abantu bagenda) mu mvura nyinshi iva mu kirere, irimo umwijima, inkuba n'imirabyo; bagashyira intoki zabo mu matwi kubera urusaku rwinshi rw'inkuba batinya gupfa. Ariko Allah agose abahakanyi (mu mpande zose).

أَوْ كَصَبَبُ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَّتْ وَرَعْدٌ  
وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصْبَعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِمْ مِنْ  
الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتُ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكُفَّارِ

20. Umurabyo uba wenda kubahuma amaso, buri uko ubamurikiye baratambuka, wabazimiraho bagahagarara. Kandi n'yo Allah aza kubishaka yari kubambura kumva kwabo no kubona kwabo. Mu by'ukuri, Allah ni Ushobora byose.

21. Yemwe bantu! Nimusenge Nyagasanu wanyu wabaremye, mwe n'bababanjirije; kugira ngo mumugandukire.

22. We wabagiriye isi nk'isaso (kugira ngo muyigubweho neza) n'ikirere akakigira nk'igisenge, ndetse akanakimanuramo amazi, akayameresha imbuto zikaba amafunguro yanyu. Bityo, ntimukagire izindi mana mubangikanya na Allah, kandi mubizi (ko ari We wenyingine ukwiye gusengwa).

23. Kandi niba mushidikanya ku byo twahishuriye umugaragu wacu (Muhamadi), ngaho nimuzane igice cya Qur'an (Surat) kimwe kimeze nka yo (Qur'an), ndetse munahamagare abunganizi banyu batari Allah, niba muri abanyakuri.

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطُفُ أَبْصَرَهُمْ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُمْ  
مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ  
لَذَّهَبَ إِسْمَعِيلُهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ  
شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢١﴾

يَتَأْيِهَا النَّاسُ أَعْبُدُوْ رَبِّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ  
وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّسَعُونَ ﴿٢٢﴾

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بَنَاءً  
وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَرَاتِ  
رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ ﴿٢٣﴾

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاقْتُلُوا  
بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ  
دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٤﴾

24. Niba rero mutabikoze, nta n'ubwo muteze kubikora na mba, ngaho nimwirinde umuriro, wo ibicanwa byawo (bizaba ari) abantu n'amabuye; wateguriwe abahakanyi.

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي  
وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعَدَّتْ  
لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾

25. Kandi uhe inkuru nziza ba bandi bemeye bakanakora ibikorwa byiza, ko bazagororerwa ubusitani butembamo imigezi (Ijuru). Buri uko bazajya bafungurirwamo imbuto, bazajya bavuga batı “Izi ni zo twafungurirwaga mbere”, ndetse bazazihabwa zisa (nk’izo baryaga ku isi, ariko zitandukanye mu buryohe). Bazanagororerwamo abafasha basukuye, kandi bazanabubamo ubuziraherezo.

وَبَشِّرُ الظَّيْنَ إِذَا مَأْمُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ  
لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ كُلَّمَا  
رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ شَمْرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي  
رُزِقْنَا مِنْ قَبْلٍ وَأَتُؤْمِنُ بِمُتَشَابِهِ وَلَهُمْ فِيهَا  
آزْوَاجٌ مُطْهَرَةٌ وَهُنْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿٥٥﴾

26. Mu by’ukuri, Allah ntaterwa isoni no gutanga urugero urwo ari rwo rwose n’yo rwaba urw’umubu cyangwa ikiwuruta. Ariko kuri ba bandi bemeye, bamanya ko ari ukuri guturutse kwa Nyagasani wabo, mu gihe abahakanye bavuga batı “Allah yari agamije iki mu gutanga uru rugero?” Aruyobesha benshi (abarekera mu buyobe bahisemo), ndetse akanaruyoboresha benshi;

\* إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا  
بَعْوَضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَإِنَّمَا الظَّيْنَ إِذَا مَأْمُوا  
فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الظَّيْنَ  
كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِهَا  
مَثَلًا يُضْلِلُ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ  
كَثِيرًا وَمَا يُضْلِلُ بِهِ إِلَّا الْفَسِيقِينَ ﴿٥٦﴾

kandi nta bandi aruyobesha uretse inkozi z'ibibi gusa.

27. Ba bandi bica isezerano rya Allah<sup>4</sup> nyuma yo kuryemeza, bakanatanya ibyo Allah yategetse ko byungwa (ubuvandimwe no kudatanya imiryango) kandi bagakora ubwangizi ku isi; abo ni bo banyagihombo.

28. Ni gute mwahakana Allah, kandi mutari muriho akabaha ubuzima (abarema), hanyuma akabubambura ndetse akazanabubasubiza (ku munsi w'izuka), nuko mugasubizwa iwe?

29. Ni We wabaremeye ibiri ku isi byose, hanyuma yerekera ku kirere akiremamo ibirere birindwi (bitunganye), kandi ni we Mumenyi uhebuje wa buri kintu.

30. Unibuke (yewe Muhamadi) ubwo Nyagasani wawe yabwiraga abamalayika ati "Mu by'ukuri, ngiye gushyira umusigire (ikiremwamuntu) ku isi." Baravuga batii "Ese urayishyiraho uzayikoreraho

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيقَاتِهِ  
وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهَ بِهِ أَنْ يُوصَلَ  
وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ  
الْخَاسِرُونَ

٢٧

كَيْفَ تَكُنُّ فُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا  
فَأَحْيَكُمْ ثُمَّ يُمْسِكُمْ ثُمَّ يُحْيِي كُمْ ثُمَّ  
إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

٢٨

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا  
ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّلَهُنَّ سَبْعَ  
سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

وَلَذِكْرُ رَبِّكَ لِلْمُلَكَاتِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ  
خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا

٢٩

<sup>4</sup> Isezerano rya Allah rivugwa hano, ni uko nta yindi mana ikwiye kugaragirwa by'ukuri uretse Allah nk'uko byigishijwe n'Intumwa zose za Allah.

ubwangizi akanamena amaraso, kandi twe tugusingiza tukanagushimira ndetse tukanagutagatifuza? (Allah) aravuga ati “Mu by’ukuri, Njye nzi ibyo mutazi.”

وَيَسِّفُكُ الْدَّمَاءُ وَنَحْنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ  
وَنَقْدِسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٠﴾

31. Nuko (Allah) yigisha Adamu amazina y’ibintu byose, hanyuma abimurikira abamalayika, arababwira ati “Ngaho nimumbwire amazina yabyo niba muri abanyakuri.”

وَعَلَمَ إِدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَيُّنْعُونِي بِاسْمَيْهِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِي ﴿٢١﴾

32. Baravuga bati “Ubutagatifu ni ubwawe, nta bumenyi dufite uretse ubwo watwigishije. Mu by’ukuri, ni Wowe Mumenyi uhebuje, Nyirubugenge buhambaye.”

قَالُوا سُبْحَنَكَ لَا يَعْلَمُ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٢٢﴾

33. Aravuga ati “Yewe Adamu! Babwire amazina yabyo.” Nuko amaze kubabwira amazina yabyo, (Allah) aravuga ati “Ese sinababwiye ko nzi ibyihishe mu birere no mu isi, kandi nkaba nzi ibyo mugaragaza n’ibyo muhisha?”

فَالَّذِي كَادَ أَنْ يَهُمْ بِاسْمَاهِمْ فَلَمَّا أَنْبَاهُمْ بِإِسْمَاهِمْ قَالَ اللَّهُ أَقْلَلَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبَدِّلُونَ وَمَا كُنْتُرْتَكُمُونَ ﴿٢٣﴾

34. Kandi muzirikane ubwo twabwiraga abamalayika tuti “Nimwubamire<sup>5</sup> Adamu”, nuko bose bakubama uretse Ibilisi (Shitani) wanze akishyira hejuru

وَلَذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ أَسْجَدُوا لِإِدَمَ فَسَجَدُوا إِلَيْهِ إِبْلِيسَ أَبِي وَأَسْتَكَبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾

<sup>5</sup> Ukubama kuvugwa hano ni indamutso y’icyubahiro gihebuje.

nuko akaba mu bahakanyi  
(banze kumvira Allah).

35. Twaranavuze tuti “Yewe Adamu! Tura mu Ijuru wowe n’umugore wawe, murye (imbuto zirimo) mu mudendezo aho mushatse hose, ariko muramenye ntimuzegere iki giti mutazaba mu banyamahugu.”

36. Nuko Shitani arabashuka (barya kuri cya giti), abakura mu byo bari barimo (ubuzima bwo mu ijuru). Turababwira tuti “Mumanuke muvemo (mu Ijuru) muri abanzi hagati yanyu (Shitani azaba umwanzi wanyu n’abazabakomokaho).” Isi ni yo izaba ubuturo bwanyu, kandi muzayigiramo umunezero kugeza igihe cyagenwe.”

37. Nuko Adamu yakira amagambo (yo kwicuza) avuye kwa Nyagasani we<sup>6</sup>, maze Nyagasani yakira ukwicuza kwe. Mu by’ukuri, ni We Uwakira ukwicuza, Nyirimbabazi.

وَقُلْنَا يَكَادُمُ أَسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلًا  
مِنْهَا رَغْدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ  
الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥﴾

فَأَزَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ  
وَقُلْنَا أَهِبُّوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي  
الْأَرْضِ مُسْتَقْرٌ وَمُتَعٰلٌ حِينٌ ﴿٣٦﴾

فَتَلَقَّىَ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كِمَكِتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ  
الْوَّاَبُ الرَّحِيمُ ﴿٣٧﴾

<sup>6</sup> Amagambo avugwa muri uyu murongo, ni amagambo Allah yigishije Adamu kugira ngo amenye uburyo bwo kwicuza. Ayo magambo aboneka muri Qur'an, igice cya 7, umurongo wa 23.

38. Turavuga tuti “Nimumanuke muve aha mwese. Kandi nimuramuka mugezweho n’umuyoboro unturutseho, abazakurikira umuyoboro wanje nta bwoba ndetse nta n’agahinda bazigera bagira.”

39. Naho abazahakana bakanahinyura ibimenyetso byacu (amagambo, inyigisho n’ubuhanuzi), abo bazaba abo mu muriro; bakazawubamo ubuziraherezo.

40. Yemwe bene Isiraheli!<sup>7</sup> Nimwibuke ingabire zanjye nabahundagajeho, maze mwuzuze isezerano ryanje (ryo kwemera ibitabo n’Intumwa zanjye), kugira ngo nanjye nuzuze iryanyu (ryo kubagirira impuhwe ku isi no kuzabarokora ku munsi w’imperuka), kandi mube ari Njye njenyenine mutinya.

41. Kandi mwemere ibyo nahishuye (Qur'an) bishimangira ibyo mufite (Tawurati), ndetse ntimuzabe aba mbere babihakana. Ntimuzanagurane amagambo

فُلْنَا أَهِطُوا مِنْهَا جِمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِنَّكُمْ مِنْ  
هُدًى فَمَنْ تَبَعَ هُدًى فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا  
هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٨﴾

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعِيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿٢٩﴾

يَبْنَى إِسْرَائِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَعْمَتُ عَلَيْكُمْ  
وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ وَإِنِّي فَارِهَبُونَ ﴿٣٠﴾

وَإِمْنُوا بِمَا أَنْذَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا  
أُولَئِكَ أَفَرِبُوهُ وَلَا تَشْتَرُوا بِعِيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا  
وَإِنِّي فَاتَّقُونَ ﴿٣١﴾

<sup>7</sup> Isiraheli ni umuhanuzi wa Allah, akaba ari we Yakobo mwene Isaka mwene Aburahamu, ari na we Abayahudi bakomokaho.

yanjye igiciro gito, kandi abe ari  
Njye jyenyine mutinya.

42. Kandi ntimuzavange ukuri  
n'ikinyoma, cyangwa ngo  
muhishe ukuri kandi mukuzi.

وَلَا تَلِسُوا الْحَقَّ بِالْبَطْلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

43. Munahozeho iswala  
(z'itegeko)<sup>8</sup>, munatange amaturo  
(Zakat y'itegeko)<sup>9</sup> kandi  
mwuname hamwe n'abunama  
(mukora iswala).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَإِذَا قَدِمْتُمْ إِلَيْنَا زَكَوْةً فَإِذَا كُنْتُمْ

مَعَ الْرَّاكِعِينَ ﴿٤٤﴾

44. Ese mubwiriza abantu  
gukora ibyiza mwe  
mukiyibagirwa, kandi mwe  
musoma igitabo (Tawurati)? Ese  
nta bwenge mugira?

\* أَتَأُمْرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْهَوْنَ أَنفُسَكُمْ

وَأَنْتُمْ تَتَلَوُنَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٤٥﴾

45. Kandi mujye mwifashisha  
(muri gahunda zanyu zose)  
ukwihangana n'iswala<sup>10</sup>; n'ubwo  
mu by'ukuri bigoye uretse ku  
bibombarika.

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّابِرِ وَالصَّالِحِ وَإِنَّهَا لِكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَىٰ

الْخَشِعِينَ ﴿٤٦﴾

46. (Abo ni) ba bandi bizera ko  
bazahura na Nyagasani wabo,  
kandi ko bazasubira iwe (ku  
munsi w'imperuka).

الَّذِينَ يَظْلَمُونَ أَنَّهُمْ مُّلَقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ

رَاجِعُونَ ﴿٤٧﴾

<sup>8</sup> Reba uko twasobanuye umurongo wa 3 muri iyi Surat.

<sup>9</sup> Zakat ni ituro, rikaba ari igeno rizwi Umuyisilamu ategkwa gutanga mu mitungo yabugenewe, rigahabwa abantu bari mu byiciro umunani byavuzwe muri Qur'an, igice cya 9:60.

<sup>10</sup> Reba uko twasobanuye umurongo wa 3 muri iyi Surat.

47. Yemwe bene Isiraheli! Nimwibuke ingabire zanjye nabahundagajeho, kandi munibuke ko nabarutishije ibindi biremwa (byo ku gihe cyanyu).

يَبْنَى إِسْرَائِيلَ أَذْكُرُوا لِعْمَتِي الَّتِي أَعْمَتْ عَلَيْكُمْ  
وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾

48. Munatinye umunsi umuntu atazagira icyo amarira undi, ubuvugizi bwe ntibwemerwe, ndetse n'ingurane ye (yo kwigura ngo adahanwa) ntiyakirwe, kandi nta n'ubwo bazatabarwa.

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجِزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا  
يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ  
يُنْصَرُونَ ﴿٤٨﴾

49. (Munibuke) ubwo twabakizaga abantu bo kwa Farawo, ubwo babakoreraga ubugome ndengakamere; bica abana banyu b'abahungu bagasiga abakobwa banyu, kandi muri ibyo harimo ikigeragezo gihambaye gituruka kwa Nyagasani wanyu.

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ ءالِ فَرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ  
سُوءَ الْعَذَابِ يُذْبِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ  
نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ  
﴿٤٩﴾

50. (Munibuke) ubwo twabatandukanyirizaga inyanja tukabarakora, hanyuma tukaroha abantu bo kwa Farawo mubyibonera.

وَإِذْ فَرَقْنَا بَيْنَكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا مِنْ  
فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٥٠﴾

51. (Munibuke) ubwo twasezeranyaga Musa igihe kingana n'amajoro mirongo ine (kugira ngo ahabwe Tawurati), maze (mu gihe atari ahari)

وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَخْذَنَاهُ  
الْعَجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٥١﴾

mufata akamasa (muragasenga),  
nuko muba inkozi z'ibibi.

52. Nuko nyuma y'ibyo,  
turabababarira kugira ngo  
mushimire.

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ

شَكُورُونَ

وَإِذْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ

تَهْتَدُونَ

53. (Munibuke) ubwo twahaga Musa igitabo (Tawurati gitandukanya ukuri n'ikinyoma, kugira ngo muyoboke (by'ukuri).

54. (Munibuke) ubwo Musa yabwiraga abantu be ati "Yemwe bantu banjye! Mu by'ukuri, mwarihemukiye ubwo mwafataga akamasa (mwibumbiye) mukakagira ikigirwamana. Ngaho nimwicuze ku Muremyi wanyu, maze mwicane (abatarabangikanyije **Allah** muri mwe bice abamubangikanyije nk'ighano kuri bo)<sup>11</sup>; ibyo ni byo byiza kuri mwe imbere y'Umuremyi wanyu (aho gushyirwa mu muriro w'iteka)." Nuko **Allah** yakira ukwicuza kwanyu. Mu by'ukuri, ni we Uwakira ukwicuza, Nyirimbabazi.

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَقَوْمٌ إِنَّكُمْ طَامِشُ  
أَنفُسَكُمْ يَا تَخَذِّلُكُمُ الْعِجْلَ فَتَوْلُوا إِلَيْ  
بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ  
لَكُمْ إِنَّدَبَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ  
الْتَوَابُ الْرَّحِيمُ

<sup>11</sup> Ubu buryo bwo kwicuza abantu babanje kwicana, ni bwo bwakoreshwaga muri icyo gihe, ariko Imana yaje kubusimbuza kwicuza habayeho gusaba Imana imbabazi ku byaha umuntu yakoze.

55. (Munibuke) ubwo mwavugaga muti “Yewe Musa! Ntituzigera tukwemera keretse tubonye **Allah** imbona nkubone”; maze mukubitwa n’ikibatsi cy’umuriro w’inkuba (kirabica) mwirebera.

56. Nuko turabazura nyuma yo gupfa, kugira ngo mushimire.

57. Twanabugamishije mu gicucu cy’igicu (igihe mwayobagurikaga mu butayu muvuye mu Misiri), tunabamanurira amafunguro ya Manu<sup>12</sup> na Saluwa<sup>13</sup>, (tubabwira tuti) “Nimurye mu byiza twabafunguriye,” (ariko babirenzeho barahakana). Nyamara ntabwo ari twe bagiriye nabi ahubwo ni bo ubwabo bihemukiye.

58. Munibuke ubwo twavugaga tuni “Mwinjire muri uyu mudugudu (Yeruzalemu), hanyuma murye ibiwurimo mu mudendezo, muninjire mu marembo yawo mwicishije bugufi, munavuge muti “Tubabarire ibyaha byacu”,

وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُمُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَرَىٰ اللَّهَ  
جَهَرَةً فَأَخْذَتُكُمُ الصَّعِقَةَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٦٦﴾

مُّرَبِّعَشَنَكُمْ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ  
شَكُورُونَ ﴿٦٧﴾

وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ  
وَالسَّلَوَىٰ كُلُّوْمَنْ طَبِيَّبَتِ مَارَزَقَنَكُمْ وَمَا  
ظَلَمُونَا وَلِكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٦٨﴾

وَإِذْ قُلْنَا أَدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرِيَةَ فَكُلُّوْمَنَهَا  
حَيْثُ شَتَّمْ رَعَدَا وَأَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدَا  
وَقُولُوا حَطَّةٌ نَّغَفِرْ لَكُمْ خَطَيَّئَكُمْ  
وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

<sup>12</sup> Manu: ni ubukozo buryohera nk’ubuki, buva mu gitii cyo mu bwoko bwitwa Tamarsk cyera mu karere ka Sinayi.

<sup>13</sup> Saluwa: Ni uruhori rw’ubwoko bw’inyoni zitwarwa n’imiyaga mu burasirazuba bwa Mediterane. Izo nyoni bazoherezewaga na **Allah** kugira ngo bazibage baziryre.

tuzababarira ibyaha byanyu,  
kandi tuzongerera (ingororano)  
abakora ibyiza.

59. Nuko abigometse bahindura imvugo bakora ibyo batabwiwe (aho gusaba imbabazi no kwicisha bugufi, barushaho kwigomeka). Nuko abakoze ibibi tubamanurira igihano giturutse mu kirere kubera ubukozi bw'ibibi bwabo.

60. (Munibuke) ubwo Musa yasabiraga abantu be amazi (ubwo bari bishwe n'inyota) nuko tukamubwira tuti "Kubita inkoni yawe ku ibuye." (Arikubise) riturikamo amasoko cumi n'abiri, nuko buri muryango umenya isoko unyweraho. (Turababwira tuti) "Nimurye kandi munywe ku mafunguro aturutse kwa Allah, kandi ntimugakwize ubwangizi ku isi.

61. Munibuke ubwo mwavugaga muti "Yewe Musa! Ntituzihanganira indyo imwe, ku bw'ibyo dusabire Nyagasan i wawe adukurire mu butaka ibyo bwera; mu mboga, imyungu, ingano, inkori, ibitunguru bibuturukamo." (Musa) aravuga ati "Ese murahitamo ibiciriritse mukareka ibyiza? Ngaho

فَدَلَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ  
فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْرًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا  
كَانُوا يَفْسُدُونَ ﴿٦٩﴾

\* وَإِذْ أَسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا أُضْرِبِ  
بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْقَرَجَتْ مِنْهُ أَثْنَتَ عَشَرَةَ  
عَيْنًا قَدْ عِلِّمَ كُلُّ أَنْسَى مَشْرَبَهُمْ كُلُّهُ  
وَأَشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ  
مُفْسِدِينَ ﴿٦٧﴾

وَإِذْ قُلْتُمْ يَمْوَسَى لَنَ نَصِيرَ عَلَى طَعَامِ وَحْدَهِ  
فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجَ لَنَا مِمَّا تُبْيِتُ  
الْأَرْضُ مِنْ بَقِيلَهَا وَقِثَابَهَا وَفُؤُدَهَا  
وَعَدَسَهَا وَبَصَالَهَا قَالَ أَتَسْتَبِدُ لَوْنَ الَّذِي  
هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَهْبِطُوا مِصْرًا إِنَّ

nimujye mu mudugudu uwo ari wo wose muzabonamo ibyo mwasabye!" Nuko bahanishwa gusuzugurika n'ubukene, kandi bagenda barakariwe na **Allah**. Ibyo byatewe n'uko bahakanaga amagambo ya **Allah**, bakanica abahanuzi babarenganyije. Ibyo byatewe n'uko bigometse bakanarengera (imbago za **Allah**).

62. Mu by'ukuri ba bandi bemeye (ubutumwa bwa Muhamadi), Abayahudi (abemeye ubutumwa bwa Musa ku gihe cye), Abanaswara (abemeye ubutumwa bwa Isa (Yesu) ku gihe cye)<sup>14</sup> n'Abaswaabi'i (abagumye kuri kamere yabo yo kwemera Imana batagira idini bayobotse muri icyo gihe), (muri abo bose) abemeye **Allah** by'ukuri, bakemera umunsi w'imperuka ndetse bakanakora ibitunganye, abo bazagororerwa ibihembo kwa Nyagasani wabo, kandi nta bwoba ndetse nta n'agahinda bazagira.

لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْذِلَّةُ  
وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِعِيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ  
النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحِقْقَةِ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا  
يَعْتَدُونَ

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى  
وَالصَّابِرِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجْرٌ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا  
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

<sup>14</sup> Iyi nyito Abanaswara, ubusanzwé ni ijambo ry'icyarabu A-Naswara rikomoka ku izina ry'Umujiyi A-Naaswirat ari wo Nazareti umwe mu mijji igize iighugu cya Palestina, ukaba ari na wo mujji Yesu yakomokagamo. Bishatse gusobanura ko Abanaswara ari abakurikiye uwavukiye i Nazareti. Iyi nyito hamwe n'Abahawé igitabo (Ahlul Kitab) ni zo nyito zikoreshwá muri Qur'an no mu nyigisho z'Intumwa y'Imana (Hadithi), ndetse no mu bitabo bya Kisilamu byo hambere, zigamije kuvuga Abakurikiye ubutumwa bw'Intumwa y'Imana Yesu (Issa) Imana imuhundagazeho amahoro. Niyo mpamvu n'ahandi hose hari buvugwe abakurikiye Yesu bari buvugwe mu mirongo ya Qur'an turi bukoreshe inyito Abanaswara.

63. Munibuke (yemwe bene Isiraheli) ubwo twakiraga isezerano ryanyu (ryo kubahiriza amategeko ya Tawurati), tukanazamura umusozi hejuru yanyu (tugiye kuwububikaho), (turababwira tuti) “Ngaho nimwakire ibyo twabahaye (Tawurati) mubikomeze, kandi muzirikane ibirimo kugira ngo mugandukire Imana.”

64. Nyuma murongera mubitera umugongo. Iyo bitaza kuba ineza n’impuhwe bya Allah kuri mwe, mwari kuba mu banyagihombo.

65. Kandi mu by’ukuri mwamenye bamwe muri mwe barengereye isabato<sup>15</sup>, nuko turababwira tuti “Nimube inkende musuzuguritse.”

66. Nuko (icyo gihano) tukigira isomo ku bariho icyo gihe no ku bazabaho nyuma yabo, binaba inyigisho ku batinya (Allah).

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيشَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ  
الْطُّورَ خُذُوا مَاءَ اتَّبَعْنَا بِقُوَّةٍ وَادْكُرُوا مَا  
فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقَوْنَ ﴿٦٣﴾

ثُمَّ تَوَلَّتُمُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ  
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُهُ لَكُنْتُم مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٤﴾

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ أَعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبَّتِ  
فَقُنْنَا لَهُمْ كُنُوا قَرَدَةً خَسِيعِينَ ﴿٦٥﴾

فَجَعَلْنَاهَا نَكَلًا لِمَا بَيْنَ يَدِيهَا وَمَا خَلْفَهَا  
وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٦٦﴾

<sup>15</sup> Abayisraheli bategetswe kutagira icyo bakora ku isabato uretse kugaragira Imana byonyine. Nyuma bamwe muri bo babirenzeho bakoresheje amayeri bakaraza imitego yo kuroba amafi mu nyanja kuwa gatanu bakayitegura ku cyumweru, abandi bakabikora ku mugaragaro.

67. Munibuke ubwo Musa yabwiraga abantu be ati “Mu by’ukuri, **Allah** abategetse kubaga inka.” Baravuga bati “Ese uradukinisha?” (Mussa) aravuga ati “Nikinze kuri **Allah** ngo andinde kuba mu njiji.”

68. Baravuga bati “Dusabire Nyagasan wawe adusobanurire imiterere y’iyo nka.” Aravuga ati “Mu by’ukuri, (**Allah**) avuze ko ari inka itari ijigija ntibe n’umutavu; ahubwo ibe iri hagati y’izo zombi. Ngaho nimukore ibyo mutegetswe.”

69. Baravuga bati “Dusabire Nyagasan wawe adusobanurire ibara ryayo.” Aravuga ati “Mu by’ukuri, avuze ko ari inka y’igaju, y’ibara rikeye cyane, ishimisha abayireba.”

70. Baravuga bati “Dusabire Nyagasan wawe adusobanurire iyo ari yo, kuko rwose inka (zimeze zityo ni nyinshi) zaduteye urujijo, kandi mu by’ukuri **Allah** nabishaka turayimenya.”

71. Aravuga ati “Mu by’ukuri, (**Allah**) avuze ko ari inka itarigeze ikoreshwa imirimo yo guhinga ndetse no kuhira imyaka; ni

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا تَذَخِّنَا هُرُوفًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٦﴾

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا يَكُرُّ عَوَانٌ ﴿٦٨﴾

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفَرَاءٌ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسْرُرُ الْنَّاظِرِينَ ﴿٦٩﴾

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَبَّهُ عَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْهَتَدُونَ ﴿٧٠﴾

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا دُلُّ تُشِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةٌ فِيهَا قَالُوا

inziranenge itagira icyasha.” (Nyuma yo kuyibona), baravuga bati “Noneho uvuze ukuri.” Nuko barayibaga, n’ubwo bari hafi yo kutabikora.

72. (Munibuke) ubwo mwicaga umuntu mukitana bamwana. Ariko **Allah** yashyize ahagaragara ibyo mwahishaga.

73. Turababwira tuti “(Uwishwe) nimumukubite bimwe mu bice byayo (inka), (babimukubitishije arazuka).” Uko ni ko **Allah** azura abapfuye, kandi akabereka ibitangaza bye kugira ngo musobanukirwe.

74. Maze nyuma yaho imitima yanyu irinangira imera nk’amabuye, cyangwa se ikomera kurushaho; kuko mu by’ukuri, mu mabuye harimo aturikamo imigezi, hari n’ayandi yiyasa akavamo amazi, ayandi na yo agahanuka kubera gutinya **Allah**. Kandi **Allah** ntawo ayobewe ibyo mukora.

75. Ese (mwe abemera) mwizera ko (abo Bayahudi) bakwemera idini ryanyu, kandi bamwe muri bo (abamenyi babo) barajyaga bumva amagambo ya **Allah** (Tawurati) bakayahindura (ku

أَفَنَ حِتَّىٰ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا  
يَفْعَلُونَ ﴿٧١﴾

وَكَذِّلَتُمْ نَفْسًا فَإِذَا رَأَتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُحْرِجٌ مَا  
كُنْتُمْ تَكْمُونَ ﴿٧٢﴾

فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِعَضَهَا كَذَلِكَ يُبَحِّي اللَّهُ الْمُؤْمِنَ  
وَيُرِيكُمْ إِيمَانَهُ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٣﴾

ثُمَّ قَسَّتْ قُوًىكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ  
كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا  
يَتَفَجَّرَ مِنْهُ الْأَنْهَرُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَشَقَّ  
فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَهْبِطُ مِنْ  
خَشِيشَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٧٤﴾

\* أَفَتَلْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ  
فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ اللَّهِ ثُمَّ

bwende) nyuma yo  
kuyasobanukirwa?

يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

٢٦

76. Kandi iyo bahuye n'abemeye baravuga bati "Twaremeye" (ko Muhamadi ari Intumwa y'ukuri kandi yahishuwe mu gitabo cyacu cya Tawurati). Nyamara bakwiherera bari bonyine bakabwirana bati "Ese murabaganirira ibyo **Allah** yabahishuriye (ihanurwa ry'Intumwa Muhamadi muri Tawurati) kugira ngo bazabibashinjishe kwa Nyagasan i wanyu? Ese nta bwenge mugira?"

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا إِنَّا أَمَنَّا وَإِذَا  
خَلَأَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتَحْدِثُونَهُمْ  
بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجِجُوكُمْ بِهِ عَنَّ  
رِبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

٧٦

77. Ese bayobewe ko **Allah** azi ibyo bahisha n'ibyo bagaragaza?

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا  
يُعْلَمُونَ

٧٧

78. No muri bo (Abayahudi) hari abatarize batazi gusoma no kwandika, ntibanamenye igitabo (Tawurati), uretse ukwizera kujyanye n'ibyifuzo bidafite ishingiro; ahubwo barangwa no gukeka gusa.

وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا  
أَمَانَ وَإِنْ هُوَ إِلَّا يَظْنُونَ

٧٨

79. Hagowe ba bandi biyandikira igitabo n'amaboko yabo, nyuma bakavuga bati "Iki giturutse kwa **Allah**" bagamije kukigurana

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ  
يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَيَشْتَرُوا بِهِ

ikiguzi gito (indonke z'isi), bazabona akaga gakomeye kubera ibyo amaboko yabo yanditse, kandi bazabona akaga gakomeye kubera izo ndonke babona.

80. (Abayisiraheli) baranavuze bati “Umuriro ntuzadukoraho uretse iminsi mbarwa.” Vuga uti “Ese mwagiranye isezerano na **Allah** atagomba gutatira, cyangwa muvuga ibyo mutazi kuri **Allah?**”

81. Si ko biri! Ukoze ikibi akaba imbata y'ibaya bye; abo niabantu bo mu muriro, bazawubamo ubuziraherezo.

82. Na ba bandi bemeye bakanakora ibikorwa byiza; abo niabantu bo mu ijuru, bazaribamo ubuziraherezo.

83. Munibuke ubwo twakiraga isezerano rya bene Isiraheli (rigira riti) “Ntimuzasenge ikindi kitari **Allah**, muzagirire neza ababyeyi bombi, abo mufitanye isano, imfubyi n'abakene, muvugane n'abantu mukoresheje imvugo nziza,

ثُمَّنَا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لِّهُمْ مِّمَّا كَتَبْتَ أَيْدِيهِمْ  
وَوَيْلٌ لِّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾

وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا  
مَعْدُودَةً قُلْ أَتَخَذُ تُمُرًّا عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ  
يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ وَمَمْتَقُولُونَ ﴿٨٠﴾  
لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨١﴾

بَلِّيٌّ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَاحْتَطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ  
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَلِيلُونَ ﴿٨٢﴾

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ  
أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِيلُونَ ﴿٨٣﴾

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيقَاتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا  
تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي  
الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا  
لِلنَّاسِ حُسْنَا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا

muhozeho iswala<sup>16</sup>, kandi mutange amaturo. Nuko mutera umugongo (amategeko yacu) munirengagiza (isezerano ryacu) uretse bake muri mwe.”

الْزَكَوَةَ شَمَّ تَوَلَّتُمْ إِلَّا قِيلَّا مِنْكُمْ  
وَأَنْتُمْ مُعَرِّضُونَ ﴿٨٣﴾

84. Munibuke ubwo twakiraga isezerano ryanu ry'uko mutazamena amaraso (ya bagenzi banyu), ko mutazanameneshanya mu ngo zanyu; maze murabyemera muranabihamya.

وَإِذْ أَخْذَنَا مِيشَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ  
وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَرِكُمْ شَمَّ  
أَفَرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشَهُّدُونَ ﴿٨٤﴾

85. Nyuma mwe ubwanyu (mubirengaho) muricana, munamenesha bamwe muri mwe mu ngo zabo, munashyigikirana mu kubakorera ubuhemu n'ubugome. N'yo babagannye barafatiwe ku rugamba mubatangira ingurane zo kubabohora kandi ari ikizira kuri mwe kubamenesha<sup>17</sup>. Ese mwemera bimwe mu gitabo (Tawurati) mugahakana ibindi? Nta kindi gihembo cy'ukora ibyo muri mwe uretse igisebo mu buzima bwo ku isi, ndetse no ku munsi w'imperuka bazashyirwa

شَرَّ أَنْتُمْ هَوَلَاءَ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ  
وَتُخْرِجُونَ فِرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَرِهِمْ تَظَاهِرُونَ  
عَيْنِهِمْ بِالْأَيْمَنِ وَأَعْدَوْنَ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ  
أُسْرَى تُقْنَدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ  
إِخْرَاجُهُمْ أَفْتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ  
وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ  
مِنْكُمْ إِلَّا خَرْزٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ  
الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ  
بِغَفَلٍ عَمَّا نَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾

<sup>16</sup> Reba uko twasobanuye umurongo wa 3 muri iyi Surat.

<sup>17</sup> I Madina hari amoko abiri ari yo Awusi na Khaziraji, ayo moko yombi mbere y'uko ayoboka Isilamu yahoraga ashayamiranye, Abayahudi bari batuye i Madina baje guzikamo ibice bibiri, bamwe bifatanya n'ubwoko bwa Awusi abandi na bo bifatanya n'ubwoko bwa Khaziraji. Iyo ayo moko yarwanaga Abayahudi bari ku ruhande rumwe bicaga bene wabo bo ku rundi ruhande. Iyo hagiraga Abayahudi bafatwa bonyago mu ntambara ku ruhande rumwe, bene wabo bo ku rundi ruhande babatangiraga ingurane zo kubabohora. Aha niho babwirwa bati “Niba mubohoza imbohe z'Abayahudi kubera gukurikiza Tawurati, kubera iki mwicana mukanameneshanya kandi na byo bibuijije muri Tawurati?”

mubihano bikomeye cyane.  
Kandi **Allah** ntabwo ayobewe  
ibyo mukora.

86. Abo ni bo bahisemo ubuzima  
bwo ku isi babugurana  
ubw'imperuka. Ntabwo  
bazoroherezwa ibihano ndetse  
nta n'ubwo bazatabarwa.

87. Mu by'ukuri, twahaye Musa  
igitabo (Tawurati)  
tunakurikizaho izindi Ntumwa  
nyuma ye, tunaha Isa (Yesu)  
mwene Mariyamu (Mariya)  
ibimenyetso bigaragara,  
tunamushyigikiza Roho  
Ntagatifu [Malayika Jibril  
(Gaburiheli)]. Ese kuki buri uko  
Intumwa ibazaniye ibyo imitima  
yanyu itifuza mwibona, maze  
zimwe mukazihinyura izindi  
mukazica!?

88. Kandi (Abayahudi ubwo  
Intumwa Muhamadi  
yabagezagaho ubutumwa)  
baravuze bati "Imitima yacu  
irapfundikiye (iradanangkiye  
ntiyumva amagambo yawe)." Ahubwo **Allah** yarabavumye  
kubera ubuhakanyi bwabo, dore  
ko ibyo bemera ari bike.

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَشْتَرُوا لِحْيَةَ الَّذِي  
يَا الْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ  
يُنَصَّرُونَ ﴿٨١﴾

وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ  
بَعْدِهِ بِالْرُّسُلِ وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ  
الْبَيْنَتِ وَأَيَّدْنَاهُ رُوحُ الْقُدُّسِ أَفَكُلَّمَا  
جَاءَ كُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ  
أَسْتَكْبَرُتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبُتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٢﴾

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنْهُمُ اللَّهُ يَكُفِّرُهُمْ  
فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٣﴾

89. N'igihe bagerwagaho n'igitabo (Qur'an) giturutse kwa Allah, gishimangira ibyo bafite (ihishurwa ry'ubutumwa bw'Intumwa Muhamadi muri Tawurati, barabihakanye), kandi mbere (yo kuza kw'Intumwa Muhamadi) barabyifashishaga nk'ingabo basaba Allah gutsinda abahakanyi. Ariko bamaze kugerwaho n'ibyo bari baramenyé (ubutumwa bwa Muhamadi) barabihakanye. Ku bw'ibyo, umuvumo wa Allah ube ku bahakanyi.

90. Mbega ukuntu ibyo bihitiyemo ubwabo ari bibi, ubwo bahakanaga ibyo Allah yahishuye bitewe n'ishyari ry'uko Allah ahundagaza ibyiza bye ku wo ashaka mu bagaragu be! Ku bw'ibyo, bagezweho n'uburakari bwiyongera ku burakari, kandi abahakanyi bazahanishwa ibihano bisuzuguza.

91. N'ijo babwiwe batí "Nimwemere ibyo Allah yahishuye (ubutumwa bwa Muhamadi)", baravuga batí "Twemera ibyo twahishuriwe" (binyuze ku Ntumwa zacu); bagahakana ibyahishuwe nyuma (Qur'an) kandi ari ukuri gushimangira ibyo bafite

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كَتَبْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ  
لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ  
عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا  
كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
إِنَّمَا أَشْرَقَ اللَّهُ بِهِ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَكُونُوا كُفَّارًا  
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِغَيْرِ أَنْ يُنْزَلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى  
مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَأْءُوا وَلَا يَغْضِبُ عَلَى  
عَظَابِ اللَّهِ الْكَافِرِينَ عَذَابُ مُهِمَّٰنٍ ﴿٩٠﴾

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ إِذَا امْنَوْا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ  
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَلَا يَكُونُوا كُفَّارًا بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ  
الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ  
أَنْيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٩١﴾

(Tawurati). Babwire (yewe Muhamadi) uti “Niba koko mwari abemera by'ukuri, kuki mbere mwicaga abahanuzi ba Allah?”

92. Kandi mu by'ukuri, Musa yabazaniye ibimenyetso bisobanutse, nyuma mufata akamasa mukagira ikigirwamana mu gihe atari ahari, kandi mwari ababangikanyamana.

93. Munibuke (yemwe bene Isiraheli) ubwo twakiraga isezerano ryanyu (ryo kubahiriza amategeko ya Tawurati, ntimwaryubahiriza), tukanazamura *Turuur* (umusozи wa Sinayi) hejuru yanyu (tugiyе kuwububikaho), (turababwira tuti) “Ngaho nimwakire ibyo twabahaye (Tawurati) mubikomeze, kandi mwumve (munumvire).” Baravuga batи “Twumvise ariko ntitwumviye.” Ku bw'ubuhakanyi bwabo, imitima yabo inyurwa no kugaragira akamasa. Babwire (yewe Muhamadi) uti “Ibyo ukwemera kwanyu kubategeka ni bibi, niba koko muri abemera.”

\* وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ شُرُّ  
أَتَخَذَّتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْثَمْ  
ظَلَالِمُونَ

وَإِذَا أَخَذْنَا مِثْقَاتَكُمْ وَرَفَقْنَا فَوْقَكُمْ  
الْطُّورَ حُذِّرُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ  
وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُوا  
فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا  
يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  
مُؤْمِنِينَ

94. Babwire uti “Niba ubuturo bw’imperuka (Ijuru) buri kwa Allah ari umwihariko wanyu nta bandi bantu (babugenewe), ngaho nimwifuze urupfu niba koko muri abanyakuri.”

95. Ntibazarwifuza na rimwe kubera ibyo amaboko yabo yakoze, kandi Allah azi neza inkozi z’ibibi.

96. Kandi uzasanga (Abayahudi) ari bo bashishikariye ubuzima (bwo ku isi) cyane kurusha abandi bantu ndetse no kurusha ababangikanyamana. Buri wese muri bo yifuza ko yarama imyaka igihumbi, nyamara kurama si byo byamurokora ibihano. Kandi Allah ni Ubona bihebuje ibyo bakora.

97. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Uwaba ari umwanzi wa Malayika Jibril (kubera ko ari we wakuzaniye ubutumwa), mu by’ukuri (amenye ko Jibril) yayimanuye (Qur’an) akayishyira mu mutima wawe ku burenganzira bwa Allah, kugira ngo ishimangire ibayibanjirije (ibitabo), ibe umuyoboro n’inkuru nziza ku bemera.”

فَإِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ  
خَالِصَةٌ مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنُوا الْمَوْتَ إِنْ  
كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٤﴾

وَلَنْ يَتَمَنُوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ  
عَلَيْهِ بِالظَّالِمِينَ ﴿٩٥﴾

وَلَتَحِدَّنَهُمْ أَخْرَصَ النَّاسَ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ  
أَشْرَكُوا يُوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمِّرَ أَفَ سَنَةٌ وَمَا  
هُوَ بِمُزَحِّرٍ هُوَ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمِّرَ وَاللَّهُ  
بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

فُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجَبَرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ  
عَلَى قَبْلِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْتَ  
بَدَائِيْهِ وَهُدَى وَبُشَّرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٩٧﴾

98. Uwaba ari umwanzi wa **Allah**, abamalayika be, Intumwa ze, Jibril na Mikayile (Mika-il), (amenye ko) mu by'ukuri **Allah** ari umwanzi w'abahakanyi.

مَنْ كَانَ عَدُوا لِلَّهِ وَمَلَكَيْتَهِ وَرَسُولِهِ  
وَرِجَبِيلَ وَمِيكَنَلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ  
لِلْكَافِرِينَ ﴿٩٨﴾

99. Kandi mu by'ukuri (yewe Muhamadi), twaguhishuriye ibimenyetso bigaragara. Nta n'ubihakana usibye inkozi z'ibibi.

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ هـ  
يَكُفُّرُ بِهَا إِلَّا الْفَسِقُونَ ﴿٩٩﴾

100. Ese ni kuki (Abayahudi) buri uko batanze isezerano, agatsiko muri bo karyica? Ahubwo abenshi muri bo ntibemera.

أَوْكُلُّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَّكَدَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ هـ  
بَلْ أَكَثُرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٠﴾

101. N'igihe bagerwagaho n'Intumwa (Muhamadi) iturutse kwa **Allah**, ishimangira ibyo bafite (muri Tawurati), agatsiko mu bahawe igitabo kateraga umugongo igitabo cya **Allah** (Qur'an) nk'aho nta cyo bazi.

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا  
مَعَهُمْ بَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا  
الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ  
كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

102. Banakurikiye ibyo amashitani yabwiraga (abarozi) ku ngoma ya Sulayimani (Umuhanuzi Salomo), nyamara Sulayimani ntiyigeze aba umuhakanyi (ntiyize kuroga), ariko amashitani yo yabaye amahakanyi, yigisha abantu

وَاتَّبَعُوا مَا تَنَوُّ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلَائِكَةِ سُلَيْمَانَ هـ  
وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ  
كَفَرُوا يَعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ  
عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِسَابِيلِ هَرُوتَ وَمَرْوَتَ وَمَا

uburozi n'ibyamanuriwe abamalayika babiri; ari bo Haruta na Maruta i Babil (Babiloni). Kandi (abo bamalayika) nta we bigishaga batabanje kumubwira bati "Mu by'ukuri twe turi ikigeragezo, uramenye ntube umuhakanyi." Nuko bakabigiraho ibyo bifashisha mu gutanya umugabo n'umugore we, ariko nta n'uwo bashoboraga kugirira nabi babwifashishije bitari ku bushake bwa **Allah**. Kandi babigiragaho ibibagirira nabi bitanabafitiye akamaro, ndetse bari bazi neza ko ubuhisemo (uburozi) nta mugabane (ibihembo) azagira ku munsi w'imperuka. Kandi ibyo bahisemo (uburozi n'ubuhakanyi) bakabisimbuza (kurokora) roho zabo, ni bibi kuri bo iyo baza kubimanya.

103. Mu by'ukuri, iyo baza kwemera bakanagandukira Imana, ibihembo bituruka kwa **Allah** byari kuba byiza kuri bo, iyo baza kubimanya.

104. Yemwe abemeye! Ntimukavuge (mubwira Intumwa Muhamadi) muti "Cisha make tukumve (Raa-

يَعْلَمُانِ مِنْ أَحَدٍ حَقَّ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ  
فِتْنَةٌ فَلَا تَكُونُ فِتْنَةً لِّمَنْ يَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا  
يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمُرِئَ وَرَوْجِهِ وَمَا هُمْ  
يُضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ  
وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضْرُبُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ  
عَلِمُوا لَمَنْ أَشْرَكَهُمْ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ  
خَلْقٍ وَلِئَسَ مَا شَرَّقُوا بِهِ أَنفُسُهُمْ لَوْكَانُوا

يَعْلَمُونَ ١٦٣

وَلَوْأَنَّهُمْ إِمَّا مُؤْمِنُوا وَاتَّقُوا الْمَثُوبَةَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ  
خَيْرٌ لَّوْكَانُوا يَعْلَمُونَ ١٦٤

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِمَّا مُؤْمِنُوا لَا تَقُولُوا رَعِنَا  
وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا وَلِلَّهِ الْكَفِيرُونَ

عَذَابُ الْيَمِّ ١٦٥

inaa)<sup>18</sup>, ahubwo mujye muvuga muti “Twihanganire tubanze dufate ibyo watwigishije (Un’dhwurna)”, ndetse mwumve. Kandi abahakanyi bazahanishwa ibihano bibabaza.

105. Abahakanye mu bahawe ibitabo (abayahudi n’abanaswara) ndetse n’ababangikanyamana, ntibifuza ko hari icyiza giturutse kwa Nyagasanani wanyu cyabageraho (mwe abemera). Ariko **Allah** aharira impuhwe ze uwo ashaka, kandi **Allah** ni We Nyiringabire zihambaye.

106. Ntidusimbuza umurongo (Ayat) cyangwa ngo dutume wibagirana, ahubwo tuzana umwiza (kuri mwe) kuwurusha cyangwa uhwanye na wo. Ese ntuzi ko **Allah** ari Ushobora byose?

107. Ese (yewe Muhamadi) ntuzi ko **Allah** afite ubwami bw’ibirere n’ubw’isi? Nta wundi murinzi cyangwa umutabazi mufite utari **Allah**.

مَا يَوْدُ الدَّيْنَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ  
وَلَا الْمُشْرِكُونَ إِنَّمَا يُنَزَّلُ عَلَيْكُمْ مِنْ حَيْرٍ  
مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنِ  
يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١٥﴾

\* مَا نَسَخَ مِنْ إِعْيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ  
مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا فَإِنَّمَا تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ  
شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦﴾

الَّمَّا تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ  
وَالْأَرْضِ وَمَا كُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا

نَصِيرٍ ﴿١٧﴾

<sup>18</sup>Raa-inaa: Iri jambo risobanura ngo cisha make usome buhoro tukumve. Nyamara mu giheburayo ni ijambo ry’igitusi, Abayahudi bakaba bararikoreshje bagamije gutuka Intumwa Muhamadi mu rurimi rwabo.

108. Cyangwa se (yemwe bantu) murashaka kubaza Intumwa yanyu (Muhamadi) nk'uko Musa yabajijwe mbere? N'uhisemo ubuhakanyi aretse ukwemera, rwose aba ayobye inzira igororotse.

109. Abenshi mu bahawe igitabo bifusa ko babahindura mukongera kuba abahakanyi nyuma y'uko mwemeye na nyuma y'uko ukuri (kw'Intumwa Muhamadi) kubagaragariye, kubera ishyari bafite mu mitima yabo. Ku bw'ibyo, nimubararie munarenzeho kugeza ubwo **Allah** azazana itegeko rye. Mu by'ukuri, **Allah** ni Ushobora byose.

110. Munahozeho iswala<sup>19</sup> (muzitunganya uko bikwiye), munatange amaturo, kandi icyiza cyose mwiteganyirije imbere muzagisanga kwa **Allah**. Mu by'ukuri, **Allah** ni Ubona bihebuje ibyo mukora.

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْتَأْوِي رَسُولَكُمْ كَمَا سُلِّمَ  
مُوسَىٰ مِنْ قَبْلٍ وَمَنْ يَتَبَدَّلْ إِلَّا كُفَّارٌ بِالْإِيمَانِ  
فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلُ ﴿١٨﴾

وَدَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْيَرُدُونَكُمْ  
مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ  
عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ  
فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ  
اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٩﴾

وَرَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَوَةَ وَمَا تَقْدِمُوا  
لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَحْدُوْهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ  
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٠﴾

<sup>19</sup> Reba uko twasobanuye umurongo wa 3 muri iyi Surat.

111. Baranavuze bati “Ntawe uzinjira mu ijuru uretse uwabaye Umuyahudi cyangwa Umunaswara<sup>20</sup>.” Ibyo ni ibyifuzo byabo. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Nimuzane gihamya yanyu niba koko muri abanyakuri.”

112. Si ko biri! Ahubwo uwiyeguriye Allah akaba n'ukora ibyiza, azabona igihembo cye kwa Nyagasan we, kandi nta bwoba (bw'aho bagiye) ndetse nta n'agahinda (k'ibyo basize) bazagira.

113. Abayahudi kandi baravuze bati “Abanaswara<sup>21</sup> nta shingiro bafite (ntibari mu idini ry'ukuri)”, n'Abanaswara baravuga bati “Abayahudi nta shingiro bafite (ntibari mu idini ry'ukuri)”; nyamara bose basoma igitabo (Tawurati n'Ivanjili). Iyo ni na yo mvugo abatabizi (ababangikanyamana b'Abarabu) bavuze. Allah ni we uzabakiranura ku munsi w'izuka mu byo batumvikanagaho.

وَقَالُوا لَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا  
أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيْهُمْ قُلْ هَا تُوا بُرْهَنَنَّكُمْ  
إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ ﴿١١﴾

كُلَّ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ وَلِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ  
أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ  
يَحْزَنُونَ ﴿١١﴾

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ  
النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ  
يَتَّسُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا  
يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ  
يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٢﴾

<sup>20</sup> Reba uko twasobanuye iyi nyito mu murongo wa 62 muri Surat ul Baqarat

<sup>21</sup> Reba uko twasobanuye iyi nyito mu murongo wa 62 muri iyi Surat

114. Ese ni nde muhemu urenze ubuza ko imisigit ya Allah isingirizwamo izina rye, agaharanira kuyisenya? Abo ntibakwiye kuyinjiramo (kandi nibiba ngombwa ko bayinjiramo, bagomba kuyinjiramo) bafite ubwoba. Bafite igisebo ku isi, kandi ku munsi w'imperuka bazahanishwa ibihano bihambaye.

115. Kandi Uburasirazuba n'Uburengerazuba ni ibya Allah, aho mwakwerekera hose uburanga bwa Allah buba buhari. Mu by'ukuri, Allah ni Nyir'ubwami bwagutse, Umumenyi uhebuje.

116. (Abayahudi, Abanaswara<sup>22</sup> n'ababangikanyamana) baravuze bati “Allah afite umwana.” Ubutagatifu ni ubwe (ntibibaho ko yagira umwana)! Ahubwo ibiri mu birere no mu isi byose ni ibye kandi byose biramwumvira.

117. Ni we Muhanzi w'ibirere n'isi. N'yo ashaka ikintu, mu by'ukuri arakibwira ati “Ba!” Nuko kikaba.

وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَ مَنْ نَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ  
فِيهَا أَسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ  
لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا أَخَافِرِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا  
خَرْزٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٤﴾

وَلِلَّهِ الْمَشْرُقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَّمَا تُولُوا فَشَّ وَجْهَ  
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلَيْهِ ﴿١٥﴾

وَقَالُوا أَتَخْدَ اللَّهَ وَلَدًا سُبْحَانَهُ وَبَلَّهُ مَا  
فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّهُ وَقَلِيلُونَ ﴿١٦﴾

يَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ هُوَ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا  
يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿١٧﴾

<sup>22</sup> Reba uko twasobanuye iyi nyito mu murongo wa 62 muri Surat ul Baqarat

118. Abadasobanukiwe (mu bahawe igitabo n'abahakanyi b'Abarabu) baravuze bati "Kuki **Allah** atatwibwirira (ko uri Intumwa ye) cyangwa ngo tugerweho n'igitangaza (gihamya ukuri kwawe)?" Uko ni ko n'abababanjirije bavuze imvugo nk'iyabo. Imitima yabo irasa. Mu by'ukuri, twagaragaje ibitangaza ku bantu bemera badashidikanya.

119. Mu by'ukuri, (yewe Muhamadi) twakohereje (tuguhyaye ubutumwa bw') ukuri (Isilamu), ugeze inkuru nziza (ku bemera **Allah**), unaburire (abahakanyi), kandi ntuzabazwa iby'abo mu muriro.

120. Kandi Abayahudi n'Abanaswara<sup>23</sup>, ntibazigera bakwishimira keretse ukurikiye inzira yabo. Vuga (yewe Muhamadi) uti "Mu by'ukuri, umuyoboro wa **Allah** ni wo muyoboro nyawo." Kandi uramutse ukurikiye irari ryabo nyuma y'uko ubumenyi (ubutumwa) bukugezeho, nta wundi murinzi cyangwa umutabazi wazagira kwa **Allah**.

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا  
اللَّهُ أَوْ تَأْتِيَنَا إِيَّاهُ فَقَدْ  
قَبَلَهُمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَهَّدُ قُلُوبُهُمْ قَدْ  
بَيَّنَتِ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْكِلْ  
عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ أُلِيَّهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى  
تَتَّبَعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنْ  
أَتَبْعَطْنَاهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ مَا  
لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

<sup>23</sup> Reba uko twasobanuye iyi nyito mu murongo wa 62 muri Surat ul Baqarat

121. Abo twahaye igitabo bakagisoma uko kigomba gusomwa ni bo bacyemera (bemera ibyavuzwe muri cyo, bahanura Intumwa Muhamadi). Naho abagihakana ni bo banyagihombo.

الَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَبَ يَتَوَلَّهُونَ وَحَقَّ تِلَاقُهُنَّا  
أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرُ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ  
الْخَسِيرُونَ ﴿١٦٣﴾

122. Yemwe bene Isiraheli! Nimwibuke ingabire zanjye nabahundagajeho, kandi munibuke ko nabarutishije ibindi biremwa (byo ku gihe cyanyu).

يَبَرِّئُنِي إِسْرَائِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَغْمَطْتُ عَلَيْكُمْ  
وَلَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٦٤﴾

123. Munatinye umunsi umuntu atazagira icyo amarira undi, maze ingurane ye (yo kwigura) ntiyakirwe, ubuvugizi bwe ntibugire icyo bumumarira, ndetse nta n'ubwo bazatabarwa.

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْرِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا  
يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَعَةٌ وَلَا هُمْ  
يُنْصَرُونَ ﴿١٦٥﴾

124. Unibuke ubwo Nyagasani wa Aburahamu yamugeragereshaga amategeko, akayubahiriza. (Nyagasani) aravuga ati “Mu by'ukuri, ngiye kukugira umuyobozi w'abantu.” (Aburahamu) aravuga ati “No mu rubyaro rwanjye?” (Nyagasani) aravuga ati “(Ni byo, ariko) isezerano ryanjye ntirizagera ku nkozi z'ibibi.”

\* وَإِذْ أَبْتَلَ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلْمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّا قَالَ إِنِّي  
جَاعَلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمَنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا  
يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿١٦٦﴾

125. Unibuke ubwo ingoro ya (Al Ka'abat) twayigiraga ahantu h'ihiuriro n'amahoro ku bantu. Kandi tunabategeka ko aho Aburahamu yahagararaga (Maqam Ibrahim)<sup>24</sup> muhagira ahantu ho gusengera. Tunategeka Aburahamu na Isimayili (tugira tuti) "Musukure ingoro yanje mubigiriye abayizenguruka (bakora umutambagiro), abahakorera umwiherero (Itikafu), ndetse n'abunama n'abubama (basali).

126. Unibuke ubwo Aburahamu yavugaga ati "Nyagasani wanjye! Uyu murwa (wa Maka) wugire ahantu h'amahoro, uhe amafunguro agizwe n'imbuto abawutuye muri bo; bemera **Allah** n'umunsi w'imperuka." (Nyagasani) aravuga ati "Naho uzahakana, nzamushimisha by'igihe gito (ku isi), hanyuma (ku munsi w'imperuka) muhirikire mu bihano by'umuriro, kandi (umuriro) ni wo shyikiro ribi!

127. Unibuke ubwo Aburahamu na Ismail bazamuraga imisingi y'ingoro (Al Ka'abat), (bagira bati) "Nyagasani wacu! Twakirire (ibikorwa n'ubusabe byacu), mu

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَمَنَا وَأَخْذُوا مِنْ  
مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَعَهْدَنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ  
وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتَ لِلَّاطَّافَينَ وَالْعَكَفِينَ  
وَارْتَكَعَ السُّجُودُ

١٥٥

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَجْعَلْ هَذَا بَلَدًاءَ اِمَانًا  
وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ وَمِنَ الْثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمَ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتَعَهُ وَقَلِيلًا ثُمَّ  
أَضْطَرْهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَيَسَّ المَصِيرُ

١٣٦

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ  
رَبَّنَا تَقَبَّلَ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

١٣٧

<sup>24</sup> Maqam Ibrahim: Ni ibuye Aburahamu yahagararagaho yubaka Al Ka'abat, na n'ubu haracyari ibimenyetso by'ibrengre bye.

by'ukuri, wowe uri Uwumva bihebuje, Umumenyi uhebuje."

128. Nyagasaki wacu! Unatugire abakwicishaho bugufi, ndetse no mu rubyaro rwacu hazabemo umuryango (Umat) ukwicishaho bugufi, utugaragarize imigenzo yacu (tuzagenderaho mu kukugaragira), kandi wakire ukwicuza kwacu. Mu by'ukuri, ni wowe Uwakira ukwicuza, Nyirimbabazi.

129. Nyagasaki wacu! Uzanaboherezemo Intumwa ibakomokamo, ibasomera amagambo yawe, inabigishe igitabo (Qur'an) n'ubushishozi (imigenzo y'Intumwa n'amategeko y'idini) kandi ibeze (ibakura mu ibangikanyamana n'imico mibi). Mu by'ukuri, ni wowe Nyiricyubahiro gihebuje, Nyirubugenge buhambaye.

130. Ni nde wakwanga idini rya Aburahamu (Isilamu) uretse uwigize injiji? Mu by'ukuri, twamuhisemo ku isi (ngo abe Intumwa n'Umuhanuzi) kandi ku mperuka azaba mu ntungane.

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسَلِّمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسَلِّمَةً لَكَ وَارِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ

رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مُّنَّهُرٍ يَتَّلُوُ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَرُرَكِيْهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

وَمَنْ يَرْغَبُ عَنِ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفَهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ أَصْطَفَيْنَا فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ

131. Ibuka ubwo Nyagasan we yamubwiraga ati "Iciske bugufi." Aravuga ati "Nicishije bugufi kuri Nyagasan w'ibiremwa byose."

132. Nuko Aburahamu (iryo dini) ariraga urubyaro rwe ndetse na Yakobo biba uko, (agira ati) "Bana banjye! Mu by'ukuri, **Allah** yabahitiyemo idini, bityo muramenye ntimuzapfe mutari Abayisilamu."

133. Ese mwari muhari igihe Yakobo yari ageze mu bihe bye bya nyuma, maze akabwira abana be ati "Ese muzasenga nde nyuma yanje? Baravuga bati "Tuzasenga Imana yawe ari na yo Mana y'abakurambere bawe: Ibrahimu, Ismail na Is'haq. Imana imwe kandi ni na yo twicishaho bugufi."

134. Uwo ni umuryango (Umat) wahise; ufite ibyo wakoze namwe mufite ibyo mwakoze (buri wese azahemberwa ibyo yakoze), kandi ntimuzabazwa ibyo bakoraga.

إِذْ قَالَ لَهُ وَرَبُّهُ أَسْلِمَ ﴿١٣١﴾ قَالَ أَسْلَمَتُ لِرَبِّ

الْعَالَمِينَ ﴿١٣١﴾

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبْنَيَ إِنَّ

الَّهُ أَصْطَطَفَ لَكُمُ الَّذِينَ فَلَا تَمُوتُنَ إِلَّا

وَأَنَّتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٢﴾

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ

قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ

إِلَهَكَ وَإِلَهَ إَبَّانِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ وَمُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا

كَسَبَتُمْ وَلَا تُسْكِلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٤﴾

135. Baranavuze bati "Nimube  
Abayahudi (abayahudi babwira  
abakurikiye Intumwa  
Muhamadi) Cyangwa  
Abanaswara<sup>25</sup> (Abanaswara  
babwira abakurikiye Intumwa  
Muhamadi) ni bwo  
muzayoboka!" Vuga (yewe  
Muhamadi) uti "Ahubwo  
(ukuyoboka nyako ni  
ugukurikira) idini ritunganye  
rya Aburahamu (Ibrahim)  
(ritabangikanya Imana), kandi  
ntiyari mu babangikanyamana.

136. (Yemwe Bayisilamu) muvuge muti "Twemeye Allah n'ibyo twahishuriwe, n'ibyahishuriwe Aburahamu (Ibrahim), Ishimayeli (Ismail), Isaka (Is'haq), Yakobo (Yaacob) n'urubyaro rwe, ibyahishuriwe Musa, ibyahishuriwe Yesu (Issa) ndetse n'ibyahishuriwe abahanuzi biturutse kwa Nyagasani wabo. Nta n'umwe tuvangura muri bo kandi ni Wetwicishaho bugufi."

**وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مَلَّةٌ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشَرِّكِينَ**

قُلْ لَوْا إِمَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْ  
 إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ  
 وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ الْتَّيْمُونَ مِنْ  
 رِّبِّهِمْ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُوَ

<sup>25</sup> Reba uko twasobanuye iyi nyito mu murongo wa 62 muri Surat ul Baqarat

137. Bityo nibemera nk'ibyo mwemeye bazaba bayobotse, ariko nibabitera umugongo, bazaba bari mu macakubiri. **Allah** azabagutsindira kandi ni na We Uwumva bihebuje, Umumenyi uhebuje.

فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ أَهْتَدَوْا  
وَإِنْ تَوَلُّوْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ  
فَسَيِّكِفِي كَهُوَ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ١٣٧

138. (Dukurikira) kamere ndemano (idini) ya **Allah**. Ni iyihе kamere ndemano yaruta iya **Allah** (yaremanye abantu)? Ni na we twe tugaragira.

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحَسَنْ مِنْ اللَّهِ صِبْغَةً  
وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ١٣٨

139. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Ese muratugisha impaka kuri **Allah** kandi ari we Nyagasanи wacu akaba na Nyagasanи wanyu? Kandi dufite ibikorwa byacu namwe mukagira ibyanyu, ndetse ni na We twiyegurira.

قُلْ أَتُحَاجِجُنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا  
أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلْكُمْ وَنَحْنُ لَهُ  
مُخْلِصُونَ ١٣٩

140. Cyangwa muvuga ko mu by'ukuri, Ibrahim, Ismail, Is'haq, Yaqub n'urubyaro rwe bari Abayahudi cyangwa Abanaswara<sup>26</sup>? Vuga (yewe Muhamadi) uti “Ese ni mwe mubizi cyane cyangwa ni **Allah** (ubizi kubarusha)?” Ni nde muhemu kurusha uhisha ubuhamya afite (buri mu gitabo cye) buturuka kwa **Allah**? Kandi

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ  
وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ  
نَصَارَى قُلْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمْ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ  
مِنْ كَمَّ شَهَدَةً عِنْدَهُ مِنْ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ  
يَغْفِلُ عَمَّا نَعْمَلُونَ ١٤٠

<sup>26</sup> Reba uko twasobanuye iyi nyito mu murongo wa 62 muri Surat ul Baqarat.

Allah ntabwo ayobewe ibyo mukora.

141. Uwo ni umuryango (Umat) wahise; ufite ibyo wakoze namwe mufite ibyo mwakoze (buri wese azahemberwa ibyo yakoze). Kandi ntimuzabazwa ibyo bakoraga.

142. Bamwe mu bantu badafite ubwenge bazavuga bat “Ni iki cyateye (Abayisilamu) kureka icyerekezo cyabo (Qibla)<sup>27</sup> bari basanzwe berekeramo basenga?” Vuga uti “Uburasirazuba n’Uburengerezuba ni ubwa Allah; ayobora uwo ashaka mu nzira igorotse.”

143. Ni nk’uko twabagize umuryango (Umat) wo hagati (ushyira mu gaciro) kugira ngo muzabe abahamya b’abantu (ku munsi w’imperuka ko Intumwa zabo zabagejejeho ubutumwa) ndetse n’Intumwa (Muhamadi) ikazaba umuhamya wanyu. Kandi nta kindi cyatumye tuguha icyerekezo werekeragamo mbere (nyuma tukagihindura) uretse ko byari ukugira ngo tumenye ukurikira

تَلَكَ أُمَّةٌ قَدْ خَاتَ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ  
مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَفُوا يَعْمَلُونَ

١٤٢

\* سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَهُمْ عَنْ  
قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَافُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَسْرِقُ وَالْمَغْرِبُ  
بَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ

١٤٣

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا  
شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ  
شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنَّتْ عَلَيْهَا إِلَّا  
لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقِلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ  
وَإِنْ كَانَتْ لَكِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ

<sup>27</sup> **Qibla:** Ni icyerekezo Abayisilamu berekeramo basali. Mu gihe cya mbere berekeraga i Yeruzalemu nyuma yaho Allah abategeka guhindura bakajya basali berekeye ku ngoro ya Al Ka’aba i Maka. Ibyo byabaye mu mwaka wa kabiri nyuma y’uko Intumwa Muhamadi yimukiye i Madina.

Intumwa by'ukuri n'utera umugongo (ukuri) akgomeka. Kandi byari bigoye (guhindura icyerekezo mu isengesho) uretse ku bo **Allah** yayoboye. Kandi **Allah** ntiyari kugira ukwemera kwanyu (iswala mwakoze mbere mwerekereye i Yeruzalemu) imfabusa. Mu by'ukuri, **Allah** ni Nyiribambe, Nyirimbabazi ku bantu.

144. Mu by'ukuri, tubona uburanga bwawe buhora bwerekera hirya no hino mu kirere. Rwose turakwerekeza mu cyerekezo wishimiye. Ngaho erekeza uburanga bwawe ku Musigitu Mutagatifu (Al Ka'aba i Maka) n'aho muzaba muri hose mujye muwerekezaho uburanga bwanyu. Kandi mu by'ukuri, abahawé igitabo (Abayahudi n'Abanaswara) bazi neza ko (kwerekera kuri Al Ka'aba) ari ukuri guturuka kwa Nyagasaní wabo (kuri mu bitabo byabo), kandi **Allah** ntabwo ayobewe ibyo bakora.

145. Rwose (yewe Muhamadi) n'ubwo abahawé igitabo wabazanira buri kimenyetso (kigaragaza ko kwerekera kuri Al Ka'aba ari itegeko rya **Allah**), ntibakurikira icyerekezo cyawe, kandi nawe ntiwakurikira icyerekezo cyabo, ndetse na

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

قَدْ نَرَى تَقْبِيلَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَأَنْوَلَتَكَ  
قِبْلَةً تَرَضِيهَا فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ  
الْحَرَامِ وَحِيتُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ  
شَطَرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أَنْوَلُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ  
الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أَنْوَلُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ  
عَيْتَةٍ مَا تَبْعُدُ قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ  
قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنْ

bamwe muri bo ntibakurikira icyerekezo cy'abandi. Rwose nunakurikira irari ryabo nyuma y'uko ugerwaho n'ubumenyi, ni ukuri uzaba ubaye umwe mu nkozi z'ibibi.

146. Abo twahaye igitabo baramuzi (Muhamadi n'ibigwi bye) nk'uko bazi abana babo. Ndetse mu by'ukuri, bamwe muri bo bahisha ukuri kandi bakuzi.

147. Ukuri nyako ni uguturutse kwa Nyagasan ni wawe, ku bw'ibyo ntukabe mu bashidikanya.

148. Na buri bantu bafite icyerekezo berekeramo (basali), ngaho nimurushanwe mu gukora ibyiza, kandi aho muzaba muri hose **Allah** azabahuriza hamwe mwese (ku munsi w'imperuka). Mu by'ukuri, **Allah** ni Ushobora byose.

149. Kandi aho uzajya hose (ugashaka gusali) ujye werekeza uburanga bwawe ku Musigitu Mutagatifu (Al Ka'aba). Mu by'ukuri, (kuwerekeraho) ni ukuri guturutse kwa Nyagasan

أَتَبَعَتْ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ  
إِنَّكَ إِذَا لَمْ يَرَ الظَّالِمِينَ

الَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا  
يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فِيقًا مِنْهُمْ  
لَيَكُنْ تُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوْلَّيْهَا فَاسْتَبِقُوا  
الْخَيْرَاتِ إِنَّ مَا تَكُونُوا يَاتِي كُلُّهُ اللَّهُ جِئْنَاهُ إِنَّ  
اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

وَمَنْ حَيَثُ خَرَجْتَ فَوْلَ وَجْهَكَ شَطَرَ  
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لِلْحَقِّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ  
بِغَفْلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

wawe. Kandi Allah ntabwo ayobewe ibyo mukora.

150. Kandi n'aho uzajya hose (ugashaka gusali) ujye werekeza uburanga bwawe ku Musigit Mutagatifu (Al Ka'aba). N'aho muzaba muri hose (mugashaka kugaragira) mujye muwerekezaho uburanga bwanyu, kugira ngo abantu batazabagiraho urwitwazo, uretse abakora ibibi muri bo (bazahora mu mpaka). Bityo ntimuzabatinye ahubwo mujye mutinya njye; kugira ngo mbahundagazeho inema zanjye no kugira ngo muyoboke.

151. Ni na ko twaboherejemo Intumwa ibakomokamo, ibasomera imirongo yacu (Qur'an), ibeza (imitima), ibigisha igitabo (Qur'an) n'ubushishozi (imigenzo y'Intumwa n'amategeko y'idini), ndetse ikanabigisha ibyo mutari muzi.

152. Ngaho nimunyibuke (munsingiza); nanjye nzabibuka (nzabazirkana). Kandi munshimire ntimuzampakane.

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجَ فَوْلَ وَجْهَكَ شَطَرَ  
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَقَوْلًا  
وُجُوهَكُمْ شَطَرُهُ لَئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ  
حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوْهُمْ  
وَأَخْشَوْنِي وَلَا تَمْ نَعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ  
تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيهِكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوْ عَلَيْكُمْ  
أَيَّتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ  
وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُنُوا تَعْلَمُوْتَ ﴿١٥١﴾

فَذَكْرُوْنِي أَذْكُرْكُمْ وَأَشْكُرُوْلِي وَلَا  
تَكُفُرُوْنِ ﴿١٥٢﴾

153. Yemwe abemeye! Nimwifashishe ukwihangana n'iswala<sup>28</sup>. Mu by'ukuri, Allah ari kumwe n'abihangana (abatera inkunga ndetse anabafasha gutunganirwa).

154. Kandi ntimukavuge ko abishwe baguye mu rugamba rwo guharanira inzira ya Allah bapfuye, ahubwo ni bazima<sup>29</sup>, nyamara mwe ntimubyiyumvisha.

155. Rwose tuzabagerageza dukoresheje kubateza ubwoba, inzara, kugabanuka kw'imitungo, gupfusha abantu no kurumbya imyaka. Ngaho ha inkuru nziza abihangana.

156. Ba bandi igihe bahuye n'ibyago bavuga bati "Mu by'ukuri, turi aba Allah kandi iwe ni ho tuzasubira."

157. Abo bafite imigisha, impuhwe ndetse n'imbabazi bituruka kwa Nyagasani wabo, kandi ni na bo bayobotse.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِمَّا مُؤْمِنُوا بِالصَّابَرَةِ  
وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَيِّلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ  
أَحْيَاهُ وَلِكُنْ لَا تَشْعُرُونَ

وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْحَوْفِ وَالْجُوعِ  
وَنَقْصٌ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمَرَاتِ وَلَيَشَرِّ  
الصَّابِرِينَ

الَّذِينَ إِذَا أَصَبْتُهُمْ مُّصِيبَةً قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا  
إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهَتَّدُونَ

<sup>28</sup> Reba uko twasobanuye umurongo wa 3 muri iyi Surat.

<sup>29</sup> Ubuzima buvugwa aha ni ubuzima bwa Roho y'uwafuye mu nzira ya Allah, iyo roho ikomeza kubaho mu byishimo.

158. Mu by'ukuri (imisozi ya) Swafa na Maruwa<sup>30</sup> ni bimwe mu bimenyetso bya Allah. Bityo uzakora umutambagiro mutagatifu wa Hija<sup>31</sup> cyangwa Umura<sup>32</sup> kuri iyo nzu (Al Kabat), nta cyo bitwaye kuri we kuyitambagira yombi (iyo misozi ya Swafa na Maruwa). N'uzakora ibyiza ku bushake bwe (amenye ko) Allah ari Ushima, Umumenyi uhebuje.

159. Mu by'ukuri ba bandi bahisha ibimenyetso bigaragara ndetse n'umuyoboro twahishuye, nyuma y'uko tubigaragarije abantu mu gitabo, abo Allah arabavuma ndetse n'abavuma bose bakabasabira imivumo.

160. Uretse abicujije bagakora ibikorwa byiza kandi bakagaragaza (ibyo bari barahishe); abo ni bo nakirira ukwicuza kwabo. Ni Nanjye Uwakira ukwicuza, Nyirimbabazi.

\* إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَابِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ

إِلَيْهِ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطْوَّفَ

بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاءَ كُرْ

عَلَيْهِ ١٥٨

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ

وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَنَا لِلنَّاسِ فِي

الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَعْنِيهُمُ اللَّهُ وَيَعْنِيهُمُ الْلَّعْنُ

١٥٩

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَصَدَّقُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ

أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ التَّوَابُ أَرْحَيمُ

١٦٠

<sup>30</sup> **Swafa na Maruwa:** ni imisozi ibiri yegeranye n'umusigiti mutagatifu wa Maka.

<sup>31</sup> **Hija:** Ni umutambagiro mutagatifu ku ngoro (Al Kaabat) ya Allah iri i Maka, ukahakora ibikorwa n'amagambo runaka hagamijwe kwiyegereza Allah mu gihe cyagenwe.

<sup>32</sup> **Umura:** Ni ugsura ingoro ya Al Kaaba mu gihe icyo ari cyo cyose ukora ibikorwa byagenwe byo kwiyegereza Allah.

161. Mu by'ukuri, abahakanye bakanapfa ari abahakanyi, abo umuvumo wa **Allah** ubariho, uw'abamalayika, ndetse n'uw'abantu bose.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا قُوٰ وَهُمْ كُفَّارٌ  
أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ  
أَجْمَعِينَ ﴿١٦١﴾

162. Bazawubamo ubuziraherezo, ntibazoroherezwa ibihano ndetse nta n'ubwo bazahabwa agahenge.

خَلِيلِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ  
يُنَظَّرُونَ ﴿١٦٢﴾

163. Kandi Imana yanyu ni Imana imwe, nta yindi mana ikwiye gusengwa uretse yo, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

وَالَّهُمْكُمْ إِلَهُ وَحْدَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ  
أَرَحَيمُ ﴿١٦٣﴾

164. Mu by'ukuri, mu iremwa ry'ibirere n'isi, kubisikana kw'ijoro n'amanywa, amato agenda mu nyanja mu bifitiye abantu akamaro, amazi **Allah** amanura mu kirere (imvura) nuko akayahesha isi ubuzima nyuma yo gupfa (gukakara) kwayo, akanayikwizamo inyamaswa z'amoko yose, n'ihindagurika ry'imiyaga n'ibicu bigenzwa hagati y'ikirere n'isi; rwose ibyo ni ibimenyetso (bigaragaza ubumwe bw'Imana, ubushobozi n'ingabire byayo) ku bantu bafite ubwenge.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخِلَافِ  
الْأَيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ  
بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ  
مَلَئِ فَلَحِيَ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ  
كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفُ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ  
الْمُسَحَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَكَيْتِ لِقَوْمٍ  
يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

165. No mu bantu hari abishyiriraho ibigirwamana mu cyimbo cya Allah, bakabikunda urukundo nk'urwo bakunda Allah. Nyamara abemera bakunda Allah kurushaho. Kandi abakoze ibibi (imitima yabo babangikanya Allah) iyo baza kumenya -ubwo bazaba babona ibihano (ku munsi w'imperuka)- ko imbaraga zose ari izo Allah kandi ko mu by'ukuri, Allah ari Nyiribihano bikaze (ntibari kubangikanya Allah).

166. Ubwo abakurikiwe baziakana ababakurikiye (mu kubangikanya Allah), nibamara kubona ibihano, ibyabahuzaga bizavaho.

167. Na ba bandi bakurikiye (ababayobeje) bazavuga bat "Iyaba twari dufite uko twagaruka (ku isi) maze ngo tubihakane nk'uko na bo batwiakanye." Nguko uko Allah azabereka ibikorwa byabo bibe agahinda kuri bo (ndetse no kwicuza), kandi ntibazava mu muriro.

وَمِنَ الْتَّالِيِّ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنَدَادًا  
يُجْبَوْنَهُمْ كَهْبَ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُ حُبَا  
لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ  
الْعَذَابَ أَنَّ الْفُوْرَةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعَذَابِ

إِذْ تَبَرَّا الَّذِينَ أَتَبْعَاهُ مِنَ الَّذِينَ أَتَبَعُوهُ  
وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقْطَعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ

وَقَالَ الَّذِينَ أَتَبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَبْرَأُ  
مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّهُوا فَمَا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ  
أَعْمَالَهُمْ حَسَرَتِ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَرَجِينَ مِنَ  
النَّارِ

168. Yemwe bantu! Nimurye mu biri ku isi byaziruwe kandi byiza, ntimuzanakurikire inzira za Shitani. Mu by'ukuri, yo ni umwanzi wanyu ugaragara.

يَا إِيَّاهَا أَنَّاسُ كُلُّوٌ مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَّا  
طِيبًا وَلَا تَتَّبِعُ خُطُواتِ الشَّيْطَنِ إِنَّهُ لَكُمْ  
عُدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

169. Mu by'ukuri, ibategeka ibibi, ibikozasoni no guhimbira Allah ibyo mutazi.

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوَءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا  
عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾

170. N'ijo babwiwe batii "Nimukurikire ibyo Allah yahishuye", baravuga batii "Ahubwo dukurikira ibyo twasanganye abakurambere bacu." Ese n'ubwo abakurambere babo nta cyo baba bari bazi cyangwa bataranayobotse (bari kuburikira)?

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَتَيْعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ  
نَتَّبِعُ مَا أَفْيَانَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أَوْلَوْكَانَ  
ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾

171. N'urugero rwa ba bandi bahakanye ni nk'urw'ukabukira (inyamaswa) zitumva uretse (kumva) urusaku n'urwamo gusa. (Abo bameze) nk'abatumva, abatavuga ndetse n'abatabona, rwose abo nta bwenge bagira (bwo gukora ibibafitiye umumaro).

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلُ الَّذِي يَنْعُقُ بِمَا  
لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ بِكُمْ عُمُّ فَهُمْ لَا  
يَعْقِلُونَ ﴿١٧١﴾

172. Yemwe abemeye! Murye mu byiza twabafunguriye kandi mushimire **Allah** niba koko ari We wenyine musenga.

بَتَّيْهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُّوْ مِنْ طَيْبَتِ مَا رَزَقَكُمْ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيمَانَ

تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

173. Mu by'ukuri, (**Allah**) yabaziririje (kurya) icyipfushije, ikiremve, inyama y'ingurube n'icyabagiwe ibitari **Allah** (mu mihango y'ibangikanyamana). Ariko uzasumbirizwa (kubera inzara, akarya kuri ibyo) atari ukwigomeka cyangwa kurengera, nta cyaha afite. Mu by'ukuri, **Allah** ni Ubabarira ibyaha, Nyirimpuhwe.

إِنَّمَا حَرَمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَبَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرُ بَاغٍ وَلَا عَادِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

174. Mu by'ukuri, ba bandi bahisha ibyo **Allah** yahishuye mu gitabo, maze bakabigurana igiciro gito, abo nta kindi bashyira mu nda zabo usibye umuriro, kandi ku munsi w'imperuka ntabwo **Allah** azabavugisha, nta n'ubwo azabeza (ibyaha), ndetse bazahanishwa ibihano bibabaza.

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ الْكِتَابِ وَيَشْرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا نَارٌ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُرْزِكُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٤﴾

175. Abo ni bo bahisemo kuyoba babisimbuza kuyoboka, n'ibihano babisimbuza kubabarirwa ibyaha. No ne se ni iki kizabashoboza kwihanganira umuriro?

أُولَئِكَ الَّذِينَ آشَرُوا الصَّلَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمُغْفَرَةِ فَمَا أَصْبَرُهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿١٧٥﴾

176. Ibyo (bihano) ni ukubera ko Allah yahishuye igitabo gikubiyemo ukuri (bakagihakana). Rwose abataravuze rumwe ku gitabo, bari mu mpaka n'ubushyamirane biri kure (y'ukuri).

177. Ibikorwa byiza ntabwo ari ukwerekaza gusa uburanga bwanyu ahagana iburasirazuba n'iburengerazuba (musali); ahubwo ukora ibyiza ni uwemera Allah, umunsi w'imperuka, abamalayika, ibitabo n'abahanuzi; akanatanga umutungo we mu nzira nziza kandi na we awukunze, afasha abo bafitanye isano, imfubyi, abakene, abari ku rugendo (bashiriwe) n'abasaba gufashwa, akabohoza abacakara, agahozaho iswala<sup>33</sup> (anazitunganya uko bikwiye), agatanga amaturo; abuzuza isezerano ryabo igihe basezeranye, abihanganira ubukene, uburwayi ndetse n'igihe urugamba rwakomeye. Abo ni bo bemeye by'ukuri, kandi ni na bo batinyamana (bya nyabyo).

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ

أَخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ١٧٦

\* لَيْسَ الِّرَّأْسُ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ

الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الِّرَّأْسَ مَنْ ءَامَنَ

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ

وَالنَّبِيِّنَ وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُسْنِهِ ذُوِّ الْقُرْبَىِ

وَالْيَتَمَّ وَالْمَسَاكِينَ وَأَبْنَى السَّيْلَ وَالسَّاَلِيْنَ وَفِي

الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَتَى الزَّكَوَةَ

وَالْمُؤْفُرَتِ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي

الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَجِئَنَ الْبَأْسُ أُولَئِكَ الَّذِينَ

صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ١٧٧

<sup>33</sup> Reba uko twasobanuye umurongo wa 3 muri iyi Surat.

178. Yemwe abemeye!  
 Mwategetswe guhorera  
 abishwe<sup>34</sup>; uwigenga agahorerwa  
 uwigenga, umucakara  
 agahorerwa umucakara  
 n'umuntu w'igitsina gore  
 agahorerwa undi w'igitsina gore.  
 Ariko uwagira icyo  
 ababariraho n'umuvandimwe  
 we<sup>35</sup>, (uwiciwe) azayikurikirane  
 mu buryo bwiza, kandi (uwishe)  
 na we azayitange ku neza. Uko  
 ni ukoroherezwa n'impuhwe  
 biturutse kwa Nyagasani wanyu.  
 Uzarengera nyuma y'ibyo  
 (agahora nyuma yo gutanga  
 imbabazi no kwakira  
 impozamarira), azahanishwa  
 ibihano bibabaza.

179. Kandi yemwe abafite  
 ubwenge, kubahiriza itegeko ryo  
 guhora, bibaha ubuzima  
 (ubuzima burabungabungwa  
 bikanatuma abantu batinya  
 kwica). Ibyo ni ukugira ngo  
 mugandukire (**Allah**).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتُبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي  
 الْقَتْلَى لَحْرٌ بِالْحَرٍ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى  
 بِالْأُنْثَى فَمَنْ عَفَى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَإِنَّمَا  
 بِالْمَعْرُوفِ وَدَاءَ إِلَيْهِ يُبَارَّ ذَلِكَ تَحْفِيفٌ مَنْ  
 رَبَّكُمْ وَرَحْمَةً فَمَنْ أَعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ  
 عَذَابٌ أَلِيمٌ

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَّةٌ يَأْوِلِي الْأَلْبَابِ  
 لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

<sup>34</sup> Guhora muri Isilamu (*Qiswaasuu*) bisobanura guhanisha umuntu igihano gisa kandi kinahwanye n'ubugome yakoreye undi, hakurikijwe amategeko ya Isilamu, kandi bikanyura mu nzira y'ubutabera.

<sup>35</sup> Uyu murongo uragaragaza ko hari ubwo hagati mu bantu habaho icyaha cyo kwica ubusanzwe igihano cyacyo ari uko uwishe nawe yicwa mu buryo yishemo, ariko hari ubwo habaho gutanga imbabazi ku wishe, icyo gihe rero iyo uhagarariye uwishwe ababariye uwishé ntiyihorere ahubwo akaka impozamarira, azazikurikirane ku neza, n'usabwa kuzishyura azitange mu buryo bwiza. Ikindi uyu murongo uratugaragariza ko **Allah** yise uwishe umuvandimwe w'uwishwe mu kwemera, bigaragaza ko icaya gikuru icyo ari cyo cyose kitari ibangikanyamana muri Isilamu, kitagira uwagikoze umuhakanyi.

180. Mwategetswe ko igihe umwe muri mwe abona yegereje urupfu kandi hari umutungo afite, ajye atanga irage ku babyeyi<sup>36</sup> no ku bo bafitanye isano ya hafi mu buryo bwiza. (Ibyo) ni ngombwa ku batinya (**Allah**).

181. N'uzarihindura (irage) nyuma yo kuryumva, rwose icyaha kizaba ku barihindura. Mu by'ukuri, **Allah** ni Uwumva bihebuje, Umumenyi wa byose.

182. Ariko uzabona uraga abogamye (abigendereye cyangwa atabigendereye), agakosora irage (kugira ngo rikurikize amategeko ya **Allah**) nta cyaha azaba afite. Mu by'ukuri, **Allah** ni Ubabarira ibyaha, Nyirimpuhwe.

183. Yemwe abemeye! Mwategetswe gusiba nk'uko byari byarategetswe abababanjirije, kugira ngo mugandukire **Allah**.

كُتُبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ حَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلَّوَالِدَيْنَ وَالْأَقْرَبِينَ  
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

فَمَنْ بَدَّلَهُ وَبَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى  
الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ ﴿١٨١﴾

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُؤْمِنٍ جَنَّفَا أَوْ إِثْمًا فَاصْلَحَ  
بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  
﴿١٨٢﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِذَا مَنُوا كُتُبَ عَلَيْكُمُ الْصِّيَامُ  
كَمَا كُتُبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ  
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

<sup>36</sup> Uyu murongo utegeka ugiye gupfa gutanga irage ku babyeyi, wahishuwe mbere y'indi mirongo yo muri Qur'an ikena ibijyanye n'zungura. Nyuma y'aho imirongo y'zungura ihishuriwe yasimbuye itegeko ry'irage ku babyeyi n'abandi bagenerwa umugabane mu izungura, ariko irage risigaraho ku bafitanye isano n'uwananze irage batagenewe umugabane mu izungura.

184. (Icyo gisibo) ni iminsi ibaze. Bityo, uzaba arwaye muri mwe cyangwa ari ku rugendo (ntashobore gusiba, akarya), azuzuze umubare (w'iminsi atasibye) mu yindi minsi. Naho ku batagishoboye gusiba (abasaza n'abarwaye indwara za karande), bazatange incungu yo kugaburira umukene. N'uzatanga ikirenzeho ku bushake bwe, ibyo ni byiza kuri we. Kandi gusiba ni byo byiza kuri mwe iyaba mwari mubizi.

أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ  
مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّهُ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَ وَعَلَى  
الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةً طَاعُمٌ مَسْكِينٌ  
فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنَّ تَصُومُوا خَيْرٌ  
لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾

185. Ukwazi kwa Ramadhani ni ko kwamanuwemo Qur'an, (kugira ngo ibe) umuyoboro ku bantu n'ibimenyetso bigaragara by'umuyoboro (wa Allah) binatandukanya ukuri n'ikinyoma. Ku bw'ibyo, muri mwe uwo uko kwezi kuzasanga azagusibe. N'uzaba arwaye cyangwa ari ku rugendo (gusiba bikamugora, azarye) maze azuzuze umubare (w'iminsi atasibye) mu yindi minsi. Allah abahitiramo ibyoroshye ntabwo abahitiramo ibibagoye. Bityo nimwuzuze umubare (w'iminsi y'igisibo), kandi mukuze Allah kuko yabayoboye kugira ngo mushimire.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ  
هُدَىٰ لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ  
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلِيَصُمُّهُ  
وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّهُ مِنْ  
أَيَّامٍ أُخْرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ  
بِكُمُ الْعُسْرَ وَلَتُكَمِّلُوا الْعِدَّةَ  
وَلَئِنْ كَبَرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَكُمْ  
وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴿١٨٥﴾

186. Kandi abagaragu banjye nibagira icyo bakumbazaho (yewe Muhamadi), (uzabasubize uti) mu by'ukuri njye ndi hafi yabo, nsubiza ubusabe bw'usaba igihe ansabye. Bityo, nibanyumvire bananyizere kugira ngo bayoboke.

187. Muziruriwe kugirana imibonano mpuzabitsina n'abagore banyu mu ijoro ry'igisibo; bo ni umwambaro wanyu namwe mukaba umwambaro wabo. **Allah** yari azi neza ko mwajyaga mwihemukira (murenga ku itegeko mukabonana na bo mwiyibye), nuko yakira ukwicuza kwanyu (aranaborohereza). Ngaho ubu nimuyje mubonana na bo munashake ibyo **Allah** yabageneye (urubyaro). Kandi mujye murya munanywe kugeza igihe mubasha gutandukanya umucyo w'amanywa n'umwijima w'ijoro igihe umuseke utambitse. Maze mwuzuze igisibo kugeza izuba rirenze. Ntimukabonane na bo mu gihe muri mu mwiherero wo kwiyegereza Imana (Itikafu) mu misigit. Izo ni imbago za **Allah** ntimuzazegere. Uko ni ko **Allah** asobanuririra abantu amagambo ye kugira ngo bamugandukire.

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادٍ عَنِّي فِي قَرِيبٍ أَجِيبُ  
دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلَيْسَتْ جِبُوا لِ  
وَلَيَوْمَ مُنُوْبِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الْصِّيَامِ الْرَّفُثُ إِلَى  
نِسَاءٍ كُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ  
لَهُنَّ عِلْمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَافُونَ  
أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ  
فَاقْلُنْ بَكِيرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ  
وَكُلُوا وَاْشْرُبُوا حَتَّىٰ يَبْيَنَ لَكُمُ الْحَيْطُ  
الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ  
أَتَمُوا الْصِّيَامَ إِلَى الْأَيَّلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ  
عَدِيكُفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا  
تَقْرِبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُءَاءِيَّتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ  
يَتَّقَوْنَ

188. Kandi ntimukarye imitungo ya bagenzi banyu mu buryo butemewe (nka ruswa, urusimbi, amahugu...), munayitangaho ruswa mu bacamanza kugira ngo (mubone uko) murya imwe mu mitungo y'abantu mu mahugu kandi mubizi (ko ari ikizira).

189. Barakubaza (yewe Muhamadi) ku byerekeye imboneko z'ukwezi? Vuga uti "Ni ingengabihe ifasha abantu (kumenya gahunda z'ibikorwa) n'ibihe by'umutambagiro mutagatifu." Kandi si byiza kwinjira mu mazu munyuze mu byanzu<sup>37</sup>. Arikorukira ibyiza ni utinya **Allah**. Ahubwo mujye mwinjira mu mazu munyuze mu miryango yayo, munatinye **Allah** kugira ngo mukiranuke.

190. Kandi murwane mu nzira ya **Allah** murwanya ba bandi babarwanya, ariko ntimuzarengere (ngo murwanye abatabarwanya). Mu by'ukuri, **Allah** ntakunda abarengera.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَنَمْ بِالْبَطْلِ  
وَتُدْلِوْا بِهَا إِلَى الْحُكَمَارِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا  
مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٩٦﴾

\* يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلَةِ قُلْ هَيْ مَوَاقِيتُ  
لِلنَّاسِ وَالْحَجَّ وَلَيْسَ الْبَرِّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ  
مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبَرَّ مِنْ أَنْقَرَ ﴿١٩٧﴾ وَأَنْوَأْ  
الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَأَنْقَرُوا اللَّهَ  
عَلَّكُمْ قُلْ حُونَ ﴿١٩٨﴾

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتَلُونَ كُمْ  
وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٩﴾

<sup>37</sup> Mbere ya Isilamu, abakoraga umutambagiro iyo babaga bamaze kwambara imyenda yabugenewe (Ihiramu), ntabwo bashoboraga kongera kwinjira mu mazu mbere yo gusoza igikorwa cy'umutambagiro. Iyo byabaga ngombwa ko bayinjiramo, bahitagamo kunyura mu zindi nzira batanyuze mu muryango.

191. Kandi (ababateye) mubice aho mubasanze hose, munabirukane mu byanyu babameneshejemo (i Maka), kubera ko ibangikanyamana ryabo no kubagirira urwango (Fitina) ari byo bibi kurusha kwica. Ntimuzanabarwanyirize mu musigitu mutagatifu (Al Kabat) keretse ari bo bababanje, ariko nibawubarwanyirizamo muzabice. Icyo ni cyo gihembo cy'abahakanyi.

192. Ariko nibahagarika (kubarwanya), mu by'ukuri (bamenye ko) **Allah** ari Ubabarira ibyaha, Nyirimpuhwe (azabababarira).

193. Munabarwanye (ba bandi babarwanya) kugeza ubwo nta toteza (nta rwango bazongera kubagirira (mwebwe abayisilamu), maze idini ryo kugaragira Imana imwe **Allah** ribe ari ryo riganza. Ariko nibahagarika (kubagirira nabi), icyo gihe nta rwango namba (mugomba kubagirira) usibye abagizi ba nabi (muri bo).

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ وَأَخْرُجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقْتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسَاجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقْتَلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَتَلْتُمُهُمْ فَإِنَّهُمْ كَذَّالِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿١٩١﴾

فَإِنْ أَنْتَ هُوَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩٢﴾

وَقَاتِلُوهُمْ حَقًا لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيُكُونُ الْدِينُ لِلَّهِ فَإِنْ أَنْتَ هُوَ فَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾

194. Ukwazi gutagatifu guhorwa ukwezi gutagatifu<sup>38</sup>, n'ibiziririjwe byose birahorerwa (yo byavogere we ubusugire bwabyo). Bityo, uzabagirira nabi namwe muzamwiture inabi nk'yo yabagiriye. Kandi mugandukire Allah munamenye ko mu by'ukuri Allah ari kumwe n'abamutinya.

195. Munatange mu nzira ya Allah, ariko ntimugashyire ubuzima bwanyu mu kaga. Munakore ibyiza, mu by'ukuri Allah akunda abakora ibyiza.

196. Kandi mutunganye umutambagiro mutagatifu wa Hija na Umura<sup>39</sup> kubera Allah; Ariko nihabaho impamu ituma mutabikomeza (mwari mwabitangiye), muzatange igitambo kiboroheye. Kandi ntimukogoshe imisatsi yanyu kugeza igehe itungo ry'igitambo rigereye aho ribagirwa. Ariko uzaba arwaye muri mwe cyangwa afite ikimubangamiye ku mutwe we (gituma yogosha umusatsi), agomba gutanga incungu yo gusiba, ituro cyangwa se kubaga itungo. N'igehe muzaba mutekanye,

الشَّهْرُ الْحُرْمَنِ يَا الشَّهْرُ الْحَرَامُ وَالْحُرْمَنُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْمُوْمَ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّقْلِكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

وَاتَّمُوا الْحَجَّ وَالْعُمَرَةَ لِلَّهِ فَإِنَّ أَحْسَرَتْهُمْ فَمَا أَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدَىٰ وَلَا تَخْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَعْلَمُ الْهَدَىٰ مَحْلَهُ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِضًا أَوْ يَعْلَمُ أَذْنَى مِنْ رَسِلِهِ فَقِدَيْهُ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمْتُمُوهُنَّ تَمَسَّ بِالْعُمَرَةِ إِلَى الْحَجَّ فَمَا أَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدَىٰ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصَيَامٌ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي الْحَجَّ وَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةً كَامِلَةً ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ

<sup>38</sup> Amezi matagatifu hakurikijwe Kalendari ya Kisilamu ni "Ukwazi kwa karindwi (Rajabu), ukwa cumi na kumwe (Dhul Qaada), ukwa cumi n'abiri (Dhul Hija) n'ukwa mbere (Muharamu).

<sup>39</sup> Reba igisobanuro cy'jambo Umura ku murongo (Ayat) wa 158 muri iyi Surat.

uzaba arangije gukora umutambagiro mutagatifu wa Umura yazaruriwe ibyari biziririjwe kuri we mu gihe ategereje gukora umutambagiro mutagatifu wa Hija, azatange igitambo kimworoheye, naho utazakibona azasibe iminsi itatu akiri mu mutambagiro mutagatifu wa Hija n'iminsi irindwi igihe muzaba mugarutse iwanyu. Iyo ni iminsi icumi yuzuye (mugomba gusiba). Ibyo ni kuri wa wundi umuryango we udatuye i Maka. Kandi mugandukire **Allah**, munamenye ko **Allah** ari Nyiribihano bikaze.

أَهُلُّهُ حَاضِرٍ مَسْجِدُ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوْا  
أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ١٦٧

197. Umutambagiro mutagatifu wa Hija ukorwa mu mezi azwi. Bityo, uzaba yiyemeje kuyakoramo umutambagiro mutagatifu wa Hija, kirazira kuri we gukora imibonano mpuzabitsina, gukora ibyaha ndetse no kujya impaka mu mutambagiro mutagatifu wa Hija. N'icyiza mukoze **Allah** arakimanya. Kandi mutegure impamba, ariko mu by'ukuri impamba nziza ni ugutinya **Allah**. Ngaho nimuntinye, yemwe banyabwenge!

الْحَجُّ أَشْهُرُ مَعْلُومَتٌ فَمَنْ فَرَضَ  
فِيهِتَ لِلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا  
جَدَالَ فِي الْحَجَّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ  
يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الْزَادِ  
الْتَّقْوَى وَأَثْقَلُنَ يَأْتِي الْأَلْبَابِ

198. Nta cyaha kuri mwe kuba mwashaka ingabire za Nyagasani wanyu (gukora ubucuruzi mu gihe cy'umutambagiro mutagatifu). Nimukubuka ku musozi wa Arafati (Arafa), mujye musingiza Allah mugeze ahantu hatagatifu (ahitwa Muzidalifat), munamusingize kubera ko yabayoboye, nyamara mbere yaho mwari mu bayobye.

199. Kandi muhave mukurikire abandi bantu berekeza (Arafa), munasabe Allah imbabazi. Mu by'ukuri, Allah ni Ubabarira ibyaha, Nyirimpuhwe.

200. Nimurangiza imigenzo y'umutambagiro mutagatifu wa Hija, musingize Allah, mumwibuke nk'uko muvuga ibigwi ababyeyi banyu, cyangwa musingize (Allah) cyane kurushaho. No mu bantu hari (abantu b'abangikanyamana) bavuga batu "Nyagasani wacu! Duhe (ibyiza) hano ku isi." Kandi abo nta mugabane (w'ibihembo) bazagira ku munsi w'imperuka.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَعُوا فَضْلًا  
مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفْضَلْتُمْ مِنْ عَرَفَتِ  
فَأَذْكُرُوا اللَّهَ إِنَّهُ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ  
وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَنَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ  
مِنْ قَبْلِهِ لِمَنِ الْصَّالِحُونَ ﴿١٩٨﴾

شَهْ أَفَيْضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ  
وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

١٩٩

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنِسَكَكُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ  
كَذْكُرْكُمْ بَآبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذَكْرًا  
فِيمَنِ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا إِنَّا فِي  
الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ﴿٢٠٠﴾

201. Kandi no muri bo hari abavuga (b'abemera) bati "Nyagasani wacu! Duhe ibyiza hano ku isi no ku munsi w'imperuka (uzaduhe) ibyiza, kandi uzanaturinde ibihano by'umuriro."

202. Abo (basaba batyo) bazagira umugabane (ingororano) mu byo bakoze. Kandi **Allah** ni Ubanguka mu ibarura (ahemba abagaragu be).

203. Munasingize **Allah** mu minsi mbarwa<sup>40</sup>. Ariko uzagira ubwira akahamara iminsi ibiri, nta cyaha kuri we, n'uzatinda (kuva Mina) nta cyaha kuri we, kuri wa wundi utinya **Allah**. Munatinye **Allah** kandi mumenye ko iwe ari ho muzakoranyirizwa.

204. No mu bantu, hari ugushimisha (yewe Muhamadi) kubera imvugo ye (ashaka indonke) z'ubuzima bw'isi, anatangaho **Allah** umuhamya mu biri mu mutima we, kandi nyamara ari we munyempaka wa cyane (umwanzi ukomeye w'ubuyisilamu).

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا  
حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَنَا عَذَابَ  
النَّارِ

أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ  
سَرِيعُ الْحِسَابِ

\* وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ  
تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ  
تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعِجِّلُكَ قَوْلَكَ فِي  
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشَهِّدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي  
قَلْبِهِ وَهُوَ أَكْبَرُ الْخَصَامِ

<sup>40</sup> Iminsi mbarwa: ni iminsi itatu y'ukwezi kwa cumi n'abiri (Dhul Hijja) kw'ikirangaminsi cyu Kisilamu gishingiye ku mboneka z'ukwezi, ari yo matariki ya 11,12 na 13. Abagiye gukora umutambagiro mutagatifu (Abahajji) bamara ahitwa Mina.

205. N'yo ahindukiye (yewe Muhamadi avuye iwawe), azenguruka mu isi ayikwizamo ubwangizi, akanangiza ibihingwa n'amatungo. Kandi **Allah** ntakunda ubwangizi.

وَإِذَا تَوَلَّ سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسَدَ فِيهَا  
وَيُهَمِّكَ الْحُرْثَ وَالنَّسَلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ  
الْفُسَادَ ﴿٢٥﴾

206. N'yo abwiwe ati “Tinya **Allah**”, ubwibone bumugusha mu cyaha. Ubwo rero, umuriro wa Jahanamu uramuhagije (kumukosora). Kandi mu by'ukuri, ni na bwo buruhukiro bubi.

وَإِذَا قِيلَ لَهُ أَتَقَ اللهُ أَخْذَتْهُ الْعَزَّةُ بِالْإِثْمِ  
فَحَسَبُهُ وَجَهَنَّمُ وَلَيْسَ الْمَهَادُ ﴿٢٦﴾

207. No mu bantu, hari abitanga bashaka ishimwe rya **Allah**, kandi **Allah** ni Nyiribambe ku bagaragu be.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ أُبْتَغِيَةً  
مَرْضَاتِ اللهِ وَاللهُ رَءُوفٌ بِالْعَبَادِ ﴿٢٧﴾

208. Yemwe abemeye! Nimwinjire mu buyisilamu nyabyo (mwubahiriza amategeko n'amabwiriza byabwo), kandi ntimuzakurikire inzira za Shitani. Mu by'ukuri, ni umwanzi wanyu ugaragara.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءاْمَنُوا ادْخُلُوا فِي الْسَّلَامِ  
كَافَةً وَلَا تَنْبِغُوا حُطُوطَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ  
لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٨﴾

209. Nimuteshuka (ku kuri) nyuma yo kugerwaho n'ibimenyetso bigaragara (bya **Allah**), mumenye ko mu by'ukuri, **Allah** ari Umunyacyubahiro bihebuje, Nyirubugenge buhambaye.

فَإِنْ زَلَّتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَنِي تُكُمُ الْبَيْنَتُ  
فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٩﴾

210. Ese hari ikindi bategereje kitari uko Allah abageraho mu gicucucu cy'ibicu by'umweru (ku munsi w'imperuka aje gucira abantu imanza), cyangwa Abamalayika (babakuramo roho), maze urubanza (rwabo) rugacibwa? Kandi kwa Allah ni ho ibintu byose bizasubizwa.

211. Baza bene Isiraheli uti "Ni ibimenyetso bingahe bigaragara twabahaye (mu bitabo byabo bakabihakana)?" Kandi usimbuza inema ya Allah (idini rya Isilamu) nyuma y'uko imugeraho (Allah azamuhana). Mu by'ukuri, Allah ni Nyiribihano bikaze.

212. Abahakanye batakiwe ubuzima bw'isi, banannyega abemeye, nyamara abagandukira (Allah) bazaba bari mu rwego rwo hejuru y'urwabo ku munsi w'imperuka, kandi Allah aha amafunguro uwo ashaka nta kugera.

213. (Mu ntangiriro) abantu bari umuryango umwe (mu kwemera Allah, nyuma baza gutandukana), nuko Allah yohereza abahanuzi (kugira ngo) batange inkuru nziza banaburire, anabahishurira

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلْلٍ مِّنَ  
الْغَمَاءِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ  
تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٢٦﴾

سَلَّبَنِي إِسْرَئِيلَ كَمَّا أَتَيْنَاهُمْ مِّنْ إِيمَانٍ بَيْنَهُ وَمَنْ  
يُبَدِّلُ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ  
شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٦﴾

رُزِّيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ  
الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ آتَقْرَأُوا فَوَقَهُمْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ  
وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٦﴾

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ  
مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ  
بِالْحُقْقِ لِيَحُكُمُ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا  
أَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ

ibitabo bikubiyemo ukuri kugira ngo bikiranure abantu ku byo batavugaho rumwe. Nta n'abandi babishyamiranyeho uretse ababihawe (Abayahudi n'Abanaswara) nyuma yo kugerwaho n'ibimenyetso bigaragara (Intumwa Muhamadi) kubera urwango hagati yabo. Nuko Allah ku bubasha bwe ayobora abemeye mu nzira y'ukuri (abandi) batavuzeho rumwe. Kandi Allah ayobora uwo ashaka inzira igororotse.

214. Ese mucyeka ko muzinjira mu ijuru mutabanje kugerwaho n'ibigeragezo nk'ibyabaye kuri ba bandi babayeho mbere yanyu? Bagezweho n'amakuba n'ingorane banahindishwa umushyitsi kugeza ubwo Intumwa n'abemeye bavuze bat "Ni ryari inkunga ya Allah izaza?" Mumenye ko mu by'ukuri inkunga ya Allah iri hafi.

215. Barakubaza (yewe Muhamadi) ibyo batangamo (ituro). Vuga uti "Ibyiza mutanze mujye mubiha ababyeyi, abo mufitanye isano, imfubyi, abakene n'abari ku rugendo (bashiriwe). Kandi ibyiza

الْبَيْتُ بَغْيًا بِنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا  
لِمَا أَخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحِقْقِ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ  
يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿٦٣﴾

أَمْ حَسِبُوكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثُلُ  
الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ  
وَرُزِلُوا حَقًّا يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا  
مَعَهُ وَمَتَى نَصَرَ اللَّهُ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٦٤﴾

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ  
فَلِلَّهِ الْدِينُ وَالْأَقْرَبُينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ  
السَّبِيلِ وَمَا تَقْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ  
عَلَيْهِمْ ﴿٦٥﴾

mukora, mu by'ukuri **Allah** arabizi neza."

216. Mwategetswe kurwana mu nzira ya **Allah** n'ubwo mutabyishimira. Nyamara hari igihe mushobora kwanga ikintu ari cyo cyiza kuri mwe. Hari n'igihe mushobora gukunda ikintu kandi ari cyo kibi kuri mwe. **Allah** ni We uzi (ibibafitiye akamaro) naho mwebwe nta byo muzi.

217. Barakubaza (Abahakanyi) ku byerekeye imirwano mu mezi matagatifu. Vuga uti "Kuyarwanamo ni icyaha gikomeye, ariko gukumira abantu kugana inzira ya **Allah**, kumu hakana, kubuza (abantu) kugera ku musigitu mutagatifu (Al Ka'abat) no kuwirukanamo abawuturiye ni cyo cyaha gikomeye cyane imbere ya **Allah**. Kandi kubangikanya **Allah** (mukora) birahambaye kurusha kwica (kurwana mu mezi matagatifu)." Ntibazahwema kubarwanya kugeza ubwo babakuye mu idini ryanyu, nibabishobora. N'uzava mu idini rye muri mwe agapfa ari umuhakanyi, abo ibikorwa byabo bizaba imfabusa ku isi no ku munsi w'imperuka. Kandi

كُتُبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ  
أَن تَكُونَ هُوَ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن  
تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ  
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

يَعْلَمُونَكُمْ عَنِ الْشَّهِيرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ  
فِيهِ كَيْرٌ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ  
بِهِ وَالْمَسِيْدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ  
أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ  
وَلَا يَرَأُونَ يُقْتَلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرْدُو كُمْ عَنْ  
دِينِكُمْ إِنْ أَسْتَطَاعُو وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ  
دِينِهِ فَيَمْتُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأَوْلَئِكَ حِيطَتْ  
أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَوْلَئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧﴾

abo ni abo mu muriro,  
bazawubamo ubuziraherezo.

218. Mu by'ukuri, ba bandi bemeye n'abimutse (kubera idini ryabo) bakanaharanira inzira ya **Allah**, abo ni bo bizeye kuzabona impuhwe za **Allah**, kandi **Allah** ni Ubabarira ibyaha, Nyirimpuhwe.

219. Barakubaza ku byerekeye ibisindisha n'urusimbi. Vuga uti "Muri byombi harimo ingaruka zikomeye n'inyungu ku bantu<sup>41</sup>, ariko ingaruka zabyo ni zo zikomeye kurusha inyungu zabyo. Baranakubaza ibyo batanga (igipimo cy'ituro). Vuga uti "Ni ibisagutse (ku byo mukeneye)." Uko ni ko **Allah** abasobanurira amategeko kugira ngo mutekereze (ku bibafitiye akamaro),

220. ku isi no ku munsi w'imperuka. Baranakubaza ku byerekeye imfubyi. Vuga (yewe Muhamadi) uti "Kuzigirira neza ni byo byiza, kandi nimunavanga (ibyanyu n'ibyazo), ni abavandimwe banyu (ntimuzabahemukire). Kandi **Allah** azi uwangiza n'utunganya. N'iyo **Allah** abishaka yari kubagora

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَهَدُوا  
فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ  
وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

\* يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا  
إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِنْهُمْ مَا  
أَكَبَرُ مِنْ نَقْعَهُمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا  
يُنِفِّقُونَ قُلِ الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ  
الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَفَكَّرُونَ

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَمَمِ قُلْ  
إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تَخْنَطُهُمْ  
فَلَا خَوْنَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ  
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ

<sup>41</sup> Mu ntangiriro za Isilamu, inzoga n'urusimbi byari bitarazirizwa ariko nyuma y'uko hahishuwe umurongo wa 90 wo muri Surat ul Maidat, byahise bizirizwa burundu.

(ababuza kuvanga ibyanyu n'iby'imfubyi). Mu by'ukuri, Allah ni Umunyacyubahiro bihebuje, Nyirubugenge buhambaye."

221. Ntimuzarongore ababangikanyamanakazi keretse babanje kwemera (Allah), kandi rwose umuja w'umwemera aruta umubangikanyamanakazi (ufite ubwigenge) n'ubwo yaba ahebuje (mu bwiza). Ndetse ntimuzashyingire ababangikanyamana keretse babanje kwemera, kandi rwose umucakara w'umwemera aruta umubangikanyamana n'ubwo yaba abashimisha (mu bwiza). Abo (ababangikanyamana) bahamagarira kugana umuriro, naho Allah agahamagarira kugana ijuru no kubabarirwa ibyaha ku bushake bwe, anasobanurira abantu amategeko ye kugira ngo bibuke.

222. Baranakubaza (yewe Muhamadi) ku byerekeranye n'imihango y'abagore, vuga uti "Ni ikintu kibangamye." Bityo mujye mwitarura abagore mwirinda gukorana na bo imibonano mpuzabitsina kugeza igihe baviriye mu mihango. Nibamara kuyivamo bakisukura, muzabonane na bo munyuze aho Allah yabategetse.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنْ<sup>١</sup>  
وَلَآمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَاتِهِ وَلَوْ  
أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا  
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ  
أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَلَهُمْ يَدْعُونَ إِلَى  
الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيَبْيَسُونَ إِلَيْكُمْ  
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ<sup>٢٦٦</sup>

وَسَأَلُوكُنَّا عَنِ الْمَحِيطِ قُلْ هُوَ ذَي فَاعْتَزَلَ<sup>١</sup>  
النِّسَاءَ فِي الْمَحِيطِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ  
يَطْهَرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأَقْلُوْهُنَّ مِّنْ حَيْثُ أَمْرَكُمْ  
اللَّهُ أَعْلَمُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ<sup>٢٦٦</sup>

Mu by'ukuri, **Allah** akunda abicuza akanakunda abisukura.

223. Abagore banyu ni imirima yanyu. Ngaho nimujye mu mirima yanyu uko mushaka<sup>42</sup>, muniteganyirize (ibyiza) ndetse munagandukire **Allah**. Kandi rwose mumenye ko muzahura na We. Unageze (yewe Muhamadi) inkuru nziza ku bemeramana.

224. Ntimuzakoreshe izina rya **Allah** mu ndahiro zanyu nk'urwitwazo rwo kutagira ineza, kudatinya (**Allah**) no kutunga abantu. Kandi **Allah** ni Uwumva bihebuje, Umumenyi uhebuje.

225. **Allah** ntabahora indahiro murahira mudakomeje, ahubwo abahora izo mwagambiriye mu mitima yanyu (ntimuzubahirize). Kandi **Allah** ni Ubabarira ibyaha, Udahaniraho.

226. Abarahirira kutazakorana imibonano mpuzabitsina n'abagore babo, bemerewe gutegereza kugeza ku mezi ane, nibisubiraho (mbere y'icyo gihe),

سَأُوكِمْ حَرَثٌ لَكُمْ فَاقْوَهُ حَرَثُكُمْ أَذَى  
شَتَّمْ وَقَدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْكُوْهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا  
وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ  
سَمِيعٌ عَلَيْمٌ ﴿٢٤﴾

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي إِيمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ  
بِمَا كَسَبْتُ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٥﴾

لِلَّذِينَ يُقْلِنُونَ مِنْ سَبِيلِهِمْ تَرْبُضُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ  
فَإِنْ فَاءُو وَفِإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٦﴾

<sup>42</sup> Imirima ni ahantu umuntu abiba imbuto zikamera. Bityo **Allah** yagereranyije igitsina cy'umugore nk'umurima kuko ari ahashyirwa intanga ngabo zikazavamo abana; bityo ntibyemewe gukorera imibonano mpuzabitsina ahandi hatari aho.

mu by'ukuri, **Allah** ni Ubabarira ibyaha, Nyirimpuhwe,

227. Ariko nibiyemeza ubutane (batisubiyeho mbere y'icyo gihe), mu by'ukuri, **Allah** ni Uwumva bihebuje, Umumenyi uhebuje.

228. N'abagore bahawe ubutane bategereza igihe cy'imihango inshuro eshatu (mbere y'uko bashakwa n'abandi bagabo), nta n'ubwo bemerewe guhisha ibyo **Allah** yaremye muri nyababyeyi zabo (inda cyangwa imihango), niba koko bemera **Allah** n'umunsi w'imperuka. Kandi abagabo babo ni bo bafite uburenganzira bwo kubagarura muri icyo gihe niba bagamije ubwiyunje. Na bo (abo bagore) bafite uburenganzira ku bagabo babo nk'ubwo abagabo babafiteho ku neza, ariko abagabo bafite urwego rusumbye urwabo. Kandi **Allah** ni Nyiricyubahiro bihebuje, Nyirubugenge buhambaye.

229. Ubutane (bwemerera umugabo gusubirana n'umugore we) ni inshuro ebyiri, nyuma yaho (nyuma ya buri butane) ni ugusubirana bakabana ku neza (uko bikwiye), cyangwa gutandukana ku neza. Nta n'ubwo (abagabo)

وَإِنْ عَزَمُوا أَطْلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِ ﴿٢٧﴾

وَالْمُطْلَقُتُ يَرْبَصُ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةٌ قُرُونٌ وَلَا  
يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمُنَ مَا حَقَّ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ  
كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ  
بِرَدَّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مُشْلُّ  
الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرَّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ  
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾

الْأَطْلَاقُ مَرَّاتٌ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ  
بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا  
عَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَا يُقْيِيمَا  
حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خَفْتُمْ أَلَا يُقْيِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا

mwemerewe kugira icyo mwisubiza mu byo mwabahaye (abagore), keretse bombi (umugabo n'umugore) batinya kutubahiriza imbago za Allah. Nimutinya ko batazubahiriza imbago za Allah, nta cyaha kuri bombi kuba umugore yagira icyo atanga (asubiza inkwano) kugira ngo yicungure (asaba ubutane). Izo ni imbago za Allah, ntimukazirengere. Kandi abarengera imbago za Allah, abo ni bo nkozi z'ibibi.

230. Kandi namusenda (kunshuro ya gatatu), icyo gihe ntabwo azaba amuziruriwe nyuma yaho kugeza ubwo ashyingiranywe n'undi mugabo. Uwo (mugabo) wundi na we namusenda, nta cyaha kuri bombi kuba basubirana (n'umugabo wa mbere) niba bizeye kubahiriza imbago za Allah. Kandi izo ni imbago za Allah agaragariza abantu basobanukiwe.

231. Kandi nimusenda abagore maze bakegerez irangira ry'igihe cyabo<sup>43</sup>, muzabagarure ku neza cyangwa mubasende ku neza. Ntimukanabagarure mugamije kubagirira nabi

جَنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَدُتُ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا  
تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمْ

الظَّالِمُونَ

فَإِن طَلَقَهَا فَلَا تَحْلُلْ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَقِّ تَنِكِحَ زَوْجًا  
غَيْرَهُ فَإِن طَلَقَهَا فَلَا جَنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا  
إِنْ طَلَّنَا أَن يُقْيِمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ  
بِبَيْنِهَا الْقَوْمَ يَعْلَمُونَ

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا يَغْنَ أَجَاهِنَّ  
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ  
وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ

<sup>43</sup> Igihe cyabo kigamijwe ni ukuba umugore yahawe n'umugabo we ubutane, akaguma mu rugo igihe cy'imihango itatu, cyangwa akamara amezi atatu ku batari bajya mu mihangon'abatakiyijamo. Naho yaba atwite akabanza akabyara.

mukaba murengereye. Uzakora ibyo azaba yihemukiye. Kandi ntimukagire amategeko ya Allah igikinisho. Munibuke ingabire za Allah kuri mwe, n'ibyo yabahishuriye mu gitabo (Qur'an) n'imigenzo y'Intumwa abaheramo inyigisho. Bityo, mugandukire Allah munamenye ko Allah ari Umumenyi wa byose.

232. Kandi igihe muzasenda abagore, bakarangiza igihe cyabo, ntimuzababuze (yemwe bahagararizi b'abagore) gusubirana n'abagabo babo (ku masezerano mashya) igihe babyumvikanyeho ku neza. Ibyo ni inyigisho ku wemera Allah n'umunsi w'imperuka muri mwe. Ibyo ni byo byiza binasukuye kuri mwe, kandi Allah ni We uzi (ibibafitiye akamaro) naho mwe ntabyo muzi.

233. Ababyeyi bonsa abana babo imyaka ibiri yuzuye k'ushaka kuzuza igihe cyo konsa. Kandi se w'umwana ategetswé kugaburira no kwambika abagore (bahawé ubutane) ku buryo bwiza. Kandi nta muntu utegekwa gukora ibyo adashoboye. Nyina w'umwana ntagomba kugirirwa nabi kubera umwana we, ndetse

فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَخَذُوا مِنْ آيَاتِ اللَّهِ هُرْفًا  
وَإِذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ  
الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةَ يَعْظِمُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣﴾

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا يَغْنِ أَجَاهُنَّ فَلَا  
تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحُنَّ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضُوا  
بِيَنْهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ  
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكِيٌّ لَكُمْ  
وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْمَلُونَ ﴿٢٣﴾

\*وَالْوَلَدَاتُ يُرْضِعُنَّ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ  
أَرَادَ أَنْ يُتَمَّرِّزَ رَضَاعَةً وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ وِرْزَقُهُنَّ  
وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا  
وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَلِلَّدَّةِ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ  
بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثَ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ اِفْصَالًا

na se w'umwana ntazagirirwe nabi kubera umwana we. Kandi n'umuzungura wa se w'umwana afata inshingano nk'iz'uwo azunguye. Baramutse bashaka gicutsa (mbere y'imyaka ibiri) ku bwumvikane bwabo no kujya inama nta cyaha kuri bo. Kandi nibashaka konkerezwa abana babo, nta cyaha kuri bo igihe batanze ibyo bumvikanye (n'ababonkereza) ku neza. Bityo mugandukire **Allah** kandi mumenye ko mu by'ukuri, **Allah** ari Ubona bihebuje ibyo mukora.

234. N'abazapfa muri mwe bagasiga abagore, abo bagore bajye baguma mu ngo zabo amezi ane n'iminsi icumi. Nibarangiza igihe cyabo, nta cyaha kuri mwe (ababahagarariye) baramutse bagize ibyo bakora (nko gusohoka mu ngo, kwishyiraho imitako ndetse no gushakwa) mu buryo bwiza. Kandi **Allah** ni Uzi byimazeyo ibyo mukora.

235. Kandi nta cyaha kuri mwe kuba mwaca amarenga murambagiza abagore (bapfakaye n'abahawe ubutane bwa burundu batararangiza igihe cyabo cyo kuguma mu ngo) cyangwa mukabihisha mu mitima yanyu, **Allah** azi neza ko muzabatekerezaho. Cyakora

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَوُّفٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ  
أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرِضُوهُنَّا أَوْ لَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا  
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَقْوِا اللَّهَ وَأَعْمَلُوا  
أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ أَزْوَاجًا يَرَبَّصُنَ  
إِنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغُنَ  
أَجَاهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي  
أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَيْرٌ

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ  
خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكَنَّتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عِلْمَ اللَّهِ  
أَنَّكُمْ سَتَذَكُرُونَ هُنَّ وَلَكِنْ لَا  
تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا

ntimuzagire isezerano mubaha mu ibanga (mugamije ubusambanyi cyangwa kwemeranywa gushyingiranwa igihe bategereza kitararangira), keretse kuba mwavuga ijambo ryiza (rimwumvisha ko umugore nka we agikenewe n'abagabo). Kandi ntimugakore isezerano ryo gushyingiranwa kugeza igihe cyategetswe (abagore bagomba gutegereza) kirangiye. Munamenye ko **Allah** azi neza ibiri mu mitima yanyu; bityo mwirinde kunyuranya n'ibyo yabategetse, munamenye ko mu by'ukuri, **Allah** ari Ubabarira ibyaha, Uduhaniraho.

236. Nta cyaha kuri mwe muramutse muhaye abagore ubutane mutarakorana na bo imibonano mpuzabitsina, cyangwa mutarabagenera inkwano, ariko mujye mugira icyo mubaha cyabanezeza. Uwishoboye (amunezeze) mu buryo bukwiye bijyanye n'ubushobozi bwe ndetse n'umukene abikore bijyanye n'ubushobozi bwe; ibyo ni inshingano ku bakora ibyiza.

237. Nimunabaha ubutane mbere y'uko mukorana imibonano mpuzabitsina na bo kandi mwari mwarabageneye inkwano, mutegetswe kubaha

وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ الْنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَجْلِعَ  
الْكِتَابَ أَجْلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي  
أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ

حَلِيمٌ ٢٣٥

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ  
تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فِرِضَةً  
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسَعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ  
قَدَرُهُ وَمَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ٢٣٦

وَلَا نَطَّلَقُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ  
فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فِرِضَةً فَصَفْ مَا فَرَضْتُمْ

icya kabiri cy'izo nkwano, keretse bazibarekeye cyangwa ufite ububasha ku isezerano ryo gushyingiranwa (umugabo watanze ubutane) akazirekera umugore (zose). Kandi kuba mwabababarira (bamwe muri mwe bakazirekera bagenzi babo) ni byo byegereye kugandukira **Allah**. Ntimukanibagirwe inea (mwagiranye, muhana impano) hagati yanyu. Mu by'ukuri, **Allah** ni Ubona bihebuje ibyo mukora.

إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا لِذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ  
النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَوْ بُلْتَقَوَىٰ وَلَا تَنْسَوْا  
الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

٢٣٧

238. Mujye muhozaho iswala (z'itegeko)<sup>44</sup>, by'umwihariko iswala yo hagati (al Aswir). Kandi mujye muhagarara (mu iswala) mwibombaritse imbere ya **Allah**.

حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوةِ الْوَسَطِيِّ  
وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

٢٣٨

239. N'igihe muzaba mufite ubwoba (mutinya umwanzi), mujye mukora iswala<sup>45</sup> mugenda n'amaguru cyangwa muri ku bigenderwaho. Igihe mutekanye, mujye musingiza **Allah** (musali) nk'uko yabigishije ibyo mutari muzi.

فَإِنْ خَفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكَبًا نَّا فَإِذَا آمَنْتُمْ  
فَادْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَمْتُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا  
تَعْلَمُونَ

٢٣٩

240. N'abazapfa muri mwe bagasiga abagore, bajye (basiga) umurage (ugaragaza ibizatunga) abagore babo mu gihe kingana n'umwaka badasohowe (mu ngo zabo). Ariko nibava mu ngo zabo

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّنُ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ  
أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِلأَزْوَاجِ هُمْ مَتَّعًا إِلَى  
الْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجَنَ فَلَا جُنَاحَ

<sup>44</sup> Reba uko twasobanuye umurongo wa 3 muri iyi Surat.<sup>45</sup> Reba uko twasobanuye umurongo wa 3 muri iyi Surat.

عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ  
مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

٢٤٦

ku bushake, nta cyaha kuri mwe (abazungura) baramutse bagize ibyo bakora igihe cyose bitanyuranyije n'amategeko (nko kuba bashaka abagabo mbere y'uko umwaka urangira).<sup>46</sup>  
 Kandi **Allah** ni Umunyacyubahiro bihebuje, Nyirubugenge buhambaye

وَلِمَطْلَقَتِ مَتَّعٍ بِالْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى  
الْمُتَّقِينَ

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ إِيَّاهُ  
أَعْلَمُكُمْ تَعْقِلُونَ

\*أَمْرَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَرِهِمْ وَهُمْ  
أُلُوفٌ حَذَرُ الْمَوْتَ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوْتَوْثَمٌ  
أَحِيَّهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ  
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ

٢٤٣

241. N'abagore bahawe ubutane bahabwe imperekeza mu buryo bwiza. Ibyo ni inshingano ku (bagabo) batinyamana.

242. Uko ni ko **Allah** abasobanurira amategeko ye kugira ngo musobanukirwe (mushyire mu gaciro).

243. Ese ntiwamenye (yewe Muhamadi) inkuru y'abantu bavuye mu ngo zabo ari ibihumbi bahunga urupfu? Maze **Allah** akababwira ati “Ngaho nimupfe” (maze bahita bapfira icyarimwe), nuko nyuma yaho akabazura (kugira ngo buzuze igihe cyo kubaho kwabo, binababere isomo kandi bicuze). Mu by'ukuri, **Allah** ni Nyiringabire ku bantu, nyamara abenshi mu bantu ntibashimira.

<sup>46</sup> Itegeko rivugwa muri uyu murongo ryo kuba umugore wapfushije umugabo agomba kuguma mu rugo rw'umugabo we umwaka wose, ryasimbuwe n'itegeko rivuga ko umugore wapfushije umugabo agomba kuguma mu rugo rw'umugabo we mu gihe cy'amezi ane n'iminsi icumi, nkuko rigaragara mu murongo wa 234 muri iyi Surat.

244. Munarwane mu nzira ya Allah, kandi mumenye ko Allah ari Uwumva bihebuje, Umumenyi uhebuje.

وَقَدْ تُلِّوْ فِي سَيِّلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ  
عَلَيْهِ ﴿٤٤﴾

245. Ni nde waguriza Allah inguzanyo nziza (gutanga umutungo mu bikorwa byiza) maze akazayimuhembera ayikubye inshuro nyinshi? Allah ni We utanga bike akanatanga byinshi. Kandi iwe ni ho muzagarurwa.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا  
فَإِنْصَافَهُ لَهُ أَضَعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ  
يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٤٥﴾

246. Ese (yewe Muhamadi) ntiwamenye inkuru y'ibikomerezwa muri bene Isiraheli (babayeho) nyuma ya Musa, igihe babwiraga umuhanuzi wabo (Samuel) bati "Twimikire umwami (watuyobora) kugira ngo turwane mu nzira ya Allah. Arababwira ati "Ese ntimushobora kwanga kurwana muramutse mubitegetswe? Baravuga bati "Ni iki cyatubuza kurwana mu nzira ya Allah kandi twarameneshejwe mu ngo zacu, tukanatandukanywa n'urubyaro rwaci?" Nuko aho bategekewe kurwana, bahunze urugamba uretse bake muri bo. Kandi Allah azi neza abanyamahugu.

أَمْ تَرِإِلَى الْمَلَائِكَةِ إِنْ بَقِيَ اسْرَاءِيلَ مِنْ بَعْدِ  
مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَحْنِي لَهُمْ أَبْعَثْ لَنَا  
مَلِكًا نُقَاتِلُ فِي سَيِّلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ  
عَسِيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَا  
نُقَاتِلُ قَاتِلُو وَمَا لَنَا أَلَا نُقَاتِلُ فِي سَيِّلِ  
اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَرِنَا وَأَبْنَائِنَا  
فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْ إِلَّا  
قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ بِالظَّالِمِينَ ﴿٤٦﴾

247. Maze Umuhanuzi wabo arababwira ati "Mu by'ukuri, **Allah** abimikiye Twalutu (Sawuli) ngo ababere umwami. Baravuga bati "Ni gute Twalutu yatubera umwami kandi ari twe dukwiye ubwami kumurusha, ndetse ataranahawe ubukire? (Umuhanuzi wabo) aravuga ati "Mu by'ukuri, **Allah** yamubahitiyemo anamwongererera ubumenyi buhagije n'imbaraga z'umubiri." Kandi **Allah** agabira ubwami bwe uwo ashaka. Ndetse **Allah** ni Nyiringabire zagutse, Umumentyi uhebuje.

248. Nuko umuhanuzi wabo arababwira ati "Mu by'ukuri, ikimenyetso cy'ubwami bwe ni uko azabazanira isanduku iteruwe n'abamalayika irimo ikimenyetso kibaha ituze riturutse kwa Nyagasani wanyu inarimo bimwe mu byasizwe n'abo mu muryango wa Musa n'uwa Haruna (Aroni). Mu by'ukuri, muri ibyo harimo ikimenyetso kuri mwe, niba koko muri abemera.

249. Nuko Twalutu amaze guhagurukana ingabo arazibwira ati "Mu by'ukuri **Allah** yabahaye ikigeragezo cy'umugezi (muzambuka). Bityo

وَقَالَ لَهُمْ نَيْسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْحُسْنِ وَاللَّهُ يُؤْتِ مُلْكَهُ وَمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ ﴿٤٦﴾

وَقَالَ لَهُمْ نَيْسَهُمْ إِنَّهَا آيَةٌ مُّلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ أَتَابُوتٌ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ إِلَّا مُوسَى وَإِلَّا هَرُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيَسْ

uzawunywaho ntazaba ari mu ngabo zanje. Naho utazawunywaho ndetse n'uzanywaho urushyi rumwe rw'ikiganza bazaba mu ngabo zanje." Nuko bawunywaho usibye bake muri bo. (Twalutu) amaze kuwambuka we n'abemeye hamwe na we baravuga bati "Uyu munsi nta bushobozi dufite bwo guhangana na Jalutu (Goliyati) n'ingabo ze." Nuko ba bandi bizera ko bazahura na Allah baravuga bati "Ni kangahe itsinda rito ryatsinze itsinda rinini ku bushake bwa Allah?" Kandi Allah ari kumwe n'abihangana.

250. Nuko ubwo basakiranaga na Jalutu (Goliyati) n'ingabo ze, baravuze bati "Nyagasani wacu! Duhundagazeho ukwihangana, unakomeze ibirenge byacu (dushikame mu birindiro ntiduhunge), unadushoboze gutsinda abahakanyi."

251. Nuko barabanesha ku bushake bwa Allah, maze Dawudi yica Jalutu, Allah anamugabira ubwami n'ubushishozi, anamwigisha ibyo ashaka. Kandi rwose iyo Allah ataza gukoresha abantu (baharanira ukuri) mu gukumira abandi (abagizi ba

مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ أَغْتَرَفَ عُرْفَةً بِسَدِّهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَيْلَأً مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاءَوْزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ ءَامُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَاهِ الْوَتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظْنُونَ أَنَّهُمْ مُلَكُوْنَا اللَّهُ كَمَنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فَعَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَاهِ الْوَتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِعْ عَلَيْنَا صَبَرَا وَثَبَّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

فَهَرَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاؤُودُ جَاهِلُوتَ وَهَاتُهُ اللَّهُ الْمَلِكُ وَالْحَكِيمَةَ وَعَلَمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتْ

nabi) isi yari kwangirika. Ariko Allah ni Nyiringabire ku biremwa byose.

الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٥﴾

252. Ayo ni amagambo ya Allah tugsomera (yewe Muhamadi) mu kuri. Kandi rwose, uri mu ntumwa (za Allah).

تِلْكَ ءَايَاتُ اللَّهِ نَّشَوْهَا عَلَيْكَ  
بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لِمِنَ الْمُرْسَلِينَ

٢٥١

الْبَقْرَةُ

253. Izo ntumwa, zimwe muri zo twazirutishije izindi. Muri zo, hari izo Allah yavugishije, anazamura izindi mu nzego (icyubahiro). Kandi twahaye Isa (Yesu) mwene Mariyamu ibitangaza na Roho Mutagatifu (Malayika Gaburiheli) ngo amushyigikire. Kandi iyo Allah aza kubishaka abaje nyuma yazo ntibari kugirana amakimbirane nyuma yuko bagerwaho n'ibimenyetso, ariko ntibumvikanye. Muri bo hari abemeye (Allah), abandi barahakana. Kandi iyo Allah aza kubishaka ntibari kugirana amakimbirane, ariko Allah akora ibyo ashaka.

\* تِلْكَ الرَّسُولُ فَضَّلَنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ  
مَنْ كَلَمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا  
عِيسَى ابْنَ مَرِيمَ الْبَيْتَ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ  
الْقُدُّسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أُقْتَلَ الَّذِينَ مِنْ  
بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيْتَ  
وَلَكِنَّ أَخْتَلَفُوا فِيهِمْ مَنْ ءَامَنَ وَمَنْهُمْ مَنْ  
كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أُقْتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ  
يَفْعُلُ مَا يُرِيدُ

254. Yemwe abemeye! Mutange mu byo twabahaye mbere y'uko hagera umunsi utazabaho ubucuruzi, ubucuti cyangwa ubuvugizi. Mu by'ukuri abahakanyi ni bo nkozi z'ibibi.

يَنَائِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفَقُوا مَمَارِزَهُنَّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلْقٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٦﴾

255. Allah (ni we Mana y'ukuri) nta yindi mana ikwiye gusengwa by'ukuri uretse We, Uhoraho (Nyirubuzima bwuzuye buzira inenge), Uwigize, akanabeshaho ibiriho byose. Ntafatwa no guhunyiza habe n'ibitotsi. Ibiri mu birere n'ibiri mu isi ni ibye. Ni inde wagira uwo avuganira iwe uretse ku burenganzira bwe? Azi ibyababayeho (ku isi) n'ibizababaho (ku mperuka). Kandi nta n'icyo bamenya mu bumenyi bwe uretse ickyo ashaka. *Kursiyu*<sup>47</sup> ye ikwiriye ibirere n'isi, kandi ntananizwa no kubirinda (ibirere n'isi). Ni na We Uwikirenga, Uhambaye.

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيُومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةً وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَفْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسَعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَعُودُ حَمْظَهُمَا وَهُوَ عَلَىٰ الْعَظِيمُ ﴿٤٧﴾

256. Nta gahato mu kwinjira mu idini (ya Isilamu); inzira y'ukuri yamaze kugaragara itandukana n'ubuyobe. Bityo uhakana ibigirwamana akemera Allah, aba afashe umugozi ukomeye (inzira y'ukuri) udashobora

لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشُدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكُنْ فَرِّ بِالْطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدْ

<sup>47</sup> Nk'uko ijambo *Kursiyu* ryasobanuwe n'umusangirangendo w'Intumwa y'lmana Muhamadi (Imana imuhe amahoro n'imigisha) witwa Ibu Abass (Imana imwishimire), ni ahantu Allah ashyira ibirenge bye bijyanye n'icyubahiro cye n'ubuhambare bwe, tutagereranya cyangwa ngo dusanishe n'ibyibiremwa.

gucika. Kandi **Allah** ni Uwumva bihebuje, Umumenyi uhebuje.

أَسْتَمْسِكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا أُنْفِصَامَ لَهَا

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦﴾

257. **Allah** ni umukunzi wa ba bandi bemeye; abakura mu mwijima (w'ubuhakanyi) abaganisha mu rumuri (rw'ukwemera). Naho ba bandi bahakanye, abakunzi babo ni ibigirwamana; bibakura mu rumuri bibaganisha mu mwijima. Abo ni abantu bo mu muriro, bazawubamo ubuziraherezo.

258. Ese ntiwamenye (yewe Muhamadi) uwahakanye Nyagasan we (Umwami Namurudhi) ubwo yagishaga impaka Aburahamu yitwaje ubwami **Allah** yamuhyae? Ubwo Aburahamu yavugaga ati “Nyagasan wanjye ni wa wundi utanga ubuzima n'urupfu.” (Namurudhi) aravuga ati “Nanjye ntanga ubuzima n'urupfu.” Aburahamu aravuga ati “Mu by'ukuri, **Allah** avana izuba iburasirazuba; ngaho wowe rivane iburengerazuba.” Nuko uwahakanye aramwara! Kandi **Allah** ntayobora ababangikanyamana.

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ إِمَّا مُؤْمِنُوْ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ  
الظُّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا  
أَوْلَىٰ وَهُمُ الظَّاغِنُوْتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِّنَ النُّورِ  
إِلَى الظُّلْمَاتِ أَوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ  
فِيهَا خَلِدُوْنَ ﴿٢٧﴾

الَّمَّا تَرَىٰ إِلَى الَّذِي حَاجَ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنَّ  
هَاتَهُهُ اللَّهُ الْمُلْكُ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ رَبِّي  
الَّذِي يُحِبُّ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحِبُّ وَأَمِيتُ قَالَ  
إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ  
فَأَنْتَ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبِهِتَ الَّذِي كَفَرَ  
وَاللَّهُ لَا يَهِدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ ﴿٢٨﴾

259. Cyangwa nka wa wundi wanyuze ku mudugudu wasenyutse ugahinduka itongo akavuga ati “Ni gute Allah azawusubiza ubuzima nyuma yo gupfa kwawo (azazura abawutuye)?” Nuko Allah amwambura ubuzima imyaka ijana, maze aramuzura. (Allah) aramubaza ati “Umaze igihe kingana iki (warapfuye)?” Aravuga ati “Maze umunsi umwe cyangwa igice cyawo.” (Allah) aramubwira ati “Ahubwo umaze imyaka ijana. Ngaho reba ibiribwa n’ibinyobwa byawe ntibyagaze, unarebe indogobe yawe (uko yahindutse amagufa). Ibyo ni ukugira ngo tukugire ikimenyetso ku bantu. Unarebe amagufa (y’indogobe) uburyo tuyahuza, hanyuma tukayambika umubiri (ikongera ikabaho).” Nuko amaze gusobanukirwa (ubushoboz) bwa Allah yaremeye), maze aravuga ati “Mu by’ukuri, menye ko Allah ari Ushoborabyose.”

260. Unibuke ubwo Aburahamu yavugaga ati “Nyagasani wanjye! Nyereka uko uzura ibyapfuye.” Allah aravuga ati “Ese ntiwari wemera?” (Aburahamu) aravuga ati “Yego, naremeye ariko ni ukugira ngo umutima wanjye urusheho gutuza.” Allah

أَوْ كَالَّذِي مَرَ عَلَى قَرِيَةٍ وَهِيَ حَاوِيَةٌ عَلَى  
عُرُوشَهَا قَالَ أَنِّي يُحِبُّ هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ  
مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعْثَاهُ وَقَالَ  
كَمْ لِيَشَّ قَالَ لِيَشَّ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ  
قَالَ بَلْ لِيَشَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى  
طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَسْتَسِنْهُ وَانْظُرْ إِلَى  
حِمَارِكَ وَلَا جَعَلَكَ ءَايَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى  
الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِرُهَا ثُمَّ نَكُسوُهَا  
لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى  
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦٩﴾

وَلَذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرْنِي كَيْفَ تُحِي  
الْمَوْتَ قَالَ أَوْلَئِرْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ  
إِيْطَمَيْنَ قَلِبِيْ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةَ مِنْ الْطَّيْرِ  
فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ

aravuga ati “Ngaho fata inyonii enye (uzitoze kukumvira), nuko uzibage uzigagure, hanyuma ushyire igice kuri buri musozi, maze uzihamagare ziraza zikugana zihuta.” Kandi unamenye ko mu by’ukuri, **Allah** ari Umunyacyubahiro bihebuje, Nyirubugenge buhambaye.

261. Urugero rw’abatanga imitungo yabo mu nzira ya **Allah**, ni nk’impeke yeze amahundo arindwi, kuri buri hundo hariho impeke ijana. **Allah** atuburira (ingororano) uwo ashaka, kandi **Allah** ni Nyiringabire zagutse, Umumenyi uehebuje.

262. Ba bandi batanga imitungo yabo mu nzira ya **Allah**, hanyuma ibyo batanze ntibabikurikize incyuro cyangwa inabi, bazagororerwa ibihembo byabo kwa Nyagasani wabo, kandi nta bwoba kuri bo ndetse nta n’ubwo bazagira agahinda.

263. Imvugo nziza ndetse n’imbabazi biruta ituro rikurikijwe inabi, kandi **Allah** ni Uwihagije, Uduhubuka.

جُنَاحًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَا إِيَّاكَ سَعِيًّا وَأَعْلَمَ أَنَّ  
اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٦﴾

مَثُلُ الَّذِينَ يُنِفِّقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَيِّلِ اللَّهِ  
كَمَثُلِ حَجَةِ أَنْبَتَ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ  
سُبْلَةٍ مِائَةُ حَجَةٍ وَاللَّهُ يُضَعِّفُ لِمَنْ  
يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ ﴿٦٧﴾

الَّذِينَ يُنِفِّقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَيِّلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا  
يُتَبَعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَا وَلَا أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ  
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ

٦٦

\* قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مَنْ  
صَدَقَةٍ يَتَبَعُهَا أَذَى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿٦٨﴾

264. Yemwe abemeye! Ntimukangize amaturo yanyu kubera incyuro n'inabi, nka wa wundi utanga umutungo we kugira ngo yiyereke abantu, ntanemere **Allah** n'umunsi w'imperuka. Bityo urugero rwe ni nk'urutare rworosheho itaka, nuko imvura nyinshi yarugwaho ikarusiga rwanamye. Nta cyo bashobora guhemberwa mu byo bakoze, kandi **Allah** ntayobora abantu b'abahakanyi.

265. N'urugero rw'abatanga imitungo yabo bagamije kwishimirwa na **Allah**, kandi banizera byimazeyo mu mitima yabo (kuzagororerwa), ni nk'umurima uri ahegutse hanyuma wagwamo imvura nyinshi, ukera umusaruro wikubye kabiri. N'yo imvura nyinshi itawuguyemo, ibijojoba birawuhagije. Rwose **Allah** abona neza ibyo mukora.

266. Ese umwe muri mwe yakwifusa kugira umurima w'itende n'imizabibu utembamo imigezi, akawugiramo n'imbuto z'amoko yose, maze yagera mu zabukuru anafite abana b'abanyantege nke (ntacyo bakwimarira), nuko ugaterwa n'inkubi y'umuyaga irimo umuriro mwinshi, maze

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِمَّا مَنَّوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ  
بِالْمَنِ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ وَرِئَاءَ  
النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ أَكْثَرُهُمْ كَفَّارٌ  
كَمَثْلٍ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابْلُ  
فَتَرَكَهُ وَصَلَدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا  
كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهِدِي الْقَوْمَ الْكُفَّارِ  
٢٦٤

وَمَثْلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ أَبْيَغَاءَ  
مَرَضَاتِ اللَّهِ وَتَنْثِيتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثْلِ  
جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابْلُ فَأَتَتْ أَكْلَهَا  
ضَعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابْلُ فَطَلُّ وَاللَّهُ  
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ  
٢٦٥

أَيُوْذُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ  
وَأَعْنَابٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ لَهُ فِيهَا  
مِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبْرُ وَلَهُ  
ذِرَّيَّةٌ ضُعْفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ

ugakongoka? (Uru ni rwo rugero rw'abatanga imitungo yabo batagamije kwishimirwa na **Allah**, bazabura ibihembo ku munsi w'imperuka mu gihe bari babikeneye.) Uko ni ko **Allah** aberekia ibimenyetso (by'ibibafitiye umumaro kugira ngo mumuharire ibikorwa byanyu no) kugira ngo mutekereze.

267. Yemwe abemeye! Nimutange mu byiza mwungutse, no mu byo twabakuriye mu butaka. Ntimuzanagambirire ikibi muri byo ngo mube ari cyo mutanga, kandi namwe mudashobora kucyakira keretse (mugihawe) muhumirije. Kandi mumenye ko mu by'ukuri, **Allah** ari Uwiagije, Ushimwa cyane.

268. Shitani abakangisha ko (nimwitanga) muzakena, akanabategeka gukora ibibi. Naho **Allah**, abasezeranya imbabazi n'ingabire bimuturukaho. Kandi **Allah** ni Nyiringabire zagutse, Umumenyi uhebuje.

فَأَخْتَرْتَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ

عَلَّمَكُمْ تَسْفَكُونَ ﴿٦٦﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّفِقُوا مِنْ طِبَّاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجَنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيْمِمُوا الْخَيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِإِعْزِيزِهِ إِلَّا أَنْ تُعْصِمُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِّي حَمِيدٌ ﴿٦٧﴾

الشَّيْطَنُ يَعْدُكُمُ الْفَقَرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفُحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعْدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ ﴿٦٨﴾

269. Allah aha ubushishozi uwo ashaka, kandi uhawе ubushishozi aba ahawе ibyiza byinshi. Ndetse nta bazirikana (ibyo) uretse abafite ubwenge.

يُؤْتِي الْحَكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ  
الْحَكْمَةَ فَقَدْ أُوتَى خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا  
يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٦﴾

270. Kandi icyo muzatanga cyose mu bitangwa cyangwa mugahiga (umuhigo), rwose Allah aba abizi. Kandi inkozi z'ibibi ntizizigera zibona abazitabara.

وَمَا آنفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذْرٍ تُمْ  
نَذِرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِظَالِمِينَ  
مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٢٧﴾

271. Nimutanga amaturo ku mugaragaro ni byiza. Ndetse nimunayatanga mu ibanga mukayaha abakene ni akarusho kuri mwe. Kandi (Allah) abahanaguraho ibyaha byanyu, ndetse Allah azi byimazeyo ibyo mukora.

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعْمَاهُ هِيَ وَإِنْ  
تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ  
لَكُمْ وَإِنْ كَفَرُوا عَنْكُمْ مِنْ  
سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ

﴿٢٨﴾

272. (Yewe Muhamadi) ntushinzwe ukuyoboka kwabo. Ahubwo Allah ayobora uwo ashaka (mu idini rya Isilamu). N'ibyo muzatanga mu byiza ni mwe muzaba mwikorera; n'ibyo mutanze nta kindi muba mugamije uretse kwishimirwa na Allah, kandi ibyiza mutanze

\* لَيْسَ عَلَيْكَ هُدًى لَهُمْ وَلَا كَيْنَ اللَّهُ  
يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ  
فَلَا نُفْسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا أَبْتَغَاهُ  
وَجْهُ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَّ  
إِلَيْكُمْ وَأَنْ شَاءُ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٩﴾

muzabigororerwa byuzuye,  
ndetse ntimuzahuguzwa.

273. (Amaturo) ahawwe abakene, ba bandi bahugiyem mu nzira ya Allah badashobora kujya gushakisha amafunguro, utabazi akeka ko bishoboye kubera kwihihira. Ubabwirwa n'ibimenyetso byabo (by'ubukene); ntibasaba abantu babagondoza. Kandi ibyo mutanze mu byiza, rwose Allah aba abizi neza.

274. Ba bandi batanga imitungo yabo ijoro n'amanywa, mu ibanga ndetse no ku mugaragaro, bazagororerwa ibihembo byabo kwa Nyagasan wabo, kandi nta bwoba bazagira, habe n'agahinda.

275. Ba bandi barya Riba<sup>48</sup> bazazuka bameze nk'uwananzweho n'amashitani. Ibyo ni ukubera ko bavuze bati "Mu by'ukuri, Riba ni kimwe n'ubucuruzi." Nyamara Allah yaziruye ubucuruzi aziririza Riba. Cyakora uzagerwaho n'inyigisho ziturutse kwa Nyagasan we akayireka, yemerewe kugumana umutungo

لِلْفَقَرَاءِ الَّذِينَ أُحِصِّرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
لَا يَسْتَطِعُونَ ضَرَبًا فِي الْأَرْضِ  
يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ الْتَّعْفُفِ  
تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَدُهُمْ لَا يَسْعَلُونَ النَّاسَ  
إِلَحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ  
عَلَيْهِمْ

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْيَلِ وَالنَّهَارِ  
سِرَّاً وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرٌ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ  
وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا  
يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَاتُلُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَ اللَّهُ  
الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةً  
مِنْ رَبِّهِ فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ

<sup>48</sup>Riba: Ni inyito ya Kisilamu isobanura indonke iboneka mu gufatirana umuntu ushaka inguzanyo, ukamwaka inyungu.

yakuye muri Riba mbere y'iziririzwa ryayo, ndetse ibye (mu gihe asigaje kubaho) bizwi na **Allah**. Naho abazakomeza (kurya Riba), abo niabantu bo mu muriro, bazawubamo ubuziraherezo.

276. **Allah** akura umugisha mu mutungo urimo Riba, agatubura amaturo, kandi **Allah** ntakunda umuhakanyi, umunyabyaha.

277. Mu by'ukuri ba bandi bemeye bagakora ibikorwa byiza, bagahozaho iswala (bazitunganya uko bikwiye)<sup>49</sup>, bakanatanga amaturo, bazagororerwa ibihembo byabo kwa Nyagasani wabo, kandi nta bwoba bazagira, habe n'agahinda.

278. Yemwe abemeye! Nimugandukire **Allah**, kandi muzibukire inyungu za Riba, niba koko muri abemera.

279. Ibyo nimutabikora, mumenye ko mutangaje intambara hagati yanyu na **Allah** n'Intumwa ye. Kandi nimwicuza (mukareka inyungu ku mwenda) muzishyuze ingano y'umwenda mwatanze nta cyiyongereyeho,

وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَلِيلُونَ

(٢٧٥)

يَمْحَقُ اللَّهُ أَرْبَوا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَشِيمٍ

(٢٧٦)

إِنَّ الَّذِينَ إِيمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوْا الزَّكَوَةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

(٢٧٧)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِيمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا يَقِنُّونَ مِنَ الرِّبَوْا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

(٢٧٨)

فَإِنْ لَمْ تَقْعَلُوا فَأَذْنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَإِنْ ثُبَثْمَ قَلْكُلُهُ وَسُؤْلَكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

(٢٧٩)

<sup>49</sup> Reba uko twasobanuye umurongo wa 3 muri iyi Surat.

mudahuguje cyangwa ngo  
muhuguzwe.

280. No mu gihe uwishyuzwa ananiwe kwishyura, mujye mumwihanganira kugeza igihe aboneye ubushobozzi. Ariko muramutse munamubabariye (ubo mwenda) mukawugira ituro, ibyo ni byo byiza kuri mwe iyaba mwari mubizi.

281. Munatinye umunsi muzasubizwaho kwa Allah, maze buri muntu agahemberwa mu buryo bwuzuye ibyo yakoze, kandi bo ntibazahuguzwa.

282. Yemwe abemeye! Nimuhana umwenda uzishyurwa ku gihe mwagennye, mujye muwandika kandi mushyireho umwanditsi utabogama. Nuwo mwanditsi ntazange kwandika nk'uko Allah yabimwigishije. Ajye yandika abwirwa (ibyo yandika) n'uhowe umwenda. Kandi ajye atinya Allah Nyagasani we, ntanagire icyo agabanyamo. Niba uhawe umwenda adasobanukiwe cyangwa ari umunyantege nke, cyangwa adashoboye kuvuga ibyandikwa, icyo gihe umuhagarariye ajye avuga ibyandikwa atabogamye. Kandi muzashyireho abahamya babiri

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةٍ  
وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّ  
كُلُّ نَفِيسٍ مَا كَسَبْتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِذَا تَدَاءَنْتُم بِدِينِ إِنَّ  
أَجْلِ مُسَمَّى فَأَكْثِرُوهُ وَلَيَكُتبَ بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ  
يَكُتبَ كَمَا عَلِمَهُ اللَّهُ فَيَكُتبُ وَلَيُمْلِلَ  
الَّذِي عَلَيْهِ الْحُقُوقُ وَلَيَتَقَرَّ اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا  
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحُقُوقُ  
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِلَ هُوَ  
فَلَيُمْلِلَ وَلَيُهُدَى بِالْعَدْلِ وَلَسْتَ شَهِيدُوا شَهِيدَيْنِ  
مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ  
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مَمَّنْ تَرَضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ

b'igitsina gabo muri mwe. Nibataba abagabo babiri, ubwo bazabe umugabo n'abagore babiri mu bahamya mwemeranyijweho, kugira ngo umwe muri bombi (abo bagore) niyibagirwa undi amwibutse. Kandi abahamya ntibakange (gutanga ubuhamya) igihe bahamagawe. Ntimugasuzugure kwandika umwenda waba muto cyangwa munini ndetse n'igihe cyawo (uzishyurirwa). Ibyo ni byo butabera imbere ya **Allah**, kandi ni na byo bitunganya ubuhamya, bikaba ari na byo byegereye kubarinda gushidikanya. Igihe ari ubucuruzi bw'ako kanya mukora hagati yanyu, nta cyo bibatwaye kutabwandika. Kandi mujye mushyiraho abahamya igihe mugiranye amasezerano y'ubugure. Umwanditsi n'umuhamya ntibakagirirwe nabi, kuko nimuramuka mubikoze (kubagirira nabi), mu by'ukuri ibyo bizaba ari icyaha kuri mwe. Bityo, nimugandukire **Allah** maze abigishe. Kandi **Allah** ni Umumenyi wa byose.

283. Nimuba muri ku rugendo ntimubone umwanditsi, icyo gihe ni ugutanga ingwate ihabwa utanze umwenda. Ariko nimuramuka mwizeranye (nta nyandiko, nta bahamya nta

تَضَلَّ إِحْدَاهُمَا فَتَذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ  
وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءَ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا شَعُومًا أَنْ  
تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَيْرًا إِلَى أَجْلِهِ ذَلِكُمْ  
أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا  
تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَرَّةً حَاضِرَةً  
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا  
تَكْتُبُوهَا وَأَشْهُدُو أَنَّا تَبَاعَتُمْ وَلَا يُضَارَّ  
كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَلَمْ تَفْعَلُوا فِي أَنَّهُ  
فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُ كُمْ  
اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِ

\* وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَلَا تَجِدُوا كَاتِبًا  
فِيهِنَّ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلَيُؤَدَّ  
الَّذِي أَوْتُمْ أَمْنَتَهُ وَلَيُقْرَأَ اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا

n'ingwate bihari), uwizewe (uwagurijwe) azatange indagizo ye (azishyure umwenda), anatinye Allah Nyagasani we. Ntimugahishe ubuhamya kuko ubuhishe umutima we uba ukoze icyaha. Kandi Allah ni Umumenyi uhebuje w'ibyo mukora.

284. Ibiri mu birere n'ibiri mu isi ni ibya Allah. Kandi n'yo mwagaragaza ibiri mu mitima yanyu cyangwa mukabihisha, Allah azabibabarurira. Nuko ababarire uwo ashaka ndetse anahane uwo ashaka. Kandi Allah ni Ushoborabyose.

285. Intumwa (Muhamadi) yemeye ibyo yahishuriwe biturutse kwa Nyagasani wayo ndetse n'abemera (barabyemeye). Bose bemeye Allah, abamalayika be, ibitabo bye n'Intumwa ze; (bavuga bat) "Nta n'imwe turobanura mu Ntumwa ze." Baranavuga bat "Twumvise kandi twumviye. Turagusaba imbabazi, Nyagasani wacu! Kandi iwawe ni ho byose bizasubira."

286. Allah ntawe ategeka icyo adashoboye. (Umuntu) ahemberwa ibyo yakoze akanahanirwa ibyo yakoze.

تَكُنُّ تُمُوا أَشْهَدَةً وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ  
عَلَيْهِ أَثْرٌ قَوْلُهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ عَلَيْهِ

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدِوا  
مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يَحِسِّبُ  
كُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَعْلَمُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَعْذِبُ مَنْ يَشَاءُ  
وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ  
وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّهُمْ أَمَنَ بِاللَّهِ  
وَمَلَكِتِيَّتِهِ وَكُنْتِيَّهِ وَرَسُولِهِ لَا نُفَرِّقُ  
بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا  
غُفرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمُصِيرُ

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ  
وَعَلَيْهَا مَا أَكَتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ

Nyagasan i wacu! Ntuzaduhore ibyo twibagiwe (gukora) cyangwa (ibyo twakoze) twibeshye. Nyagasan i wacu! Ntuzatwikoreze umutwaro nk'uko wawikoreje abatubanjirije. Nyagasan i wacu! Ntuzatwikoreze ibyo tudashoboye. Tubababarire, udukize ibyaha kandi utugirire impuhwe. Ni wowe Mugenga wacu, dutabare uduhe gutsinda abahakanyi.

سَيِّدَنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا  
إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ وَعَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا  
رَبَّنَا وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ  
عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا  
فَانْصُرْ رَبَّنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

### 3 - SURAT AL IM'RAN (UMURYANGO WA IMRANI)

*Yahishuriwe i Madina, igizwe n'imirongo 200.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Alif Laam Miim<sup>50</sup>.

الْمَ

2. Allah (ni we Mana y'ukuri) nta yindi mana ikwiye gusengwa by'ukuri uretse We, Uhoraho, Uwigize (Nyirubuzima bwuzuye) akanabeshaho ibiriho byose.

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيُّومُ

<sup>50</sup> Alif Laam Miim: Inyuguti nk'izi twazivuzeho mu ntangiriro ya Surat Al Baqarat.

3. Yaguhishuriye igitabo (Qur'an) gikubiyemo ukuri, gishimangira ibyakibanjirije. Yanahishuye Tawurati na Injili (Ivanjili)

4. Mbere yaho, kugira ngo bibe umuyoboro ku bantu (muri icyo gihe). Yanahishuye ibitandukanya ukuri n'ikinyoma. Mu by'ukuri, abahakanye ibimenyetso bya Allah bazahanishwa ibihano bikaze. Kandi Allah ni Nyiricyubahiro bihebuje, Nyirukwihimura bikaze.

5. Mu by'ukuri, Allah ntakimwihisha ku isi no mu kirere.

6. Ni We ubagenera imiterere uko ashaka mukiri muri nyababyeyi. Nta yindi mana iriho ikwiye gusengwa uretse We. Ni Nyiricyubahiro bihebuje, Nyirubugenge buhambaye.

7. Ni We waguhishuriye igitabo (Qur'an) kirimo imirongo isobanutse ari yo shingiro ry'igitabo, hakabamo n'indi izimije. Ariko ba bandi bafite imitima ibogamiye ku buyobe, bakurikira izimije muri yo bagamije gutera urujijo mu bantu no kuyisobanura uko itari. Nyamara ntawamenya ibisobanuro byayo (nyakuri) uretse Allah. Naho abaceneye mu bumenyi baravuga bat "Turayemera, yose (isobanutse n'izimije) ituruka kwa Nyagasani wacu. Kandi nta bandi

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ  
وَأَنْزَلَ الْتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿٣﴾

مِنْ قَبْلُ هُدَىٰ لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْقُرْآنَ إِنَّ الَّذِينَ  
كَفَرُواٰ بِيَقِيْنِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ  
عَزِيزٌ ذُو أَنْتِقَامٍ ﴿٤﴾

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفِي عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي  
السَّمَاءِ ﴿٥﴾

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْضِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا  
إِلَهٌ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦﴾

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ إِيَّاكُ  
مُحَكَّمٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرُ مُتَشَبِّهِاتِ  
فَإِنَّمَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَبَعُونَ مَا تَشَبَّهَ مِنْهُ  
أَبْتِغَاهُ الْفِتْنَةُ وَأَبْتَغَاهُ تَأْوِيلُهُ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ  
إِلَّا اللَّهُ وَالرَّسُولُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ إِمَّا بِهِ  
كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَدْكُرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

barangwa no kwibuka uretse abanyabwenge.

8. Nyagasan i wacu! Ntuzatum imitima yacu iyoba nyuma y'uko utuyoboye, kandi unaduhundagazeho impuhwe ziguturutseho. Mu by'ukuri ni Wowe Mugaba uhebuje.

9. Nyagasan i wacu! Mu by'ukuri, ni Wowe uzakoranya abantu ku munsi udashidikanywaho. Mu by'ukuri, **Allah** ntiyica isezerano rye.

10. Mu by'ukuri, abahakanye nta cyo imitungo yabo n'urubyaro rwabo bizabamarira imbere ya **Allah**; kandi abo ni bo bazaba ibicanwa by'umuriro.

11. (Imigenzereze y'abahakanye) ni nk'imigenzereze y'abantu ba Farawo n'ababayeho mbere yabo; bahakanye ibimenyetso byacu, nuko **Allah** abahanira ibyaha byabo. Kandi **Allah** ni Nyiribihano bikaze.

12. Bwira abahakanye uti "Muzatsindwa maze mukoranyirizwe mu muriro, kandi ni na ho buruhukiro bubi."

13. Mu by'ukuri, mufite icyitegererezo ku matsinda abiri yahuriye ku rugamba (rwa Badri); rimwe rirwana mu nzira ya **Allah** irindi ari irihakanyi. (Abahakanyi) babonaga ku maso (abemeramana) babakubye

رَبَّنَا لَا تُرِّعْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ  
لَّذِنَكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ ﴿٨﴾

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبٌ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ  
لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿٩﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْفِرَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ  
وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأَوْلَادِكَ هُمْ وَقُدُّ  
الْتَّارِ ﴿١٠﴾

كَدَأْبٌ إِلَى فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ  
كَذَبُوا بِإِيمَانِنَا فَأَخْدَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ  
شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١١﴾

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلِبُونَ  
وَتُخْسِرُونَ إِلَى جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٢﴾

قَدْ كَانَ لَكُمْ إِيمَانٌ فِي فِعَالَيْنِ الْتَّقْتَـ  
فَعَةٌ تُقَاتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَآخَرَـ  
كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مُشَاهِدَ رَأَى الْعَيْنَ ﴿١٣﴾

kabiri. Ariko Allah atera inkunga ye uwo ashaka. Mu by'ukuri, muri ibyo harimo isomo ku bashishoza.

14. Abantu bashyizwemo gukunda no kurarikira ibibashimisha: abagore, abana, imitungo myinshi ya zahabu na feza, amafarasi y'agaciro, amatungo n'ibihingwa. Iyo ni imitako y'ubuzima bw'isi; ariko kwa Allah ni ho hari igarukiro ryiza.

15. Vuga uti "Ese mbabwire ibiruta ibyo? Ba bandi batinya (Allah), kwa Nyagasani wabo bazagororerwa ubusitani (Ijuru) butembamo imigezi, bazabubemo ubuziraherezo. (Bazanagororerwa) abafasha basukuye ndetse no kwishimirwa na Allah. Kandi Allah ni Ubona abagaragu be bihebuje."

16. Ba bandi bavuga bati "Nyagasani wacu! Mu by'ukuri, twe twaremeye, ku bw'ibyo, tubabarire ibyaha byacu unaturinde ibihano by'umuriro."

17. (Abo ni) abihangana, abanyakuri, abibombarika, abatanga (mu nzira ya Allah) n'abasaba imbabazi z'ibyaha mbere y'uko umuseke utambika.

وَاللَّهُ يُؤْيِدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لِعِبْرَةً لَا يُؤْلِمُ الْأَبْصَرِ ١٣

رُبِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ السَّلَاءِ  
وَالْبَيْنَ وَالْقَنْطَرِ الْمَقْنَطَرَةِ مِنَ الدَّهَرِ  
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ  
وَالْحُرْثَ قَدْرَ ذَلِكَ مَتَّعْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ  
عِنْدَهُ دُحْسُنُ الْمَعَابِ ١٤

\* قُلْ أَئُنَيْتُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ  
أَتَقْوَى عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  
الْأَنْهَرُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَرْوَاحٌ مُّطَهَّرَةٌ  
وَرِضْوَانٌ مِّنْ رَبِّ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعَبَادِ ١٥

١٥

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا آمَنَّا فَاغْفِرْ  
لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ١٦

الْصَّالِحِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَنِينَ وَالْمُنْفِقِينَ  
وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ١٧

18. Allah yahamije ko nta yindi mana ikwiye gusengwa by'ukuri uretse We. Abamalayika n'abafite ubumenyi na bo barabihamya; We ugenga ubutabera. Nta yindi mana ikwiriye gusengwa by'ukuri uretse We, Nyiricyubahiro bihebuje, Nyirubugenge buhambaye.

19. Mu by'ukuri idini (ry'ukuri) imbere ya Allah ni Isilamu. Kandi abahawe ibitabo ntibigeze banyuranya, keretse nyuma y'uko bagerwaho n'ubumenyi kubera ishyari ryari muri bo. N'uzahakana amagambo ya Allah, (amenye ko) mu by'ukuri, Allah ari Ubanguka mu ibarura.

20. Nibakugisha impaka (yewe Muhamadi) uzababwire uti "Nicishije bugufi kuri Allah (ndi Umuvisilamu), (njye) n'abankurikiye." Unabwire abahawe ibitabo n'abatazi gusoma no kwandika uti "Ese namwe mwicishije bugufi kuri Allah?" Nibaramuka babaye Abayisilamu, bazaba bayobotse; ariko nibahakana, rwose icyo ushinzwe ni ugusohoza ubutumwa, kandi Allah ni Ubona abagaragu be bihebuje.

21. Mu by'ukuri, abahakana ibimenyetso bya Allah, bakica abahanuzi nta shingiro bafite, bakanica ababwiriza ubutabera mu bantu, bahe inkuru y'uko bazahanishwa ibihano bibabaza.

شَهَدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ  
وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَالُوا  
بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

١٨

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا أُخْتَلَفَ  
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا  
جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغِيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكُفِرْ  
بِعَائِتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنْ  
أَتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ  
وَالْأَمِمُّونَ إِنَّمَا أَسْلَمُتُمُ فَإِنَّ أَسْلَمُوا فَقَدْ أَهْتَدُوا  
وَإِنْ تَوَلُّوْا إِنَّمَا عَلَيْكُمُ الْبَلْغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ

بِالْعِبَادِ

إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِعَائِتِ اللَّهِ  
وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حِقٍّ وَيَقْتُلُونَ

الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ  
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٦١﴾

أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبَطُتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا  
وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَصْرٍ ﴿٦٢﴾

أَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نِصْبًا مِنَ الْكِتَابِ  
يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ فَمُرِيبٌ  
فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٦٣﴾

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا آيَاتٍ  
مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا  
يَفْتَرُونَ ﴿٦٤﴾

فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ  
وَوَفِيتَ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا  
يُظْلَمُونَ ﴿٦٥﴾

قُلْ اللَّهُمَّ مَلِكَ الْمُلَكَ تُؤْتِي الْمُلَكَ مَنْ تَشَاءُ  
وَتَنْزِعُ الْمُلَكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتَعْزِيزُ مَنْ تَشَاءُ  
وَتَذْلِيلُ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  
قَدِيرٌ ﴿٦٦﴾

22. Abo ni ba bandi ibikorwa byabo byabaye imfabusa ku isi no ku mperuka, kandi ntibazabona ababatabara.

23. Ese (yewe Muhamadi) ntiwamenye ba bandi bahawé ingabire (yo gusobanukirwa) Igitabo, bahamagarirwa kugana Igitabo cya Allah kugira ngo kibakiranure, maze bamwe muri bo bagatera umugongo bakanirengangiza?

24. Ibyo babiterwa n'uko bavuze batí "Umuriro ntuzatugeraho uretse iminsi mbarwa." Kandi boshywa n'ibyo bihibbiraga mu idini ryabo (ko bazababarirwa cyangwa bakaba mu muriro iminsi mike).

25. Bizamera bite nitubakusanyiriza hamwe ku munsi udashidikanywaho, maze buri mutu agahemberwa mu buryo bwuzuye ibyo yakoze? Kandi ntabwo bazahuguzwa.

26. Vuga uti "Nyagasaní Mwami (Nyirubwami)! Ugabira ubwami uwo ushaka ukanya ga ubwami uwo ushaka. Wubahisha uwo ushaka ugazuzuguza uwo ushaka. Ibyiza biri mu kuboko kwawe. Mu by'ukuri, ni wowe Ushobora byose."

27. "Winjiza ijoro mu manywa, ukainjiza amanywa mu ijoro. Ukura ikizima mu cyapfuye unakura icyapfuye mu kizima, kandi ugaha amafunguro uwo ushaka nta kugera."

تُولِّيْ لِلَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِّيْ النَّهَارِ فِي الْيَوْمِ  
وَتُخْرِجُ الْحَقَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَمِّتَ مِنَ  
الْحَيِّ وَتَرْرُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٧﴾

28. Abemeramana ntibakagire abahakanyi inshuti ngo babarutishe abemera. Uzakora ibyo azaba yitandukanyije na Allah, keretse hari inabi mutinya ko yabaturukaho (icyo gihe ntimuzabereke urwango. Nimunavuga urukundo bizabe ari ku munwa bitari ku mutima). Allah arababurira kumutinya, kandi kwa Allah ni ho (byose) bizarasubira.

لَا يَتَخَذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْ لِيَأَءِ منْ  
دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ  
فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَقَوَّلُ مِنْهُمْ تُقْنَةً  
وَيُحَدِّرُ كُمُّ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

٢٨

29. Vuga (yewe Muhamadi) uti "Mwahisha ibiri mu bituza byanyu cyangwa mukabigaragaza, Allah arabimanya, akanamenya ibiri mu birere no mu isi." Kandi Allah ni Ushobora byose.

قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبَدُّو  
يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي  
الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾

30. Umunsi buri muntu azasanga ibyiza yakoze ndetse n'ibibi yakoze bihari, azifuza ko hagati ye n'ibibi bye haba intera ndende. Allah arababurira ngo mumutinye (kubera ibihano bye). Kandi Allah ni Nyiribambe ku bagaragu be.

يَوْمَ يَحْدُدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ  
مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ يَبْلَهَا  
وَبَيْنَهُ وَأَمْدَأْ بَعِيدًا وَيُحَدِّرُ كُمُّ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ  
وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٣٠﴾

31. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Niba koko mukunda Allah ngaho nimunkurikire, Allah azabakunda anababarire ibyaha byanyu. Kandi Allah ni Ubabarira ibyaha, Nyirimpuhwe.”

32. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Nimwumvire Allah n'Intumwa (Muhamadi).” Ariko nibatera umugongo (ntibabyemere), (bamenye ko) mu by'ukuri Allah adakunda abahakanyi.

33. Mu by'ukuri, Allah yatoranyije Adamu, Nuhu (Nowa), umuryango wa Aburahamu n'umuryango wa Imurani, abarutisha ibiremwa (byose byo mu gihe cyabo).

34. (Izo ntumwa) ni urubyaro rukomoka ku rundi, kandi Allah ni Uwumva bihebuje, Umumenyi uhebuje.

35. Ibuka (yewe Muhamadi) ubwo umugore wa Imurani yavugaga ati “Nyagasani wanjye! Mu by'ukuri nshyizeho umugambi wo kukwegurira uwo ntwite (ngo azabe umukozi w'ingoro yawe y'i Yeruzalemu), bityo binyakirire. Mu by'ukuri, ni Wowe Uwumva bihebuje, Umumenyi uhebuje.”

36. Nuko amaze kumwibaruka, aravuga ati “Nyagasani wanjye! Mu by'ukuri, nibarutse umwana w'umukobwa” -nyamara Allah yari azi neza icyo yibarutse- “kandi umuhungu si

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحْبِّبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّبُكُمْ  
الَّهُ أَكْبَرُ وَيَعْفُرَ لَكُمْ ذُنُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

٣١

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ إِنْ تَوَلُّوْ إِنَّ اللَّهَ لَا  
يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

وَإِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ

وَآلَ عِمَرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ

٣٢

دُرْرَيَةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

إِذَا قَالَتِ اُمَّرَاتٌ عِمَرَانَ رَبِّي إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا

فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلَ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ

الْعَلِيمُ

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّي إِنِّي وَضَعَتْهَا آنِشَةً وَاللَّهُ

أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الْذَّكْرُ كَالْأَنْشَةِ وَإِنِّي

nk'umukobwa<sup>51</sup>, kandi mu by'ukuri namwise Mariyamu (Mariya). Rwose ndamukuragije n'urubyaro rwe, ngo ubarinde Shitani wavumwe.”

37. Nuko Nyagasan we amwakirira ubusabe neza, amukuza mu burere bwiza kandi agena ko arerwa na Zakariya. Buri uko Zakariya yinjiraga aho (Mariyamu) yasengeraga, yamusanganaga amafunguro, maze akamubaza ati “Yewe Mariyamu! Ibi ubikura he?” Akavuga ati “Ibi bituruka kwa Allah.” Mu by'ukuri, Allah aha amafunguro uwo ashaka nta kugera.

38. Aho ni ho Zakariya yasabye Nyagasan we agira ati “Nyagasan wanje! Mpa urubyaro rwiza ruguturutseho. Mu by'ukuri, uri Uwumva ubusabe bihebuje.”

39. Ubwo (Zakariya) yari ahagaze asali mu cyumba cy'iswala<sup>52</sup>, abamalayika baramuhamagaye baramubwira bat “Allah aguhaye inkuru nziza yo kuzabyara umwana w'umuhungu (uzitwa) Yahaya, uzahamya ijambo riturutse kwa Allah (iremwa rya Yesu), akazaba umunyacyubahiro, utazashaka umugore ndetse akazaba umuhanuzi n'umwe mu ntungane.”

سَمِّيَتْهَا مَرِيمٌ وَإِنِّي أَعِذُّهَا بِكَ وَدُرِّيَّتْهَا مِنَ  
الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٣٦﴾

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا يَقْبُولُ حَسَنٌ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا  
حَسَنًا وَكَفَلَهَا زَرَّيَا لَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا  
زَكَرِيَا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ  
يَمْرِئَ أَنِّي لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ  
يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾

هُنَالِكَ دَعَازَ كَرِيَارِبَةٍ وَقَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ  
لَّذِنَكَ ذُرْيَةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾

فَنَادَنْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَاءُمٌ يُصَلِّيُ فِي  
الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحِيٍّ مُصَدِّقًا  
بِكَامَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسِيدًا وَحَصُورًا وَنَيَّا مِنَ  
الصَّالِحِينَ ﴿٣٩﴾

<sup>51</sup> Haba mu kwiyegurira Imana n'iswala zihozwaho mu bihe byose, umwana w'umuhungu ntabwo ari kimwe n'u'umukobwa. Banatandukanye kandi no mu mbaraga z'umubiri mu kwitangira urusengero rwa Yeruzalemu no kurukorera.

<sup>52</sup> Reba uko twasobanuye umurongo wa 3 muri Surat Al Baqarat.

40. (Zakariya) aravuga ati “Nyagasani wanjye! Ni gute nagira umuhungu kandi ngeze mu zabukuru n’umugore wanjye akaba ari urubereri?” Aravuga ati “Ni ko bimeze; Allah akora ibyo ashaka.”

41. (Zakariya) aravuga ati “Nyagasani wanjye! Mpa ikimenyetso.” (Allah) aravuga ati “Ikimenyetso cyawe ni uko utazavugisha abantu iminsi itatu, usibye guca amarenga. Kandi wibuke (usingize) Nyagasani wawe kenshi, unamusingiza nimunsi no mu museso.”

42. Unibuke ubwo abamalayika bavugaga batu “Yewe Mariyamu! Mu by’ukuri, Allah yaragutoranyije (ngo umugandukire), arakweza, anakurutisha abagore bo mu isi (mu gihe cyawe).”

43. Yewe Mariyamu! Ibombarike kuri Nyagasani wawe, wubame ndetse ununame (usenga Allah) hamwe n’abunama.

44. Izo ni zimwe mu nkuru z’ibiyihishe tuguhishurira (yewe Muhamadi). Kandi ntabwo wari hamwe na bo ubwo banagaga amakaramu yabo (batombora) kugira ngo muri bo haboneke uzarera Mariyamu; ndetse nta n’ubwo wari kumwe na bo ubwo bajyaga impaka.

قَالَ رَبِّ أَنِّي يَكُونُ لِي غُلَمٌ وَقَدْ بَعَثْنَاهُ  
الْكَبِيرُ وَأَمْرَأٍ عَاقِرٍ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ  
يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿٦﴾

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِيٰءِ آيَةً ﴿٧﴾ قَالَ إِذَا تَكَبَّرَ الْأَنْوَارُ  
تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمَزًا وَذَكْرٌ  
رَبِّكَ كَثِيرًا وَسَيِّحٌ بِالْعَيْنِ وَالْأَبْكَرِ

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَمْرِئُمُ إِنَّ اللَّهَ  
أَصْطَفَنَاكِ وَظَهَرَكِ وَأَصْطَفَنَاكِ عَلَى نِسَاءٍ  
الْعَالَمِينَ ﴿٨﴾

يَمْرِئُمُ أَقْتُقِي لِرِبِّكِ وَأَسْجُدِي وَأُرْكَعِي  
مَعَ الْأَرْكَعِينَ ﴿٩﴾

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْعَيْنِ تُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ  
لَدِيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيْهُمْ يَكُنْ فُلْ مَرَمَّ  
وَمَا كُنْتَ لَدِيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿١٠﴾

45. Ibuka ubwo Malayika yavugaga ati "Yewe Mariyamu! Mu by'ukuri, **Allah** aguhaye inkuru nziza y'ijambo rimuturutseho<sup>53</sup> (ry'uko uzabyara umwana w'umuhungu). Izina rye ni Masihi Issa (Yesu) mwene Mariyamu. Azaba umunyacyubahiro ku isi no ku mperuka, kandi azaba mu bari hafi ya **Allah**."

46. Azavugisha abantu mu buhinja no mu bukwerere, kandi azaba umwe mu ntungane.

47. Aravuga ati "Nyagasani wanje! Ni gute nagira umwana kandi nta mugabo wigeze ankoraho?" Aravuga ati "Uko ni ko bimeze, **Allah** arema icyo ashaka. Iyo aciye iteka ry'ikintu, mu by'ukuri, arakibwira ati "Ba! Ubwo kikaba."

48. Kandi (**Allah**) azamwigisha igitabo, ubushishozi, Tawurati na Injili (Ivanjili).

49. Azanaba Intumwa kuri bene Isiraheli (ababwire) ati "Mu by'ukuri, njye mbazaniye igitangaza giturutse kwa Nyagasani wanyu; ndababumbira mu ibumba ikimeze nk'inyoni, ngihuhemo maze gihinduke inyoni ku bushobozi bwa **Allah**. Ndakiza uwavukanye ubumuga bwo

إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَمْرِئُمْ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكُمْ  
بِكَلِمَةٍ مِنْهُ أَسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مُرْيَمَ  
وَجِئَهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ

٤٥

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ  
الصَّالِحِينَ

٤٦

قَالَتْ رَبِّيْ أَنِّي يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بِشَرٍ  
قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يُخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا  
فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

٤٧

وَيَعْلَمُهُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ وَالْتَّوْرِيدَ  
وَالْإِنْجِيلَ

٤٨

وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جَعَلْتُكُمْ  
بِيَاهِيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَحْقُ لَكُمْ مِنَ الظَّلَمِينَ  
كَهْيَةً الْطَّيْرِ فَأَنْفُخْ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ  
اللَّهِ وَأَبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَأَحْمَى

٤٩

<sup>53</sup> Ijambo riturutse kwa **Allah**: Ni "Ba"- bikaba- bisobanuye ivuka rya Yesu kuri Mariya adafite umugabo.

kutabona, umubembe, nzure abapfuye mbishobojwe na **Allah**, ndetse mbabwire ibyo mwariye n'ibyo muhunitse mu ngo zanyu." Mu by'ukuri, muri ibyo harimo ikimenyetso kuri mwe, niba koko muri abemera.

50. "Kandi naje nshimangira ibyambanjirije biri muri Tawurati, no kugira ngo mbazirurire bimwe mu byo mwari mwaraziririjwe. Ndetse mbazaniye ikimenyetso giturutse kwa Nyagasan wanyu. Bityo, nimugandukire **Allah** munanyumvire."

51. "Mu by'ukuri, **Allah** ni Nyagasan wanye akaba na Nyagasan wanyu; ku bw'ibyo nimumugaragire (wenyine). Iyo ni yo nzira igororotse."

52. Nuko Issa (Yesu) amaze kubatahuraho ubuhakanyi, aravuga ati "Ni bande banshyigikira mu nzira ya **Allah**?" Inkoramutima (abigishwa be) baravuga bat "Twe turi abashyigikira (inzira ya) **Allah**, twemeye **Allah** kandi unatubere umuhanya ko turi Abayisilamu (abicisha bugufi)."

53. Nyagasan wacu! Twemeye ibyo wahishuye tunakurikira Intumwa (zawe); bityo twandike mu bahamya (b'ukuri).

54. Banacuze imigambi mibisha (ubwo abahakanyi bashakaga kwica Issa), **Allah** na we acura imigambi (yo kuburizamo iyabo). Kandi **Allah** ni We uhebuje mu

الْمَوْتَىٰ إِذَا دَنَ اللَّهُ وَأَنِتُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخُلُونَ فِي يُوْتَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَكَيْةً لَكُمْ  
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٦﴾

وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيِّ مِنَ التَّوْرَةِ  
وَلَا حِلْلَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ  
وَجِئْتُكُمْ بِعَايَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَأَطِيعُونِ ﴿٥﴾

إِنَّ اللَّهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صَرَاطٌ  
مُسْتَقِيمٌ ﴿٦﴾

\* فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفَّارَ قَالَ  
مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ  
أَنْصَارُ اللَّهِ إِمَّا بِاللَّهِ وَإِمَّا بِأَنَا  
مُسْلِمُونَ ﴿٥﴾

رَبَّنَا إِمَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَإِمَّا بِمَا رَسَوْلَ  
فَأَكْتُبَنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٦﴾

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكَرِينَ

kuburizamo imigambi y'abantu babi.

55. Ibuka ubwo Allah yavugaga ati "Yewe Issa (Yesu)! Mu by'ukuri, njye ngiye gushyira iherezo ku gihe cyawe (cyo kuba ku isi, ngusinzirize) maze nkuzamure iwanjye, ngukize abahakanyi, kandi abagukurikiye nzabarutisha abahakanye kugeza ku munsi w'imperuka. Hanyuma muzagaruka iwanjye maze mbakiranure mu byo mutavugagaho rumwe."

56. Ba bandi bahakanye nzabahanisha ibihano bikaze ku isi no ku mperuka, kandi ntibazabona ababatabara.

57. Naho ba bandi bemeye bakanakora ibikorwa byiza, (Allah) azabagororera ingororano zabo zuzuye, kandi Allah ntakunda abanyamahugu.

58. Ibi tugusomera ni ibimenyetso n'urwibutso byuje ubushishozi.

59. Mu by'ukuri, urugero rwa Issa (Yesu) kwa Allah ni nk'urwa Adamu (mu iremwa ryabo bombi). Yamuremye mu gitaka maze aramubwira ati "Ba", nuko abaho!

60. (Uku) ni ukuri guturutse kwa Nyagasani wawe, bityo ntukabe mu bashidikanya.

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَدْعُيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَأَفِعُكَ إِلَىٰ  
وَمُطْهِرُكَ مِنَ الظَّنِّ كَفَرُوا وَجَاءُلُ الظَّنِّ  
أَتَبْعَوْكَ فَوَقَ الظَّنِّ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمٍ  
الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ  
فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٦٦﴾

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعْذِبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا  
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَصِيرٍ ﴿٦٧﴾

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
فَيُؤْفَقُهُمْ أَجُورُهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٦٨﴾

ذَلِكَ نَتْلُوُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالَّذِي  
الْحَكِيمٌ ﴿٦٩﴾

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ إِادَمَ  
خَلَقَهُ وَمِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٧٠﴾

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُمَتَّثِينَ

61. Bityo, abazakugisha impaka kubirebana na we (Yesu) nyuma y'ubu bumenyi bukugezeho, uzavuge (yewe Muhamadi) uti "Nimuze duhamagare abana bacu n'abana banyu, abagore bacu n'abagore banyu, natwe ubwacu namwe ubwanyu, hanyuma dutakambe dusaba ko umuvumo wa **Allah** uba ku babeshyi."

62. Rwose izi ni zo nkuru (za Yesu) z'ukuri. Kandi nta we ukwiye gusengwa mu kuri uretse **Allah**. Kandi mu by'ukuri, **Allah** ni We Nyiricyubahiro bihebuje, Nyirubugenge buhambaye.

63. Kandi nibanatera umugongo (bakanga kwemera ibi bimenyetso), mu by'ukuri **Allah** azi neza abangizi.

64. Vuga (yewe Muhamadi) uti "Yemwe abahawe igitabo! Nimuze (duhurize) ku ijambo riboneye hagati yacu namwe; ryuko tutagomba kugira uwo tugaragira utari **Allah**, kandi ntitugire icyo tumubangikanya na cyo, ndetse bamwe muri twe ntibazagire abandi ibigirwamana basenga mu cyimbo cya **Allah**." Ariko nibabitera umugongo, muvuge muti "Nimuhamye ko twe turi abicisha bugufi (Abayisilamu)."

فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ  
فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ  
وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ  
نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلُ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَذِبِينَ ﴿٦١﴾

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصْصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا  
اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٢﴾

فَإِنْ تَوَلُّوْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٦٣﴾

قُلْ يَأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْ إِلَى كَلِمَةٍ  
سَوَاعِيْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَا تَعْبُدُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا  
نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَخَذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا  
مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلُّوْ فَقُولُوا أَشْهَدُوا بِأَنَّا  
مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

65. Yemwe abahawe igitabo! Kuki mujya impaka kuri Aburahamu (buri wese avuga ko yari mu idini rye) kandi Tawurati na Injili (Ivanjili) byarahishuwe nyuma ye? Ese ntimatekereza?

يَأَهْلَ الْكِتَابِ لَمْ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٥﴾

66. Dore mwagiye impaka ku byo mufitiye ubumenyi (ubuhanuzi bwa Muhamadi)! None se kuki mujya impaka z'ibyo mudafitiye ubumenyi (ubuhanuzi bwa Aburahamu)? **Allah** ni We ubizi naho mwe nta byo muzi.

هَآئَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجُوكُمْ فِيمَا لَكُمْ يَهْدِي عِلْمٌ فَلَمْ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ يَهْدِي عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾

67. Aburahamu ntiyari Umuyahudi cyangwa umunaswara<sup>54</sup>, ahubwo yasengaga Imana imwe rukumbi akanicisha bugufi ku mategeko yayo (Umuyisilamu); kandi ntabwo yari mu babangikanyamana.

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصَارَائِيًّا وَلِكُنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٦٧﴾

68. Mu by'ukuri abegereye cyane (abafitanye isano na) Aburahamu ni abamukurikiye n'uyu muhanuzi (Muhamadi) hamwe n'abemeye. Kandi **Allah** ni umukunzi w'abemera.

إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ بِإِنْرَاهِيمَ لَذَنِيَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا الْنَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٨﴾

69. Bamwe mu bahawe igitabo bifuza kubayobya. Nyamara ntawe bayobya uretse bo ubwabo, ariko ntibabyiyumvisha.

وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضْلُونَكُمْ وَمَا يُضْلُونَ إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٩﴾

<sup>54</sup> Reba uko twasobanuye iyi nyito mu murongo wa 62 muri Surat ul Baqarat

70. Yemwe abahawe igitabo! Kuki muhakana amagambo ya Allah kandi mwe mubihamya (ko ari ukuri)?

71. Yemwe abahawe igitabo! Kuki muvanga ukuri n'ikinyoma, mukanahisha ukuri kandi mukuzi?

72. Kandi bamwe mu bahawe igitabo baravuze bati "Mu gitondo, mujye mwemera ibyahishuriwe abemeye (ubutumwa bwa Muhamadi), maze nibwira mubihakane, kugira ngo bagaruke (bareke idini ryabo)."

73. Kandi ntimuzagire uwo mwizera uretse ukurikira idini ryanu. Vuga (yewe Muhamadi) uti "Mu by'ukuri, umuyoboro nyawo ni umuyoboro wa Allah." (Baranavuze batii) kandi ntimuzemere ko hari n'umwe wahabwa nk'ibyo mwahawwe (ubumenyi), kugira ngo (abemeye ubutumwa bwa Muhamadi) batazabikoresha bababuranya imbere ya Nyagasani wanyu. Vuga (yewe Muhamadi) uti "Mu by'ukuri, ingabire zose ziri mu kuboko kwa Allah, azigabira uwo ashaka. Kandi Allah ni Nyiringabire zagutse, Umumenyi uehebuje."

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَمْ تَكُفُّرُونَ بِإِيمَانِ اللَّهِ  
وَأَنْتُمْ تَشَهَّدُونَ

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَمْ تَكُلِّسُونَ الْحَقَّ بِالْبَطْلِ  
وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

وَقَالَ طَالِيفٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِنَّمَا  
يَا لِلَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ إِيمَانُهُ وَجْهَ النَّهَارِ  
وَالْكُفَّارُ أَخْرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبَعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ  
الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِّثْلَ مَا  
أُتِيَتُمْ أَوْ حَاجُوكُمْ عِنْ دِينِكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ  
بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ

74. (**Allah**) aharira impuhwe ze (ubutumwa) uwo ashaka, kandi **Allah** ni we Nyiringabire zihambaye.

75. No mu bahawe igitabo, hari uwo waragiza umutungo utubutse akawugusubiza, no muri bo kandi harimo uwo waragiza idinari<sup>55</sup> ntarigusubize, keretse ubanje kumutitiriza (umwishiya ubudahwema). Ibyo babiterwa n'uko bavuze bati "Nta nkurikizi kuri twe mu guhemukira abadasobanukiwe (abatari twe)." Bakanabeshyera **Allah** (ko yabibaziruriye) kandi babizi (ko babeshya).

76. Si uko bimeze! Ahubwo usohoje isezerano rye akanatinya **Allah**, rwose **Allah** akunda abamutinya.

77. Mu by'ukuri abagurana isezerano rya **Allah** n'indahiro zabo indonke niyo zaba nke, abo nta mugabane w'ingororano bazabona ku munsi w'imperuka. Ntabwo **Allah** azabavugisha, ntazarabareba (n'ijisho ry'impuhwe) ku munsi w'izuka, ndetse nta n'ubwo azabeza (ibyaha byabo) kandi bazahanishwa ibihano bibabaza.

78. Mu by'ukuri, no muri bo hari abagoreka indimi zabo iyo basoma igitabo (Tawurati), kugira ngo mukeke ko biri mu gitabo, kandi bitari mu gitabo.

يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ  
الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾

\* وَمَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمِنَهُ بِقِنْطَارٍ  
يُؤْدِهِ إِلَيْكَ وَمَنْ هُمْ مَنْ إِنْ تَأْمِنَهُ بِدِينَارٍ لَا  
يُؤْدِهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَادْمَتْ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ  
بِإِيمَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأَمْرِ شَيْءٌ  
وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

بَلِّيْ مَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

إِنَّ الَّذِينَ يَشْرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ  
ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي الْأَخْرَةِ  
وَلَا يُكْلِمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ  
الْقِيَمَةِ وَلَا يُرَى كَيْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

٧٧

وَإِنْ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُنَ الْسِنَّتَهُمْ بِالْكِتَابِ  
لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنْ

<sup>55</sup>Idinari: Ni igipimo cya zahabu cyakoreshwaga mu bihe byo hambere nk'ifaranga.

Bakavuga bati “Ibyo ni ibyaturutse kwa Allah” kandi bitaraturutse kwa Allah. Bakanahimbira Allah ikinyoma kandi babizi.

الْكِتَبِ وَيَقُولُونَ هُوَ مَنْ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا هُوَ مَنْ عِنْدَ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ

وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧﴾

79. Ntibibaho ko umuntu Allah yahaye igitabo, ubushishozi (gukiranura abantu) ndetse n’ubuhanuzi, maze yarangiza akabwira abantu ati “Nimube abagaragu banje aho kuba aba Allah!” Ahubwo (yababwira ati) “Nimube abamenyi bubaha Allah kuko mwigisha igitabo no kubera ko mukiga.”

مَا كَانَ لِشَرِّيرٍ أَنْ يُؤْتِيهِ اللَّهُ الْكِتَبَ  
وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُفُورًا  
عِبَادًا لِّمَنْ دُونَ اللَّهِ وَلَكِنْ كُفُورًا رَّبِّينَ  
بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَبَ وَبِمَا

كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧﴾

80. Ndetse nta n’ubwo yabategeka kugira abamalayika n’abahanuzi ibigirwamana. Ese yabategeka guhakana nyuma y’uko mubaye Abayisilamu?

وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَخَذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّنَ  
أَرْبَابًا أَيَّامُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذَا نَتَمُ مُسْلِمُونَ

﴿٨﴾

81. Unibuke (yewe Muhamadi) ubwo Allah yagiranaga n’abahanuzi isezerano rikomeye (rigira riti) “Nimberha igitabo n’ubushishozi, maze Intumwa (Muhamadi) ikabageraho ishimangira ibyo mufite, mugomba kuzayemera mukanayirengera.” (Allah) aravuga ati “Ese murabyemeye munabigira isezerano ryanje?” Baravuga bati “Turabyemeye.” Aravuga ati “Ngaho nimubihamye, nanjye ndi kumwe namwe mu babihamya.”

وَإِذَا حَدَّ اللَّهُ مِيقَاتَ النَّبِيِّنَ لَمَّا أَتَيْتُكُمْ مِنْ  
كِتَبٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ  
مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ  
وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَفَرَرْتُمْ وَلَأَخْذُنُّ عَلَى  
ذَلِكُمْ إِصْرِي ﴿٩﴾ قَالُوا أَقْرَنَا قَالَ فَأَشْهَدُوا  
وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿١٠﴾

82. Ariko abazahindukira (bakica isezerano) nyuma y'ibyo, abo ni bo nkozi z'ibibi.

فَمَنْ تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ  
الْفَاسِقُونَ ﴿٨٢﴾

83. Ese idini ritari irya Allah ni ryo bashaka, kandi ari We ibiri mu birere no mu isi byicishaho bugufi, bibishaka cyangwa bitabishaka? Kandi iwe ni ho bose bazasubizwa.

أَفَغَيْرِ دِينِ اللَّهِ يَعْبُرُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي  
الْسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ  
يُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

84. Vuga (yewe Muhamadi) uti "Twemeye Allah n'ibyo twahishuriwe, ibyahishuriwe Aburahamu, Isimayili, Isihaka, Yakobo, urubyaro rwe, ibyahawwe Musa, Issa (Yesu) ndetse n'ibyahawwe abahanuzi biturutse kwa Nyagasan wabo. Nta n'umwe turobanura muri bo, kandi (Allah) ni we twicishaho bugufi."

قُلْ إِنَّمَا يَأْلِمُ اللَّهُ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَمَا أَنْزَلَ  
عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ  
وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى  
وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ  
مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٨٤﴾

85. Uzahitamo idini ritari Isilamu, ntabwo azaryakirirwa, kandi ku munsi w'imperuka azaba mu banyagihombo.

وَمَنْ يَتَّبِعَ غَيْرَ إِلَلٰهِ إِلَّا سَلَمٌ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ  
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِيرِينَ ﴿٨٥﴾

86. Ni gute Allah yayobora abantu bahakanye nyuma y'uko bemeye, kandi barahamije ko Intumwa (Muhamadi) ari ukuri, ndetse baranagezweho n'ibimenyetso bigaragara? Kandi Allah ntayobora abantu b'inkozi z'ibibi.

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ  
إِيمَانِهِمْ وَشَهَدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ  
وَجَاءَهُمْ أَبْيَنَتُهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ  
أَفَظْلَمُونَ ﴿٨٦﴾

87. Abo igihembo cyabo ni ukuzagerwaho n'umuvumo wa **Allah**, uw'abamalayika n'uwanabantu bose.

أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ  
وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ

88. Bazawubamo ubuziraherezo. Ntibazoroherezwa ibihano ndetse nta n'ubwo bazahabwa agahenge.

خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُنْخَفَفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ  
يُنَظَّرُونَ

89. Uretse ba bandi bicujije nyuma y'ibyo bakanakora ibikorwa byiza. Mu by'ukuri, **Allah** ni Ubabarira ibyaha, Nyirimpuhwwe.

إِلَّا الَّذِينَ تَأْبُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَاصْلَحُوا  
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

90. Mu by'ukuri ba bandi bahakanye nyuma y'uko bemeye, hanyuma bakongera ubuhakanyi bwabo (kugeza urupfu rubagezeho); ukwicuza kwabo ntikuzigera kwemerwa, kandi abo ni bo bayobye.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا  
كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ  
الظَّالِمُونَ

91. Mu by'ukuri ba bandi bahakanye bakanapfa ari abahakanyi, nta n'umwe muri bo uzemererwa kwigura (kugira ngo adahanwa) n'ubwo yatanga zahabu yuzuye isi. Abo bazahanishwa ibihano bibabaza, ndetse ntibazagira ababatabara.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا نَوْهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ  
يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ  
افْدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِّنْ  
نَّصِيرٍ

92. Ntimuzigera mubona ibyiza (Ijuru) keretse mutanze mu byo mukunda, kandi icyo ari cyo cyose muzatanga, mu by'ukuri **Allah** arakizi neza.

لَنْ تَنَالُوا الْبَرَحَى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا  
تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

93. Ibiribwa byose byari biziruwe kuri bene Isiraheli, uretse ibyo Isiraheli (Yakobo) yiziririye ubwe mbere y'uko Tawurati ihishurwa. Vuga uti "Ngaho nimuzane Tawurati, muysisome (mugaragaze ko ibyo Yakobo yaziririye ubwe ari **Allah** wabimuziririye) niba koko muri abanyakuri."

94. Bityo uzahimbira **Allah** ibyo atavuze nyuma y'ibyo, abo ni bo nkozi z'ibibi (abahakanyi ba nyabo).

95. Vuga (yewe Muhamadi) uti "**Allah** ni we uvuga ukuri." Bityo, nimukurikire idini rya Aburahamu wasengaga Imana imwe rukumbi, kandi ntiyari mu babangikanyamana.

96. Mu by'ukuri, ingoro ya mbere yashyiriweho abantu (kugira ngo isengerwemo **Allah**) ni ya yindi iri i Baka (Maka); yuje imigisha ikaba n'umuyoboro ku biremwa.

97. Irimo ibimenyetso bigaragara; (muri byo hari) ahantu Aburahamu yahagaze (ayubaka); kandi uyinjiyemo aba atekanye. **Allah** yategetse abantu gukora umutambagiyo mutagatifu (Hija) kuri iyo ngoro k'ubifitiye ubushobozi. Uzahakana (itegeko rya Hija), mu by'ukuri, **Allah** arihagije nta cyo akeneye ku biremwa.

\* كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَخْتِ إِسْرَائِيلَ

إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْزَلَ الْوَرْدَةُ قُلْ فَأُؤْلَئِكَ بِالْقَوْرَدَةِ فَاتَّلُوهَا إِنْ

كُلُّ تُمُرٍ صَدِيقِينَ

فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ

فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

٩٤ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّسِعُوا مَلَةً إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا

كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِكَثَةٍ مُبَارَكًا

وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ

فِيهِءَاءِ يَكُتُّ بَيْنَتُ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ

كَانَءَامِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِنْ

أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ

الْعَالَمِينَ

98. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Yemwe abahawe igitabo!” Kuki muhakana ibimenyetso bya Allah, kandi Allah ari Umuhamya wibyo mukora?”

99. Vuga uti “Yemwe abahawe igitabo! Kuki mukumira abashaka kugana inzira ya Allah (idini rya Isilamu), muyihimbira ko idatunganye, nyamara namwe muri abahamya (ko Isilamu ari yo nzira y'ukuri)? Kandi Allah ntabwo ayobewe ibyo mukora.”

100. Yemwe abemeye! Nimugira bamwe mwumvira mu bahawe igitabo, bazabasubiza mu buhakanyi nyuma yuko mwamaze kwemera!

101. Ni gute mwahakana kandi musomerwa amagambo ya Allah ndetse n'Intumwa ye iri kumwe namwe? Kandi uzashikama ku nzira ya Allah, rwose aba ayobowe inzira igororotse.

102. Yemwe abemeye! Nimugandukire Allah uko bikwiye, kandi ntimuzapfe mutari Abayisilamu (nyakuri).

103. Munafatane urunana mwese ku mugosi wa Allah (Qur'an) kandi ntimugatatane. Munibuke ingabire za Allah yabahundagajeho ubwo bamwe bari abanzi b'abandi, nuko ahuza imitima yanyu maze ku

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَمْ تَكُفُّرُونَ بِعِيَاتِ اللَّهِ  
وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٨﴾

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَمْ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ  
اللَّهِ مَنْ إِيمَانَ تَبَعُّونَهَا عَوْجَاجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءٌ  
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٩﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِيمَانُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ  
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرْدُو كُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

كُفَّارِينَ ﴿١٠٠﴾

وَكَيْفَ تَكُفُّرُونَ وَأَنْتُمْ تُتَلَّ عَلَيْكُمْ إِيمَانُ  
اللَّهِ وَفِيهِمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ  
هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٠١﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِيمَانُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ قُوَّاتِهِ وَلَا  
تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسَلِّمُونَ ﴿١٠٢﴾

وَأَعْصِمُوا بِحَجْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا دُرُّوا  
نِعْمَتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ  
بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْرَانًا

bw'ingabire ze muba abavandimwe. Mwari no ku nkengero z'urwobo rw'umuriro arawubakiza. Uko ni ko Allah abagaragariza ibimenyetso bye kugira ngo muyoboke.

104. Kandi muri mwe habemo itsinda rihamagarira gukora ibyiza, ritegeka ibiboneye rikanabuza ibibi. Rwose abo ni bo bakiranutsi.

105. Ntimuzanabe nka ba bandi batatanye ntibananavuge rumwe nyuma y'uko ibimenyetso bigaragara bibagezeho. Abo bazahanishwa ibihano bihambaye.

106. Ku munsi (w'imperuka) uburanga buzererana ubundi bwijime; abo uburanga bwabo buzaba bwijimye (bazabwirwa) bati "Ese mwahakanye nyuma y'uko mwemeye? Ngaho nimusogongere ububabare bw'ibihano kubera ubuhakanyi bwanyu."

107. Naho abo uburanga bwabo buzaba bwererana, bazaba mu mpuhwe za Allah, bazazibemo ubuziraherezo.

108. Ayo ni amagambo ya Allah tugsomera mu kuri (yewe Muhamadi), kandi Allah ntajya ahuguza ibiremwa.

وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذْنَاكُمْ  
مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ

تَهْتَدُونَ ﴿١٠﴾

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ  
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَوْلَئِكَ هُمُ

الْمُفْلِحُونَ ﴿١١﴾

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَأَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا  
جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأَوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

﴿١٢﴾

يَوْمَ تَبَيَّضُ وُجُوهٌ وَسَوْدٌ وُجُوهٌ فَإِنَّمَا الَّذِينَ  
أَسْوَدَتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرُهُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ  
فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُّرُونَ ﴿١٣﴾

وَإِنَّمَا الَّذِينَ أَبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ  
هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿١٤﴾

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتَلوُهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ  
يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٥﴾

109. Kandi ibiri mu birere n'ibiri mu isi ni ibya Allah, ndetse kwa Allah ni ho ibintu byose bizarubizwa.

110. Muri umuryango uboneye watoranyirijwe abantu; mubwiriza ibyiza mukabuza ibibi kandi mukanemera Allah. Iyo abahawe igitabo baza kwemera, byari kuba byiza kuri bo. Muri bo hari abemeye ariko abensi muri bo ni ibygomeke.

111. Nta cyo bazabatwara uretse kubabangamira (mu mvugo) kandi nibanabarwanya bazabatera imigongo (bahunga), kandi ntibazatabarwa.

112. Bokamwe no gusuzugurika aho bari hose, uretse ku bw'isezerano rya Allah n'isezerano ry'abantu (amasezerano yemerera abatari Abayisilamu kuba mu bihugu bya kiyisilamu batekanye). Bahora barakariwe na Allah ndetse bokamwe n'ubukene. Ibyo ni ukubera ko bahakanaga ibimenyetso bya Allah bakanica abahanuzi kandi bidakwiye. Ibyo ni ukubera ko bigometse bakanarengera (amategeko ya Allah).

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿١٩﴾

كُنْتُ حَيْرَ أَمَّةً أَخْرَجْتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ  
بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْلَاءَمَّا  
لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمْ  
الْفَسِقُونَ ﴿٢٠﴾

لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذْنِي وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ  
يُولُوكُمُ الْأَدْبَارُ شَلَّا يُنَصَّرُونَ ﴿٢١﴾

ضَرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْذِلَّةُ أَيْنَ مَا نَقَفُوا إِلَّا  
يَحْبَلُ مِنَ اللَّهِ وَحْبَلٌ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا  
بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضَرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَةُ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِعِيَاتِ اللَّهِ  
وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا  
عَصَوْهُ كَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٢٢﴾

113. Ariko bose ntibameze kimwe; mu bahawe igitabo harimo itsinda ritunganye (kuko ryemeye ubutumwa bwa Muhamadi), risoma amagambo ya Allah mu bihe by'ijoro kandi rikubama (risenga).

114. Bemera Allah n'umunsi w'imperuka, bagategeka gukora ibiboneye, bakabuza gukora ibibi, bakanarushanwa mu kwihutira gukora ibyiza. Rwose abo ni bamwe mu ntungane.

115. Ndetse ibyiza byose bazakora, ntibazabura kubihemberwa. Kandi Allah azi neza abamutinya.

116. Naho ba bandi bahakanye, mu by'ukuri nta cyo imitungo yabo n'urubyaro rwabo bizabamarira kwa Allah. Rwose abo ni abo mu muriro; bazawubamo ubuziraherezo.

117. Urugero rw'ibyo batanga muri ubu buzima bw'isi, ni nk'urw'umuyaga urimo imbeho nyinshi, wangiza ibihingwa by'abantu bihemukiye (b'abanyabyaha) ukabyoreka. Nyamara Allah ntiyabahuguje ahubwo ni bo uwababo bihuguje.

118. Yemwe abemeye! Ntimukagire inshuti magara abatari muri mwe, kuko badahwema kubagirira inabi

\* لَيْسُوا سَوَاءٌ مَّنْ أَهْلَ الْكِتَابُ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتَلَوَنَّ إِيمَانَ اللَّهِ إِنَّمَا أَيْلِلُ وَهُمْ

يَسْجُدُونَ ﴿١٣﴾

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَرِّعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأَوْلَئِكَ مَنْ أَصْلَحَيْنَ ﴿١٤﴾

الصَّالِحِينَ

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكَفَّرُوهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ بِالْمُتَّقِينَ ﴿١٥﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأَوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِيلُونَ ﴿١٦﴾

مَثُلُّ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثُلِ رِيحٍ فِيهَا صَرُّ أَصَابَتْ حَرَثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهَلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمُهُمُ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَ كُمْ خَبَالًا وَدُولًا مَا عَنْتُمْ قَدْ

banabifuriza ibibi. Rwose urwango rwagaragaye mu mvugo zabo kandi ibyo ibituza byabo bihishe ni byo bikomeye. Mu by'ukuri, twabasobanuriye ibimenyetso, niba koko mufite ubwenge butekereza.

119. Dore mwe murabakunda nyamara bo ntibabakunda, kandi mwemera ibitabo byose. N'iyo bahuye namwe bavuga (babaryarya) bati "Twaremeye", ariko bakwiherera bakabarumira imitwe y'intoki (babakubitira agatoki ku kandi) kubera uburakari (ndengakamere) babafitiye. Vuga uti "Nimwicwe n'uburakari bwanyu!" Mu by'ukuri Allah ni Umumenyi uhebuje w'ibiru mu bituza.

120. Iyo mugezweho n'icyiza, birabababaza, mwagerwaho n'ikibi bakabyishimira. Nyamara nimwihangana mukanatinya (Allah), imigambi mibisha yabo nta cyo izabatwara. Mu by'ukuri, Allah azi neza ibyo bakora.

121. Kandi wibuke (yewe Muhamadi) ubwo wazindukaga mu gitondo usize umuryango wawe (ukajya) gushyira abemerama mu birindiro by'urugamba (rwabereye ku musozi wa Uhudi). Kandi Allah ni Uwumva bihebuje, Umumenyi uhebuje.

بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي  
صُدُورُهُمْ أَكْبَرٌ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ  
كُتُرٌ تَعْقُلُونَ ﴿١١٨﴾

هَآئَنُتُمْ أُولَئِنَّا تُحْبِبُوهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ  
بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُومٌ قَالُوا إِنَّا آمَنَّا وَإِذَا  
خَوَّا عَضُُوا عَلَيْكُمُ الْأَنَاءِ مِنَ الْغَيَظِ  
قُلْ مُؤْمِنُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ  
الْأَصْدُورِ ﴿١١٩﴾

إِنْ تَمْسَكُمْ حَسَنَةً تَسْوِهُمْ وَإِنْ تُصِبُّمُ  
سَيِّئَةً يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصِرُّوا وَتَتَّقُوا لَا  
يُضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ  
مُحِيطٌ ﴿١٢٠﴾

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلَكَ تُبَوَّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ  
لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِ ﴿١٢١﴾

122. Unibuke ubwo amatsinda abiri muri mwe yashaka guhunga urugamba kandi Allah arri umunywanyi (umurengezi) wabo. Bityo abemera bajye biringira Allah.

123. Kandi rwose Allah yarabatabaye mu rugamba rwabereye i Bad'ri igihe mwari mwasuzuguritse (nta ntege mufite). Ngaho nimugandukire Allah kugira ngo mushimire.

124. (Ibuka) ubwo wabwiraga abemera uti "Ese ntibibahagije kuba Nyagasanai wanyu yabatera inkunga y'abamalayika ibihumbi bitatu (bavuye mu ijuru)?"

125. Ni byo! Nimwihangana mukanatinya Allah, nuko (abanzi) bakabatera bihuse, Nyagasanai wanyu azabatera inkunga y'abamalayika ibihumbi bitanu bafite ibimenyetso bibaranga.

126. Ibyo kandi nta kindi Allah yabikoreye, uretse kuba inkuru nziza kuri mwe no kugira ngo imitima yanyu ituze. Nta n'ahandi intsinzi ituruka uretse kwa Allah, Umunyacyubahiro bihebuje, Nyirubugenge buhambaye.

127. (Ibyo yabikoze) kugira ngo arimbure agatsiko k'abahakanye cyangwa agasuzuguze, nuko batahe bamwaye.

إِذْ هَمَّتْ طَائِقَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشِلَا وَاللهُ  
وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلَيَسْتَوْ كَلَّ الْمُؤْمِنُونَ

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذْلَهُ فَاتَّقُوا اللهَ  
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنَّ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمْدِدُكُمْ  
رَبُّكُمْ بِشَاهَةٍ إِلَفِ مِنَ الْمَلِئَكَةِ مُنْزَلِينَ

بَلَى إِنْ تَصِيرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ  
فَوْهَمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ إِلَفِ  
مِنَ الْمَلِئَكَةِ مُسَوِّمِينَ

وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشَرَى لَكُمْ وَلَتَطْمَئِنَّ  
قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ  
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ  
يَكْتِبُهُمْ فَيَنَالُهُمْ أَخَابِرُهُمْ

128. Kuba (**Allah**) yakwakira ukwicuza (kw'abakwemeye yewe Muhamadi, bakagukurikira) cyangwa yahana (abazakomeza guhakana); ibyo nta bushobozu ubifitiye, kuko mu by'ukuri ari inkozi z'ibibi.

129. Kandi ibiri mu birere n'ibiru mu isi ni ibya **Allah**. Ababarira uwo ashaka akanahana uwo ashaka. Kandi **Allah** ni Ubabarira ibyaha, Nyirimpuhwe.

130. Yemwe abemeye! Ntimukarye Riba mukomeza kuzitubura, kandi mugandukire **Allah** kugira ngo mugere ku ntsinzi.

131. Munatinye umuriro wateguriwe abahakanyi.

132. Ndetse munumvire **Allah** n'Intumwa (Muhamadi) kugira ngo mugirirwe impuhwe.

133. Kandi mwihutire gushaka imbabazi ziva kwa Nyagasani wanyu, n'ijuru rifite ubugari bungana n'ibirere n'isi; ryateguriwe abagandukira (**Allah**),

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ  
يُعَذَّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿٢٨﴾

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ  
لِمَنْ يَشَاءُ وَيَعْدِدُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ  
رَّحِيمٌ ﴿٢٩﴾

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِمَانُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَأً  
أَصْعَافًا مُضَعَّفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ ﴿٣٠﴾

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٣١﴾

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٣٢﴾

\* وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ  
وَجَنَّةٍ عَرَضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ  
لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٣﴾

134. Ba bandi batanga mu bihe byiza no mu bihe by'ingorane, abatsinda uburakari, n'abababarira abantu, kandi **Allah** akunda abakora ibyiza (nk'abo).

135. Na ba bandi iyo bakoze icyaha cy'urukozasoni cyangwa bakihemukira (batumvira **Allah**), bibuka **Allah** nuko bagasaba imbabazi z'ibyaha byabo -ese ni nde wababarira ibyaha uretse **Allah**? ntibanagume mu byo bakoraga kandi babizi (ko ari ibyaha).

136. Abo ibihembo byabo ni imbabazi ziturutse kwa Nyagasani wabo n'ijuru ritembambo imigezi, bazabamo ubuziraherezo. Mbega ukuntu ibihembo by'abakora (neza) bihebuje!

137. Mbere yanyu hagiye habaho ingero (z'ibyabaye ku bababanjirije). Ngaho nimutambagire isi maze murebe uko iherezo ry'abahakanye ryagenze.

138. Ibi (Qur'an) ni ibisobanuro ku bantu, bikaba umuyoboro n'inyigisho ku batinyamana.

139. Ntimucike intenge cyangwa ngo mugire agahinda, kandi ari mwe muri hejuru (mufite intsinzi), niba koko muri abemera.

الَّذِينَ يُنِفِّقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ  
وَالْكَافِرُ مِنْ أَكْثَرِهِمْ لَا يَعْلَمُونَ  
أَنَّ النَّاسَ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا  
أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا  
لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَعْفُرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ  
يُصْرُّ وَأَعْلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ  
وَجَنَّتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا أَلَانَهُرُ خَالِدِينَ فِيهَا  
وَتَعْمَلُ أَجْرًا لِلْعَمَلِينَ

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَّتٌ فَسِيرُوا فِي  
الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  
الْمُكَذِّبِينَ

هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ  
لِلْمُتَّقِينَ

وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَخْرُقُوا وَإِنَّمَا الْأَعْلَوْنَ إِن  
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

140. Niba mwagezweho n'igikomere (cyangwa urupfu mu rugamba rwa Uhudi), mu by'ukuri n'abandi (abanzi banyu) igikomere nk'icyo cyabagezecho (mu rugamba rwa Bad'ri). Iyo ni iminsi dusimburanya hagati y'abantu (gutsinda cyangwa gutsindwa) no kugira ngo **Allah** agaragaze abemeye, anagire muri mwe intwari (zicwa ziharanira ubusugire bw'ukwemera kwazo). Kandi **Allah** ntakunda inkozi z'ibibi.

141. No kugira ngo **Allah** yeze abemera ndetse anoreke abahakanyi.

142. Cyangwa mwibwira ko muzinjira mu ijuru **Allah** atari yabagerageza ngo yerekane abaharaniye inzira ye n'abihangana muri mwe?

143. Nyamara mwajyaga mwifusa urupfu (kugwa ku rugamba) mbere y'uko muhura na rwo. Ngaho murarubonye n'amaso yanyu.

144. Kandi Muhamadi nta kindi ari cyo uretse kuba Intumwa, yanabanjirijwe n'izindi ntumwa. Ese aramutse apfuye cyangwa akicwa mwahita muhindukira (mugasubira mu buhakanyi)? N'uzahindukira nta cyo bizatwara **Allah**; kandi **Allah** azagororera abashimira.

إِن يَمْسِكُ كُوْفَرًا فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرَّهُ  
مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ أُنْتَاسِ  
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَخَذَ مِنْكُمْ  
شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٠﴾

وَلِيُمَحَّصَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَمْحَقَ  
الْكَافِرِينَ ﴿١٤١﴾

أَفَحَسِبُتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمَ اللَّهُ  
الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٢﴾

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلَقَّوْهُ  
فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿١٤٣﴾

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِ  
الرُّسُلُ أَئِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ أَنْقَلَبْتُمْ عَلَىَّ  
أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىَّ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يُضْرَ  
اللَّهُ شَيْعًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾

145. Kandi nta muntu wapfa bitari ku bushake bwa Allah no ku gihe cyagenwe. N'uzashaka ingororano zo ku isi tuzazimuha, ndetse n'uzashaka ingororano zo ku munsi w'imperuka tuzazimuha. Kandi ni ukuri tuzagororera abashimira.

وَمَا كَانَ لِنَفِيسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ  
اللهِ كَتَبَاهُ مُؤْجَلاً وَمَنْ يُرِدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا  
تُؤْتَهُ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدُ ثَوَابَ الْآخِرَةِ تُؤْتَهُ مِنْهَا  
وَسَنَجِزِي اللَّهُ كَيْرِينَ ﴿١٤٥﴾

146. Ni bangahe mu bahanuzi barwanye bari kumwe n'abayoboke babo benshi, ariko ntibatezuka kubera ibyababayeho mu nzira ya Allah, ntibanacika intege ndetse ntibanova ku izima. Kandi Allah akunda abihangana.

وَكَائِنٌ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِئُوْنَ كَثِيرٌ فَمَا  
وَهُنُوا إِلَّا أَصَابُوهُمْ فِي سَيِّلِ اللهِ وَمَا ضَعْفُوا وَمَا  
أَسْتَكَانُوا وَاللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٦﴾

147. Nta rindi jambo ryabarangaga uretse kuvuga bat "Nyagasani" wacu! Tubabarire ibyaha byacu no kurengera kwacu mu byo dukora; uhe ibirenge byacu gushikama, udutabare, kandi uduhe gutsinda abahakanyi."

وَمَا كَانَ قَوَّاهُمُ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبُّنَا أَعْفَرَنَا ذُنُوبَنَا  
وَإِشْرَافًا فِي أَمْرِنَا وَثَيْتُ أَقْدَامَنَا وَأَنْصُرَنَا  
عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿١٤٧﴾

148. Nuko Allah abaha ingororano zo ku isi n'ingororano zihebuje zo ku munsi w'imperuka. Kandi Allah akunda abakora ibyiza.

فَأَتَاهُمُ اللهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابٍ  
الْآخِرَةِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤٨﴾

149. Yemwe abemeye! Nimwumvira abahakanye, bazabasubiza mu buhakanyi, maze mube abanyagihombo.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ  
كَفَرُوا يَرْدُوْكُمْ عَلَىٰ أَعْقَبِكُمْ  
فَتَنْقِلُبُوا أَخْسِرِينَ ﴿١٤٩﴾

150. Ahubwo, **Allah** ni We Mugenga wanyu, kandi ni We Mutabazi uhebuje.

151. Tuzatera ubwoba mu mitima y'abahakanye kuko babangikanyije **Allah** (n'ibigirwamana) badafitiye gihanya. Ubuturo bwabo buzaba umuriro kandi ni cyo cyicaro kibi cy'inkozi z'ibibi.

152. Kandi rwose **Allah** yasohoje isezerano rye kuri mwe (ryo gutsinda urugamba rwa Uhudi), ubwo mwabicaga abibahereye uburenganzira, kugeza ubwo mudohotse, mukajya impaka ku itegeko (ry'Intumwa ryo kutava mu birindiro). Mwanyuranyije na ryo nyuma y'uko abereka ibyo mukunda (intsinzi). Muri mwe hari abashaka isi (iminyago) no muri mwe hari abashaka imperuka. Hanyuma (**Allah**) atuma babigaranzura kugira ngo abagerageze. Rwose yarabababariye; kandi **Allah** ni Nyiringabire ku bemera.

153. Mwibuke ubwo mwirukaga muhunga ubudakebuka, mu gihe Intumwa (Muhamadi) yabahamagaraga iri inyuma yanyu (ngo mugaruke), nuko (**Allah**) akabahemba ishavu ryiyongera ku rindi. (Yarabibababariye) kugira ngo mutababazwa n'ibyabacitse (intsinzi n'iminyago) ndetse n'ibyababayeho (gutsindwa).

بِإِلٰهِ اللَّهِ مَوْلَأَكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّصَارَىٰ

١٥٠

سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلْرَعَبَ  
بِمَا أَشَرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ  
سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ الْتَّارُ وَبَيْسَ  
مَثْوَى الظَّالِمِينَ

١٥١

وَلَقَدْ صَدَقَ كُمُّ اللَّهِ وَعْدَهُ إِذْ  
تَحْسُونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَقًّا إِذَا فِسْلَتُمْ  
وَتَنْزَعُتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ  
مَا أَرْبَكْتُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْ كُمُّ مَنْ  
يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْ كُمُّ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ  
ثُمَّ صَرَفَ كُمُّ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَ كُمُّ  
وَلَقَدْ عَفَّا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَىٰ  
الْمُؤْمِنِينَ

١٥٢

\* إِذْ تُصِدُّونَ وَلَا تَلُوتُ  
عَلَّا أَحَدٌ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي  
آخِرَتِكُمْ فَأَثْبَكُمْ غَمَّا بِغَمِّ  
لِكَيْلَا تَحْرِنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا

Kandi Allah azi byimazeyo ibyo mukora.

۝ مَا أَصَبَّكُمْ وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

١٥٣

154. Maze nyuma y'ishavu abamanurira ituze, itsinda muri mwe rirasinzira (kugira ngo baruhuke), mu gihe irindi tsinda ryari ryihugiyeho, ritekereza kuri Allah ibitari ukuri; ibitekerezo bya kijiji. Nuko baravuga bat "Ese ibi (kuza ku rugamba) hari uruhare twabigizemo?" Vuga (yewe Muhamadi) uti "Gahunda zose zigenwa na Allah", bahisha mu mitima yabo ibyo batakugaragariza, bavuga bat "Iyo tuza kugira amahitamo ntitwari kwicirwa hano." Vuga uti "N'yo muza kuguma mu ngo zanyu, abagenewe gupfa bari kujya kugwa aho bagenewe." (Ibyo byose byabaye) kugira ngo Allah agaragaze ibiri mu bituza byanyu ndetse anasukure ibiri mu mitima yanyu. Kandi Allah ni Umumenyi uhebuje w'ibiri mu bituza (byanyu).

155. Mu by'ukuri ba bandi bahunze (urugamba rwa Uhudi) muri mwe umunsi amatsinda abiri yasakiranaga, rwose Shitani yarabasitaje kubera bimwe mu byo bakoze. Ariko Allah yarabababariye. Rwose Allah ni Ubabarira ibyaha, Uduhaniraho.

۝ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغُرْأَمَةَ نُعَاسًا  
يَغْشَى طَابِقَةً مِنْكُمْ وَطَابِقَةً قَدْ أَهْمَمَهُمْ  
أَنفُسُهُمْ يَظْلُمُونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ  
الْجَهِيلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنْ أَمْرٍ مِنْ  
شَيْءٍ ۝ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلُّهُ لِلَّهِ ۝ يُخْفُونَ فِي  
أَنفُسِهِمْ مَا لَا يُبَدِّوْنَ لَكُمْ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنْ  
الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قَاتَلْنَا هَنْهَا ۝ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي  
يُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى  
مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِي اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ  
وَلِيَمْحَصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ  
الصُّدُورِ ۝

١٥٤

۝ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
الْجَمِيعُونَ ۝ إِنَّمَا أَسْتَرْلَهُمُ الشَّيْطَانُ  
بِعَيْضٍ مَا كَسَبُوا ۝ وَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ

عَفَوْرُ حَلِيمٌ ۝

١٥٥

156. Yemwe abemeye! Ntimukabe nka ba bandi bahakanye bavuga ku byerekeye abavandimwe babo bari ku rugendo cyangwa ku rugamba bati “Iyo bagumana natwe ntibari gupfa cyangwa ngo bicwe.” Ibyo Allah abikora kugira ngo bibe agahinda mu mitima yabo (kuko batemera igeno). Nyamara Allah ni we utanga ubuzima akanatanga urupfu. Kandi Allah ni Ubona bihebuje ibyo mukora.

157. Kandi muramutse mwiciwe mu nzira ya Allah (ku rugamba rutagatifu) cyangwa mugapfa (mutaguye ku rugamba, nta cyo muzaba muhombye), mumenye ko imbabazi n’impuhwe bya Allah biruta ibyo barundanya (mu mitungo yo ku isi).

158. Kandi nimuramuka mupfuye (urw’ikirago) cyangwa mukicwa (ku rugamba), rwose kwa Allah ni ho muzakoranyirizwa.

159. No ku bw’impuhwe za Allah (yewe Muhamadi) waraboroheye. Kandi iyo uza kuba umunyamwaga n’umunyamutima mubi, bari kuguhunga. Bityo bababarire, ubasabire imbabazi (kwa Allah), unabagishe inama mu byo ukora. Kandi mu gihe ufashé umwanzuro (nyuma yo kugisha inama), ujye wiringira Allah; mu by’ukuri, Allah akunda abamwiringira.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا  
وَقَالُوا لِإِلَهِنِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا  
غُرَّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُلُّوا  
لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَلَهُ  
يُحِبُّ وَيُمِيتُ وَلَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

وَلَئِنْ قُتِلُوكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمُّرُ لَمَغْفِرَةٍ  
مِّنْ اللَّهِ وَرَحْمَةٍ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

وَلَئِنْ مُتُّمُّرٌ أَوْ قُتِلُوكُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ

فِيمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لِنَتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا  
غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا نَفَضُوا مِنْ حَوَالَكَ فَاعْفُ  
عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ إِذَا  
عَزَّمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

160. Allah aramutse abatabaye ntawabatsinda, anabatereranye ni nde wundi utari We wabatabara? Bityo, abemera bajye biringira Allah (wenyine).

إِنْ يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ  
يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ  
وَعَلَى اللَّهِ فَلَيَسْ تَوَكِّلُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٦٠﴾

161. Ntibikwiye ko umuhanuzi yariganya (yikubira iminyago). N'uwo ari we wese uzakora uburiganya, ku munsi w'imperuka azaryozwa ibyo yariganyije. Hanyuma buri muntu ahemberwe ibyo yakoze mu buryo bwuzuye, kandi ntibazahuguzwa.

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغْلِبَ وَمَنْ يَغْلِبُ يَأْتِ بِمَا  
غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوقَّفَ كُلُّ نَفْسٍ مَا  
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

162. Ese ukora agamije kwishimirwa na Allah ni kimwe n'uwikururiye uburakari bwa Allah ndetse n'icyicaro cye kikaba ari mu muriro? Kandi (mu muriro) ni ryo shyikiro ribi!

أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطِ مَنْ  
الَّهُ وَمَا وَلَهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٦٢﴾

163. Abo bombi bazaba bari mu nzego (zitandukanye) imbere ya Allah, kandi Allah ni Ubona bihebuje ibyo bakora.

هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٣﴾

164. Mu by'ukuri Allah yahaye inema abemera ubwo yaboherezagamo Intumwa ibaturutsemo, ibasomera amagambo Ye, ikanabeza (ibyaha byabo kuko bayikurikiye), ikanabigisha igitabo (Qur'an) n'ubushishozi (imigenzo y'Intumwa), kandi mbere y'ibyo bari mu buyobe bugaragara.

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ  
رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتَلَوُ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ  
وَيُرْزِكُهُمْ وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ  
وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾

165. Ese ubwo mwagerwagaho n'amakuba (mu rugamba rwa Uhudi), -nyamara mwarayakubye kabiri (ku banzi banyu mu rugamba rwa Badiri)-maze mukavuga muti “Ibi bitewe n’iki?” Vuga uti “Ibyo bitewe namwe ubwanyu (kubera ibikorwa byanyu bibi).” Mu by’ukuri **Allah** ni Ushoborabyose.

166. Kandi amakuba yababayeho umunsi amatsinda abiri yasakiranaga (mu rugamba rwa Uhudi) byari ku bushake bwa **Allah** no kugira ngo agaragaze abemera (nyakuri),

167. No kugira ngo **Allah** agaragaze indyarya, ubwo zabwirwaga ziti “Nimuze murwane mu nzira ya **Allah**, cyangwa (mudufashe) gukumira (umwanzi).” (Izo ndyarya) ziravuga ziti “Iyo tumenya ko hari urugamba, twari kubakurikira.” Kuri uwo munsi, bari hafi cyane y’ubuhakanyi kurusha uko bari abemera; bavugisha iminwa yabo ibitari mu mitima yabo. Kandi **Allah** azi bihebuje ibyo bahisha.

168. Ba bandi basigaye (mu ngo zabo) bakavuga bagenzi babo bishwe bagira batii “Iyo batwumvira ntibari kwicwa.” Babwire uti “Ngaho nimwikingire urupfu niba koko muri abanyakuri.”

أَوَلَمَّا أَصَبْتُكُمْ مُّصِيبَةً قَدْ أَصَبْتُمْ  
إِمْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ  
أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦٥﴾

وَمَا أَصَبْكُمْ يَوْمَ الْتَّقَى الْجَمْعَانِ فِي إِذْنِ اللَّهِ  
وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٦٦﴾

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا فَقِتَلُوا فِي  
سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ أَدْفَعُوا ﴿١٦٧﴾ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا  
لَا تَبْعَنَنَا هُمْ لِلْكُفَّرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ  
لِلْإِيمَنِ يَقُولُونَ بِآفَوَهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ  
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١٦٨﴾

الَّذِينَ قَالُوا لَا يُخْرِنُهُ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا  
قِتَلُوا قُلْ فَادْرُءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ  
كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٦٩﴾

169. Ntuzanacyeke na gato ko abishwe mu nzira ya Allah bapfuye; ahubwo ni bazima kwa Nyagasanii wabo, ndetse banahabwa amafunguro,

170. Bishimiye ibyo Allah yabahaye mu ngabire ze, kandi banaha inkuru nziza abatarabakurikira (abatarapfa), bakiri inyuma yabo ko batagomba kugira ubwoba (bwo gupfa mu nzira ya Allah) kandi ko batazagira agahinda.

171. Bishimira inema n'ingabire bivuye kwa Allah, kandi mu by'ukuri Allah ntaburizamo ibihembo by'abemera.

172. Ba bandi bitabye umuhamagaro wa Allah n'Intumwa (Muhamadi) nyuma y'uko bagezweho n'ibikomere; abakoze ibyiza muri bo bakanatinya (Allah), bazagororerwa ibihembo bihambaye.

173. Ba bandi abantu babwiye bati "Mu by'ukuri abantu (Abakurayishi) babateraniyeho, bityo nimubatinye." Ariko ibyo byabongereye ukwemera, maze baravuga bati "Allah araduhagije kandi ni We Murinzi mwiza."

وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتُلُواً فِي سَيِّلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ  
أَحْيَاهُ اللَّهُ عِنْدَ رِبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾

فِرَحِينَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَيَسْتَبِشُرُونَ بِالَّذِي كَلِمَ اللَّهُ بِهِمْ مِنْ  
خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴿١٧٠﴾

\* يَسْتَبِشُرُونَ بِنِعْمَةِ مِنْ اللَّهِ وَفَضْلِ  
وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧١﴾

الَّذِينَ أَسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمْ  
الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَأَتَقَوْا أَجْرُ  
عَظِيمٌ ﴿١٧٢﴾

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا  
لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادُهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسِبْنَا  
الَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾

174. Maze batahukana inema n'ingabire bya Allah nta kibi kibagezecho. Bakurikiye kwishimirwa na Allah, kandi Allah ni Nyiringabire zihambaye.

فَأَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسُهُمْ  
سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِصْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ

عَظِيمٌ  
۝

175. Mu by'ukuri, uwo ni Shitani ubatinyisha abambari be; bityo ntimuzabatinye, ahubwo muntinye niba muri abemera nyakuri.

إِنَّمَا ذَلِكُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أُولَئِكَهُو فَلَا  
تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ  
۝

176. Kandi abihutira kujya mu buhakanyi ntibakagutere agahinda; mu by'ukuri, nta cyo bashobora gutwara Allah. Allah arashaka ko nta mugabane (w'ibiza) bazabona ku munsi w'imperuka; kandi bazahanishwa ibihano bihambaye.

وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَرِّعُونَ فِي الْكُفَّارِ إِنَّهُمْ لَنِ  
يَصْرُّوَا اللَّهَ شَيْئاً يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا  
فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  
۝

177. Mu by'ukuri ba bandi bahisemo ubuhakanyi bakabugurana ukwemera, nta cyo bazatwara Allah; kandi bazahanishwa ibihano bibabaza.

إِنَّ الَّذِينَ أَشْرَوْا الْكُفَّارَ بِالْإِيمَنِ لَنَ يَضُرُّوا  
اللَّهَ شَيْئاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ  
۝

178. Kandi abahakanye ntibakibwire na rimwe ko kuba tubarindiriza (ntitubahanireho) ari byo byiza kuri bo. Mu by'ukuri, tubarindiriza kugira ngo bongere ibyaha; kandi bazahanishwa ibihano bisuzuguza.

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ نُمْلِى لَهُمْ خَيْرٌ  
لَا نَفْسٍ سِهِمٌ إِنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ لِيَزَدَادُوا إِنَّمَا وَلَهُمْ  
عَذَابٌ مُّهِينٌ  
۝

179. Allah ntiyari kurekera abemeramana muri ubu buryo murimo, kugeza agaragaje ababi mu beza. Kandi Allah ntiyari kubahishurira ibitagaragara, cyakora Allah ahitamo uwo

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ  
حَتَّىٰ يَمِيزَ الْحَقِيقَةَ مِنَ الْطَّيْبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ  
لِيُطْعِلَكُمْ عَلَى الْغَنِيَّ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَنِي مِنْ

ashaka mu Ntumwa ze (akaba  
ari we abihishurira). Ku bw'ibyo,  
nimwemere Allah n'Intumwa ze.  
Kandi nimwemera mukanatinya  
**Allah**, muzagororerwa ibihembo  
bihambaye.

180. Na ba bandi bagira  
ubugugu mu byo **Allah**  
yabahaye mu ngabire ze,  
ntibakibwire na rimwe ko ari byo  
byiza kuri bo, ahubwo ni byo  
bibi kuri bo; ku munsi w'izuka  
bazanigirizwa ibyo bagiriye  
ubugugu. Kandi **Allah** ni We  
uzazungura ibirere n'isi, kandi  
**Allah** azi neza ibyo mukora.

181. Rwose **Allah** yumvise  
imvugo ya ba bandi bavuze bati  
“Mu by'ukuri, **Allah** ni umutindi  
naho twe tukaba abakungu.”  
Tuzandika ibyo bavuze ndetse  
no kwica abahanuzi kwabo  
babarenganyije, tunababwire  
tuti “Nimwumve ububabare  
bw'ibhano bitwika.”

182. Ibyo ni ukubera ibyo  
amaboko yanyu yakoze. Kandi  
mu by'ukuri, **Allah** ntabwo  
arenganya abagaragu (be).

183. Ba bandi bavuze bati “Mu  
by'ukuri, **Allah** yadusezeranyije  
kutazemera Intumwa iyo ari yo  
yose keretse izatuzanira  
igitambo kizotswa n'umuriro  
(uvuye mu ijuru).” Vuga (yewe  
Muhamadi) uti “Intumwa  
zabagezeho mbere yanje zifite  
ibimenyetso bigaragara ndetse  
(zinafite) n'ibyo muvuga; none se

رَسُولٰهُ مَنْ يَشَاءُ فَقَاتِمُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا  
وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٩﴾

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ  
سَيْطَرُوْنَ مَا بَخْلَوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَلَّهُ  
مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ خَيْرٌ ﴿١٨٠﴾

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ  
وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَّكُتُ مَا قَالُوا وَقَتَلَهُمْ  
الْأَنْيَاءَ بِغَيْرِ حِقٍّ وَنَقُولُ ذُوقًا  
عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿١٨١﴾

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ  
بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿١٨٢﴾

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهْدُ إِلَيْنَا أَلَا  
نُؤْمِنُ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ  
تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ

kuki mwazishe niba muri  
abanyakuri?"

قَبْلِي بِالْبَيْنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَإِمَّا  
قَتَلْتُمُهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ  
١٨٣

184. Nibaguhinyura, rwose n'izindi Ntumwa (zabayeho) mbere yawe zarahinyuwe, kandi zarazanye ibimenyetso bigaragara, ibitabo ndetse n'igitabo gifite urumuri.

فَإِنْ كَذَبُوكَ فَقَدْ كَذَبَ رُسُلُّ مِنْ  
قَبْلِكَ جَاءُوكُمْ بِالْبَيْنَاتِ وَالْأَنْبُرِ وَالْكِتَابِ  
الْمُنْيِرِ  
١٨٤

185. Buri wese azasogongera ku rupfu. Kandi rwose ku munsi w'izuka muzagororerwa ibihembo byanyu mu buryo bwuzuye. Bityo, uzashyirwa kure y'umuriro akinjizwa mu ijuru, rwose azaba atsinze. Kandi ubuzima bw'isi nta cyo buri cyo uretse ko ari ibyishimo bishuka (abantu).

كُلُّ نَفِسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوقَرَ  
أُجُورُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ رُحِظَ عَنِ  
النَّارِ وَأَدْخَلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا  
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ  
١٨٥

186. Rwose muzageragezwa mu mitungo yanyu no kubura abanyu, kandi muzumva ibibababaza byinshi biturutse ku bahawe ibitabo mbere yanyu (Abayahudi n'Abanaswara) ndetse n'ababangikanyamana; ariko nimwihangana mukanagandukira (**Allah**). Mu by'ukuri ibyo ni bimwe mu byemezo bihambaye.

\* لَتَبَلُّوْرَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ  
وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ  
مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذْنَى كَثِيرًا  
وَلَمْ يَنْتَصِرُوا وَلَتَقْتُلُوْرَ فِيَرَاتَ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ  
الْأُمُورِ  
١٨٦

187. Unibuke (yewe Muhamadi) ubwo **Allah** yahaga isezerano rikomeye abahawe igitabo (cya Tawurati n'Ivanjili) ry'uko bagomba kubisobanurira abantu batabihisha, ariko babiteye umugongo babigurana

وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيقَاتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ  
لَتُبَيِّنَنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكُونُونَهُ فَنَبْدُوهُ وَرَأَءَ  
ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرَوْهُ بِهِ شَمَانَا قَلِيلًا فِيْسَ مَا  
يَشَّرُونَ  
١٨٧

ikiguzi gito. Nyamara ibyo bahisemo ni bibi.

188. Ntukibwire ko ba bandi bishimira ibikorwa (bibi) bakoze, bakanakunda gushimirwa ibyo batakoze; rwose ntutekereze ko bazakiranuka n'ibihano; ahubwo bazahanishwa ibihano bibabaza.

189. Kandi ubwami bw'ibirere n'ubw'isi ni ubwa **Allah**, ndetse **Allah** ni Ushobora byose.

190. Mu by'ukuri, mu kuremwa kw'ibirere n'isi no gusimburana kw'ijoro n'amanywa, harimo ibimenyetso ku banyabwenge.

191. Ba bandi basingiza **Allah**, baba bahagaze, bicaye, cyangwa baryamye, bakanatekereza ku iremwa ry'ibirere n'isi (bagira bati) "Nyagasani wacu! Ibi ntiwabiremye nta mpamu. Ubutagatifu ni ubwawe! Ngaho turinde ibihano by'umuriro."

192. Nyagasani wacu! Mu by'ukuri, uwo uzinjiza mu muriro uzaba umusuzuguje; kandi inkozi z'ibibi ntizizigera zibona abatabazi.

193. Nyagasani wacu! Mu by'ukuri, twumvise umuhamagazi (Intumwa Muhamadi) uhamagarira ukwemera (agira ati) "Nimwemere Nyagasani wanyu", nuko turemera. None Nyagasani wacu! Tubabarire ibyaha byacu,

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَقْرَهُونَ بِمَا أَتَوْا وَيَحْبُّونَ أَنْ  
يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ  
بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ **وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ**

١٨٨

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ **وَاللَّهُ عَلَىٰ**  
**كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** ١٨٩

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ  
الْأَيَّلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولَئِكَ الْمُنَاهِضِينَ ١٩٠

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ  
جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ  
وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطِلًا سُبْحَنَكَ  
**فَقَنَّا عَذَابَ النَّارِ** ١٩١

رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ وَمَا  
لِظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ١٩٢

رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًّا يُنَادِي لِلْإِيمَانَ أَنْ  
ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَإِمَانًا **رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا**

udukize ibicumuro byacu, kandi uzadukure ku isi turi mu beza.

وَكَفَرُ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ

١٩٣

194. Nyagasan wacu! Unaduhe ibyo wadusezeranyije binyuze ku ntumwa zawe. Kandi ntuzadukoze isoni ku munsi w'imperuka, kuko mu by'ukuri utajya wica isezerano (ryawe).

195. Nuko Nyagasan wabo abakirira ubusabe (agira ati) "Mu by'ukuri, njye sinagira imfabusa igikorwa cyakozwe n'umwe muri mwe, yaba uw'igitsina gabu cyangwa uw'igitsina gore, kuko mukomokanaho (murareshya mu guhemberwa ibyo mukora). Bityo ba bandi bimutse bakanameneshwa mu ngo zabo, bagatotezwa bazira kugana inzira yanje, bakarwana, bakanicwa, rwose nzababarira ibyaha byabo nanabinjize mu busitani (Ijuru) butembamo imigezi. Ibyo ni ibihembo biturutse kwa Allah, kandi kwa Allah ni ho hari ibihembo byiza."

196. Ntuzashukwe  
n'umudendezo abahakanye  
bafite ku isi.

197. Ni umunezero w'akanya gato, hanyuma ubuturo bwabo bukaba mu muriro wa Jahanamu kandi ni yo buturo bubi .

رَبَّنَا وَإِلَيْنَا مَا وَعَدْنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا  
يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ  
عَمِيلٍ مِنْكُمْ مَنْ ذَكَرَ أَوْ أَنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ  
بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَلَخِجُوا مِنْ دِيَرِهِمْ  
وَأُوذُوا فِي سَبِيلٍ وَقَتَلُوا وَقُتِلُوا لَا كَفَرَنَّ  
عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخَلَنَّهُمْ جَنَّتَتِ  
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَمْهَرُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ  
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الشَّوَابِ

لَا يُغَرِّنَّكَ تَقْلُبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبَلَدِ

مَتَّعْ قَلِيلٌ ثُمَّ مَا وَاهِمُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَهَادُ

١٩٤

198. Ariko ba bandi batinye Nyagasan wabo, bazagororerwa ubusitani butembamo imigezi (mu ijuru), bazabubamo ubuziraherezo. Bizaba ari izimano rivuye kwa Allah, kandi ibiri kwa Allah ni akarusho ku bakora neza.

199. Mu by'ukuri mu bahawe ibitabo harimo abemera Allah n'ibyo mwahishuriwe (Qur'an) ndetse n'ibyo bahishuriwe (Tawurati n'Ivanjili); bibombarika imbere ya Allah. Ntibagurana amagambo ya Allah indonke (n'ubwo zaba) nke; abo bazahabwa ingororano zabo kwa Nyagasan wabo. Kandi mu by'ukuri, Allah ni Ubanguka mu ibarura.

200. Yemwe abemeye! Nimwihangane munihanganishanye, kandi mushikame (ku rugamba), ndetse mugandukire Allah kugira ngo mugere ku ntsinzi.

لَكِنَّ الَّذِينَ آتَقْوَارَبَهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي  
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِيلِينَ فِيهَا نُلَّا مِنْ عِنْدِ  
اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ﴿١٩٨﴾

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ  
وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِمْ  
خَشِعَنَ لِلَّهِ لَا يَسْتَرُونَ بِإِيمَانِ اللَّهِ  
ثُمَّنَا قِيلَّا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ  
رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا  
وَرَأَبُطُوا وَآتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

## 4 - SURAT AN-NISAA-U

(ABAGORE)

Yahishuriwe i Madina, igizwe n'imirongo 176.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Yemwe bantu! Nimugandukire Nyagassani wanyu, We wabaremye abakomoye ku muntu umwe (Adamu), akamuremera umugore we [Hawa (Eva)] amumukomoyemo; arangije akwirakwiza (ku isi) abagabo benshi n'abagore abakomoye kuri abo bombi. Ngaho nimugandukire Allah. We musabana ku bwe kandi (mutinye guca) imiryango. Mu by'ukuri, Allah ni Umugenzuzi wanyu.

2. Munahe imfubyi (zimaze kugimbuka) imitungo yazo, kandi ikibi (mu mitungo yanyu) ntimukakigurane icyiza (mu mitungo yazo). Kandi ntimukarye imitungo yazo muyigeretse ku yanyu. Mu by'ukuri, icyo ni icyaha gikomeye.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّنْ نَفْسٍ  
وَحْدَةٌ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا  
وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْضَ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَّقِيبًا ﴿١﴾

وَإِنَّا نُؤْمِنُ بِمَا أَنْذَلَ اللَّهُ مِنْ رِّبْيَانٍ  
وَلَا تَنْدَوُ لِلْحَمْرَى  
بِالْطَّيْبٍ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَّا أَمْوَالُكُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا  
حُوَّابِيْكِيرًا ﴿٢﴾

3. Kandi nimutinya kutagirira ubutabera imfubyi<sup>56</sup> (muzareke kuzishaka) ahubwo murongore abandi bagore babashimishije, (baba) babiri, batatu cyangwa bane; ariko nimutinya kutazagira ubutabera hagati yabo, (muzarongore) umwe gusa cyangwa abaja banyu. Ibyo ni byo byegereye kutarengera kwanyu.

4. Kandi mujye muha abagore inkwano zabo nk'impamo. Ariko nibagira icyo babageneramo ku neza, mujye muckyakirana ubwuzu n'umutima mwiza.

5. Ntimukanafate imitungo yanyu Allah yagize ibibabeshejeho ngo muihe abadafite ubwenge; ahubwo mujye tuyibatungamo, tuyibambikemo, kandi mujye mubabwira mukoresheje imvugo nziza.

6. Mujye mugerageza imfubyi (mureba ko zamaze kumenya gukoresha neza umutungo), kugeza ubwo zigeze mu gihe cy'ubukure; nimusanga zaraciye akenge, muzazihe imitungo yazo. Kandi ntimukayirye musesagura munatanguranwa n'uko zikura. Ariko uzaba yishoboye, azifate

وَإِنْ خَفْتُمُ الَّذِي تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَأَنِكُحُوهُ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَتَّعْنَاهُ وَلَكُثُرَةٌ وَرَبُّعٌ إِنْ خَفْتُمُ الَّذِي تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَالَكَ أَيْمَانَكُمْ ذَلِكَ أَدَنَّ الْأَتَعْوَلُوا

وَإِنَّمَا اتَّوْا النِّسَاءَ صَدْقَاتِهِنَّ نِحْلَةً إِنْ طَبِّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هِنِّيَا مَرِيَّكَا

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيمًا وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

وَأَبْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ إِنَّمَا اتَّسْمُمُ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوهُ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَيْرَهُ فَلِيَسْتَعْفِفْ فَوَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلَيَأْكُلْ

<sup>56</sup> Kutagira ubutabera kugamijwe aha ni ukurongora umukobwa w'imfubyi urera, utamuhyae inkwano ze nk'abandi.

(ntazarye kuri iyo mitungo); naho uzaba ari umukene, azarye mu rugero. Igihe muzaba muzishyikiriza imitungo yazo, mujye muzishakira ababihamya, kandi Allah arahagije mu kubarura.

7. Abagabo bafite umugabane (wo kuzungura) mu byo ababyeyi babo n'abo bafitanye isano basize, ndetse n'abagore bafite umugabane mu byo ababyeyi babo n'abo bafitanye isano basize; byaba bike cyangwa byinshi. Uwo ni umugabane wagonwe (na Allah).

8. N'igihe abo bafitanye isano, imfubyi n'abakene bazaba bahari mu gihe cy'igabana (zungura), mujye mugira icyo mubahamo kandi mubabwire amagambo meza.

9. Kandi ba bandi batinya kuba (nyuma yo gupfa) basiga urubyaro rw'urunyantege nke (rukaba rwakorerwa amahugu), bajye batinya (gufata nabi imfubyi). Bityo, nibatinye Allah kandi banavuge amagambo akwiriye.

10. Mu by'ukuri ba bandi barya imitungo y'imfubyi mu mahugu, baba bashyira umuriro mu nda zabo, kandi bazatwikwa n'umuriro ugurumana.

٦٠ وَالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمُ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهُدُوا  
عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ  
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ  
مَمَاقَلَ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَمْرُوضًا

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى  
وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ  
قَوْلًا مَعْرُوفًا

وَلَيَخْشَى الَّذِينَ لَوْتَرَكُوا مِنْ حَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً  
ضَعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلَيَتَّقُوا اللَّهَ وَلَيَقُولُوا  
قَوْلًا سَدِيدًا

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا  
إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَضْلَوْنَ  
سَعِيرًا

11. Mu bijyanye n'izungura ry'abana banyu, Allah abategeka ko umuhungu azajya ahawa umugabane ungana n'uwa'bakobwa babiri, naho mu gihe ari abakobwa barenze babiri, bagahabwa bibiri bya gatatu by'ibyo uwafuye yasize; ariko naba umukobwa umwe, ajye ahawa kimwe cya kabiri. Naho ababyeyi be, buri wese ajye ahawa kimwe cya gatandatu mu byo (uwafuye) yasize, igihe yari afite umwana. Naho igihe nta mwana asize akazungurwa n'ababyeyi be, nyina ajye ahawa kimwe cya gatatu. Kandi naba afite abavandimwe, nyina ajye ahawa kimwe cya gatandatu. (Izungura ryose rikorwa) nyuma yo gukuramo irage cyangwa umwenda. Ababyeyi banyu n'abana banyu ntumizi ubafitiye akamaro kurusha undi. (Iyi migabane yagenwe mu izungura) ni itegeko rivuye kwa Allah. Mu by'ukuri Allah ni Umumenyi uhebuje, Nyirubugenge buhambaye.

12. Namwe (bagabo) muhabwa kimwe cya kabiri cy'ibyo abagore banyu basize mu gihe nta mwana bari bafite. Ariko iyo basize umwana, muhabwa kimwe cya kane cy'ibyo basize nyuma yo kwishyura ibyo baraze cyangwa umwenda. Na

يُوصِي كُمُ اللَّهُ فِي أَوَّلِكُمْ لِذَكَرِ مِثْلِ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ إِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوَقَ أُثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلَّا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَحْدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا بَوْيَهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَرِثَةٌ وَأَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الْثُلُثُ إِنْ كَانَ لَهُ وَإِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أُوْدِينٌ إِبْرَاهِيمَ وَأَبْنَائِهِ لَا تَدْرُونَ أَيْهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فِي رِضَةٍ مَنْ أَلَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا حِكِيمًا ﴿١﴾

\* وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ إِنْ كَانَتْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الْرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أُوْدِينٌ وَلَهُنَّ

bo (abagore) bahabwa kimwe cya kane mu byo mwasize iyo mudafite abana, ariko iyo musize abana, bahabwa kimwe cya munani mu byo mwasize, nyuma yo kwishyura ibyo mwaraze cyangwa umwenda. Iyo umugabo cyangwa umugore azunguwe nta babyeyi cyangwa abana asize, ariko akaba asize umuvandimwe cyangwa mushiki we, buri wese muri bombi ajye ahabwa kimwe cya gatandatu. Ariko nibaba barenze babiri, bajye bafatanya kimwe cya gatatu, nyuma yo kwishyura ibyo yaraze cyangwa umwenda, ku buryo ntawe uryamirwa. Iri ni itegeko riturutse kwa Allah; kandi Allah ni Umumenyi uhebuje, Uduhubuka.

13. Izo ni imbago zashyizweho na Allah, kandi uwo ari we wese wumvira Allah n'Intumwa ye, azamwinjiza mu Ijuru ritembambo imigezi; bazabamo ubuziraherezo. Uko ni na ko gutsinda guhambaye.

14. Naho uzigomeka kuri Allah n'Intumwa Ye akanarengera imbago ze, azamwinjiza mu muriro azabamo ubuziraherezo, ndetse azahanishwa ibihano bisuzuguza.

أَلْيُونُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَّكُمْ  
وَلَدْفَانٌ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الشُّمْنُ  
مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٌ تُوَصُّرُ  
بِهَا أَوْ دِينٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَث  
كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ  
وَحْدَيْهِمْ مَا أَسْدُسٌ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ  
مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شَرَكَاءٌ فِي الْثُلُثِ مِنْ  
بَعْدٍ وَصِيَّةٌ يُوَضَّعُ بِهَا أَوْ دِينٍ عَيْرَ  
مُضَارٍ وَصِيَّةٌ مِّنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ  
حَلِيمٌ

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعُ اللَّهَ  
وَرَسُولَهُ وَيُدْخِلُهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ  
تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِيلِنَّ فِيهَا  
وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

وَمَنْ يَعْصِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ  
حُدُودُهُ وَيُدْخِلُهُ نَارًا خَلِيلًا فِيهَا وَلَهُ  
عَذَابٌ مُّهِينٌ

15. Na ba bandi mu bagore banyu bazakora ibikozasoni (ubusambanyi), muzabishakire abahamya bane muri mwe babibashinje. Nibabihamya, muzabafungirane mu ngo zanyu (ntibagire aho bajya) kugeza bapfuye cyangwa se **Allah** akabagenera ubundi buryo<sup>57</sup>.

16. Na babiri (umusore n'umukobwa bakiri ingaragu) muri mwe bazakora ubusambanyi muzababuze amahoro (mubagaya mu ruhame)<sup>58</sup>. Nibicuza bagakora ibikorwa byiza, muzabihorere. Mu by'ukuri, **Allah** ni Uwakira ukwicuza, Nyirimbabazi.

17. Mu by'ukuri ukwicuza **Allah** yakira ni ukwa ba bandi bacumura kubera ubujiji, hanyuma bakihutira kwicuza. Abo ni bo **Allah** yakira ukwicuza kwabo, kandi **Allah** ni Umumenyi uhebuje, Nyirubugenge buhambaye.

18. (Kwicuza nyako kwemerwa na **Allah**) ntabwo ari ukwa ba bandi bakora ibikorwa bibi, kugeza ubwo umwe muri bo

وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَحْشَةَ مِنْ نِسَاءٍ كُمْ  
فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِّنْكُمْ فَإِنْ  
شِهَدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى  
يَتَوَقَّهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ  
سَيِّلًا

وَالَّذِينَ يَأْتِينَهَا مِنْكُمْ فَعَادُوهُمَا فَإِنْ  
تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ تَوَابًا رَّحِيمًا

إِنَّمَا الْتَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ  
السُّوءَ بِمَهْلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ  
فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ  
اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

وَلَيَسْتِ الْتَّوْبَهُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ  
السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ

<sup>57</sup> Ubundi buryo buvugwa muri uyu murongo, ni igihano cyo guterwa amabuye gihanishwa umugore wasambanye yarashatse umugabo, kikaba cyarashyizweho gisimbura icyo kubafungirana mu ngo kugeza bapfuye.

<sup>58</sup> Igihano cyo kugaya mu ruhame cyakorerwaga abakiri ingaragu bakoze ubusambanyi kivugwa muri uyu murongo, cyaje gusimbura n'igihano cyo kubakubita inkoni ijana buri wese nk'uko kigaragara muri Surat Nur (24), umurongo wayo wa 2.

agezweho n'urupfu maze akavuga ati “Mu by'ukuri, ubu ndicujije”; ndetse na ba bandi bapfuye ari abahakanyi (nabo ukwicuza kwabo ntikwemerwa). Abo twabateguriye ibihano bibabaza.

19. Yemwe abemeye! Muziririjwe kuzungura abagore ku gahato, kandi ntimukabagore (mubabuza kongera gushakwa) kugira ngo mubambure bimwe mu byo mwabahaye; keretse baramutse bakoze icyaha kigaragara (nk'ubusambanyi cyangwa gusuzugura abagabo babo), kandi mujye mubana na bo neza. Nimugira icyo mubanenga (mujye mwihangana), kuko hari ubwo mwakwanga ikintu **Allah** akaba ari cyo ashyiramo ibyiza byinshi.

20. Kandi nimushaka kurongora umugore mumusimbuza undi, mukaba mwarahaye umwe muri bo umutungo utubutse (inkwano), ntimuzagire na gito mwisubiza muri wo. Ese mwakisubiza bitari mu kuri kandi ari n'icyaha kigaragara?

قَالَ إِنِّي تُبَتُّ أَعْلَمُ وَلَا أَنْذِرُ يَمُوْقُنَ  
وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا

أَلِيمًا ﴿١٨﴾

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِمَانُوا لَا يَحْلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا الْإِسْلَامَ كَرَهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَّبُوا  
بِعَصْرٍ مَا إِذَا تُمُوْهُنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَ  
بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاسِرُوهُنَ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنَّ  
كَرِهَتُمُوهُنَ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوْ شَيْئًا  
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرًا ﴿١٩﴾

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ  
زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِطْلَارًا فَلَا  
تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَنَّا  
وَإِنْ شَاءَ مُمِينًا ﴿٢٠﴾

21. Ni gute mwakisubiza kandi mwaragiranye amabanga y'abashakanye, bakaba baranagiranye namwe isezerano rikomeye?

22. Kandi ntimukarongore abagore barongowe na ba so, uretse ibyahise (mbere ya Isilamu). Mu by'ukuri, ibyo byari ibikozasoni, birakaza cyane kandi bikaba inzira mbi.

23. Muziririjwe (kurongora) ba nyoko, abakobwa banyu, bashiki banyu, ba nyogosenge, ba nyoko wanyu, abakobwa b'abavandimwe banyu, abishywa banyu, ba nyoko babonkeje (batababyaye), bashiki banyu mwasangiye ibere (mutavukana), ba nyokobukwe, abakobwa mwareze bavuka ku bagore banyu mwaryamanye; ariko iyo mutaryamanye (na ba nyina, mukaba mwaratandukanye) nta cyaha kuri mwe (kurongora abo bakobwa). (Munaziririjwe kandi kurongora) abakazana banyu (bashakanye) n'abana banyu mwibyariye, munaziririjwe gushaka abavandimwe babiri mu gihe kimwe, uretse ibyahise (mbere ya Isilamu). Mu by'ukuri, **Allah** ni Ubabarira ibyaha, Nyirimpuhwwe.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ  
إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذَنَ مِنْكُمْ مِيشَانًا عَلَيْهَا



وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ إِبَائَةً كُمْ مِنْ  
السَّلَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِلَهُ وَ كَانَ  
فَحِشَةً وَمَقْتَأً وَسَاءَ سِيَلاً

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ  
وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ  
وَخَالَتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخْ وَبَنَاتُ  
الْأُخْتِ وَأُمَّهَتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعَنَّكُمْ  
وَأَخْوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَعَةِ وَأُمَّهَتْ  
نِسَاءِكُمْ وَرَبِّيْبُكُمْ الَّتِي فِي  
حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَاءِكُمْ الَّتِي دَخَلْتُمْ  
بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَّتِلُ أَبْنَاءِكُمْ  
الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمِعُوا  
بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَامَا قَدْ سَلَفَ إِلَهُ  
اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

٢٣

24. Kandi (muziririjwe kurongora) abagore bubatse, uretse ba bandi mufiteho ububasha (abaja). Ibyo ni ibyo **Allah** yabategetse. Abandi bose batari abo (bavuzwe mu mirongo yabanje) muziruriwe kubashaka mwifashishije imitungo yanyu, mukareka kuba abasambanyi. Kuri ba bandi muzaba (mwarashyingiranywe) mugakorana imibonano mpuzabitsina, muzabahenkwano zabo nk'uko byategetswe. Ariko nta kibi kuri mwe ku byo mwemeranyijweho (muramutse mubahaye ibyisumbuyeho) nyuma y'inkwano. Mu by'ukuri, **Allah** ni Umumenyi uhebuje, Nyirubugenge buhambaye.

25. N'uzaba adafite amikoro muri mwe yo kurongora abagore b'abemera batari abaja, azarongore mu baja banyu b'abemerakazi. Kandi **Allah** ni we uzi neza ukwemera kwanyu; bamwe mukomoka ku bandi (mujuje ukwemera). Bityo, mujye mushyingiranwa na bo mubiherewe uburenganzira n'ababahagarariye, kandi mubahe inkwano zabo ku neza; bagomba kuba biyubashye, batari abasambanyi ndetse batanafite inshuti z'abagabo bakorana ibibi. Ariko nibakora

\* وَالْمُحَصَّنُتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ  
وَأُحْلَلَ لَكُمْ مَا وَرَاهُ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا  
بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصَنِينَ غَيْرَ مُسَفِّحِينَ فَمَا  
أَسْتَمْتَعُ بِهِ مِنْهُنَّ فَعَلَوْهُنَّ أُجُورُهُنَّ  
فِرِيضَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ  
مِنْ بَعْدِ الْفِرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا

حِكْمَةً

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طُولًا أَنْ يَكُونَ  
الْمُحَصَّنَتُ الْمُؤْمِنَتِ فِيمَ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَّتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ  
بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ  
فَإِنَّكُحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَعَلَوْهُنَّ  
أُجُورُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحَصَّنَاتٍ غَيْرَ  
مُسَفِّحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتٍ أَخْدَانٍ فَإِذَا  
أَحْسَنَنَّ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَحْشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا

ubusambanyi nyuma yo gushyingirwa, bazahanishwe kimwe cya kabiri cy'ibihano by'abagore batari abaja. Ibyo (kurongora umuja) ni kuri wa wundi muri mwe utinya kugwa mu busambanyi; ariko mwihanganye, ni byo byiza kuri mwe, kandi **Allah** ni Ubabarira ibyaha, Nyirimpuhwe.

26. **Allah** arashaka kubagaragariza (ibyo muziruriwe n'ibyo muziririjwe) no kubayobora inzira z'abababanjiriye, ndetse no kwakira ukwicuza kwanyu; kandi **Allah** ni Umumenyi uhebuje, Nyirubugenge buhambaye.

27. Kandi **Allah** arashaka kwakira ukwicuza kwanyu, ariko ba bandi bakurikira irari ryabo bifuza ko (mwe abemera) mwatana bihambaye (mugata inzira igororotse).

28. **Allah** arashaka kuborohereza kubera ko umuntu yaremwe ari umunyantege nke.

29. Yemwe abemeye! Bamwe muri mwe ntibakarye imitungo y'abandi mu buryo butemewe, keretse igihe ari ubucuruzi (mugiranye) bushingiye ku bwumvikane. Kandi ntimukiyahure, mu by'ukuri,

عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ  
خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ  
لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٥﴾

يُرِيدُ اللَّهُ لِيَبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ  
سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ  
عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٦﴾

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ  
الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيِّلَادَ  
عَظِيمًا ﴿٦٧﴾

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحَقِّقَ عَنْكُمْ وَحْقَ الْإِنْسَنِ  
ضَعِيفًا ﴿٦٨﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِمَانُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ  
بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ

Allah ni Umunyembabazi kuri mwe.

تَرَاضِيْنَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦﴾

30. N'uzakora ibyo kubera ubugome n'amahugu, tuzamwinjiza mu muriro, kandi ibyo kuri Allah biroroshye.

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُذْنَاتَا وَظُلْمًا فَسُوقَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَاتَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٧﴾

31. Nimuramuka mwirinze ibyaha bikomeye mubujijwe gukora, tuzabababarira ibyaha byanyu byoroheje, tunabinjize mu irembo ryubahitse (Ijuru).

إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفَّرْ عَنْكُمْ سَيْعَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلَاتَ كَرِيمًا ﴿٨﴾

32. Kandi ntimukifuze ibyo Allah yahaye bamwe muri mwe kurusha abandi. Abagabo bazahemberwa ibyo bakoze, ndetse n'abagore bahemberwe ibyo bakoze. Mujye munasaba Allah mu ngabire ze. Mu by'ukuri, Allah ni Umumenyi wa byose.

وَلَا تَسْتَمِنُوا مَا فَضَلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا أَكَتَسَبُوا وَلِلِّنْسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا أَكَتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٩﴾

33. Na buri wese twamugeneye abazungura mu byo asize; ari bo babyeyi bombi ndetse n'abo bafitanye isano. Na ba bandi mwagiranye igihango, mujye mubahia umugabane wabo<sup>59</sup>. Mu by'ukuri, Allah ni Umuhamya uhebuje wa buri kintu.

وَلِكُلِّ جَعْلَنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَلَادَاتِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقدَتْ أَيْمَنُكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ نَصِيبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿١٠﴾

<sup>59</sup> Mbere y'ihihurwa ry'imirongo ya Qur'an igaragaza amategeko agenga izungura rishingiye ku isano ry'amaraso, hari ho kuzungurana hagati y'abimukira bavuye i Maka n'ababakiriye i Madina kubera amasezerano y'igihango bari baragiranye. Ariko aho amategeko agenga izungura ahishuriwe muri Qur'an, yasimbuye ubwo buryo bw'izungura rishingiye ku gihango.

34. Abagabo ni abahagararizi b'abagore kubera ibyo **Allah** yarutishije bamwe abandi, no ku bw'ibyo (abagabo) batanga mu mitungo yabo. Bityo, abagore batunganye ni abicisha bugufi (bumvira **Allah** n'abagabo babo), bagacunga neza iby'abo bashakanye mu gihe badahari, kubera ko ari indagizo bahawe na **Allah**. Na ba bandi (abagore) mutinya ukwigomeka kwabo, mujye mubanza mubagire inama, (nibatisubiraho) mubimuke mu buryamo, (nibinangira) mujye mubakubita (mu buryo bworoheje, niba hari icyo byakemura). Ariko nibisubiraho bakabumvira, ntimuzabashakeho impamu z'urwitwazo. Mu by'ukuri, **Allah** ni Uwikirenga, Usumba byose.

35. Kandi nimuramuka mutinye amakimbirane aganisha ku butane hagati yabo bombi, muzabohererere abunzi (babiri), umwe uturutse mu muryango w'umugabo n'undi uturutse mu muryango w'umugore; niba bombi bashaka ubwiyunge, **Allah** azabibashoboza. Mu by'ukuri, **Allah** ni Umumenyi uhebuje, Uzi neza ibyo mukora.

أَلْرِجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ  
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَيْتَنَتْ حَفِظَتْ  
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُرْتْ  
نُشُورَهُنَّ فَعَظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي  
الْمُضَارِعِ وَأَصْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطْعَنَكُمْ فَلَا  
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَيِّلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهَا  
كَيْرًا

وَإِنْ خَفْتُمْ شَقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا  
مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا  
إِصْلَاحًا يُوْفِقُ اللَّهُ بِيَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا خَيْرًا

36. Kandi mujye musenga Allah (wenyine) kandi ntimukamubangikanye n'icyo ari cyo cyose; mujye mugirira neza ababyeyi, abo mufitanye isano, imfubyi, abakene, umuturanyi mufitanye isano, umuturanyi usanzwe, uwo musangiye urugendo, uri ku rugendo, n'abacakara banyu. Mu by'ukuri, Allah ntakunda umunyagasuzuguro, umwibone,

37. Ba bandi bagira ubugugu bakanabushishikariza abantu, bagahisha ibyo Allah yabahaye mu ngabire ze. Kandi twateganyirije abahakanyi ibihano bisuzuguza.

38. Na ba bandi batanga imitungo yabo (bagamije) kwiyereka abantu, batanemera Allah n'umunsi w'imperuka. Kandi uwo Shitani azabera inshuti, azaba agize inshuti mbi.

39. Byari kubatwara iki iyo baza kwemera Allah n'umunsi w'imperuka, bakanatanga mu byo Allah yabagabiye? Kandi Allah arabazibihagije.

\* وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ  
شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي الْقُرْبَى  
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى  
وَالْجَارِ لِعْنِيْ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ  
السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ فَحْشَالًا  
فَخُورًا ٣٦

الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ  
بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ  
فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِكُلِّ أَفْرِينَ عَذَابًا مُّهِيبًا ٣٧

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا  
يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنْ  
الشَّيْطَانُ لَهُ وَقْرِبَانَا فَسَاءَ قَرِبَانًا ٣٨

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْءَ امْنَوْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ٣٩

40. Mu by'ukuri, **Allah** ntahuguza (igikorwa cy'ibiremwa bye) kabone n'iyo cyaba kingana n'akantu gato cyane kodashobora kubonwa n'ijisho; ariko iyo ari keza (gakozwe), aragatubura akanagahembera ingororano zihambaye ziturutse iwe.

41. Ubwo bizaba bimeze bite (ku munsi w'imperuka), igihe tuzazana umuhamya (Intumwa) uturutse muri buri muryango, nawe (Muhamadi) tukakuzana uri umuhamya kuri abo (watumweho)?

42. Kuri uwo munsi, ba bandi bahakanye bakanigomeka ku ntumwa (Muhamadi) bazifusa ko iyo isi iza kuba yarabamize, bakaba barigumiye mu mva (kugira ngo batagira icyo babazwa), nyamara nta cyo bazahisha **Allah**.

43. Yemwe abemeye! Ntimukegere isengesho mwasinze<sup>60</sup> kugeza igihe musobanukiwe ibyo muvuga (mugaruye ubwenge) ndetse n'igihe mufite Janaba (mwagiranye imibonano n'abagore banyu cyangwa mwasohotswemo n'intanga mukaba mutariyuhogira) -

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُونَ حَسَنَةً يُضَعِّفُهَا وَيُقُولُ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا

عَظِيمًا

فَكَيْفَ إِذَا حِينَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ يُشَهِّدُ  
وَحِينَنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا

حَدِيثًا

يَوْمَئِذٍ يَوْدُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَمُوا  
الرَّسُولُ لَوْتُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضَ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَنْقِبُوا الصَّلَوةَ وَلَا تُنْهِمُ  
سُكَارَى حَتَّى تَعَامُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا  
إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ  
مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ  
أَوْ لَمْسَتْهُ النِّسَاءَ فَلَا يَحْدُو أَمَاءَ قَيْمَمُوا

<sup>60</sup> Muri uyu murongo kunywa inzoga byari bitarazirizwa, nyuma haza guhishurwa imirongo iziziririza burundi.

keretse abanyura mu musigitu bitambukira cyangwa se abari ku rugendo; kugeza mwiyuhagiye umubiri wose. Kandi nimuba murwaye cyangwa muri ku rugendo, cyangwa se umwe muri mwe avuye mu bwiherero, cyangwa mwabonanye n'abagore banyu ntimubone amazi, mujye mukora Tayamumu<sup>61</sup> mwisukure mukoresheje igitaka gisukuye, mugihanaguze uburanga bwanyu no ku maboko yanyu (ku biganza byanyu). Mu by'ukuri, **Allah** ni Uhanaguraho ibyaha, Umunyembabazi.

44. Ese ntiwamenye (yewe Muhamadi) ba bandi bahawe ingabire yo gusobanukirwa igitabo (Tawurati) bagahitamo ubuyobe, bakanashaka ko (namwe) muyoba inziraigororotse?

45. **Allah** ni We uzi neza abanzi banyu, kandi **Allah** arahagije kuba Umurinzi, ndetse **Allah** aranahagije kuba Umutabazi.

46. Muri ba bandi babaye Abayahudi, harimo abahindura amagambo ya **Allah** bayakura mu myanya yayo, bakavuga bat "Turumvise ariko turigometse,

صَعِيدَا طَيْبًا فَامْسَحُوا بِرُجُوهِكُمْ  
وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْفُوا نَصِيبَاهُ مِنَ الْكِتَابِ  
يَشْرُكُونَ الْأَضَلَلَةَ وَرُبُّهُمْ لَا يَتَضَلَّلُوا السَّيْلَ

﴿٤٤﴾

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكُنْتَ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَنَ  
بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴿٤٥﴾

مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَاتَ عَنْ  
مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَسْمَعْ  
غَيْرَ مُسْمَعْ وَرَأَيْنَا لَيْلًا بِالسِّنَتِهِمْ وَطَعَنَاهُ فِي

<sup>61</sup> Tayamumu : Ni ijambo risobanura kwisukuza igitaka cyangwa umucanga bisukuye, mu kigwi cyo gukoresha amazi iyo byabaye ngombwa.

ndetse uduuge amatwi utwumve ariko twe ntitukumve, cisha make tukumve”; bakabivuga bagoreka indimi zabo, banasebya idini (Isilamu). Nyamara iyo baza kuvuga bat “Turumvise kandi turumviye”, (bakanavuga bat) “Twumve kandi utwhanganire”; rwose byari kuba byiza kandi binakwiye kuri bo. Ariko **Allah** yarabavumye kubera ubuhakanyi bwabo; bityo ntibazigera bemera uretse gake.

47. Yemwe abahawe igitabo! Nimwemere ibyo twahishuye (Qur'an) bishimangira ibyo (musanzwe) mufite, mbere y'uko dusibanganya uburanga (tubukebanya) nuko tukabwerekeza inyuma, cyangwa tukabavuma nk'uko twavumye abantu bari barategetswe kubahiriza umunsi w'lsabato (kubera kutayubahiriza). Kandi itegeko rya **Allah** rirubahirizwa.

48. Mu by'ukuri, **Allah** ntababarira icyaha cyo kumubangikanya, ahubwo ababarira (ibindi) bitari icyo k'uwo ashaka. Kandi ubangikanya **Allah** rwose aba ahimbye icyaha gihambaye.

الَّذِينَ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعَنَا وَأَطَعَنَا وَاسْمَعَ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ  
بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦﴾

يَكَاهُهَا الَّذِينَ أَتُوا الْكِتَابَ إِمْنَاؤِمَانَنَا  
مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَظِيمَ  
وُجُوهًا فَرَدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَعَنْهُمْ كَمَا عَنَّا  
أَصْحَابَ السَّبِّتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٦٧﴾

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ  
ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى  
إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٦٨﴾

49. Ese ntiwamenye (yewe Muhamadi) ba bandi bigira abere? Nyamara Allah yeza uwo ashaka, kandi ntibazahuguzwa (ibyiza bakoze) kabone n'ijo byaba Fatiila<sup>62</sup>.

50. Reba uko bahimbira Allah ikinyoma, kandi ibyo birahagije kuba icyaha kigaragara.

51. Ese ntiwamenye (yewe Muhamadi) abahawe ingabire yo gusobanukirwa igitabo (Tawurati)? Nyamara bakemera ibigirwamana n'amashitani, bakanabwira abahakanye ko ari bo bayobotse inzira y'ukuri kurusha abemeye (Allah).

52. Abo ni bo Allah yavumye, kandi uwo Allah yavumye ntiwamubonera umutabara.

53. Ese baba bafite umugabane mu bwami (bwa Allah)? Bibaye bityo, nta n'umuntu baha ibingana n'intimatima (y'akabuto k'itende).

54. Cyangwa bagirira ishyari abantu ku byo Allah yabahaye mu ngabire ze? Kandi twarahaye umuryango wa Aburahamu igitabo

أَلَمْ تَرِ إِلَى الَّذِينَ يُنَزَّكُونَ أَنفُسَهُمْ بِإِلَهٍ لَّهُ يُرْبِّي  
مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُطِمُّونَ فَتِيلًا ﴿٤٦﴾

اُنْظُرْ كَيْفَ يَقْرَئُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذَبَ وَكَفَرَ  
بِهِ إِثْمَامًا مُّبِينًا ﴿٤٧﴾

أَلَمْ تَرِ إِلَى الَّذِينَ أَتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ  
يُؤْمِنُونَ بِالْجَنَّتِ وَالظَّاهِرَةِ وَيَقُولُونَ  
لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَوَلَاءَ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ  
أَمْنُوا سِيَلًا ﴿٤٨﴾

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنْهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ يَجِدْ  
لَهُ دَنَصِيرًا ﴿٤٩﴾

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ  
نَقِيرًا ﴿٥٠﴾

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ  
فَضْلِهِ فَقَدْ ءَاتَيْنَا ءَالَّإِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ  
وَالْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُ مُلْكًا عَظِيمًا ﴿٥١﴾

<sup>62</sup> Fatiila: umuzi muto ungana n'akadodo uba mu rubuto rw'itende

n'ubushishozi ndetse tunabaha  
ubwami buhambaye.

55. Bityo, muri bo hari ababwemeye (ubutumwa bwa Muhamadi) ndetse no muri bo hari ababwitaje (babutera umugongo), kandi umuriro wa Jahanamu urahagije kuzabatwika.

56. Mu by'ukuri ba bandi bahakanye ibimenyetso byacu, tuzabinjiza mu muriro. Buri uko impu z'imibiri yabo zizajya zishya, tuzajya tuzisimbuza izindi mpu kugira ngo bumve ububabare bw'ibihano. Mu by'ukuri, **Allah** ni Umunyacyubahiro bihebuje, Nyirubugenge buhambaye.

57. Naho ba bandi bemeye bakanakora ibikorwa byiza, tuzabinjiza mu ijuru ritembambo imigezi, bazabambo ubuziraherezo. Bazagiramo abafasha basukuye, kandi tuzanabinjiza mu gicucu gihoraho.

58. Mu by'ukuri, **Allah** abategeka gusubiza indagizo bene zo, kandi ko mu gihe mukiranuye abantu, mubakiranura mu butabera. Mu by'ukuri, inyigisho **Allah** abaha ni nziza! Mu by'ukuri

فِئَنَّهُم مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَمَنْهُمْ مَنْ صَدَّعَنَّهُ وَكَفَرَ

بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴿٥٦﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَعَايِنُنَا سَوْفَ نُضْلِيهِمْ تَارًا  
كُلَّمَا نَضِحَّتْ جُلُودُهُمْ بَدَانُهُمْ جُلُودًا عَيْرَهَا  
لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٧﴾

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ  
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِيلِينَ فِيهَا  
آبَدًا لَهُمْ فِيهَا آزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ طَلَّا  
ظَلِيلًا ﴿٥٨﴾

\* إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْرَاتِ إِلَى  
أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعُدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُعْلِمُ بِمَا يَعْمَلُونَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٩﴾

Allah ni Uwumva cyane, Ubona bihebuje.

59. Yemwe abemeye! Nimwumvire Allah, munumvire Intumwa, ndetse n'abayoboz muri mwe. Nimuramuka mugize ico mutavugaho rumwe, mujye mugishakira igisubizo kwa Allah no ku Ntumwa (Qur'an na Sunat); niba koko mwemera Allah n'umunsi w'imperuka. Ibyo ni byo byiza kandi bibaha ibisobanuro bikwiye.

60. Ese ntiwamenye (yewe Muhamadi) ba bandi bavuga ko bemeye ibyo wahishuriwe ndetse n'ibyahishuwe mbere yawe, bagashaka ko bakiranurwa n'andi mategeko atari aya Allah, kandi barategetswe kuyahakana? Nyamara Shitani ishaka kubayobya bikabije.

61. Niyo babwiwe bati "Nimuze tugane ibyo Allah yahishuye ndetse tunagane Intumwa (Muhamadi), ubona ababeshya ko bemera (indyarya) bagutera umugongo."

62. None se bizamera bite igihe amakuba azaba abagezeho kubera ibyo bakoresheje amaboko yabo, hanyuma bakakugana barahira kuri Allah (bavuga) bati "Nta kindi twari

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطْبِعُوا اللَّهَ وَأَطْبِعُوا الرَّسُولَ  
وَأَوْلَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنْزَعُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى  
اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُقْرَمُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

الَّهُ تَرَإِلَى الَّذِينَ يَرْجِعُمُونَ أَنَّهُمْ أَمْنَوْا بِمَا  
أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ  
يَتَحَالَّكُمُوا إِلَى الظَّغُوتِ وَقَدْ أَمْرَوْا أَنْ  
يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضْلِلَهُمْ  
ضَلَالًا بَعِيدًا

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أُنْزَلَ اللَّهُ  
وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَفِّقِينَ يَصْدُورُونَ  
عَنْكَ صُدُودًا

فَكَيْفَ إِذَا أَصَبَّتْهُمْ مُصِبَّةً بِمَا  
قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ  
إِنَّ أَرْدَنَا إِلَّا إِحْسَنَا وَتَوَفِيقًا

tugamije uretse ineza no kunga (abashyamiranye)?”

63. Abo ngabo ni ba bandi **Allah** azi ibiri mu mitima yabo; bityo ujye ubihorera ahubwo ubigishe, unababwire ijambo ribakora ku mitima ku biberekeyeho.

64. Kandi nta ntumwa n'imwe twohereje uretse kugira ngo yumvirwe ku bushake bwa **Allah**. Nyamara iyo bamara kwhiemukira bakakugana maze bagasaba imbabazi **Allah**, ndetse n'Intumwa ikabasabira imbabazi; rwose bari gusanga **Allah** ari Uwakira ukwicuza, Nyirimbabazi.

65. Oya! Ndahiye ku izina rya Nyagasani wawe! Ntibazigera bemera by'ukuri, keretse babanje kukugira (yewe Muhamadi) umucamanza mu makimbirane yavuka hagati yabo, hanyuma ntibasigarane ingingimira mu mitima yabo kubera uko wabakiranuye, kandi bakabyakira banyuzwe.

66. N'yo tuza kubategeka tuti “Mwiyice cyangwa musohoke mu nzu zanyu (mwimuke burundu)”, nta byo bari gukora usibye bake muri bo; nyamara iyo baza gukora ibyo bashishikarizwa, byari kuba byiza kuri bo bikanarushaho

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ  
فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعَظِّمْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي  
أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بِكِيفَا

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا يُطَاعَ  
إِذَا دَرَّ اللَّهُ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا ظَلَمُوا  
أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ  
وَأَسْتَغْفِرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْجَدُوا اللَّهَ  
تَوَّابًا رَّحِيمًا

فَلَا وَرِيلَكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ  
فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَحِدُّوْ فِي  
أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا  
تَسْلِيمًا

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ أَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ  
أُخْرُجُوهُمْ دِيرَكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ

kubakomeza (mu nzira ya **Allah**). آنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوَعْظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا

لَهُمْ وَأَشَدَّ تَشْيِتاً ﴿٦٦﴾

67. Iyo biza kuba bityo (bakoze ibyo basabwa), rwose twari kubaha ingororano zihambaye ziduturutseho,

68. Kandi twari no kubayobora inzira igororotse.

69. Kandi abumvira **Allah** n'Intumwa (Muhamadi), abo bazaba bari kumwe (mu ijuru) n'abo **Allah** yahundagajeho inema ze; (barimo) abahanuzi, abemeye by'ukuri, abaguye ku rugamba baharanira inzira ya **Allah** ndetse n'intungane. Abo ni bo nshuti nziza!

70. Izo ni ingabire zituruka kwa **Allah**, kandi **Allah** arahagije kuba ari Umumenyi uhebuje.

71. Yemwe abemeye! Mujye mwitonda (mu kwitegura umwanzi); mujye mujya ku rugamba mu matsinda atandukanye cyangwa mugendere hamwe.

وَإِذَا لَآتَيْتَهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٧﴾

وَلَهُدَىٰ هُنْ صَرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٦٨﴾

وَمَنْ يُطِعُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسْنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾

ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيهِمَا ﴿٧٠﴾

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِمَانُوا حُذِّرُوا حِذْرَكُمْ فَإِنِّي رُوَا ثُبَاتٍ أَوْ أَنْفَرُوا جَمِيعًا ﴿٧١﴾

72. Mu by'ukuri, muri mwe hari utinda kujya ku rugamba, maze mwagerwaho n'akaga (gutsindwa), akavuga ati "Rwose Allah yampundagajeho inema (yandinze) kuba ntari kumwe na bo."

73. Ariko iyo mugenzweho n'ingabire ziturutse kwa Allah (intsinzi), rwose avuga -nk'aho nta rukundo ruri hagati yanyu na we- ati "Iyo nza kuba hamwe na bo nari kubona ubutunzi buhambaye (iminyago)!"

74. Bityo ba bandi bemeye guhara ubuzima bw'isi bakabugurana imperuka (abemera) nibarwane mu nzira ya Allah, kandi urwana mu nzira ya Allah akicwa cyangwa agatsinda, tuzamuhemba ibihembo bihambaye.

75. Ni iki kibabuza kurwana mu nzira ya Allah mu gihe mubona abanyantege nke mu bagabo, abagore n'abana (barenganywa, batakamba) bavuga bat "Nyagasani wacu! Dukure muri uyu mudugudu (kuko) bene wo ari inkozi z'ibibi, kandi uduhe umurinzi uturutse iwawe, ndetse unaduhe umutabazi uturutse iwawe."

وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيْبَطِئَنَّ فَإِنَّ أَصَدَّتُمْ  
مُصِيبَةً قَالَ قَدْ أَغْمَمَ اللَّهُ عَلَىٰ إِذَا لَمْ أَكُنْ

مَعَهُمْ شَهِيدًا ﴿٧٣﴾

وَلَئِنْ أَصَدَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَانَ لَمْ تَكُنْ  
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَأْتِيَتِنِي كُنْتُ  
مَعَهُمْ فَأَفْوَزُ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧٤﴾

\* فَلَيَقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ  
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقْتَلُ فِي  
سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَعْلَمُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ  
أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٧٥﴾

وَمَا لَكُمْ لَا تُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْجَاهِلِ وَاللِّسَاءِ وَالْوَلَدِينَ  
الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقُرْيَةِ  
أَنْظَالِهِمْ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلَيَأَوْجَعَ لَنَا مِنْ  
لَدُنَّكَ نَصِيرًا ﴿٧٦﴾

76. Abemera barwana mu nzira ya Allah, naho abahakanyi bakarwana mu nzira ya Shitani. Ngaho nimurwanye abambari ba Shitani; mu by'ukuri imigambi ya Shitani ntishinga.

77. Ese ntiwamenye (yewe Muhamadi) ba bandi babwiwe bati "Mureke kurwana ahubwo muhozeho iswala<sup>63</sup>, munatange amaturo", ariko ubwo bategekwaga kurwana, ni bwo agatsiko muri bo katinye abantu nk'uko kagatinye Allah cyangwa se birenzeho. Karavuga kati "Nyagasani wacu! Kuki udutegetse kurwana? Iyaba wari uturetseho igihe gito!" Vuga uti "Ibyishimo by'isi ni iby'igihe gito, naho imperuka ni nziza k'utinya (Allah), kandi ntimuzahuguzwa habe na Fatiila<sup>64</sup>"

78. Aho muzaba muri hose urupfu ruzahabasanga, kabone n'ubwo mwaba muri mu nyubako z'imitamenwa. Kandi n'yo bagezwaho n'icyiza, baravuga bati "Iki giturutse kwa Allah", naho bagerwaho n'ikibi, bakavuga bati "Iki kiguturutseho (wowe Muhamadi)." Vuga uti "Byose bituruka kwa Allah." Ese kuki

الَّذِينَ إِمَّا مُؤْمِنُوا يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا  
يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ الظَّلَعُوتِ فَقَاتُلُوا أَوْلَاهُآءَ  
الشَّيْطَنَ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَنِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٧٦﴾

أَلَمْ تَرِ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُوا أَيْدِيهِكُفُوا وَأَقْمِمُوا  
الصَّلَاةَ وَأَعْلَمُوا أَزْكَوْهُ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ  
إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخْشِيَةَ اللَّهِ أَوْ  
أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لَهُ كَتَبَ عَلَيْنَا الْقِتَالُ لَوْلَا  
أَخْرَتْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَّعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ  
وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا ظُلْمَوْنَ فَتَيَّلًا ﴿٧٧﴾

إِنَّمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْكُنُتُمْ فِي بُرُوجٍ  
مُّشَيَّدَةٍ وَلَنْ تُصِبَّهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ  
اللَّهِ وَلَنْ تُصِبَّهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ  
قُلْ كُلُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا إِلَّا هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ لَا يَكَادُونَ  
يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٧٨﴾

<sup>63</sup> Reba uko twasobanuye umurongo wa 3 muri iyi Surat.

<sup>64</sup> n'ikingana n'akadodo ko mu rubuto rw'itende

abantu batabasha  
gusobanukirwa ibyo babwirwa?

79. Icyiza kikubayeho kiba giturutse kwa **Allah**, naho ikibi kikubayeho kiba kiguturutseho ubwawe. Twanakohereje (wowe Muhamadi) uri Intumwa ku bantu, kandi **Allah** arahagije kuba Umuhamya.

80. Uwumviye Intumwa (Muhamadi), mu by'ukuri aba yumviye **Allah**, naho uteye umugongo (aba yihemukiye); kandi ntabwo twakohereje kuba umurinzi wabo.

81. Baranavuga batia "Turumvira", ariko mwatandukana, agatsiko muri bo kakarara gacura umugambi uhabanye n'ibyo uvuga. Nyamara **Allah** yandika ibyo (ako gatsiko) kararamo. Bityo, birengagize uniringire **Allah**. Kandi **Allah** arahagije kuba Umuhagararizi.

82. Ese ntibatekereza kuri Qur'an? Iyo iza kuba yaraturutse ku wundi utari **Allah**, rwose bari kuyisangamo ukwivuguruza kwinshi.

83. N'yo bagezweho n'inkuru itanga ihumure cyangwa ikangaranya (abantu) barayisakaza; nyamara iyo baza kuyigarura ku ntumwa

مَا أَصَابَكُ مِنْ حَسَنَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ تَفْسِيرِكَ وَأَرَسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّ فَمَا أَرَسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا

وَيَقُولُونَ طَاعَةً فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيْتَ طَالِبَةٍ مِنْهُمْ غَيْرُ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّنُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا

أَفَلَا يَتَبَرَّوْنَ الْقُرْءَانَ وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوْجَدُوا فِيهِ أُخْتِلَافًا كَثِيرًا

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنْ أَلْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَا عُوْدُهُ وَلَوْرَدُهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ

(Muhamadi) n'abayobozi muri bo, rwose abasesenguzi muri bo bari kuyisobanukirwa (bakareba niba ari ngombwa kuyisakaza cyangwa niba atari ngombwa). Nyamara iyo bitaza kuba ingabire n'impuhwe bya Allah kuri mwe, mwari gukurikira Shitani usibye bake muri mwe.

84. Maze ujye urwana mu nzira ya Allah -ntawe ubazwa (ibikorwa bye) uretse wowe ubwawe-ndetse ujye ushishikariza abemera (gufatanya na we urugamba) kugira ngo Allah ahagarike ubugome bw'abahakanyi. Kandi Allah ni we Munyembaraga zihebuje, akaba na Nyiribihano bikaze.

85. Uzakorera (mugenzi we) ubuvugizi bwiza azabigiramo umugabane abihemberwa (kwa Allah), n'uzakorera mugenzi we ubuvugizi bubi azabona igeno ribi kuri bwo. Kandi Allah ni Umugenzi wa buri kintu.

86. N'igihe muramukijwe mu ndamutso (nziza), mujye mwikiriza mu ndamutso iyiruta cyangwa musubize imeze nka yo. Mu by'ukuri, Allah ni Ubarura bihebuje buri kintu.

لَعِلَمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْطِطُونَهُ وَمِنْهُمْ وَلَوْلَا  
فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعَثُمُ  
الشَّيْطَانُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

فَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا شَكُورٌ إِلَّا نَفْسَكَ  
وَحَرَضَ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَاسًّا  
الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُ بَاسًا وَأَشَدُ  
تَنَكِيلًا ﴿٨٤﴾

مَنْ يَسْقَعَ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ  
نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَسْقَعَ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ  
كَفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ﴿٨٥﴾

وَإِذَا حِيَتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ  
رُدُودًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿٨٦﴾

87. Allah! Nta yindi mana ikwiye gusengwa mu kuri uretse We. Rwose azabakoranyiriza hamwe ku munsi w'imperuka udashidikanywaho. None se ni nde wavuga ukuri kurusha Allah?

88. Ni kuki mucikamo ibice bibiri ku (byerekeye) indyarya kandi Allah yarazirekeye (mu buhakanyi) kubera ibyo zakoze? Ese murashaka kuyobora uwo Allah yarekeye mu buyobe? Kandi uwo Allah yarekeye mu buyobe ntiwamubonera inzira (imuyobora).

89. Bifuza ko mwahakana nk'uko bahakanye, mukaba kimwe nka bo. Bityo ntimukagire abo mugira inshuti magara muri bo kugeza bimutse kubera Allah (bakajiana n'Intumwa y'Imana ku rugamba). Ariko nibatera umugongo, (ababarwanya) muzabafate mubice aho muzabasanga hose, kandi ntimuzagire n'umwe muri bo mugira inshuti cyangwa umutabazi,

90. Uretse ba bandi bifatanya n'abantu mufitanye amasezerano (y'amahoro), cyangwa ababagana bafite imitima idashaka kubarwanya cyangwa kurwanya bene wabo.

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعُنَّكُمْ إِلَى يَوْمٍ أَلْقَيْمَةً لَا رَبَّ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ

حَدِيثًا

\* فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِعْتَنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَنَّ تَجْدَهُ وَسَيِّلًا

وَدُولُو تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءٌ فَلَا تَتَخَذُوا مِنْهُمْ أَوْلَيَاءَ حَتَّى يُهَا حِرُوا فِي سَيِّلِ اللَّهِ إِنَّ تَوْلَوْا فَخُودُهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ كَيْثَ وَجَدْ تُمُوْهُمْ وَلَا تَتَخَذُوا مِنْهُمْ وَلِيَا وَلَا نَصِيرًا

٨٨

إِلَّا الَّذِينَ يَصْلُونَ إِلَى قَوْمٍ يَنْكُو وَيَنْهُمْ مُّشِّقٌ أَوْ جَاءَكُمْ حَسِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقْتَلُوكُمْ أَوْ يُقْتَلُوا قَوْمُهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ

Kandi iyo **Allah** aza kubishaka, yari kubaha ububasha (n'imbaraga zirenze izanyu) maze bakabarwanya. Ariko nibabareka bakabaha amahoro (bagahagarika imirwano), bakishyira mu maboko yanyu, (mumenye ko) **Allah** nta burenganzira yabahaye (bwo kurwanya abatabarwanya).

91. Muzabona abandi (muri abo bahakanyi bigira abemeramana) bashaka ko mubaha amahoro, ndetse (bakanigaragaza nk'abahakanyi) kuri bene wabo (b'abahakanyi) kugira ngo na bo babahe amahoro. Buri uko (bagenzi babo) babahamagariye gusubira mu buyobe barushaho kubujyamo. Bityo, nibatabareka ngo babahe amahoro, ngo banareke kubarwanya, icyo gihe muzabafate mubice aho muzabasanga hose. Abo ni bo twabahereye uburenganzira bugaragara (bwo kubarwanya).

92. Ntibikwiye ku mwemera kwica umwemera (mugenzi we) keretse bimugwiririye. N'uwise umwemera bimugwiririye, agomba kubohora umucakara w'umwemera ndetse akanatanga impozamarira ihabwa abo mu muryango w'uwishwe, keretse

لَسَاطِّهِمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَتُلُوكُمْ فَإِنْ أَعْتَرُوكُمْ  
فَمَا يُقْتَلُوكُمْ وَالْقَوْا إِلَيْكُمُ الْسَّلَامُ فَمَا جَعَلَ  
اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا

سَتَجِدُونَ إِخْرَيْنَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمُنُوكُمْ  
وَيَأْمُنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُوْدُوا إِلَى الْفِتْنَةِ  
أَرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَرُوكُمْ وَيُلْقُوا  
إِلَيْكُمُ الْسَّلَامَ وَيَكُفُرُوا بِإِيمَانِهِمْ فَخُذُوهُمْ  
وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ شَقَقْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا  
لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا  
خَطَّأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَّأً فَتَحْرِيرَ رَقَبَةِ  
مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا  
أَنْ يَصَدِّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ

bayimurekeye (bakamubabarira). N'yo uwishwe akomoka mu bantu muhanganye ku rugamba, we akaba yari umwemera, icyo gihe uwishe agomba kubohora umucakara w'umwemera. Naho iyo akomoka mu bantu mufitanye amasezerano y'amahoro, icyo gihe (uwishe) atanga impozamarira ihabwa abo mu muryango w'uwishwe akanabohora umucakara w'umwemera. Ariko utazagira ubushobozi (bwo kubohora umucakara), agomba gusiba amezi abiri akurikirana kugira ngo yicuze kuri **Allah**. Kandi **Allah** ni Umumenyi uhebuje, Nyirubugenge buhambaye.

93. Naho uwica umwemera abigambiriye, igihano cye ni umuriro wa Jahanamu, azabamo ubuziraherezo; kandi **Allah** aramurakarira, akamuvuma ndetse yanamuteguriye ibihano bihambaye.

94. Yemwe abemeye! Nimujya (kurwana) mu nzira ya **Allah** mujye mushishoza, kandi ntimukabwire uwo ari we wese ubahaye indamutso y'amahoro (aberekko ko ari umwemera) muti "Ntabwo uri umwemera"; mugamije amaronko y'ubuzima bw'isi; nyamara kwa **Allah** hari

لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ  
مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ  
وَبَيْنَهُمْ مِيقَاتٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ  
وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ  
فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ تَوْبَةً  
مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمًا

وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ  
جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِيبَ اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَلَعْنَهُ وَأَعَدَ اللَّهُ عَذَابًا عَظِيمًا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِذَا ضَرَبُتُمْ فِي  
سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَقْتَلَ  
إِلَيْكُمُ الْسَّلَامُ لَسْتَ مُؤْمِنًا  
تَبَتَّعُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْهَا

ibyiza byinshi. Uko ni ko mwari mumeze mbere (mu ntangiriro za Isilamu, muhisha ukwemera kwanyu), maze **Allah** abagirira ubantu (arabayobora); bityo mujye mushishoza. Mu by'ukuri, **Allah** ni Umumenyi uhebuje w'ibyo mukora.

95. Bamwe mu bemera banze kujya ku rugamba badafite impamvu, ntibahwanye n'abaharanira inzira ya **Allah** bakoresheje imitungo yabo n'ubuzima bwabo. **Allah** yahaye urwego rwisumbuye abaharanira inzira ye bakoresheje imitungo yabo n'ubuzima bwabo, kurenza abanze kujya ku rugamba. Kandi buri wese (abajya ku rugamba n'abatajyayo bafite impamvu) **Allah** yabasezeranyije ibyiza, ariko abaharanira inzira ya **Allah**, yabahaye urwego rwisumbuye kurusha abatagiye ku rugamba, maze abahemba ibihembo bihambaye;

96. (Ari byo): inzego (z'ikirenga mu ijuru), imbabazi ndetse n'impuhwe bimuturutseho. Kandi **Allah** ni Ubabarira bihebuje, Nyirimbabazi.

97. Mu by'ukuri ba bandi bihemukiye, abamalayika babakuramo roho zabo bababwira bati "Mwari mu

اللَّهُ مَغَانِمٌ كَثِيرٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ  
مِّنْ قَبْلِ فَمَنْ أَنَّ اللَّهَ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

٩٤

لَا يَسْتَوِي الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الْضَّرَرِ  
وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَيِّلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ  
فَضَّلَّ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى  
الْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ  
الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

٩٥

دَرَجَتِ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا

رَحِيمًا

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمٍ أَنَفُسُهُمْ قَالُوا  
فِيمْ كُنْتُمْ قَالُوا هُنَّا مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا

biki?" Bakabasubiza bati "Twari abanyantege nke tunatotezwa ku isi." Hanyuma (abamalayika) bakababwira bati "Ese isi ya Allah ntiyari ngari ngo mwimukire ahandi?" Abo, ubuturo bwabo ni mu muriro wa Jahanamu kandi ni ryo herezo ribi,

98. Uretse abanyantege nke mu bagabo, abagore n'abana badashoboye kwirwanaho cyangwa kuyoboka inzira (yo kwimuka).

99. Abo Allah azabahanaguraho ibyaha, kandi Allah ni Uhanaguraho ibyaha, Umunyembabazi.

100. N'uzimuka kubera idini rya Allah, aho yimukiye azahasanga umudendezo mwinshi n'ubukungu. Ndetse n'uzasohoka mu nzu ye yimutse kubera Allah n'Intumwa ye, hanyuma urupfu rukamugeraho (mbere y'uko agera ku cyo yari agamije), uwo igihembo cye azagisanga kwa Allah. Kandi Allah ni Ubabarira ibyaha bihebuje, Nyirimpuhwe.

أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتَهَا حِرْوَافِيهَا فَأَوْلَئِكَ  
مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

٤٧

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفُينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ  
وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ

سَيِّلًا

غَفُورًا

٤٩

فَأَوْلَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُواً

\* وَمَنْ يُهَا حَرِّ فِي سَيِّلِ اللَّهِ يَحْدُثُ فِي الْأَرْضِ مُرَاغِمًا  
كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى  
الَّلَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ وَعَلَى  
الَّلَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

٣٠

101. Kandi nimujya mu rugendo, nta kosa kuri mwe kugabanya iswala (umubare wa raka z'iswala) igihe mutinya ko abahakanyi babatera. Mu by'ukuri, abahakanyi ni abanzi banyu bagaragara.

102. N'igihe (yewe Muhamadi) uzaba uri kumwe na bo (ku rugamba), ukabayobora mu iswala, icyo gihe itsinda rimwe muri bo rijye rihagararana na we mu iswala rinagumane intwaro zaryo. Nirimara kubama, rijye rijya inyuma yanyu mu birindiro, nuko haze irindi tsinda ritarasali naryo risali hamwe nawe, kandi ribe menge rinagumane intwaro zaryo<sup>65</sup>. Abahakanye bifuza ko mwarangara mukibagirwa intwaro zanyu n'imitwaro yanyu bakabagwa gitumo. Ariko nta kosa kuri mwe gushyira intwaro hasi igihe mufite imbogamizi z'imvura cyangwa murwaye, gusa mukaba menge. Mu by'ukuri, **Allah** yateguriye abahakanyi ibihano bisuzuguza.

103. Nimurangiza gusali, mujye musingiza **Allah** muhagaze, mwicaye, munaryamye. Ariko mu gihe mutekanye, mujye muhozaho iswala (mu buryo busanzwe). Mu by'ukuri,

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خَفْتُمْ أَنْ يَقْتَنِكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَفَرِينَ كَانُوا لَكُمْ عُدُوًّا مُّهِمِّينَا ﴿١٦﴾

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَاقْمَتْ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَتَقْمِرْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلَيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلَيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلَتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلِّوْ فَلَيُصَلِّوْ وَلَيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِهِمْ وَأَمْتَعَتِهِمْ قِيمَلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةٌ وَحِدَةٌ وَلَا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعْدَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِمِّينَا ﴿١٦﴾

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذَكْرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا أَطْمَانْتُمْ

<sup>65</sup> Yyu murongo ugaragaza uburyo bwihariye bwo gukora iswala mu gihe cy'urugamba.

iswala<sup>66</sup> ku bemera ni itegeko ryashyiriweho igihe kigenwe.

فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَىٰ  
الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

104. Kandi ntimuzacike intego mu gukurikirana abanzi, kuko niba mubabara na bo bababara nkamwe, ariko mukiringira (ibihembo) kwa Allah; bo batiringira. Kandi Allah ni Umumenyi uhebuje, Nyirubugenge buhambaye.

وَلَا تَهْنُوا فِي أَبْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا  
تَأْمُونَ إِنَّهُمْ يَأْمُونَ كَمَا تَأْمُونَ  
وَتَرَجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ  
اللَّهُ عَلِيًّا حَكِيمًا

105. Mu by'ukuri, twaguhishuriye igitabo (Qur'an) gikubiyemo ukuri, kugira ngo ukiranure abantu ukoresheje ibyo Allah yakwigishije, kandi ntukavuganire abahemu.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ  
النَّاسِ بِمَا أَرَيْتَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَابِرِينَ  
خَصِيمًا

106. Unasabe Allah kukubabarira; mu by'ukuri, Allah ni Ubabarira ibyaha, Nyirimpuhwe.

وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

١٦

107. Kandi ntukavuganire ba bandi bihemukira ubwabo. Mu by'ukuri, Allah ntakunda umuhemu, umunyabyaha.

وَلَا تُحِدِّلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَارُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ  
اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ حَوَانًا أَثِيمًا

108. Bihisha abantu (bagakora ibibi), ariko ntibashobora kwihiha Allah; kuko aba ari kumwe na bo igihe barara bacura imigambi y'imvugo atishimira. Kandi Allah azi neza ibyo bakora.

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ  
اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لَا يَرْضَى

<sup>66</sup> Reba uko twasobanuye umurongo wa 3 muri iyi Surat.

مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ  
مُحِيطًا ﴿١٨﴾

هَأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَدَلُوكُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ  
الْدُّنْيَا فَمَنْ يُجَدِّلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَمْ  
مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكَيْلًا ﴿١٩﴾

109. Dore mwe murabavuganira mu buzima bwo ku isi; ariko se ni nde uzagisha impaka **Allah** abavuganira ku munsi w'imperuka, cyangwa se ni nde uzababera umuhagararizi?

110. N'ukoze ikibi cyangwa akihemukira, hanyuma agasaba imbabazi **Allah**, azasanga **Allah** ari Ubabarira ibyaha, Nyirimpuhwe.

111. N'ukoze icyaha aba akikoreye we ubwe (ingaruka zacyo ziba kuri we), kandi **Allah** ni Umumenyi uhebuje, Nyirubugenge buhambaye.

112. N'ukoze igicumuro cyangwa icyaha hanyuma akakigereka ku mwere, rwose aba yikoreye ikinyoma gikomeye n'icyaha kigaragara.

113. Iyo bitaza kuba ingabire n'impuhwe bya **Allah** kuri wowe (Muhamadi), agatsiko muri bo kari gushaka kukuyobya; nyamara ntawe bayobya uretse kuba bakwiyobya ubwabo, kandi nta n'icyo bagutwara. **Allah** yaguhishuriye igitabo (Qur'an) n'ubushishozi (Sunat) anakwigisha ibyo utari uzi.

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ  
يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٠﴾

وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ  
وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا حَكِيمًا ﴿٢١﴾

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ  
بَرِيَّاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَنَّا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٢﴾

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ وَلَهُمْتَ  
طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُضْلُلُوكَ وَمَا يُضْلِلُونَ إِلَّا  
أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ  
عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَمَكَ مَا لَمْ

Kandi ingabire za **Allah** kuri wowe zirahambaye.

تَكُنْ تَعَلَّمَ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ  
عَظِيمًا

114. Nta cyiza na kimwe kiba muri byinshi mu biganiro byabo by'ibanga, keretse (ibiganiro) by'ubwiriza gutanga amaturo, gukora ibikorwa byiza cyangwa kunga abantu. N'uzakora ibyo agamije kwishimirwa na **Allah**, tuzamugororera ibihembo bihambaye.

115. N'uzanyuranya n'Intumwa (Muhamadi) nyuma y'uko umuyoboro w'ukuri umugaragariye, agakurikira inzira itari iy'abemera; tuzamurekera mu byo yahisemo, ndetse tumwinjize mu muriro wa Jahanamu, kandi ni ryo shyikiro ribi.

116. Mu by'ukuri, **Allah** ntababarira (icyaha cyo) kumubangikanya, ahubwo ababarira ibitari icyo k'uwo ashaka. Kandi ubangikanya **Allah**, rwose aba ayobye bikabije.

117. (Abasenga ibitari **Allah**) nta kindi basenga kitari ibigirwamana by'ibigore mu cyimbo cya (**Allah**), kandi nta n'ikindi basenga kitari Shitani wigometse,

\* لَا خَيْرٌ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ  
أَمْرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ يَعْمَلُ  
النَّاسُ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ أُبَيْغَاهَ مَرَضَاتٍ  
اللَّهُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٤﴾

وَمَنْ يُشَاقِّ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ  
الْهُدَى وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ  
مَا تَوَلَّ وَنُضْلِلُهُ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١٥﴾

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ  
ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشَرِّكُ بِاللَّهِ فَقَدْ  
ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٦﴾

إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَّهَا وَإِنْ  
يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا ﴿١٧﴾

118. Allah akaba yaramuvumye. Nuko (Shitani na we) aravuga ati “Rwose (ndahiye ko) nzagira bamwe mu bagaragu bawe nigarurira.”

119. Kandi rwose nzabayobia, nzabizeza ibinyoma, kandi nzabategeka guca amatwi yamatungo<sup>67</sup>, nzanabategeka guhindura kamere ndemano yibiremwa bya Allah. Kandi uzagira Shitani inshuti aretse Allah, azaba agize igihombo kigaragara.

120. (Shitani) abasezeranya (ibinyoma), akanabizeza (ibyo batazabona). Kandi nta cyo Shitani abizeza kitari ibishuko;

121. Abo ubuturo bwabo ni umuriro wa Jahanamu, kandi ntibazabona aho bawuhungira.

122. Naho ba bandi bemeye bakanakora ibikorwa byiza, tuzabinjiza mu busitani butembamo imigezi, bazabamo ubuziraherezo. Isezerano rya Allah ni ukuri; ni nde uvuga ukuri kurusha Allah?

لَعْنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا تَخْذَنَ مِنْ عِبَادِكَ  
نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴿١١٨﴾

وَلَا يُضْلِنُهُمْ وَلَا مُنِيبُهُمْ  
فَإِنْتَ كُنْ أَذَانَ الْأَنْعَمِ وَلَا مُرْئُهُمْ  
فَلَيَغِيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذَ  
الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسَرَ  
خُسْرَانًا مُبِينًا ﴿١١٩﴾

يَعِدُهُمْ وَيُمْنِيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمْ  
الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢٠﴾

أُولَئِكَ مَا وَرَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ  
عَنْهَا مَحِيصًا ﴿١٢١﴾

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا  
وَمَنْ أَصْدَقُ مِنْ اللَّهِ قِيلًَا ﴿١٢٢﴾

<sup>67</sup>Guca amatwi yamatungo byakorwaga n'babangikanyamana nk'ikimenyetso cyarangaga amatungo yagombaga kumurikirwa ibigirwamana.

123. (Kwinjizwa mu ijuru) ntibizaba ku bw'ibyifuzo byanyu cyangwa ku bw'ibyifuzo by'abahawe igitabo. Uzakora ikibi azagihanirwa kandi ntazagira umurinzi cyangwa umutabazi utari **Allah**.

124. N'uzakora ibitunganye, yaba uw'igitsina gabo cyangwa uw'igitsina gore, kandi akaba ari umwemera, abo bazinjira mu Ijuru kandi ntibazigera bahuguzwa habe n'yo byaba ikingana n'intimatima.

125. Ni nde waba intungane mu idini kurusha uwicisha bugufi imbere ya **Allah** akaba ari n'ukora ibyiza, ndetse akanakurikira idini ritunganye rya Aburahamu utarabangikanyije **Allah**. Kandi **Allah** yagize Aburahamu inshuti magara!

126. Kandi ibiri mu birere n'ibiri mu isi ni ibya **Allah**; ndetse **Allah** azi neza buri kintu.

127. Baranagusobanuza ku byerekeye abagore, vuga uti “**Allah** abaciriye iteka ku birebana na bo, ndetse n'ibyo musomerwa mu gitabo byerekeye abakobwa b'imfubyi ba bandi mudaha ibyo bagenewe (inkwano,

لَيْسَ بِأَمَانَتِكُمْ وَلَا أَمَانَةً أَهْلَ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا يُجْزَاهُ وَلَا يَحْمَدُهُ وَمِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا

١٢٣

وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

١٢٤

وَمَنْ أَحْسَنْ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَأَخْذَ اللَّهَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا

١٢٥

وَإِلَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا

١٢٦

وَيَسْتَقْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتَنُكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَقَّ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَّمِي النِّسَاءُ الَّتِي لَا تُؤْتَنْهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفَينَ

umurage...), kandi mugashaka kubarongora. Kandi (arabasobanurira) ibijyanye n'abana (bakiri bato) b'abanyantenge nke ndetse no kugirira ubutabera imfubyi. Kandi ibyiza byose mukora **Allah** ni Umumenyi wabyo uhebuje.

128. Kandi umugore natinya kubuzwa amahoro n'umugabo we cyangwa kumuta nta cyaha kuri bo kuba bakwiyunga, kandi kwiyunga ni byo byiza. Ariko imitima y'abantu yaremanywe ubugugu. Nimukora neza (mubanira neza abagore banyu) mukanatinya **Allah** (mutabagabanyiriza ibyo bagenewe); mu by'ukuri, **Allah** azi byimazeyo ibyo mukora.

129. Nta n'ubwo muzigera mushobora kugira uburinganire (mu rukundo) hagati y'abagore kabone n'ubwo mwakwitwararika. Bityo, ntimuzabogamire cyane (kuri umwe muri bo, mumugenera igihe kinini n'amafunguro arenze) mugasiga abandi ari nka ba nyirantabwa. Kandi nimutunganya ibikorwa byanyu (mubagirira ubutabera) mukanatinya **Allah**, mu by'ukuri **Allah** ni Ubabarira ibyaha, Nyirimpuhwe.

١٧٦ مِنْ أُولُو الْدَّنِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَعْلَمُوا مِنْ حَيْرَ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ يَعْلَمُ عَلِيَّمًا

وَإِنْ أُمْرَأٌ خَافَتْ مِنْ بَعْدِهَا شُوْرًا أَوْ أَعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأَخْضَرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحُّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَقْوُا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا

وَلَنْ تَسْتَطِعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمْلِئُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُّوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَلَنْ تُصْلِحُوهَا وَتَتَقْوُا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

130. Ariko (abashakanye) nibaramuka batandukanye, **Allah** azakungahaza buri wese muri bo mu ngabire ze. Kandi **Allah** ni Uhebuje mu gutanga, Nyirubugenge buhambaye.

131. Ibiri mu birere n'ibiri mu isi byose ni ibya **Allah**. Kandi mu by'ukuri, twategetse abahawwe Igitabo mbere yanyu ndetse namwe ubwanyu ko mugomba gutinya **Allah**. Ariko nimuhakana, mu by'ukuri (mumenye ko) ibiri mu birere n'ibiri mu isi byose ari ibya **Allah**, kandi **Allah** ni Uwhagije, Ushimwa bihebuje.

132. Kandi ibiri mu birere n'ibiri mu isi byose ni ibya **Allah**. Ndetse **Allah** arahagije kuba Umurinzi.

133. Aramutse abishatse yabakuraho, yemwe bantu, maze akazana abandi. Kandi ibyo **Allah** arabishoboye.

134. Ushaka ibihembo byo ku isi, (azirikane ko) mu by'ukuri kwa **Allah** hari ibihembo by'isi n'imperuka. Kandi **Allah** ni Uwumva cyane, Ubona bihebuje.

135. Yemwe abemeye! Mube abahagararizi b'ubutabera, abatangabuhamya kubera **Allah**, kabone n'ubwo mwaba

وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِي اللَّهُ كُلًا مِنْ سَعَتِهِ  
وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ  
وَصَّيَّنَا الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ  
وَإِيَّاكُمْ أَنْ أَتَقْوُا اللَّهَ وَإِن تَكُونُ فَرُوا فَإِنَّ  
لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ  
غَنِيًّا حَمِيدًا

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى  
بِاللَّهِ وَكِيلًا

إِن يَشَاءُ يُدْهِبُكُمْ إِيَّاهَا النَّاسُ وَيَأْتِ  
بِعَالَمَيْنِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا

مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنَّدَ اللَّهِ ثَوَابُ  
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا  
بَصِيرًا

\* يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِيمَانُهُ كُنُوفٌ قَوَامِنَ بِالْقُسْطِ  
شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ

mwishinja ubwanyu, mushinja ababyeyi cyangwa abo mufitanye isano. N'ubwo (utangwaho ubuhamya) yaba ari umukungu cyangwa umukene (ntimuzagire uwo mubera), **Allah** ni We w'ibanzo kuri bo bombi. Bityo ntimuzakurikire irari ngo ribabuze kugira ubutabera; kandi nimutanga ubuhamya bw'ikinyoma cyangwa mukirengagiza (ukuri), mu by'ukuri, **Allah** ni Umumenyi uhebuje w'ibyo mukora.

136. Yemwe abemeye! Nimwemere **Allah**, Intumwa ye (Muhamadi), Igitabo (Qur'an) yahishuriye Intumwa ye ndetse n'ibitabo yahishuye mbere. Kandi uzahakana **Allah**, abamalayika be, ibitabo bye, Intumwa ze ndetse n'umunsi w'imperuka, rwose azaba ayobye bikabije.

137. Mu by'ukuri ba bandi bemeye hanyuma bagahakana, maze bakongera bakemera nanone bakongera bagahakana, hanyuma bakarushaho kongera ubuhakanyi, **Allah** ntabwo azababarira kandi nta n'ubwo azabayobora inzira (itunganye).

وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ عَنِّيَا أَوْ فَقِيرًا فَإِلَهُهُ أَوْ لَهُ  
بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا هَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ  
تَلَوْا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ خَيْرًا ﴿١٣٥﴾

يَتَاهُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ  
وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ  
الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكُفُرْ بِاللَّهِ  
وَمَلَكَتِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرَسُولِهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ فَقَدْ  
ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٣٧﴾

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا ثُمَّ  
كَفَرُوا ثُمَّ زَادُوا كُفُرًا لَمْ يَكُنْ اللَّهُ لِيغْفِرَ لَهُمْ  
وَلَا لِيَهْدِيهِمْ سَيِّلًا ﴿٣٨﴾

138. Geza inkuru ku ndyarya y'uko zizahanishwa ibihano bibabaza,

139. Ba bandi bagira abahakanyi inshuti baretse abemera, ese baba babashakaho igitinyiro? Mu by'ukuri, icyubahiro cyose ni icya Allah.

140. Kandi rwose mwahishuriwe mu gitabo ko igihe muzajya mwumva amagambo ya Allah ahakanwa cyangwa se akerenswa, mutazajya mwicarana na bo (abayahakana n'abayakerensa), kugeza ubwo bahinduye bakaja mu bindi biganiro bitari ibyo. (Nimutagenza mutyo) ni ukuri, muzaba mubaye nka bo. Mu by'ukuri, Allah azakoranyiriza indyarya n'abahakanyi bose mu muriro wa Jahanamu.

141. Ba bandi (indyarya) babatega iminsi, maze mwagira intsinzi iturutse kwa Allah, bakavuga bati "Ese ntitiwari kumwe namwe?" Nyamara iyo abahakanyi batsinze barababwira bati "Ese ntitiwabateye ingabo mu bitugu (tukabakingira ikibaba) tukanabarinda abemera?" Allah azabakiranura ku munsi w'imperuka, kandi Allah

بِشَّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣٨﴾

الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلَيَاءَ مِنْ دُونِ  
الْمُؤْمِنِينَ إِيَّا تَعْنُونَ عِنْدُهُمْ الْعِزَّةُ فَإِنَّ الْعِزَّةَ  
لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿٣٩﴾

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ  
إِيَّاكُمْ إِنَّ اللَّهَ يُكَفِّرُ بِهَا وَيُسْتَهْرِرُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا  
مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَحُضُّوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا  
مَشَّا مُهَاجِرِينَ فَإِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ  
فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿٤٠﴾

الَّذِينَ يَتَرَصَّدُونَ يَكُونُ فِي إِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ  
مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ  
لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَمْ نَسْتَحْوِدُ  
عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ  
بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ  
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿٤١﴾

ntazigera aha abahakanyi ubushobozi bwo gutsinda abemera.

142. Mu by'ukuri indyarya zishaka kuryarya **Allah**, ariko We akaburizamo uburyarya bwazo. N'iyo bahagurutse bagiye gusali, bahagurukana ubunebwe biyereka abantu, kandi ntibibuka **Allah** uretse gake.

143. Baba bahuzagurika hagati aho (hagati y'Abayisilamu n'abahakanyi); ntibabe muri aba cyangwa muri bariya. Kandi uwo **Allah** yarekeye mu buyobe ntiwamubonera inzira (imuyobora).

144. Yemwe abemeye! Ntimukagire abahakanyi inshuti muretse abemera. Ese murashaka ko (ubwo bucuti bwanyu na bo) bwaba ikimenyetso kigaragara kuri **Allah** cy'uko mutemera (by'ukuri)?

145. Mu by'ukuri indyarya zizaba ziri mu ndiba y'umuriro, kandi (yewe Muhamadi) ntuzababonera umutabazi.

146. Uretse ba bandi bicujije bagakora ibikorwa bitunganye, bagafatana urunana ku idini rya **Allah**, kandi bagatunganya idini ryabo kubera **Allah**, abo

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَذِيلُهُمْ  
وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ  
النَّاسَ وَلَا يَذَكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٥﴾

مُذَبَّذِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَوَاءٍ وَلَا إِلَىٰ  
هَوَاءٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجْدِلْهُ سِيَّلًا ﴿١٤٦﴾

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْخِذُوا الْكَافِرِينَ  
أَوْلَيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتَرِيدُونَ أَنْ  
تَجْعَلُوا اللَّهَ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّمِينًا ﴿١٤٧﴾

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرِكِ أَلْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ  
تَجْدِلْهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٨﴾

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَأَعْتَصَمُوا بِاللَّهِ  
وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ

bazaba bari kumwe n'abemera.  
Rwose Allah azahemba  
abemeramana ibihembo  
bihambaye.

147. Ese Allah byamwungura  
iki kubahaha, igihe  
mumushimira  
mukanamwemera? Kandi Allah  
ni Ushima (abagaragu be),  
Umumenyi uhebuje.

148. Allah ntakunda (ko  
umuntu) yigamba ibibi yakoze  
mu ruhame, uretse  
uwarenganyijwe (ushobora  
kuvuga ibibi  
by'uwamurenganyije). Kandi  
Allah ni Uwumva bihebuje,  
Umumenyi uhebuje.

149. Mwashyira icyiza  
ahagaragara cyangwa  
mukagihisha, cyangwa se  
mukabarira ikibi; mu  
by'ukuri, Allah ni Uhanaguraho  
ibyaha, Ushobora byose.

150. Mu by'ukuri ba bandi  
bahakana Allah n'Intumwa ze,  
bakanashaka gutandukanya  
Allah n'Intumwa ze, bavuga batí  
“Twemera zimwe tugahakana  
izindi”, bagashaka kugira inzira  
yo hagati no hagati (itari  
iy'ukwemera cyangwa iya  
gihakanyi)

الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُوتَ أَلَّهُ الْمُؤْمِنِينَ  
أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٦٧﴾

مَا يَقْعُلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ  
وَإِمْنَثُرَ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلَيْمًا ﴿١٦٨﴾

\* لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهَرُ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا  
مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلَيْمًا ﴿١٦٩﴾

إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ  
الَّهَ كَانَ عَفُواً قَدِيرًا

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ  
يُفْرِقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِعَصْمَنَا  
وَنَكَفُرُ بِعَصْمِنَا وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا  
بَيْنَ ذَلِكَ سَيِّلًا ﴿١٧٠﴾

151. Abo ni bo bahakanyi nyabo, kandi twateguriye abahakanyi ibihano bisuzuguza.

أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرُونَ حَقًا وَأَعْتَدْنَا<sup>١٥١</sup>  
لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

152. Naho ba bandi bemeye Allah n'Intumwa ze, ntibagire iyo barobanura muri zo, abo (Allah) azabaha ibihembo byabo, kandi Allah ni Ubabarira ibyaha, Nyirimpuhwé.

وَالَّذِينَ ءامَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَلَمْ يُرِقُّ قَوْا يَبْرَأَ  
أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتَيْهُمْ<sup>١٥٢</sup>  
أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

153. Abahawe igitabo (Abayahudi) bagusaba ko ubamanurira igitabo giturutse mu ijuru. Mu by'ukuri, basabye Musa ibirenze ibyo, ubwo bamubwiraga bati "Twereke Allah imbona nkubone", maze bagahita bakubitwa n'ikibatsi cy'umuriro w'inkuba kubera guhakana kwabo. Nuko bigirira akamasa (ikigirwamana) nyuma y'uko ibimenyetso bigaragara bibagezeho. Ariko ibyo twarabibababariye. Twanahaye Musa ibimenyetso bigaragara.

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنْزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا  
مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكَبَرَ مِنْ ذَلِكَ<sup>١٥٣</sup>  
فَقَالُوا إِنَّا لَنَا اللَّهُ جَهَرَ فَأَحَدَنَاهُمُ الْصَّمِعَةَ  
بِطُّلْمِهِمْ ثُمَّ أَتَخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا  
جَاءَنَاهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَأَتَيْنَا  
مُوسَى سُلْطَنَاهُ مُهِينًا

154. Tuzamura hejuru yabo umusozi wa Twuur (wa Sinayi) kubera (kurenga ku) isezerano ryabo rikomeye. Turababwira tuti "Nimwinjire mu marembo (ya Yeruzalem) mwicishije bugufi, turanababwira tuti "Ntimuzarengere isabato." Kandi twagiranye na bo isezerano rikomeye (ariko ntibaryubahiriza).

وَرَفَعْنَا فَوْهُمُ الظُّرُورَ بِمِيشَقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ  
أَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي  
الْسَّبَّتِ وَأَخْذَنَا مِنْهُمْ مِيشَقاً غَلِيلًا<sup>١٥٤</sup>

155. (Ndetse twarabavumye) kubera kwica kwabo isezerano rikomeye, guhakana amagambo ya **Allah**, kwica abahanuzi babarenganyije ndetse no kuvuga bati “Imitima yacu irapfundikiye (ntiyumva).” Ahubwo **Allah** yarayidanangiyē kubera ubuhakanyi bwabo, bityo ntibemera uretse gake.

156. Kandi (twarabavumye) kubera ubuhakanyi bwabo n’imvugo yabo yuje ikinyoma gihambaye bagiriye Mariyamu (bamushinja ubusambanyi).

157. No ku bw’imvugo yabo igira iti “Rwose twishe Mesiya Isa (Yesu) mwene Mariyamu (Mariya), Intumwa ya **Allah**.” Nyamara ntibamwishe kandi ntibanamubambye; ahubwo (bishe banabamba) uwahawwe ishusho ye. Kandi mu by’ukuri ba bandi batabivuzecho rumwe, baracyamushidikanyaho (bibaza niba uwishwe yari Yesu cyangwa usa na we). Nta bumenyi nyakuri babifiteho usibye gukurikira ibyo bakeka. Kandi rwose ntibamwishe.

158. Ahubwo **Allah** yamuzamuye iwe. Kandi **Allah** ni Umunyacyubahiro bihebuje, Nyirubugenge buhambaye.

فِيمَا نَقْضُهُمْ مِّيقَاتُهُمْ وَكُفُّرُهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ  
وَقَاتَلُهُمُ الظَّنِيَّةُ بِغَيْرِ حِقٍّ وَقَوْلُهُمْ قُلُوبُنَا عَلَفَ بِ  
طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفُّرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا  
قَلِيلًا ﴿١٠٥﴾

وَبِكُفُّرِهِمْ وَقَوْلُهُمْ عَلَى مَرِيمَ بُهْتَنَاعَظِيمًا

وَقَوْلُهُمْ إِنَّا أَقَاتَنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرِيمَ رَسُولَ  
اللَّهِ وَمَا أَقْتَوْهُ وَمَا أَصْلَبُوهُ وَلَكِنْ شُيَّهَ لَهُمْ  
وَإِنَّ الَّذِينَ أَخْتَلُفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ  
مِّنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعُ الظَّنِّ وَمَا أَقْتَلُوهُ يَقِينًا ﴿١٠٧﴾

بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

159. Kandi nta n'umwe mu bahawe igitabo utazamwemera mbere yo gupfa kwe<sup>68</sup>. Kandi no ku munsi w'imperuka azaba umuhanya wabo.

160. Kubera ibikorwa bibi by'Abayahudi no gukumira (abantu) cyane kugana inzira ya **Allah**, twabaziririje ibyiza (mu biribwa) byari bibaziruriwe.

161. No kwakira Riba<sup>69</sup> kwabo kandi barayibujije, ndetse no kurya imitungo y'abantu kwabo mu buriganya. Kandi abahakanyi muri bo twabateguriye ibihano bibabaza.

162. Cyakora abaceneye mu bumenyi muri bo n'abemera; bemera ibyo wahishuriwe ndetse n'ibyahishuwe mbere yawe; bagahozaho iswala<sup>70</sup>, abatanga amaturo, ndetse n'abemera **Allah** n'umunsi w'imperuka; abo tuzabahemba ibihembo bihambaye.

وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَلَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿١٥٩﴾

فِي ظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمَنَا عَلَيْهِمْ طَيْبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدٍّ هُمْ عَنْ سَيِّلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نَهَوْا عَنْهُ وَأَكْلَاهُمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَطْلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكُفَّارِ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

لَكِنِ الرَّسُولُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ الزَّكَوةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٦٢﴾

<sup>68</sup>Mbere yo gupfa kwe bifite ibisobanuro bibiri:

- Bisobanuye ko nyuma y'uko Yesu azagaruka ku isi avuye mu Ijuru aho ari ubu, nawe igihe cye cyo gupfa kizagera. Aho rero ni ho abataramwemeraga cyangwa abamwemeraga ukundi bamwita Imana, bazemera nyabyo ko ari Intumwa y'Imana atari Imana.

- Mbere yo gupfa k'uwhawewe igitabo (Umuyahudi cyangwa Umunaswara); ubwo Malayika ushinzwe gukuramo roho z'ibiremwa azaba amugezeho, icyo gihe ni bwo yemera ko Yesu yari Intumwa ya **Allah** atari Imana, nyamara uko kwemera nta cyo kuba kukimumariye.

<sup>69</sup> Reba ibisobanuro by'iri jambo muri Surat ul Baqarat, umurongo wa 275.

<sup>70</sup> Reba uko twasobanuye umurongo wa 3 muri iyi Suratul Baqarat.

163. Mu by'ukuri, twaguhishuriye (ubutumwa) nk'uko twahishuriye Nuhu (Nowa) n'abahanuzi baje nyuma ye, twanahishuriye Ibrahim (Aburahamu), Ismail (Ishimayeli), Is'haq (Isaka), Yaqub (Yakobo) n'urubyaro rwe, Issa (Yesu), Ayub (Yobu), Yunus (Yonasi), Haruna (Aroni) na Sulaiman (Salomoni); naho Dawud (Dawudi) twamuhaye Zaburi.

164. Kandi (twohereje) Intumwa twakubwiye ibyazo mbere (y'ihihurwa ry'uyu murongo), hakaba n'Intumwa tutakubwiye ibyazo. Kandi Allah yavugishije Musa mu buryo butaziguye.

165. Izo ntumwa zitanga inkuru nziza zinaburira, kugira ngo abantu batazagira urwitwazo kwa Allah nyuma yo kohereza Intumwa. Kandi Allah ni Umunyacyubahiro bihebuje, Nyirubugenge buhambaye.

166. Ariko (nibaguhakana yewe Muhamadi), Allah ahamya ibyo yaguhishuriye; yabihihuye (bishingiye) ku bumenyi bwe ndetse n'abamalayika bahamya (ukuri kwabyo). Kandi Allah arahagije kuba Umuhamya.

\* إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى فُوحٍ وَالنَّبِيِّنَ  
مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ  
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى  
وَإِبْرَهِيمَ وَيُوسُفَ وَهَرُونَ وَسُلَيْمَانَ وَءَاتَيْنَا  
دَاؤُودَ زَبُورًا

١٦٣

وَرَسُلًا قَدْ قَصَصْتَهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ  
وَرَسُلًا لَمْ تَقْصُصْتُهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ  
مُوسَى تَكْلِيمًا

١٦٤

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لَئَلَّا يَكُونَ  
لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ  
عَزِيزًا حَكِيمًا

١٦٥

لَكِنَّ اللَّهَ يَشَهِّدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ وَيَعْلَمُ  
وَالْمَلَائِكَةُ يَشَهِّدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا

١٦٦

167. Mu by'ukuri ba bandi bahakanye bakanakumira (abantu kugana) inzira ya Allah, rwose bayobye bikabije.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ  
قَدْ ضَلُّوا أَضَلَّاً بَعِيدًا

168. Mu by'ukuri ba bandi bahakanye bakanakora ibidatunganye, Allah ntazababarira kandi ntazabayobora inzira itunganye.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا مَمْ يَكُنْ اللَّهُ لِيغْفِرَ  
لَهُمْ وَلَا لِيَهُدِيهِمْ طَرِيقًا

169. Uretse (kubayobora) inzira yo mu muriro wa Jahanamu, bazabamo ubuziraherezo; kandi ibyo kuri Allah biroroshye.

إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا  
وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

170. Yemwe bantu! Mu by'ukuri, Intumwa (Muhamadi) yabazaniye ukuri guturutse kwa Nyagasan wanyu; bityo nimumwemere, ni byo byiza kuri mwe. Ariko nimuhakana, mu by'ukuri, ibiri mu birere n'ibiri mu isi byose ni ibya Allah. Kandi Allah ni Umumenyi uhebuje, Nyirubugenge buhambaye.

يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحُقْقِيْقَةِ مِنْ رَبِّكُمْ فَعَامِنُوا حَيْثَا لَكُمْ وَإِنْ تَكُونُوا فِي إِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيًّا حَكِيمًا

171. Yemwe abahawe igitabo (Abanaswara)!<sup>71</sup> Ntimugakabye mu idini ryanyu, kandi ntimukavuge kuri Allah ibitari ukuri. Mu by'ukuri, Mesiya Issa (Yesu) mwene Mariyamu (Mariya) nta kindi yari cyo uretse ko yari Intumwa ya Allah akaba n'ijambo rye<sup>72</sup> yohereje

يَأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغُلوْ فِي دِينِكُمْ وَلَا  
تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ  
عِيسَى ابْنُ مَرِيمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ  
أَقْرَأْهَا إِلَى مَرِيمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَعَامِنُوا بِاللَّهِ

<sup>71</sup> Reba uko twasobanuye iyi nyito mu murongo wa 62 muri Surat ul Baqarat

<sup>72</sup> Kuba Yesu yitwa "Ijambo rya Allah" bisobanuye ko yabayeho ku bw'ijambo ry'Imana yategetse ngo "Baho", nuko abaho; nyina amubyara nta mugabo babonanye. Iri jambo rikaba ari naryo

muri Mariyamu ndetse na Roho (umwuka w'ubuzima) imuturutseho. Bityo, nimwemere Allah n'Intumwa ze kandi ntimukavuge "Ubutatu!" Musigeho! Ni byo byiza kuri mwe. Mu by'ukuri, Allah ni Imana imwe rukumbi. Ni Nyirubutagatifu, ntiyagira umwana. Ibiri mu birere n'ibiri mu isi byose ni ibye. Kandi Allah arahagije kuba Umuhagararizi.

172. Mesiya (Yesu mwene Mariya) n'abamalayika b'ibyegera (bya Allah) ntibaterwa isoni no kuba abagaragu ba Allah. Kandi uzaterwa isoni no kumugaragiraakanibona, bose azabakusanyiriza iwe (abacire urubanza).

173. Naho ba bandi bemeye bagakora ibikorwa byiza, azabagororera ingororano zabo zuzuye, anabongerere mu ngabire ze. Ariko ba bandi banze kumugaragira bakanibona, (Allah) azabahanisha ibihano bibabaza. Kandi ntibazagira umurinzi cyangwa umutabazi utari Allah.

وَرَسُولِهِ ﷺ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ أَنْتَهُوا خَيْرًا  
لَكُمْ إِنَّمَا الْهُدَىٰ إِلَهٌ وَحْدَهُ سُبْحَانَهُ وَأَنْ  
يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ هُوَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي  
الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكَيْلًا

لَنْ يَسْتَكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدَ اللَّهِ  
وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَكِفَ  
عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكِفِيرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ  
إِلَيْهِ جَمِيعًا

فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
فَيُؤْفَقُهُمْ أَجُورُهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ  
وَأَمَّا الَّذِينَ أَسْتَكَفُوا وَأَسْتَكَبُوا  
فَيَعْذِذُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ  
دُونِ اللَّهِ وَلِيَا وَلَا نَصِيرًا

174. Yemwe bantu! Mu by'ukuri, mwagezweho n'ikimenyetso (Intumwa Muhamadi) giturutse kwa Nyagasanji wanyu; kandi twabahishuriye urumuri rugaragara (Qur'an).

175. Bityo ba bandi bemeye Allah bagafatana urunana kuri We (bamugandukira), azabinjiza mu mpuhwe n'ingabire bye, kandi abayobore iwe mu nzira igororotse.

176. Baragusobanuza (yewe Muhamadi ku bijyanye n'amategeko y'zungura). Vuga uti "Allah aciye iteka ku byerekeye inshike; igihe umuntu apfuye adasize umwana (cyangwa se umubyeyi), ariko asize mushiki we, ahabwa kimwe cya kabiri cy'ibyo yasize. Iyo (uwapfuye) yari umugore kandi akaba nta mwana asize, musaza we aramuzungura. Naho iyo (bashiki be) ari babiri (cyangwa barenzeho), bahabwa bibiri bya gatatu by'ibyo yasize. Baba ari abavandimwe b'igitsina gabon gore; icyo gihe umuhungu ahabwa umugabane ungana n'uwan'abakobwa babiri." (Uko ni ko) Allah abasobanurira (amategeko ye) kugira ngo

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَنٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ فُرَاتَمِينًا ﴿١٧٦﴾

فَإِنَّمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَأَعْتَصَمُوا بِهِ

فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنْنَا وَفَضْلِ

وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صَرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿١٧٧﴾

يَسْتَغْفِرُونَكَ قُلْ أَلَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَّةِ إِنْ

أُمْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَاهَا

نِصْفٌ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ

فَإِنْ كَانَتَا أُثْتَيْنِ فَأَهْمَمَا الْثُلَثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ

كَلَوْا إِحْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذِكَرِ مِثْلُ حَظِّ

الْأُثْتَيْنِ قُلْ وَبِيَنِ اللَّهِ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ

يُكُلُّ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ ﴿١٧٨﴾

mutayoba. Kandi **Allah** ni  
Umumenyi wa buri kintu.

## 5 - SURAT AL MAIDAT

(AMEZA Y'AMAFUNGURO)

Yahishuriwe i Madina, igizwe n'imirongo 120.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya **Allah**, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Yemwe abemeye! Mujye mwuzuza amasezerano. Mwaziruriwe (kurya) amatungo, usibye ayo muza kugaragarizwa ko mwaziririjwe. Muziririjwe kandi guhiga igihe mwinjiye mu migenzo y'umutambagiro mutagatifu (Hija). Mu by'ukuri, **Allah** ategeka ibyo ashaka.

2. Yemwe abemeye! Ntimukubahuke ubutagatifu bw'ibimenyetso bya **Allah** (bijyanye n'umutambagiro mutagatifu), cyangwa ukwezi gutagatifu (mu gukoramo urugamba), amatungo yagenewe kuba ibitambo (muyahohotera), n'abantu cyangwa amatungo ariho imitamirizo (iranga amatungo y'ibitambo), n'abagna Ingoro Ntagatifu

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْفُوا بِالْعُقُودِ إِذْ أَلْتَ لَكُمْ  
بَهِمَةً الْأَنْعَمِ إِلَّا مَا يُتَّلِى عَلَيْكُمْ عِزَّ مُحِلٍّ  
الصَّيْدِ وَإِنْ شׂُئْمُ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ كُمَا يُرِيدُ

①

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحْلِوْ شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا  
الشَّهْرُ الْحَرَامُ وَلَا الْهَدَى وَلَا الْقَتْدِدُ وَلَا إِمَانَ  
الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَضْوَنَا وَإِذَا  
حَلَّتُمُ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجِدُ مَنْكُمْ شَنَعًا قَوْمٌ أَنْ  
صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعَدُوا وَتَعَاوِنُوا  
عَلَى الْإِثْمِ وَالْتَّقْوَى وَلَا تَعَاوِنُوا عَلَى الْإِلَمِ

bashaka ingabire no kwishimirwa na Nyagasani wabo. Ariko nimusoza (umutambagiro mutagatifu) mwemerewe guhiga. Kandi urwango mufitiye abantu babakumiriye kugera ku Musigitu mutagatifu ntiruzatume murengera (ngo mugire nabi). Ndetse muterane inkunga mu byiza no mu gutinya **Allah** kandi ntimuzaterane inkunga mu byaha n'ubugizi bwa nabi. Munatinye **Allah**, mu by'ukuri **Allah** ni Nyiribihano bikaze.

3. Mwaziririjwe (kurya) icyipfushije, amaraso, inyama y'ingurube, icyabagiwe ikitari **Allah**, icyishwe kinizwe, icyishwe gikubiswe, icyapfuye gihanutse, icyapfuye gitewe ihembe n'ikindi, n'icyariweho n'inyamaswa (kigapfa) uretse icyo mwabashije kubaga kitarapfa), ndetse n'icyabagiwe ibigirwamana. (Mwaziririjwe kandi) kuraguza (mushaka kumenya ibizababaho); ibyo byose kuri mwe ni ukwigomeka ku mategeko ya **Allah**. Kuri ubu, ba bandi bahakanye bataye icyizere (cy'uko mutakivuye) mu idini ryanyu, bityo ntimukabatinye, ahubwo abe ari njye mutinya. Uyu munsi mbuzurije idini ryanyu, kandi mbasenderejeho inema zanjye,

وَالْعُدُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدٌ

آلِعِقَابِ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنِزِيرِ وَمَا أَهْلَ  
لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقِدَةُ وَالْمُرْتَدِيَةُ  
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَاءَ  
وَمَا ذُبَحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقِسُمُوا بِالْأَرْضِ  
ذَلِكُمْ فَسَقٌ أَيُّومَ يَبِيسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ  
فَلَا تَحْشُوْهُمْ وَلَا خُشُونَ أَيُّومًا كَمُلُّ لَكُمْ دِيْنُكُمْ  
وَأَتَمَّتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيَتْ لَكُمُ الْإِسْلَامُ دِيَنًا  
فَمَنِ اصْطَرَّ فِي مَحْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِلَّا مِنْ

اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

nanabahitiyemo ko Isilamu iba idini ryanyu. Ariko uzasumbirizwa n'inzara atari ukwigomeka (akarya ibyazirijwe, nta cyaha kuri we). Mu by'ukuri Allah ni Ubabarira ibyaha, Nyirimpuhwe.

4. Barakubaza (yewe Muhamadi) ku byerekeye ibyo baziruriwe (kurya). Vuga uti "Muziruriwe (kurya) ibyiza n'umuhigo mwafatiwe n'ibisiga ndetse n'imbwa mwatoje mukazigisha (guhiga) nk'uko Allah yabibigishije. Bityo, mujye murya ibyo zabafatiye ariko mubivugireho izina rya Allah (igihe muzohereje guhiga), kandi mugandukire Allah. Mu by'ukuri, Allah ni Ubanguka mu ibarura."

5. Ubu muziruriwe (kurya) amafunguro meza. Muziruriwe kandi amafunguro y'abahawe igitabo (Abayahudi n'Abanaswara), ndetse na bo baziruriwe amafunguro yanyu. Muziruriwe kandi (kurongora) abagore biyubashye mu bemeramanakazi n'abiyubashye muri ba bandi bahawé igitabo mbere yanyu, igihe mwabahaye inkwano zabo, kandi namwe mwiyubashye, mutiyandarika cyangwa ngo mugire inshoreke. Ariko uzahakana ukwemera, mu by'ukuri, ibikorwa bye bizaba

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحِلَّ لَهُمْ قُلْ أَحِلَّ لَكُمُ الظَّبَابُ  
وَمَا عَلِمْتُمْ مِنْ أُجُواحٍ مُكَلِّبِينَ تُعَامِلُوهُنَّ مِمَّا  
عَلِمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا أَسْمَ  
اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤﴾

الْيَوْمَ أَحِلَّ لَكُمُ الظَّبَابُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ  
حُلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حُلُّ لَهُمْ وَالْمُحْسَنُونَ مِنَ  
الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْسَنُونَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ  
قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورُهُنَّ مُحْصِنِينَ عَيْرَ  
مُسَفِّحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرُ  
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَيَطَ عَمَّلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ  
الْخَسِيرِينَ ﴿٥﴾

imfabusa kandi ku munsi  
w'imperuka azaba mu  
banyaighombo.

6. Yemwe abemeye! Igihe mugiye gukora isengesho, mujye mukaraba mu buranga bwanyu n'amaboko yanyu kugeza mu nkokora, muhanagure ku mitwe yanyu ndetse munakarabe ibirenge byanyu kugeza ku tubumbankore. Nimuba mufite Janaba<sup>73</sup>, mujye mwiyuhagira umubiri wose. Ariko nimuba murwaye (mutabasha gukoresha amazi) cyangwa muri ku rugendo, cyangwa umwe muri mwe avuye mu bwiherero, cyangwa mwakoranye imibonano n'abagore banyu ntimubone amazi, mujye mukora Tayamamu<sup>74</sup> mwisukure mukoresheje igitaka gisukuye; mugihanaguze mu buranga bwanyu no ku maboko yanyu (ku biganza byanyu). Allah ntashaka kubashyiriraho ibibaremereye, ahubwo arashaka kubeza no kubasenderezaho inema ze kugira ngo mushimire.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ  
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيهِكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ  
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى  
الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنَاحًا فَأُطْهِرُوا وَإِنْ  
كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ  
مِنْكُمْ مِنَ الْغَ�يِطِ أَوْ لَمْسَتْ النِّسَاءَ فَلَا يَحْدُو  
مَاءً فَتَبَيَّمُوا صَعِيدًا طَيْبًا فَامْسَحُوا  
بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيهِكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ  
لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَاجٍ وَلَا كِنْ يُرِيدُ  
لِيُطْهِرَكُمْ وَلَيُتَمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ  
لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ⑥

<sup>73</sup> Igihe mwagiranye imibonano n'abagore banyu, cyangwa mwasohotswemo n'intanga mujye mwisukura, mwiyuhagira umubiri wose.

<sup>74</sup>Iri jambo twararisobanuye mu mirongo yabanje (Surat Nisai: 43)

7. Munibuke inema za Allah kuri mwe n'isezerano rye rikomeye yabasezeranyije ubwo mwavugaga muti "Twumvise kandi twumviye." Kandi mugandukire Allah. Mu by'ukuri, Allah azi neza ibiri mu bituza byanyu.

8. Yemwe abemeye! Mujye muhagarara mwemye (mwuzuza inshingano zanyu) kubera Allah, kandi mujye muba abahamy batabogama, ndetse urwango abantu babafitiye ntiruzatume mutabagirira ubutabera. Mujye murangwa n'ubutabera kuko ari byo byegereye kugandukira Allah, kandi mugandukire Allah. Mu by'ukuri, Allah azi neza ibyo mukora.

9. Allah yasezeranyije ba bandi bemeye bakanakora ibikorwa byiza, kuzababarira no kuzabagororera ibihembo bihambaye.

10. Naho ba bandi bahakanye bakanahinyura ibimenyetso byacu, abo ni abantu bo mu muriro.

11. Yemwe abemeye! Nimwibuke inema za Allah kuri mwe ubwo bamwe mu bantu bashakaga kubica, maze (Allah) akababarinda. Bityo nimugandukire Allah. Kandi

وَادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِنْهُ  
الَّذِي وَأَنْتَمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٧﴾

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ لِلَّهِ  
شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ  
قَوْمٍ عَلَىٰ الْأَقْدَلِ لَوْ أَعْدُلُو هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ



وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٩﴾

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِيَتِنَا أُولَئِكَ  
أَصْحَابُ الْجَنَاحِ ﴿١٠﴾

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ  
عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَنْ يَسْتُطُوْ إِلَيْكُمْ

abemeramana bajye biringira Allah.

يَأَيُّهُمْ فَكَفَرُواْ مِنْهُمْ وَأَيُّهُمْ عَنْكُمْ وَأَتَقُواْ اللَّهَ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلَيَتَوَكَّلَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾

12. Rwose Allah yakiriye isezerano rya bene Isiraheli, maze tubatoranyamo abatware cumi na babiri. Nuko Allah aravuga ati “Mu by’ukuri, njye ndi kumwe namwe, nimuramuka muhojejeho iswala<sup>75</sup>, mugatanga amaturo, mukemera Intumwa zanjye mukazishyigikira, mukanaguriza Allah inguzanyo nziza. Mu by’ukuri, nzabababarira ibyaha byanyu nzanabinjize mu busitani butembamo imigezi (Ijuru). Ariko muri mwe uzahakana nyuma y’ibyo, rwose azaba ayobye inzira igororotse.”

13. Bityo kubera kwica isezerano ryabo rikomeye, twarabavumye tunadanangira imitima yabo (iba nk’urutare) kuko bahindura amagambo (ya Allah ari muri Tawurati) bakayakura mu myanya yayo (bayaha ibisobanuro bitari ibayayo), kandi banirengagije igice (cy’ubutumwa) bibutswaga. Ndetse ntuzahwema kubabonaho ubuhemu, uretse bake muri bo. Ku bw’ibyo, bababarire unirengagize (ibibi

\* وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيقَاتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَعَثَثَنَا مِنْهُمْ أَثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَيْلَ أَقْمَتُمُ الصَّلَاةَ وَعَاهَدْتُمُ الزَّكَوَةَ وَإِمَانُكُمْ يُرْسِلِي حَسَنَا لِأَكَافِرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَا دُخْنَكُمْ جَنَّتِ تَحْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءُ السَّبِيلِ ﴿١٣﴾

فِيمَا نَقْضُهُمْ مِيقَاتُهُمْ لَعَنْهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَّةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عنْ مَوَاضِعِهِ وَسُوءُ حَطَامًا ذَكَرُواْ بِهِ وَلَا تَرَأْلُ تَطَلُّعًا عَلَىٰ حَلَبَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاغْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤﴾

<sup>75</sup> Reba uko twasobanuye iyi nyito mu murongo wa 62 muri Surat ul Baqarat.

byabo). Mu by'ukuri, **Allah** akunda abakora ibyiza.

14. No muri ba bandi bavuze bati "Mu by'ukuri, twe turi Abanaswara<sup>76</sup>", twakiriye isezerano ryabo, ariko birengagije igice (cy'ubutumwa) bibutswaga, nuko tubateza ubugome n'urwango hagati yabo kugeza ku munsi w'imperuka; kandi **Allah** azabamenyesha ibyo bajyaga bakora.

15. Yemwe abahawe igitabo! Mwagezweho n'Intumwa yacu (Muhamadi) ibasobanurira byinshi mu byo mwahishaga mu gitabo (Tawurati n'Ivanjili) ikanirengagiza byinshi (yabonaga ko bitari ngombwa). Mu by'ukuri, mwagezweho n'urumuri (Intumwa Muhamadi) ndetse n'igitabo gisobanutse (Qur'an) biturutse kwa **Allah**.

16. (Icyo gitabo) **Allah** akiyoboza mu nzira z'amahoro ba bandi bashaka kwishimirwa na we, akanabakura mu mwijima (w'ubuyobe) abaganisha mu rumuri ku bwo gushaka kwe, ndetse akanabayobora inziraigororotse.

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَرَى أَخْذَنَا مِثْقَلَهُمْ  
فَسَوْفَ حَظَّا مِمَّا ذَكَرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا  
بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ إِلَى يَوْمٍ  
أَقْيَمَهُ وَسَوْفَ يُنَتَّهُمُ اللَّهُ بِمَا  
كَانُوا يَصْنَعُونَ

﴿١﴾

يَأَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا  
يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ  
تُخْفِونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ  
قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ  
مُبِينٌ

﴿١﴾

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ  
سُبْلُ السَّلَمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ  
الْظُّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ  
إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ

﴿١﴾

<sup>76</sup> Reba uko twasobanuye iyi nyito mu murongo wa 62 muri Surat ul Baqarat.

17. Rwose abavuze ko Mesiya (Yesu) mwene Mariyamu (Mariya) ari Imana, barahakanye. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Ni nde wagira ububasha bwo kubuza **Allah** aramutse ashatse kurimbura Mesiya mwene Mariyamu, nyina, ndetse n'abari ku isi bose?” Kandi ubwami bw'ibirere n'ubw'isi n'ibiri hagati yabyo, ni ibya **Allah**. Arema icyo ashaka. Kandi **Allah** ni Ushobora byose.

18. Kandi Abayahudi n'Abanaswara<sup>77</sup> baravuga batii “Turi abana ba **Allah** tukaba n'abatoni be.” Vuga uti “None se kuki abahanira ibyaha byanyu?” Ahubwo mwe muri bamwe mu bantu yaremye, ababarira uwo ashaka akanahana uwo ashaka. Kandi ubwami bw'ibirere n'ubw'isi n'ibiri hagati yabyo ni ibya **Allah**; ndetse iwe ni ho (byose) bizasubira.

19. Yemwe abahawe igitabo! Rwose Intumwa yacu (Muhamadi) yabagezeho ibasobanurira (ukuri) nyuma y'igihe kirekire nta ntumwa yoherejwe (hagati ya Issa na Muhamadi), kugira ngo mutazagira urwitwazo muvuga muti “Ntawe utanga inkuru nziza cyangwa umuburizi watugezeho.” Ariko ubu noneho

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ  
الْمَسِيحُ ابْنُ مَرِيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ  
مِنْ أَنَّ اللَّهَ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ  
ابْنَ مَرِيَمَ وَأَمْهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ  
جَمِيعًا وَإِلَهٌ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  
وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ  
شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالصَّرَائِرِ نَحْنُ أَبْشُرُ اللَّهَ  
وَأَحَبُّوهُ ﴿١٨﴾ قُلْ فَلِمَ يَعْدِدُكُمْ بِدُنُوْكُمْ بِلَ أَنْتُمْ بَشَرٌ  
مِمَّنْ حَقَّ يَعْفُرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ  
وَإِلَهٌ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا  
وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٩﴾

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يَبِينُ لَكُمْ  
عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ  
بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ  
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

<sup>77</sup> Reba uko twasobanuye iyi nyito mu murongo wa 62 muri Surat ul Baqarat.

utanga inkuru nziza akaba n'umuburizi yabagezeho. Kandi **Allah** ni Ushobora byose.

20. Unibuke (yewe Muhamadi) ubwo Musa yabwiraga abantu be ati “Yemwe bantu banjye! Mwibuke inema za **Allah** kuri mwe, ubwo yabatoranyagamo abahanuzi ndetse (namwe) akabagira abami (nyuma y'uko mwari abagaragu mu gihugu cya Farawo), akanabaha ibyo atahaye uwo ari we wese mu biremwa (byo ku gihe cyanyu).”

21. Yemwe bantu banjye! Nimwinjire ku butaka butagatifu (Yeruzalemu) **Allah** yabasezeranyije. Kandi ntimumzasubire inyuma (muhunga urugamba) kuko mwaba abanyagihombo.

22. Baravuga bati “Yewe Musa! Mu by'ukuri, (kuri ubwo butaka) hari abantu b'ibihangange kandi ntabwo tuzahinjira batabanje kuhava; nibahava ni bwo tuzahinjira.”

23. Abagabo babiri mu batinya (**Allah**) ndetse **Allah** yahaye ingabire baravuga bati “Nimubinjirane mu marembo; kuko nimuhabinjirana muzaba mubatsinze, kandi mwiringire **Allah** niba koko muri abemeramana.”

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَقُولُونَ إِذْ كُرُوا نَعْمَةً  
اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِكُّكُمْ أَبْيَاءَ وَجَعَلَكُمْ  
مُّلُوكًا وَأَنْتُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٠﴾

يَقُولُونَ إِذْ دَخَلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي  
كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُوا عَلَى  
أَدْبَارِكُمْ فَتَنَقِلُوا خَسِيرِينَ ﴿٢١﴾

قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَارِينَ وَإِنَّا لَن  
نَدْخُلُهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا  
دَخْلُونَ ﴿٢٢﴾

قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا  
أَدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ  
غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ  
مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾

24. Baravuga bati “Yewe Musa! Mu by'ukuri, ntiduteze kuhinjira na rimwe igihe cyose bagihari. Ngaho, genda wowe na Nyagasan i wawe mubarwanye mwembi, rwose twebwe twiyicariye aha.”

25. (Musa) aravuga ati “Nyagasan wanjiye! Mu by'ukuri, ntawé ngenga uretse njye ubwanjiye n'umuvandimwe wanjiye; ngaho, dutandukanye n'abantu b'ibygomeke.”

26. (Allah) aravuga ati “Rwose (ubwo butaka) babuziririjwe imyaka mirongo ine, (bazayimara) barindagira mu isi; bityo ntuzababazwe n'abantu b'ibygomeke.”

27. Kandi (yewe Muhamadi) ubabarire by'ukuri inkuru y'abana babiri ba Adamu (Gahini na Abeli), ubwo bombi batangaga ibitambo; icy'umwe muri bo (Abeli) kikakirwa ariko icy'undi (Gahini) nticyakirwe. (Gahini) aravuga ati “Rwose ndakwica.” (Abeli) aravuga ati “Mu by'ukuri, Allah yakira (ibikorwa) by'abamutinya”,

قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَذْخُلَهَا أَبَدًا مَادَأْمَوْفِيهَا  
فَأَذْهَبْ أَنَّتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَهُنَا

قَاعِدُونَ ﴿٢٤﴾

قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمِلُكْ إِلَّا نَفْسِي وَأَنْجِ  
فَأَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمَ الْفَسِيقِينَ ﴿٢٥﴾

قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً  
يَتَيَّهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ  
الْفَسِيقِينَ ﴿٢٦﴾

\*وَأَنْتُ عَلَيْهِمْ بَأْبَنَى أَبْنَى إِدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَبُوا إِلَيْنَا  
فَتُقْسِلُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَّقْبَلْ مِنْ الْآخَرِ  
قَالَ لَاقْتُلْنَاكَ قَالَ إِنَّمَا يُتَّقْبَلُ اللَّهُ مِنْ  
الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾

28. "Nuramuka undambuyevo ukuboko kwawe kugira ngo unyice, njye sinakuramburaho ukwanjye ngo nkvice, kuko mu by'ukuri njye ntinya **Allah**, Nyagasani w'ibiremwa byose."

29. (Aho kugira ngo twicane) nakwifuje ko wikorera umutwaro w'ibyaha byanje n'ibyawe, maze ukaba mu bantu bo mu muriro. Icyo ni cyo gihembo cy'inkozi z'ibibi.

30. Nuko umutima we umwoshya kwica umuvandimwe we, aramwica maze aba abaye mu banyagihombo.

31. Nuko **Allah** yohereza icyiyoni gicukura mu butaka (gihamba kigenzi cyacyo), kugira ngo kimwereke uko ashyingura umuvandimwe we. (Gahini) aravuga ati "Mbega ibyago! Ubu koko nananiwe kuba nk'iki cyiyoni ngo nshyingure umuvandimwe wanjye?" Ubwo aba abaye mu bicuza (icyatumye yica umuvandimwe we).

32. Kubera ibyo, twategetse bene Isiraheli ko uzica umuntu atamuhyoe ko yishe undi cyangwa ko yakoze ubwononnyi ku isi, azafatwa nk'uwishe ab'isi bose. N'uzarokora ubuzima bw'umuntu, azagororerwa nk'uarokoye ab'isi bose. Kandi rwose Intumwa zacu zabazaniye

لَمْ يَنْبُطِطْ إِلَى يَدِكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِمَا سِطِّ  
يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ

٢٨

إِنِّي أَرِيدُ أَنْ تَبُوَّأَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ  
أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَرْأَةُ الظَّالِمِينَ

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ وَقَتَلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ  
فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ

فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَجْعَلُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيهِ  
كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَوْمَ أَتَى  
أَعْجَزُتْ أَنَّ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأَوْرِي  
سَوْءَةَ أَخِي فَلَمْ يَصْبَحْ مِنَ النَّاجِيَاتِ

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ  
مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ  
فَكَانَمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ  
أَحْيَاهَا فَكَانَمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

ibimenyetso bigaragara, ariko abenshi muri bo nyuma yabyo bakomeje kuba abangizi ku isi.

وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ  
كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ

لَمْسُرِفُونَ ﴿٣﴾

33. Mu by'ukuri igihano cy'abarwanya Allah n'Intumwa ye bakanaharanira gukora ubwononnyi ku isi; ni uko bicwa cyangwa bakabambwa, cyangwa bagacibwa amaboko n'amaguru imbusane cyangwa bakirukanwa mu gihu<sup>78</sup>. Ibyo (bihano) ni igisebo kuri bo ku isi kandi ku munsi w'imperuka bazahanishwa ibihano bihambaye.

34. Uretse ba bandi bicujije mbere y'uko mubafata (ngo bahanwe, abo muzabareke). Bityo mumenye ko Allah ari Ubabarira ibyaha, Nyirimpuhwe.

35. Yemwe abemeye! Mugandukire Allah munakore ibikorwa bituma mumwiyegereza, kandi muharanire inzira ye kugira ngo mukiranuke.

إِنَّمَا جَزَّأُوا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقْتَلُوا أَوْ  
يُصَلَّبُوا أَوْ تُقْطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ  
خَلْفِهِمْ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ  
خَرَقٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ

عَظِيمٌ ﴿٣﴾

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ  
فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٤﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ  
الْوَسِيلَةَ وَجَاهُدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ ﴿٥﴾

<sup>78</sup>Abarwanya Allah n'Intumwa ye bagamijwe muri uyu murongo ni ibisambo bitegera abantu mu mayira cyangwa bitera abantu, bigamije kubatera ubwoba, kubambura ibyabo, kubyangiza ndetse bikaba byanabica.

36. Mu by'ukuri ba bandi bahakanye, n'iyo baba bafite ibiri mu isi byose n'ibindi nka byo kugira ngo babyicunguze ibihano byo ku munsi w'imperuka, ntabwo bizemerwa kandi bazahanishwa ibihano bibabaza.

37. Bazifuza kuva mu muriro ariko ntibazigera bawuvamo, kandi bazahanishwa ibihano bihoraho.

38. Umujura w'umugabo n'umujura w'umugore mujye mubaca amaboko (ibiganza) bibe igihano cy'ibyo bakoze, igihano ntangarugero giturutse kwa **Allah**. Kandi **Allah** ni Umunyacyubahiro bihebuje, Nyirubugenge buhambaye.

39. Ariko uwicuza nyuma yo gukora icyaha ndetse akanakora ibikorwa byiza, rwose **Allah** aramubarira. Mu by'ukuri, **Allah** ni Ubabarira ibyaha, Nyirimpuhwe.

40. Ese ntuzi ko **Allah** afite ubwami bw'ibirere n'ubw'isi? Ahana uwo ashaka akanabarira uwo ashaka. Kandi **Allah** ni Ushobora byose.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْا نَ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ  
جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ وَلِيَقْتَدُوا بِهِ مِنْ  
عَذَابٍ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا تَقْبِلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ  
عَذَابٌ أَلِيمٌ

يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ  
بِخَرْجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا  
حَرَاءً إِيمَانَكَلَامَنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ  
يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ  
وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ  
وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

41. Yewe ntumwa (Muhamadi)! Ntugaterwe agahinda n'abahatanira kujya mu buhakanyi muri ba bandi bavuze bati "Twaremeye" babivugishije iminwa yabo ariko bitavuye ku mitima yabo. No mu Bayahudi hari abumviriza ibyo uvuga bagamije kujya kuvuga ibinyoma, bumviriza cyane ibyo uvuga bagamije kumvira abo mutari kumwe (batigeze bakugana). Bahindura amagambo (yo muri Tawurati) bayakura mu myanya yayo bavuga bati "Nimuhabwa (ibihuye) n'ibi (tubabwira), muzabyakire; ariko nimutabihabwa muzabe menge." Uwo Allah ashaka kugerageza nta cyo wamumarira imbere ya Allah. Abo ni ba bandi Allah adashaka kweza imitima yabo (ngo bave mu buyobe); bazagira igisebo ku isi kandi no ku munsi w'imperuka bazahanishwa ibihano bihambaye.

42. (Bakunda) gутega amatwi ibinyoma bakanakunda kwaka indonke. Nibakugana (yewe Muhamadi) ujye ubakiranura cyangwa ubirengagize. Nubirengagiza nta cyo bazagutwara kandi nubakiranura, ujye ubakiranura mu butabera. Mu

\* يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْرِنَكَ الظَّالِمُونَ  
يُسْرِعُونَ فِي الْكُفَّارِ مِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا إِنَّا  
بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الظَّالِمِينَ  
هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ  
لِقَوْمٍ أَخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلْمَامَ  
مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ  
هَذَا فَخُدُودُهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ  
يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ  
شَيْئًا أُولَئِكَ الظَّالِمُونَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ  
قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَزْنٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ  
عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٤١﴾

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِسُسْحَتِ  
فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ  
عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَصْرُرُوكَ شَيْئًا وَإِنْ  
حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ  
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾

by'ukuri, **Allah** akunda abakoresha ubutabera.

43. Ese ni gute bagusaba ko ubakiranura kandi bafite Tawurati ikubiyemo amategeko ya **Allah**? Nyamara nyuma yibyo bagatera umugongo. Abo rwose ntabwo ari abemeramana (nyakuri).

44. Mu by'ukuri, twahishuye Tawurati irimo umuyoboro n'urumuri. Ni na yo Abahanuzi biyeguriye **Allah**, Abihayimana n'abamenyi b'idini bifashisha mu gukiranura Abayahudi; kuko bahawe inshingano zo kubungabunga igitabo cya **Allah**, kandi bari n'abahamya bacyo. Bityo ntimugatinye abantu ahubwo mube ari njye mutinya, kandi ntimukagurane amagambo yanje igiciro gito. Kandi abatazakiranura abantu bifashishihe ibyo **Allah** yahishuye, abo ni bo bahakanyi.

45. Kandi twabategetse muri yo (Tawurati) ko uwishe umuntu (abigambiriye) na we yicwa, ukuyemo ijisho na we akurwemo ijisho, uciye izuru na we acibwe izuru, uciye ugutwi na we acibwe ugutwi, ukuye iryinyo na we akurwe iryinyo, n'ukomerekeje na we akomeretswe. Ariko uzabarira (ntasabe guhorerwa), ibyo

وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكُمْ وَعِنْهُمُ التَّوْرَةُ  
فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَوَّنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا  
أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٣﴾

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحَكِّمُ  
بِهَا الْبَنِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا  
وَالرَّسُّالُونَ وَالْأَخْبَارُ بِمَا أَسْتَحْفَظُونَا مِنْ  
كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا  
تَخْشُوَ النَّاسَ وَأَخْشَوْنَ وَلَا تَشْرُوْنَ بِعَيْنِي  
ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ  
فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفَسَ بِالنَّفَسِ  
وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنُ  
بِالْأَذْنِ وَالسَّبَّ بِالسَّبِّ وَالْجُرُوحَ قَصَاصٌ  
فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ  
لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ  
الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

bizamubera icyiru (ababarirwe ibyaha). Kandi abatazakiranura abantu bifashishije ibyo Allah yahishuye, abo ni bo nkozi z'ibibi<sup>79</sup>.

46. Kandi nyuma  
y'uruhererekane rwazo  
(Intumwa z'Abayisiraheli),  
twabakurikije Issa mwene  
Mariyamu ashimangira  
ibyahishuwe mbere ye muri  
Tawurati, tunamuha Ivanjili  
irimo umuyoboro n'urumuri  
inashimangira ibyo muri  
Tawurati yahishuwe mbere  
yayo, ikaba umuyoboro  
n'inyigisho ku batinyamana.

47. Ngaho abahawe Ivanjili  
nibategekeshe ibyo Allah  
yayibahishuriyemo. Kandi  
abatazakiranura abantu  
bifashishije ibyo Allah  
yahishuye, abo ni bo bangizi.

48. Twanaguhishuriye (yewe Muhamadi) igitabo (Qur'an) mu kuri, gishimangira ibitabo byakibanjirije kandi kibihatse. Bityo, jya ubakiranura ukoresheje ibyo Allah yahishuye kandi ntuzakurikire amarangamutima yabo ngo aguteshe ukuri kwakugezeho. Buri (muryango) muri mwe

وَقَفَيْنَا عَلَىٰ إِثْرِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمْ مُصَدِّقاً  
لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ  
هُدًىٰ وَنُورٌ وَمُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ  
الْتَّوْرَةِ وَهُدًىٰ وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٦١﴾

وَلَيَحْكُمُ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ  
يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمْ  
الْفَاسِقُونَ ﴿٦٢﴾

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ  
يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمَهِيمَنَا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ  
بِيَنْهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكُ  
مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرِعَةً وَمِنْهَا جَاءَ  
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَ كُمْ أُمَّةً وَحْدَةً وَلَكِنْ

<sup>79</sup> Ibijyanye n'iyubahirizwa ry'ibihano byo ku isi bivugwa muri uyu murongo ndetse n'indi igaragara muri Qur'an iteganya ibihano by'ibyaha bitandukanye, ntibishyirwa mu bikorwa n'umuntu ku giti cye, ahubwo bishyirwa mu bikorwa n'ubutabera bwo mu gihu gigendera ku mategeko ya Isilamu.

twawuhaye amategeko n'inzira igaragara (ukurikira). Iyo Allah aza kubishaka yari kubagira umuryango umwe (Umat), ariko (si uko yabigenje) kugira ngo abagerageze mu byo yabahaye; bityo nimurushanwe mu gukora ibyiza. Mwese muzagaruka kwa Allah, maze abamenyeshe ibyo mutavugagaho rumwe.

49. Unabakiranuze ibyo Allah yahishuye, kandi ntuzakurikire amarangamutima yabo, kandi unabirinde kugira ngo batagutesha bimwe mu byo Allah yaguhishuriye. Ariko nibatera umugongo, ubwo umenye ko Allah ashaka kubahanira bimwe mu byaha byabo. Kandi mu by'ukuri, abenshi mu bantu ni ibygomeke.

50. None se barashaka amategeko yo mu bihe by'ubujiji? Ese ni nde wakiranura neza kurusha Allah, ku bantu bizera nyabyo?

51. Yemwe abemeye! Ntimukagire Abayahudi n'Abanaswara<sup>80</sup> inshuti zanyu (mubabitsa amabanga yanyu, kuko) bamwe ari inshuti z'abandi. Kandi uzabagira inshuti muri mwe, uwo azaba abaye umwe muri bo. Mu

لَيَأْتُوكُمْ فِي مَا إِنْتُمْ بِهِمْ فَأَسْتَقْوْدُ الْحَيَّرَةَ  
إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبَّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ

تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

وَإِنَّ أَحَدَكُمْ يَتَّهِمُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّسِعَ  
أَهْوَاءُهُمْ وَلَا حَدَّرُهُمْ أَنْ يَقْسُطُوا عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ  
اللَّهُ إِلَيْكُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ  
بَعْضُ دُنُوِّهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَسِقُونَ ﴿٤٩﴾

أَنْكَحْكُمُ الْجَنِيلِيَّةَ يَعْغُونَ هُنَّ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ  
حُكْمُ الْقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾

\* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِنْتُمْ لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى  
وَلِيَأَءَهُمْ أَعْصُمُهُمْ أَوْ لِيَأَءَهُمْ بَعْضٌ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُنَكِّرْهُ فِي نَهَاءِ  
مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهِدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾

<sup>80</sup> Reba uko twasobanuye iyi nyito mu murongo wa 62 muri Surat ul Baqarat

by'ukuri, **Allah** ntayobora abantu b'inkozi z'ibibi.

52. Nuko ugasanga ba bandi bafite uburwayi (bw'uburyarya) mu mitima yabo bihutira kubagana bavuga batii "Turatinya ko twagerwaho n'amakuba." Nyamara **Allah** yazana intsinzi cyangwa ikindi giturutse iwe, bagatangira kwicuza kubera ibyo bagize ibanga mu mitima yabo.

53. Naho ba bandi bemeye bazavuga batii "Ese bariya si (ba bantu b'indyarya) barahiye ku izina rya **Allah** indahiro zabo zikomeye ko rwose bari kumwe namwe (abemeramana)?" Ibikorwa byabo byabaye imfabusa (kubera uburyarya bwabo) nuko baba abanyagihombo.

54. Yemwe abemeye! Muri mwe uzava mu idini rye (Isilamu), (amenye ko) **Allah** azazana abandi bantu akunda kandi na bo bakamukunda, biyoroshya ku bemeramana, bakaba inkazi ku bahakanyi, baharanira inzira ya **Allah** kandi badatinya umugayo w'ubagaya. Izo ni ingabire za **Allah** ahundagaza ku wo ashaka. Kandi **Allah** ni Nyiringabire zagutse, Umumenyi uhebuje.

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَرِّعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ  
نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَأْرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِي بِالْفَتْحِ أَوْ  
أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا آسَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ

نَدِيمِينَ ٥٣

وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَهْوَاءُ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ  
إِيمَانَهُمْ إِنَّهُمْ لَعَمَّكَ حِطَّتْ أَعْنَالُهُمْ فَاصْبِرْحُوا

خَسِيرِينَ ٥٤

يَا إِيَّاهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَن يَرْتَدَ مِنْكُمْ عَنِ دِينِهِ  
فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُجْهِمُهُمْ وَيُحِبِّبُونَهُ وَذِلَّةٌ عَلَىٰ  
الْمُؤْمِنِينَ أَعْزَةٌ عَلَى الْكُفَّارِ يُجْهِدُونَ فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةً لَآئِمَّةٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن

يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ ٥٥

55. Mu by'ukuri, inshuti zanyu magara ni **Allah**, Intumwa ye ndetse n'abemeye; ba bandi bahozaho iswala<sup>81</sup> bakanatanga amaturo bicishije bugufi (kuri **Allah**).

إِنَّمَا وَلَيَئِكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ  
يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوَةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ٦٠

56. Kandi uzagira inshuti magara **Allah**, Intumwa ye, ndetse n'abemeramana; mu by'ukuri, itsinda rya **Allah** ni ryo rizatsinda.

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ  
هُمُ الْغَلَبُونَ ٦١

57. Yemwe abemeye! Ntimukagire inshuti ba bandi bagize idini ryanyu urunnyego n'igikinisho muri ba bandi bahawe ibitabo mbere yanyu ndetse n'abahakanyi, kandi mugandukire **Allah** niba koko muri abemeramana.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا  
دِينَكُمْ هُرُوا وَلَعَبَا مِنَ الَّذِينَ أُفْوِيَ الْكِتَبَ مِنْ  
قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارُ أُولَئِكَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُثُرُ مُؤْمِنِينَ ٦٢

58. N'ijo muhamagariye (abantu) kujya gusali, babigira urwenya n'umukino; ibyo ni ukubera ko ari abantu badatekereza.

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُرُزاً وَلَعَبًا ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ٦٣

59. Vuga uti "Yemwe abahawwe ibitabo! Ese hari ikindi muduhora usibye kuba twemera **Allah**, ibyo twahishuriwe n'ibyahishuwe mbere (yacu), ndetse no kuba (duhamya ko) abenshi muri mwe ari ibygomeke?"

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَبِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَ إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا  
بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِ وَإِنَّ أَكْثَرَ  
فَلَسْقُونَ ٦٤

<sup>81</sup> Reba uko twasobanuye iyi nyito mu murongo wa 62 muri Surat ul Baqarat.

60. Vuga uti "Ese mbabwire uzahembwa ibihembo bibi kwa Allah kurusha ibyo (by'inkozi z'ibibi)? Ni abavumwe na Allah akabarakanira, akagira bamwe muri bo inkende n'ingurube ndetse n'abagaragira ibigirwamana. Abo (ku munsi w'imperuka) bazaba bari ahantu habi kurusha ahandi (mu muriro), kandi bayobye nyabyo inzira igororotse."

61. N'yo (indyarya) zije zibagana, ziravuga ziti "Twaremeye", nyamara zinjirana aho muri (umugambi w') ubuhakanyi zikanabusohakana. Kandi Allah azi neza ibyo zahishaga byose.

62. Uzanabona abenshi muri bo (Abayahudi) bihitura kujya mu byaha, mu bugizi bwa nabi no kwaka indonke. Rwose ibyo bakora ni bibi.

63. Kuki abihayimana n'abamenyi (babu) batababuza imvugo yabo y'icyaha no kwaka indonke? Rwose ibyo bakoraga ni bibi.

64. Kandi Abayahudi baravuze batu "Ukuboko kwa Allah kurahinnye (kuragundira)." Nyamara amaboko yabo ni yo ahinnye kandi baravumwe kubera ibyo bavuze. Ahubwo

قُلْ هَلْ أَنْتُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكَ مُثْوِيَةٌ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعْنَهُ  
الَّهُ وَعَصَبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ أَفْرَدَةً وَلَا تَنْذِيرَ  
وَعَبَدَ الظَّاغُوتَ أُولَئِكَ شُرُّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءٍ

السَّيِّلٌ ٦١

وَإِذَا جَاءَهُوكُلُّ قَالُوا إِمَّا وَقَدَ حَلُوا بِالْكُفَّارِ وَهُمْ قَدْ  
خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْرُمُونَ ٦٢

وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسْرِعُونَ فِي الْإِثْرِ وَالْعَدُونَ  
وَأَكْلَهُمُ السُّحْنَ لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٦٣

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّنِيُّونَ وَالْأَحْمَارُ عَنْ قَوْلِهِمْ  
إِلَّا ثُرَّ وَأَكْلَهُمُ السُّحْنَ لَيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

٦٤

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلَعُنُوا  
بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَاتٍ يُنْفِقُ كَيْفَ يَسْأَءُ  
وَلَيَرِيدُنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رِبَّكَ طَعِينًا

amaboko ye (**Allah**) yombi ararambuaye, atanga uko ashaka. Kandi rwose ibyo wahishuriwe biturutse kwa Nyagasan wawe byongerera abensi muri bo ubwigomeke n'ubuhakanyi. Twanashyize ubugome n'urwango hagati yabo kugeza ku munsi w'imperuka. Buri uko bakongezaga umuriro w'intambara, **Allah** yarawuzimyaga, bakanaharanira gukwirakwiza ubwangizi ku isi. Kandi **Allah** ntakunda abangizi.

65. Kandi mu by'ukuri, iyo abahawe igitabo baza kwemera bakanatinya (**Allah**), rwose twari kubabarira ibyaha byabo, kandi twari kubinjiza mu busitani bwuje inema (Ijuru).

66. Nyamara iyo baza gushyira mu bikorwa ibyo Tawurati n'Ivanjili (bibigisha) ndetse n'ibyo bahishuriwe biturutse kwa Nyagasan wabo (Qur'an), rwose bari guhabwa amafunguro aturutse hejuru yabo no mu nsi y'ibirenge byabo. Muri bo hari abantu b'abanyakuri, ariko abensi muri bo bakora ibibi.

67. Yewe Ntumwa (Muhamadi)! Sohoza ibyo wahishuriwe biturutse kwa Nyagasan wawe. Nutabikora, ubwo uzaba

وَكُفَّارًا وَالْقَيْنَاءِ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ إِلَى يَوْمٍ  
الْقِيَمَةُ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَظْفَاهَا اللَّهُ  
وَلَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادُوا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ  
الْمُفْسِدِينَ ﴿٦﴾

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابَ ءَامَنُوا وَاتَّقُوا  
لَكَفَرَنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دَخَلْنَاهُمْ  
جَنَّتَ النَّعِيمِ ﴿٦٥﴾

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرِيدَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ  
إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكُونُ مِنْ قَوْقَهِمْ وَمِنْ  
تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ فَنَهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصَدَةٌ  
وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿٦٦﴾

\*يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ  
وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ

udasohoje ubutumwa bwe. Kandi Allah azakurinda abantu. Mu by'ukuri, Allah ntayobora abantu b'abahakanyi.

68. Vuga uti "Yemwe abahawe igitabo! Nta cyo muzaba mushingiyeho (mu kwemera kwanyu) kugeza ubwo muzashyira mu bikorwa Tawurati, Ivanjili n'ibyo mwahishuriwe biturutse kwa Nyagasan wanyu (Qur'an)." Kandi rwose, ibyo wahishuriwe biturutse kwa Nyagasan wawe byongerera abenshi muri bo ubwigomeke n'ubuhakanyi. Bityo ntukababazwe n'abantu b'abahakanyi.

69. Mu by'ukuri ba bandi bemeye (ubutumwa bwa Muhamadi), Abayahudi (abemeye ubutumwa bwa Musa ku gihe cye), Abanaswara (abemeye ubutumwa bwa Yesu ku gihe cye) n'Abaswaabi'i (abagumye kuri kamere yabo yo kwemera Imana batagira idini bayobotse muri icyo gihe), (muri abo bose) abemeye Allah by'ukuri, bakemera umunsi w'imperuka ndetse bakanakora ibitunganye, nta bwoba bazagira habe n'agahinda.

يَعَصِّمُكَ مِنَ النَّاسِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ  
الْكَافِرِينَ ٦٧

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُ عَلَى شَيْءٍ حَقِيقِيْمُوا  
الْتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ  
رَبِّكُمْ وَلَيَزِدَنَ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزَلَ إِلَيْكُمْ  
مِنْ رَبِّكُمْ طُعِينَا وَكَفَرَ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ

الْكَافِرِينَ ٦٨

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِرُونَ  
وَالنَّصْرَارِيَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَآتَيْهِ الْأَخْرِ وَعَمِلَ  
صَلِحَّا فَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَبُونَ ٦٩

70. Rwose twakiriye isezerano rya bene Isiraheli tunabohererereza Intumwa. Buri uko Intumwa yabazaniraga ibyo imitima yabo itararikiye, zimwe barazihinyuraga izindi bakazica.

71. Bibwiraga ko batazahanwa, nuko barahuma (ntibabona ukuri) banaba ibipfamatwi (ntibumva ukuri); maze (baricuza) **Allah** arabababarira, nyuma nanone abenshi muri bo barongera barahuma baba n'ibipfamatwi. Kandi **Allah** abona bihebuje ibyo bakora.

72. Rwose ba bandi bavuze bat "Mu by'ukuri, Mesiya (Yesu), mwene Mariyamu (Mariya) ni we Mana", barahakanye. Nyamara Mesiya yaravuze ati "Yemwe bene Isiraheli! Nimusenge **Allah** (wenyine), Nyagasanani wanjye akaba na Nyagasanani wanyu." Mu by'ukuri, ubangikanya **Allah**, rwose **Allah** yamuziririje (kuzinjira mu) Ijuru ndetse icyicaro cye kizaba mu muriro. Kandi inkozi z'ibibi ntizizabona abazitabara.

73. Rwose ba bandi bavuze bat "Mu by'ukuri, **Allah** ni uwa gatatu muri batatu (mu butatu)", barahakanye.

Nyamara nta yindi mana iriho ikwiye gusengwa by'ukuri uretse Imana imwe rukumbi.

لَقَدْ أَخْذَنَا مِيقَاتِنَا بَيْنَ إِسْرَاءٍ يَلَوْ رَسُولًا  
كَمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ فَرَبِّهَا  
كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿٧٦﴾

وَحَسِبُوا أَلَا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُوا ثُمَّ قَاتَلُوا  
عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ  
بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٧٧﴾

لَقَدْ كَفَرُ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ  
وَقَالَ الْمَسِيحُ يَأَنِي إِسْرَائِيلَ أَعْبُدُهُ أَنْهُ رَبِّي  
وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَمَ اللَّهُ  
عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا وَلَهُ أَنَّارٌ وَمَا لِظَّالِمِينَ  
مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٧٨﴾

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ  
وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَحْدَهُ وَإِنَّ لَمَّا يَنْتَهُ هُوَ عَمَّا

Abahakanye muri bo nibatarekera aho ibyo bavuga, rwose bazagerwaho n'ibihano bibabaza.

74. Ese ubwo ntibakwiye kugarukira **Allah** ngo banamusabe imbabazi? Kandi **Allah** ni Ubabarira ibyaha, Nyirimpuhwe.

75. Mesiya (Yesu) mwene Mariyamu (Mariya), nta kindi yari cyo uretse ko yari Intumwa (ya **Allah**), kandi na mbere ye habayeho izindi ntumwa zahise. Ndetse na Nyina (Mariyamu) yari umwizera bihebuje (kuko yizeraga amagambo ya **Allah**). Bombi bararyaga (ibyo kurya nk'abandi bantu basanzwe, mu gihe **Allah** atajya arya). Reba uko tubasobanurira ibimenyetso, hanyuma unarebe uko (abantu) birengagiza (ukuri).

76. Vuga (yewe Muhamadi) uti "Ni gute musenga (ibigirwamana) mu cyimbo cya **Allah**, nyamara bidashobora kugira icyo bibatwara cyangwa ngo bigire icyo bibungura? Kandi **Allah** ni Uwumva bihebuje, Umumenyi uhebuje."

يَقُولُونَ لِيَمْسَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ

أَلِيمٌ  
٧٣

فَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ

رَحِيمٌ  
٧٤

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرِيمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَقَ مِنْ قَبْلِهِ  
الْرَّسُولُ وَمَهُ وَصِدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلُونَ أَطْعَامَ أَنْظَرَ  
كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظَرَنَا يُؤْفَكُونَ  
٧٥

قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُورِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ

ضَرَّاءً وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ  
٧٦

77. Vuga uti "Yemwe abahawe igitabo! Ntimugakabye mu idini ryanyu (murishyiramo) ibitari ukuri, kandi ntimugakurikire amarangamutima y'abantu bayobye mbere, bakanayobya benshi, ndetse bakayoba inzira y'ukuri."

78. Ba bandi bahakanye bo muri bene Isiraheli bavumwe binyuze ku rurimi rwa Dawudi n'urwa Issa (Yesu), mwene Mariyamu (Mariya). Ibyo ni ukubera ko bigometse kandi bakaba baranarengeraga;

79. Ntabwo babuzanyaga ibibi bakoraga. Rwose ibyo bakoraga ni bibi.

80. Uzasanga abenshi muri bo bagira inshuti ba bandi bahakanye. Rwose ibyo imitima yabo yashyize imbere ni bibi; ibyo byatumye **Allah** abarakarira, kandi bazaba mubihano ubuziraherezo.

81. Nyamara iyo baza kuba bemera **Allah** n'umuhanuzi (Muhamadi) ndetse n'ibyo yahishuriwe, ntibari kubagira inshuti; ariko abenshi muri bo ni ibygomeke.

82. Rwose uzasanga Abayahudi n'ababangikanyamana ari bo barusha abandi kugirira

قُلْ يَأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوْفِي دِينِكُمْ عَيْرَ الْحَقِّ وَلَا  
تَتَّبِعُوْا هَوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلَّوْا مِنْ قَبْلٍ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا  
وَضَلَّوْا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ

لَعْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ  
عَلَى لِسَانِ دَأْوِدَ وَعَيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ  
بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

كَافُوا لَا يَتَنَاهُوْتَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ  
لِئَسْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّنَ الَّذِينَ  
كَفَرُوا لِيَسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ  
أَنفُسُهُمْ أَن سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي  
الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ

وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ  
إِلَيْهِ مَا أَخْذَهُمْ أَوْلَاهُمْ وَلَكِنَّ  
كَثِيرًا مِنْهُمْ فَدِسْقُوتَ

\* لَتَجِدَنَ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاؤَ لِلَّذِينَ  
أَمْنُوا إِلَيْهِمْ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَ

abemeramana urwango rukomeye. Uzasanga kandi abiteguye gukunda abemeramana (Abayisilamu) ari abavuga bati “Mu by’ukuri, twe turi Abanaswara<sup>82</sup>.” Ibyo ni uko muri bo harimo abamenyi n’abihaye Imana, kandi bakaba batagira ubwibone (mu kwemera ukuri).

83. Kandi iyo bumwise ibyahishuriwe Intumwa (Muhamadi), ubona amaso yabo azenga amarira kubera ukuri bamenye; bakavuga bati “Nyagasani wacu! Turemeye; bityo dushyire mu bahamya (b’ukuri).”

84. Ese ni iki cyatubuza kwemera **Allah** n’ukuri kwatugezeho (Qur'an), kandi twifuza ko Nyagasani wacu adushyira hamwe n’abantu b’itungane (mu ijuru)?

85. Bityo, kubera ibyo bavuze, **Allah** yabagororeye ubusitani butembamo imigezi (Ijuru), bakazabubamo ubuziraherezo. Kandi iyo ni yo ngororano y’abakora ibyiza.

86. Naho ba bandi bahakanye bakanahinyura ibimenyetso

أَقْرَبُهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا  
نَصَرَيْ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قَسِيسٌ  
وَرَهْبًا أَنَا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكِنُونَ  
٨٢

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيَ الرَّسُولِ تَرَى  
أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ  
الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَأَكَتَبْنَا مَعَ  
الشَّاهِدِينَ  
٨٣

وَمَا لَنَا لَا تُؤْمِنُ بِاللهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَظَعَ  
أَنْ يُدْخِلَنَا بِنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ  
٨٤

فَأَثْبَتُهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  
الْأَنْهَرُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ  
الْمُحْسِنِينَ  
٨٥

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِمَا يَتَبَّأَّ أُولَئِكَ  
أَصْحَابُ الْجَحِيرِ  
٨٦

<sup>82</sup> Reba uko twasobanuye iyi nyito mu murongo wa 62 muri Surat ul Baqarat

byacu, abo bazaba abo mu muriro wa Jahanamu.

87. Yemwe abemeye! Ntimukazirize ibyiza **Allah** yabaziruriye, kandi ntimukarengere. Mu by'ukuri, **Allah** ntakunda abarengera.

88. Kandi mujye murya mu mafunguro aziruwe kandi meza **Allah** yabahaye, ndetse munatinye **Allah**, we mwemera.

89. **Allah** ntabahanira indahiro murahira mudakomeje, ahubwo abahanira indahiro mwagambiriye (ntimuzubahirize). Icyiru cyayo ni ukugaburira abakene icumi amafunguro musanzwe mugaburira imiryango yanyu, cyangwa kubambika cyangwa kubohora umucakara; ariko utazabishobora azasibe iminsi itatu. Icyo ni cyo cyiru cy'indahiro zanyu igihe mwarahiye (ntimuzubahirize). Bityo, mujye murinda indahiro zanyu (ntimukarahire cyane, kandi nimuramuka murahiye mujye muzubahiriza). Uko ni ko **Allah** abasobanurira amategeko ye kugira ngo mushimire.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِمَانُوا لَا تُحْرِمُوا طَيِّبَاتٍ مَا  
أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْمُعْتَدِينَ

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا  
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ  
يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدُتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَرَتُهُمْ  
إِطَاعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينٍ مِّنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ  
أَهْلِكُمْ أَوْ كَشَوْتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ  
فَصِيَامُ شَلَّةٍ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَرَةٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا  
حَافَثُمْ وَاحْفَظُو أَيْمَانَكُمْ ذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ  
إِيَّتِيهِ لَعْلَكُمْ تَشَكُّرُونَ

90. Yemwe abemeye! Mu by'ukuri, ibisindisha, urusimbi, kugaragira ibigirwamana no kuraguza ni umwanda kandi ni ibikorwa bya Shitani. Bityo, mubyirinde kugira ngo mukiranuke.

91. Mu by'ukuri, Shitani ashaka kubateza ubugome n'inzangano hagati yanyu akoresheje ibisindisha n'urusimbi, akanababuza kwibuka **Allah** ndetse no gusali. None se ubwo ntumukwiye kubireka?

92. Munumvire **Allah** n'Intumwa (Muhamadi), munirinde (kunyuranya n'amategeko ye). Nimutera umugongo, mumenye ko nta kindi Intumwa yacu ishinzwe uretse gusohoza ubutumwa mu buryo bugaragara.

93. Ba bandi bemeye bakanakora ibikorwa byiza, nta cyaha kuri bo gituruka ku byo bariye (mbere y'uko biziririzwa) mu gihe baba batinya Imana (birinda ibyo yabaziririje bamaze kubimenya), bakemera (ko biziririjwe), bakanakora ibikorwa byiza; hanyuma bakarushaho gutinya **Allah** ndetse bakanamwemera, maze bakarushaho gutinya **Allah** kurushaho bakanakora

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحُمْرُ وَالْمَيْسِرُ  
وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَمُ يَجْسُسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَبِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِبُونَ ﴿٦٩﴾

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَ كُمُّ الْعَدَوَةِ  
وَالْبَغْضَاءِ فِي الْخُمُرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّ كُمُّ عَنِ  
ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الْصَّلَاةِ ﴿٦٩﴾ فَهَلْ أَنْثُمْ  
مُنْتَهُونَ ﴿٦٩﴾

فَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ  
تَوَلَّوْهُ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿٦٩﴾

٦٩

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلَاحَاتِ جُنَاحٌ  
فِيمَا طَعَمُوا إِذَا مَا أَتَقَوْا وَمَنْ آمَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّلَاحَاتِ ثُمَّ أَتَقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ أَتَقَوْا  
وَأَحَسَّنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

ibikorwa byiza. Kandi **Allah** akunda abakora ibikorwa byiza.

94. Yemwe abemeye! Mu by'ukuri, (igihe muri mu migenzo y'umutambagiro mutagatifu wa Hija cyangwa Umrat), **Allah** azabagerageresha (kubegereza) umuhigo mushobora gufatisha amaboko yanyu n'uwo mwakwicisha amacumu yanyu, kugira ngo **Allah** agaragaze umutinya atamubona. Ubwo uzarengera nyuma y'ibyo (agahiga ari mu migenzo y'umutambagiro mutagatifu wa Hija cyangwa Umrat), azahanishwa ibihano bibabaza.

95. Yemwe abemeye! Ntimukice umuhigo (w'imusozi) igihe muri mu mutambagiro mutagatifu (Hija cyangwa Umrat). Kandi uzawica muri mwe abigambiriye, igihano cye kizaba gutanga itungo rihwanye n'iryo yishe, byemejwe n'abantu babiri b'inyangamugayo muri mwe; rikaba ituro rijyanwa rikabagirwa abakene baturiye ingoro ya Al Kaabat, cyangwa agatanga icyiru cye kugaburira abakene, cyangwa icyiru kingana n'ibyo kikaba gusiba; ibyo ni ukugira ngo yumve ingaruka z'igikorwa cye (cyo kunyuranya n'itegeko ry'Imana). **Allah** yababariye ibyahise

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَيَبْرُوْزَ كُمُ اللَّهُ يُشَفِّعُ مِنْ  
الصَّيْدِ تَنَاهُ وَأَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ  
يَخَافُهُ وَبِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ  
عَذَابٌ أَلِيمٌ

٩٤

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْ شُمَّ  
حُرُومٌ وَمَنْ قَتَلَهُ وَمِنْكُمْ مُتَعِمِّدٌ فَجَرَأَهُ مُثُلُ  
مَا قَاتَلَ مِنَ النَّعْمَ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَاعْدَلٍ مِنْكُمْ هَذِيَا  
بِلَغَ الْكَعْبَةَ أَوْ كَفَرَةَ طَعَامُ مَسَكِينٍ أَوْ عَدْلٌ  
ذَلِكَ صِيَامًا لِيَدْرُوْقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَّا اللَّهُ  
عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ  
عَزِيزٌ ذُو اِنتِقامٍ

٩٥

(mbere ya Isilamu), ariko uzasubira (akongera gukora icyaha) **Allah** azabimuhanira. Kandi **Allah** ni Umunyacyubahiro bihebuje, Nyirukwihimura bikaze.

96. Mwaziruriwe umuhigo wo mu nyanja n'ibyipfushije bizibamo, kugira ngo bibagirire akamaro mwe ubwanyu (mutuye) n'abari ku rugendo. Cyakora mwaziririjwe umuhigo w'imusozi igihe cyose muri mu mutambagiro mutagatifu (Hija cyangwa Umrat). Kandi mugandukire **Allah** we muzakoranyirizwa iwe.

97. **Allah** yagize Al Kaabat ingoro ntagatifu ngo ibe ahantu abantu bahrira. (Kandi yashyizeho) amezi (ane) matagatifu, amatungo y'ibitambo ndetse n'imitamirizo (yambikwa ayo matungo; **Allah** yabigize ingirakamaro ku bantu). Ibyo ni ukugira ngo mumenye ko **Allah** aza ibiri mu birere n'ibiri mu isi, kandi ko **Allah** ari Umumenyi uhebuje w'ibintu byose.

98. Mumenye ko **Allah** ari Nyiribihano bikaze, kandi ko **Allah** ari Ubabarira ibyaha, Nyirimpuhwe.

أَحَلَ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ، مَتَعَالَكُمْ  
وَلِسَيَارَةٍ وَحُرْمَةٍ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْثُمْ  
حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

\* جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيمَةً  
لِلنَّاسِ وَالشَّهَرُ الْحَرَامُ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَبِيدَ ذَلِكَ  
لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي  
الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ ﴿٩٧﴾

أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ  
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٩٨﴾

99. Nta kindi Intumwa (Muhamadi) ishinzwe uretse gusohoza ubutumwa. Kandi **Allah** azi ibyo mugaragaza n'ibyo muhisha.

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا أَبْلَغَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَبْدُونَ  
وَمَا تَكُتُمُونَ ﴿٩٩﴾

100. Vuga (yewe Muhamadi) uti "Ikibi ntighwanye n'icyiza kabone n'ubwo wareshywa n'ubwinshi bw'ibibi." Bityo yemwe banyabwenge, nimugandukire **Allah** kugira ngo mukiranuke.

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَيْثُ وَالظَّيْبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ  
كَثْرَةُ الْخَيْثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَأْتُكُمْ أَلَّا يَبِدِّ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٠﴾

101. Yemwe abemeye! Ntimukabaze ibintu mushobora kugaragarizwa bikabagiraho ingaruka! Kuko nimubibaza mu gihe Qur'an ighishurwa, muzabigaragarizwa (bibe amategeko kuri mwe) nyamara **Allah** yari yarabyihoreye. **Allah** ni Ubabarira ibyaha, Uduhaniraho.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءِ إِنْ  
تُبَدِّلَ كُلُّ كَوْكَبٍ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ  
الْقُرْءَانُ تُبَدِّلَ كُلُّ كَوْكَبٍ عَفًا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ

حَلِيمٌ ﴿٦١﴾

102. Mu by'ukuri hari abantu mbere yanyu babajije ibibazo nk'ibyo, hanyuma (babisubijwe) bibabera impamu yo kuba abahakanyi.

قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ شَرَّ أَصْبَحُوا بِهَا كُفَّارِينَ

١٢

103. Allah ntabwo ari we washyizeho Bahira<sup>83</sup>, Sa'ibat<sup>84</sup>, Waswilat<sup>85</sup>, cyangwa Hami<sup>86</sup>. Ahubwo ba bandi bahakanye bahimbira Allah ibinyoma kandi abenshi muri bo ntibatekereza.

104. Kandi n'yo babwiwe bati "Nimukurikire ibyo Allah yahishuye, munakurikire Intumwa (Muhamadi)." Baravuga bati "Ibyo twasanze abakurambere bacu bakurikira biraduhagije." Ese n'ubwo abakurambere babo nta cyo baba bari bazi cyangwa bataranayobotse (bari kubakurikira?)

105. Yemwe abemeye! Nimwimenye (mugandukire Allah, mukore ibikorwa byiza mwirinda ibyaha). Nimuramuka muyobotse (mukabwirizanya gukora ibyiza ndetse mukanabuzanya gukora ibibi) abayobye nta cyo bazabatwara. Ukugaruka kwanyu mwese ni kwa Allah, maze azabamenyeshe ibyo mwakoraga.

مَاجَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَابِيَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ  
وَلَا حَامِ وَلِكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقْتُلُونَ عَلَى اللَّهِ  
الْكَذِبَ وَأَكَثَرُهُ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٣﴾

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ  
قَالُوا حَسِبْنَا مَا وَجَدْنَا عَيْنَهُ ابَاءَنَا أَوْ كَانَ  
إِبَاءَنَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٤﴾

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِذَا آمَنُوا عَيْنَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مِنْ  
ضَلَالٍ إِذَا أَهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا  
فِي نِسْبَتِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

<sup>83</sup>Bahira: Ni ingamiya bacaga ugutwi iyo yabaga imaze kubyara imbyaro runaka bakayihorera ikegurirwa ibigirwamana.

<sup>84</sup>Sa'iba: Ni ingamiya baterekeraga ibigirwamana.

<sup>85</sup>Waswila: Ni ingamiya yabaga yareguriwe ibigirwamana kuko yabyaye inyagazi ku nshuro ya mbere n'ya kabiri.

<sup>86</sup>Hami: Ni imfizi y'ingamiya yaterekerwaga ibigirwamana, ntikoreshwe imirimmo iyo ariyo yose. Ibyo byose byabaga ari ibikorwa byo kubangikanya Allah kuko baziririzaga ibyo Allah ataziririje kandi bakabimwitirira.

106. Yemwe abemeye! Igihe umwe muri mwe azaba yegereje urupfu, mu gihe cyo kuraga ajye ashaka abahamya babiri b'inyangamugayo muri mwe (Abayisilamu). Cyangwa igihe muri mu rugendo mukabona mwegereje urupfu, mujye mushaka (abatangabuhamya b'inyangamugayo) babiri batari muri mwe. (Abo mu muryango w'uwapfuye) nibaramuka bashidikanyije ku bunyangamugayo bwabo, mujye mubahagarika nyuma y'iswala barahire ku izina rya **Allah** (bavuga batii) “Ntabwo twabeshya ngo tugurane (iyi ndahiro) indonke z'isi kabone n'iyo (uwo bifitiye akamaro) yaba ari uwo dufitanye isano, kandi ntitzahisha ubuhamya bwa **Allah**, kuko mu by'ukuri (turamutse tubikoze) twaba tubaye mu banyabyaha.”

107. Nibiramuka bigaragaye ko (abo bombi) bakoze icyaha (cyo kurahira mu binyoma), mujye mushaka abandi babiri (mu bafitanye isano n'uwapfuye) bajye mu cyimbo cyabo, hanyuma barahire ku izina rya **Allah** (bavuga batii) “Rwose turemeza ko ubuhamya bwacu ari ukuri kurusha ubuhamya bwabo bombi, kandi ntitwarengereye (ukuri); kuko mu by'ukuri (turamutse

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَدَةُ بَيْتِكُمْ إِذَا حَضَرَ  
أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةُ أُثْنَانِ ذَوَّا عَدْلٍ  
مِنْكُمْ أَوْ أَخْرَانِ مِنْ عَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرِبُتُمْ فِي  
الْأَرْضِ فَاصْبِرُكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ  
تَحْسِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الْصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ  
إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْرِئِيهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَاقُرِيَّ  
وَلَا نَكُونُ شَهِيدَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ

١٦

فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا أُسْتَحْقَاقًا إِلَّا مَا فَاتَ حَرَانِ يَقُومُانِ  
مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ أُسْتَحْقَقَ عَلَيْهِمُ الْأَوَّلَيْنِ  
فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَدَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَدَتْهُمَا  
وَمَا أَعْتَدَنَا إِنَّا إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ

١٧

tubikoze), twaba tubaye mu nkozi z'ibibi."

108. Ubwo ni bwo buryo bwegereye kuba batanga ubuhamya uko buri, cyangwa bagatinya ko hazanwa izindi ndahiro (z'abo mu muryango w'uwafuye) nyuma y'indahiro zabo (maze bagaseba). Munatinye Allah ndetse munamutege amatwi. Kandi Allah ntayobora abantu b'ibygomeke.

109. (Mwibuke) umunsi Allah azakoranya Intumwa zose akazibaza ati "Mwasubijwe iki (ubwo mwahamagariraga abantu kwemera Imana)?" Zizasubiza ziti "Nta bumenyi tubifiteho, mu by'ukuri ni Wowe Mumenyi uhebuje w'ibiyihishe."

110. Wibuke igihe Allah azavuga ati "Yewe Issa (Yesu) mwene Mariyamu (Mariya)! Ibuka ingabire zanjye naguhundagajeho n'izo nahundagaje ku mubyeyi wawe; ubwo nagushyigikizaga Roho Ntagatifu [Malayika Jibril (Gaburihel)], ukavugisha abantu ukivuka no mu gihe wari umaze kuba mukuru. (Unibuke) igihe nakwigishaga kwandika, ubuhanga, Tawurati n'Ivanjili ndetse n'igihe wabumbaga ibumba ukarikoramo igisa

ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُوا بِالشَّهَدَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَنُهُمْ بَعْدَ أَيمَنِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ فَوَاسِمَعُوا أَوْ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٦﴾

\* يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُحِبْتُمْ قَالُوا لَا عَلِمْنَا إِنَّا كُنَّا نَعْلَمُ الْعُيُوبَ ﴿١٧﴾

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْصِي أَبْنَ مَرِيمَ أَذْكُرْ نَعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَاتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَحَقَّقَ مِنَ الظِّلِّينَ كَهْيَةَ الظَّلِّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفَخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبَرِّئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تَحْبِيجُ الْمَوْقَرَ بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَتْ بَنِي إِسْرَائِيلَ

nk'inyoni ku burenganzira bwanjye, nuko ugahuhamo maze kikaba inyonи ku bushobozi bwanjye, ugakiza impumyi n'ababembe ku bushobozi bwanjye. (Unibuke) ubwo wazuraga abapfuye ku bushobozi bwanjye n'igihe nagukizaga bene Isiraheli (ubwo bashakaga kukwica), ndetse n'igihe wabazaniraga ibitangaza bigaragara nuko abahakanye muri bo bakavuga batи “Ibi nta kindi biri cyo uretse ko ari uburozi bugaragara.”

111. Unibuke ubwo nahishuriraga abigishwa (ba Yesu) nti “Nimunyemere munemere Intumwa yanje (Yesu).” Bakavuga batи “Turemeye, bityo tubere umuhamya ko turi Abayasilamu.”

112. Wibuke ubwo abigishwa (ba Yesu) bavugaga batи “Yewe Issa (Yesu) mwene Mariyamu (Mariya)! Ese Nyagasani wawe ashobora kutumanurira ameza ateguyeho amafunguro avuye mu ijuru? (Yesu) aravuga ati “Mugandukire Allah niba koko muri abemeramana.”

عَنْكَ إِذْ جَهَّتُهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٦﴾

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيْكَنَ أَنَّهُمْ أَمْنَوْا بِي وَبِرَسُولِي قَالُواْ إِنَّا وَآمَنَّا وَأَشْهَدُ بِإِيمَانِنَا مُسْلِمُونَ ﴿١٧﴾

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيْوْنَ يَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٨﴾

113. (Abigishwa be) baravuga bati “Turashaka kuyaryaho kugira ngo imitima yacu ituze, ndetse tunamenye ko ibyo watubwiye (ko uri Intumwa y’Imana) ari ukuri koko, kandi tube n’abahamya b’icyo gitangaza.”

114. Issa (Yesu) mwene Mariyamu (Mariya) aravuga ati “Mana Nyagasani wacu! Tumanurire ameza avuye mu ijuru ateguyeho amafunguro, (ubo munsi) utubere umunsi mukuru kuri twe no ku bazaza nyuma yacu, (ayo meza) anatubere igitangaza kiguturutseho (gishimangira ubutumwa bwanjye), unadufungurire kuko ari wowe uhebuje mu batanga amafunguro.”

115. Allah aravuga ati “Mu by’ukuri njye ndayabamanurira, ariko uzahakana muri mwe nyuma yo (kuyamanura), rwose nzamuanisha igihano ntigeze mpanisha uwo ari we wese mu biremwa.”

116. Unibuke ubwo Allah azavuga ati “Yewe Issa (Yesu), mwene Mariyamu (Mariya)! Ese ni wowe wabwiye abantu uti ‘Njye n’umubyeyi wanjye nimutugire imana ebyiri mu cyimbo cya Allah?” (Yesu)

قَالُواٰرِيدُ أَنْ تَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَ قُلُوبُنَا  
وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنْ  
الشَّاهِدِينَ

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنِّي عَلَيْنَا مَا يَدْعُ  
مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَإِيمَانَةً  
مِنْكَ وَأَرْزُقْنَا وَلَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنْزَلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرُ بَعْدَ مِنْكُمْ  
فِي إِنِّي أَعْذِبُهُ عَذَابًا لَّا أَعْذِبُهُ وَأَحَدًا مِنْ  
الْعَالَمِينَ

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ إِنَّكَ قُلْتَ لِلنَّاسِ  
أَنْ تَخْدُوْنِي وَأَمْكِنَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ  
سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ

azavuga ati “Ubutagatifu ni ubwawe. Ntibikwiye kuri njye ko nabwira (abantu) ibitari ukuri. Iyo nza kuba narabivuze, rwose wari kubimenya. Uzi ibiri mu mutima wanjye, nyamara njye sinshobora kumenya amabanga yawe. Mu by'ukuri ni Wowe Mumenyi uhebuje w'ibyterishe.”

117. “Nta kindi nababwiye uretse ibyo wantegetse (ko mbabwira nti) ‘Nimusenge Allah, Nyagasanwanjye akaba na Nyagasanwanjye. Kandi nari umuhanya wabo mu gihe cyose nari kumwe na bo, ariko ubwo wanzamuraga iwawe, ni Wowe wari Umugenzuzi wabo. Kandi Wowe uri Umuhanya uhebuje wa buri kintu.”

118. “Nuramuka ubahannye, rwose ni abagaragu bawe. Kandi nubabarira, mu by'ukuri ni wowe Umunyacyubahiro bihebuje, Nyirubugenge buhambaye.”

119. Allah azavuga ati “Uyu ni umunsi abanyakuri bagirirwa akamaro n'ukuri kwabo.” Baragororerwa ubusitani butembamo imigezi, bazabamo ubuziraherezo. Allah yarabishimiye na bo baramwishimira. Uko ni ko gutsinda guhambaye.

كُنْتُ قُلْتُهُ وَفَقَدَ عِمَّتَهُ وَتَعَلَّمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ  
مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَمُ الْغَيْوَبِ  
١٦٧

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمْرَتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي  
وَرَبِّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَادُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا  
تَوَقَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الْأَقِبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  
شَهِيدٌ  
١٦٨

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ  
أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  
١٦٩

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّالِحِينَ صَدَقُهُمْ أَهْمَمُ  
جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا أَلْأَنْهُرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ  
اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضِيَ عَنْهُمْ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ  
١٧٠

120. Ubwami bw'ibirere  
n'ubw'isi n'ibibirimo byose ni  
ibya Allah, kandi ni we  
Ushobora byose.

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ  
شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦﴾

## 6 - SURAT AL AN'AM

(AMATUNGO)

Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirongo 165.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Ishimwe n'ikuzo byuzuye  
bikwiye Allah, We waremye  
ibirere n'isi, akanashyiraho  
umwijima n'urumuri, nyamara  
ba bandi bahakanye Nyagasan  
wabo bamunganya n'ibindi  
(biremwa).

2. Ni We wabaremye mu  
ibumba, maze abagenera igihe  
(cyo kubaho hano ku isi),  
anagena ikindi gihe kizwi na We  
(umunsi w'imperuka). Hanyuma  
mwe (nyuma y'ibyo)  
mugashidikanya (ku bushobozi  
bwa Allah bwo kuzazura  
abapfuye).

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ  
الظُّلْمَتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ  
يَعْدِلُونَ ﴿١﴾

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَلَجُولٌ  
مُسَمًّىٰ عِنْدَهُ وَلَمْ يَأْنْتُمْ تَمَرُونَ ﴿٢﴾

3. Kandi Allah ni We (Mana yonyine ikwiye gusengwa) mu birere no mu isi; azi ibyo muhisha (mu mitima yanyu) n'ibyo mugaragaza, kandi azi ibyo mugeraho (byose).

4. Kandi nta kimenyetso na kimwe mu bimenyetso bya Nyagasani wabo kibageraho ngo babure kugitera umugongo.

5. Rwose bahinyuye ukuri ubwo kwabageragaho, ariko nta kabuza bazagerwaho n'inkuru y'ibyo bakerensaga (ko ari ukuri).

6. Ese ntibabona ko twarimbuye abantu benshi mbere yabo twari twarahaye ubushobozi ku isi tutigeze duha mwe (abahakanyi)? Twabamanuriye imvura nyinshi (barakungahara), ndetse tubashyiriraho imigezi itemba aho batuye. Nuko turabarimbura kubera ibyaha byabo, maze turema abandi bantu nyuma yabo.

7. N'yo tuza kuguishurira (yewe Muhamadi) igitabo cyanditse ku mpapuro maze bakagikozaho intoki zabo, ba bandi bahakanye bari kuvuga bati "Iki ni uburozi bugaragara."

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ  
وَجَهَرَ كُمْ وَبَعْلَمَ مَا تَكِبِّسُونَ ﴿٣﴾

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ إِعْلَمٍ مِنْ إِيمَانٍ إِلَّا كَانُوا  
عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤﴾

فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لِمَا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَيْهُ  
مَا كَانُوا يَهْدِيُونَ ﴿٥﴾

أَمْ يَرَوْا كُمْ أَهْلَكَنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنَيْنِ مَكْنَثُهُمْ  
فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمْكِنْ لَهُمْ وَأَرْسَلْنَا الْسَّمَاءَ عَلَيْهِمْ  
مَدْرَارًا وَجَعَنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكَنَاهُمْ  
بِذُنُوبِهِمْ وَآشَانَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَيْنِ أَخْرَيْنِ ﴿٦﴾

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ كِتَابًا فِي قُرْطَابِسْ فَمَسْوُهُ بِأَيْدِيهِمْ  
لَقَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرُ مُؤْمِنِينَ ﴿٧﴾

8. Baranavuze bati “Kuki atamanuriwe Malayika (wo kutwemeza ko ari Intumwa koko)?” Nyamara n’yo tuza kumanura umumalayika (bagahakana), hari guhita hacibwa iteka (ryo kubarimbura) kandi ntibari kurindirizwa.

وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْأَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقَضَى  
الْأَمْرَ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ ﴿٨﴾

9. N’yo tuza kugira umumalayika Intumwa, twari kumuha ishusho y’umuntu, kandi twari kuba tubashyize mu rujijo nk’urwo barimo.

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَّبَسْنَا  
عَلَيْهِمْ مَا يَلِيسُونَ ﴿٩﴾

10. Kandi mu by’ukuri Intumwa zabayeho mbere yawe zarakerenshejwe, ariko abazisuzuguye muri bo bagoswe n’ibyo bajaga bakerensa (ibihano).

وَلَقَدِ اسْتَهْزَى بِرُسُلِنَا مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ  
سَخَرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿١٠﴾

11. Vuga uti “Nimutambagire ku isi maze murebe uko iherezo ry’abahinyuye ukuri ryagenze.”

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوهُمْ كَيْفَ كَانَ  
عَيْقَبَةُ الْمَكَّدِيَّينَ ﴿١١﴾

12. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Ibiri mu birere n’ibiri mu isi ni ibya nde?” Vuga uti “Ni ibya Allah.” Yiyemeje kugirira impuhwe (abagaragu be). Rwose azabakoranya ku munsi w’imperuka, (umunsi) udashidikanywaho. Ba bandi bihombeje ubwabo ni bo batemera (Allah, Intumwa ye n’umunsi w’imperuka).

قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كُلُّ  
عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لِيَجْمَعَنَّ كُمْ إِلَيْهِ يَوْمَ  
الْقِيَامَةِ لَارَبَّ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ  
فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾

13. Kandi ibituje (n'ibigenda) mu ijoro n'amanywa byose ni ibye (**Allah**). Kandi ni We Uwumva bihebuje, Umumenyi uhebuje.

14. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Ese nagira inshuti ikindi kitari **Allah**, ari We wahanze ibirere n'isi, kandi ari We utanga amafunguro ariko we ntayahabwe?” Vuga uti “Mu by'ukuri njye nategetswe kuba uwa mbere wicisha bugufi (kuri **Allah**).” Kandi rwose ntuzabe mu babangikanyamana.

15. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Mu by'ukuri njye ntinya ibihano by'umunsi uhambaye ndamutse nigometse kuri Nyagasanani wanjye.”

16. Uzarindwa (ibihano) kuri uwo munsi, rwose (**Allah**) azaba amugiriye impuhwe. Kandi iyo ni yo ntsinzi igaragara.

17. Kandi **Allah** aramutse aguteje ingorane, ntawazigukiza utari We. Aramutse anaguhaye icyiza (ntawakikuvutsa) kuko ari Ushobora byose.

18. Ni We Munyembaraga z'ikirenga ku bagaragu be, kandi ni We Nyirubugenge buhambaye, Uzi byose.

\* وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْيَلَى وَالنَّهَارِ وَهُوَ  
الْسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ١٣

قُلْ أَغَيْرُ اللَّهِ أَتَخْدُ وَلِيَا فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ  
وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أَمْرَتُ  
أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ  
الْمُشْرِكِينَ ١٤

قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ  
عَظِيمٍ ١٥

مَنْ يُصْرِفُ عَنْهُ يَوْمَِنِ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ  
الْمُبِينُ ١٦

وَلَنْ يَمْسِكَ اللَّهُ بِضَرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَلَنْ  
يَمْسِكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَقِيرٌ

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ  
الْحَبِيرُ ١٨

19. Vuga (ubabaza) uti “Ni ikihe kintu gisumba ibindi mu buhamya (cyabemeza ukuri kw’ibyo mvuga)?” Vuga (ubasubiza) uti “**Allah** ni We muhamya hagati yanje namwe; kandi nahishuriwe iyi Qur'an kugira ngo nyikoreshe mbaburira, (mwe) n'abandi izageraho. Ese mu by'ukuri muhamya ko hari izindi mana zibangikanye na **Allah**? ” Vuga uti “Simbihamya!” Vuga uti “Mu by'ukuri We ni Imana imwe. Kandi rwose nitandukanyije n'ibyo mumubangikanya na byo.”

20. Ba bandi twahaye igitabo baramuzi (Muhamadi) nk'uko bazi abana babo. Ba bandi bihombeje ubwabo ni bo betemera (Muhamadi n'ibyo yahishuriwe).

21. Ni na nde waba umuhemu kurusha uhimbira **Allah** ikinyoma, cyangwa uhinyura amagambo ye? Mu by'ukuri ababangikanyama na ntibazigera batsinda.

22. N'umunsi tuzabakoranya bose, maze tukabwira ababangikanyije (**Allah**) tuti “Ese bya bigirwamana byanyu mwizeraga (ko hari icyo byabamarira) biri he?”

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَدَةً قُلْ إِنَّ اللَّهَ شَهِيدٌ بِيَنِي وَبِيَنْتَكُمْ  
وَلَوْجَى إِلَى هَذَا الْقُرْآنِ لِأَنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ لَعَلَّ إِلَيْكُمْ  
لَتَشَهَّدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةٌ أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهُدُ قُلْ  
إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَحْدَهُ وَلَنْ يَرَى بَرِيًّا مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿١٦﴾

الَّذِينَ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرُفُونَهُ كَمَا يَعْرُفُونَ أَبْنَاءَهُمْ  
الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾

وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِعَيْنِهِ  
إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ أَظْلَامُونَ ﴿٢١﴾

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ  
شَرَكَ أَكْثَرُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزَعَّمُونَ ﴿٢٢﴾

23. Hanyuma nta kindi kizaba igisubizo cyabo ubwo bazaba bageragezwa (bahatwa ibibazo) uretse kuvuga bati “Turahiye ku izina rya Allah, Nyagasanji wacu! Ntitwari ababangikanyamana.”

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهُ رَبُّنَا مَا كَانَ

مُشْرِكِينَ ﴿٢٣﴾

24. Reba uko bibeshyera (bahakana ko babangikanyije Allah)! (Unarebe) uko ibyo bihimbiye (biringira ko bizabakorera ubuvugizi kwa Allah) byabatengushye!

أَنْظُرْ كَيْفَ كَذَّبُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا

يَقْرَئُونَ ﴿٢٤﴾

25. No muri bo hari abagutega amatwi (usoma Qur'an), ariko twashyize ibipfuko ku mitima yabo kugira ngo batayisobanukirwa, tunaziba amatwi yabo. Kandi iyo babonye buri kimenyetso (kigaragaza ukuri), ntibacyemera; kugeza ubwo bakugezeho bakugisha impaka, maze ba bandi bahakanye bakavuga bati “Ibi nta kindi biri cyo usibye kuba ari inkuru z'abo hambere.”

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلَنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ لَّكَنَّهُمْ أَنَّ يَعْقِلُهُمْ وَهُوَ فِي هَذَا إِذَا نَهَمُ وَقَرَأً وَإِنْ يَرَوْكُلَّهُ إِذَا يَرَكُلَّهُ لَآيَةٌ لَّآيَةٌ مُّنَوَّبِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ وَلَكَ يُبَدِّلُ لَوْنَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَهُ إِلَّا أَسْطِرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٥٥﴾

26. Kandi babuza (abantu) kumukurikira (Muhamadi), na bo ubwabo bakamugendera kure. Kandi nta wundi baba boreka (iyo bakora ibyo) uretse bo ubwabo, ariko ntibabimanya.

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَسْعَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهَلِّكُونَ إِلَّا

أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾

27. Iyo uza kubabona igihe bazaba bahagaritswe imbere y'umuriro, bavuga bati “Iyaba twari dusubijwe (ku isi), ntitwakongera guhinyura

وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا وَقَعُوا عَلَىٰ النَّارِ فَقَالُوا يَا يَتَّمَنِدُ وَلَا

نُكَدِّبَ بِيَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

amagambo ya Nyagasani wacu,  
kandi twaba mu bemera.”

28. (Si uko biri) ahubwo ibyo  
bahishaga mbere  
byarabagaragariye. N’iyo  
bagarurwa (ku isi), rwose  
basubira mu byo babujije.  
Kandi mu by’ukuri ni  
abanyabinyoma.

29. Baranavuze bati “Nta bundi  
(buzima buzabaho) uretse  
ubuzima bwacu (turimo) ku isi,  
kandi nta n’ubwo tuzazurwa (ku  
munsi w’imperuka).

30. Iyo uza kubabona igihe  
bazaba bahagaritswe imbere ya  
Nyagasani wabo, ababwira ati  
“Ese ibi (izuka) si ukuri?”  
Bavuge bati “Ni ukuri, turahiye  
ku izina rya Nyagasani wacu!”  
Ababwire ati “Ngaho nimwumve  
ububabare bw’ibihano kubera  
ubuhakanyi bwanyu.”

31. Rwose ba bandi bahinyuye  
kuzahura na **Allah** (ku munsi  
w’izuka) barahombye, kugeza  
ubwo imperuka ibagezeho  
ibatunguye, bakavuga bati  
“Mbega akaga tugize kubera  
ibyo twirengagije (gukora) ku  
isi!” Bazaba bikoreye imitwaro  
(ibyaha) ku migongo yabo.  
Mbega ububi bw’ibyo bazaba  
bikoreye!

بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفِونَ مِنْ قَبْلٍ وَرَدُوا لَعَادُوا

لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿٢٨﴾

وَقَالُوا إِنَّ هَـيِ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ

بِمَبْعُوثَيْنَ ﴿٢٩﴾

وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا

بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَدُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا

كُتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٠﴾

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءَ اللَّهِ حَقَّ إِذَا جَاءَهُمْ

السَّاعَةُ بَعْتَدًا قَالُوا يَحْسِرُنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا

وَهُمْ يَحْمِلُونَ أُوزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا

يَرَوْنَ ﴿٣١﴾

32. Kandi ubuzima bw'isi nta kindi buri cyo uretse kuba ari umukino no kwinezeza. Ariko ubuturo bwo ku munsi w'imperuka (ijuru) ni bwo bwiza kuri ba bandi batinya (**Allah**). Ese nta bwenge mugira?

33. Rwose tuzi ko uterwa agahinda cyane n'ibyo bavuga, ariko mu by'ukuri ntabwo ari wowe baba bahinyura, ahubwo inkozi z'ibibi ziba zihakana nkana ibimenyetso bya **Allah**.

34. Kandi rwose Intumwa zakubanjirije zarahinyuwe ariko zihanganira uguhinyurwa no gutotezwa, kugeza ubwo ubutabazi bwacu buzigezeho. Ndetse ntawahindura amagambo (isezerano) ya **Allah**. Kandi mu by'ukuri wagezwaho n'inkuru (z'uko twatabaye) Intumwa (zakubanjirije).

35. Niba (wowe Muhamadi) uremererwa no guhakana kwabo (ukaba udashobora kubyihanganira), nubishobora uzashake inzira yo mu butaka cyangwa urwego rwakugeza mu kirere kugira ngo ubazanire igitangaza (kandi ntiwabishobora, bityo jya wihangana). N'ijo **Allah** aza kubishaka, yari kubahuriza ku muyoboro w'ukuri, uramenye ntuzabe mu njiji.

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعْبٌ وَلَهُوَ وَلَدَارٌ  
الْآخِرَةُ حَيْثُ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٢٣﴾

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا  
يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ يَعِيشُونَ  
يَجْحَدُونَ ﴿٢٤﴾

وَلَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا  
كُرِبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَهُمْ نَصْرًا وَلَا مُبَدِّلٌ  
لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مِّنْ بَيْانِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٥﴾

وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ أُسْتَطِعْتَ أَنْ  
تَبْتَغَى نَفَقَاتِ الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيهِمْ  
بِيَاءَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا  
تَكُونُنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٢٦﴾

36. Mu by'ukuri abemera (ibyo ubahamagarira) ni ba bandi bumva (bikabagirira akamaro). Naho abapfu (abahakanye ibyo ubahamagarira); **Allah** azabazura, maze iwe abe ari ho basubizwa.

37. Baranavuze bati “Kuki atamanuriwe igitangaza giturutse kwa Nyagasani we?” Vuga (yewe Muhamadi) uti “Mu by'ukuri **Allah** ashoboye kumanura igitangaza, ariko abenshi muri bo ntibabizi.”

38. Nta kiremwa na kimwe kigenda ku isi cyangwa inyonu igurukisha amababa yayo yombi, bitaba mu miryang'o nk'iyanyu. Nta cyo twasize (tudasobanuye) mu gitabo, hanyuma kwa Nyagasani wabyo ni ho bizakoranyirizwa.

39. Ba bandi bahinyuye amagambo yacu ni ibipfamatwi bakaba n'ibiragi; bari mu mwijima. Uwo **Allah** ashaka amurekera mu buyobe ndetse n'uwo ashaka amuyobora inziraigorotse.

40. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Nimumbwire! Ese ibihano bya **Allah** biramutse bibagezeho cyangwa mukagerwaho n'imperuka, hari undi

\* إِنَّمَا يَسْتَحِيْبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمُوْتَىْ يَعْهُمُونَ  
اللَّهُ شَرِيكٌ لِّيَدِيْرُ جَعْوَنَ ﴿٢٦﴾

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنْزِلَ ءَايَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

وَمَا مِنْ دَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمْمُ امْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحَشَّرُونَ ﴿٢٨﴾

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمُّ وَيُكَفُّ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَاءُ اللَّهُ يُضْلِلُهُ وَمَنْ يَشَاءُ يَجْعَلُهُ عَلَىٰ صَرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٩﴾

قُلْ أَرَيْتَكُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَكُمْ السَّاعَةُ أَغْيَرُ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

mwakwiyambaza utari **Allah**,  
niba koko muri abanyakuri?”

41. Ahubwo ni We wenyine mwakwiyambaza, maze yabishaka akabakiza ibyo mumwiyambajemo, nuko mugahita mwibagirwa ibyo mumubangikanya na byo (kuko nta cyo bishoboye).

42. Rwose twohereje (Intumwa) ku miryango (umat) yakubanjirije, nuko (abahakanye) tubateza ibizazane n'uburwayi kugira ngo bace bugufi.

43. None se kuki ibihano byacu byabagezeho ntibace bugufi? Ahubwo imitima yabo yaranangiye, ndetse na Shitani abakundisha ibyo bakoraga.

44. Ubwo bari bamaze kwibagirwa ibyo bibukijwe, twabafunguriye imiryango ya buri kintu, kugeza ubwo badamarajwe n'ibyo bahawe, nuko tubahana tubatunguye, maze bariheba.

45. Nuko ba bandi b'inkozi z'ibibi bararimburwa kugeza ku wa nyuma. Kandi ishimwe n'ikuzo ni ibya **Allah**, Nyagasani w'ibiremwa byose.

بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فِيَّ كَيْشُفٌ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ

شَاءَ وَتَنَسَّوْنَ مَا تُشَرِّكُونَ ﴿٤١﴾

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِ أَمْمًٰ مِنْ قَبْلِكَ فَآخَذْنَاهُمْ

بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴿٤٢﴾

فَوَلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلِكُنْ قَسَّ

قُلُوبُهُمْ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ فَتَحَنَّا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ

كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُتُوا أَخَذَنَهُمْ

بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴿٤٤﴾

فَقُطِّعَ دَابُرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَلِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ

الْعَالَمِينَ ﴿٤٥﴾

46. Vuga (ubwira abahakanyi) uti “Nimumbwire! **Allah** aramutse abambuye ukumva kwanyu n'ukureba kwanyu, akanadanangira imitima yanyu, ni iyihe mana yindi itari **Allah** yabibagarurira?” Dore uko tubasobanurira ibimenyetso (byacu) hanyuma bakabitera umugongo!

47. Vuga uti “Nimumbwire! Ibihano bya **Allah** biramutse bibagezeho bitunguranye cyangwa ku mugaragaro, hari abandi bakorekwa uretse abantu b'abanyabyaha?”

48. Nta kindi gituma twohereza Intumwa uretse kugira ngo zigeze inkuru nziza (ku bantu) zinababurire. Bityo, abazemera bakanakora ibikorwa bitunganye, nta bwoba ndetse nta n'agahinda bazagira.

49. Naho abahinyuye ibimenyetso byacu, bazagerwaho n'ibihano kubera ko bigomekaga (ku mategeko ya **Allah**).

50. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Simbabwira ko mfite ibigega bya **Allah**, nta n'ubwo nzi ibitagaragara, ndetse nta n'ubwo mbabwira ko ndi Malayika. Ahubwo nkurikira ibyo mpishurirwa gusa.” Vuga

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَحَدَ اللَّهُ سَمَعَكُمْ وَبَصَرَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَّا اللَّهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِهِ أَنْظَرْ كَيْفَ نُصْرِقُ الْآيَتِنَّمْ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿٦﴾

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهَرَةً هَلْ يُهَلَّكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ ﴿٧﴾

وَمَا رَسَلْنَا مُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِّرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٨﴾

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَاتِنَا يَمْسُهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُدُونَ ﴿٩﴾

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي حَزَارَبِنْ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَيْتُعْ إِلَّا مَا

uti "Ese utabona ahwanye n'ubona? Ese ntimatekereza?"

يُوحَىٰ إِلَىٰ قَلْبٍ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا

تَسْكُونَ ﴿٥﴾

51. Yikoreshe (Qur'an) uburira ba bandi basite ubwoba bwo kuzakoranyirizwa kwa Nyagasani wabo, ko nta wundi murinzi utari We (**Allah**) cyangwa uwabavuganira. (Ibyo bikore) kugira ngo bamugandukire.

وَإِنَّدِرِيهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رِبِّهِمْ  
لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٰ وَلَا شَفِيعٌ لَعَاهُمْ

يَتَّقُونَ ﴿٦﴾

52. Kandi ntukirukane ba bandi basenga Nyagasani wabo mu gitondo na nimugoroba bashaka kwishimirwa na We<sup>87</sup>. Nta cyo ubazwa mu byo bakora, na bo nta cyo babazwa mu byo ukora. Nubirukana uzaba ubaye umwe mu bahemu.

وَلَا تَطْرُدُ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ  
يُرِيدُونَ وَجْهَهُهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ  
شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ  
فَنَظَرَهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٧﴾

53. Uko ni na ko bamwe mu bantu twabagize ibigeragezo ku bandi (bamwe tubagira abakire abandi tubagira abakene) kugira ngo (abahakanyi b'abakire) bavuge bati "Ese aba (bakene b'abemera) ni bo **Allah** yagabiye (kumuyoboka) muri twe (maze twe aratwihorera)?" Ese **Allah** ntazi neza abashimira?

وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِعَضٍ لَّيَقُولُوا أَهُؤُلَاءِ  
مَنْ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنَنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ  
بِالشَّكِيرِ ﴿٨﴾

<sup>87</sup> Uyu murongo wahishuwe ubwo ibikomerezwa by'Abakurayishi byasabaga Intumwa Muhamadi kwirukana abakene n'abanyantege nke bari barayemeye, kugira ngo na byo bibone kuyikurikira; nuko uyu murongo uza umubuza kubikora.

54. Kandi abemera ibimenyetso byacu nibaza bakugana, ujye ubaramutsa uvuga uti “Salamu alaykum (mugire amahoro!)” Nyagasan i wanyu yiyemeje kugira impuhwe kugira ngo uzakora ikibi muri mwe kubera ubujiji, maze nyuma yo kugikora akicuza akanakora ibikorwa byiza (azamubarabire). Mu by’ukuri We (**Allah**) ni Ubabarira ibyaha, Nyirimpuhwe.

55. Uko ni na ko dusobanura ibimenyetso, kugira ngo inzira y’inkozi z’ibibi isobanuke.

56. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Rwose, njye nabujijwe kugaragira ibyo mwambaza bitari **Allah**.” Vuga uti “Sinakurikira irari ryanyu kuko ndamutse mbikoze, naba nyobye kandi sinaba ndi mu bayobotse.”

57. Vuga uti “Mu by’ukuri njye nishingikirije ibimenyetso bigaragara bituruka kwa Nyagasan i wanje, ariko mwarabihinyuye. Singenga ibyo musaba ko byihutishwa (ibihano by’umuriro). Nta wundi ugenga icyo cyemezo uretse **Allah**; akiranura mu kuri kandi ni We Mukiranuzi uhebuje.”

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَيْتَنَا فَقُلْ سَلَامٌ  
عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ أَنَّهُ  
مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا يُجْهَلُهُ ثُمَّ تَابَ مِنْ  
بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ وَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَيِّنَ سَيِّلَ  
أَمْجَرِيْمَ

قُلْ إِنِّي نُهِيَتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ  
اللَّهِ قُلْ لَا أَتَبِعُ أَهْوَاءَ كُمْ قَدْ ضَلَّتْ إِذَا وَمَا أَنَا  
مِنَ الْمُهَتَّيِّنَ

قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّيْ وَكَذَبْتُمْ بِهِ مَا  
عَنِّيْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ يَهُ إِنَّ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ  
يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِيْنَ

58. Vuga uti "Iyo nza kuba ngenga ibyo musaba ko byihutishwa, ikibazo kiri hagati yanje namwe cyari kuba cyarakemutse. Kandi Allah azi neza inkozi z'ibibi."

59. Ni na We ufile imfunguzo z'ibitagaragara, ntawe uzizi uretse We (Allah). Kandi azi ibiri imusozi no mu nyanja, ndetse nta n'ikibabi gihanuka usibye ko aba akizi. Nta mbuto iri mu mwijima wo mu butaka, nta kibisi cyangwa icyumye usibye ko cyavuzwe mu gitabo gisobanutse.

60. Ni na We ubasinziriza mu ijoro (mukamera nk'abapfuye), akanamenya ibyo mwakoze ku manywa. Hanyuma akabakangura ku manywa (mukamera nk'abazutse) kugira ngo igihe cyagenwe (cyo kubaho kwanyu) kigere. Hanyuma iwe ni ho muzagaruka maze abamenyeshe ibyo mwakoraga.

61. Ni na We Munyembaraga z'ikirenga ku bagaragu be. Anaboherereza abagenzuzi (abamalayika babarura ibikorwa byanyu), kugeza ubwo umwe muri mwe urupfu rumugezeho; Intumwa zacu (Abamalayika) zikamukuramo roho zitajenjeka.

قُلْ لَوْاً نَّعِنِي مَا تَسْتَعِجِلُونَ بِهِ لَقُضَى الْأَمْرُ  
بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿٥٨﴾

\*وَعِنْ دُهْدُهٍ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ  
وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ  
وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَمَةٌ فِي ظُلْمَتِ الْأَرْضِ وَلَا  
رَطْبٌ وَلَا يَأْسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٥٩﴾

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ  
بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْصَى أَجَلُ  
مُسَمِّي ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَتَّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ  
تَعْمَلُونَ ﴿٦٠﴾

وَهُوَ الْفَقِيرُ فَوَّقَ عِبَادِهِ وَيُرِسِّلُ عَلَيْكُمْ  
حَفَّةً حَقَّ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّهُ  
رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿٦١﴾

62. Hanyuma bazasubizwa kwa **Allah**, umugenga wabo w'ukuri. Rwose ni We ufite ububasha (bwo guca imanza) kandi ni na We wihuta kurusha abandi mu kubarura.

63. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Ni nde ubakiza umwijima w'imusozi n'uwo mu nyanja? (Igihe cy'amakuba) mumusaba mwibombaritse no mu ibanga (mugira muti): Mu by'ukuri (**Allah**) nadukiza iki (cyago), rwose turaba mu bashimira.”

64. Vuga uti “**Allah** ni We ukibakiza (icyago) ndetse n'andi makuba yose, hanyuma (mukabirengaho) mukamubangikanya.”

65. Vuga uti “Ni We wenylene ushobora kuboherereza ibihano biturutse hejuru yanyu cyangwa munsi y'ibirenge byanyu, cyangwa akabagira udutsiko tutavuga rumwe, maze akumvisha bamwe muri mwe ubukana bw'abandi (mu mirwano).” Dore uburyo tubasobanurira ibimenyetso (byacu) kugira ngo basobanukirwe.

ثُمَّ رُدُوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَسِينَ ﴿٢﴾

قُلْ مَنْ يَحْيِي كُمْ مَنْ ظَلَمْتُ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّمْ أَجْنَنَا مِنْ هَذِهِ لَنْكُونَ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦﴾

قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُحِيِّي كُمْ مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ دُرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٦﴾

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِ كُلِّ أَمْرٍ مِّنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ شَيْئًا وَيُدِيقَ بَعْضَ كُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿٦﴾

66. Ariko abantu bawe barayihinyuye (Qur'an) kandi ari yo kuri. Vuga uti "Ntabwo ndi umuhagararizi wanyu!"

67. Buri nkuru (yavuzwe muri Qur'an) igira aho ihera n'aho irangirira, kandi muzamenya (ukuri kwabyo).

68. Kandi nubona abakerensa amagambo yacu, ujye ubitarura kugeza ubwo binjiye mu kindi kiganiro. Kandi Shitani nakwibagiza, nyuma yo kwibuka ntuzicarane n'inkozi z'ibibi.

69. Ba bandi batinya (**Allah**) nta cyo bazabazwa (ku by'abakerensa), uretse kubibutsa kugira ngo batinye (**Allah**).

70. Unareke ba bandi bagize idini ryabo umukino n'ikidafite umumaro, bakanashukwa n'ubuzima bw'isi. Kandi ubibutse uyifashishije (Qur'an) kugira ngo hatazagira roho (muri roho zabo) yorekwa kubera ibyo yakoze. Nta wundi murinzi utari **Allah** cyangwa uwayivuganira. N'ubwo yatanga incungu iyo ari yo yose ntiyakwakirwa. Abo ni bo boretswe kubera ibyo bakoze. Bazahabwa ikinyobwa (cy'amazi)

وَكَذَبَ بِهِ فَوْمُكَ وَهُوَ الْحُقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ  
٦٦ يُوكِيلٌ

لِكُلِّ نَبَّأْ مُسْتَقْرُ وَسَوْفَ تَعَامُونَ ﴿١٧﴾

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي مَا إِنَّا فَأَعْرَضْ عَنْهُمْ  
حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّهُ  
الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِي مَعَ الْقَوْمِ  
الظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾

وَمَا عَلِمَ الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حَسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ  
وَلَا كِنْ ذَكْرَ لَهُمْ يَتَّقُونَ

وَدَرِ الَّذِينَ أَخْذُدُوا دِينَهُمْ لَعْبًا وَلَهُوا  
وَغَرَّهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكْرِيَّةُ أَنْ  
تُبَسَّلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ  
دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَذَلٍ  
لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أَبْسِلُوا بِمَا  
كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ  
الْيَمْ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿١٩﴾

yatuye n'ibihano bibabaza  
kubera ibyo bahakanaga.

71. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Ese dusenge ibitari **Allah**, bidafile icyo byatumarira cyangwa byadutwara, maze dusubire mu buhakanyi nyuma y'uko **Allah** atuyoboye? (Ubwo twaba tubaye) nk'uwayobejwe na Shitani arindagira ku isi, kandi afite inshuti zimuhamagarira kuyoboka (zimubwira ziti) ‘Dusange.’” Vuga uti “Mu by'ukuri umuyoboro wa **Allah** ni wo muyoboro nyawo, kandi twategetswe kwicisha bugufi kuri Nyagasanii w'ibiremwa byose”,

72. No guhozaho iswala<sup>88</sup>, ndetse no kumutinya (**Allah**); kandi iwe ni ho muzakoranyirizwa.

73. Ni na we waremye ibirere n'isi mu kuri, (uzirikane) n'umunsi azavuga ati “Ba”, bikaba! Imvugo ye ni ukuri. Azaba yihariye ubwami bwuzuye umunsi impanda izavuzwa. Ni Umumenyi w'ibiyishe n'ibigaragara, kandi ni We Nyirubugenge buhambaye, Uzi byose.

قُلْ أَنَّدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا  
وَنَرْدُ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَنَا اللَّهُ  
كَالَّذِي أَسْتَهْوَتْهُ الشَّيْطَانُ فِي الْأَرْضِ  
حَيْرَانٌ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى  
أَئْتَنَا قُلْ إِنَّهُدَى اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ وَأَمْرُنَا النَّسْلِمُ  
لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦١﴾

وَإِنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَنْقُوْهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ  
تُحْشَرُونَ ﴿٦٢﴾

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ  
وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ  
الْمُلْكُ يَوْمَ يُفَكَّ فِي الصُّورِ عَلَمُ الْعَيْبِ  
وَالْشَّهَدَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿٦٣﴾

<sup>88</sup> Reba uko twasobanuye iyi nyito mu murongo wa 62 muri Surat ul Baqarat.

74. Unibuke ubwo Aburahamu yabwiraga se, Azara ati “Ese urafata ibigirwamana ukabigira Imana usenga? Mu by’ukuri ndabona wowe n’abantu bawe muri mu buyobe bugaragara.”

75. Uko ni na ko tweretse Aburahamu ubwami bw’ibirere n’ubw’isi, kugira ngo abe mu bizera badashidikanya.

76. Ubwo ijoro ryari rimwiriye ho akabona inyenyeri yaravuze ati “Uyu ni Nyagasanani wanjye.” Nuko izimiye, aravuga ati “Sinkunda ibizimira.”

77. Maze abonye ukwezi kubanduye (kumurika cyane) aravuga ati “Uyu ni Nyagasanani wanjye.” Nuko kwijimye, aravuga ati “Nyagasanani wanjye aramutse atanyoboye, rwose naba umwe mu bantu bayobye.”

78. Hanyuma abonye izuba rirashe, aravuga ati “Uyu ni Nyagasanani wanjye, (kuko) arabiruta.” Maze rirenze, aravuga ati “Yemwe bantu banjye! Rwose njye nitandukanyije n’ibyo mubangikanya (na Allah).”

79. Mu by’ukuri njye nerekeje uburanga bwanjye ku wahanzé ibirere n’isi. Niyeguriye kugaragira Allah wenyine, kandi

\*وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمٌ لِأَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ أَتَتَخْذُ أَصْنَامًا  
ءَالِهَةَ إِنِّي أَرِيكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ  
٧٦

وَكَذَلِكَ نُزِّيَّ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ  
وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  
٧٧

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الْيَلْوَ رَأَى كُوكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي  
فَلَمَّا آفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْأَفْلَيْنَ  
٧٨

فَلَمَّا رَأَ القَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا آفَلَ قَالَ  
لِئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَا كُونَنَ مِنَ الْقَوْمِ  
الْضَّالِّينَ  
٧٩

فَلَمَّا رَأَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا  
أَكْبَرُ فَلَمَّا آفَتَ قَالَ يَقُولُ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا  
تُشْرِكُونَ  
٨٠

إِنِّي وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ  
وَالْأَرْضَ حِنْفًا وَمَا أَنْمَى مِنَ الْمُشْرِكِينَ  
٨١

njye ntabwo ndi mu  
babangikanyamana.

80. Maze abantu be bamugisha impaka, aravuga ati "Ubu koko murangisha impaka kuri Allah kandi yaranyoboye? Sinatinya ibyo mumubangikanya na byo (kuko nta cyo byantwara), usibye icyo Nyagasanwanjye yashaka (ko kimbaho). Nyagasanwanjye azi buri kintu cyose. Ese ubwo ntimatekereza?"

81. "Ni gute natinya ibyo mubangikanya Allah, kandi mwe mudatinya ko mwabangikanyije Allah n'ibyo atabahereye gihama (ko bigomba gusengwa)? Ubwo se ni irihe tsinda muri yombi rikwiye kugira ituze niba koko mufite ubumenyi?"

82. Ba bandi bemeye ntibavange ukwemera kwabo no kubangikanya Allah, abo bafite ituze kandi ni na bo bayobotse (inzira y'ukuri).

83. Iyo ni na yo gihama yacu twahaye Aburahamu ku bantu be. Tuzamura mu ntera uwo dushaka. Mu by'ukuri Nyagasanwanjye wawe ni Nyirubugenge buhambaye, Umumenyi uhebuje.

وَحَاجَهُ قَوْمٌ وَقَالَ أَتُحْجُونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَنَا  
وَلَا أَخَافُ مَا تُشَرِّكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي  
شَيْئًا وَسَعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا  
تَتَذَكَّرُونَ ﴿٨١﴾

وَيَكِفَ أَخَافُ مَا أَشَرَّكُتُ وَلَا تَخَافُونَ  
أَنَّكُمْ أَشَرَّكُتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ  
عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَإِنَّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ  
بِالْآمِنِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨١﴾

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَكُنُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ  
لَهُمُ الْآمِنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ  
تَرَفُّ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلَيْهِمْ

84. Twanamuuhaye Is'haq (Isaka) na Ya'kubu (Yakobo); bombi twarabayoboye. Kandi na mbere yaho twari twarayoboye Nuhu (Nowa). No mu rubyaro rwe (twayoboye) Da'udi (Dawudi), Sulay'man (Salomo), Ayubu (Yobu), Yusufu (Yozefu), Musa na Haruna (Aroni). Uko ni na ko tugororera abakora ibyiza.

85. (Twanayoboye) Zakariya, Yahaya (Yohana), Isa (Yesu) na Il'yasi (Eliyasi); kandi buri wese muri bo yari mu ntungane.

86. (Twanayoboye) Is'mail (Ishimayeli), Al'Yasa'a (Elisha), Yunusu (Yonasi) na Luti (Loti). Kandi buri wese muri bo twamurutishije abantu (bo ku gihe cye).

87. (Twanayoboye kandi) bamwe mu bakurambere babo, mu rubyaro rwabo no mu bavandimwe babo. Twarabatoranyije tunabayobora inzira igororotse.

88. Uwo ni umuyoboro wa Allah ayoboramo uwo ashaka mu bagaragu be. Ariko iyo baza kubangikanya (Allah), rwose ibyo bakoze byari kubabera imfabusa.

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا  
وَفُونَّا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلٍ وَمِنْ ذُرْيَتِهِ دَاؤُودَ  
وَسُلَيْمَانَ وَأَيُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى  
وَهَرُونَ وَكَذَلِكَ بَخْرِي الْمُحَسِّنِينَ

٨٤

وَزَكَرْيَا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلُّ مَنَّ  
الصَّالِحِينَ

٨٥

وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُوسُفَ وَلُطَّا وَكُلَّا  
فَضَلَّنَا عَلَى الْعَالَمِينَ

وَمِنْ أَبَابِيهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَإِخْوَنَهُمْ وَاجْتَبَيْتُهُمْ  
وَهَدَيْتَهُمْ إِلَى صَرْطِ مُسْتَقِيمٍ

٨٦

ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ  
وَلَوْأَشْرَكُوا لَهُ بِهِ حِيطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

89. Abo ni bo twahaye igitabo, ubushishozi ndetse n'ubuhanuzi. Ariko abo (bahakanyi) nibaramuka babihakanye, rwose twamaze kubishinga abantu badashobora kubihakana (abasangirangendo b'Intumwa Muhamadi).

90. Abo (Intumwa n'abahanuzi) ni bo **Allah** yamaze kuyobora. Ku bw'ibyo, (yewe Muhamadi) kurikira umuyoboro wabo. Vuga uti "Iyi (Qur'an) sinyibasabira igihembo; nta kindi iri cyo uretse kuba ari urwibutso ku biremwa."

91. Kandi (ababangikanyamana) ntabwo bahaye **Allah** icyubahiro kimukwiye, ubwo bavugaga batì "Nta muntu n'umwe **Allah** yagize icyo ahishurira." Vuga uti "None se ni nde wahishuye igitabo Musa yazanye, cyari urumuri n'umuyoboro ku bantu nuko mukakigira impapuro (zitatanye), mugaragaza zimwe inyinshi mukazihisha? Kandi (binyuze muri Qur'an, abemera) mwigishijwe ibyo mutari muzi, yaba mwe cyangwa abakurambere banyu." Vuga uti "Ni **Allah** (wahishuye icyo gitabo)." Maze ubareke bishimishe mu biganiro byabo bidafite umumaro.

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَلَهُمْ  
وَالشُّرُّوْةُ فَإِنَّ يَكْفُرُ بِهَا هُؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَنَّا بِهَا  
قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَفِيرِينَ

٨٩

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فِيهِمْ دُهُوكُلَّ لَّا  
أَسْأَلُكُمْ عَنِيهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ

٩٠

وَمَا فَدَرُوا اللَّهُ حَقَ قَدِيرٌ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ  
بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ  
بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجَعَّلُونَهُ  
فَرَأَطِيسَ تُبَدِّونَهَا وَخُفُونَ كَثِيرًا وَعَلِمْتُمُ مَا لَمْ  
تَعْمَلُوا أَتُمْ وَلَأَ أَبَاوْكُمْ قُلْ اللَّهُ ثُرُّ ذَرْهُمْ فِي  
خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ

٩١

92. N'iyyi (Qur'an) ni igitabo twahishuye, cyuje imigisha, gishimangira ibyakibanjirije, kugira ngo ucyifashishe uburira abatuye Umul Qura (Maka) n'abayikikije. Abemera imperuka baracyemera kandi bakita ku masengesho yabo.

93. Ni na nde waba umunyabinyoma kurusha uhimbira **Allah** ikinyoma, cyangwa uvuga ati "Narahishuriwe", kandi nta cyo yahishuriwe, ndetse n'uvuga ati "Nzahishura nk'ibyo **Allah** yahishuye?" Iyo uza kubona abo banyabinyoma bari mu kaga mu gihe cyo gupfa, abamalayika barambuye amaboko yabo (bashaka kubakuramo roho bababwira bat) "Nimwikuremo roho zanyu." Uyu munsi murahanishwa ibihano bisuzuguritse kubera ibyo mwajyaga muvuga kuri **Allah** bitari ukuri, ndetse mukaba mwarahakanye amagambo ye kubera ubwibone."

94. Rwose muje mudusanga (kuri uyu munsi w'izuka) muri mwenyine (nta mitungo, imiryango, n'ibindi) nk'uko twabaremye bwa mbere. Mwasize ibyo twabahaye. Ntitunababonana abavugizi banyu mwibwiraga ko babangikanye na **Allah**. Rwose,

وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ لِّذِي بَيْنَ يَدِيهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّةً أَفَرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

٩٣

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَى وَلَمْ يُوحِي إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأَنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذَا الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَكِ كَمَّا بَاسْطُوا إِيَّاهُمْ أَخْرِجُوا نَفْسَكُمُ الْيَوْمَ بُخْزَنَ عَذَابَ الْهُوَنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنِ الْإِيمَانِ

٩٤

تَسْتَكْرِرونَ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فُرْدَائِي كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوْلَ مَرَّةً وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَلْنَكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءُ كُلُّ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ شُرٍّ كُلُّهُ

icyabahuzaga cyarangiye kandi  
ibyo mwiringiraga byayoyotse.

لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَرْعَمُونَ

٩٤

95. Mu by'ukuri **Allah** ni We usatura impeke n'urubuto (bikavamo ibimera). Akura ikizima mu cyapfuye, kandi ni We ukura icyapfuye mu kizima. Uwo ni We **Allah**. Ubwo se ni gute mukurwa ku kuri (mugasenga ibitari We)?

\* إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبَّ وَالنَّوْيٍ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ  
وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيَّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَانِّي تُؤْفِكُونَ

٩٥

96. Ni We ukura umucyo w'igitondo mu mwijima. Yanagize ijoro ituze, izuba n'ukwezi abigira ifatizo ryo kubara (ibihe). Uko ni ukugena kwa Nyiricyubahiro bihebuje, Umumenyi uhebuje.

فَالِقُ الْأَصْبَاحِ وَجَعَلَ الْيَلَ سَكَنًا وَالشَّمَسَ  
وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٦﴾

97. Ni na We wabaremeye inyenyeri kugira ngo muzifashishe mu kuyoboka icyerekezo mu mwijima w'imusozi n'uwo mu nyanja. Rwose twagaragaje ibimenyetso ku bantu bafite ubumenyi.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهَدُوا بِهَا فِي  
ظُلْمَكِتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَلَنَا أَلْآيَاتِ لِقَوْمٍ  
يَعْلَمُونَ ﴿٧﴾

98. Ni na We wabakomoye ku muntu umwe (Adamu) maze abatuza muri nyababyeyi no mu bubiko (uruti rw'umugongo w'abagabo). Rwose twagaragaje ibimenyetso ku bantu basobanukirwa.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقْرٌ  
وَمُسْتَوْدِعٌ قَدْ فَصَلَنَا أَلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿٨﴾

99. Ni na We wamanuye amazi ayakuye mu kirere, maze tuyameresha ibimera by'amoko yose, nuko tubikuramo ibimera bitoshye dukuramo impeke zigerekerye. No mu mitende twakuye mu myumba yayo imitumba ishamitseho itende zinaganira (hafi y'abasaruzi). No muri ibyo bimera twabakuriyemo imirima y'imizabibu, imizeti n'imikomamanga; ibisa (ku ibara) n'ibidasa (mu buryohe). Nimwitegerezze imbuto zabyo iyo zeze n'yo zihishije! Mu by'ukuri muri ibyo harimo ibimenyetso (bigaragaza ubushobozi bwa **Allah**) ku bantu bemera.

100. Nyamara (babangikanyama) bafashe amajini bayabangikanya na **Allah** kandi ari We wayaremye, ndetse banamuhibira ko afite abana b'abahungu n'abakobwa kubera kutagira ubumenyi (bwo kumenya ko ibyo bidakwiye **Allah**). Ubutagatifu ni ubwe, kandi ari kure y'ibyo bamwitirira.

101. Ni We Muhanzi w'ibirere n'isi. Ni gute yagira umwana kandi nta mugore yigeze? Ni We waremye byose kandi ni na We Mumenyi wa byose.

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءَ فَأَخْرَجَنَا بِهِ  
نَبَاتٌ كُلُّ شَيْءٍ فَأَخْرَجَنَا مِنْهُ خَضِرًا تُخْرُجُ  
مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ  
دَانِيَةٌ وَجَنَّتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ  
مُشْتَهِيَّا وَغَيْرَ مُتَشَهِّدٍ فَانْظُرْ إِلَى شَمَرَةٍ إِذَا أَثْمَرَ  
وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩﴾

وَجَعَلَ اللَّهُ شُرَكَاءَ الْحِرَبِ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ  
بَيْنَ وَبَيْنَتِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصْفُونَ

١٣

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ  
تَكُنْ لَهُ صَدِيقَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ  
شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٤﴾

102. Uwo ni **Allah** Nyagasan wanyu! Nta yindi mana ikwiye gusengwa uretse We, Umuremyi wa byose. Ku bw'ibyo nimumusenge (wenyine), kandi ni We Muhagararizi wa byose.

ذَلِكُمْ أَنَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقُ كُلِّ شَيْءٍ  
فَأَعْبُدُهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكَلِيلٌ  
١٦٣

103. Nta maso ashobora kumubona (ku isi), ariko We arayabona (n'ibayo byose). Ni na We Ugenza buhoro (ibiremwa bye), Uzi byimazeyo (buri kintu).

لَا تُدِرِّكُ الْأَبْصَرُ وَهُوَ يُدِرِّكُ الْأَبْصَرَ وَهُوَ  
اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ  
١٦٤

104. (Yewe Muhamadi, babwire uti) “Rwose ibimenyetso bigaragara biturutse kwa Nyagasan wanyu byabagezeho; bityo uzabyitegerez (akemera **Allah**), azaba abikoze ku bw'inyungu ze, naho uzabyirengagiza azaba yihemukiye. Kandi njye ntabwo ndi umugenzuzi wanyu (ahubwo ndi umuburizi)!”

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَارُ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ  
فَنَفَسِيهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ  
بِحَفِظٍ  
١٦٥

105. Uko ni na ko tugaragaza ibimenyetso bikabatera kuvuga (babwira Intumwa Muhamadi) bati “Warize (wabyize ubikuye mu bitabo by'abahawe igitabo, ntabwo ari ibyo wahishuriwe).” Kandi tubigaragaza kugira ngo tubisobanurire abantu bafite ubumenyi.

وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلَيَقُولُواْ دَرَسْتَ  
وَلَنْ يَنْتَهِنَّ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ  
١٦٥

106. Kurikira ibyo wahishuriwe biturutse kwa Nyagasan wawe. Nta yindi mana ikwiye gusengwa by'ukuri uretse We, kandi

أَتَتَّبِعُ مَا أُوحِيَ إِلَيَّكَ مِنْ رَّبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ  
وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ  
١٦٧

wirengagize  
ababangikanyamana.

107. N'yo Allah aza kubishaka ntibari kumubangikanya n'ibindi. Kandi ntitwakugize umugenzi wabo, ndetse nta n'ubwo uri umuhagararizi wabo.

108. Kandi ntimuzatuke ibyo basenga bitari Allah bigatuma batuka Allah (kubera kwihimura) bitewe n'ububisha no kutamenya. Uko ni ko buri muryango (Umat) twawukundishije ibikorwa byawo, hanyuma kwa Nyagasani wabo ni ho bazagaruka maze akabamenyesha ibyo bakoraga.

109. Kandi barahiye ku izina rya Allah indahiro zabo zikomeye ko igitangaza nikibageraho, rwose bazacyemera. Vuga uti "Mu by'ukuri ibitangaza bigenwa na Allah, ese mwabwirwa n'iki ko biramutse bije bakwemera?"

110. Tuzahindukiza imitima yabo n'amaso yabo (bajye kure y'inzira y'ukuri) nk'uko banze kwemera bwa mbere, kandi tuzabarekera mu bwigomeke bwabo barindagira.

111. N'yo tuza kubamanurira abamalayika, (tukabazurira) abapfuye bakabavugisha, tukanabateranyiriza buri kintu

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلَنَاكُمْ عَلَيْهِمْ  
حِفْيَطُوا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ١٦٧

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا  
الَّهُ عَذَّوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَ لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ  
إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيَنَسِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

١٦٨

وَاقْسُمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَنِهِمْ لِئَنْ جَاءَتْهُمْ إِيمَانُهُ  
لَيَوْمَنْ يَهَا قُلْ إِنَّمَا أَنْذِيْتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا  
يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٦٩

وَنَقْلِبُ أَعْدَتَهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا  
بِهِ أَوْلَ مَرَّةً وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَلُونَ

١٧٠

\* وَلَوْ أَنَّا نَزَّنَا إِلَيْهِمُ الْمَلِكَةَ وَكَلَمَهُ  
الْمَوْتَى وَحَشَّرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبْلًا مَا كَانُوا

الْجُنُوبُ ٨

imbona nkubone (nk'uko babyifuzaga), ntibari kwemera keretse **Allah** abishatse. Ariko abenshi muri bo bafite ubujiji.

112. Uko ni na ko buri muhanuzi twamushyiriye abanzi, (abo banzi ni) amashitani (aboneka) mu bantu n'amajiini. Bamwe muri bo bacengeza mu bandi imvugo zitatse ikinyoma zigamije kubashuka. N'yo Nyagasan wawe aza kubishaka ntibari kubikora; bityo bareke n'ibyo biimbira.

113. (Ibi) ni no kugira ngo imitima ya ba bandi batemera imperuka izibogamireho (izo mvugo z'ibishuko) izishimire, no kugira ngo bakore ibyo bakora (ibyaha by'ingeri zose).

114. Ese utari **Allah** ni we nagira umukiranuzi kandi ari We (**Allah**) wabahishuriye igitabo gisobanutse? Kandi ba bandi twahaye ibitabo (Tawurati n'Ivanjili) bazi ko (igitabo cya Qur'an) cyahishuwe giturutse kwa Nyagasan wawe mu kuri. Ku bw'ibyo, uramenye ntuzabe mu bashidikanya.

115. N'ijambo rya Nyagasan wawe ryarasohoye (ku byo rivuga) mu kuri no mu butabera (mu mategeko yabyo). Ntawahindura amagambo Ye. Ni

لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءُ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ  
يَجْهَلُونَ ﴿١١﴾

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا لِشَيْطَنٍ  
إِلَّا إِنَّ الْجِنَّةِ يُوحَى بِعَصْمَهُمْ إِلَى بَعْضِ  
رُجُوفَ الْقَوْلِ عُرُوقًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا  
فَدَرَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١٢﴾

وَلَنْ تَسْعَىٰ إِلَيْهِ أَفْئَدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ  
وَلَيَرَضُوهُ وَلَيَقْرُفُوا مَا هُمْ مُقْرَفُونَ ﴿١٣﴾

أَفَغَيَرَ اللَّهُ أَبْتَغَى حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ  
إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا لِلَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ  
الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ  
فَلَا تَكُونُنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١٤﴾

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلٌ  
لِكَامِتَهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٥﴾

na We Uwumva bihebuje,  
Umumenyi uhebuje.

116. Kandi nuramuka wumviye abenshi mu bari ku isi, bazakuyobya inzira ya Allah. Nta kindi bakurikira kitari ugukeka, ndetse nta n'icyo bakora kitari ukubeshya.

117. Mu by' ukuri Nyagasan ni wawe ni We uzi neza abayobye inzira ye, kandi ni We Uzi neza abayobotse.

118. Bityo, nimurye ibyavugiwaho izina rya Allah (bibagwa), niba muri abemera amagambo ye (Qur'an).

119. Ni iki kibabuza kurya ibyavugiwaho izina rya Allah (bibagwa) kandi yarabasobanuriye ibyo yabaziririje, uretse igihe mwasumbirijwe? Rwose abenshi bayobya abandi kubera irari ryabo nta bumenyi bafite. Mu by'ukuri Nyagasan ni we uzi neza abarengera (imbago ze).

120. Munareke ibyaha bigaragara n'ibiyishe. Mu by'ukuri ba bandi bakora ibyaha bazahanirwa ibyo bakoraga.

وَإِنْ تُطْعِمَ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ بِصَلَوةٍ عَنْ سَيِّلِ  
اللَّهِ إِنْ يَتَبَعَّدُونَ إِلَّا لِظَّنِّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

١٦

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضْلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ  
أَعْلَمُ بِالْمُهَتَّدِينَ

١٧٨

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ  
بِعَيْتِهِ مُؤْمِنِينَ

وَمَا لَكُمُ الْأَتَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ  
وَقَدْ فَصَلَ لَكُمْ مَا حَرَمَ عَيْتُكُمْ إِلَّا مَا  
أَضْطُرْرُتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا يُضْلُّونَ بِأَهْوَاهِهِمْ  
بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعَتَدِينَ

١٦

وَذَرُوا أَذَاهِرَ الْأَثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكِسِّبُونَ

الْأَثْمَرَ سَيِّئُ جَزَّونَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ

121. Kandi ntimukarye ibitavugiweho izina rya Allah (bibagwa), kuko rwose ibyo (kubirya) ari ukwigomeka. Mu by'ukuri shitani zoshyia inshuti zazo (mu bantu) kugira ngo zibagishe impaka (mu kuzirura ibitavugiweho izina rya Allah bibagwa). Nimuramuka muzumviye, mu by'ukuri muzaba muri ababangikanyamana.

122. Ese wa wundi wari warapfuye (wari mu buyobe) nuko tukamuha ubuzima (tukamuyobora), tukanamuha urumuri agendana mu bantu; wamugereranya nk'uri mu mwijima atazavamo? Uko ni ko abahakanyi bakundishijwe ibyo bakoraga.

123. Uko ni na ko twashyize ibikomerezwa by'abagome muri buri mudugudu kugira ngo biwucuriremo imigambi mibisha. Nyamara ni bo biyangiriza ubwabyo ariko ntibabizi.

124. N'ijo bagezweho n'ikimenyetso (giturutse kwa Allah) baravuga bat "Ntituzigera twemera kugeza duhawe nk'ibyo Intumwa za Allah zahawé." Allah ni We uzi neza abo aha ubutumwa bwe. Abakoze ubugome bazagerwaho no

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ  
وَإِنَّهُ لِفَسَقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَنَ يُؤْخُذُونَ إِلَى أَوْلَيَاءِهِمْ  
لِيُجَدِّلُوكُمْ وَإِنَّ أَطْعَمُهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ  
١٥٣

أَوْمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ بُرْكًا  
يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلَهُ وَفِي الظُّلُمَتِ لَيَسَّ  
بِخَارِجِ مِنْهَا كَذَلِكَ زِينَ لِلْكُفَّارِ مَا كَانُوا  
يَعْمَلُونَ ١٥٤

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرِيَةٍ أَكَبَرَ  
مُجْرِمِهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ  
إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٥٥

وَإِذَا جَاءَهُمْ إِيَّاهُ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى تُؤْتَنَ مِثَلَ  
مَا أُوتَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ  
رِسَالَتَهُ وَسَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَفَارٌ عِنْدَ

gusuzugurika biturutse kwa Allah, kandi n'ibihano bikomeye (bizabageraho ku munsi w'imperuka) kubera imigambi mibisha bacuraga (ku buyisilamu).

125. Kandi uwo Allah ashaka kuyobora yagurira igituza cye Isilamu, ndetse n'uwo ashaka kurekera mu buyobe, afunganya igituza cye cyane, akabura amahoro akamera nk'uwihatira kuzamuka ajya mu kirere<sup>89</sup>. Uko ni ko Allah ashyira mu gihano ba bandi batemera.

126. Kandi iyi ni inzira ya Nyagasani wawe igororotse. Mu by'ukuri twasobanuye ibimenyetso byacu ku bantu bazirikana.

127. Bazagira ubuturo bw'amahoro (Ijuru) kwa Nyagasani wabo. Kandi azababera Umugenga kubera ibyo bakoraga.

128. N'umunsi azabakoranya bose (akababwira ati) "Yemwe mbaga y'amajini! Mwakabije kuyobia abantu", nuko inshuti zayo mu bantu zivuge ziti "Nyagasani wacu! Twagiriranye akamaro none ubu tugeze ku hihe cyacu watugeneye." (Allah)

اللَّهُ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ يَمَا كَانُوا  
يَمْكُرُونَ ﴿١٢٤﴾

فَمَنْ يُرِدُ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ  
لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدُ أَنْ يُضْلِلَهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ  
صَيْقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَعَّدُ فِي السَّمَاءِ  
كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا

يُؤْمِنُونَ ﴿١٢٥﴾

وَهَذَا صَرْطُ رِبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَلَنَا  
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ

\*لَهُمْ دَارُ اَسْلَامٍ عِنْدَ رِبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا  
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٦﴾

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَنْمَعِشَرُ الْجِنِّ قَدْ  
أَسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسَانِ وَقَالَ أَوْلَيَا أَوْهُمْ مَنْ  
الْإِنْسَانُ رَبَّنَا أَسْتَمْتَخْ بَعْضُنَا بَعْضٌ وَبَعْضًا  
أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلَنَا قَالَ الْمَازِ مَوْنَكُمْ

<sup>89</sup> Bimenyerewe ko abazamuka mu kirere bagera aho umwuka bahumeka (Oxygen) ubabana muke, bagakenera kwitwaza undi w'umukorano; ibyo bikaba bishimangira ko Qur'an ari igitabo gikubiyemo ubuhanga, kandi cyabushimangije mbere y'uko abashakashatsi babuvumbura.

avuge ati "Umuriro nube ubuturo bwanyu muzabamo ubuziraherezo, uretse igihe Allah azagena ukundi. Mu by'ukuri Nyagasani wawe ni Nyirubugenge buhambaye, Umumenyi uhebuje."

129. Uko ni na ko bamwe mu nkozi z'ibibi twabahaye kugira ubushobozi (bwo gukora ibibi) ku bandi, kubera ibyo bakoraga.

130. (Ku munsi w'imperuka bazabwirwa bati) "Yemwe mbaga y'amajini n'abantu! Ese ntumwagezweho n'Intumwa zibakomokamo, zibasobanurira amagambo yanje, ndetse zikanababurira kuzahura n'uyu munsi wanyu?" Bazavuga bati "Turishinja (ko izo ntumwa zatugezeho tukazihinyura)." Bashutswe n'ubuzima bw'isi. Bazanishinja ko (koko) bari abahakanyi.

131. Ibyo ni uko Nyagasani wawe atajya yoreka imidugudu ayirenganyije kandi abayituye batabanje kuburirwa (ari yo mpamu Intumwa zaboherejweho).

132. Kandi bose bazagira inzego (bazahemberwa) bitewe n'ibyo bakoze, ndetse Nyagasani wawe ntayobewe ibyo bakora.

خَلِيلِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ  
عَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

وَكَذَلِكَ نُولِي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا إِمَّا  
كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٧٩﴾

يَعْمَشُ الْجِنُونُ وَالْإِنْسَانُ يَأْتِي مَرْسُلٌ  
مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ إِنِّي  
وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمَكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا  
عَلَى أَنفُسِنَا وَغَرَّهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا  
وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا  
كُفَّارِينَ ﴿١٨٠﴾

ذَلِكَ أَنَّ لَهُمْ يَكُنْ رَبِّيْكَ مُهْلِكَ الْقُرْيَ  
يُظْلِمُ وَأَهْلُهُمْ غَافِلُونَ ﴿١٨١﴾

وَلِكُلِّ دَرَجَتٍ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ  
يَغْفِلُ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٨٢﴾

133. Kandi Nyagasani wawe ni Uwhagije, Nyirimpuhwe. Aramutse abishatse yabarimbura akabasimbuza abandi ashaka, nk'uko yabaremye abakomoye ku rubyaro rw'abandi bantu.

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ دُوْلَرَحْمَةٌ إِنْ يَشَاءُ  
يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُمْ  
مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ فَوَمَّا  
عَلَّاقَ

ءَخْرِينَ ١٢٣

134. Mu by'ukuri ibyo musezeranywa (ibihano) bizasohora nta kabuza, kandi mwe nta ho mwahungira (ibihano bya Allah).

إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزَيْنَ ١٢٤

135. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Yemwe bantu banjye! Nimukore uko mushaka, nanjye ndakora (nk'uko Allah yantegetse). Rwose muzamenya uzagira iherezo ryiza (ku munsi w'imperuka). Mu by'ukuri inkozi z'ibibi ntizizakiranuka.”

قُلْ يَأَقُومُ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَا كَانُوكُمْ إِنِّي عَامِلٌ  
فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ تَكُونُ لَهُ وَعْدَكُمْ  
الْمَدَارُ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ١٢٥

136. Kandi (abahakanyi) bageneye Allah umugabane mu bihingwa n'amitungo yaremye, nuko bakavuga bati “Ibi ni ibya Allah -uko ni ko bibwiraga-, naho ibi ni iby'ibigirwamana byacu.” Ariko ibyo bageneye ibigirwamana byabo ntibemeraga ko byivanga n'ibyo bageneye Allah, naho ibyo bageneye Allah bakemera ko byo byivanga n'ibyo bageneye ibigirwamana byabo (kubera kudaha agaciro Allah). (Rwose) uko babonaga ibintu ni kubil!

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا دَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ  
وَالْأَنْعَمِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرْغَمَهُ  
وَهَذَا لِشَرِكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشَرِكَائِهِمْ  
فَلَا يَصُلُّ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ  
يَصُلُّ إِلَى شَرِكَائِهِمْ فَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

١٢٦

137. Uko ni na ko ibigirwamana byabo byakundishije abenshi mu babangikanyamana kwica abana babo kugira ngo biboreke no kugira ngo bibatakire idini ryabo (babone ko ari ukuri). Iyo Allah aza kubishaka ntibari kubikora. Ku bw'ibyo, barekere ibyo bahimba.

138. Kandi (muri uko kwibwira kwabo) baranavuga bat "Aya matungo n'ibihingwa biraziririjwe, ntawe ubirya uretse uwo dushaka. (Baranavuga bat) n'aya matungo imigongo yayo iraziririjwe (kugira icyo iheka cyangwa ikindi ikora), ndetse n'amatungo batavugiraho izina rya Allah (igihe cyo kuyabaga); bahimbira (Allah ko ari We wabiziririje)." (Allah) azabahana kubera ibyo bahimba.

139. Baranavuze bat "Ibyo aya matungo ahats mu nda zayo ni umwihariko w'igtsina gabu muri twe, bikaba biziririjwe (kuribwa) ku bagore bacu." Nyamara iyo ari ibirambu (ibivutse bipfuye cyangwa ibipfuye bikivuka) barabisangira. Rwose (Allah) azabahanira ibinyoma (byo kuzirura no kuziririza bamwitirira). Mu by'ukuri We ni

وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ  
قَتَلَ أَوْلَادَهُمْ شُرَكَاءَ أَفُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ  
وَلَيَلِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا  
فَعَلُوهُ فَقَدْ رَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ۝

وَقَالُوا هَذِهِ أَنْقَمْ وَحَرَثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا  
مَنْ شَاءَ بِرَغْمِهِمْ وَأَنْعَمْ حِرْمَتْ ظُهُورُهَا  
وَأَنْعَمْ لَا يَذْكُرُونَ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا  
أَفْتَرَأَهُ عَلَيْهِ سَيْجِرِيهِمْ بِمَا كَانُوا  
يَفْتَرُونَ ۝

وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَمِ حَالِصَةٌ  
لِذِكْرِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ  
يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءَ  
سَيْجِرِيهِمْ وَصَفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلَيْهِ ۝

Nyirubugenge buhambaye,  
Umumenyi uhebuje.

140. Rwose barahombye ba bandi bishe abana babo bitewe n'ubwenge buke ndetse n'ubujiji, kandi bakaba baranaziririje ibyo Allah yabahayemo amafunguro, ari uguimbira Allah ibinyoma. Ndetse baranayobye kandi ntibari abo kuyoboka.

141. Ni na we waremye ibimera birandaranda n'ibitarandaranda, imitende, ibimera bitandukanye mu buryohe, imizeti n'imikomamanga, isa (mu miterere) n'idasa (mu buryohe). Ngaho nimurye imbuto zabyo igihe byeze, ariko igihe cy'isarura mujye mutangaho umugabane wagenwe (amaturo). Kandi ntimugasesagure kuko mu by'ukuri (Allah) adakunda abasesagura.

142. No mu matungo (yabaremeye) harimo ayikorera n'afite indi mimaro. Ngaho nimurye mu byo Allah yabafunguriye, kandi ntimugakurikire inzira za Shitani. Mu by'ukuri we ni umwanzi wanyu ugaraagara.

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَاتَلُوا أَوْ لَدَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ  
عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ أَفْتَرَاهُ عَلَى اللَّهِ  
قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿٦٥﴾

\* وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ  
مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالنَّزَعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ  
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَادَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرُ مُتَشَابِهٖ  
كُلُّوا مِنْ شَمْرٍ إِذَا أَثْمَرَ وَأَنْوَاحَقَهُ وَيَوْمَ  
حَصَادِهِ هُوَ لَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ  
الْمُسْرِفِينَ ﴿٦٦﴾

وَمِنَ الْأَعْيُنِ حَمُولَةً وَفَرَشًا كُلُّوا مِمَّا  
رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا حُطُواتَ  
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَذُوبٌ مُبِينٌ ﴿٦٧﴾

143. (Yabaremeye) amoko umunani yamatungo, abiri abiri: ebyiri mu ntama (isekurume n'inyagazi); n'ebyiri mu ihene (isekurume n'inyagazi). Vuga (yewe Muhamadi) uti “Ese yaziririje amasekurume abiri cyangwa inyangazi ebyiri, cyangwa ni ibiri mu nda z'inyagazi ebyiri?” Nimumbwire ibyo muzi niba koko muri abanyakuri.

144. N'ebyiri mu ngamiya (imfizi n'inyana), ebyiri mu nka (ikimasa n'inyana). Vuga uti “Ese yaziririje ibimasa bibiri cyangwa ni inyana ebyiri, cyangwa ni ibiri mu nda z'inyana ebyiri?” Cyangwa se mwari muhari ubwo Allah yabategekaga ibi? None se ni nde waba umunyabinyoma kurusha uwahimbiye Allah ikinyoma kugira ngo ayobye abantu nta bumenyi abifitiye? Mu by'ukuri Allah ntayobora abantu b'inkozi z'ibibi.

145. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Mu byo nahishuriwe nta cyo mbona kiziririjwe kuribwa ku muntu ushatse kukirya, uretse icyipfushije cyangwa amaraso (ikiremvi), cyangwa inyama y'ingurube, cyangwa icyabazwe mu bwigomeke kikavugirwaho irindi zina ritari irya Allah; kuko rwose ibyo ni umwanda.” Ariko

شَمَدِيَّةً أَرْوَاحٍ مِنَ الْضَّاَنِ اثْنَيْنِ وَمَنْ  
الْمَعْزُ اثْنَيْنِ قُلْ إِذَاذَكَرَيْنَ حَرَمَ أَمْ  
الْأَنْثَيْنِ أَمَّا أَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَنْثَيْنِ  
نَعَوْنِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

وَمَنْ إِلَيْلِ اثْنَيْنِ وَمَنْ الْبَقِيرِ اثْنَيْنِ قُلْ  
إِذَاذَكَرَيْنَ حَرَمَ أَمْ الْأَنْثَيْنِ أَمَّا أَشْتَمَلَتْ  
عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَنْثَيْنِ أَمْ كُنْتُ شَهَدَاءِ إِذْ  
وَصَلَكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ  
أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ  
عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

قُلْ لَا إِلَهُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِيمِ  
يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا  
أَوْ لَحْمَ خَزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أَهْلَ  
لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ أَصْطُرَ عَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادِ  
فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

uzasumbirizwa atagamije kwigomeka cyangwa kurengera imbago (za Allah, nta cyaha naramuka abiriye). Mu by'ukuri Nyagasani wawe ni Ubabarira ibyaha, Nyirimpuhwe.

146. No kuri ba bandi babaye Abayahudi, twabaziririje buri (nyamaswa) ifite inzara zitatuye, tunabaziririza urugimbu rw'inka n'intama, uretse gusa ibinure byo ku migongo yazo cyangwa ibyo mu nda, cyangwa ikinure cyivanze n'inyama y'igufa. Ibyo twabibahaniye kubera ubwigomeke bwabo. Kandi rwose turi abanyakuri.

147. Nibaguhinyura uvuge uti "Nyagasani wanyu ni Nyirimpuhwe nyinshi, kandi ibihano bye ku bantu b'inkozi z'ibibi ntibikumirwa."

148. Ba bandi babangikanyije Allah bazavuga bat "Iyo Allah aza kubishaka, twe n'abakurambere bacu ntitwari kumubangikanya, kandi nta n'icyo twari kuziririza." Uko ni na ko abababanjirije bahakanye kugeza ubwo bumvise ububabare bw'ibihano byacu. Vuga uti "Ese mufite ubumenyi (bw'ibyo muvuga) ngo mubutugaragarize? Ahubwo mwe mugendera ku

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمَنَا كُلَّ ذِي طُفُّ  
وَمِنْ الْبَقَرِ وَالْغَنِمِ حَرَمَنَا عَلَيْهِمْ  
شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَّلَ ظَهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَائِجُ  
مَا أَخْتَطَلَ بِعَطْمٍ ذَلِكَ جَزِئُهُمْ بِبَعْيَهُمْ  
وَإِنَّ الصَّدِيقَاتِ

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُرْ رَحْمَةً وَاسْعَةً  
وَلَا يُرَدُّ دُبَاسُهُ وَعَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا  
أَشْرَكَنَا وَلَا ابْآؤُنَا وَلَا حَرَمَنَا مِنْ شَيْءٍ  
كَذِلِكَ كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى  
ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ  
فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَبِعُونَ إِلَّا الظَّلَّ وَإِنْ أَنْشُرَ  
إِلَّا لَخْرُصُونَ

gukekeranya gusa, kandi nta kindi mukora uretse kubeshya.”

149. Vuga (yewe Muhamadi) uti “**Allah** ni We ufite ibimenyetso bihamye; iyo aza kubishaka yari kubayobora mwese (mu nzira igororotse).”

150. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Ngaho nimuzane abahamya banyu bemeza ko **Allah** yaziririje ibi (ibihingwa namatungo).” Ubwo nibabyemeza, ntuzabyemezanye na bo. Kandi ntuzakurikire amarangamutima y’abahinyuye amagambo yacu ndetse na ba bandi batemera imperuka, bakanabangikanya Nyagasani wabo.

151. Vuga uti “Nimuze mbasomere ibyo Nyagasani wanyu yabaziririje (n’ibyo yabategetse). Ntimukagire icyo mumubangikanya na cyo, mujye mugirira ineza ababyeyi banyu, ntimukice abana banyu kubera ubukene kuko ari twe tubafungurira, mwe na bo. Ntimukegere ibyaha by’urukozasoni, byaba ibikozwe ku mugaragaro cyangwa mu ibanga; kandi ntimukice umuntu **Allah** yaziririje, keretse ku mpamu z’ukuri (zemewe n’amategeko). Ibyo yarabibategetse kugira ngo musobanukirwe.”

قُلْ فِيلَهٖ الْحُجَّةُ الْبَلَاغَةُ فَوَ شَاءَ لَهَدَكُمْ

أَجْمَعِينَ ﴿١٥﴾

قُلْ هَلْ مُ شَهَدَآءَ كُمْ الَّذِينَ يَشَهُدُونَ أَنَّ اللَّهَ  
حَرَمَ هَذَا إِنْ شَهَدُوا فَلَا تَشَهَّدُ مَعَهُمْ وَلَا  
تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَيْنِنَا وَالَّذِينَ لَا  
يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ

١٥٣

\* قُلْ تَعَاوَلُوا أَتُلُّ مَا حَرَمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ  
أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا  
وَلَا تَقْتُلُوا أُولَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ تَحْنَ  
نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرِبُوا الْفَوَاحِشَ مَا  
ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفَسَاتِ  
حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَنْكُمْ بِهِ  
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥٤﴾

152. Ntimukanegere umutungo w'imfubyi uretse ku neza (ya nyirawo) kugeza ubwo (iyo mfubyi) igeze mu gihe cy'ubukure (mukayisubiza ibyayo ngo ibyicungire). Kandi mujye mwuzuza ibipimo n'iminzani mukoresheje ukuri. Ntabwo dutegeka umuntu icyo adashoboye. Nimunavuga (mutanga ubuhamya cyangwa no mu bindi), mujye muvuga mutabogama kabone n'ubwo byaba k'ubo mufitanye isano, kandi mujye mwuzuza isezerano rya **Allah**. Ibyo yabibategetse kugira ngo mujye muzirikana.

153. Kandi mu by'ukuri iyi ni yo nzira yanje igororotse; bityo nimuyikurikire, ntimuzakurikire utundi tuyira tukazabatandukanya n'inzira Ye (**Allah**). Ibyo yabibategetse kugira ngo mujye mutinya.

154. Hanyuma twahaye Musa igitabo (Tawurati) gisendereza inema zacu kuri wa wundi wakoze icyiza kandi kigasobanura buri kintu, kikaba n'umuyoboro ndetse n'impuhwe kugira ngo bizere kuzahura na Nyagasanji wabo.

155. N'iyyi (Qur'an) ni igitabo twahishuye cyuje imigisha. Bityo, nimugikurikire

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ أَيْتَمْ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَقًّا  
يَبْغُ أَشْدَادُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ  
بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفْ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ  
فَاعْدُلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ  
أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَدَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ  
تَذَكَّرُونَ ١٥٢

وَأَنَّ هَذَا صَرَاطٌ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا  
تَنْتَعِّوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ  
وَصَدَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٥٣

ثُمَّ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الْذِي  
أَحَسَنَ وَقَصْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً  
لَعَلَّهُمْ يَلْقَاءُنَّهُمْ يُؤْمِنُونَ ١٥٤

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا  
لَعَلَّكُمْ تُرَحَّمُونَ ١٥٥

munatinye (**Allah**) kugira ngo mugirirwe impuhwe.

156. Ni ukugira ngo mutavuga (yemwe babangikanyamana) muti “Mu by’ukuri igitabo cyahishuriwe amatsinda abiri yatubanjirije (Abayahudi n’Abanaswara), naho twe ntabwo twari dusobanukiwe n’ibyo basoma.”

157. Cyangwa mukavuga muti “Iyo tuza guhishurirwa igitabo, mu by’ukuri twari kuyoboka cyane kubarusha.” None ubu mwagezweho n’ikimenyetso gisobanutse (Qur'an), kikaba umuyoboro n’impuhwe biturutse kwa Nyagasan wanyu. Ni nde munyabyaha kurusha uwahinyuye amagambo ya **Allah** akanayirengagiza? Rwose, ba bandi birengagiza amagambo yacu tuzabahanisha ibihano bibi kubera ukwirengagiza kwabo.

158. Ese hari ikindi bategereje kitari ukugerwaho n’abamalayika (babakuramo roho), cyangwa ukuza kwa Nyagasan wawe (aje guca imanza ku munsi w’imperuka), cyangwa ukuza kwa bimwe mu bimenyetso bya Nyagasan wawe (bigaragaza ko imperuka yegereje)? Umunsi bimwe mu

أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ  
فَهُنَّا وَإِن كُنْتُمْ تَعْنَى بِدِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ﴿١٥٦﴾

أَوْ تَقُولُوا لَوْا نَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا  
أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةً مِنْ  
رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً هُنَّ أَطْمَأَنَّ مِنْ كُذَبَ  
بِإِيمَانِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهُمَا سَبَّاجِرِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ  
عَنْ أَيْمَانِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ

١٥٦

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهِمُ الْمُلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ  
يَأْتِ بَعْضُ إِيمَانِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ إِيمَانِ رَبِّكَ  
لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمَّا تَكُنْ مَأْمَنَتْ مِنْ قَبْلِ أَوْ  
كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلْ أَنْتَظِرُوْا إِنَّمَا تَنْظَرُونَ

١٥٨

bimenyetso bya Nyagasan wawe byaje, ukwemera k'umuntu atagine mbere cyangwa (uwemera) utaragize icyiza akora mu kwemera kwe nta cyo bizabamarira. Babwire (yewe Muhamadi) uti "Nimutegereze, natwe turategereje."

159. Mu by'ukuri ba bandi baciyemo ibice idini ryabo bakaba udutsiko, wowe (Muhamadi) ntabwo uri kumwe na bo. Nta gushidikanya, ibyabo biri kwa **Allah**, hanyuma azababwira ibyo bakoraga.

160. Uzaramukaakoze icyiza, azagororerwa (ibyiza) icumi nka cyo, n'uzakora ikibi azabona inyishyu imeze nka cyo, kandi ntibazahuguzwa.

161. Vuga (yewe Muhamadi) uti "Mu by'ukuri Nyagasan wanaye yanyoboye inzira igororotse; idini ritunganye, inzira ya Aburahamu, wasengaga Imana imwe rukumbi, kandi ntabe mu babangikanyamana."

162. Vuga uti "Mu by'ukuri iswala<sup>90</sup> yanaye, ibitambo byanaye, kubaho kwanaye no gupfa kwanaye bigengwa na

إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيْعَالَسْتَ مِنْهُمْ  
فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ شُفُوْدِيْتُهُمْ بِمَا كَانُوا  
يَعْمَلُونَ

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالًا هَا وَمَنْ جَاءَ  
بِالْسَّيِّئَةِ فَلَا يُحْجِنَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

قُلْ إِنَّمَا هَدَنِي رَبِّي إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا

مَلَّةٌ إِبْرَاهِيمَ حِينَقَا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُسْرِكِينَ

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَسُكُوكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّي

الْعَالَمَيْنَ

<sup>90</sup> Reba uko twasobanuye iyi nyito mu murongo wa 62 muri Surat ul Baqarat.

Allah, Nyagasaki w'ibiremwa byose,

163. Ntawe babangikanye. Kandi ibyo ni byo nategetswe, ndetse ndi uwa mbere mu bicisha bugufi (Abayisilamu)."

164. Vuga uti "Ese ikitari Allah ni cyo nashaka kugira Nyagasaki kandi ari We Nyagasaki wa buri kintu? Kandi nta cyo umuntu azakora (kibi) ngo kibure kumugaruka, ndetse nta n'uzikorera umutwaro w'undi. Hanyuma kwa Nyagasaki wanyu ni ho muzagaruka, maze abamenyeshe ibyo mutavugagaho rumwe."

165. Kandi ni We wabagize abasigire ku isi, ndetse bamwe muri mwe abazamura mu nzego gusumbya abandi, kugira ngo abagerageze mu byo yabahaye. Mu by'ukuri Nyagasaki wawe ni Uwihutisha ibihano, kandi rwose ni We Ubabarira ibyaha, Nyirimpuhwe.

لَا شَرِيكَ لَهُ وَيَنْذِلُكَ أُمْرُتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسَلِّمِينَ ﴿١٦٣﴾

قُلْ أَغَيَرَ اللَّهُ أَيْنِي رَبًا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا  
تَكِبُّ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُّ وَازِرَةٌ وَلَا  
أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيَنَسِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ

فِيهِ تَحْتَلُفُونَ ﴿١٦٤﴾

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلِيفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ  
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوُمُكُمْ فِي مَا آتَنَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ  
سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

**7 - SURAT AL A'ARAF**  
**(AHANTU HIRENGEYE HAGATI Y'IJURU N'UMURIRO)**  
*Yahishuriwe i Maka, igizwe n 'imirongo 206.*

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

Ku izina rya **Allah**, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Alif Laam Miim Swad<sup>91</sup>.

المَصَرِ ﴿١﴾

2. (Iyi Qur'an) ni igitabo twaguhishuriye; bityo ntikikakubere umutwaro mu mutima wawe. (Twakiguhihuriye) kugira ngo ucyifashishe mu kuburira, (kibe) n'urwibutso ku bemera.

كَتَبَ رَبُّكَ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدَرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ  
 لِتُنذِرَ بِهِ وَذَكِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

3. Nimukurikire ibyo mwahishuriwe biturutse kwa Nyagasani wanyu. Kandi ntimuzakurikire ibitari We mubigira abafasha. Ni gake mwibuka!

أَتَتَّعِدُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّنْ رِّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُونَ مِنْ دُونِهِ أَوْ لِيَاءَ قَبْلًا مَّا نَذَّرَ رَبُّكُمْ ﴿٣﴾

4. Ni imidugudu ingahe tworetse maze ibihano byacu bikayigeraho mu ijoro baryamye cyangwa ku manywa baruhutse?

وَكَمْ مِنْ قَرِيبَةٍ أَهْلَكَنَا هَاجَاءَهَا بِأَسْنَايَتَنَا  
 أَوْ هُمْ قَالُونَ ﴿٤﴾

5. Ubwo ibihano byacu byabageragaho, nta kindi bavugaga uretse gutakamba bagira bati "Mu by'ukuri twari inkozi z'ibibi."

فَمَا كَانَ دَعَوْهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بِأَسْنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا  
 إِنَّا كُنَّا نَظَلَمِينَ ﴿٥﴾

<sup>91</sup>Reba uko twasobanuye umurongo wa mbere muri Surat ul Baqarat.

6. Rwose tuzabaza ba bandi bohererejwe (Intumwa) ndetse n'izo ntumwa tuzazibaza.

فَلَئِسَكُلَّنَ الَّذِينَ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ وَلَسَعَانَ الْمُرْسَلِينَ

٦

7. Kandi rwose tuzababwira (ibyo bakoraga) dushingiyé ku bumenyi kandi ntitwigeze tubura (ngo tuyoberwe ibyo bakoraga).

فَنَقْصَنَ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَآبِينَ ﴿٧﴾

8. N'iminzani kuri uwo munsi izaba ari iy'ukuri. Bityo, abo iminzani (y'ibikorwa byabo byiza) izaremera, abo ni bo bakiranutsi.

وَأَلَوْزُونُ يَوْمِئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ

فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨﴾

9. Naho abo iminzani (y'ibikorwa byabo byiza) izaba yoroshye; abo ni ba bandi bihombeje kubera ko bahakanaga amagambo yacu.

وَمَنْ حَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا

أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِإِيمَانِهِمْ لِمُوْرَنَ ﴿٩﴾

10. Mu by'ukuri twabahaye ubutware ku isi tunayibashyiriramo ibibabeshaho, (nyamara) ni gake mushimira.

وَلَقَدْ مَكَّنَنَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا

مَعِيشًا قِلِيلًا مَا تَشَكُّرُونَ ﴿١٠﴾

11. Kandi mu by'ukuri twarabaremye (twaremye Adamu) hanyuma tubaha ishusho (y'umuntu), maze tubwira abamalayika tuti "Nimwubamire Adamu", nuko barubama uretse Ibilisi (Shitani) utarabayé mu bubamye.

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَرْنَاكُمْ ثُمَّ فَنَّا

لِلْمَلَائِكَةِ أَسْجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ

لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿١١﴾

12. (Allah) aravuga ati "Ni iki cyakubujije kubama ubwo nabigutegekaga?" (Ibilisi) aravuga ati "Njye ndi mwiza kumuruta; wandemye mu

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَا سَجُدَ إِذْ أَمْرَتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ

خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿١٢﴾

muriro naho we umurema mu ibumba."

13. (**Allah**) aravuga ati "Manuka urivemo (Ijuru)! Ntibikwiye ko wakwishiye hejuru muri ryo. Ngaho sohoka! Mu by'ukuri wowe uri mu basuzuguritse."

14. (Ibilisi) iravuga iti "Mpa kuzabaho kugeza ku munsi (abantu) bazazurirwaho."

15. (**Allah**) aravuga ati "Rwose uri mu bahawe igihe."

16. (Ibilisi) iravuga iti "Kubera ko unciriye ho iteka ryo kuyoba, nzabategera mu nzira yaweigorotse.

17. Hanyuma rwose nzabagota mbaturutse imbere n'inyuma, iburyo n'ibumoso habo. Kandi abenshi muri bo ntuzababona bashimira."

18. (**Allah**) aravuga ati "Risohokemo (Ijuru) umwaye kandi wirukanwe. Mu by'ukuri abazagukurikira muri bo, nzabuzuza mwese mu muriro wa Jahanamu."

19. Yewe Adamu! Tura mu Ijuru wowe n'umugore wawe, murye (mu mbuto zaryo) aho mushatse, ariko muramenye ntimuzegere iki giti mutazaba mu nkozi z'ibibi.

20. Nuko Shitani iraboshyabombi (barya kuri cya gitii), kugira ngo ibagaragarize ubwambure bwabo bari

قَالَ فَاهِمْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَخُرُجْ  
إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴿١٦﴾

قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبَعَّثُونَ ﴿١٧﴾

قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿١٨﴾

قَالَ فِيمَا أَعْوَيْتِنِي لَا قَعْدَنَ لَهُمْ صِرَاطُكَ  
الْمُسْتَقِيرَ ﴿١٩﴾

لَمْ يُلْأِنْهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ حَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ  
وَعَنْ شَمَائِيلِهِمْ وَلَا تَحْدُدُهُمْ شَكِيرَينَ ﴿٢٠﴾

قَالَ أَخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَعَكَ مِنْهُمْ  
لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْ كُلِّ أَجْمَعِينَ ﴿٢١﴾

وَيَكَادُمُ سُكُنٌ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ  
شِئْتُمَا وَلَا تَقْرِبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

فَوَسَوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ إِبْرَيْهِمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا  
مِنْ سَوَاءٍ تَهْمَا وَقَالَ مَا نَهَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ

barahishwe. Maze (Shitani) irababwira iti "Nta kindi cyatumye Nyagasan wanyu ababuza kurya kuri iki giti, usibye kwanga ko mwazaba abamalayika cyangwa mukazabaho ubuziraherezo."

21. (Shitani) iranabarahirira bombi igira iti "Mu by'ukuri njye ndi umujyanama wanyu mwiza."

22. Nuko abareshyesha ikinyoma, maze bamaze kurya kuri icyo giti, bagaragarirwa n'ubwambure bwabo, batangira kwikingaho amababi y'ibiti byo mu Ijuru. Nuko Nyagasan wabo arabahamagara agira ati "Ese sinari narababujije icyo giti nkanababwira ko mu by'ukuri Shitani ari umwanzi wanyu ugaragara?"

23. Bombi baravuga bati "Nyagasan" wacu! Twarihemukiye. Kandi nutatubarira ibyaha ngo unatugirire impuhwe, ni ukuri rwose tuzaba mu banyagihombo."

24. (Allah) arababwira ati "Nimumanuke (mwembi na Shitani), bamwe bazaba abanzi b'abandi, kandi muzagira ubuturo ku isi n'umunezero by'igihe gito."

25. (Allah) aravuga ati "Muri yo (isi) ni ho muzaba, ni na ho muzapfira, ndetse ni na ho muzakurwa (muzurwa)."

الشَّجَرَةُ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنْ  
الْخَلَدِينَ ﴿١﴾

وَقَاسَمَهُمَا إِلَيْ لِكُمَا الْمِنَ النَّصِيرِينَ ﴿٢﴾

فَذَلِكُمَا يُغْرُرُ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَّتْ لَهُمَا سَوْءَ تُهْمَا وَظَفَقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَّا يَنْهَا كُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقْلَ  
لِكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّؤْمِنٌ ﴿٣﴾

قَالَ رَبُّنَا ظَلَمْنَا أَنفَسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْنَا وَتَرْحَمْنَا  
لَنْ كُوْنَنَّ مِنَ الْخَلِيلِينَ ﴿٤﴾

قَالَ أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَكُمْ فِي  
الْأَرْضِ مُسْتَقْرٌ وَمُتَعٌ إِلَى حِينٍ ﴿٥﴾

قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ

26. Yemwe bene Adamu! Mu by'ukuri twabahaye umwambaro uhishira ubwambure bwanyu (n'umwambaro w') umutako, ariko umwambaro wo gutinya **Allah** ni wo mwiza. Ibyo ni bimwe mu bimenyetso bya **Allah** kugira ngo bajye bazirikana (ingabire ze).

27. Yemwe bene Adamu! Muramenye Shitani ntizabashuke nk'uko yavanye ababyeyi banyu (Adamu na Eva) mu Ijuru, ikabambura umwambaro wabo bigatuma bagaragarizwa ubwambure bwabo. Mu by'ukuri we n'abambari be barababona ariko mwe ntimubabona. Rwose, Shitani twazigize inshuti z'abatemera.

28. Kandi n'yo (abahakanyi) bakoze ibyaha by'urukozasoni baravuga bati "Twasanze abakurambere bacu ari ko babigenza kandi **Allah** yarabidutegetse." Vuga (yewe Muhamadi) uti "Mu by'ukuri **Allah** ntategeka gukora ibyaha by'urukozasoni. Ese **Allah** mumuvugaho ibyo mutazi?"

29. Vuga (yewe Muhamadi) uti "Nyagasani wanje yategetse kugira ubutabera, (anabategeka) ko mugomba kumwubamira no kumwambaza mumwiyegurira We wenyinge igihe cyose musenga. Uko yabaremye mu ntangiriro ni na

يَبْنَىٰ إِدَمْ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي  
سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ الْتَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ  
ذَلِكَ مِنْ عَيْنِنَا لِعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ

يَبْنَىٰ إِدَمْ لَا يَفْتَنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ  
أَبْوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا  
لِرِبَّهُمْ سَوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ يَرَكِّعُ كُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ وَمِنْ  
حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطَانَ أُولَئِكَ لِلَّذِينَ  
لَا يُؤْمِنُونَ

وَإِذَا فَعَلُوا فَحْشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَ نَاوَالَهُ  
أَمْرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَنْتُمْ أَقْوَاعُونَ  
عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْمَلُونَ

قُلْ أَمْرَرِي بِالْقِسْطِ وَأَقِمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ  
مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُحَاضِّينَ لَهُ الْدِينُ كَمَا  
بَدَأْكُمْ تَعُودُونَ

ko muzagaruka (iwe ku munsi w'izuka)",

30. (Ubwo muzaba muri mu matsinda abiri), itsinda rimwe yararishoboje kuyoboka, naho irindi tsinda ryarahisemo ubuyobe kuko mu by'ukuri ryagize amashitani inshuti mu cyimbo cya Allah, kandi ryibwira ko ryayobotse.

31. Yemwe bene Adamu! Mujye murimba buri uko mugiyeye gusali. Kandi mujye murya, munywe ariko ntimugasesagure. Mu by'ukuri We (Allah) ntakunda abasesagura.

32. Vuga (yewe Muhamadi) uti "Ni nde waziririje imyambaro myiza n'amafunguro meza Allah yashyiriye ho abagaragu be?" Vuga uti "Ibyo, mu buzima bwa hano ku isi, bigenewe abemeye (bakaba babihuriye ho n'abatemera), ariko bikaba umwihiariko (ku bemera) ku munsi w'imperuka." Uko ni ko dusobanura amagambo (yacu) ku bantu bafite ubumenyi.

33. Vuga uti "Mu by'ukuri Nyagasani wanjye yaziririje ibikorwa by'urukozasoni, byaba ibikozwe ku mugaragaro cyangwa mu ibanga, ndetse n'ibyaha (ibyo ari byo byose), ibikorwa by'ubugome, no kubangikanya Allah n'ibyo atabahereye gihamya (ko bigomba gusengwa), no guhimbira Allah ibyo mutazi."

فِرِيقًا هَدَى وَفِرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الظَّلَّةُ  
إِنَّهُمْ أَتَخْذُوا الشَّيْطَانَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ  
وَمَحَسِّبُونَ أَنَّهُمْ مُهَتَّدُونَ

\* يَبْنَىَ إِادَمَ حُدُوا زِيَّتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ  
وَكُلُوا وَاشْرِبُوا وَلَا تُشْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ  
الْمُسْرِفِينَ

قُلْ مَنْ حَرَمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ  
وَالْطَّيْبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هَيَّ لِلَّذِينَ أَمْوَالُهُمْ فِي الْحَيَاةِ  
الَّذِينَ أَخَالُوهُنَّا يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ  
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

قُلْ إِنَّمَا حَرَمَ رَبِّ الْفَوْحَشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ  
وَالْإِثْمُ وَالْبَغْيُ بِغَيْرِ الْحُقُوقِ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ  
يُرِتِلْ يَهُ سُلْطَنَنَا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَىَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

34. Buri muryango (wigometse) ufile igihe ntarengwa (cyo kugerwaho n'ibihano). Iyo igihe cyabo kigeze, ntibarindirizwa na gato cyangwa ngo bihutishwe mbere yacyo.

35. Yemwe bene Adamu! Nimuramuka mugezweho n'Intumwa zibakomokamo, zikabasobanurira ibimenyetso byanje, rwose abazatinya (**Allah**) bakanakora ibikorwa byiza, nta bwoba bazigera bagira habe n'agahinda.

36. Naho ba bandi bazahinyura ibimenyetso byacu bakabyigomekaho ku bw'ubwibone, abo ni abantu bo mu muriro bazawubamo ubuziraherezo.

37. None se ni nde munyabyaha kurusha uwahimbiye **Allah** ikinyoma cyangwa uwahinyuye amagambo ye? Abo bazagerwaho n'umugabane wabo (w'ibihano hano ku isi) **Allah** yabageneye, kugeza ubwo Intumwa zacu (abamalayika bashinzwe gukuramo roho) zizabageraho zikabavanamo roho zivuga ziti “Ibyo mwasengaga mu cyimbo cya **Allah** biri he?” Bazavuga bati “Nta byo tubona”, maze na bo bishinje ko bari abahakanyi.

38. (**Allah**) ababwire ati “Nimwinjire mu muriro hamwe n'imiryango (umat) yababanjirije; mu majini no mu bantu.” Buri uko umuryango (umat) uzajya winjira, uzajya

وَلَكُلُّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ  
سَاعَةً وَلَا يَسْقَدُ مُؤْنَةً

يَبْيَقِي إِدَمَ إِمَّا يَأْتِنَّكُمْ رَسُولٌ مِّنْكُمْ يَفْصُلُونَ عَلَيْكُمْ  
إِنَّمَا يُنَزَّلُ مِنْ رَّبِّكُمْ فَلَا يَحْوِفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ  
يَحْمِلُونَ

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَسْتَكَّ بِرُوْأَنَّهَا أُولَئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

فَهُنَّ أَظَلَّمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ  
بِكَيْنَتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِّنَ الْكَتَبِ حَتَّىٰ  
إِذَا جَاءَهُمْ رُسُلُنَا بَنَوْهُمْ هُمْ قَالُوا إِنَّمَا كُنْتُمْ  
تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلَّوْعَانَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ  
أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَاذِبُوكُلُّ كَافِرٍ

قَالَ أَدْخُلُوهُ فِي أُمَّمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مَنْ  
الْجِنُّ وَالْإِنْسُ فِي الْأَنَارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّهُتَّ  
أَخْتَهَا حَتَّىٰ إِذَا أَدَارَ كُوْنًا فِيهَا جَمِيعًا قَالَ

uvuma mugenzi wawo, kugeza ubwo bakoraniyemo bose; uwa nyuma muri yo uzasabira uwawubanjirije ugira uti “Nyagasani wacu! Aba ni bo batuyobeje, bityo bahe ibihano byikubye kabiri mu muriro.” (**Allah**) azavuga ati “Buri wese arahanishwa ibyikubye kabiri, nyamara ntimubizi.”

39. Uwa mbere muri yo uzabwira uwaherutse uti “Nta cyo muturusha (twese turanganya ibihano).” (Nuko **Allah** ababwire bose ati) “Ngaho nimwumve ububabare bw’ibihano kubera ibyo mwakoraga.”

40. Mu by’ukuri ba bandi bahinyuye ibimenyetso byacu bakabyigomekaho ku bw’ubwibone, ntibazafungurirwa imiryango y’ikirere kandi ntibazaninjira mu Ijuru, keretse ingamiya yinjiye mu mwenge w’urushinge. Uko ni ko duhemba inkozi z’ibibi.

41. Umuriro wa Jahanamu uzababera isaso ndetse n’ibiyoroswa byabo. Uko ni ko duhemba inkozi z’ibibi.

42. Naho ba bandi bemeye bakanakora ibikorwa byiza, kandi ntidutegeka umuntu icyo adashoboye, abo ni abantu bo mu Ijuru bazabamo ubuziraherezo.

أَخْرَهُمْ لَا وَلَهُمْ رَبَّنَا هُؤُلَاءِ أَضْلَلْنَا فَإِنَّهُمْ عَذَابٌ  
ضَعَفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضَعْفٍ وَلَكُنَّ لَا

تَعَلَّمُونَ ﴿٤٣﴾

وَقَالَتْ أُولَئِمْ لَا خَرَهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا  
مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ  
تَكْسِبُونَ ﴿٤٤﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَذَبُوا بِعِيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا  
تُفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى  
يَلْجَأُ الْجَمْلُ فِي سَيِّرِ الْخَنَاطِ وَكَذَلِكَ يَجْزِي  
الْمُجْرِمِينَ ﴿٤٥﴾

لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مَهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَشٌ وَكَذَلِكَ  
يَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٤٦﴾

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نَكِلُ فَنَسَّا  
إِلَّا وَسَعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا  
خَلِدُونَ ﴿٤٧﴾

43. Tuzanavana mu bituza byabo inzika n'inzagano, (babe mu Ijuru aho) imigezi itemba munsi yabo, nuko bavuge bati "Ishimwe n'ikuzo byuzuye ni ibya Allah watuyoboye muri ibi (byiza), ndetse ntitwari kuyoboka iyo Allah atatuyobora. Mu by'ukuri Intumwa za Nyagasan i wacu zazanye ukuri." Nuko bahamagarwe babwirwa bati "Ngiryo Ijuru murazwe kubera ibyo mwakoraga."

44. Abantu bo mu Ijuru bazahamagara abo mu muriro babbwira bati "Rwose twasanze ibyo Nyagasan i wacu yadusezeranyije ari ukuri; ese namwe mwasanze ibyo Nyagasan i wanyu yabasezeranyije ari ukuri"? Bazavuga bati "Yego." Nuko umuhamagazi atangarize hagati yabo ko umuvumo wa Allah uri ku banyabyaha,

45. Ba bandi bakumira (abantu) kugana inzira ya Allah, bakanayifuriza ko yatana kandi bagahakana imperuka.

46. Hagati yabo (abantu bo mu ijuru n'abo mu muriro) hazaba hari urusika, no kuri A'arafu<sup>92</sup> hazaba hari abantu (bahaheze kubera ko ibyiza n'ibibi byabo bizaba bingana), bazajaya bamanya buri wese (ubo mu ijuru n'uwo mu muriro) kubera ibimenyetso bizaba bibaranga. Maze bahamagare abantu bo

وَنَزَّعْنَا مِمَّا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غُلٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ  
 أَلَّا يَنْهُرُ وَقَالُوا لِلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَنَا إِلَيْهَا وَمَا كَانَ  
 لِنَهَتِدِي لَوْلَا أَنْ هَدَنَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ  
 رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تَلَكُمُ الْجَنَّةُ أَوْ رِشْتُمُوهَا بِمَا  
 كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾

وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةَ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ  
 وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَبُّنَا حَقًا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدْ  
 رَبُّكُمْ حَقًا قَالُوا نَعَمْ فَادْنَ مُؤْذِنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ  
 لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْعُونَهَا عَوْجَاؤُهُمْ  
 بِالْآخِرَةِ كُفَّارُونَ ﴿٤٥﴾

وَيَنْهِمُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ  
 كُلَّا لَا يُسِمُّهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةَ أَنْ سَلُمُ  
 عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَظْمَعُونَ ﴿٤٦﴾

<sup>92</sup> A'arafu ni ahantu hirengeye hagati y'Ijuru n'umuriro Allah yageneye abo ibikorwa byabo byiza bizaba bingana n'ibibi bakoze. Abazaba bari aho bazaba bareba mu ijuru no mu muriro. Ariko nyuma yaho, Allah azabagirira impuhwe abinjize mu ijuru.

mu ijuru bababwira bati  
 "Asalamu Alayikum (mugire amahoro!)" (Kugeza icyo gihe, abantu ba A'arafu) bazaba batararyinjiramo kandi babyifuza.

47. (Abantu bazaba baheze kuri A'arafu) niberekeza amaso yabo ku bantu bazaba bari mu muriro, bazavuga bati "Nyagasani wacu! Ntudushyire hamwe n'abanyabyaha."

48. Abazaba baheze A'arafu, bazahamagara abantu (bari mu muriro) bazabamenya kubera ibimenyetso bizaba bibaranga, bababwire bati "Ukwishyira hamwe kwanyu, ugukusanya imitungo kwanyu n'ubwibone bwanyu ntacyo byabamariye."

49. (Abazaba baheze A'arafu bazabwira abo mu muriro bati) "Ese bariya (bari mu Ijuru) si bo mwarahiraga muvuga ko Allah atazabagirira impuhwe (ngo abahe Ijuru)? (Maze Allah abwire abaheze A'arafu ati), "ngaho nimwinjire mu Ijuru, nta bwoba nta n'agahinda muzagira."

50. Abazaba bari mu muriro bazahamagara abazaba bari mu Ijuru, bababwire bati "Nimudusukeho amazi cyangwa muduhe ku mafunguro Allah yabafunguriye." (Abo mu ijuru) bavuge bati "Mu by'ukuri ibyo byombi Allah yabiziririje abahakanyi."

\*وَإِذَا صِرَفْتَ أَبْصَرُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مِعَ الظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾

وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رَجَالًا يَعْرِفُهُمْ بِسِيمَهُمْ

قَالُوا مَا آتَيْنَاكُمْ جَمْعًا كُوْنُوكُومَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٨﴾

أَهْؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَاهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ

أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خُوفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزُنُونَ

وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنَّ أَفِيزُوا عَيْنَانِ

مِنْ أَمْلَأِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ

حَرَمَهُمْ مَا عَلَى الْكُفَّارِينَ ﴿٤٩﴾

51. Ba bandi bagize idini ryabo ikidafite umumaro, bakarihindura umukino ndetse bakanashukwa n'ubuzima bw'isi, uyu munsi (w'imperuka) turabirengagiza nk'uko biyibagije kuzahura n'uyu munsi wabo, no kuba barahinyuraga ibimenyetso byacu.

52. Rwose (abahakanyi) twabazaniye igitabo (Qur'an) twasobanuranye ubuhanga, kikaba umuyoboro n'impuhwe ku bantu bemera.

53. Ese hari ikindi bategereje uretse icyo basezeranyijwe (ibihano) muri yo (Qur'an), kizaba iherezo ryabo? Umunsi isezerano ryabo ryasohoye, abawiyibagije mbere bazavuga batii "Rwose Intumwa za Nyagasani wacu zazanye ukuri! Ese twagira abavugizi ngo batuvuganire, cyangwa ngo dusubizwe (ku isi) kugira ngo dukore ibikorwa byiza bitari ibikorwa (bibi) twakoraga?" Rwose barihombuje, kandi ibyo bihimbiye (biringira ko bizabakorera ubuvugizi kwa **Allah** ku munsi w'imperuka) byabatengushye!

54. Mu by'ukuri Nyagasani wanyu ni **Allah** waremye ibirere n'isi mu minsi itandatu, hanyuma aganza hejuru ya Ar'shi<sup>93</sup>. Atwikiriza ijoro

الَّذِينَ أَخْذُوا دِينَهُمْ لَهُوَا وَلَعِبًا وَغَرَّهُمْ  
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَإِلَيْهَا نَسَدُهُمْ كَمَا سُوِّلَتْ  
يَوْمَهُمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِيَاعِيَتِنَا  
يَجْحَدُونَ ٥١

وَلَقَدْ جَنَّهُمْ يَكْتَبُ فَصَلَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدَىٰ  
وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٥٢

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْتِيهِمْ يَوْمٌ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ وَيَقُولُ  
الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلٍ قَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ رَبِّنَا  
بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُونَا أَوْ نَرُدُّ  
فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا  
أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَقْتَرُونَ ٥٣

إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي  
سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُعْشِي الْأَيْلَكَ

<sup>93</sup>Ukuganza kwa **Allah** hejuru ya Ar'shi ni ukuganza kwihariye, kuberanye n'icyubahiro cye n'ubuhambare bwe, gutandukanye n'ukw'ibiremwa kandi kudasanishwa n'ukwabyo. Naho ijamo Ar'shi bisobanuye intebi y'icyubahiro y'ubwami bwa **Allah**, ifite abamalayika bayiteruye, ikaba imeze nk'umutemeri uri hejuru y'ibirere n'isi. Ar'shi ni cyo kiremwa kiruta ibindi byose mu

amanywa, (ijoro) rikayakurikira nta guhagarara; yanaremye izuba, ukwezi n'inyenyeri byubahiriza itegeko rye. Mu by'ukuri kurema no gutegeka ni ibye. **Allah** ni Nyirubutagatifu, Nyagasani w'ibiremwa byose.

55. Musabe Nyagasani wanyu mwibombaritse kandi mu ibanga. Mu by'ukuri ntakunda abarengera (amategeko ye).

56. Kandi ntimugakore ubwangizi ku isi nyuma y'uko itunganyijwe. Ndetse mujye mumusaba (**Allah**) mutinya (ibihano bye) kandi mwizera (ingororano ze). Mu by'ukuri impuhwe za **Allah** ziri hafi y'abakora ibyiza.

57. Ni We wohereza imiyaga nk'ikimenyetso gitanga inkuru nziza, kibanziriza impuhwe ze (imvura), kugeza ubwo (ijo miyaga) ijyanye ibicu biremereye tukabyerekeza ahantu hakakaye, nuko tugatuma bitanga amazi (imvura) maze tukayeresha ibimera byose. Uko ni ko tuzazura abapfuye kugira ngo mwibuke.

58. Imbuto zo mu butaka bwiza zimera mu buryo bworoshye ku bw'uburenganzira bwa Nyagasani wabwo. Naho izo mu butaka bubi zimera bigoranye. Uko ni ko tugenda dusobanura ibimenyetso ku bantu bashimira.

bunini kandi ni na cyo kiremwa kiri hejuru y'ibindi biremwa byose kuko iteretse hejuru y'ijuru rya karindwi. Bityo **Allah** ayiganjeho kandi ni We uri hejuru y'ibintu byose.

النَّهَارَ يَطْلُبُهُ وَحَيْثَا وَالشَّمَسَ وَالْقَمَرَ  
وَالنُّجُومَ مُسَحَّرَتٍ بِإِمْرَةٍ لَا لَهُ أَخْلَقٌ  
وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

أَدْعُوكَ رَبَّكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ  
الْمُعْتَدِيَنَ ٦٦

وَلَا نُقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَأَدْعُوهُ  
خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ  
الْمُحْسِنِينَ ٦٧

وَهُوَ الَّذِي يُرِسِّلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيِّ  
رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَفْلَتَ سَحَابًا ثِقَالًا سَقَنَهُ لِبَلَدٍ  
مَيِّتٍ فَانْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ  
الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمُوْتَى لَعَلَّكُمْ  
تَذَكَّرُونَ ٦٨

وَالْبَلَدُ الْطَّيِّبُ يَخْرُجُ بَأَنْتُهُ وَيَادِنَ رَبِّهِ وَالَّذِي  
خَبَثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصْرِفُ  
الْأَيَّاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ٦٩

59. Rwose twohereje Nuhu ku bantu be, maze arababwira ati “Yemwe bantu banjye! Nimugaragire **Allah**. Nta yindi mana mufite itari We (**Allah**). Mu by'ukuri ndatinya ko mwazahura n'ibihano byo ku munsi uhambaye.”

60. Ibikomerezwa byo mu bantu be baravuze bati “Mu by'ukuri turabona uri mu buyobe bugaragara.”

61. Arababwira ati “Yemwe bantu banjye! Ntabwo ndi mu buyobe, ahubwo ndi Intumwa yoherejwe na Nyagasan w'ibiremwa byose.”

62. Mbagezaho ubutumwa bwa Nyagasan wanjye nkanabagira inama z'ukuri. Kandi nzi kuri **Allah** ibyo mutazi.

63. Ese mutangazwa n'uko mwagezwaho n'urwibutso ruturutse kwa Nyagasan wanyu, runyujijwe ku muntu ubakomokamo, kugira ngo ababurire no kugira ngo mugandukire (**Allah**), bityo muzagirirwe impuhwe?

64. Ariko baramuhinyuye, maze turamurokora, we n'abari kumwe na we mu nkuge, nuko turoha abahinyuye ibimenyetso byacu. Mu by'ukuri bari abantu bahumye (batabona ukuri).

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَقُولُونَ أَعْبُدُوا  
اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٌ غَيْرُهُ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ  
عَذَابٌ يَوْمَ عَظِيمٍ ﴿٥٩﴾

قَالَ الْمَلَائِكَةُ إِنَّا لَرَبَّكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٦٠﴾

قَالَ يَقُولُونَ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٍ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ  
رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦١﴾

أَبِغُوكُمْ رَسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ  
مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٢﴾

أَوْبَحَبُّهُمْ أَنْ جَاءَهُ كُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى  
رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَهُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ  
تُرَحَّمُونَ ﴿٦٣﴾

فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَفِي الْفُلُكِ وَأَنْجَقَنَا  
الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَيْنِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا  
عَمِينَ ﴿٦٤﴾

65. N'abantu bo mu bwoko bwa Adi<sup>94</sup>, twabohereje umuvandimwe wabo Hudu. Yarababwiye ati "Yemwe bantu banjye! Nimugaragire **Allah**. Nta yindi mana mufite itari We (**Allah**). Ese ubwo ntimumtinya (ibihano bye)?"

66. Ibikomerezwa byo mu bantu be bahakanye (**Allah**), baravuze bati "Mu by'ukuri turakubonamo ubwenge bucye kandi rwose turabona uri umwe mu banyabinyoma."

67. Arababwira ati "Yemwe bantu banjye! Nta bucucu mfite, ahubwo ndi Intumwa yoherejwe na Nyagasani w'ibiremwa byose."

68. Mbagezaho ubutumwa bwa Nyagasani wanjye, kandi ndi umujyanama wanyu w'umwizerwa.

69. Ese mutangazwa n'uko mwagezweho n'urwibutso ruturutse kwa Nyagasani wanyu, runyujijwe ku muntu ubakomokamo, kugira ngo ababuire? Munibuke ubwo yabagiraga abasigire nyuma y'abantu ba Nuhu, akanabongerera ibigango mu miterere yanyu. Ngaho nimwibuke inema za **Allah** kugira ngo muzakiranuke.

وَإِلَيْهِ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَقُولُونَ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا كَمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَإِنَّا لَتَسْتَقْوِنَ ٦٥

قَالَ الْمَلَائِكَةُ كَفَرُوا مِنْ قَوْمَهُ إِنَّا لَنَرَأَكُمْ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكُمْ مِنَ الْكَذَّابِينَ ٦٦

٦٦

قَالَ يَقُولُونَ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٦٧

أَبِلِغُوكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنَّا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ٦٨

أَوْجَبْتُمُ أَنْ جَاءَكُمْ ذَكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلْفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ نُوحٍ وَزَادُوكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصَطَةً فَادْكُرُوا إِلَهَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٦٩

٦٩

<sup>94</sup> Adi ni ubwoko bwari butuye Ah'qaf. Ubu ni hagati y'ighugu cya Saudi Arabia, Oman ndetsena Yemen.

70. (Abantu bo mu bwoko bwa Adi) baravuga bati “Ese uzanywe no kutubwiriza kugaragira Allah wenyine, tukareka ibyo abakurambere bacu basengaga? Ngaho tuzanire ibyo udukangisha (ibihano) niba koko uri mu banyakuri.”

71. (Hudu) arababwira ati “Ibihano n'uburakari biturutse kwa Nyagasani wanyu byamaze kubageraho. Ese murangisha impaka ku mazina mwiyitiye (ibigirwamana byanyu), mwe n'abakurambere banyu Allah atarigeze abibemerera? Ngaho nimutegereze, mu by'ukuri ndi kumwe namwe mu bategereje.”

72. Nuko turamurokora we n'abari kumwe na we ku bw'impuhwe ziduturutseho, tunarimbura abahinyuye ibimenyetso byacu, kandi ntabwo bari abemeramana.

73. N'abantu bo mu bwoko bwa Thamudu twaboherereje umuvandimwe wabo Swalehe, arababwira ati “Yemwe bantu banje! Nimugaragire Allah. Nta yindi mana mufite itari We. Mu by'ukuri mwagezweho n'ikimenyetso giturutse kwa Nyagasani wanyu (kigaragaza ukuri kw'ibyo mvuga). Iyi ngamiya ya Allah ni ikimenyetso kuri mwe; ngaho nimuyireke irishe ku isi ya Allah, kandi ntimuzayigirire nabi kugira ngo mutazagerwaho n'ibihano bibabaza.”

قَالُوا إِحْيَتَنَا إِنْعَبْدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ  
يَعْبُدُهُ أَبْشِرُونَا فَلَمَّا بِمَا تَعْدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ

الصَّادِقِينَ ﴿٧﴾

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ  
وَغَضَبٌ أَتَحْكِدُ لُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُهُوَهَا  
أَنْتُمْ وَإِبْرَاهِيمَ كُمَّ مَانَزَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَنٍ  
فَأَنْتَنَرِرُ وَإِلَيْيِ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظَرِينَ ﴿٧٦﴾

فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُو بِرَحْمَةِ مِنَّا  
وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايَتِنَا وَمَا  
كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾

وَإِلَى شَمُودِ أَخَاهُمْ صَلَحَّا قَالَ يَقُولُ  
أَعْبُدُهُو اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٌ غَيْرُهُ وَقَدْ  
جَاءَتْكُمْ بَيْنَهُ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ  
لَكُمْ أَيَّاهُ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ  
وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَإِنَّهُنَّ كُمْ عَذَابٍ  
الْآيَمُ ﴿٧٨﴾

74. Munibuke ubwo yabagiraga abasigire nyuma y'abantu bo mu bwoko bwa Adi, akababeshaho neza ku isi, mukubaka ingoro zanyu mu bibaya, mukanahanga amazu mu misozi. Bityo, nimwibuke inema za **Allah** (yabahundagajeho) kandi ntimugakwize ubwangizi ku isi.

75. Ibikomerezwa by'abibone mu bantu be (Intumwa Swalehe), byabwiye abemeramana muri byo bari abanyantege nke biti "Ese muzi ko Swalehe yoherejwe na Nyagasani we?" (Abemeramana) baravuga bat "Mu by'ukuri twe twemera ubutumwa yahawé."

76. Ba bandi b'abibone baravuga bat "Mu by'ukuri ibyo mwemeye twe turabihakana."

77. Nuko ya ngamiya barayica, baba bigometse ku itegeko rya Nyagasani wabo, maze baravuga bat "Yewe Swalehe! Ngaho tuzanire ibyo udukangisha (ibihano) niba koko uri umwe mu ntumwa (za **Allah**)."

78. Ubwo baba batewe n'umutingito, maze bahinduka imirambo bapfukamyé mu mazu yabo.

وَآذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ  
وَبَوَّأْتُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَحَذَّرُونَ مِنْ سُهُولِهَا  
فُصُورًا وَتَحِنْتُونَ الْجِبَالَ بِيُوتَهَا فَذَكِّرُوا  
إِلَاهَ اللَّهُ وَلَا تَعْثُوْ فِي الْأَرْضِ  
مُفْسِدِينَ ﴿٧٤﴾

قَالَ الْمَلَائِكَةُ أَسْتَكِبُرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ  
أَسْتُضْعِفُوا لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ  
صَدِيقًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا  
أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٧٥﴾

قَالَ الَّذِينَ أَسْتَكِبُرُوا إِنَّا بِالَّذِي  
ءَامَنَتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٧٦﴾

فَعَقَرُوا الْنَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا  
يَصْلِحُ أُنْثِنَا بِمَا تَعْدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنْ  
أُمُّ الرَّسُلِينَ ﴿٧٧﴾

فَلَخَدَّتُهُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ  
جَثِيمِينَ ﴿٧٨﴾

79. Nuko (Swalehe) arahindukira abatera umugongo, maze aravuga ati “Yemwe bantu banjye! Rwose nabagejejeho ubutumwa bwa Nyagasani wanjye, mbagira n'inama ariko ntimukunda ababagira inama.”

80. Unibuke (yewe Muhamadi) ubwo Loti yabwiraga abantu be ati “Ese murakora ibikozasoni bitigeze bikorwa na kimwe mu biremwa byabayeho mbere yanyu?”

81. Mu by'ukuri mwe murarikira gukorana imibonano n'abagabo bagenzi banyu musize abagore! Ahubwo muri abantu barengera (amategeko ya Allah).

82. Nta kindi gisubizo abantu be bamuhaye, uretse kuvuga batu “Nimibirukane (Loti n'abamwemeye) mu mudugudu wanyu, kuko mu by'ukuri ari abantu bigira abere.”

83. Nuko turamurokora we n'umuryango we, usibye umugore we wabaye mu barimbuwe.

84. Maze tubagushaho imvura (y'amabuye). Ngaho irebere uko iherezo ry'inkozi z'ibibi ryagenze.

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَقُولُمْ لَقَدْ أَبْغَتُكُمْ  
رِسَالَةَ رَبِّيْ وَنَصَحَّتْ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تَخْبُونَ  
الْتَّصِيحَيْنَ ٧٩

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَحْشَةَ مَا  
سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ٨٠

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُورِ  
النِّسَاءِ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ٨١

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا  
أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرِيَّتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ  
يَتَظَاهِرُونَ ٨٢

فَأَنْجَيْنَاهُ وَهَلْهُ وَإِلَّا أُمَرَاتُهُ وَكَانَتْ مِنَ  
الْغَارِبِينَ ٨٣

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ  
عَلِيقَةُ الْمُجْرِمِينَ ٨٤

85. N'abantu b'i Madiyani<sup>95</sup>, twaboherereje umuvandimwe wabo Shuwayibu, arababwira ati "Yemwe bantu banjye! Nimusenge Allah kuko nta yindi mana mufite itari We (Allah). Mu by'ukuri mwagezweho n'ikimenyetso giturutse kwa Nyagasanji wanyu (kigaragaza ukuri kw'ibyo mvuga). Bityo, nimwuzuze ibipimo n'iminzani, kandi ntimugahuguze abantu mugabanya ku byabo, ndetse ntimugakore ubwangizi ku isi nyuma y'uko itunganyijwe. Ibyo ni byo byiza kuri mwe, niba koko muri abemeramana."

86. "Kandi ntimukabambire buri nzira mutera ubwoba (abantu mugamije kubambura ibyabo) munabuza kugana inzira ya Allah ba bandi bayemeye, mwifusa ko yagorama. Munibuke ubwo mwari mbarwa maze (Allah) akabagira benshi. Ngaho nimurebe uko iherezo ry'abangizi ryagenze."

87. "Kandi niba hari itsinda muri mwe ryemeye ubutumwa nahawe, hakaba n'irindi ritabwemera, nimutegereze kugeza ubwo Allah azadukiranura, kuko ari We mukiranuzi mwiza."

وَإِلَى مَدِينَةِ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَقُومُ  
أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ  
جَاءَتْكُمْ بَيْنَتُهُ مِنْ رَّيْكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ  
وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ  
أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ  
إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  
مُؤْمِنِينَ

٨٥

وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ  
وَتَصْدُرُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ ءاْمَنَ بِهِ  
وَتَبْغُونَهَا عَوْجًا وَذَكْرًا إِذْ كُنْتُمْ قِيلَا  
فَكَثَرَكُمْ وَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  
الْمُفْسِدِينَ

٨٦

وَإِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِنْكُمْ ءَامَنُوا بِالَّذِي  
أَرْسَلْتُ بِهِ وَطَآئِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا  
حَقًا يَحْكُمُ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ  
الْحَاكِمِينَ

الْحَاكِمِينَ

<sup>95</sup>Madiyani ni izina ry'ahantu ryitiriwe ubwoko bwari butuye mu ishyamba ry'inzitane mu nzira z'ahitwa Hijazi ho mu gihugu cya Arabiya Sawudite.

88. Ibikomerezwa by'abibone mu bantu be, biravuga biti "Yewe Shuwayibu! Rwose tuzakwirukana mu mudugudu wacu wowe n'abemeye hamwe nawe, cyangwa mugaruke mu idini ryacu." Aravuga ati "Ese n'ubwo twaba tutabishaka (mwabiduhatira)?"

89. "Mu by'ukuri turamutse dusubiye mu idini ryanyu twaba duhimbiye Allah ikinyoma nyuma y'uko Allah yariturokoye (kurisubiramo). Nta n'ubwo dukwiye kurisubiramo keretse Allah, Nyagasanii wacu abishatse. Nyagasanii wacu Azi buri kintu cyose. Allah wenyine ni We twiringira. Nyagasanii wacu! Dukiranure n'abantu bacu mu kuri, kuko ari wowe mucamanza mwiza."

90. Ibikomerezwa byahakanye mu bantu be (bibuza abantu gukurikira Shuwayibu) biravuga biti "Nimuramuka mukurikiye Shuwayibu, rwose muzaba muhombye."

91. Nuko ubwo baba batewe n'umutingito, maze bahinduka imirambo bapfukamye mu mazu yabo.

92. Ba bandi bahinyuye Shuwayibu babaye nk'aho batigeze baba aho bari batuye (kuko barimbuwe bose). Ba bandi bahinyuye Shuwayibu ni bo babaye abanyagihombo.

\* قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ أَسْتَكَبُرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُحْجِنَّكَ  
يَسْعِيبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِنْ قَوْمِنَا أَوْ  
لَنَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوْلَوْ كَانَ كَرِهِينَ ﴿٨٨﴾

قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذَبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ  
بَحَثَنَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ  
يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسَعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ  
تُوَكِّلُنَا رَبُّنَا أَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ  
الْفَقِيرِينَ ﴿٨٩﴾

وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِئِنْ أَتَّبَعْتُمْ  
شُعُبِيًّا إِنَّكُمْ إِذَا لَخَسِرُونَ ﴿٩٠﴾

فَأَخَذَنَّهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوْ فِي دَارِهِمْ جَاهِشِينَ  
الَّذِينَ كَذَبُوا شُعُبِيًّا كَانُوا مُلْحَسِّنِينَ ﴿٩١﴾

93. Nuko (Shuwayibu) arahindukira abatera umugongo aravuga ati "Yemwe bantu banjye! Rwose nabagejejeho ubutumwa bwa Nyagasan iwanjye mbagira n'nama. None se ni gute naterwa agahinda (no kurimbuka) kw'abantu b'abahakanyi?"

94. Kandi ntabwo twohereza umuhanuzi mu mudugudu uwo ari wo wose (ngo ahinyurwe), maze ngo tubure guhanisha abawutuye ibizazane no guhagarika umutima n'indwara z'ibyorezo kugira ngo bicishe bugufi (banicuze kuri Allah).

95. Nuko imibereho mibi yabo tuyihindura myiza, kugeza ubwo biyongereye baranakungahara, maze baravuga bati "(Ibi ni na ko byagendaga kuva kera kuko) abakurambere bacu bagerwagaho n'ibizazane ndetse n'ibyiza (bidatewe no guhakana)." Nuko tubagwa gitumo (tubahana) batabizi.

96. Kandi n'yo abatuye imidugudu baza kwemera bakanatinya (Allah), mu by'ukuri twari kubafungurira imigisha iturutse mu kirere no mu isi, ariko barahakanye; nuko tubahanira ibyo bakoraga.

97. Ese abatuye imidugudu bibwira ko batekanye, ko nta gihano cyacu cyabageraho njoro baryamye?

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَقُولُمْ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ  
رِسَالَتِ رَبِّي وَنَصَّحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ إِنَّمَا  
عَلَىٰ قَوْمٍ كَفَرُينَ ﴿٤٦﴾

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخْذَنَا أَهْلَهَا  
بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَرَّعُونَ

ثُمَّبَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوْا  
وَقَالُوا قَدْ مَسَّ إِبَاءَنَا الْضَّرَاءُ وَالسَّرَّاءُ  
فَأَخْذَنَاهُمْ بَعْتَدَةً وَهُمْ لَا يَسْعُونَ ﴿٩٥﴾

وَلَوْاَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ إِمَّا مُؤْمِنُوا وَإِمَّا قَوْلَفَتَحَنَّا عَلَيْهِمْ  
بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلِكِنْ كَذَبُوا  
فَأَخْذَنَاهُمْ بِمَا كَلُّوا يَكُسْبُونَ ﴿٩٦﴾

إِنَّمَّا أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنَّ يَأْتِيهِمْ بِأَسْنَانَ يَبَيَّنَّا  
وَهُمْ نَاجِمُونَ ﴿٩٧﴾

98. Cyangwa abatuye imidugudu bibwira ko batekanye, ko nta gihano cyacu cyabageraho ku gasusuruko bahugiye mu kwishimisha (mu by'isi)?

أَوَّمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بِآمْسَنَا  
صَحِحَّ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩٨﴾

99. Ese bibwira ko batekanye, badashobora kugerwaho n'ibihano bya Allah? Nta bantu bakwibwira ko badashobora kugerwaho n'ibihano bya Allah uretse abanyagihombo.

إِنَّمَا مَنْ كَرَّ اللَّهَ فَلَا يَأْمُنُ مَكَرَ اللَّهِ إِلَّا  
الْقَوْمُ الْخَسِرُونَ ﴿٩٩﴾

100. Ese ba bandi bazunguye ubutaka nyuma y'uko bene bwo (barimbewe), ntibabona ko iyo tuza kubishaka twari kubahanira ibyaha byabo (nk'uko twabigenje ku bababanjirije), tukanadanangira imitima yabo maze ntibabashe kumva?

أَوَّلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ  
أَهْلِهَا أَنَّ لَوْلَا شَاءَ اللَّهُ أَصَبَّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ  
وَنَظَّمَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾

101. Iyo yari imidugudu tukubarira zimwe mu nkuru zayo (yewe Muhamadi). Mu by'ukuri Intumwa zabo zabazaniye ibimenyetso bigaragara ariko ntibashobora kwemera ibyo bahakanye mbere. Uko ni ko Allah adanangira imitima y'abahakanyi.

تِلْكَ الْقُرَىٰ نَفَصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَبْنَائِهَا وَلَقَدْ  
جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا  
لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَانُوا مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ يَطْبَعُ  
اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكُفَّارِ ﴿١٠١﴾

102. Kandi abenshi muri bo twasanze ari abantu batubahiriza amasezerano; ahubwo twasanze abenshi muri bo ari inkozi z'ibibi.

وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا  
أَكْثَرَهُمْ لَفَسِيقِينَ ﴿١٠٢﴾

103. Nuko nyuma (y'izo ntumwa) twohereza Musa kwa Farawo n'abantu be, tunamuha ibitangaza byacu (azifashisha), maze barabihakana. Ngaho irebere uko iherezo ry'abangizi ryagenze!

104. Nuko Musa aravuga ati “Yewe Farawo! Mu by'ukuri njye ndi Intumwa yoherejwe na Nyagasan wibiremwa byose.”

105. “Birakwiye ko ntacyo navuga kuri Allah kitari ukuri. Rwose mbazaniye ibitangaza bigaragara biturutse kwa Nyagasan wanyu. Bityo rekura bene Isiraheli tujyane.”

106. (Farawo) aramubwira ati “Niba hari igitangaza uzanye, ngaho kigaragaze niba koko uri mu banyakakuri.”

107. Nuko (Musa) anaga inkoni ye hasi, ihita ihinduka inzoka (nini) igaragara.

108. Anasohora ukuboko kwe (mu kwaha) guhita kwererana ku bari aho babibona.

109. Ibikomerezwa byo mu bantu ba Farawo biravuga biti “Mu by'ukuri uyu ni umurozi w'umuuhanga”,

110. “Arashaka kubakura mu gihugu cyanyu.” (Farawo arababaza ati) “Ese mwangira iyihe nama?”

شُرُبَعْثَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ يَأْتِيَنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ  
وَمَلَائِكَتِهِ فَظَاهَرُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ  
عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ

وَقَالَ مُوسَىٰ يَأْفِرُ فَرَعَوْنَ إِنِّي رَسُولُ مَنْ رَبِّي  
الْعَالَمِينَ

حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَىٰ اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ قَدْ  
جَعَلْتُكُمْ بَيْنَتَهُ مِنْ رَبِّكُمْ فَارْسِلْ مَعِيَ بَنِي  
إِسْرَائِيلَ

قَالَ إِنِّي كُنْتَ جِئْتَ بِيَايَةً فَأَتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ  
مِنَ الصَّادِقِينَ

فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ

وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلتَّنَظِيرِ

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْهُ فَرَعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ  
عَلِيمٌ

يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ

111. Baramubwira bati “Ba umwihereye (ntumwice) we n’umuvandimwe we [Haruna (Aroni)], maze wohereze (ingabo) mu mijyi yose zikoranye (abarozi).”

112. Bazakuzanire buri murozi wese w’umuhanga.

113. Nuko abarozi baza kwa Farawo, baramubwira bati “Ese koko turahabwa igihembo nituramuka dutsinze?”

114. (Farawo) aravuga ati “Ni byo (muzagororerwa), kandi muzaba bamwe mu byegera (byanjye).”

115. Baravuga bati “Yewe Musa! urahitamo kubanza kunaga (inkoni yawe), cyangwa abe ari twe tubanza kunaga?”

116. (Musa) aravuga ati “Mwe nimunage.” Nuko banaze, barindagiza amaso y’abantu banabakura imitima, bagaragaza uburozi buhambaye.

117. Maze duhishurira Musa tumubwira tuti “Naga inkoni yawe!” (Ayinaze ihinduka inzoka nini) ihita imiragura ibyo bari bamaze guhimba (ibirozi).

118. Nuko ukuri kurigaragaza, maze ibyo bakozebihinduka imfabusa.

119. Nuko batsindirwa aho, maze barasuzugurika.

قَالُواْ أَرْجِهْ وَلَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَّاِنِ حَشِيرِينَ

١١١

يَا تُوكِ بِكُلِّ سَحْرٍ عَلَيْهِ

وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُواْ إِنَّ لَنَا لَأْجَرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَلِيلِينَ

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُفَرَّيِينَ

١١٤

قَالُوا يَمْوَسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِنَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلَقِّيْنَ

١١٥

قَالَ الْقُوَّا فَلَمَّا أَقْرَأُوا سَحْرُوا أَعْيَنَ النَّاسَ وَأَسْتَرَهُمْ وَجَاءَهُمْ سَحْرٌ عَظِيمٌ

١١٦

\*وَأَوْحَيْنَا إِلَيْ مُوسَى أَنَّ أَقِ عَصَاكِ فَإِذَا هِيَ تَقْفُ مَا يَأْفِكُونَ

١١٧

فَوَقَعَ الْحُقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

١١٨

فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَأَنْقَلُوا أَصْغَرِينَ

١١٩

120. Maze abarozi bikubita hasi bubamye.

وَالْقَىٰ السَّحَرَةُ سَيِّدِينَ ﴿١٢٠﴾

121. Baravuga bati “Twemeye Nyagasan ni w'ibiremwa byose.”

قَالُوا إِمَّا بَرِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢١﴾

122. “Nyagasan wa Musa na Haruna (Aroni).”

رَبِّ مُوسَىٰ وَهَرُونَ ﴿١٢٢﴾

123. Farawo aravuga ati “Ni gute mumwemeye mbere y'uko mbibahera uburenganzira? Mu by'ukuri uyu ni umugambi mwacuriye mu mujyi kugira ngo muwirukanemo abawutuye, ariko muraza kumenya (icyo nza kubakorera)!”

قَالَ فِرْعَوْنُ إِنَّمَا نَعْمَلُ بِمَا قَبْلَ أَنْ نَأْذَنَ لَكُمْ  
إِنَّ هَذَا الْمَكْرُ مَكْرُ ثُمُودَ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا  
مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿١٢٣﴾

124. Rwose ndaza kubaca amaboko n'amaguru byanyu imbusane, maze mbabambe mwese.

لَا قَطَعَنَّ أَيْدِيْكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خَلْفٍ ثُمَّ  
لَا صِبَّنَّ أَجْمَعِينَ ﴿١٢٤﴾

125. Baravuga bati “Mu by'ukuri tuzasubira kwa Nyagasan ni wacu.”

قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿١٢٥﴾

126. “Kandi nta kindi uduhora uretse kuba twemeye ibitangaza bya Nyagasan ni wacu ubwo byatugeragaho. Nyagasan ni wacu! Duhe kwihangana kandi uduhe gupfa turi Abayisilamu.”

وَمَا تَنْقُمُ مِنَ إِلَّا أَنْ إِمَّا يَأْكِتِ رَبِّنَا لَمَّا  
جَاءَنَا بَنَانَا أَفْيَ عَلَيْنَا صَبَرَأَوْ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿١٢٦﴾

127. Nuko ibikomerezwa byo mu bantu ba Farawo biravuga biti “Ese urareka Musa n'abantu be ngo bakore ubwononnyi ku isi, banakureke wowe n'imana zawe? (Farawo) aravuga ati “Turica abana babo b'abahungu maze tureke ab'abakobwa, kandi rwose tubarusha imbaraga.”

وَقَالَ الْمَلَائِكَةُ مِنْ قَوْمٍ فِرْعَوْنَ أَتَزَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمُهُ  
لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذْرَكُ وَهَلْهَكَ قَالَ  
سُنْقِتِلُ أَبْنَاءَهُمْ وَسَتَحِيَّهُ نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا  
فَوَّهُمْ قَهْرُونَ ﴿١٢٧﴾

128. Musa abwira abantu be ati “Mwiyambaze Allah kandi mwihangane. Mu by'ukuri isi ni iya Allah; ayiraga uwo ashaka mu bagaragu be. Kandi iherezo ryiza ni iry'abagandukira (Allah).”

129. Baravuga bati “Twe (bene Isiraheli) twatotejwe mbere na nyuma y'uko utugeraho.” Arababwira ati “Nyagasani wanyu azoreka umwanzi wanyu, abagire abazungura ku isi kugira ngo arebe uko muzitwara.”

130. Mu by'ukuri twahanishije abantu ba Farawo amapfa no kurumbya imyaka, kugira ngo bisubireho.

131. Iyo icyiza cyabageragaho baravugaga bati “Iki ni icyacu”, naho ikibi cyabageraho bakacyitirira Musa n'abari kumwe na we. Nyamara ikibi kibageraho, mu by'ukuri kiba ari igeno rya Allah, ariko abenshi muri bo ntibabizi.

132. Babwira (Musa) bati “Igitangaza icyo ari cyo cyose watuzanira kugira ngo ukiturogeshe, ntabwo tuzigera tukwemera.”

قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ أَسْتَعِينُو بِاللَّهِ وَاصْرِفُوا  
إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١٧٣

قَالُوا أُوذِنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا  
جَهَنَّمَ أَقَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهَلِّكَ عَدُوَّكُمْ  
وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرْ كَيْفَ  
تَعْمَلُونَ ١٧٩

وَلَقَدْ أَخْذَنَا إِلَّا فِرْعَوْنَ بِالسِّينَ وَنَقَصَ  
مِنَ الشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ١٣٠

فَإِذَا جَاءَهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ  
تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَظْلِمُونَ مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ  
أَلَا إِنَّمَا طَلَبُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا كَنَّ  
أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٣١

وَقَالُوا مَهِمَا أَتَتْنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لَسْتَ حَرَنَا بِهَا فَمَا  
نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ١٣٢

133. Nuko tubateza umwuzure, inzige, inda, ibikeri n'amaraso (imigezi n'amariba byabobihinduka amaraso, ibyo biba nk'uruhererekane) rw'ibimenyetso bisobanutse; ariko bakomeje kwigomeka, kandi bari abantu b'inkozi z'ibibi.

134. Nuko ibihano bibaguyeho, baravuga bat "Yewe Musa! Dusabire Nyagasan wawe ku bw'ibyo yagusezeranyije. Nuramuka udukuriyeho ibihano, rwose tuzakwemera tunarekure bene Isiraheli bagukurikire."

135. Ariko ubwo twabakuriragaho ibihano kugeza ku gihe bagombaga kugeraho (bagahanwa), baba bishe amasezerano (basezeranyije Allah na Musa).

136. Nuko turabahana; tubaroha mu nyanja kubera ko bahinyuye ibitangaza byacu kandi bakaba barabyirengagije.

137. Nuko abantu bafatwaga nk'abanyantege nke (bene Isiraheli) tubagira abazungura mu bice by'iburasirazuba bw'isi n'iburengerazuba bwayo twahaye imigisha. Nuko ijambo rya Nyagasan wawe ryiza risohorera kuri bene Isiraheli, kubera ukwihangana kwabo. Maze turimbura ibyo Farawo n'abantu be bakoraga ndetse n'ibyo bubakaga.

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الْطُوقَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ  
وَالضَّفَادَعَ وَالَّدَمَ ءَاءِيَتِ مُفَصَّلَتِ  
فَاسْتَكَبَرُوا وَأَوْكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿٢٣﴾

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الْرِّجْزُ قَالُوا يَمُوسَى ادْعُ لَنَا  
رَبِّكَ بِمَا عِهْدَهُ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا  
الْرِّجْزَ لَتُؤْمِنَ لَكَ وَلَتُنْسِلَ مَعَكَ بَنِي

إِسْرَائِيلَ ﴿٢٤﴾

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ  
بَلِّغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿٢٥﴾

فَأَنْتَقْمَنَا إِنْهُمْ فَاغْرَقُوهُمْ فِي الْيَمِّ يَأْنَهُمْ كَذَّبُوا  
بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهُمْ أَغْفِلِينَ ﴿٢٦﴾

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ  
مَشِيرَقَ الْأَرْضِ وَمَغَرِبَهَا الَّتِي بَرَكَنَا فِيهَا  
وَتَمَّتْ كِلْمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ  
بِمَا صَبَرُوا وَدَمَرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ

وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿٢٧﴾

138. Nuko twambutsa inyanja bene Isiraheli (batekanye), maze bagera ku bantu bari barabaye imbata zo kugaragira ibigirwamana byabo. Baravuga bati “Yewe Musa! Dushyirireho imana nk’uko na bo bafite imana zabo. Aravuga ati “Mu by’ukuri mwe muri abantu b’injiji!”

139. (Musa yongeraho ati) “Mu by’ukuri aba bantu bazorekwa kubera ibyo barimo (kugaragira ibigirwamana), kandi ibyo bakora byose ni imfabusa.”

140. Aravuga ati “Ese nabashyiriraho indi mana itari **Allah**, kandi ari We wabarutishije ibindi biremwa byose (byo mu gihe cyanyu)?”

141. Munibuke ubwo twabarokoraga tubakiza abantu bo kwa Farawo babakoreraga ubugome ndengakamere; bica abana banyu b’abahungu bakareka ab’abakobwa. Kandi muri ibyo harimo ikigeragezo gihambaye gituruka kwa Nyagasani wanyu!

142. Nuko dusezeranya Musa amajoro mirongo itatu (yo kwiherera asenga no kumuhishurira Tawurati tuyongeraho andi icumi, maze isezerano rya Nyagasani we ryuzura mu majoro mirongo ine. Musa abwira umuvandimwe we Haruna ati “Nsigarira ku bantu banje, unakore ibitunganye (ubakangurira kubaha Imana

وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ  
يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَحْمُوسَى  
أَجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ إِلَهٌ قَالَ  
إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَاهَلُونَ

يَعْمَلُونَ

الْعَالَمَيْنَ

قَالَ أَغْيِرُ اللَّهُ أَغْيِكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَلَّكُمْ عَلَى

وَلَذِ أَنْجِيَتُكُمْ مِنْ أَهْلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُنَّكُمْ  
سُوءَ الْعَذَابِ يُقْتَلُونَ أَبْنَاءَكُمْ  
وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ  
مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ

\* وَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثَتَ لَيَلَةً وَاتَّمَمَنَاهَا  
يُعَشِّرُ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعَتَ لَيَلَةً وَقَالَ  
مُوسَى لِأَخِيهِ هَرُونَ أَخْلُقْنِي فِي قَوْمِي وَاصْلِحْ  
وَلَا تَتَّعَسْ سَيْلَ الْمُفْسِدِينَ

no kuyisenga yonyine) kandi ntuzakurikire inzira y'abangizi.”

143. Ubwo Musa yagereraga ku gihe (n'ahantu) twamusezeranyije, na Nyagasani we akamuvugisha (amuha ubutumwa n'amategeko), yaravuze ati “Nyagasani wanjye! Nyiyereka nkurebe.” (**Allah**) aramubwira ati “Ntushobora kumbona (ku isi); ahubwo reba uriya musozi, nubona (umusozi) ugumye hamwe, ubwo nanjye uraba wambona.” Nuko Nyagasani we yigaragarije umusozi urasatagurika (uhinduka igitaka), Musa agwa igihumure. Azanzamutse aravuga ati “Ubutagatifu ni ubwawe, nkwicujijeho kandi ni njye wa mbere mu bemera (ku gihe cyanje).”

144. (**Allah**) aravuga ati “Yewe Musa! Mu by'ukuri naragutoranyije nkurutisha abantu ku bw'ubutumwa bwanjye no kukuvugisha. Ngaho fata ukomeze ibyo naguhaye kandi ube mu bashimira.”

145. Maze (Musa) tumwandikira ibintu byose ku mbaho (Tawurati) ngo bibe inyigisho (ku bantu be) n'ibisobanuro bya buri kintu, (turamubwira tuti) ngaho “byakire ubikomeze kandi utegeke abantu bawe gukurikiza ibyiza byabyo. Nzabereka iherezo ry'ibygomeke.”

وَلَمَّا جَاءَهُ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَمَهُ وَرَبُّهُ وَقَالَ رَبِّ  
أَرَفْتَ أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَنِي وَلَكِنْ  
أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنْ أَسْتَقْرَمَكَاهُ وَفَسَوْفَ  
تَرَنِي فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ وَالْجَبَلُ جَعَلَهُ دَكَّاً وَحَرَّ  
مُوسَى صَعْفَّا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ  
إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤٣﴾

قَالَ يَمْوَسَى إِنِّي أَصْطَدِيْكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي  
وَبِكُلِّيْ فَخُذْ مَا أَتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنْ  
الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾

وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ  
مَوْعِظَةً وَنَقْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَحُذِّهَا بِقُوَّةٍ  
وَأَمْرٌ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأْوِرِيكُمْ دَارَ  
الْفَسِيقِينَ ﴿١٤٥﴾

146. Ba bandi bibona ku isi bidakwiye nzabakumira ku magambo yanje (ntibabashe kuyasobanukirwa), kandi n'ijo babona ibimenyetso byose ntibashobora kwemera. Ndetse n'ijo babona inzira igororotse ntibayiyoboka, nyamara babona inzira y'ubuyobe bakayiyoboka. Ibyo ni ukubera ko bahinyuye amagambo yacu bakanayirengagiza.

147. Na ba bandi bahinyuye amagambo yacu no kuzahura n'imperuka, ibikorwa byabo byabaye imfabusa. Ese hari ikindi bazahemberwa kitari ibyo bakoraga?

148. Nuko igihe Musa atari ahari, abantu be bibumbira ishusho ry'akamasa mu mitako yabo, gafite ijwi risa n'iryabira (bakagira ikigirwamana). Ese ntibabonaga ko katabavugisha ntikanabayobore inzira igororotse? Bakagize imana kandi bari inkozi z'ibibi.

149. Nuko ubwo bicuzaga (impamu basenze akamasa) bakanabona ko bayobye, baravuze batu "Nyagasani wacu natatugirira impuhwe ngo anatubarabarire, rwose tuzaba mu banyagihombo."

150. Nuko ubwo Musa yagarukaga mu bantu be arakaye afite n'agahinda, yaravuze ati "Ibyo mwasigaye mukora ntahari ni bibi! Ese mwashaka kwihutisha itegeko rya Nyagasani wanyu (musenga

سَأَصْرِفُ عَنْ إِيَّتِيِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ  
بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ إِيَّاهُ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا  
وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلًا رُشْدٌ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ  
يَرَوْا سَبِيلًا أَعْنَى يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ يَأْنَهُمْ  
كَذَّبُوا بِعَايَتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا

عَفِيلِينَ ﴿١٤٦﴾

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَتِنَا وَلِقَاءُ الْآخِرَةِ  
حِطَّتْ أَعْمَلُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا  
يَعْمَلُونَ ﴿١٤٧﴾

وَأَنْخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلَّتِهِ عَجَلًا  
جَسَدًا لَهُ خُوارٌ الَّتِي يَرَوْا أَنَّهُ وَلَا  
يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا أَنْتَخِذُوهُ  
وَكَانُوا ظَلِيمِينَ ﴿١٤٨﴾

وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأُوا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلَّوْا  
قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْنَا  
لَنَّ كُونَنَا مِنَ الْخَسِيرِينَ ﴿١٤٩﴾

وَلَمَّا رَاجَعَ مُوسَىٰ إِلَى قَوْمِهِ غَضِبَنَ أَسْفَاقَ الْإِسْمَامَا  
خَلَفُتُونِي مِنْ بَعْدِي أَعْجَلْتُمْ أَمْرَرِبِّكُمْ وَأَلَقَى  
الْأَلْوَاحَ وَأَخْذَرَ أَسْخِيَهِ بَجُورَهُ وَإِلَيْهِ قَالَ أَبْنَ أَمْ إِنَّ

ibyo atabategetse)? Maze ajugunya hasi za mbaho, afata umusatsi wo ku mutwe w'umuvandimwe we arawukurura amwiyegereza. Haruna aravuga ati "Mwana wa mama! Mu by'ukuri abantu baransuzuguye, bandusha intege, ndetse bari hafi yo kunyica. Bityo, ntutume abanzi bankina ku mubyimba, kandi ntunshyire mu bantu b'inkozi z'ibibi."

151. (Musa) aravuga ati "Nyagasanani wanjye! Mbabarira njye n'umuvandimwe wanjye, unatwinjize mu mpuhwe zawe, kuko ari Wowe Munyempuhwe uzirusha abandi."

152. Mu by'ukuri abagize akamasa ikigirwamana, bazagerwaho n'uburakari buturutse kwa Nyagasanani wabo ndetse no gusuzugurika mu buzima bwo ku isi. Uko ni ko duhemba abahimba (ibinyoma).

153. Ariko ba bandi bakoze ibyaha nuko nyuma yaho bakicuza, bakanemera; mu by'ukuri nyuma y'ibyo byose, Nyagasanani wawe ni Ubabarira ibyaha, Nyirimpuhwe.

154. Maze uburakari bwa Musa bumaze guceruruka, afata za mbaho zari zanditseho ubutumwa bwari umuyoboro n'impuhwe ku batinya Nyagasanani wabo.

الْقَوْمَ أُسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونِي فَلَا  
شُئْمَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ

الظَّاهِرِينَ

قَالَ رَبِّيْ أَغْفِرْ لِي وَلِأَخِيْ وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ

وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ١٥١

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيِّئَ الْهُمْ غَضَبٌ مِّنْ  
رَبِّهِمْ وَذَلِكَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ بَخْرِي  
الْمُفْتَرِّينَ ١٥٢

وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ شُرَمْ تَابُوا مِنْ  
بَعْدِهَا وَأَمْنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ

رَحِيمٌ ١٥٣

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخْدَأَ الْأَلْوَاحَ وَفِي  
نُسْخَتِهَا هُدَىٰ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ بَرَّهُونَ

١٥٤

155. Nuko Musa atoranya abagabo mirongo irindwi (b'itungane) mu bantu be (ajyana na bo ku musozi wa Sinayi) ku bw'isezerano ryacu (kugira ngo bicuze icyaha cyakozwe na bene wabo). Maze ubwo bari bafashwe n'umutingito, (Musa) aravuga ati "Nyagasani wanjye! Iyo uza kubishaka bo nanjye wari kutworeka mbere y'aha; ese uratworeka kubera ibyaha byakozwe n'abadasobanukiwe muri twe? Ibi byabaye nta kindi byari cyo uretse kuba ikigeragezo cyawe, ukoresha urekera mu buyobe uwo ushaka ukankiyoboresha uwo ushaka. Ni wowe Murinzi wacu, bityo tubabarire unatugirire impuhwe, kuko ari Wowe uehebuje mu kubabarira."

156. Unadushyirireho amategeko meza hano ku isi no ku munsi w'imperuka, rwose turakugarukiye tukwicuzaho. (Allah) aravuga ati "Ibihano byanje mbihanisha uwo nshaka kandi n'impuhwe zanje zigera ku biremwa byose. (Izo mpuhwe) Allah, nzazigenera abagandukira Allah, bakanatanga amaturo ndetse na ba bandi bemera ibimenyetso byacu."

157. Abakurikira Intumwa (Muhamadi) ikaba n'umuhanuzi utari uzi gusoma no kwandika, basanga yanditswe mu bitabo byabo bya Tawurati n'Ivanjili. (Iyo ntumwa) ibabwiriza gukora ibyiza ikanababuza gukora ibibi,

وَأَخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ وَسَبِعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا  
فَلَمَّا أَخْذَنَاهُ الرَّجْمَةَ قَالَ رَبِّي لَوْ شِئْتَ  
أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّمَا أَنْهَلْكَاهُمَا بِمَا فَعَلُوا  
السُّفَهَاءُ إِنَّمَا إِنْ هِيَ إِلَّا إِنْتَكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ  
تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيَّنَا فَأَعْغَرْنَا  
وَأَرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْعَفَّارِينَ ﴿١٥٥﴾

\* وَأَكَتَبْتَ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي  
الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَانِي أُصِيبُ  
بِهِ مَنْ أَشَاءَ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ  
فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَقَوَّلُونَ وَيُؤْتُونَ  
الرَّحْمَةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِعَايَتِنَا أَيُّؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾

الَّذِينَ يَتَّقِعُونَ عَلَى رَسُولِنَا الْأَمِينِ الَّذِي  
يَحْدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّورَةِ  
وَالْإِنْجِيلِ يَا أَمْرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَاهُمْ

ibazirurira ibyiza ikanabaziririza  
ibihumanye, ibatura imitwaro  
ikanababohora ingoyi  
(y'amategeko) bari bariho. Bityo  
ba bandi bamwemeye,  
bakamwuba,  
bakamushyigikira  
bakanakurikira urumuri  
yahishuriwe (Qur'an), abo ni bo  
bakiranutsi.

158. Vuga (yewe Muhamadi) uti  
“Yemwe bantu! Mu by'ukuri njye  
ndi Intumwa ya Allah yoherejwe  
kuri mwe mwese. (Allah) ni We  
ufite ubwami bw'ibirere n'isi.  
Nta yindi mana ibaho itari We, ni  
We utanga ubuzima akanatanga  
urupfu.” Bityo, nimwemere  
Allah n'Intumwa ye ikaba  
n'umuhanuzi utari uzi gusoma  
no kwandika, we wemera Allah  
akanemera amagambo ye, kandi  
munamukurikire kugira ngo  
mubashe kuyoboka.

159. No mu bantu ba Musa  
harimo itsinda riyobora (abantu)  
rikoreshsheje ukuri,  
rikanagukoresha mu butabera.

160. Nuko (Abisiraheli)  
tubagabanyamo amoko cumi  
n'abiri, tunahishurira Musa  
ubwo abantu be bamusabaga  
amazi yo kunywa (tugira tuti)  
“Kubita inkoni yawe ku ibuye!”  
Nuko (arikubise) riturikamo  
amasoko cumi n'abiri, maze buri  
muryango umenya aho  
unywera. Twanabugamishije  
mu gicucu cy'igicu (igih  
bayobagurikaga mu butayu  
bavuye mu Misiri) ndetse

عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحَلِّ لَهُمُ الظَّبَابَتِ وَيُحَرِّمُ  
عَلَيْهِمُ الْجَبَثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ  
وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا  
بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي  
أُنْزِلَ مَعَهُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٥٧

قُلْ يَا أَيُّهَا أُنَافِسٌ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ  
جَمِيعًا الَّذِي لَهُ وَمُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا  
إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْكِمُ وَنَمِيتُ فَقَامُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ  
الَّتِي أَلَّمَنِي الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلَمَتِهِ  
وَاتَّبَعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهَدُونَ ١٥٨

وَمِنْ قَوْمٍ مُّوسَىٰ أُمَّةٌ يَهُدُونَ بِالْحَقِّ وَيَهُدَوْنَ  
يَعْدِلُونَ ١٥٩

وَقَطَعَنَاهُمْ أَثْنَيْ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أَمَّا  
وَأَوْجَحَنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذَا سَقَنَهُ قَوْمُهُ وَأَنَّ  
أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْجَسَتْ مِنْهُ أَثْنَتَ  
عَشَرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشَرَّبُهُمْ  
وَظَلَّنَا عَلَيْهِمُ الْعَمَمَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ  
الْمَنَّ وَالسَّلَوَىٰ كُلُّوْ مِنْ طَيِّبَتِ مَا

tunabamanurira Manu<sup>96</sup> na Saluwa<sup>97</sup> (tuvuga tuti) "Nimurye mu byiza twabafunguriye!" Si twe bahemukiye ahubwo ni bo ubwabo bihemukiye.

161. Munibuke ubwo babwirwaga bati "Nimuture muri uyu mudugudu (wa Yeruzalemu), hanyuma murye ibiwurimo aho mushaka hose, munavuge muti "Tubabarire ibyaha byacu"; muninjire mu marembo yawo mwicishije bugufi. "Tuzabababarira ibyaha byanyu kandi tuzongererera (ibihembo) abakora ibyiza."

162. Ariko bamwe muri bo bakoze ibibi, bahinduye imvugo bakora ibyo batabwiwe (aho gusaba imbabazi no kwicisha bugufi barushaho kwigomeka). Nuko tuboherereza igihano giturutse mu kirere, kubera ibikorwa bibi bakoraga.

163. Unababaze (yewe Muhamadi) ku byerekeye umudugudu wari wegereye inyanja, ubwo (abari bawutuye) batubahirizaga itegeko ry'isabato. Ku munsi w'isabato (**Allah** yarabageragezaga) amafi yabo akaza ari menshi, naho ku munsi utari uw'isabato ntaze. Uko ni ko twabagerageje kubera ko bigomekaga (ku mategeko ya **Allah**).

رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمْنَا وَلَكِنْ كَانُوا  
أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ

وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ أَسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرِيَةَ  
وَكُلُّوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حَطَّةٌ  
وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ  
خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ

فَبَدَّلَ الَّذِي بَطَّلَ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي  
قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنْ  
السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ

وَسَلَّهُمْ عَنِ الْقَرِيَةِ الَّتِي كَانَتْ  
حَاضِرَةً الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبَّتِ إِذْ  
تَأْتِيهِمْ حِيَاتِهِمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شَرَّاً وَيَوْمًا  
يَسِّيْنُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبَلُوهُمْ بِمَا  
كَانُوا يَقْسِنُونَ

<sup>96</sup>**Manu:** ni ubukozo buryohera nk'ubuki buva mu giti cyo mu bwoko bwitwa Tamarsk cyera mu karere ka Sinayi.

<sup>97</sup>**Saluwa:** Ni uruhuri rw'ubwoko bw'inyoni zitwarwa n'imiyaga mu burasirazuba bwa Mediterane, mu gifaransa zitwa Cailles, bohererezwaga na **Allah** kugira ngo bazibage baziryre.

164. Unibuke ubwo bamwe muri bo (bari batuye uwo mudugudu bubahirizaga isabato ariko ntibabibwirize abandi), babwiraga (abayubahirizaga kandi bakanabibwiriza abandi) bati “Kuki mubwiriza abantu **Allah** agiye kuzoreka (ku isi) cyangwa kuzahanisha ibihano bikomeye (ku munsi w'imperuka)?” (Ababwirizaga) baravuga bati “Turabikora kugira ngo dukiranuke kuri Nyagasan wanyu no kugira ngo babe bagandukira **Allah**.”

165. Nuko ubwo bari bamaze kwibagirwa ibyo bari bibukijwe, twarokoye ba bandi babuzaga abandi gukora ibibi, maze duhanisha igihano kibi cyane ba bandi bakoze ibibi kubera ko bigomekaga (ku mategeko ya **Allah**).

166. Nuko ubwo bangaga kureka ibyo bari barabujijwe, twarababwiye tuti “Nimube inkende musuzuguritse!”

167. Unibuke ubwo Nyagasan wawe yatangazaga ku mugaragaro ko rwose azakomeza koherereza (ibyigomeke by'Abayahudi) ababahanisha ibihano bibi kuzageza ku munsi w'imperuka. Mu by'ukuri Nyagasan wawe ni Ubanguka mu guhana, kandi rwose ni Ubabarira ibyaha, Nyirimpuhwe.

وَإِذْ قَالَتْ أُمّةٌ مِّنْهُمْ لَمْ يَعْظُلُنَّ قَوْمًا أَلَّا مُهْلِكٌ لَّهُمْ  
أَوْ مُعَذِّبٌ لَّهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَاتِلًا مَعْذَرَةً إِلَى رَبِّكُمْ  
وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَقَّدُونَ

١٦٤

فَلَمَّا سُوَا مَادْكُرٌ وَلِيَهُ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَا  
عَنِ الْسُّوءِ وَلَخَدَنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا أَبْعَدَاهُمْ بَعْسِ بِمَا  
كَانُوا يَصْنَعُونَ

١٦٥

فَلَمَّا عَطَّوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُنْتَاهُمْ كُوْنُوا قَرَدَةً  
خَسِيعِينَ

١٦٦

وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكَ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ  
مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ فَإِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ  
الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

١٦٧

168. Twanabaciyemo amatsinda atandukanye ku isi: muri bo hari abatunganye, hakabamo n'abatameze batyo. Twanabagerageresheje ibyiza n'ibibi kugira ngo babe bagaruka (bakubaha Allah).

169. Nuko nyuma yabo haza abantu (babu) bazungura igitabo, ariko bihitiramo ibyiza byo (mu buzima bugufi bwo ku isi), bavuga bati "Tuzababariwa ibyaha byose." Bakongera kugerwaho n'bindi (byo muri ubwo buzima) byaziririjwe nka byo (bakongera) bakabikora. Ese ntibahawe isezerano ryo (gukurikiza ibiri) mu gitabo ry'uko batazigera bagira icyo bavuga kuri Allah kitari ukuri? Nyamara bari bazi neza ibigikubiyemo. Kandi ubuturo bwo mu buzima bw'imperuka ni bwo bwiza kuri ba bandi batinya Allah. Ese nta bwenge mugira?

170. Naho ba bandi bashikamye ku gitabo bakanahozaho iswala<sup>98</sup>. Mu by'ukuri ntituburizamo ibihembo by'abakora ibyiza.

171. Unibuke (yewe Muhamadi) ubwo twazamuraga umusozi hejuru yabo (Abayisiraheli) ukamera nk'igicucu, nuko bakabona ko ugiye kubagwaho. (Twarababwiye tuti) "Ngaho nimwakire ibyo twabahaye (muri Tawurati) mubikomeze, kandi

وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَّا مِنْهُمْ أَصْلَحُونَ  
وَمِنْهُمْ دُورَتْ ذَلِكَ وَبَلَوَتْهُمْ بِالْحَسْنَاتِ  
وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ  
يَا أَخْذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدَنَى وَيَقُولُونَ  
سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ وَيَأْخُذُوهُ أَمَّرٌ  
يُؤْخَذُ عَلَيْهِمْ مِيقَاتُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ  
إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالَّذَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ  
لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ﴿١٦٩﴾ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

وَالَّذِينَ يُمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّ  
لَأَنْضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٧٠﴾

\* وَإِذْ نَتَقَنَّا الْجَبَلَ فَوَقَهُمْ كَانُوا وُلْلَهُ وَظَلَوْا نَهَاءَ  
وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَاءَ اتَّبَعْتُكُمْ بِقُوَّةٍ وَذَكْرُ وَمَا فِيهِ  
لَعَلَّكُمْ تَشَكُّونَ ﴿١٧١﴾

<sup>98</sup> Reba uko twasobanuye iyi nyito mu murongo wa 62 muri Surat ul Baqarat.

muzirikane ibirimo kugira ngo mubashe gutinya **Allah**.”

172. Unibuke ubwo Nyagasanai wawe yazanaga (roho zose za) bene Adamu n'iz'urubyaro ruzaturuka mu migongo yabo, maze akazihuriza hamwe akazibwira agira ati “Ese si njye Nyagasanai wanyu? Bakavuga bat “Ni byo, turahamya ko uri Nyagasanai wacu.” (**Allah** aravuga ati: “ibi mbikoze) kugira ngo ku munsi w'imperuka mutazavuga muti “Mu by'ukuri ibi ntitwabimene.”<sup>99</sup>

173. Cyangwa ngo muvuge muti “Mu by'ukuri abakurambere bacu babangikanyije (**Allah**) mbere yacu kandi twabakomotseho. None se uratworeka kubera ibyo abangizi bakoze?”

174. Uko ni ko dusobanura amagambo (yacu), kugira ngo bisubireho (bareke kubangikanya **Allah**).

175. Unabagezeho (yewe Muhamadi) inkuru y'umwe (mu bayisiraheli) twahaye ibimenyetso byacu (ubumenyi) maze akabyisohoramo (akabihakana), nuko Shitani ikamukurikira (ikamuyobya), bityo aba abaye mu bayobye.

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ دُرِّيَّتْهُمْ  
وَأَشَهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَّا سُنْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ  
شَهِدْنَا أَنَّ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ  
هَذَا عَفِيلِينَ

أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ إِلَّا أُنَا مِنْ قَبْلٍ وَكُنَّا  
دُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَنَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ  
الْمُبْطِلُونَ

وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرَجِعُونَ

وَأُتُلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأً الَّذِي أَتَيْنَاهُ إِلَيْنَا فَانْسَلَخَ  
مِنْهَا فَأَكْبَرُهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَافِلِينَ

<sup>99</sup> Uyu murongo ugaragaza ko kuba **Allah** yarahuriye hamwe roho za bene Adamu bose akazibwira, ari yo nkomo yo kuba umuntu wese avuka azi Imana kabone n'ubwo ntaho yaba yarabyigishijwe.

176. Iyo tuza kubishaka twari kumuzamura mu nzego kubera ibimenyetso twamuhaye (ubumenyi). Ariko yatwawe n'iby'isi maze akurikira irari rye. Urugero rwe ni nk'urw'imbwa: iyo uyirukankije irahagira, wayireka igakomeza kwahagira. Urwo ni rwo rugero rw'abantu bahinyuye ibimenyetso byacu. Ngaho babarire inkuru (z'ababayeho mbere) kugira ngo babe batekereza.

177. Mbega urugero rubi rw'abantu bahinyuraga amagambo yacu, kandi bakabikora bihemukira!

178. Uwo **Allah** yashobojé kuyoboka ni we wayobotse nyabyo, n'uwo yarekeye mu buyobe (kubera gukurikira irari ry'umutima we) abo ni bo banyagihombo.

179. Mu by'ukuri umuriro wa Jahanamu twawuremeye abensi mu majini n'abantu; bafite imitima ariko ntibatekereza, banafite amaso ariko ntibabona, banafite amatwi ariko ntibumva. Abo bameze nk'inyamaswa, ahubwo bo bari munsi yazo. Abo ni bo ndindagizi nyazo.

180. Kandi **Allah** afite amazina meza, bityo mujye tuyifashisha mumusaba, kandi munitandukanye na ba bandi bakerensa (bubahuka

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى  
الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمِثْلُهُ كَمَثْلِ الْكَلْبِ  
إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْتَرْكَهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ  
مَثْلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِإِيمَانِنَا فَاقْصُصْ  
الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (١٧٦)

سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَبُوا بِإِيمَانِنَا وَأَنْفَسُهُمْ  
كَانُوا يُطْلَمُونَ (١٧٧)

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهَدِّدُ وَمَنْ يُضْلِلْ  
فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ (١٧٨)

وَلَقَدْ ذَرَنَا لِجَهَنَّمَ كِثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسَنَ لَهُمْ قُلُوبٌ  
لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبَصِّرُونَ بِهَا وَلَهُمْ  
أَذْانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَمِ بَلْ هُمْ  
أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (١٧٩)

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ  
يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ مُسِيْحَيْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٨٠)

ubutagatifu bw') amazina ye<sup>100</sup>.  
Bazahanirwa ibyo bakoraga.

181. No mu bo twaremye,  
harimo itsinda riyobora (abandi)  
rikoreshsheje ukuri,  
rikanagukoresha mu butabera.

182. Na ba bandi bahinyuye  
amagambo yacu, tuzabajyana  
buhoro buhoro tubahane mu  
buryo batazi.

183. Nzanabaha igihe (bibwire  
ko batazahanwa); mu by'ukuri  
imigambi yanjiye irakomeye.

184. Ese ntibatekereza?  
Mugenzi wabo (Muhamadi) si  
umusazi, ahubwo ni umuburizi  
ugaragara.

185. Ese ntibitegerezza ubwami  
bw'ibirere n'isi, n'ibyo Allah  
yaremye, ndetse n'uko  
bishoboka ko iherez  
ry'ubuzima bwabo ryegerez?  
None se ni ayahe magambo  
(aburira) bakwemera nyuma  
y'aya (Qur'an)?

186. Uwo Allah yarekeye mu  
buyobe (kubera gukurikira irari  
ry'umutima we)  
ntawamuyobora; anabarekera  
mu buhakanyi bwabo  
barindagira.

وَمِنْ خَلْقَنَا أَمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحُقْقِ وَبِهِ يَعْدُلُونَ

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِعِيَاتِنَا سَنَشَتَدِ رَجْهُمْ مِنْ

حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ

وَأَمْلَى لَهُمْ إِنْ كَيْدِي مَتَّيْنُ

أَوْلَئِمْ يَتَكَبَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا

نَذِيرٌ مُّبِينٌ

أَوْلَئِمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا  
خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ أَقْرَبَ

أَجَاهُمْ قِبَأً حَدِيثٌ بَعْدَهُ وَيُوَمِّنُونَ

مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَيَدْرُهُمْ فِي

طُعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

<sup>100</sup> Abahakanyi bajyaga bagereranya amazina ya Allah n'ay'ibigirwamana byabo; izina ry'ikigirwamana Lata barigereranyaga n'izina ry'lmana Allah; Uza bakarigereranya n'izina rya Allah Al Aziz; Manata bakarigereranya n'izina rya Allah Al Mananu.

187. Barakubaza (yewe Muhamadi) ku byerekeye igihe imperuka izabera. Vuga uti "Mu by'ukuri ubumenyi bwayo bwihariwe na Nyagasaki wanjiye. Nta wundi wayigaragaza ku gihe cyayo uretse We. Ibyayo biraremereye mu birere no ku isi. Ntizabageraho itabatunguye. Barakubaza nk'aho uyifiteho ubumenyi. Vuga uti "Mu by'ukuri ubumenyi bwayo bwihariwe na **Allah**, nyamara abenshi mu bantu ntibabizi."

188. Vuga (yewe Muhamadi) uti "Ku bwanjiye, nta bushobozzi mfite bwo kugira icyiza nakwimarira cyangwa ikibi nakwikiza usibye icyo **Allah** ashaka. Iyo nza kumenya ibyihishe, nari kwigwizaho ibyiza byinshi kandi nta n'ikibi cyari kungeraho. Nta cyo ndi cyo uretse kuba umuburizi n'ugeza inkuru nziza ku bantu bemera."

189. Ni We wabaremye abakomoye ku muntu umwe (Adamu), nuko amuremera umugore we [Hawa (Eva)] amumukomoyemo kugira ngo amuboneho ituze. Iyo umwe (mu rubyaro rwa Adamu) abonanye n'umugore we, asama inda abasha kugendana bimworoheye. Iyo amaze gukurirwa, basaba **Allah** Nyagasaki wabo bagira bat "Nuramuka uduhaye umwana utunganye, rwose tuzaba mu bashimira."

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا  
عِنْدَ رَبِّي لَا يُجْلِيهَا لَوْقَتُهَا إِلَّا هُوَ نَقْلَتْ فِي  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ  
كَذَّابٌ حَقِيقٌ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَا كِنْ  
أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

قُلْ لَآ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفَاعًا وَلَا ضَرًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ  
وَلَوْكُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْثَرُ مِنَ الْخَيْرِ  
وَمَا مَسَنِي السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّفَوْقِ  
يُؤْمِنُونَ

\* هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَّلَتْ حَمَالًا حَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَقْتَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَيْنَ ءَاتَيْنَا صَلِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

190. Ariko (**Allah**) yamara kubaha umwana utunganye, bagatangira kumubangikanya n'ibyo yabahaye. **Allah** arenze kure cyane ibyo bamubangikanya.

191. Ese babangikanya (**Allah**) n'ibitagira icyo birema, kandi na byo ubwabyo byararemwe?

192. Ntibinashobora kubatabara kandi na byo ubwabyo ntibyakwitabara.

193. N'yo mwabihamagarira kuyoboka, ntibishobora kubakurikira (kuko nta bwenge bifite). Mwabihamagara cyangwa mukicecekera, byose ni kimwe kuri mwe.

194. Mu by'ukuri ibyo musenga bitari **Allah** ni abagaragu nkamwe. Ngaho nimubisabe maze bibasubize, niba koko muri abanyakuri.

195. Ese bifite amaguru bigendesha cyangwa amaboko bikoresha cyangwa amaso bibonesha cyangwa amatwi byumvisha? Vuga (yewe Muhamadi) uti “Nimuhamagare ibigirwamana byanyu maze muncurire imigambi mibisha, kandi ntimundindirize!”

فَلَمَّا آتَهُمَا صَلِحًا جَعَلَاهُ شُرَكَاءَ فِيمَا  
أَتَهُمَا فَعَلَى اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٩٠﴾

أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ ﴿١٩١﴾

وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسُهُمْ  
يَنْصُرُونَ ﴿١٩٢﴾

وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُونَ حُكْمَ سَوَاءٍ عَلَيْكُمْ  
أَدْعُوكُمْ وَهُمْ أَنْتُمْ صَمِّيْتُونَ ﴿١٩٣﴾

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ  
أَمْثَالُكُمْ فَإِذَا دَعَوْهُمْ فَلَيُسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ  
كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٩٤﴾

الَّهُمَّ أَرْجُلِي مَسْوُنَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدِي بَطَشُونَ بِهَا  
أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبَصِّرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَذَانٌ  
يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ أَدْعُوا شَرَكَاءَ كُلُّ ثُمَّ  
كَيْدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ ﴿١٩٥﴾

196. “Mu by’ukuri umurinzi wanjye ni Allah, wahishuye igitabo (Qur'an). Ni na We urinda abakora ibitunganye.”

إِنَّ وَلِيَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّ  
الصَّالِحِينَ ﴿١٩٦﴾

197. “N’ibyo musenga bitari We ntibishobora kubatabara, ndetse nta n’ubwo byakwitabara ubwabyo.”

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ  
نَصَارَكُمْ وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿١٩٧﴾

198. N’yo mwabihamagarira kuyoboka ntibyakumva, ndetse unabona bikureba ariko ntibibona.

وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَهُمْ  
يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يَبْصِرُونَ ﴿١٩٨﴾

199. Jya ubabarira, unabwirize (abantu) gukora ibyiza, kandi ujye wirengagiza injiji (ntukaziture inabi).

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْأُعْرِفِ وَأَغْرِضْ عَنِ  
الْجَهِيلِينَ ﴿١٩٩﴾

200. Kandi Shitani nakoshy gukora ikibi, ujye wiragiza Allah kuko mu by’ukuri ari Uwumva bihebuje, Umumenyi uhebuje.

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِدْ بِإِلَهِ  
إِنَّهُ وَسَمِيعٌ عَلَيْمٌ ﴿٢٠٠﴾

201. Mu by’ukuri ba bandi batinya Allah, iyo igishuko cya shitani kibagezeho, bibuka (Allah) maze bakaba maso (bakitandunya n’ibaya).

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقُوا إِذَا مَسَّهُمْ طَيْفٌ مَّنْ  
الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُ وَإِذَا هُمْ مُّتَصْرُونَ ﴿٢٠١﴾

202. Naho bagenzi bazo (inkozi z’ibibi mu bantu), (za shitani zo mu majini) zibagumisha mu buyobe maze ntibabuvemo.

وَلَا حَوْنَاهُمْ يَمْدُدُونَهُمْ فِي الْعَيْشِ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ  
٢٠٢

203. N’yo utabazaniye igitangaza, baravuga batii “Kuki utacyihimbira?” Vuga uti “Mu by’ukuri nkurikira ibyo mpishurirwa biturutse kwa Nyagasanwanjye.” Iyi (Qur'an) ni ikimenyetso kigaragara giturutse kwa Nyagasanwanjye,

وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِيَأْيَةٍ قَالُوا لَوْلَا أَجْتَبَيْتَهَا قُلْ  
إِنَّمَا أَتَّبَعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرٌ مِّنْ  
رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠٣﴾

ikaba umuyoboro n'impuhwe ku bantu bemera.

204. N'igihe Qur'an isomwa, mujye tuyitega amatwi kandi muceceke kugira ngo mugirirwe impuhwe (na Allah).

وَإِذَا قِرِئَ الْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا  
لَعَلَّكُمْ تُرَحَّمُونَ ﴿٦٠﴾

205. Unasingize Nyagasanai wawe mu mutima wawe, wibombaritse kandi utinye, mu ijwi rituje nta rusaku mu mvugo, (ibyo ubikore) mu gitondo na nimugoroba, kandi ntuzabe umwe mu ndangare.

وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرِّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ  
الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُقِ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُنْ  
مِّنَ الْغَافِلِينَ ﴿٦١﴾

206. Mu by'ukuri ba bandi bari kwa Nyagasanai wawe (abamalayika) ntibajya bibona ngo bumve ko batamugaragira, ahubwo baramusingiza, bakaba ari na We (Allah) wenylene bubamira.

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْرِهُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ  
وَيُسَيِّدُونَهُ وَلَهُ وَيَسْجُدُونَ ﴿٦٢﴾

## 8 - SURAT AL AN'FAL

(IMINYAGO)

*Yahishuriwe i Madina, igizwe n'imirono 75.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Barakubaza (yewe Muhamadi) ku byerekeye iminyago. Vuga uti "Ibyerekeye iminyago bigenwa na Allah n'Intumwa ye." Ngaho nimugandukire Allah munakemure impaka ziri hagati yanyu, kandi mwumvire Allah

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ  
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ وَأَطِيعُوا  
اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٦٣﴾

n'Intumwa ye niba koko muri abemeramana.

2. Mu by'ukuri abemeramana nyabo ni ba bandi iyo Allah avuzwe, imitima yabo ikangarana, banasomerwa amagambo ye akabongerera ukwemera; kandi bakiringira Nyagasani wabo (wenyine);

3. Ba bandi bahozaho iswala<sup>101</sup> kandi bagatanga mu byo twabahaye.

4. Abo ni bo bemera nyakuri. Bazagororerwa inzego zo hejuru kwa Nyagasani wabo, bababarirwe ibyaha kandi banahabwe amafunguro meza (mu ijuru).

5. (Uko Nyagasani yagutegetse kugabanya iminyago), ni na ko Nyagasani wawe yagutegetse kuva mu rugo rwawe (kugira ngo ujye kunyaga ibicuruzwa by'Abakurayishi) abiguhihuriye by'ukuri; kandi rwose hari itsinda mu bemera ritabishakaga.

6. Bakugisha impaka ku kuri nyuma y'uko kugaragaye (batishimiye kujya ku rugamba), bameze nk'aho bashyiriwe urupfu kandi barureba.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا أُتْلِيَتْ عَلَيْهِمْ أَيْتُهُ وَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿١﴾

الَّذِينَ يُقْيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٢﴾

أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَيْمُونَ ﴿٣﴾

كَمَا أَحْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فِرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ ﴿٤﴾

يُجَدِّلُونَكَ فِي الْحُقْقِ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٥﴾

<sup>101</sup> Reba uko twasobanuye iyi nyito mu murongo wa 62 muri Surat ul Baqarat.

7. Munibuke ubwo **Allah** yabasezeranyaga (gutsinda) rimwe mu matsinda abiri (y'abanzi banyu; iry'ingabo cyangwa iry'abacuruzi ridafite intwaro) rikaba iryanyu, ariko mwe mwifusa ko iridafite intwaro ari ryo ryaba iryanyu. Nyamara **Allah** yashakaga guhamya ukuri akoresheje amagambo ye no kurimbura abahakanyi burundu.

8. Kugira ngo ahamye ukuri kandi ananyomoze ikinyoma, kabone n'ubwo inkozi z'ibibi zitabyishimira.

9. (Munibuke) ubwo mwitabazaga Nyagasani wanyu, nuko akabasubiza (agira ati) "Mu by'ukuri ndabatera inkunga y'abamalayika igihumbi (baza) bakurikiranye."

10. (Ibyo) nta kindi **Allah** yabikoreye uretse kugira ngo abagezeho inkuru nziza (y'intsinzi), binatume imitima yanyu ituza. Kandi nta handi intsinzi ituruka uretse kwa **Allah**. Mu by'ukuri **Allah** ni Umunyacyubahiro bihebuje, Nyirubugenge buhambaye.

11. Mwibuke ubwo yabahaga gutora agatotsi kakaba ituze rimuturutseho, akabamanurira amazi aturutse mu kirere kugira ngo ayabasukuze, abakureho

وَإِذْ يَعْدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الْطَّالِفَتَيْنِ أَنْهَلَكُمْ  
وَتَوَدُّونَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ  
وَبِرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعَ دَارَ

الْكُفَّارِ ٧

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْلِلَ الْبَطِّالَ وَلَوْ كَرَّةٍ  
الْمُجْرِمُونَ ٨

إِذْ تَسْتَغْيِثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي  
مُمِدُّكُمْ بِأَلْفِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ٩

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشَرَى وَلَطَمَمَنَ يَهُهُ  
قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مَنْ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ ١٠

إِذْ يُغَشِّكُمُ الْنَّعَاسَ أَمْنَةً مِنْهُ وَيُبَرِّلُ  
عَيْنَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ لِيُظَهِّرَكُمْ يَهُهُ

ibishuko bya Shitani, ndetse no kugira ngo abakomeze imitima kandi ashikamishe ibirenge byanyu hasi (kugira ngo ntibinyerere mu mucanga).

12. Zirikana ubwo Nyagasan i wawe yahishuriraga abamalayika (ku rugamba rwa Badri, agira ati) "Mu by'ukuri ndi kumwe namwe, bityo mukomeze ba bandi bemeye. Ndaza gushyira ubwoba mu mitima y'abahakanye, ngaho nimuce (yemwe abemeramana) imitwe munabace imitwe y'intoki."

13. Ibyo ni ukubera ko baciye ukubiri na **Allah** n'Intumwa ye. Kandi uciye ukubiri na **Allah** n'Intumwa ye, mu by'ukuri **Allah** ni Nyiribihano bikaze.

14. Nimusogongere ibyo (bihano); kandi rwose abahakanyi bazahanishwa ibihano by'umuriro.

15. Yemwe abemeye! Nimuhurira ku rugamba na ba bandi bahakanye, ntimuzabahunge.

16. N'uzaramuka abahunze icyo gihe -uretse ku bw'amayeri y'urugamba cyangwa agiye kwifatanya n'irindi tsinda (ry'abemeramana)- uwo azaba yikururiye uburakari bwa **Allah**,

وَيُذْهَبَ عَنْكُمْ رِجَزُ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ  
فُؤُوبُكُمْ وَيُثْبِتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴿١١﴾

إِذْ يُوحَىٰ رَبِّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتَبَّعُو  
الَّذِينَ مَا مَنُوا سَأْلُقِي فِي قُوْبِ الَّذِينَ كَفَرُوا  
الرُّعَبَ فَاصْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاصْرِبُوا مِنْهُمْ  
كُلَّ بَنَانٍ ﴿١٢﴾

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقْ  
الَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٣﴾

ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ  
الْتَّارِ ﴿١٤﴾

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامُوا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ  
كَفَرُوا رَحْفَافًا لَّا تُلُوْهُمْ أَذْكَارٌ ﴿١٥﴾

وَمَنْ يُوَلِّهُمْ بِوَمِيزِ دُبْرَهُ وَإِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقَتَالٍ أَوْ  
مُتَحَذِّلًا إِلَىٰ فِعَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَصَبٍ مِّنَ اللَّهِ  
وَمَا وَلَهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٦﴾

ndetse n'ubuturo bwe ni umuriro wa Jahanama kandi ni ryo herezo ribi.

17. Ntabwo ari mwe mwabishe, ahubwo bishwe na **Allah** (we washoboj abemeramana gutsinda abanzi babo kandi barabarushaga ubushobozi). Nta n'ubwo ari wowe (Muhamadi) wateye (umucanga watumye ingabo z'abanzi zitokorwa) ubwo wawuteraga, ahubwo **Allah** ni we wawuteye (awukwiza mu maso yabo); kugira ngo agerageze abemeramana akoresheje ikigeragezo cyiza kimuturutseho (intsinzi). Mu by'ukuri **Allah** ni Uwumva bihebuje, Umumenyi uhebuje.

18. Uko ni ko **Allah** acubya imigambi y'abahakanyi.

19. (Yemwe bahakanyi!) Niba musaba ko **Allah** amanurira ibihano inkozi z'ibibi, rwose byamaze kubageraho! Kandi nimurekera aho (ibikorwa by'ubuhakanyi n'ubushotoranyi), ibyo ni byo byiza kuri mwe. Nimunasubira, tuzongera (tubatsinde). Kandi agatsiko kanyu nta cyo kazabamarira kabone n'ubwo kaba kagizwe n'ingabo nyinshi. Kandi mu by'ukuri **Allah** ari kumwe n'abemeramana.

فَلَمَّا قَتَلُوكُمْ وَلَكِنَ اللَّهُ قَاتَلَهُمْ وَمَا رَأَيْتَ  
إِذْ رَأَيْتَ وَلَكِنَ اللَّهُ رَأَى وَلَيُبَلِّي الْمُؤْمِنِينَ  
مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِ  
وَالْكَلْمَمُ وَإِنَّ اللَّهَ مُوْهِنٌ كَيْدُ الْكَافِرِينَ

إِنَّ سَتَقْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَلَنْ  
تَنْهُوْهُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَلَنْ تَعُودُوا نَعْدُ وَلَنْ  
تُغَيِّرُ عَنْكُمْ فَإِنْتُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرْتُ وَأَنَّ  
اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ

20. Yemwe abemeye! Nimwumvire **Allah** n'Intumwa ye, ntimuzanamutere umugongo kandi mwumva (ibyo musomerwa).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِذَا مَنَّا أَطْبَعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا  
تَلَوَّنُ عَنْهُ وَإِنْتُمْ تَسْمَعُونَ ﴿٦﴾

21. Kandi ntimukamere nka ba bandi bavuze bati “Twarumvise”, nyamara batumva.

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا  
يَسْمَعُونَ ﴿٧﴾

22. Mu by'ukuri ibiremwa bibi imbere ya **Allah** ni ibipfamatwi (abanze kumva ukuri) bakaba n'ibiragi (indimi zabo zanke kwatura ukwemera); ba bandi badatekereza.

\* إِنَّ شَرَّ الدُّوَّابَاتِ عِنْدَ اللَّهِ الْأَصْمَمُ الْبُكَّرُ  
الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٨﴾

23. N'yo **Allah** aza kubabonamo icyiza, yari kubashoboza kumva (ukuri). Kandi n'yo aza kubashoboza kumva, rwose bari gutera umugongo bakitarura.

وَلَوْعَمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَا سَمَعَهُمْ وَلَا سَمَعُهُمْ  
لَتَلَوَّنُوهُمْ مُعَرِّضُونَ ﴿٩﴾

24. Yemwe abemeye! Nimwumvire **Allah** n'Intumwa (Muhamadi) igihe babahamagariye ibibaha ubuzima nyabwo (ubuzima bwo mu ijuru). Kandi mumenye ko **Allah** ajya hagati y'umuntu n'umutima we (agakumira icyo urarikiye), ndetse ko mu by'ukuri, iwe ari ho muzakoranyirizwa.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِذَا مَنَّا أَسْتَجَبْنَا لَهُ  
وَلِرَسُولٍ إِذَا دَعَا كُلُّ مَا يُحِبُّ كُوْنُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ  
الَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمُرْءَ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ  
تُخْشِرُونَ ﴿١٠﴾

25. Kandi mujye mutinya ibigeragezo byo ku isi, kuko bitibasira inkozi z'ibibi muri mwe gusa. Munamenye ko Allah ari Nyiribihano bikaze.

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا  
مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدٌ

الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾

26. Munibuke ubwo mwari bake b'abanyantege nke mu gihugu (cyo Maka), mutinya ko abantu (b'abahakanyi) babashimuta, maze (Allah) akabaha ubuhungiro (i Madina), akabashyigikiza inkunga ye ndetse akanabaha amafunguro meza kugira ngo mubashe gushimira.

وَادْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلُ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ  
تَخَافُونَ أَنْ يَتَحَطَّفُكُمُ النَّاسُ فَأَوْدِعُكُمْ  
وَأَيْدِكُمْ بِضَرِّهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الظَّبَابَتِ لَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

27. Yemwe abemeye! Ntimugahemukire Allah n'Intumwa (Muhamadi), ndetse ntimukanahemuke mucunga nabi ibyo mwaragijwe kandi mubizi (ko ari icyaha).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُنُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُنُوا  
أَمْتَانَكُمْ وَإِنَّمَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾

28. Munamenye ko imitungo yanyu n'urubyaro rwanyu ari ibigeragezo, kandi ko mu by'ukuri kwa Allah hari ibihembo bihambaye.

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ  
وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٣٨﴾

29. Yemwe abemeye! Nimutinya Allah, azabashoboza gutandukanya ikibi n'icyiza, abahanagureho ibyaha byanyu ndetse anabababarire. Kandi Allah ni Nyiringabire zihambaye.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلُ  
لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ  
وَيَعْفُرُ لَكُمْ وَاللَّهُ دُوَّلُ الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٣٩﴾

30. Unibuke (yewe Muhamadi) ubwo abahakanye bagucuriraga imigambi yo kugira ngo bakugire imbohe, cyangwa ngo bakwice, cyangwa ngo bakumeneshe. Bacuraga imigambi **Allah** agacura indi (myiza yo kuburizamo iya bo); kandi **Allah** ni we Uhebuje mu kuburizamo imigambi mibisha.

31. N'yo basomewe amagambo yacu (Qur'an) baravuga bati "Erega twarayumvise"; n'yo dushaka twari kuvuga ameze nka yo. Ibi nta cyo biri cyo usibye kuba ari inkuru z'abo hambere."

32. Unibuke (yewe Muhamadi) ubwo bavugaga bati "Mana Nyagasan! Niba koko iyi (Qur'an) ari ukuri kuguturutseho, ngaho tugasheho imvura y'amabuye iturutse mu kirere, cyangwa utuzanire ibihano bibabaza."

33. Kandi **Allah** ntiyari kubahana mu gihe (wowe Muhamadi) ukibarimo, ndetse nta n'ubwo **Allah** yari kubahana mu gihe basaba imbabazi.

34. None se ni iki cyatuma **Allah** atabahana kandi bakumira (abantu) kugana umusigitu mutagatifu (Al Ka'abat), ndetse ntibabe n'abarinzi bawo? Nta bandi baba abarinzi bawo

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُشْتُوْكَ أَوْ  
يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْجِلُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ  
وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَمْكُرِينَ ﴿٣﴾

وَإِذَا تُشْتَأْ عَلَيْهِمْ إِيَّنَا قَالُواْ فَدَسِّمُنَا لَوْنَشَاء  
لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْطِرُ الْأَوَّلِينَ

﴿٢١﴾

وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ  
عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنْ سَمَاءِكَ أَوْ  
أَئْتِنَا بِعَذَابِ الْيَمِّ ﴿٢٢﴾

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنَّ فِيهِمْ وَمَا  
كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٢٣﴾

وَمَا لَهُمْ لَا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصْدُونَ عَنِ  
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أَوْلَىءِهِ بِإِنْ

usibye abagandukira **Allah**, nyamara abenshi muri bo ntibabizi.

أَوْلَيَاً وَهُوَ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾

35. Kandi iswala<sup>102</sup> yabo ku musigiti mutagatifu (Al Ka'abat) yari ukuvugiriza no gukoma amashyi gusa (bagamije kubuza amahoro Intumwa Muhamadi). Ngaho nimwumve ububabare bw'ibihano kubera ibyo mwahakanaga.

36. Mu by'ukuri ba bandi bahakanye batanga imitungo yabo kugira ngo bakumire (abantu) kugana inzira ya **Allah**. Bazanakomeza bayitange ariko iherezo bizabatera agahinda, maze batsindwe. Rwose abahakanye bazakoranyirizwa mu muriro wa Jahanamu;

37. Kugira ngo **Allah** atandukanye ababi n'abeza, agereke ababi ku bandi, maze abarundanye bose nuko abashyire mu muriro wa Jahanamu. Abo ni bo banyagihombo.

38. Bwira abahakanye ko nibaramuka baretsé (ubuhakanyi), bazababarirwa ibyahise. Ariko nibasubira (mu buhakanyi) mu by'ukuri

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاهَةٌ وَتَصْدِيَةٌ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٥﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿٣٦﴾

لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَيْثَ مِنَ الظَّلِيبِ وَيَجْعَلَ الْخَيْثَ بَعْضَهُ وَعَلَى بَعْضٍ فَيَرَكُمْهُ وَجَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ وَفِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٣٧﴾

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ يَنْهَاوْيُعْقَرُلُهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَلَمْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾

<sup>102</sup> Reba uko twasobanuye iyi nyito mu murongo wa 62 muri Surat ul Baqarat.

(bazahanwa) nk'uko  
byagendekeye abababanjirije.

39. Munabarwanye kugeza ubwo ubuhakanyi burangiye, maze uguusengwa kose guharirwe **Allah** (wenyine). Ariko nibarekera aho (kubangikanya **Allah**), mu by'ukuri **Allah** ni Ubona bihebuje ibyo bakora.

40. Nibanatera umugongo, mu by'ukuri mumenye ko **Allah** ari We Mugenga wanyu; Umugenga mwiza, akaba n'Umutabazi mwiza.

41. Munamenye ko mu by'ukuri icyo ari cyo cyose mufashe bunyago, kimwe cya gatanu cyacyo kiba ari icya **Allah**, Intumwa, abafitanye isano rya hafi (n'Intumwa), imfubyi, abakene ndetse n'uri ku rugendo (afite ibibazo); niba koko mwaremeye **Allah** n'ibyo twahishuriye umugaragu wacu (Muhamadi) ku munsi ukuri k watandukanye n'ikinyoma, umunsi amatsinda abiri yasakiranaga (ku rugamba rwa Badri). Kandi **Allah** ni Ushobora byose.

42. Munibuke ubwo mwe (ingabo z'Abayisilamu) mwari ku nkengero zo hakuno y'ikibaya (cyo Madina), na bo bari ku nkengero zo hakurya y'ikibaya, ndetse n'itsinda ry'abacuruzi

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةً  
وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنَّ أَنْتَ هُوَ  
فِيْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٩﴾

وَإِنْ تَوْلُوا فَاعْمَلُوهُمْ كَمَا يَعْمَلُونَ  
إِنَّ اللَّهَ مَوْلَانَا كُلُّمُ نِعَمٍ  
إِنَّ الْمَوْلَى وَبِغَمْرِ التَّصِيرِ ﴿٤٠﴾

\*وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ  
وَلِرَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّيِّدِ إِنْ كُنْتُمْ  
عَامِنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ  
يَوْمَ الْتَّقَىٰ الْجَمِيعَانِ ﴿٤١﴾ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ  
قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

إِذَا نَتَمْ بِالْعُدُوَّةِ الدُّلُنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُوَّةِ الْفُصُوْلِ  
وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدُّمْ  
لَا خَلَقْتُمْ فِي الْمِعْدِلِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ

baherekeje ibicuruzwa byabo riri munsi yanyu (ryerekeza ku Nyanja Itukura). N'iyo muza gusezerana (kuhahurira), rwose ntimwari kumvikana ku byo mwasezeranye (kubera ubwinshi bw'ingabo z'umwanzi), ariko (mwahuye mutabisezeranye), kugira ngo **Allah** asohoze ibyagombaga kuba, no kugira ngo abagombaga korama borame bamaze gusobanukirwa (ko gutsindwa kwabo byagenwe na **Allah**), ndetse n'abarokoka barokoke bamaze gusobanukirwa (ko **Allah** ashoboye byose). Kandi mu by'ukuri, **Allah** ni Uwumva bihebuje, Umumenyi uhebuje.

43. Unibuke ubwo **Allah** yakwerekaga mu nzozi ko (ingabo z'abahakanyi) ari nke; ariko iyo aza kuzikwereka ari nyinshi, rwose mwari gucika intege kandi mwari no kubijyaho impaka (mwibaza niba byari ngombwa kurwana nazo). Ariko **Allah** yarabarinze. Mu by'ukuri, ni We Mumenyi uhebuje w'ibiru mu bituza (by'abantu).

44. Munibuke ubwo mwasakiranaga (n'ingabo z'abahakanyi), (Allah) akazibereka mu maso yanyu ari nke, namwe akabagira bake mu maso yabo, kugira ngo **Allah**

أَمْرًا كَانَ مَقْعُولًا لِّيَهُكَمْ مَنْ هَلَكَ عَنْ  
بَيْنَةٍ وَّيَحْيَى مَنْ حَيَ عَنْ بَيْنَةٍ وَّإِنَّ اللَّهَ  
لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٤٣﴾

إِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكُمْ قَلِيلًا وَّقَوْ  
أَرْدِكُمْ كَثِيرًا لَفِسْلُتُمْ وَلَتَنْزَعُتُمْ فِي  
الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ  
الْأَصْدُورِ ﴿٤٣﴾

وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذَا تُتَقَيَّمُونَ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا  
وَيُقْتَلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا  
كَانَ مَقْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأَمْرُ ﴿٤٣﴾

asohoze ibyagombaga kuba; kandi kwa Allah ni ho ibantu byose bizasubizwa.

45. Yemwe abemeye! Nimusakirana n'agatsiko (k'umwanzi) mujye mushikama, munasingize Allah kenshi kugira ngo mube mwagera ku ntsinzi.

46. Munumvire Allah n'Intumwa ye, kandi ntimugashyamirane bitazatuma mutsindwa, n'imbaraga zanyu zikayoyoka, ndetse mujye mwihangana. Mu by'ukuri Allah ari kumwe n'abihangana.

47. Kandi ntimukabe nka ba bandi basohotse mu ngo zabo bafite ubwirasi banagamije kwiyerekwa abantu, ndetse banakumira (abantu) kugana inzira ya Allah; kandi Allah azi neza ibyo bakora.

48. Munibuke ubwo Shitani yakundishaga (abahakanyi) ibikorwa byabo akababwira ati "Uyu munsi ntawe ubatsinda kandi rwose ndi kumwe namwe." Nuko ubwo amatsinda yombi yasakiranaga, (Shitani) yarahunze aravuga ati "Mu by'ukuri nitandukanyije namwe, njye ndabona ibyo mutabona, rwose ndatinya Allah. Kandi Allah ni Nyiribihano bikaze."

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيْتُمُ فِرَقَةً فَاثْبُتُوْ  
وَإِذْ كُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

٤٥

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنْزَعُوا فَتَفَشَّلُوا  
وَتَدْهَبَ رَجُلُكُمْ وَاصِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ

الصَّابِرِينَ

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ حَرَجُوا مِنْ دِيَرِهِمْ بَطَرًا  
وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ  
يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

وَإِذْ نَذَنَّهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَأَغَالِبَ  
لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ إِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا  
نَرَأَتِ الْفِتَنَ نَكَصَ عَلَى عَقْبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي  
بَرِيءٌ مِمَّا فِي يَدِي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي  
أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

٤٨

49. Mwibuke ubwo indyarya na ba bandi bafite uburwayi mu mitima yabo (Ubuhakanyi, Uburyarya,...) bavugaga bat "Aba (Abayisilamu) bashutswe n'idini ryabo (baza guhangana natwe)." Nyamara uwiringira **Allah**, mu by'ukuri, **Allah** ni Umunyacyubahiro bihebuje, Nyirubugenge buhambaye.

50. N'yo uza kubona (yewe Muhamadi) uko Abamalayika bakuragamo roho za ba bandi bahakanye; babakubita mu buranga bwabo no mu migongo yabo, (banababwira bat) "Ngaho nimwumve ububabare bw'ibihano by'umuriro."

51. Ibyo (bihano) ni ingaruka z'ibyo mwikoreye ubwanyu. Mu by'ukuri **Allah** ntabwo ahuguza abagaragu (be).

52. Ibyo ni kimwe nk'ibyabaye ku bantu ba Farawo, na ba bandi babayeho mbere yabo, bahakanye ibimenyetso bya **Allah**, nuko **Allah** abahanira ibyaha byabo. Mu by'ukuri, **Allah** ni Umunyembaraga, Nyiribihano bikaze.

إِذْ يَقُولُ الْمُنَفِّقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ  
عَرَّهَ هَوْلَاءُ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ  
فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٩﴾

وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُوا  
الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرُهُمْ  
وَذُو فُؤُدُّ أَعْذَابُ الْحَرِيقِ ﴿٥٠﴾

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ  
بِنَظِيلٍ لِلْعَبِيدِ ﴿٥١﴾

كَذَّابٌ إِلَيْهِ فَرَعَوْنٌ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا  
بِعَيْمَاتِ اللَّهِ فَأَخْدَهُمُ اللَّهُ يَدُنُوبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ  
شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٢﴾

53. Ibyo ni ukubera ko Allah atakwambura abantu inema yabahundagajeho keretse bo ubwabo bahindutse (bakaba babi). Kandi mu by'ukuri Allah ni Uwumva bihebuje, Umumenyi uhebuje.

54. Ibyo (bihano) ni kimwe nk'ibyabaye ku bantu ba Farawo, na ba bandi babayeho mbere yabo. Bahinyuye ibimenyetso bya Nyagasani wabo, nuko turaboreka kubera ibyaha byabo, tunaroha abantu ba Farawo, kandi bose bari abahemu.

55. Mu by'ukuri inyamaswa mbi kurusha izindi imbere ya Allah ni babandi bahakanye (mbere) bakaba batanemera (ubu).

56. Ni ba bandi (Abayahudi) mwagiranye amasezerano, ariko buri gihe bakayarengaho, kandi ntibatinya (Allah).

57. Bityo nubatsinda ku rugamba, ujye ubahana wihanukiriye kugira ngo uhabure, ukange ababari inyuma, kugira ngo bibabere isomo.

58. Kandi nutinya (yewe Muhamadi) ubuhemu bw'abantu (mwagiranye amasezerano), ujye usesa amasezerano yabo mu mucyo

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَرِيَكُ مُغَيْرًا لِعَمَّةَ أَغْمَهَا عَلَىٰ  
قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَاٰنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ

كَدَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَبُوا  
يَعَايَتْ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكَنَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَعْرَقَنَّهُمْ إِلَىٰ  
فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَاوْنُوْظَلِمِينَ

٥٣

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ  
لَا يُؤْمِنُونَ

٥٤

الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي  
كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ

٥٥

فَإِمَّا تَشَقَّفُهُمْ فِي الْحُرُبِ فَشَرِّدُهُمْ مَنْ خَلَفَهُمْ  
لَعَاهُمْ يَدَكَرُونَ

٥٦

وَإِمَّا تَخَافَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَإِنِّي أَذِلُّ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ  
سَوَاءٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

٥٧

(kugira ngo buri ruhande rumenyé ko nta masezerano rugifitanye n'urundi). Mu by'ukuri **Allah** ntakunda abahemu.

59. Kandi rwose ba bandi bahakanye ntibibwire ko bacitse (ibihano). Mu by'ukuri, ntibazananira (**Allah**).

60. Kandi mubitegure n'imbaraga zanyu zose n'amafarasi yambariye intambara, kugira ngo bitere ubwoba abanzi ba **Allah** ndetse n'abanzi banyu n'abandi mutazi ariko bazwi na **Allah**. Kandi icyo mutanze cyose mu nzira ya **Allah**, mukigororerwa cyuzuye ndetse ntimuzahuguzwa.

61. Ariko nibahitamo inzira y'amahoro, na we uzayigane kandi wiringire **Allah**. Mu by'ukuri ni We Uwumva bihebuje, Umumenyi uhebuje.

62. Kandi nibashaka kukuryarya, mu by'ukuri, **Allah** araguhagije. Ni We waguteye inkunga y'ubutabazi bwe n'iy'abemeramana.

63. (**Allah**) yanahuje imitima yabo (nyuma y'uko bari batatanye). N'iyo wari gutanga ibiri mu isi byose, ntiwari gushobora guhuza imitima yabo (abemeramana). Ariko **Allah**

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوْا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ  
٥٩

وَأَعْدَدُوا لَهُمْ مَا أُسْتَطَعُمُ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ  
الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوُّهُ  
وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ  
وَمَا شَفَقُواْ مِنْ شَيْءٍ فِي سَيِّلٍ أُلَّهَ يُوفِّ  
إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا نُظَمِّنُ

\*وَلَنْ جَنُوْلَ السَّمَاءِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ  
إِنَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ  
٦٠

وَلَنْ يُرِيدُواْ أَنْ يَخْدُعُوكَ إِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ  
الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرٍ وَبِالْمُؤْمِنِينَ  
٦١

وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ  
جَمِيعًا مَا أَفْلَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ  
بَيْنَهُمْ إِنَّهُ وَعَزِيزٌ حَكِيمٌ  
٦٢

yarayihuje. Mu by'ukuri We ni Umunyacyubahiro bihebuje, Nyirubugenge buhambaye.

64. Yewe Muhanuzi  
(Muhamadi)! Allah  
n'abemeramana bagukurikiye  
baraguhagije.

65. Yewe Muhanuzi  
(Muhamadi)! Shishikariza  
abemeramana kwitabira  
urugamba. Muri mwe,  
nihabamo makumyabiri  
bihangana, bazatsinda magana  
abiri. Kandi nihabamo ijana,  
bazatsinda igihumbi muri ba  
bandi bahakanye, kubera ko ari  
abantu badasobanukiwe.

66. Ubu noneho Allah  
araborohereje, kandi azi ko  
mwifitemo intege nke. Bityo  
muri mwe nihabamo ijana  
bihangana, bazatsinda magana  
abiri. Kandi nihabamo igihumbi  
bazatsinda ibihumbi bibiri ku  
bushake bwa Allah. Rwose Allah  
ari kumwe n'abihangana.

67. Ntibikwiye ko umuhanuzi  
yagira imfungwa z'intambara,  
keretse amaze kwizera ko  
yatsinze urugamba. Murashaka  
indonke z'isi (muhabwa incungu  
kuri izo mfungwa zo ku rugamba  
rw' i Bad'ri), kandi Allah ashaka  
(ko mubona ingororano)  
z'imperuka. Rwose, Allah ni

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ  
الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦﴾

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ  
يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ  
وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَائَةٌ يُغْلِبُوا أَلْفَانَ الَّذِينَ  
كَفَرُوا إِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٦﴾

أَلْقَنَ حَفَّ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيهِمْ ضَعْفًا  
فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ  
وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ  
اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٦﴾

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَارٌ حَتَّىٰ يُشَخِّنَ  
فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ  
الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧﴾

Umunyacyubahiro bihebuje,  
Nyirubugenge buhambaye.

68. Iyo bitaza kuba itegeko rya **Allah** ryabanje (ribemerera iminyago no kugira imfungwa z'intambara), mwari kugerwaho n'ibihano bihambaye kubera ibyo mwakiriye (incungu).

69. Ngaho nimurye mu minyago mwafashe, iziruwe kandi myiza. Munatinye **Allah**; mu by'ukuri, **Allah** ni Ubabarira ibyaha, Nyirimpuhwe.

70. Yewe Muhanuzi (Muhamadi)! Bwira imfungwa z'intambara ziri mu maboko yanyu uti "Niba **Allah** azi ko hari icyiza kiri mu mitima yanyu, azabaha ibyiza biruta ibyo mwanyazwe, anabababarire ibyaha byanyu. Rwose, **Allah** ni Ubabarira ibyaha, Nyirimpuhwe."

71. Ariko nibashaka kuguhemukira (nyuma yo kubarekura), rwose (ntuzacike intege) kuko na mbere bahemukiye **Allah** (bakurwanya) maze aguha imbaraga zo kubatsinda. Kandi **Allah** ni Umumenyi uhebuje, Nyirubugenge buhambaye.

لَوْلَا كَتَبَ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَخَذُتُمْ  
عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٦٨﴾

فَكُلُّوا مِمَّا أَعْنَمْتُ حَلَالًا طَيْبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٩﴾

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُلْ لَمَنِ فِي أَيْدِيهِ كُمْرُ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ  
يَعْلَمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتَكُمْ خَيْرًا مِمَّا أَخَذُ  
مِنْكُمْ وَيَعْفُرُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧٠﴾

وَإِنْ يُرِيدُوا حِيَاةً تَكَفَّدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلِ  
فَأُمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

72. Mu by'ukuri ba bandi bemeye bakanimuka (bimukira i Madina), bagaharanira inzira ya Allah bakoresheje imitungo yabo n'imbaraga zabo, ndetse na ba bandi babakiriye bakanabarwanaho; abo (abimukira n'ababakiriye) ni inshuti hagati yabo. Naho ba bandi bemeye ariko ntibimuke, si ngombwa kubagira inshuti kugeza bimutse. Ariko kandi nibabitabaza ku mpamu z'idini, mujye mubatabara, keretse (mu gihe abo barwana na bo) ari abantu mufitanye amasezerano (yo kudaterana). Kandi Allah ni Ubona bihebuje ibyo mukora.

73. Na ba bandi bahakanye ni inshuti hagati yabo. Nimutabigenza mutyo (ngo namwe mukundane), hazaba ingorane n'ubwangizi bukomeye ku isi.

74. Naho ba bandi bemeye bakanimukira (i Madina), bagaharanira inzira ya Allah, ndetse na ba bandi babakiriye bakanabarwanaho; abo ni bo bemera by'ukuri. Bazababarirwa ibyaha banahabwe amafunguro meza.

75. Na ba bandi baje kwemera nyuma, nuko bakanimuka (bimukira i Madina),

إِنَّ الَّذِينَ إِمَّا مُؤْمِنُوْهَا جَرُوا وَجَهَدُوا بِمَا مُؤْمِنُوْهُمْ  
وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ إِمَّا أَوْتُوا وَنَصَرُوا  
أُولَئِكَ بَعْضُهُمُ أُولَئِكَ بَعْضٌ وَالَّذِينَ إِمَّا مُؤْمِنُوْهُمْ  
يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّنْ وَلِيَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا  
وَإِنْ أَسْتَصْرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيَّ حُكْمُ الظَّرْرِ  
إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مَيْتَقٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ  
تَعَمَّلُونَ بَصِيرٌ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمُ أُولَئِكَ بَعْضٌ إِلَّا  
تَفْعُلُوهُ تَكُونُ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَقَاتِلُوكُمْ كَيْرٌ

٧٣

وَالَّذِينَ إِمَّا مُؤْمِنُوْهَا جَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَالَّذِينَ إِمَّا أَوْتُوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ  
حَقَّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَيْرٌ

وَالَّذِينَ إِمَّا مُؤْمِنُوْهُمْ مِّنْ بَعْدٍ وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا  
مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ

bakanifatanya namwe mu guharanira inzira ya Allah, abo bari muri mwe. Ariko abafitanye amasano, bamwe bafite uburenganzira busumba ubw'abandi (mu izungura) rishingiye ku mategeko ya Allah. Mu by'ukuri Allah ni Umumenyi wa byose<sup>103</sup>.

أَوَلَى بِعَضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ شَيْءاً عَلَيْهِمْ



### 9 - SURAT A-TAWUBAT (UKWICUZA)

*Yahishuriwe i Madina, igizwe n'imirongo 129.*

1. (Iri ni itangazo) risesa amasezerano riturutse kwa Allah n'Intumwa ye, rigenewe ba bangikanyamana mwagiranye amasezerano (bakayarengaho).

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدُوا مِنْ

الْمُشْرِكِينَ ﴿١﴾

2. Ngaho (yemwe babangikanyamana) nimwidegembye ku isi mu gihe cy'amezi ane, ariko mumenyi ko ntaho muzacikira (ibihano bya) Allah, kandi ko mu by'ukuri Allah azasuzuguza abahakanyi.

فَسِيَحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّهُمْ

غَيْرُ مُعِذَنِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِنُ الْكَافِرِينَ ﴿٢﴾

3. Ni n'itangazo riturutse kwa Allah n'Intumwa ye rigenewe abantu bose ku munsi w'Umutambagiro Mukuru

وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الْنَّاسِ يَوْمَ الْحِجَّةِ

الْأَكَعَّبِ إِنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ

<sup>103</sup>-Ubwo Abayisilamu bimukiraga i Madina, Intumwa Muhamadi yunze ubuvandimwe hagati y'abimukira bari baturutse i Maka n'abasangwa b'i Madina, kugeza n'aho bazunguranaga. Ariko ubwo uyu murongo wahishurwaga wakuyeho iryo zungura ushimangira ko izungura rishingira ku isano gusa, nk'uko bishimangirwa n'indi mirongo yo muri Qur'an, Surat Nisai.

(umunsi wa cumi w'ukwezi kwa Dhul Hija), ko Allah n'Intumwa ye bitandukanyije n'ababangikanyamana. Bityo nimwicuza bizaba ari byo byiza kuri mwe, ariko nimutera umugongo, ubwo mumenye ko ntaho muzacikira (ibihano bya) Allah. Unageze kuri ba bandi bahakanye inkuru y'ibihano bibabaza.

4. Uretse ba babangikanyamana mwagiranye amasezerano ntibagire icyo bayicaho, cyangwa ngo bagire uwo batera ingabo mu bitugu mu babarwanya. Nimwubahirize amasezerano yabo (mwagiranye) kugeza igihe mwumvikanye. Mu by'ukuri Allah akunda abamutinya.

5. Ariko amezi matagatifu<sup>104</sup> narangira, mujye mwica ababangikanyamana (barenze ku masezerano mwagiranye bakanifatanya n'umwanzi wanyu) aho muzajya mubasanga hose<sup>105</sup>. Muzajye mubacakira, mubagote munabubikire muri buri bwubikiro. Ariko nibicuza (bakareka kubangikanya Imana) bagatuganya iswala,

فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّتُمْ فَأُعْلَمُ بِأَنَّكُمْ عَيْرُ مُعَجِّزِي اللَّهِ وَبَشِّرُ الظَّاهِرَ كَفَرُوا  
يَعْذَابُ الْآَيَّرِ

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدُتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْفُصُمُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظْهِرُوكُمْ أَحَدًا فَاتَّمُوا  
إِلَيْهِمْ عَاهَدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُتَّقِينَ

فَإِذَا أُنسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُومُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ  
حَيْثُ وَجَدُّتُمُوهُمْ وَحْدُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ  
وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقْامُوا  
الْصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكُوْنَةَ فَخَلُّوْنَاهُمْ إِنَّ  
اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

<sup>104</sup> Amezi matagatifu avugwa muri uyu murongo ni amezi ane akurikira: Muharam (ukwa mbere), Radjab (ukwa karindwi), Dhul Qa'adat (ukwa cumi na kumwe) na Dhul Hijat (ukwa cumi n'abiri) y'ikirangaminsi cya Kiyisilamu gishingiye ku mboneko z'ukwezi.

<sup>105</sup> Uyu murongo uravuga ibirebana n'urugamba rwo kurwanya ababangikanyamana bari i Maka bari baragiranye amasezerano y'amahoro n'Intumwa Muhamadi (Imana imuhe amahoro n'imigisha), ariko baje kuyarengaho bakomeza ibikorwa by'ihohotera n'ubugizi bwa nabi bakoreraga abemeramana. Aha hakaba ari naho Imana yahereye itegeka abemeramana guha abo babangikanyamana igihe cy'amezi ane ngo babe bahagaritse ibyo bikorwa, icyo gihe cyarangira bakibikomeje abemeramana bakabarwanya.

bakanatanga amaturo, muzajye mubareka. Mu by'ukuri **Allah** ni Ubabarira ibyaha, Nyirimpuhwe.

6. No mu babangikanyamana nihagira uguhaba (yewe Muhamadi) ubuhungiro, ujye ubumuha kugira ngo yumve amagambo ya **Allah** (Qur'an). Hanyuma umuherekeze umugeze aho ari buponere umutekano. Ibyo ni ukubera ko ari abantu badafite ubumenyi (ku bijyanyo na Isilamu).

7. Ni gute ababangikanyamana bagirana amasezerano na **Allah** ndetse n'Intumwa ye, batari ba bandi mwagiranye amasezerano ku Musigitu Mutagatifu (Ka'abat)? Igihe cyose bazabatunganira (bubahiriza amasezerano), namwe muzabatunganire (muyubahirize). Mu by'ukuri **Allah** akunda abamutinya.

8. Ni gute (mwagirana amasezerano nk'ayo na bo) kandi iyo babanesheje batita ku masano cyangwa amasezerano mwagiranye? Babagusha neza mu magambo gusa, nyamara imitima yabo itabyemera, kandi abenshi muri bo ni inkozi z'ibibi.

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ أَسْتَهِنَكَ فَلَأَجْرِهُ  
هَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَمَّا اللَّهُ شَاءَ أَبْلَغَهُ مَا مَنَهُ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ  
وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ  
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا أَسْتَقْنُمُ لَكُمْ  
فَأَسْتَقِيمُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

٧

كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقِبُوا  
فِيهِمْ إِلَّا وَلَا ذَمَّةٌ يُرْضُونَكُمْ بِأَوْهَمِهِمْ  
وَتَبَّأْلِي قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَسِقُونَ ﴿٨﴾

9. Baguranye amagambo ya Allah igiciro gito, banakumira (abantu kugana) inzira ye. Mu by'ukuri ibyo bakoraga ni bibi.

10. (Abo babangikanyamana ntibubahiriza isano cyangwa isezerano basitanye n'umwemera! Kandi abo ni bo barengera (imbago za Allah).

11. Nibaramuka bicujije bagahozaho iswala<sup>106</sup>, ndetse bakanatanga amaturo, ubwo bazaba babaye abavandimwe banyu mu idini. (Uko ni ko dusobanura amagambo (yacu) ku bantu bafite ubumenyi.

12. Ariko nibatatira indahiro zabo nyuma y'amasezerano (mwagiranye) bakanasebya idini ryanyu, mujye murwanya abayobozi b'ubuhakanyi kugira ngo barekere aho (ibikorwa byabo bibi), kuko mu by'ukuri nta sezerano bajya bubahiriza.

13. Kuki mutarwanya abantu batatiye indahiro zabo bakanashaka kumenesha Intumwa (Muhamadi), kandi ari bo babashotoye bwa mbere? Ese murabatinya? Ahubwo Allah ni We mukwiye gutinya niba koko muri abemeramana.

أَشْرَقُوا بِعِيَاتِ اللَّهِ ثُمَّ نَاقَلَاهُ فَصَدُّوا عَنْ  
سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩﴾

لَا يَرْقِبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَذَّةً وَأُولَئِكَ  
هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴿١٠﴾

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَوَةَ  
فَإِخْرَجُوكُمْ فِي الْيَمِينِ ﴿١١﴾ وَنُفَصِّلُ الْأَيَّتِ  
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٢﴾

وَإِنْ تَكُنُوا أَيْمَنَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ  
وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَنَةَ الْكُفَّارِ  
إِنَّهُمْ لَا يَأْمَنُ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ﴿١٣﴾

أَلَا تُقْتَلُونَ قَوْمًا تَكُنُوا أَيْمَنَهُمْ  
وَهُمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ  
أَوَّلَ مَرَّةٍ أَخْشَوْنَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ  
كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٤﴾

<sup>106</sup> Reba uko twasobanuye iyi nyito mu murongo wa 62 muri Surat ul Baqarat.

14. Mubarwanye kugira ngo **Allah** abahane akoresheje amaboko yanyu, abakoze isoni ndetse namwe abahe intsinzi, kandi imitima y'abemeramana ayikize (agahinda),

15. Ndetse anakure uburakari mu mitima yabo. **Allah** yakira ukwicuza k'ubo ashaka. Kandi **Allah** ni Umumenyi uhebuje, Nyirubugenge buhambaye.

16. Ese (mwe abemeramana) mwibwira ko muzarekwa (mutyo) **Allah** atagaragaje abaharaniye inzira ye muri mwe, ndetse bakaba bataragize inshuti ibindi bitari **Allah** n'Intumwa ye ndetse n'abemeramana? Kandi **Allah** azi byimazeyo ibyo mukora.

17. Ntibikwiye ko ababangikanyamana basura (basengera mu) misigit ya **Allah**, kandi ubwabo bishinja ubuhakanyi. Abo ibikorwa byabo byabaye imfabusa, kandi bazaba mu muriro ubuziraherezo.

18. Mu by'ukuri abita ku misigit ya **Allah** ni ba bandi bemeye **Allah** n'umunsi w'imperuka, bagahozaho iswala<sup>107</sup>, bagatanga amaturo ndetse ntibagire undi

قَاتَلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ يَأْتِي دِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ  
وَيُنْصَرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَسِّفُ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ

١٦

وَيُذْهِبُ عَنِّيظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ  
يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

١٧

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتَرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ  
جَهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمَّا يَتَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا  
رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَحْجَةٌ وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا  
تَعْمَلُونَ

١٨

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمَرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ  
عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَيْطَتْ  
أَعْمَانُهُمْ وَفِي الْأَنَارِ هُمْ خَلِدُونَ

١٩

إِنَّمَا يَعْمَرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَآتَيَهُ  
الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَإِنَّ الرَّكْوَةَ وَمَرْ

<sup>107</sup> Reba uko twasobanuye iyi nyito mu murongo wa 62 muri Surat ul Baqarat.

batinya utari **Allah**. Birashoboka ko abo bari mu bayobotse.

يَخْشَى إِلَّا اللَّهُ فَعَسَىٰ أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنْ

الْمُهَتَّدِينَ ﴿١٨﴾

19. Ese (igikorwa cyo) kwicira inyota abakora umutambagiro mutagatifu (Hijat) no kwita ku Musigitu Mutagatifu (Kabat), mubigereranya n'ibikorwa n'uwenmeye **Allah** n'umunsi w'imperuka akanaharanira inzira ya **Allah**? Ntibashobora kureshya imbere ya **Allah**! Kandi **Allah** ntayobora abanyamahugu.

\*أَجَعَلْتُمْ سَقَائِهَ الْحَاجَ وَعَمَارَةَ الْمَسْجِدِ

الْحَرَامَ كَمَنَءَ امَنَ بِاللَّهِ وَآيُوهُ الْآخِرِ وَجَهَدَ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوْنَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي

الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾

20. Ba bandi bemeye bakimukira (i Madina) ndetse bakanaharanira inzira ya **Allah** bakoresheje imitungo yabo na bo ubwabo, bafite urwego ruhambaye kwa **Allah**. Kandi abo ni bo batsinze.

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَا جُرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

يَا أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ

وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِرُونَ ﴿٢٠﴾

21. Nyagasani wabo abaha inkuru nziza yo kuzagirirwa impuhwe no kwishimirwa bimuturutseho, kandi bazagororerwa ijuru ririmo inema zihoraho,

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتٍ

لَهُمْ فِيهَا نَعِيْمٌ مُّقِيمٌ ﴿٢١﴾

22. Bazabamo ubuziraherezo. Mu by'ukuri **Allah** afite ibihembo bihambaye.

خَلِيلِيْنَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ

عَظِيمٌ

23. Yemwe abemeye! Ntimuzagire ababyeyi banyu n'abavandimwe banyu inshuti, igihe bahisemo ubuhakanyi baretse ukwemera. Kandi muri

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُو أَبَاءَكُمْ

وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِّي أُسْتَحِبُّ الْكُفَّارَ

mwe uzabagira inshuti, azaba abaye umwe mu nkozi z'ibibi.

عَلَى الْأَيْمَنِ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ  
الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾

24. Vuga (yewe Muhamadi) uti "Niba ababyeyi banyu, abana banyu, abavandimwe banyu, abo mwashakanye, imiryango yanyu, imitungo mwahashye, ibicuruzwa mutinya ko byahomba ndetse n'amazu mwishimiye ari byo mukunze cyane kurusha **Allah** n'Intumwa ye, ndetse no guharanira inzira ye; ngaho nimutegereze kugeza **Allah** azanye itegeko rye (ibihano)." Kandi **Allah** ntayobora abantu b'ibygomeke.

25. Rwose **Allah** yabatabaye ahantu henshi, ndetse n'umunsi (w'urugamba) rwa Hunayini, ubwo mwashukwaga n'ubwinshi bwanyu (mwibwira ko muri butsinde), maze ntibwagira icyo bubamarira, nuko (mugotwa n'umwanzi) isi ibabana nto n'ukuntu ari ngari, hanyuma musubira inyuma muhunga!

26. Nuko **Allah** amanura ituze ku ntumwa ye (Muhamadi) no ku bemera, anamanura ingabo (abamalayika) mutabonaga, nuko ahana ba bandi bahakanye. Kandi icyo nicyo gihembo cy'abahakanyi.

قُلْ إِنْ كَانَ أَبَائُكُمْ وَأَبْنَاءُكُمْ  
وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَاتُكُمْ وَأَمْوَالُ  
أَقْرَبَتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَحْشُونَ كَسَادَهَا  
وَمَسَلَّكُنَّ تَرْضُونَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ  
وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَيِّلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ  
يَأْتِيَنَّ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ  
الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾

لَقَدْ نَصَرَ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ  
حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ  
تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ  
الْأَرْضُ بِمَا رُبِّتْ ثُمَّ وَلَيْلَمُ مُدْرِيَنَ ﴿٢٥﴾

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ وَعَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى  
الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَابَ  
الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكُفَّارِ ﴿٢٦﴾

27. Nyuma y'ibyo, **Allah** azakira ukwicuza k'uwo ashaka. **Allah** ni ubabarira ibyaha, Nyirimpuhwe.

ثُمَّ يَنُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَنْ  
يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُسْرِكُونَ نَجَسٌ  
فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ  
هَذَا وَإِنْ خَفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْقَ يُغْنِي كُلُّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

28. Yemwe abemeye! Mu by'ukuri ababangikanyamana ntibasukuye, bityo ntibazegere Umusigiti Mutagatifu (ubutaka butagatifu bwa Makat) nyuma y'uju mwaka (wa cyenda kuva Intumwa yimutse). Kandi nimuba mutinya ubukene (igihombo mwaterwa no guhagarika ubucuruzi mwakoranaga na bo), **Allah** azabakungahaza bivuye mu ngabire ze nabishaka. Mu by'ukuri **Allah** ni Umumenyi uhebuje, Nyirubugenge buhambaye.

29. Nimurwanye ba bandi batemera **Allah** n'umunsi w'imperuka, batanaziririza ibyo **Allah** n'Intumwa ye baziririje (bakomoka) mu bahawe Igitabo. (Munarwanye) bamwe mu bahawe igitabo batayobotse idini ry'ukuri (Isilamu), kugeza batanke Jiziyat<sup>1</sup> ubwabo (badahagarariwe) kandi baciye bugufi.

قَاتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَلَا يُحِرِّمُونَ مَا حَرَمَ اللَّهُ  
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ  
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَقًّا يُعْطَوْا  
الْحِزْيَةَ عَنْ يَدِهِمْ صَلَغُرُونَ

<sup>1</sup> Jiziyat: Ni umusoro utangwa n'abatari Abayisilamu baba mu bihugu bya Kisilamu, kubera kurindirwa umutekano wabo n'ibyabo. Ukaba warashyizweho kugira ngo nabo bagire uruhare mu iterambere ry'ighugu barimo nk'uko n'abayisilamu bagituyemo batanga amaturo bategekwa n'idini atenza imbere igihugu.

30. Abayahudi baravuze batì “Uzayiru (Ezira) ni umwana wa Allah”, n’Abanaswara<sup>108</sup> baravuga batì “Masihi (Mesiya) ni umwana wa Allah.” Ibyo ni ibyo bivugira n’iminwa yabo bigana imvugo y’abahakanye mbere. Umuvumo wa Allah ni ubabeho! Allah arakabarimbura! Ni gute bahindukizwa (bagatera umugongo ukuri)!

31. Bafashe abamenyi babo n’abihayimana muri bo ndetse na Masihi (Mesiya) mwene Mariyamu, babagira ibigirwamana babasimbuza Allah, nyamara bari barategetswe kutagira ikindi basenga kitari Imana imwe rukumbi. Nta wundi ukwiye kugaragirwa by’ukuri uretse Yo. Ubutagatifu ni ubwayo, kandi ntaho ihuriye n’ibyo bayibangikanya nabyo.

32. (Abahakanyi) bashaka kuzimya urumuri rwa Allah (Isilamu)bakoresheje iminwa yabo, ariko Allah ntazigera abyemera, ahubwo azakomeza gusakaza urumuri rwe kabone n’ubwo bitashimisha abahakanyi.

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزِيزٌ أَبْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ  
النَّصَارَى الْمَسِيحُ أَبْنُ اللَّهِ ذَلِكَ  
قَوْلُهُمْ يَا فَرَّاهُمْ يُضَلُّهُمْ قَوْلَ الَّذِينَ  
كَفَرُوا مِنْ قَبْلٍ قَاتَلُهُمُ اللَّهُ أَنَّ  
يُؤْفَكُونَ ﴿٣٠﴾

أَنْخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ  
دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيَمَ وَمَا  
أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا  
إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانُهُ وَعَمَّا  
يُشَرِّكُونَ ﴿٣١﴾

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى  
اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتَمَّ نُورُهُ وَلَوْكَرَهُ الْكَافِرُونَ ﴿٣٢﴾

<sup>108</sup> Reba uko twasobanuye iyi nyito mu murongo wa 62 muri Surat ul Baqarat.

33. Ni We wohereje Intumwa ye (Muhamadi) izanye umuyoboro (Qur'an) n'idini by'ukuri, kugira ngo arirutishe andi madini yose, kabone n'ubwo bitashimisha ababangikanyamana.

34. Yemwe abemeye! Mu by'ukuri abenshi mu bamenyi n'abihayimana (mu bahawe igitabo) barya imitungo y'abantu mu mahugu, bakanakumira (abantu) kugana inzira ya Allah. Kandi ba bandi bahunika Zahabu na Feza ntibabitange mu nzira ya Allah, bagezeho inkuru y'ibihano bibabaza (bazahanishwa).

35. Umunsi (yo mitungo bahunitse) izacanirwa mu muriro wa Jahanamu, maze igatwikishwa uburanga bwabo, imbau zabo n'imigongo yabo (babwirwa bat) "Ibi ni ibyo mwihunikiye ubwanyu." Ngaho nimwumve (ububabare bw'ibihano) by'ibyo mwajyaga muhunika.

36. Mu by'ukuri umubare w'amezi (agize umwaka) yagenwe na Allah ni amezi cumi n'abiri (nk'uko biri) mu gitabo cya Allah<sup>109</sup> ubwo yaremaga ibirere n'isi; muri yo harimo ane matagatifu. (Kubahiriza ayo

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينٍ  
الْحَقِّ يُظْهِرُهُ عَلَى الْأَلِّيْنِ كُلِّهِ وَلَا  
كَرِهُ الْمُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾

\* يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ  
الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ  
بِالْبَطْلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ  
يَكِنْزُونَ الْذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا  
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمْ  
بِعِدَابِ الْيَمِّ ﴿٢٤﴾

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكَوَّنَ  
بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا  
كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذَوْقُوا مَا كُنْتُمْ  
تَكِنْزُونَ ﴿٢٥﴾

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ أَثْنَا عَشَرَ شَهْرًا  
فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ  
مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُومَاتٍ ذَلِكَ الَّذِيْنَ أَقْيَمُ فَلَا  
تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا

<sup>109</sup>Igitabo cya Allah kigamijwe hano ni urubaho rurinzwe rwanditsweho igeno ry'ibizaba kuzageza ku munsi w'imperuka (Lawuh ul Mah'fudhi).

mezi) ni ryo dini ritunganye; bityo ntimukayihemukiremo (mukora ibyaha). Kandi mujye murwanya ababangikanyamana bose nk'uko babarwanya mwese. Munamenye ko **Allah** ari kumwe n'abamutinya.

37. Mu by'ukuri guhindagura amezi matagatifu asimbuzwa atari yo<sup>110</sup> ni ukongera ubuhakanyi. Ibyo (Shitani) abiyobesha ba bandi bahakanye, kuko bayazirura mu mwaka umwe mu wundi bakayaziririza kugira ngo bahuze n'umubare w'ayo **Allah** yaziririje; ubwo bakaba baziruye ibyo **Allah** yaziririje. Bakundishijwe ibikorwa byabo bibi. Kandi **Allah** ntayobora abantu b'abahakanyi.

38. Yemwe abemeye! Ni kuki iyo musabwe guhagurukana ibakwe muharanira inzira ya **Allah** mugenda biguru ntege? Ese mwishimiye ubuzima bw'isi kuruta bw'imperuka? (Mumenye ko) umunezero w'ubuzima bw'isi ari uw'akanya gato uwugereranyije n'uw'imperuka.

الْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا  
يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ

الْمُتَّقِينَ

إِنَّمَا النَّيَّارُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفَّارِ يُضَلُّ  
يَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحْلِلُونَهُ وَعَامَّا  
وَيُخَرِّمُونَهُ وَعَامَّا يُؤَاكِلُونَهُ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ  
اللَّهُ فِي حِلْوَانِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُبُرٌ لَهُمْ سُوءٌ  
أَعْمَلَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ  
الْكَافِرِينَ

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِذَا قِيلَ  
لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَثَابَنَا إِلَى  
الْأَرْضِ أَرْضِيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنْ  
الْآخِرَةِ فَمَا مَتَّعْتُمُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فِي  
الْآخِرَةِ إِلَّا قِيلُ

<sup>110</sup>Ababangikanyamana bajyaga bahindagura amezi matagatifu bakayimurira mu yandi atari yo ku bw'inyungu zabo.

39. Nimudahagurukana ibakwe (muharanira inzira ya Allah), azabahanisha ibihano bibabaza anabasimbuze abandi bantu batari mwe; kandi nta cyo mwamutwara. Allah ni Ushobora byose.

40. Nimutamutabara (Intumwa Muhamadi), rwose (ntacyo bizamutwara) kuko Allah yamaze kumutabara ubwo abahakanye bamumeneshaga ari uwa kabiri muri babiri, igihe bombi (Intumwa Muhamadi na Abubakari) bari mu bувумо, (Intumwa Muhamadi) ikabwira mugenzi wayo (Abubakari) iti "Wibabara kuko mu by'ukuri Allah ari kumwe natwe." Nuko Allah amanura ituze rimuturutseho, anamushyigikiza ingabo (abamalayika) mutabonaga, maze ijambu ry'abahakanye aricisha bugufi, naho ijambu rya Allah rishyirwa hejuru, kandi Allah ni Umunyacyubahiro bihebuje, Nyirubugenge buhambaye.

41. Muhamurukane ibakwe, mwaba mworohewe (mufite ubuzima bwiza, imbaraga, umutungo) cyangwa muremerewe (murwaye, mufite imbaraga nke, ubukene), munaharanire inzira ya Allah mukoresheje imitungo yanyu

إِلَّا تَفِرُّوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا  
وَيَسْتَبِدِّلُ قَوْمًا عَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ  
شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

إِلَّا تَصْرُّوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ  
الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيًّا ثَانِيًّا إِذْ هُمَّا فِي الْعَارِ  
إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَخْرُنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا  
فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ  
بِحُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ  
كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِىَ  
الْعَلِيَّا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٠﴾

أَفِرُّوا خَفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهُدُوا بِأَمْوَالِكُمْ  
وَأَنْفَسُكُمْ فِي سَيِّلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ حَيْرَانٌ  
كُنْتُمْ تَقْلَمُونَ ﴿٤١﴾

namwe ubwanyu. Ibyo ni byo byiza kuri mwe iyaba mwari mubizi.

42. Iyo biza kuba inyungu za hafi n'urugendo rutagoranye bari kugukurikira, ariko rwababereye rurerure kandi ruvunanye. Bazanarahira ku izina rya **Allah** bagira bat "Iyo tuza kubishobora rwose twari kujyana namwe." Bariyoreka ubwabo (kubera ibinyoma n'uburyarya byabo), nyamara **Allah** azi neza ko ari abanyabinyoma.

43. **Allah** yarakubabariye (yewe Muhamadi) ku bwo kubaha uburenganzira (bwo kutajya ku rugamba) utabanje gusobanukirwa abavuga ukuri, ngo unamenye abanyabinyoma.

44. Ba bandi bemera **Allah** n'umunsi w'imperuka, ntibashobora kugusaba uburenganzira bwo kutajya guharanira inzira ya **Allah** bakoresheje imitungo yabo na bo ubwabo; kandi **Allah** azi neza abamutinya.

45. Ahubwo abagusaba uburenganzira (bwo kutajya guharanira inzira ya **Allah**), ni ba bandi batemera **Allah** n'umunsi w'imperuka, kandi imitima yabo igahora ishidikanya. Bityo, mu

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا فَاصْدَا  
لَا تَبْعُوكَ وَلَا كُنْ بَعْدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ  
وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوْ أَسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا  
مَعَكُمْ يَهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ  
لَكَذِبُونَ ﴿٤٤﴾

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لَمْ أَذْنَتْ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ  
الَّذِينَ صَدَقُوا وَنَعَمَ الْكَاذِبُونَ ﴿٤٥﴾

لَا يَسْتَعْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ أَنْ يَجْهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ  
عَلَيْهِمُ بِالْمُتَّقِينَ ﴿٤٦﴾

إِنَّمَا يَسْتَعْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَرَاتَهُمْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي  
رَيْبٍ هُمْ يَرَدَّدُونَ ﴿٤٧﴾

gushidikanya kwabo bahora  
bahuzagurika.

46. N'yo baza gushaka ko mujyana (ku rugamba), bari kurutegurira ibyangombwa; ariko **Allah** ntiyashaka ko mujyana, maze abateza ubunebwe nuko barabwirwa bati “Ngaho nimusigarane n'abasigaye (abagore, abana, abasaza n'abarwayi...).”

47. Iyo muza kujyana nta cyo bari kubongerera uretse kubatesha umurongo, baca hirya no hino bashaka ko musubiranamo, kandi muri mwe harimo abari kubatega amatwi. Kandi **Allah** azi neza inkozi z'ibibi.

48. Mu by'ukuri kuva na mbere bari barashatse ko musubiranamo, bagucurira imigambi mibisha kugeza ubwo ukuri kuje (intsinzi), maze umugambi wa **Allah** urasohora n'ubwo batari babyishimiye.

49. No muri bo hari uvuga ati “Mpa uburenganzira (bwo kutajya ku rugamba) kandi ntutume ngwa mu bigeragezo.” Nyamara bamaze kugwa mu bigeragezo (by'uburyarya). Mu by'ukuri umuriro wa Jahanamu ugose abahakanyi.

\* وَلَوْ أَرَادُوا الْخُروجَ لَاَعَدُوا لَهُ وَعْدَهُ وَلَكِنْ

كَرِهَ اللَّهُ أَيْمَانَهُمْ فَشَطَّهُمْ وَقِيلَ أَقْعُدُوا مَعَ

الْقَعْدِينَ ﴿٤٧﴾

لَوْ حَرَجُوا فِيمُّ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا حَبَالًا

وَلَا وَضَعُوا خَلَلَكُمْ يَعْوِنُوكُمْ الْفِتْنَةَ

وَفِيهِمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيهِم بِالظَّالِمِينَ ﴿٤٨﴾

٤٧

لَقَدِ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلِ وَقَلَبُوا لَكُمْ

الْأَمْوَارَ حَتَّى جَاءَ الْحُقُوقُ وَظَاهَرَ أَمْرُ اللَّهِ

وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿٤٨﴾

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ آذَنَ لِي وَلَا نَقْتَلَنَّ إِلَّا فِي

الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لِمُحِيطٍ

بِالْكَافِرِينَ ﴿٤٩﴾

50. Iyo icyiza (intsinzi) kikugezeho (yewe Muhamadi) kirabababaza, naho ikibi (gutsindwa) cyakugeraho, bakavuga bati “Mu by’ukuri twagize amakenga (ntitwajya ku rugamba)”, nuko bakagenda bishimye.

51. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Nta gishobora kutubaho kitari ico Allah yatugeneye. Ni We Murinzi wacu.” Kandi abemeramana bajye biringira Allah wenyinge.

52. Vuga uti “Ese hari ikindi mudutegerejeho kitari kimwe mu byiza bibiri (intsinzi cyangwa gupfa gitwari)? Naho twe tubategerejeho ko Allah azabahanisha ibihano bimuturutseho cyangwa binyuze kuri twe (tukabanesha). Ngaho nimutegereze, na twe dutegereje hamwe namwe.”

53. Vuga (ubwira indyarya) uti “Nimutange (imitungo yanyu) mubyishimiye cyangwa mutabyishimiye, ariko ntimuzigera mwakirirwa kuko mu by’ukuri muri abantu b’ibygomeke.”

54. Nta n’icyatumye batakirirwa ibyo batanga uretse kuba barahakanye Allah n’Intumwa ye. Ndetsa nta n’ubwo bajya mu masengesho batanebwe, kandi

إِنْ تُصِبَكَ حَسَنَةٌ سَوْهُمْ وَإِنْ  
تُصِبَكَ مُصِيَّبَةٌ يَعْلُوا قَدَّا خَذَنَا أَمْرَنَا  
مِنْ قَبْلٍ وَيَتَوَلَّ وَهُمْ فَرَحُونَ ﴿٦﴾

قُلْ لَّنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ  
مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَيَتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنُونَ

٦

قُلْ هَلْ تَرَصُونَ بِنَ إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ وَلَهُ  
نَرَبَضُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ  
عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَصُوا إِنَّا مَعَكُمْ  
مُّتَّبِصُونَ ﴿٧﴾

٧

قُلْ أَنْفَقُوا طَوْعًا أَوْ كَرَهًا لَّنْ يُتَقَبَّلَ  
مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا  
فَاسْقِينَ ﴿٨﴾

٨

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا  
أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا

nta n'ubwo  
babyishimiye.

batanga

يَأْتُوكَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ  
وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ﴿٥٤﴾

55. Bityo ntugatangazwe n'imitungo yabo n'abana babo. Mu by'ukuri **Allah** afite umugambi wo kuzabibahanisha muri ubu buzima bwo ku isi, ndetse na roho zabo zikazabavamo zibabara cyane ari n'abahakanyi.

فَلَا تُعْجِبَكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ  
لِيُعَذِّبُهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَنَزَّهَ  
أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٥٥﴾

56. Barahira ku izina rya **Allah** ko mu by'ukuri bari kumwe namwe (mu idini) nyamara batabarimo, ahubwo bo ni abantu b'abanyabwoba.

وَيَخْلُفُونَ يَالَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْ كُمْ وَمَا هُمْ مِنْ كُمْ  
وَلَا كَتَهُمْ قَوْمٌ يَفْرُوْنَ ﴿٥٦﴾

57. Iyo baza kubona ubuhungiro cyangwa ubuvumo cyangwa ubwihi sho bw'ikuzimu bari kubigana bayabangira ingata.

لَوْ يَحْدُورُكَ مَلْجَأً أَوْ مَغْرَبَاتٍ أَوْ مُدَخَّلًا لَوْلَوْأَ  
إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿٥٧﴾

58. No muri bo hari abakugaya (kubera uko ubagabanya) amaturo. Iyo bayahawemo barishima, ariko batayahabwamo bakarakara.

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُوا  
مِنْهَا رَضْوًا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوْ مِنْهَا إِذَا هُمْ  
يَسْخَطُونَ ﴿٥٨﴾

59. Nyamara iyo baza kunyurwa n'ibyo **Allah** n'Intumwa ye babahaye, bakanavuga bati "Allah araduhagije. **Allah** azaduha mu ngabire ze n'Intumwa ye (izaduha tunyurwe). Rwose twerekeje

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَآءَ اتَّهَمُوهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا  
حَسَبَنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿٥٩﴾

ibyifuzo byacu kwa **Allah**"; (ibyo byari kuba byiza kuri bo).

60. Mu by'ukuri amaturo y'itegeko (Zakat) agenewe abatindi, abakene, abashinzwe iby'amaturo, abo imitima yabo ikundishwa (kuyoboka idini rya Isilamu), (kubohoza) abacakara, abaremerewe n'imyenda, abari guharanira inzira ya **Allah** ndetse n'uri ku rugendo (yashiriwe). Iryo ni itegeko riturutse kwa **Allah**, kandi **Allah** ni Umumenyi uhebuje, Nyirubugenge buhambaye.

61. No muri bo (indyarya), hari ababuza amahoro umuhanuzi (Muhamadi) bavuga bat "We yumva ibyo abwiwe byose." Vuga uti "Yumva ibyiza kuri mwe, akemera **Allah**, akemera ibyo abwiwe n'abemeramana, kandi akaba impuhwe kuri ba bandi bemeye muri mwe." Ariko ba bandi babuza amahoro Intumwa ya **Allah**, bazahanishwa ibihano bibabaza.

62. Babarahirira ku izina rya **Allah** kugira ngo babashimishe, nyamara bari bakwiye gushimisha **Allah** n'Intumwa ye niba ari abemeramana koko.

\* إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ  
وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرِيمَيْنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَأَتَرْتَ السَّبِيلَ فِي رِضَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ  
حَكِيمٌ

وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْدُونَ أَنَّى وَيَقُولُونَ هُوَ  
أَذْنُ قُلْ أَذْنُ خَيْرٌ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ  
وَيُؤْمِنُ بِالْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ  
ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ رَسُولَ اللَّهِ  
لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

يَخْلُفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِرِضْوَكُمْ وَاللَّهُ  
وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا  
مُؤْمِنِينَ

63. Ese ntibazi ko uciye ukubiri na **Allah** n'Intumwa ye, azahanishwa umuriro wa Jahanamu akazawubamo ubuziraherezo? Icyo ni igisebo gihambaye.

64. Indyarya zitinya ko hahishurwa Isura (igice cya Qur'an) izigaragariza ibiri mu mitima yazo. Vuga uti "(Ngaho nimukomeze) munnyege! Ariko mu by'ukuri **Allah** azagaragaza ibyo mutinya.

65. Unababajije (impamvu y'uko kunnyega), baravuga bat "Mu by'ukuri twatebyaga tunikinira." Vuga uti "None se koko mwannyegaga **Allah** n'amagambo ye ndetse n'Intumwa ye?"

66. Mwishaka urwitwazo, rwose mwamaze guhakana nyuma y'uko mwemeye. Nitugira abo tubabarira muri mwe (kubera ko bicujije), tuzahana abandi kubera ko bari inkozi z'ibibi.

67. Indyarya z'abagabo n'indyarya z'abagore, bose ni bamwe; babwiriza (abantu) gukora ibibi bakanababuza gukora ibyiza, ndetse bagahina amaboko yabo (ntibatange mu nzira ya **Allah**). Bibagiwe **Allah** na We arabibagirwa. Mu

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّهُ لَهُ وَنَارٌ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخَزْنُ  
الْعَظِيمُ ﴿٦٣﴾

يَحْذِرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ  
تُتَبَّعُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ فَلِأَسْتَهْزِئُونَ إِنَّ اللَّهَ  
مُخْرِجٌ مَا تَحْدُرُونَ ﴿٦٤﴾

وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخْوَصُ  
وَنَلْعَبُ قُلْ أَيُّ أَلَّهٰ وَإِيَّاهُ وَرَسُولُهُ كُنْتُمْ  
تَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٥﴾

لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرُتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ تَعْفُ  
عَنْ طَالِفَةٍ مِّنْكُمْ فَعَذِّبْ طَالِفَةً بِإِنَّهُمْ  
كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٦٦﴾

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ  
يَا مُؤْرُوتَ بِالْمُنَكَّرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ  
الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهِمْ سَوْا اللَّهَ  
فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَسِقُونَ

by'ukuri indyarya ni zo  
byigomeke.

68. Allah yasezeranyije indyarya z'abagabo n'iz'abagore ndetse n'abahakanyi, kuzabahanisha umuriro wa Jahanamu bazabamo ubuziraherezo. Uwo urabahagije. Allah yarabavumye kandi bazahanishwa ibihano bihoraho.

69. Mumeze kimwe nka ba bandi bababanjirije; babareshaga intege, bakabarusha imitungo n'abana. Bishimishije mu byabo (igihe gito) namwe mwishimishije mu byanyu (igihe gito), nk'uko abababanjirije bishimishije mu byabo. Mwijanditse mu binyoma (mubeshyera Allah n'Intumwa ye) nk'uko na bo babyijanditsemo. Abo ibikorwa byabo byabaye imfabusa ku isi no ku mperuka. Kandi abo ni bo banyagihombo.

70. Ese inkuru ya ba bandi bababanjirije ntiyabagezeho: abantu ba Nuhu, Adi, Thamudu, abantu ba Aburahamu, abantu b'i Madiyani ndetse n'abantu (ba Loti) bubitsweho imidugudu (bari batuyemo)? Intumwa zabo zabazaniye ibimenyetso bigaragara (barabihinyura, maze Allah arabahana). Allah ntabwo ari We wabahemukiye, ahubwo ni bo ubwabo bihemukiye.

وَعَدَ اللَّهُ الْمُنْتَقِيقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ  
نَارًا جَهَنَّمَ خَلَدِيهَا فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ  
وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ

كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً  
وَأَكَثَرُهُمْ لَا يُؤْلَدُونَ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ  
فَإِذَا سَتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ كَمَا أَسْتَمْتَعَ  
كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ وَحْضُورُهُمْ  
كَيْفَ الَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حِيطَنُ أَعْمَلُهُمْ  
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ  
الْخَسِيرُونَ

الَّمَّا يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمٌ نُوحُ  
وَعَادٍ وَثَمُودٍ وَقَوْمٍ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ  
مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ  
فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمُهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا  
أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

71. Abemeramana n'abemeramanakazi ni inshuti hagati yabo. Babwiriza (abantu) gukora ibyiza bakanababuza gukora ibibi, bahozaho iswala<sup>111</sup>, bagatanga amaturo ndetse bakanumvira **Allah** n'Intumwa ye; abo **Allah** azabagirira impuhwe. Mu by'ukuri **Allah** ni Umunyacyubahiro bihebuje, Nyirubugenge buhambaye.

72. **Allah** yasezeranyije abemeramana n'abemeramanakazi ubusitani butembamo imigezi bazabamo ubuziraherezo, n'amazu meza mu Ijuru rihoraho. Ariko kwishimirwa na **Allah** ni ko gusumba byose. Iyo ni yo ntsinzi ihambaye.

73. Yewe Muhanuzi (Muhamadi)! Rwanda abahakanyi n'indyarya ndetse ntuborohere. Ubuturo bwabo ni umuriro wa Jahanamu, kandi iryo ni ryo herezo ribi.

74. Barahira ku izina rya **Allah** ko nta cyo bigeze bavuga (kibi), nyamara baravuze ijambo ry'ubuhakanyi, ndetse barahakanye nyuma yo kuba Abayisilamu! Kandi bifuje ibyo batashoboye kugeraho (kugirira nabi Intumwa Muhamadi), ndetse nta kindi bamuhoraga

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولَئِكَ بَعْضٌ  
يَا أَمْرُوتَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَيُقْيِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوةَ  
وَيُطْعِيْعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَئِكَ سَيِّدُّهُمُ  
اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ<sup>٦١</sup>

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتَ جَنَّاتٍ تَجْرِي  
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلَدِينَ فِيهَا وَمَسَكِينٌ  
طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتٍ عَدِينَ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ  
ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ<sup>٦٢</sup>

يَأَيُّهَا أَنَّبِي جَهْدِ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ  
وَأَغْلَظُ عَلَيْهِمْ وَمَا وَرَاهُمْ جَهَنَّمُ وَيُسَّ  
الْمَصِيرُ<sup>٦٣</sup>

يَحْلِمُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةً  
الْكُفَّرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمُوا بِمَا لَمْ  
يَنَالُوا وَمَا نَقْمُو إِلَّا أَنْ أَعْنَثَهُمُ اللَّهُ  
وَرَسُولُهُ وَمَنْ فَضَلَّهُ فَإِنَّ يَتُوْبُوا إِلَيْكَ خَيْرًا لَّهُمْ  
وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِ

<sup>111</sup> Reba uko twasobanuye iyi nyito mu murongo wa 62 muri Surat ul Baqarat.

uretse kuba Allah  
yarabakungahaje mu ngabire ze  
ndetse n'Intumwa ye  
ikazibagezaho. Nibicuza bizaba  
byiza kuri bo, ariko nibatera  
umugongo, Allah azabahanisha  
ibihano bibabaza ku isi no ku  
munsi w'imperuka. Kandi nta  
murinzi cyangwa umutabazi  
bazagira ku isi.

75. Muri bo hari abasezeranyije Allah (bagira bati) "Naramuka aduhaye mu ngabire ze, rwose tuzatanga amaturo ndetse tunabe mu bakora ibikorwa byiza."

76. Nuko amaze kubaha mu ngabire ze, bazigirira ubugugu maze batera umugongo (banga gutanga amaturo) baranitarura.

77. Nuko (Allah) abahanisha (gushyira) uburyarya mu mitima yabo kugeza umunsi bazahura na We; kubera ko barenze ku byo basezeranyije Allah, no kubera ko barangwaga n'ibinyoma.

78. Ese ntibazi ko Allah azi amabanga yabo n'ibyo bongorerana, kandi ko mu by'ukuri Allah ari Umumenyi uhebuje w'ibitagaragara?

الَّذِينَ أَوَلَّا حَرَمَهُ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلَىٰ وَلَا

نَصِيرٍ  
٧٤

\* وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لِئِنْ إِتَّا نَا مِنْ فَضْلِهِ  
لَضَدَّقَنَ وَلَنَكُونَ مِنَ الصَّالِحِينَ  
٧٥

فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخْلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا  
وَهُمْ مُعْرِضُونَ  
٧٦

فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُوْبَاهُمْ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَوْهُ وَبِمَا  
أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا  
يَكْرِبُونَ  
٧٧

الَّمَّا يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سَرَّهُمْ وَنَجَّوْهُمْ  
وَأَنَّ اللَّهَ عَلَمَ الْغُيُوبِ  
٧٨

79. Ba bandi basebya abemeramana batanga amaturo ku bushake (bavuga ko ari ukwiyereka abantu), (bakanasebya) abakene batanga uko bishoboye (bagaya ubuke bw'ibyo batanze) babakerensa, **Allah** azabahanira (uko gukerensa kwabo), kandi bazahanishwa ibihano bibabaza.

80. (Yewe Muhamadi) wabasabira imbabazi, utazibasabira; ndetse n'ubwo wabasabira imbabazi inshuro mirongo irindwi, **Allah** ntazigera ababarira. Ibyo ni ukubera ko bahakanye **Allah** n'Intumwa ye. Kandi **Allah** ntayobora ibygomeke.

81. Abanje kujya ku rugamba (rwa Tabuki) bashimishijwe no gusigara (i Madina) kwabo baciye ukubiri n'Intumwa ya **Allah**, ndetse banga guharanira inzira ya **Allah** bakoresheje imitungo yabo na bo ubwabo. Baranavuze (babwirana) bati "Ntimujye ku rugamba mu gihe cy'ubushyuhe." Vuga uti "Umuriro wa Jahanamu ufite ubushyuhe bukaze kurushaho", iyo baza kuba basobanukiwe!

82. Bityo bareke baseke by'igihe gito, bazarira cyane (mu muriro wa Jahanamu) nk'ighembo cy'ibyo bakoraga.

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَوَّعِينَ مِنَ  
الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَحِدُونَ  
إِلَّا جُهْدُهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخْرَ اللَّهِ  
مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

أَسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوَلَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ  
سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهِدِي الْقَوْمَ

الْفَسِيقِينَ

فَرَّحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خَلَفَ رَسُولِ اللَّهِ  
وَكَرِهُوا أَنْ يُجْهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي  
سَيِّئِ الْأَعْمَالِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحِرْقَلْ تَأْرِجَهُمْ  
أَشَدُّ حَرَّاً لَوْ كَانُوا يَفْعَلُونَ

فَلَيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلَيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا  
كَانُوا يَكْسِبُونَ

83. (Yewe Muhamadi) **Allah** nakugarura (uvuye ku rugamba) ugahura na bamwe muri bo (indyarya), maze bakagusaba uburenganzira bwo kujyana na we (ku rugamba), uzababwire uti “Ntimushobora kujyana nanjye na rimwe, ndetse nta n’ubwo twafatanya kurwanya umwanzi. Mu by’ukuri mwe mwishimiye kutajya ku rugamba bwa mbere, ngaho nimusigarane n’abaguma iwabo (abatajya ku rugamba; abagore, abana,...).”

84. Kandi ntuzigere ugira uwo usengera muri bo yapfuye, ndetse ntuzanahagarare ku mva ye (umusabira). Mu by’ukuri bahakanye **Allah** n’Intumwa ye maze bapfa ari ibyigomeke.

85. Ntukanatangazwe n’imitungo yabo n’abana babo. Mu by’ukuri **Allah** afite umugambi wo kubibahanisha hano ku isi, ndetse na roho zabo zikazabavamo ari abahakanyi.

86. N’yo isura (igice cya Qur'an) ihishuwe ibategeka kwemera **Allah** no gufatanya n’Intumwa ye guharanira inzira ye, abakungu muri bo bagusaba uburenganzira (bwo kutajya ku rugamba), bavuga bati “Tureke tugumane n’abasigaye.”

فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ  
فَأُسْتَدْنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُ وَمَعَ أَبْدًا  
وَلَنْ تُقَاتَلُوا مَعَ عَدُوٍّ إِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُودِ  
أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَلَفِينَ

﴿٨٣﴾

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَا تَأْبِدُ وَلَا تَقْمِمْ عَلَى  
قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تُقْوِي وَهُمْ  
فَلَيَسْقُونَ

﴿٨٤﴾

وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ  
يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ  
كَافِرُونَ

﴿٨٥﴾

وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةً أَنَّ إِيمَانُوا بِاللَّهِ وَجَهَدُوا مَعَ  
رَسُولِهِ أُسْتَدْنَاكَ أُولُوا الْأَطْوَلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا  
نَكُونُ مَعَ الْقَاعِدِينَ

﴿٨٦﴾

87. Bishimiye kugumana n'abasigaye (mu ngo). Imitima yabo iradanangirwa; ku bw'ibyo ntibasobanukirwa.

88. Ariko Intumwa (Muhamadi) na ba bandi bemeye hamwe na yo, baharaniye (inzira ya Allah) bakoresheje imitungo yabo na bo ubwabo. Abo bazagororerwa ibyiza, kandi abo ni bo bakiranutsi.

89. Allah yabateguriye ubusitani butembamo imigezi (Ijuru) bakazabubamo ubuziraherezo. Uko ni ko gutsinda guhambaye.

90. Nuko Abarabu bo mu cyaro baza gutanga impamvu (ku Ntumwa Muhamadi) kugira ngo bemererwe kutajya (ku rugamba), mu gihe ba bandi babeshye Allah n'Intumwa ye bigumiye mu ngo zabo (batabisabiye uburenganzira). Abahakanye muri bo, bazagerwaho n'ibihano bibabaza.

91. Nta mugayo (wo kutajya ku rugamba) ku banyantenge nke, ku barwayi cyangwa ku badafite icyo batanga, mu gihe ari abanyakuri kuri Allah n'Intumwa ye. Nta mpamvu yo kugaya abagiraneza. Kandi Allah ni Ubabarira ibyaha, Nyirimpuhwe.

رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْحَوَالِفِ وَطَبَعَ عَلَى  
قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْهَمُونَ ﴿٨٧﴾

لَكِنَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ  
جَهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأَوْلَئِكَ لَهُمْ  
الْخَيْرَاتُ وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨٨﴾

أَعَدَ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِ الْأَنْهَارُ  
خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٨٩﴾

وَجَاءَ الْمُعَذَّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ  
وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَسَيُصْبِيَ  
الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِنَّهُمْ عَذَابُ الْيَمْنِ ﴿٩٠﴾

لَيْسَ عَلَى الْضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى  
الَّذِينَ لَا يَحِدُونَ مَا يُنِفِّقُونَ حَرَجٌ إِذَا  
نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ  
مِن سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٩١﴾

92. Nta (n'umugayo) kuri ba bandi baje bakugana (yewe Muhamadi) ngo ubahe ibyo kugenderaho (abajya ku rugamba), ukavuga uti "Simfite ibyo mwagenderaho." Maze bagahindukira amaso yabo atembamo amarira, kubera agahinda ko kutabona icyo batanga (mu nzira ya Allah).

93. Mu by'ukuri umugayo uri kuri ba bandi bagusaba kutajya ku rugamba kandi ari abakire. Bishimiye kugumana n'abasigaye mu ngo, nuko Allah adanangira imitima yabo; bityo ntibazi (ingaruka z'ibyo bakoze).

94. Nimutabaruka mugahura na bo, bazababwira impamvu (batagiye ku rugamba). Vuga (yewe Muhamadi) uti "Mwigira impamvu mutanga kuko tudashobora kwemera ibyo muvuga. Allah yamaze kutumenyesha ibyanyu. Kandi Allah azareba ibikorwa byanyu ndetse n'Intumwa ye izabireba (niba muzicuza cyangwa muzaguma mu buryarya bwanyu). Hanyuma muzasubizwa ku Mumenyi w'ibiyihishe n'ibigaragara, maze abamenyeshe ibyo mwajyaga mukora."

وَلَا عَلَى الَّذِي تَكُونُتِ إِذَا مَا أَتَوكَ لِتَحْمِلَهُ  
قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا  
وَأَعْيُنُهُمْ تَفَيَّضُ مِنَ الْمَعْدَنِ حَرَّاً لَا يَحْدُو أَمَّا

يُنَفِّقُونَ ٩٣

\* إِنَّمَا أَلْسِيلُ عَلَى الَّذِي تَكُونُتِ يَسْتَذَرُونَكَ  
وَهُمْ أَعْنِيَاءٌ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَافِ  
وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٩٤

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعُوكُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا  
تَعْتَذِرُوا نَنْهَاكُمْ لَكُمْ قَدْ نَبَّأْنَا اللَّهُ مِنْ  
أَحْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَدَكُمْ وَرَسُولُهُ  
لَنْ تُرَدُّونَ إِلَى عَلَيْهِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ فِيْنَتَكُمْ بِمَا  
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٩٥

95. Nimugaruka mugahura na bo bazabarahirira ku izina rya **Allah**, kugira ngo mubihorere (ntimugire icyo mubabaza). Ngaho nimubirengagize. Mu by'ukuri ntibasukuye (kubera ibikorwa byabo bibi) kandi ubuturo bwabo buzaba mu muriro wa Jahanamu, ibyo bikazaba igihembo cy'ibyo bakoraga.

96. Barabarahirira kugira ngo mubishimire, ariko nimuramuka mubishimiye (kuko mutazi ibinyoma byabo), mu by'ukuri **Allah** ntiyishimira abantu b'ibygomeke.

97. Abarabu bo mu cyaro ni bo barusha abandi ubuhakanyi n'uburyarya, ni nabo babanguka mu kutamenya imbibibi z'ibyo **Allah** yamanuriye Intumwa ye. Kandi **Allah** ni Umumenyi uhebuje, Nyirubugenge buhambaye.

98. No mu Barabu bo mu cyaro harimo ababona ko ibyo batanga (mu nzira ya **Allah**) ari umutwaro kuri bo, bakanitega ko amakuba abageraho (mwe abemeramana). Amakuba ni abe kuri bo! **Allah** ni Uwumva bihebuje, Umumenyi uhebuje.

سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا أَقْتَلْتُمُ إِلَيْهِمْ  
لِتُعَرِّضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ  
رَجُّلٌ وَمَا أُنْهِمْ جَهَنَّمَ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا  
يَكْسِبُونَ ٩٥

يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا  
عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ  
الْفَاسِقِينَ ٩٦

الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفُرًا وَنَفَاقًا وَاجْدَرُ الْأَلَّا يَعْمَلُوا  
حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ ٩٧

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَخَذُ مَا يُنْفِقُ مَعْرَمًا  
وَيَرَضُ بِكُمُ الدَّوَارِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْقِ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٩٨

99. No mu Barabu bo mu cyaro harimo abemera Allah n'umunsi w'imperuka, bakanabona ko ibyo batanga (mu nzira ya Allah) ari ibibegereza Allah, bikaba n'impamvu yo gusabirwa n'Intumwa. Mumenye ko mu by'ukuri ibyo bibegereza (Allah) koko. Allah azabinjiza mu mpuhwe ze (Ijuru). Mu by'ukuri Allah ni Ubabarira ibyaha, Nyirimpuhwe.

100. Ababaye abambere (mu kuyoboka Isilamu) mu bimukira (bavuye i Maka bajya i Madina) n'abaturage b'i Madina (babakiriye), ndetse na ba bandi babakurikiye mu gukora ibyiza; Allah yarabishimiye ndetse na bo baramwishimira. Yanabateguriye ubusitani butembamo imigezi (Ijuru), bakazabubamo ubuziraherezo. Iyo ni intsinzi ihambaye.

101. No mu Barabu bo mu cyaro babakikije harimo indyarya, ndetse no mu bantu batuye i Madina harimo abatsimbaraye ku buryarya. Ntubazi (wowe Muhamadi) ariko twe turabazi. Tuzabahana inshuro ebyiri (ku isi no mu mva) hanyuma bazasubizwe mu bihano bihambaye (ku munsi w'imperuka).

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَيَتَّخِذُ مَا يُنِفِّقُ فُرُبَتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتٍ  
الرَّسُولُ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيِّدُ خَلْقِهِمْ  
اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

وَالسَّيِّقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ  
وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ أَتَبْعَوْهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ  
عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعْدَ اللَّهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي  
تَحْتَهَا الْأَنْهَرُ خَلِيلِنَّ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ  
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

وَمَنْ حَوَلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَفِّقُونَ وَمَنْ  
أَهْلَ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى الْنِفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ  
نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَعْدَ بْنُ مَرَّاثَيْنَ ثُمَّ يَرْدُونَ  
إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ

102. Hari n'abandi bemeye ibyaha byabo, bavanze ibikorwa byiza (kwicuza no gusaba imbabazi) n'ibibi (kutajya ku rugamba). Hari ubwo Allah yazakira ukwicuza kwabo. Mu by'ukuri Allah ni Ubabarira ibyaha, Nyirimpuhwe.

103. (Yewe Muhamadi), fata amaturo (Zakat) mu mitungo yabo (bariya bicujje), uyabasukuze kandi ubeze uyifashishije, ndetse unabasabire (kuri Allah). Mu by'ukuri ubusabe bwawe ni ituze kuri bo. Kandi Allah ni Uwumva bihebuje, Umumenyi uhebuje.

104. Ese ntibazi ko Allah ari We wakira ukwicuza kw'abagaragu be, ndetse akanakira amaturo (Zakat), kandi ko Allah ari We Uwakira ukwicuza, Nyirimbabazi?

105. Unavuge uti "Nimukore; Allah azabona ibikorwa byanyu, Intumwa ye ibibone ndetse n'abemeramana. Kandi muzagarurwa ku Mumenyi w'ibiyishe n'ibigaragara (Allah), maze abamenyeshe ibyo mwajyaga mukora."

106. Ndetse hari n'abandi barindirijwe bategereje icyo Allah azabategeka; byaba ari ukubahana cyangwa akemera ukwicuza kwabo! Kandi Allah ni

وَإِخْرُونَ أَعْتَرُ قُوًى بِذُؤْبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلَحًا  
وَإِخْرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ  
غَفُورٌ رَّحِيمٌ

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُظْهِرُهُمْ وَنُزِّكِهِمْ بِهَا  
وَاصْلِ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكْنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ  
عَلِيمٌ

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقِيلُ التَّوْبَةَ عَنِ عِبَادِهِ  
وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَابُ الرَّجِيمُ

وَقُلِّ أَعْمَلُوا فَسَيَرِي اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ  
وَالْمُؤْمِنُونَ سَرُّهُمْ إِلَى عَلِيهِ الْغَيْبُ وَالشَّهَدَةُ  
فَيَنْتَكِمُ كِيمَانِكُمْ تَعْمَلُونَ

وَإِخْرُونَ مُرجَونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا  
يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Umumenyi uhebuje,  
Nyirubugenge buhambaye.

107. Na ba bandi (indyarya) bubatse umusigit<sup>112</sup> bagamije kugirira nabi (abemeramana), guhakana (**Allah**), no gucamo ibice abemeramana, (bakanawugira) indiri y'abarwanya **Allah** n'Intumwa ye na mbere hose (yuko wubakwa), rwose bazarahira ko nta kindi bari bagambiriye kitari ibyiza. Kandi **Allah** ahanya ko mu by'ukuri ari abanyabinyoma.

108. Uramenye ntuzawuhagararemo na rimwe (usenga)! Mu by'ukuri umusigit (wa Quba) wubatswe kuva ku munsi wa mbere ku mpamu zo kugandukira **Allah**, ni wo ukwiye guhagararamo (usenga). Urimo abantu bakunda kwisukura kandi **Allah** akunda abisukura.

109. Ese uwubakiye inyubako ye ku gutinya **Allah** no gushaka ishimwe rye, yaba ari we mwiza kurusha uwubakiye inyubako ye ku nkengero z'inkombe yenda gutenguka ikamuridukana imugusha mu muriro wa Jahanamu (ni we mwiza)? Kandi

وَالَّذِينَ أَخْنَذُوا مَسْجِدًا ضَرَارًا وَكُفْرًا  
وَتَقْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ  
اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمِنْ قَبْلِهِ وَلِيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا  
الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشَهِدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٧﴾

لَا تَقُومُ فِيهِ أَبَدًا لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ  
أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ  
يُحِبُّونَ أَنْ يَتَظَاهِرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ

١٦٨

أَفَمَنْ أَسَسَ بُنْيَنَهُ وَعَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ  
وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَسَ بُنْيَنَهُ وَعَلَى شَفَافَةِ  
جُرُفٍ هَارِ فَأَنْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا  
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾

<sup>112</sup> Umusigit uvugwa muri uyu murongo wa 107 na 108 ni uwubatswe n'abantu barwanyaga Intumwa y'Imana Muhamadi (Imana imuhe amahoro n'imigisha), bawubatse hafi y'umusigit wa Quba bagamije kuwukoresha bacamo ibice Abayislamu ndetse no kuwucuririramo imigambi mibisha yo kugirira nabi Intumwa Muhamadi (Imana imuhe amahoro n'imigisha). Bamaze kuwuzuza baje gusaba Intumwa y'Imana ko yaza kuwuyoboramo iswala, maze Imana imuhishurira uyu murongo imubuza kuwusengeramo. Ni bwo Intumwa y'Imana yahise yohereza abantu bajya kuwusenza kuko utari ugamije ineza ya Islamu.

Allah ntayobora abantu b'inkozi z'ibibi.

110. Inyubako yabo bubatse izahora ibashungura imitima yabo, kugeza imitima yabo icagaguritse (bagapfa). Kandi Allah ni Umumenyi uhebuje, Nyirubugenge buhambaye.

111. Mu by'ukuri Allah yagiranye ubucuruzi n'abemeramana (bamuhu) imitima yabo n'imitungo yabo, (abizeza) ko bazabona Ijuru. Barwana mu nzira ya Allah, bakica bakanicwa. Ni isezerano ry'ukuri yiyemeje muri Tawurati, Ivanjili na Qur'an. Ni nde wakuzuza isezerano rye kurusha Allah? Ngaho nimwishimire ubucuruzi mwagiranye na We. Uko ni ko gutsinda guhambaye.

112. (Abasezeranyijwe ijuru ni abicuza, abagaragira (Allah), abashimira (Allah), abasiba, abunama (basenga), abubama (basenga), ababwiriza gukora ibyiza, ababuza gukora ibibi n'abitondera amategeko ya Allah (bakurikiza amategeko ye). Unahe inkuru nziza abemeramana (yo kuzagororerwa ijuru).

113. Ntibikwiye ku Muhanuzi (Muhamadi) na ba bandi bemeye, gusabira

لَا يَزَالُ بُنْتَهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِبَّةً فِي قُلُوبِهِمْ  
إِلَّا أَنْ تَقْطَعَ قُلُوبُهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ حَكِيمٌ

١١٠

\* إِنَّ اللَّهَ أَشْرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ  
وَأَمْوَالُهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقْتَلُونَ فِي  
سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَّا  
عَلَيْهِ حَقًا فِي التَّورَةِ وَالْإِنجِيلِ  
وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ  
فَاسْتَبِشْرُوا بِيَعْكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ يَهِ  
وَذَلِكَ هُوَ الْقَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١٠﴾

١١٠

الْتَّكَبُورَ الْعَدْلُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ  
السَّيِّحُونَ الرَّكِعُونَ السَّاجِدُونَ  
الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِرُونَ عَنِ  
الْمُنْكَرِ وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرَ  
الْمُؤْمِنِينَ

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ  
يَسْتَعْفِرُوا إِلَيْهِمْ كَيْفَ يَرَوْكُمْ أَوْلَى

ababangikanyamana  
kubabarirwa ibyaha kabone  
n'iylo baba bafitanye isano,  
nyuma y'uko bibagaragariye ko  
ari abo mu muriro wa Jahimu<sup>113</sup>  
(kuko bapfuye ari  
ababangikanyamana).

114. Nta kindi cyatumye Aburahamu asabira se kubabarirwa ibyaha, usibye ko ryari isezerano yari yaramusezeranyije. Bimaze kumugaragarira ko (se) ari umwanzi wa **Allah**, yitandukanyije na we. Mu by'ukuri Aburahamu yari uwicisha bugufi cyane, Uwihanganira (ibibi akorerwa).

115. Kandi **Allah** ntiyayobya abantu nyuma y'uko abayoboye, atabanje kubasobanurira ibyo birinda (batabikurikiza, bakayoba). Mu by'ukuri **Allah** ni Umumenyi wa byose.

116. Mu by'ukuri **Allah** ni Nyirubwami bw'ibirere n'ubw'isi. Ni We utanga ubuzima n'urupfu. Kandi nta wundi murinzi cyangwa umutabazi mwagira utari **Allah**.

117. Rwose **Allah** yamaze kwakira ukwicuza k'Umuhanuzi (Muhamadi) n'abimukira

قُرِئَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ  
**الْجَنِّيهِ**

وَمَا كَانَ أَسْتَغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَيِّهِ إِلَّا عَنْ  
مَوْعِدٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ  
عَدُوقُ اللَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَا يَوْهُ حَلِيمٌ

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضْلِلَ قَوْمًا بَعْدَ إِنْهَادَهُمْ  
حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَقَوَّنُونَ إِنَّ اللَّهَ يَكُوْلِ  
**شَيْءٍ عَلَيْهِ**

إِنَّ اللَّهَ لَهُ وَمُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحِبُّ  
وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا  
**نَصِيرٍ**

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى الْأَنْتَيِّ وَالْمَهَاجِرِينَ  
وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ أَتَبَعُوهُ فِي سَاعَةٍ عَسْرَةٍ مِنْ

<sup>113</sup>Jahimu: Ni rimwe mu mazina y'umuriro wa Jahanamu.

(bavuye i Maka bajya i Madina) ndetse n'abaturage b'i Madina (babakiriye), na ba bandi bakurikiye (Intumwa Muhamadi) mu bihe bigoye (urugamba rwa Tabuki), nyuma y'uko imitima ya bamwe muri bo yari hafi yo kudohoka ku kuri, maze yakira ukwicuza kwabo. Mu by'ukuri, We ni Nyiribambe, Nyirimbabazi kuri bo.

118. Kandi (**Allah** yakiriye ukwicuza) kwa ba bandi batatu<sup>114</sup> bari barasigaye inyuma (batagiye ku rugamba bari mu kato, bategereje ko **Allah** yakira ukwicuza kwabo), kugeza ubwo isi ibabanye ntoya n'ukuntu ari ngari, n'imitima yabo ikabura amahwemo; nuko bamenya ko ntaho bahungira **Allah** usibye kuri We. Hanyuma (**Allah**) yakira ukwicuza kwabo kugira ngo bamugarukire. Mu by'ukuri **Allah** ni Uwakira ukwicuza, Nyirimbabazi.

119. Yemwe abemeye! Mujye mutinya **Allah** kandi mube hamwe n'abanyakuri.

بَعْدِ مَا كَادَ يَرِيقُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ  
تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ وَبِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

وَعَلَى الْثَّالِثَةِ الَّذِينَ حُلِقُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ  
عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحِبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ  
أَنفُسُهُمْ وَظَاهِرًا لَا مَلِجَأً مِّنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ  
ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَابُ

الرَّحِيمُ

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَتَقُولُ أَنَّ اللَّهَ وَكُوُنُوا مَعَ  
الصَّدِيقِينَ

<sup>114</sup>Abo batatu (Hilali mwene Umaya, Ka'abu mwene Maliki na Murarat mwene Rabii) ni ba bandi bavuzwe mu murongo wa 106 muri iyi Surat. Bakoze icyaha cyo kutajya ku rugamba rwa Tabuuk kandi bari babifitiye ubushobozi, maze bicuza ku Mana ariko babwirwa ko bagomba gutegerezza kuko ukwicuza kwabo kwari kutarakirwa. Muri uyu murongo baragaragarizwa ko ukwicuza kwabo kwakiriye nyuma y'amarira n'agahinda batewe n'amakosa yabo.

120. Ntibikwiye ko abatuye i Madina n'Abarabu bo mu cyaro babakikije baca ukubiri n'Intumwa ya Allah, ndetse (ntibinakwiye) ko ubuzima bwabo baburutisha ubwayo. Ibyo ni ukubera ko badashobora kugira inyota, umunaniro cyangwa inzara mu nzira ya Allah, cyangwa se ngo bakandagire ahantu harakaza abahakanyi, cyangwa ngo batsinde umwanzi; ngo babure kubyandikirwa nk'ibikorwa byiza. Mu by'ukuri Allah ntaburizamo ibihembo by'abakora ibyiza.

121. Ndetse nta n'igito cyangwa ikinini batanga (mu nzira ya Allah), cyangwa ngo bambuke ikibaya maze ngo babure kubyandikirwa, kugira ngo Allah abahembere ibyiza by'ibyo bakoraga.

122. Kandi ntibikwiye ko abemeramaña bagenda bose (ku rugamba basize ingo zabo). Muri buri sibo hajye hagira abagenda hagire n'abasigara biga kugira ngo basobanukirwe idini, maze bazaburire abantu babo igihe bazaba babagarutsemo, nuko babe bakwirinda (ibihano bya Allah).

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوَّلُهُمْ مِنْ  
الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَحَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا  
يَرْجِعُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَآنٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي  
سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَأْطُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ  
وَلَا يَنَالُ الْوَرَبَ مِنْ عَدُوٍّ نَيَّالًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ  
عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

١٢٣

وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا  
يَقْطَعُونَ وَادِيًّا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمْ  
اللَّهُ أَحَسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

\* وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً  
فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ  
لِيَتَفَقَّهُوا فِي الْدِينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا  
إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

١٢٤

123. Yemwe abemeye! Nimurwanye abahakanyi babegereye ndetse bababonemo ubukana (ku rugamba). Kandi mumenye ko **Allah** ari kumwe n'abamugandukira.

124. N'yo hari isura (igice cya Qur'an) ihishuwe, bamwe muri bo (indyarya) baravuga bati "Ni nde muri mwe iyi (sura) yongereye ukwemera?" Nyamara ba bandi bemeye ibongerera ukwemera bakanabyishimira.

125. Naho ba bandi bafite uburwayi (bwo gushidikanya, ubuhakanyi n'uburyarya) mu mitima yabo, ibongerera umwanda (bwa burwayi) ukiyongera k'uwo bari basanganywe, maze bagapfa ari abahakanyi.

126. Ese ntibabona ko buri mwaka bageragezwa inshuro imwe cyangwa ebyiri (bahura n'amakuba, indwara z'ibyorezo ndetse n'inzara)? Nyamara ntibicuza cyangwa ngo babikuremo isomo.

127. N'yo isura (igice cya Qur'an) ihishuwe, bararebana (bakabwirana bati) "Ese hari ubabona?" Hanyuma bakigendera. **Allah** yahinduye imitima yabo (ayikura ku

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مَنْ  
الْكُفَّارِ وَلَيَجِدُوا فِي كُمْ غَلَظَةً وَأَعْلَمُوا  
أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٢٣﴾

وَإِذَا مَا أَنْزَلْتَ سُورَةً فَمَنْ يَعْوُلُ  
أَيْكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَنًا فَأَمَّا الَّذِينَ  
آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَنًا وَهُمْ يَسْتَبِشُونَ

﴿١٢٤﴾

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى  
رِجْسِهِمْ وَمَا تُؤْتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿١٢٥﴾

أَوْلَادَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُقْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ  
مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ  
يَذَّكَّرُونَ ﴿١٢٦﴾

وَإِذَا مَا أَنْزَلْتَ سُورَةً نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى  
بَعْضٍ هَلْ يَرَكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ أَنْصَرَهُ ﴿١٢٧﴾

kwemera) kubera ko ari abantu batumva.

صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ

١٢٧

128. Mu by'ukuri mwagezweho n'Intumwa ibakomokamo; iremererwa n'ingorane muhura na zo, ibitaho (kugira ngo muyoboke by'ukuri), kandi ni Inyempuhwe nyinshi, ikaba n'Inyembabazi ku bberapa.

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ  
عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ  
بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

١٢٨

129. Ariko nibatera umugongo, uvuge (yewe Muhamadi) uti “Allah arampagije.” Nta yindi mana ikwiye gusengwa uretse We. Ni We niringiye, kandi ni We Nyagasani wa Ar'shi<sup>115</sup> ihambaye.

فَإِنْ تَوَلُّوْ فَقُلْ حَسَنَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ  
عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

١٢٩

## 10 - SURAT YUNUS (UMUHANUZI YONA)

*Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirongo 109.*

*بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ*

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Alif Laam Ra<sup>116</sup>. Iyo ni imirongo (Ayat) y'igitabo cyuje ubushishozi.

الرِّتْلَكَءَاءِ اِيَّتُ الْكِتَابُ الْحَكِيمُ

<sup>115</sup> Reba uko twasobanuye iri jambo Surat ul A'raf: 54

<sup>116</sup> Alif Laam Ra: Inyuguti nk'izi twazivuzezo mu ntangiriro ya Surat Al Baqarat.

2. Ese ni igitangaza ku bantu kuba twarahishuriye umwe muri bo (Intumwa Muhamadi, tumubwira tuti) "Burira abantu (kuza kw'ibihano by'umuriro), unahe inkuru nziza ba bandi bemeye ko bazaba bari kwa Nyagasan wabo babikwiriye?" Nyamara abahakanyi baravuze bati "Mu by'ukuri uyu ni umurozi ugaragara."

3. Mu by'ukuri Nyagasan wanyu ni Allah waremye ibirere n'isi mu minsi itandatu, hanyuma aganza hejuru ya Ar'shi<sup>117</sup>. Agenga gahunda z'ibintu byose. Nta muvugizi (abantu bazagira ku munsi w'imperuka) uretse nyuma y'uburenganzira bwe. Uwo ni Allah, Nyagasan wanyu; bityo nimumusenge (wenyine). Ese ntimwibuka (ngo munakure inyigisho muri ibyo bimenyetso)?

4. Iwe ni ho muzagaruka mwese. Isezerano rya Allah ni ukuri. Ni We waremye ibiremwa (bitari biriho) akazanabigarura (nyuma yo gupfa), kugira ngo azagororere akoresheje ubutabera ba bandi bemeye bakanakora ibikorwa byiza. Naho ba bandi bahakanye, bazahabwa ibinyobwa byatuye

أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنَّ وَحِينَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنَّ  
أَنْذِرَ النَّاسَ وَبَشِّرَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَّمَ  
صِدْقٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا  
لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١﴾

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي  
سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا  
مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ  
فَأَعْبُدُهُ وَهُوَ لَنَا ذَرَرُونَ ﴿٢﴾

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ حَمِيمًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًا إِنَّهُ يَبْدَأُ  
الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَلِيَحْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا  
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا  
لَهُمْ شَرَكٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ يَمَّا كَانُوا  
يَكْفُرُونَ ﴿٣﴾

<sup>117</sup> Reba ibisobanuro by'iri jambo muri Surat Al A'raf: 54.

n'ibihano bibabaza, kubera ibyo bahakanaga.

5. Ni We wagize izuba umucyo n'ukwezi akugira urumuri, akugenera ibyiciro kugira ngo mumenye umubare w'imyaka n'uburyo bwo kubara. Nta kindi cyatumye **Allah** arema ibyo uretse impamvu y'ukuri (kugaragaza ubushobozi bwe). Asobanura ibimenyetso ku bantu bafite ubumenyi.

6. Mu by'ukuri mu gusimburana kw'ijoro n'amanywa, ndetse n'ibyo **Allah** yaremye mu birere n'isi, harimo ibimenyetso ku bantu batinya (**Allah**).

7. Mu by'ukuri ba bandi batizera kuzahura natwe, bakanyurwa n'ubuzima bwo ku isi bakumva babutujemo, na ba bandi batita ku magambo yacu,

8. Abo (bavuzwe haruguru) ubuturo bwabo ni umuriro, kubera ibyo baronkaga.

9. Mu by'ukuri ba bandi bemeye bakanakora ibikorwa byiza, Nyagasani wabo azabayobora (inzira igana mu Ijuru) kubera ukwemera kwabo. Imigezi izaba itemba munsi yabo mu Ijuru ryuje inema.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ  
مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا  
خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُعَصِّلُ الْأَيَّتِ  
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

إِنَّ فِي أَخْتِلَافِ الْأَيَّلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَكُونُ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ

﴿٦﴾

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَصُوْبًا لِحَيَاةِ الدُّنْيَا  
وَأَطْمَانُوْبِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ إِيمَانِنَا عَلَفِلُونَ

﴿٧﴾

أُولَئِكَ مَا وَهُمُ الْأَنَارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨﴾

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ  
رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنَهَرُ فِي  
جَنَّاتِ النَّعِيْمِ ﴿٩﴾

10. Ubusabe bwabo muri ryo  
buzaba ari (ukuvuga bat)  
“Subhanaka Allahuma  
(ubutagatifu ni ubwawe,  
Nyagasani!)” kandi  
indamukanyo yabo muri ryo  
izaba ari “Salamu (mugire  
amahoro!)” Naho umusozo  
w’ibusabe bwabo ni (ukuvuga  
bat) “Al’ham’du lilahi rabil  
alamina (Ishimwe n’ikuso  
byuzuye bikwiye Allah,  
Nyagasani w’ibiremwa byose).”

11. Kandi iyo Allah aza kuba  
yihutisha guha abantu ikibi  
(bisabira cyangwa basabira  
abana babo mu gihe barakaye)  
nk’uko yihutisha kubaha icyiza  
(bamusabye), rwose bari kuba  
bararimbutse. Bityo abatizera  
kuzahura natwe tukabarekera  
mu buyobe bwabo barindagira.

12. N’yo umuntu agezweho  
n’amakuba, adusaba (mu buryo  
ubwo ari bwo bwose) yaba  
aryamiye urubavu, cyangwa  
yicaye, cyangwa ahagaze.  
Nyamara twamukiza amakuba  
yari arimo, akigira nk’aho  
atigeze adusaba kumukiza  
amakuba yamugezeho. Uko ni  
ko abarengera mu gukora  
ibyaha bakundishijwe ibyo  
bakoraga.

دَعَوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحْمِيدُهُمْ  
فِيهَا سَلَامٌ وَإِخْرُ دَعَوَاهُمْ أَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ  
الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾

\*وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلتَّاسِ الشَّرَّ أُسْتَعْجَلُهُمْ  
بِالْخَيْرِ لَقُضَى إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ فَنَدَرُ الَّذِينَ لَا  
يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٦﴾

وَإِذَا مَسَ الْإِنْسَنَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنِيَّةَ أَوْ  
قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرُّهُ مَرَّ  
كَانَ لَمَّا يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَهُ وَكَذَلِكَ زُينَ  
لِمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

13. Kandi rwose tworetse ibisekuru by'ababayeho mbere yanyu ubwo bakoraga ibibi, kandi (ibyo bisekuru) byari byaranagezweho n'Intumwa zabyo zibizaniye ibimenyetso, ariko ntibyigera byemera. Uko ni ko duhana abantu b'inkozi z'ibibi.

14. Nuko mwe tubagira abasigire ku isi nyuma yabo, kugira ngo turebe uko muzakora.

15. N'yo basomewe amagambo yacu asobanutse, ba bandi batizera kuzahura natwe baravuga bati "Ngaho tuzanire Qur'an itari iyi cyangwa uyihindure." Vuga (yewe Muhamadi) uti "Ntibikwiye ko nayihindura ku bwanjye, ahubwo nkurikira ibyo mpishurirwa gusa. Mu by'ukuri ndatinya ko ndamutse nigometse kuri Nyagasani wanjye, (nazahanishwa) ibihano byo ku munsi uhambaye."

16. Vuga (yewe Muhamadi) uti "Iyo **Allah** aza kubishaka sinari kuyibasomera, ndetse nta n'ubwo yari kuyibamenyesha. Mu by'ukuri nabaye muri mwe igihe kirekire mbere yayo (Qur'an). Ese nta bwenge mugira (ngo mubukoreshe mu gutekereza neza)?"

وَلَقَدْ أَهْلَكَنَا الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِنَا لَمَّا ظَلَمُوا  
وَجَاءَنَّهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا  
كَذَلِكَ يَنْجِرِي الْقَوْمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿١٣﴾

لَمْ يُجْعَلْنَا كُمْ خَلَقْ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ  
لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

وَإِذَا شَتَّى عَلَيْهِمْ إِيمَانًا بَيْسَتِ قَالَ اللَّهُ يَسِيرَ  
يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتَتْ بِقُرْءَانٍ غَيْرَ هَذَا أَوْ  
بَدِيلَهُ فُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ وَمِنْ تِلْقَائِي  
نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَّدُ إِلَى إِنِّي أَخَافُ إِنْ  
عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾

قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ وَعَلَيْكُمْ وَلَا  
أَدْرِكُمْ بِهِ فَقَدْ لَيْشُ فِي كُمْ عُمُرًا مِنْ  
قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦﴾

17. None se ni nde nkozi y'ibibi kurusha uwahimbiye **Allah** ikinyoma cyangwa uwahinyuye amagambo ye? Mu by'ukuri inkozi z'ibibi ntizizatsinda.

فَمَنْ أَظْلَمُ مَمَّنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ  
كَذَّبَ بِأَيْتَهُ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ﴿١٧﴾

18. Banasenga ibitari **Allah** bitagira icyo byabatwara cyangwa ngo bigire icyo byabamarira, bakanavuga bat "Aba ni abavugizi bacu kwa **Allah**." Vuga (yewe Muhamadi) uti "Ese murabwira **Allah** ibyo atazi mu birere cyangwa mu isi? Ubutagatifu ni ubwe kandi arenze kure ibyo bamubangikanya na byo."

وَيَعْدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا  
يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَوْنَآءِ عِنْدَ اللَّهِ  
قُلْ أَتُنَبِّئُنَّ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا  
فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا  
يُشَرِّكُونَ ﴿١٨﴾

19. (Mu ntangiriro) abantu bari umuryango umwe gusa (bemera **Allah**) nyuma baza gutandukana. Iyo bitaza kuba ijambo (ryo kudahaniraho) ryaturutse kwa Nyagasani wawe ryabanje, bari guhita bacirirwaho iteka (ryo kurimbuka) ku byo batumvikanagaho.

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ فَاتَّخَلُفُوا  
وَلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ  
فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٩﴾

20. Baranavuga bati "Kuki atamanurirwa igitangaza giturutse kwa Nyagasani we (kitwemeza ukuri kwe)? Vuga (yewe Muhamadi) uti "Mu by'ukuri ubumenyi bw'ibitagaragara ni ubwa **Allah**; ngaho nimutegereze, mu by'ukuri ndi kumwe namwe mu

وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ إِيمَانٌ مِّنْ رَبِّهِ  
فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَاتَّظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ  
مِّنَ الْمُنْتَظَرِينَ ﴿٢٠﴾

bategereje (uko Allah azadukiranura)."

21. N'yo dusogongeje abantu ku mpuhwe (zacu) nyuma y'amakuba yabagezeho, bacurira imigambi mibisha amagambo yacu. Vuga (yewe Muhamadi) uti "Allah ni ubanguka mu kuburizamo imigambi mibisha." Mu by'ukuri Intumwa zacu (abamalayika) zandika imigambi mibisha yanyu (hanyuma tukazabakurikirana).

22. (Allah) ni We ubashoboza kugenda imusozi no mu nyanja, n'igihe muba muri mu mato akabajyana bitewe n'umuyaga mwiza, (abagenzi) bakawishimira, hanyuma bakagerwaho n'inkubi y'umuyaga, umuhengeri ukabagota uturutse impande zose bakabona ko bagoswe (n'urupfu), maze bagasaba Allah bamwibombaritseho (bavuga bati) "Nuramuka uturokoye aya (makuba), rwose turaba mu bashimira."

23. Ariko iyo amaze kubarokora, bigomeka ku isi bidakwiye. Yemwe bantu! Mu by'ukuri ukgomeka kwanyu ni mwe kuzagaruka, kandi ibyo ni umunezero w'ubuzima bw'isi (utaramba). Hanyuma iwacu ni

وَإِذَا أَذْقَنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسْتَهْرُ إِذَا  
لَهُمْ مَكْرُورٌ فِي أَيَّاتِنَا قُلْ اللَّهُ أَكْبَرُ مَكْرُورٌ إِنَّ رُسُلَنَا  
يَكْتُبُونَ مَا تَكْرُونَ ﴿٦﴾

هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْأَرْضِ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي  
الْفَلَكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ يُرِيجُ طِبَّةً وَفَرِحُوا بِهَا  
جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمْ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ  
مَكَانٍ وَظَلَّمُوا أَنَّهُمْ أَنْسَوْهُمْ لِحِيطَ يَهْمَ دَعَوْا اللَّهَ  
مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ لَمْ يُنْجِيَنَا مِنْ هَذِهِ لَنْكُونَ  
مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦﴾

فَلَمَّا آنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَغْوُنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ  
يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَّتَعَ

ho muzagaruka maze  
tubamenyeshe ibyo mwakoraga.

الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَرْجِعُكُمْ فَوْسِئُكُمْ  
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٣﴾

24. Mu by'ukuri ubuzima bw'isi bugereranywa nk'amazi (imvura) twamanuye mu kirere, akameza ibimera byo ku isi biribwa n'abantu n'amatungo, kugeza ubwo isi itoshye ibereye amaso, maze abayituye bakibwira ko bayigenga, nuko ikagerwaho n'itegeko ryacu (ryo kurimbura ibiyirihi), haba mu ijoro cyangwa ku manywa, maze tukabigira nk'ibyarandaguwe ndetse nk'aho bitari bihari umunsi wa mbere yaho. Uko ni ko dusobanura ibimenyetso ku bantu batekereza.

25. Kandi **Allah** ahamagarira kugana ubuturo bw'amahoro (Ijuru), akanayobora uwo ashaka mu nzira igororotse (Isilamu).

26. Abakoze neza bazagororerwa ibyiza (Ijuru) ndetse bazanagira akarusho (ko kubona uburanga bwa **Allah**). Kandi uburanga bwabo ntibuzigera butwikirwa n'umwotsi ngo bwirabure cyangwa ngo basuzugurike. Abo ni abantu bo mu ijuru, bazaribamo ubuziraherezo.

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَمُ حَقًّا إِذَا أَخْذَتِ الْأَرْضَ رُحْرُقَهَا وَزَيَّنَتْ وَطَنَ أَهْلَهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا أَنْتُمْ أَمْرُنَا إِلَّا أُونَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَانَ لَمْ تَفْنَ يَا لِلْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٦﴾

وَاللَّهُ يَدْعُوكُمْ إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صَرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٥﴾

\* لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهُهُمْ قَرْتَرٌ وَلَا ذَلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿٤٦﴾

27. Naho abakoze ibibi bazahembwa ikibi gihwanye n'ibyo bakoze, ndetse basuzugurike. Ntibazagira ubakiza (ibihano bya) Allah. Uburanga bwabo buzaba bumeze nk'ubutwikiriwe n'umwijima w'ijoro ry'icuraburindi. Abo ni abantu bo mu muriro, bazawubamo ubuziraherezo.

28. (Unibuke yewe Muhamadi) umunsi tuzabakusanyiriza hamwe bose, maze tukabwira ababangikanyije Allah tuti "Nimujye ukwanyu, mwe n'ibigirwamana byanyu!" Tuzabatandukanya maze ibigirwamana byabo bivuge biti "Si twe mwajyaga mugaragira."

29. "Bityo Allah arahagije kuba umuhanya hagati yacu namwe, kuko mu by'ukuri tutari tuzi ko mutugaragira."

30. Aho, buri muntu azamenya ibyo yakoraga maze basubizwe kwa Allah, Umurinzi wabo w'ukuri, nuko ibigirwamana bihimbiraga bibahungire kure.

31. Vuga (yewe Muhamadi) uti "Ni nde ubaha amafunguro aturutse mu kirere (imvura) no mu isi (ibimera)? Ni nde ugenga kumva no kubona? Ni nde ukura ikizima mu cyapfuye

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءً سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا  
وَتَرَهَقُهُمْ ذَلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَانُوا

أَعْشَيْتُ وُجُوهَهُمْ قَطْعًا مِنَ الْأَيْلَ مُظْلَمًا أَوْ لِكَ

أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿٢٧﴾

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا

مَكَانِكُمْ أَنْتُمْ وَشَرَكَاؤُكُمْ فَرِيزَنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ

شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيمَانًا عَبَدُونَ ﴿٢٨﴾

فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَيَنْكُرُ إِنْ كُنَّا عَنْ

عِبَادَتِكُمْ لَعْنَفَلِينَ ﴿٢٩﴾

هُنَالِكَ تَبْلُو أَكُلُّ نَفِيسٍ مَا أَسْلَفَتَ وَرُدُوا إِلَى

اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ

٣٠

فُلُّ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ مِنْ يَمْلِكُ

السَّمَعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَقَّ مِنَ الْمَيِّتِ

akanakura icyapfuye mu kizima? Ni na nde ugenga gahunda z'ibintu byose? Bazavuga bati “Ni Allah.” Vuga uti “Ese ntimutinya (ibihano bya Allah ku bwo kumubangikanya)?”

32. Uwo ni Allah, Nyagasan wanyu w'ukuri. None se ni iki gikurikira (kureka) ukuri kitari ubuyobe? None se ni gute mwateshuka ku kuri (mukareka kugaragira Allah wenyine)?

33. Uko ni ko ijambo rya Nyagasan wawe ryasohoye kuri ba bandi bigometse ko batazigera bemera (Allah ndetse n'Intumwa ye).

34. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Ese mu bigirwamana byanyu hari icyarema ibiremwa bitari biriho kikazanabigarura (nyuma yo gupfa)? Vuga uti “Allah ni We waremye ibiremwa bitari biriho akazanabigarura (nyuma yo gupfa).” Ese ni gute mwateshuka ku kuri?

35. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Ese mu bigirwamana byanyu hari icyayobora (abantu) mu nzira y'ukuri?” Vuga uti “Allah ni We uyobora (abantu) mu nzira y'ukuri. Ese ukwiye gukurikirwa ni uyobora mu nzira y'ukuri, cyangwa ni utayobora atabanje kuyoborwa? None se ubwo

وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدِيرُ الْأَمْرَ  
فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقْلَ أَفَلَا تَتَسْعَونَ ﴿٢٦﴾

فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا  
الْأَضَلَلُ فَإِنَّ نُصْرَفُونَ ﴿٢٧﴾

كَذَلِكَ حَقَّ كَمَتْ رَبِّكَ عَلَى الْذِينَ فَسَقُوا  
أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٨﴾

قُلْ هَلْ مِنْ شَرِكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ  
قُلْ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَإِنَّمَا تُوفِّكُونَ ﴿٢٩﴾

قُلْ هَلْ مِنْ شَرِكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلْ اللَّهُ يَهْدِي  
لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحُدُّ أَنْ يُتَّبِعَ أَمْ أَنْ  
يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا الْكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٠﴾

ibyanyu bimeze bite? Ni gute mubona ibantu?"

36. Kandi abenshi muri bo nta kindi bakurikira kitari ugukekeranya. Rwose gukekeranya nta cyo byamara imbere y'ukuri. Mu by'ukuri **Allah** ni Umumenyi uhebuje w'ibyo bakora.

37. Ntibishoboka ko iyi Qur'an yahimbwa nundi wese, uretse ko yaturutse kwa **Allah**. Ahubwo ishimangira ibitabo byayibanjirije ikanatanga ibisobanuro birambuye ku bitabo (bya Tawurati, Ivanjili n'ibindi). Nta gushidikanya kuyirangwamo, yaturutse kwa Nyagasani w'ibiremwa byose.

38. Cyangwa se bavuga ko (Muhamadi) yayihimbye. Vuga uti "Ngaho nimuzane isura (imwe imeze) nka yo (Qur'an), muniyambaze abo mushoboye bose batari **Allah**, niba koko muri abanyakuri."

39. Ahubwo bahinyuye (Qur'an banahakana) ibyo batari bafitiye ubumenyi ndetse n'ibisobanuro byabyo bitarabageraho. Uko ni ko abababanjirije bahinyuye. Bityo reba uko iherezo ry'inkozi z'ibibi ryagenze!

وَمَا يَتَبَعَ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا اطَّنَّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُعْنِي مَنْ

الْحَقُّ شَيْءٌ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٦﴾

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْءَانُ أَنْ يُقْرَئَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَنَقْصَاصِ الْكِتَابِ لَا

رَبَّ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٧﴾

أَمْ يَقُولُونَ أَفْرَأَنَا قُلْ فَاتَّوْ سُورَةً مِثْلَهِ وَادْعُوا

مَنْ أَسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٨﴾

بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ

كَذَّلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ

عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾

40. No muri bo hari abayemera (Qur'an) ndetse n'abatayemera, kandi Nyagasan i wawe azi neza abangizi.

وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ  
وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿١﴾

41. Nibanaguhinyura (yewe Muhamadi) uzavuge uti "Mfite ibikorwa byanje namwe mukagira ibyanyu! Ntimuzabazwa ibyo nkora kandi nanje sinzabazwa ibyo mukora."

وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ  
بَرِّيُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَّابِرِيُّ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢﴾

42. No muri bo hari abagutega amatwi (ariko ntibayoboke); ese ni wowe wumvisha abatumva kabone n'ubwo baba badasobanukirwa?

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الْمُصَمَّدَ  
وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴿٣﴾

43. No muri bo hari abakwitegerez (ariko ntibabone ibyo Allah yaguhaye bijyanye n'urumuri rw'ukwemera). Ese wayobora abigira nk'abatabona kabone n'ubwo baba batabona koko?

وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمَّى وَلَوْ كَانُوا  
لَا يُبَصِّرُونَ ﴿٤﴾

44. Mu by'ukuri Allah ntacyo ajya ahuguza abantu, ahubwo abantu ni bo bihemukira ubwabo.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ  
أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٥﴾

45. N'umunsi azabakoranyiriza hamwe, (bazamera) nk'aho batigeze babaho (ku isi) uretse isaha imwe yo ku manywa, kandi bazamenyana. Rwose ba bandi bahakanye kuzahura na

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَانَ لَمَّا يَبْثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ الْهَارِ  
يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ حَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءَ اللَّهِ  
وَمَا كَانُوا مُهَتَّدِينَ ﴿٦﴾

Allah barahombye, kandi ntibayobotse.

46. Kandi (yewe Muhamadi) n'yo twakwereka bimwe mu byo tubasezeranya (ukiri ku isi), cyangwa tukakuzuriza igihe cyawe (ugapfa), (uko byagenda kose) iwacu ni ho bazagarurwa. Hanyuma Allah akaba umuhamya w'ibyo bakoraga.

47. Na buri muryango (Umat) wahawé Intumwa; ubwo Intumwa yabo izaba ije (gutanga ubuhamya ku munsi w'imperuka), bazacirwa imanza mu butabera kandi ntibazarenganywa.

48. Baranavuga bati “Iryo sezerano (imperuka) rizasohora ryari niba koko muri abanyakuri?”

49. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Ku bwanjye, nta bushobozí mfite bwo kugira ikibi nakwíkiza cyangwa ngo ngire icyiza nakwímarira uretse icyo Allah yashaka. Buri muryango (Umat) wagonewé igihe ntarengwa (cyo kubaho); iyo igihe cyabo kigeze, ntibarindirizwa na gato cyangwa ngo bihutishwe mbere yacyo.”

وَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ تَوَفَّيَنَاكَ  
فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴿٤٦﴾

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ  
بِيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٤٧﴾

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ  
لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَخِرُونَ  
سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٤٩﴾

50. Vuga uti “Nimumbwire! Ese ibihano bye (**Allah**) biramutse bibagezeho nijoro cyangwa ku manywa (mwabihungira he)? None se ni iki inkozi z'ibibi zisaba kubyihutishaho?”

51. Ese biramutse bibagezeho ni bwo mwabyemera? (Icyo gihe muzabwirwa muti) Ese ubu (ni bwo mwemeye) kandi mwarajyaga musaba ko byihutishwa?

52. Hanyuma ba bandi bihemukiye babwirwe batii “Ngaho nimwumve ububabare bw'ibihano bihoraho. Ese hari ikindi muhaniwe kitari ibyo mwakoraga?”

53. Barakubaza batii “Ese ibyo uvuga (byerekeranye n'imperuka) ni ukuri?” Vuga (yewe Muhamadi) uti “Yego! Ndahiye ku izina rya Nyagasanwanjye! Ni ukuri! Kandi ntabwo mwananira **Allah** (nta ho mwamucikira.)”

54. N'yo umuntu wese wahemutse yagira ibyo mu isi byose agashaka kubyicunguza (ngo bimurinde ibihano, ntibyakwemerwa). Bazagerageza guhisha akababaro kabo ubwo bazaba babonye ibihano bibagezeho, kandi bazacirwa

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُهُ وَبَيْتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا  
يَسْتَعِجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٥١﴾

أَنْهُرٌ إِذَا مَا وَقَعَ عَامِنْتُمْ بِهِ عَالَفَنَ وَقَدْ لَمْتُمْ بِهِ  
تَسْتَعِجِلُونَ ﴿٥٢﴾

ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا دُوْقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ  
تَخْرُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٥٣﴾

\* وَيَسْتَدِعُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ  
لَحَقٌ وَمَا آنْتُمْ بِمُعْجِزَتِنَ ﴿٥٤﴾

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ طَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَا فَدَتَ  
بِهِ وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأُوا الْعَذَابَ وَقُضِيَ  
بِنَهْمٍ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٥٥﴾

imanza mu butabera ndetse ntibazarenganywa.

55. Nta gushidikanya ko mu by'ukuri ibiri mu birere n'ibir mu isi byose ari ibya **Allah**. Nta gushidikanya ko mu by'ukuri isezerano rya **Allah** ari ukuri. Nyamara abenshi muri bo ntibabizi.

56. Ni We utanga ubuzima n'urupfu, kandi iwe ni ho (mwese) muzasubizwa.

57. Yemwe bantu! Mu by'ukuri mwagezweho n'inyigisho (Qur'an) ziturutse kwa Nyagasan wanyu, zikaba n'umuti w'ibiri mu bituza byanyu (nk'ibangikanyama, uburwayi butandukanye, ishyari n'ibindi), ndetse zikaba umuyoboro n'impuhwe ku bemeramana.

58. Vuga (yewe Muhamadi) uti "Ku bw'ingabire za **Allah** no ku bw'impuhwe ze; ibyo bibe ari byo bishimira, kuko ari byo byiza kurusha ibyo bigwizaho."

59. Vuga uti "Nimumbwire ku by'amafunguro **Allah** yabamanuriye, maze amwe mukayaziririza andi mukayazirula!" Vuga uti "Ese **Allah** ni We wabibahereye

ۚ أَلَا إِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

۵۱ هُوَ يُحْيِي وَيُمْتَدُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

۵۲ يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُم مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشَفَاعَ لِمَنِ اتَّصَدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ

۵۳

۵۴ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَإِذَا لَكَ فَيَقْرُحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

۵۵ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمُ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلَالاً قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لَكُمْ أَمْرًا عَلَى اللَّهِ تَفَرُّوْنَ

uburenganzira, cyangwa  
mwahimbiye Allah ikinyoma?"

60. Ese ba bandi bahimbira Allah ibinyoma bazaba batekereza iki ku munsi w'imperuka? Mu by'ukuri Allah ni Nyirubuntu buhebuje ku bantu, nyamara abenshi muri bo ntibashimira.

61. Nta cyo waba ukora cyose (yewe Muhamadi) cyangwa ngo ube usoma Qur'an, ndetse nta n'igikorwa icyo ari cyo cyose mwaba mukora ngo tubure kubagenzura igihe mugikora. Kandi nta kijya cyihisha Nyagasani wawe haba mu isi cyangwa mu kirere, kabone n'ubwo kaba ari akantu gato cyane kadashobora kuboneshwa amaso ndetse n'agato kukarusha cyangwa akanini kuri two; ngo kabure kuba kanditswe mu gitabo gisobanutse (gikubiyemo igeno rya buri kintu).

62. Nta gushidikanya ko mu by'ukuri inshuti za Allah zitazigera zigira ubwoba ndetse n'agahinda.

63. (Abo ni) ba bandi bemeye kandi bakaba baratinyaga Allah.

وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَقْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ  
الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ لَدُو فَضْلٌ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ  
أَكَثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

وَمَا تَكُونُ فِي شَاءْنِ وَمَا تَسْأَلُ مِنْهُ مِنْ قُوَّاءِنِ وَلَا  
تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ  
تَفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْرُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالٍ ذَرَّةٍ  
فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ  
وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٦﴾

أَلَا إِنَّ أَوْلَيَاءَ اللَّهِ لَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ  
يَحْزُنُونَ ﴿٦﴾

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦﴾

64. Bazahabwa inkuru nziza mu buzima bwo ku isi n'ubwo ku mperuka. Amagambo ya **Allah** ntabwo ajya ahinduka. Iyo ni yo ntsinzi ihambaye.

لَهُمُ الْبَشَرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي  
الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ  
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٤﴾

65. Kandi ntugaterwe agahinda n'imvugo zabo; kuko mu by'ukuri ubutware bwose (ububasha bwose) ari ubwa **Allah**. Ni we Uwumva bihebuje, Umumenyi uhebuje.

وَلَا يَحْزُنْكُ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ  
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٥﴾

66. Nta gushidikanya ko mu by'ukuri ibiri mu birere n'ibiri mu isi ari ibya **Allah**. None se ba bandi basenga ibigirwamana babisimbuje **Allah** hari ikindi bakurikira kitari ugukekeranya no guhimba ibinyoma?

إِلَّا إِنَّ اللَّهَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي  
الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الدِّينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ  
اللَّهِ شُرَكَاءٌ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا أَفْلَانَ وَلَنْ هُمْ  
إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٦٦﴾

67. Ni We wabashyiriyeho ijoro kugira ngo muriruhukemo, n'amanywa kugira ngo mubashe kubona (bityo mushake ibibabeshaho). Mu by'ukuri muri ibyo harimo ibimenyetso ku bantu bumva.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْيَلَدَ لِتَسْكُنُوا  
فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ  
لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٧﴾

68. Baravuze bati “**Allah** afite umwana.” Ubutagatifu ni ubwe (**Allah**)! Aarihagije. Ibiri mu birere n'ibiri mu isi ni ibye. Ibi (kuvuga ko **Allah** afite umwana) nta kimenyetso mubifitiye. Ese

قَالُوا تَخَذَ اللَّهَ وَلَدًا سُبْحَانَهُ وَهُوَ أَغْنِيٌ  
لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ

(muratinyuka) mugahimbira  
**Allah** ibyo mutazi?

عِنْدَكُمْ مَنْ سُلْطَانٌ بِهَذَا أَتَقُولُونَ<sup>٦٣</sup>

عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

69. Vuga uti “Mu by'ukuri ba bandi bahimbira **Allah** ibinyoma ntibazakiranuka (ku isi no ku mperuka).”

قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا

يُفْلِحُونَ <sup>٧٤</sup>

70. Ni umunezero w'igihe gito ku isi, hanyuma bakazagarurwa iwacu maze tukabumvisha ububabare bw'ibihano bikaze kubera ibyo bahakanaga.

مَتَّعْ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ  
 نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا

يَكْفُرُونَ <sup>٧٥</sup>

71. Unabasomere inkuru ya Nuhu (Nowa) ubwo yabwiraga abantu be ati “Yemwe bantu banjye! Niba kuba mbarimo no kuba mbibutsa amagambo ya **Allah** bibabereye umutwaro (mumenye ko) **Allah** ari we niringiye. Ngaho nimuhuze umugambi munishyire hamwe n'ibigirwamana byanyu, kandi imigambi yanyu ntibe rwihihwa, maze mumfatire icyemezo kandi ntimundindirize.”

\* وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأً نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَقُومُ إِنْ  
 كَانَ كَبُرُّ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَنَذِكِيرِي بِيَآيَاتِ اللَّهِ  
 فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَاجْمِعُوا أَمْرِكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ  
 لَا يَكُونُ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ عُمَّةٌ ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا

تُظْرِفُونَ <sup>٧٦</sup>

72. Ariko nimuramuka muteye umugongo (ntimwumve ibyo mbahamagarira, mumenye ko nta gihembo mbasabye, (kuko) igihembo cyanje kiri kwa **Allah**,

فَإِنْ تَوَلَّهُمْ فَمَا سَأَلَّهُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا  
 عَلَى اللَّهِ وَأَمْرُتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ <sup>٧٧</sup>

kandi nategetswe kuba mu bicisha bugufi (Abayisilamu).

73. Nuko baramuhinyura maze tumurokorana n'abari kumwe na we mu nkuge, tubagira abasigire (ku isi), tunaroha abahinyuye amagambo yacu. Ngaho itegereze uko iherezor y'baburiwe ryagenze!

74. Hanyuma nyuma ye (Nowa) twohereza Intumwa ku bantu bazo. Zabazaniye ibimenyetso bigaragara ariko ntibemera ibyo bari barahakanye mbere. Uko ni ko tudanangira imitima y'abarengera.

75. Nuko nyuma yabo twohereza Musa na Haruna bafite ibitangaza byacu, bajya kwa Farawo n'abambari be, ariko (Farawo n'abambari be) bishyize hejuru baba abantu b'inkozi z'ibibi.

76. Bamaze kugerwaho n'ukuri kuduturutseho, baravuga bat "Mu by'ukuri ubu ni uburozi bugaragara!"

77. Musa aravuga ati "Muravuga mutyo ku kuri kwabagezeho? Ese koko murabona ubu ari uburozi? Nyamara abarozi ntibazakiranuka!"

فَكَذَبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُو فِي الْفَلَّاٰءِ  
وَجَعَلْنَاهُمْ خَلِيفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَبُوا بِعَائِتِنَا  
فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَيْنَةُ الْمُنْدَرِينَ ﴿٧٥﴾

ثُمَّ بَعَثَنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ  
بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا بِهِ مِنْ قَبْلِ  
كَذَلِكَ نَطَّبْعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِلِينَ ﴿٧٦﴾

ثُمَّ بَعَثَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ وَهَلُولُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ  
وَمَلِإِيْهِ بِعَائِتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا

مُجْرِمِينَ ﴿٧٧﴾

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ  
مُّيْتٌ ﴿٧٨﴾

قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ  
هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ ﴿٧٩﴾

78. Baravuga bati “Ese uje kugira ngo udukure ku myizerere twasanganye abakurambere bacu, no kugira ngo mwembi mugire ubuhangange mu gihugu, kandi mwembi tutabemera?”

79. Farawo aranavuga ati “Nimunzanire buri murozi wese w’umuhanga.”

80. Nuko abarozi bamaze kuza, Musa arababwira ati “Nimunage hasi ibyo mushaka kunaga.”

81. Nuko bamaze kunaga, Musa aravuga ati “Ibyo mwazanye ni uburozi, rwose **Allah** arabiburizamo. Mu by’ukuri **Allah** ntatuma ibikorwa by’abangizi bitungana.”

82. Kandi **Allah** ashimangiza ukuri amagambo ye, kabone n’ubwo bitashimisha inkozi z’ibibi.

83. Ariko nta wemeye Musa, uretse (bamwe) mu bakomoka mu bantu be, kubera gutinya Farawo n’abambari be ko babagirira nabi. Kandi mu by’ukuri Farawo yishyiraga hejuru ku isi ndetse akaba no mu barengera bagakabya.

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَفْتَنَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ إِبَاهَنَا  
وَتَكُونُ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَخْنُ لَكُمَا

بِمُؤْمِنِينَ ﴿٧٦﴾

وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتُؤْنِي بِكُلِّ سَحِيرٍ عَلَيْمٍ ﴿٧٧﴾

فَمَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَقْتُلُ مَا أَنْتُمْ

مُلْقُوتَ ﴿٧٨﴾

فَلَمَّا أَقْرَأَ الْقُرْآنَ قَالَ مُوسَى مَا جَعَلْتُمْ بِهِ السَّحْرُ إِنَّ اللَّهَ

سَيِّطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٩﴾

وَيُحِقُّ اللَّهُ أَحْقَاقَ بِكَمِيَّتِهِ وَلَوْكَرَهُ الْمُجْرُمُونَ

﴿٨٠﴾

فَمَآءَ امَّنَ لِمُوسَى إِلَّا دُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْرِ

مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِيْهِمْ أَنْ يَقْتَنِهِمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ

لَعَالِيٌّ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ وَلِمَنِ الْمُسَرِّفِينَ ﴿٨١﴾

84. Nuko Musa aravuga ati “Yemwe bantu banjye! Niba mwaremeye Allah, nimumwiringire niba koko muri Abayisilamu.”

وَقَالَ مُوسَىٰ يَقُولُ إِنْ كُنْتُمْ إِنْ أَمْتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ  
تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُّسَلِّمِينَ ﴿٨٤﴾

85. Maze baravuga batii “Allah wenyine ni we twiringiye. Nyagasanii wacu! Ntushoboze inkozi z’ibibi kudutsinda bitatubera ibigeragezo (tukadohoka ku kwemera kwacu).”

فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ  
أَطْلَالِمِينَ ﴿٨٥﴾

86. “Kandi ku bw’impuhwe zawe dukize abantu b’abahakanyi.”

وَنَحْنَ نَبِرِحُكُمْ مِّنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾

87. Nuko Musa n’umuvandimwe we tubahishurira ubutumwa (tugira tuti) “Nimuhe abantu banyu amazu mu Misiri, kandi amazu yanyu tuyagire aho gusengera, ndetse mujye muhozaho iswala<sup>118</sup>. Ngaho geza inkuru nziza ku bemera.”

وَأَوْحَيْنَا إِلَيْ مُوسَىٰ وَآخِيهِ أَنْ تَبُوءَ الْقَوْمُ كُمَا  
يُمْصَرَّ بِيُوتَهُ وَاجْعَلُوهُ بُيوْتَكُمْ قِلَّةً وَأَقِيمُوا  
الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٧﴾

88. Musa aravuga ati “Nyagasanii wacu! Mu by’ukuri wahaye Farawo n’abambari be imitako n’imitungo mu buzima bw’isi (ntibagushimira), Nyagasanii wacu! Byabayee impamu yo kuyobya (abantu) inzira yawe. Nyagasanii wacu! Oreka imitungo yabo (ntigire icyo ibamarira) unadanangire imitima yabo, kugira ngo

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ أَتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَادَهُ  
زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضْلِلُوا عَنْ  
سَبِيلِكَ رَبَّنَا أَطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَأَسْدُدْ عَلَىٰ  
قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَقًّا بِرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٨٨﴾

<sup>118</sup> Twararisobanuye mu mirongo yatambutse.

batemera kugeza babonye  
ibihano bibabaza.”

89. (**Allah**) aravuga ati "Mu  
by'ukuri ubusabe bwanyu  
mwembi (Musa na Haruna)  
bwakiriwe. Bityo, nimushikame  
ku nzira igororotse kandi  
ntimuzigere mukurikira na  
rimwe inzira y'abadafite  
ubumenyi."

90. Nuko bene Isiraheli  
tubambutsa inyanja, maza  
Farawo n'ingabo ze  
barabakurikira kubera urwango  
n'ubugizi bwa nabi, kugeza  
ubwo (Farawo) arohamye, maza  
aravuga ati "Nemeye ko ntak  
yindi mana ikwiye gusengwa  
by'ukuri uretse iyo bene Isiraheli  
bemeye, kandi njye ndi umwe  
mu Bayisilamu."

91. Ese ubu (ni bwo ubonye kwemera) kandi wari warigometse ukaba no mu bangizi?

92. Uyu munsi turarohora  
umubiri wawe (tuwurinde  
kwangirika), kugira ngo uzabere  
ikimenyetso abazabaho nyuma  
yawe! Nyamara abenshi mu  
bantu ni indangare ntibita ku  
bimenyetso byacu (ngo  
babikuremo isomo).

١٣٢ قَالَ قَدْ أُجِبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَأَسْتَقِيمَا وَلَا  
تَنْبَغِي إِنْ سَيِّلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾

\* وَجَوَزْنَا بَيْنِ إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَاتَّبَعْهُمْ فِرْقَوْنَ  
وَحُمُودُهُ بَعْيَاً وَعَدْوًا حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ  
الْفَرْقَ قالَ إِيمَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الَّذِي أَمْنَتْ  
بِهِ بَنُوا إِسْرَائِيلَ وَأَنَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنْ أَكْثَرِ الْمُفْسِدِينَ ٩١

فَالْيَوْمَ نُنْجِيَكُ بِمَدِينَكُ لِمَنْ خَلَقَ  
عَائِدَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ إِيمَانِنَا  
لَعَلَّا يَفْلُونَ

93. Kandi mu by'ukuri bene Isiraheli twabatuje ahantu hubahitse, tunabaha ibyiza kandi ntibigeze batandukana mbere y'uko bagerwagaho n'ubumenyi (Tawurati). Mu by'ukuri Nyagasani wawe azabakiranura ku munsi w'imperuka mu byo batavugagaho rumwe.

94. Kandi (yewe Muhamadi) niba ushidikanya ku byo twaguhishuriye, ngaho baza abasomye ibitabo (Tawurati na Injili) mbere yawe. Mu by'ukuri wagezweho n'ukuri guturutse kwa Nyagasani wawe. Bityo ntukabe mu bashidikanya.

95. Ntuzanigere uba umwe mu bahinyuye amagambo ya Allah, utazavaho ukaba mu banyagihombo.

96. Mu by'ukuri ba bandi ijambo rya Nyagasani wawe (ry'ibihano) ryabereye impamo ntibazigera bemera.

97. N'yo buri kimenyetso cyabageraho (ntibakwemera), kugeza babonye ibihano bibabaza.

وَلَقَدْ بَوَّانَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأً صَدِيقِ  
وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيْبَاتِ فَمَا أَخْتَلَفُوا حَتَّى  
جَاءَهُمْ أَعْلَمُ<sup>١٣</sup> إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمةِ  
فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ٩٣

إِنَّ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْأَلُ الظَّالِمِ  
يَقْرَئُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ  
مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُمْتَنَينَ ٩٤

وَلَا تَكُونَ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ  
الْكَسِيرِينَ ٩٥

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا  
يُؤْمِنُونَ ٩٦

وَلَوْجَاءَتْهُمْ كُلُّ إِعْيَادٍ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ  
الْأَلِيمَ ٩٧

98. Ese haba hari umudugudu wemeye (nyuma yo kubona ibihano) maze ukagirirwa akamaro nyuma y'uko wemera, usibye abantu ba Yunusu (Yona) ubwo bemeraga! Twabakuriyeho ibihano bisuzuguritse mu buzima bwo ku isi, nuko turabanezeza by'igihe gito.

99. Kandi iyo Nyagasani waweaza kubishaka, abari ku isi bose bari kwemera. Ese wowe (Muhamadi) urahatira abantu kuba abemeramana?

100. Umuntu ntashobora kwemera (ku bwe) bitari ku bushake bwa **Allah**, kandi (**Allah**) agena ibihano kuri ba bandi badafite ubwenge (bwo gukurikiza amategeko ye).

101. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Nimwitegerezee ibiri mu birere n'ibiri mu isi byose, ariko ibitangaza n'ababurizi ntibigirira akamaro abatemera.”

102. Ese hari ikindi bategereje kitari igisa nk'iminsi (mibi y'ibihano) y'ababayeho mbere yabo? Babwire (yewe Muhamadi) uti “Ngaho nimutegerezee, rwose ndi kumwe namwe mu bategereje.”

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرِيبَةً عَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا  
قَوْمَ يُوسُفَ لَمَّاَءَ امْنَوْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ  
الْجَنَّى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَعَنَّهُمْ إِلَى حِينٍ

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَّ مَنِ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا  
أَفَأَنْتَ تُكَرِّهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

وَمَا كَانَ لِنَفِيسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَيْهِ إِذْنُ اللَّهِ وَيَجْعَلُ  
الْأَرْجَسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا  
تُغْنِي الْأَيَكُثُ وَالنُّدُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ

فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلُوا مِنْ  
قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُسْتَظْرِفِينَ

103. Nuko turokora Intumwa zazu na ba bandi bemeye. Uko ni ko ari inshingano yacu kurokora abemeramana.

104. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Yemwe bantu! Niba mushidikanya ku idini ryanjye, (mumenye ko) ntazigera ngaragira ibyo mugaragira bitari **Allah**. Ahubwo ngaragira **Allah** We ubambura ubuzima, kandi nategetswe kuba umwe mu bemera.”

105. (Naranahishuriwe nti) “Unashikame ku idini (Isilamu) ugaragira **Allah** wenyine, kandi uramenye ntuzabe mu babangikanyamana.”

106. “Kandi ntukagire undi usaba utari **Allah**, utagira icyo akumarira cyangwa ngo agire icyo agutwara. Nuramuka ubikoze, mu by'ukuri ubwo uzaba ubaye mu babangikanyamana.”

107. Kandi **Allah** aramutse aguteje ingorane, nta wazigukiza utari We, ndetse anagushakiye icyiza, nta wakumira ingabire ze agenera uwo ashaka mu bagaragu be. Kandi ni We Ubabarira ibyaha, Nyirimpuhwe.

ثُمَّ نُنْجِحُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ أَمْنَوْكَ حَقًا  
عَلَيْنَا نُنْجِحُ الْمُؤْمِنِينَ ١٣

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ دِينِنِي فَلَا  
أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكُنْ أَعْبُدُ  
الَّهُ أَلَّذِي يَتَوَفَّكُمْ وَأَمْرَتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ  
الْمُؤْمِنِينَ ١٤

وَإِنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلَّيْلِينَ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَ مِنَ  
الْمُشْرِكِينَ ١٥

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ  
فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ ١٦

وَإِنْ يَمْسِكَ اللَّهُ بِضُرِّكَ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ  
وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ  
يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ١٧

108. Vuga (yewe Muhamadi) uti "Yemwe bantu! Rwose mwagezweho n'ukuri guturutse kwa Nyagasanji wanyu. Bityo, uyobotse aba yigiriye neza ndetse n'uyobye aba yihemukiye. Kandi njye si ndi umuhagararizi wanyu (sinoherejwe kugira ngo mbahatire kuyoboka)."

109. Kandi ujye ukurikiza ibyo uhishurirwa, unihangane kugeza ubwo **Allah** abakiranuye (wowe na bo), kuko ari We Mukiranuzi mwiza.

قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحُقْقُ مِنْ رَبِّكُمْ  
فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ  
فَإِنَّمَا يَضْلُلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنْعَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ

١٦٨

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ  
وَهُوَ خَيْرُ الْحَكَمِينَ

### 11 - SURAT HUD

(UMUHANUZI HUD)

*Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirongo 123.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya **Allah**, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Alif Laam Raa<sup>119</sup>. Iki ni igitabo kigizwe n'imirongo yasobekanywe ubushishozi, hanyuma isesengurwa na Nyirubugenge buhambaye, Umumenyi wa byose.

الرِّ كِتَبُ الْحِكْمَةَ إِلَيْتُهُ وَثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ  
حَكِيمٍ خَيْرٍ

<sup>119</sup>Alif Laam Raa: Inyuguti nk'izi twazivuzeho mu ntangiriro ya Surat Al Baqarat.

2. (Twahishuye Qur'an) kugira ngo mutazagira undi mugaragira utari Allah. Mu by'ukuri njye (Muhamadi) ndi Umuburizi wanyu uturutse kuri We (Allah), nkaba n'utanga inkuru nziza.

3. No kugira ngo musabe imbabazi Nyagasani wanyu ndetse munamwicuzeho, bityo azabahe ibyishimo bihebuje kugeza igihe cyagenwe (cyo gupfa), anahe buri wese wakoze neza ibihembo bye. Ariko nimwigomeka (mukirengagiza ibyo mbahamagarira), mu by'ukuri njye ndatinya ko mwazahura n'ibihano byo ku munsi ukomeye.

4. Kwa Allah ni ho muzagaruka (nyuma yo gupfa). Kandi ni We Ushobora byo.

5. Nta gushidikanya ko mu by'ukuri bahisha ibiri mu bituza byabo bakiyegeranya bagamije guhisha (ibirimo). Rwose n'yo bipfutse imyambaro yabo, (Allah) amenya ibyo bahishe n'ibyo bagaragaza. Mu by'ukuri We ni Umumenyi uhebuje w'ibiri mu bituza (by'abantu).

ۚ لَا۝ تَعْبُدُوا۝ إِلَّا۝ اللَّهُ۝ إِنَّمَا۝ لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ۝ وَبَشِيرٌ۝

وَإِنْ أَسْتَعْفِرُوا۝ رَبَّكُمْ تُرْبَوْا۝ إِلَيْهِ يُمْتَعَكُ مَّتَعًا۝  
حَسَنًا۝ إِلَى۝ أَجْلٍ مُّسَمًّى۝ وَلَوْلَتْ كُلَّ ذِي فَضْلٍ۝  
فَضْلَهُ۝ وَإِنْ تَوَلُّو۝ فَإِنِّي أَخَافُ عَيْنَكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ۝  
كِبِيرٌ۝

إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۝

ۚ أَلَا۝ إِنَّهُمْ يَتَنَوَّنَ صُدُورُهُمْ لِيَسْتَخْفُوا۝ مِنْهُ أَلَا۝  
حِينَ يَسْتَغْشُونَ شَيَابِهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا۝  
يُعْلَمُونَ۝ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَانِ الصُّدُورِ۝

6. Buri kiremwa cyose kigenda ku isi, **Allah** yakigeneye amafunguro. Kandi azi ubuturo bwacyo (ku isi) n'aho gishyikira (nyuma yo gupfa). Byose biri mu gitabo gisobanutse.

7. Ni na We waremye ibirere n'isi mu minsi itandatu, kandi Ar'shi<sup>120</sup> ye yari hejuru y'amazi; (ibyo byose yabikoze) kugira ngo abagerageze (bityo agaragaze) muri mwe urusha abandi ibikorwa byiza. Ariko uramutse ubabwiye uti "Mu by'ukuri muzazurwa nyuma yo gupfa", ba bandi bahakanye bavuga bat "Iyi (Qur'an) nta kindi iri cyo uretse ko ari uburozi bugaragara."

8. Kandi turamutse dukerereje ibihano kuri bo kugeza igihe cyagenwe, rwose bavuga (bannyega) bat "Ni iki kibibujije?" Bamenye ko umunsi (ibihano) bizabageraho ntakizabibakiza, kandi bazagotwa (n'ibihano) by'ibyo bajyaga bakerensa.

9. N'yo dusogongeje umuntu ku mpuhwe ziduturutseho nyuma tukazimwambura, mu by'ukuri ariheba cyane agahakana yivuye inyuma (inema za **Allah**).

\* وَمَا مِنْ دَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَىٰ اللَّهِ رِزْقُهَا  
وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي  
كِتَابٍ مُّبِينٍ ٦

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةٍ  
أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُو كُمْ  
أَيْكُمْ أَحَسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْغُوثُونَ  
مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا  
إِلَّا سَحْرٌ مُّبِينٌ ٧

وَلَئِنْ أَحَرَّنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَى أَمْمَةٍ مَعْدُودَةٍ  
لَيَقُولُنَّ مَا يَحِسِّسُهُ وَالآيَةُ يَأْتِيهِمْ لَيَسَ  
مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ  
يَسْتَهْزِئُونَ ٨

وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَّلْنَاهَا  
مِنْهُ إِنَّهُ وَلَيَعْوِسُ كَفُورٌ ٩

<sup>120</sup> Reba uko twasobanuye iri jambo Surat ul A'raf: 54.

10. Kandi n'yo tumusogongeje ku byiza nyuma yo kugerwaho n'amakuba, rwose aravuga ati "Ibibi bimvuyeho", nuko akishima akanirata cyane.

11. Uretse ba bandi bihanganye bakanakora ibikorwa byiza; abo bazahabwa imbabazi ndetse n'igihembo gihebuje (Ijuru).

12. Hari ubwo wowe (Muhamadi) wareka (kubagezaho) bimwe mu byo uhishurirwa, ndetse n'igituza cyawe kikaremererwa kuko bavuga batii "Kuki atamanuriwe ubutunzi cyangwa ngo azane n'umumalayika (ushimangira ubutumwa bwe)?" (Bagezeho ibyo uhishurirwa, kuko) mu by'ukuri wowe uri umuburizi. Kandi **Allah** ni Umuhagararizi wa byose.

13. Cyangwa baravuga batii "(Intumwa Muhamadi) yarayihimbiye (Qur'an)." Vuga uti "Ngaho nimuzane isura (ibice bya Qur'an) icumi mwihibkiye zimeze nka yo, maze muniyambaze abo mushoboye bose batari **Allah**, niba koko muri abanyakuri."

وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءً بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّهُ  
لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ الْسَّيِّئَاتُ عَنِّيٌّ إِنَّهُ لَفَرِّجٌ  
فَخُورٌ ﴿١٥﴾

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَيْرٌ ﴿١٦﴾

فَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ  
صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُنْزٌ أَوْ جَاهَةٌ  
مَعَهُ وَمَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ  
شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٧﴾

أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَّهُ قُلْ فَأَتُؤْمِنُ بِعَشَرِ سُورَاتِ مَثَلِهِ  
مُفْتَرِيَّاتٍ وَأَدْعُوا مَنْ أَسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّ  
كُلُّمُ صَدِيقٍ ﴿١٨﴾

14. Ubwo nibatazibazanira, mumenye ko (Qur'an) yahishuwe ku bumenyi bwa **Allah**, kandi ko nta yindi mana ikwiye gusengwa by'ukuri itari We. Ku bw'ibyo se mwemeye guca bugufi (kuba Abayisilamu)?

15. Abashaka ubuzima bwo ku isi n'imitako yayo, tuzabahembera ibikorwa byabo byuzuye bakiyiriho, ndetse nta n'ikigabanyijweho.

16. Abo ni ba bandi batazagira ikindi bahembwa ku munsi w'imperuka uretse umuriro, kandi ibyo bayikozeho (isi) nta cyo byabamariye, ndetse n'ibyo bakoraga byabaye imfabusa.

17. Ese abashingiye ku kuri (abemeramana) guturutse kwa Nyagasan wabo, maze uko kuri (Qur'an) kugasomwa n'umuhamya (Malayika Jibril) umuturutseho, ndetse na mbere y'uko kuri, hari igitabo (Tawurati) cyahishuriwe Musa ari umuyoboro n'impuhwe, na cyo bakaba bacyemera; (ese abo baba kimwe n'abayobye?) Naho abo mu dutsiko bahakanye uko kuri, umuriro ni ryo sezerano ryabo. Bityo, ibyo ntukabishidikanyeho kuko rwose (iyo Qur'an) ari ukuri guturutse kwa Nyagasan wawe,

فَإِنَّمَا يَسْتَهِيْبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوْا أَنَّمَا أُنْزِلَ  
بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنَّلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسَلِّمُوْنَ

١٤

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَهَا نُوفٌ إِلَيْهِمْ  
أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُوْنَ

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيَسْ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ  
وَحِيطَ مَا صَنَعُوْفِيهَا وَبَطَلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ

١٥

أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَتِهِ مِنْ رَبِّهِ وَيَتُوْهُ شَاهِدُهُمْ  
وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ  
يُؤْمِنُوْنَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرُ بِهِ مِنَ الْأَخْرَابِ فَالْأَنَارُ  
مَوْعِدُهُ وَلَا تَأْتُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ  
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ

١٦

ariko abenshi mu bantu ntibemera.

18. Ni nde nkozi y'ibibi kurusha uhimbira Allah ikinyoma? Abo bazahagarikwa imbere ya Nyagasan wabo (ku munsi w'imperuka), maze abahamya (abamalayika n'abahanuzi) bavuge bat "Aba ni bo babeshyeye Nyagasan wabo!" Nta gushidikanya ko umuvumo wa Allah uri ku nkozi z'ibibi;

19. Ba bandi bakumira (abantu) kugana inzira ya Allah, bakifufa ko (iyo nzira) yatana (ngigendere ku marangamutima yabo), kandi bagahakana imperuka.

20. Abo ntabwo bananirana (nta ho bacikira ibihano bya Allah) ku isi, kandi nta barinzi (babibarinda) batari Allah, ndetse bazanakubirwa kabiri ibihano (kubera ko batashoboraga kumva ndetse ntibanashobore kubona (ukuri).

21. Abo ni bo bihombeje ubwabo, kandi ibyo bihimbiye (biringira ko bizabakorera ubuvugizi kwa Allah ku munsi w'imperuka) bizabitarura babibure!

22. Mu by'ukuri nta gushidikanya ko ari bo bazaba

وَمَنْ أَظْلَمُ مَمَنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا  
أُولَئِكَ يُعَرِّضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَدُ  
هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ  
عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَعْنُونَهَا عَوْجَانًا  
وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿١٩﴾

أُولَئِكَ لَمْ يَكُنُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ  
لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أُولَئِكَ يُضْعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا  
كَانُوا يَسْتَطِيُونَ السَّمَعَ وَمَا كَانُوا  
يُبَصِّرُونَ ﴿٢٠﴾

أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا  
كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢١﴾

لَا جَرَأَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ﴿٢٢﴾

abanyagihombo gihambaye ku munsi w'imperuka.

23. Mu by'ukuri ba bandi bemeye bakanakora ibikorwa byiza, ndetse bakanicisha bugufi kuri Nyagasani wabo; bazaba mu Ijuru ubuziraherezo.

24. Urugero rw'amatsinda abiri (iry'abahakanyi n'iry'abemeramana) ni nko gufata umuntu utabona ndetse akaba atanumva, ukamugereranya n'ubona kandi akaba yumva. Ese ayo matsinda yombi uyagereranyije yareshya? Ese ntimwibuka?

25. Mu by'ukuri twohereje Nuhu ku bantu be (arababwira ati) "Rwose njye ndi umuburizi wanyu ugaragara."

26. "(Ndababurira) ko mutagomba kugira undi musenga utari Allah. Mu by'ukuri ndatinya ko mwazahura n'ibihano by'umunsi ubabaza."

27. Nuko ibikomerezwa byo mu bantu be byahakanye biravuga biti "Tubona uri umuntu nkatwe kandi nta n'abandi bagukurikiye uretse abaciriritse muri twe, ndetse na bo bakaba barabikoze badatekereje. Kandi nta n'icyo muturusha, ahubwo

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
وَأَخْبَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ  
هُمْ فِيهَا خَلِيلُونَ ﴿٢٣﴾

\*مَثُلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْمَى وَالْبَصِيرِ  
وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

٢٤

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمَهُ إِنَّى لَكُمْ نَذِيرٌ  
مُّبِينٌ ﴿٢٥﴾

أَنَّ لَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ  
أَلِيمٍ ﴿٢٦﴾

فَقَالَ الْمَلَأُ الْذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا زَرَنَاكَ إِلَّا  
بَشَّارًا وَشَلَانًا وَمَا زَرَنَاكَ أَبْعَلَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ  
أَرَادُوكُمْ بَادِيَ الْرَّأْيِ وَمَا زَرَنَاكَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ  
فَضْلٍ بَلْ نُظُنُنَّكُمْ لَكُمْ ذِيَّنَكُمْ ﴿٢٧﴾

dutekereza ko muri  
abanyabinyoma.”

28. (Nuhu) aravuga ati “Yemwe bantu banjye! Ese murabibona mute ndamutse mfite ikimenyetso kigaragara giturutse kwa Nyagasan wanjye, akaba ari na we wampundagajeho impuhwe (ubutumwa) zimuturutseho, ariko mwe (izo mpuhwe) mukaba mutazibona; none se ubwo twabahatira (gukurikira ubutumwa) kandi mubyanga?”

29. “Yemwe bantu banjye! Nta mutungo mbibasabira, ndetse nta n’ahandi nteze igihembo uretse kwa **Allah**. Ntabwo nshobora kwirukana abemeramana, kuko mu by’ukuri bazahura na Nyagasan wabo, ariko njye ndabona muri abantu b’injiji.”

30. “Yemwe bantu banjye! Ni nde wankiza (ibihano bya) **Allah** ndamutse mbirukanye? Ese ntimpwibuka?”

31. “Simbabwira ko mfite ibigega bya **Allah**, nta n’ubwo nzi ibitagaragara, ndetse nta n’ubwo mbabwira ko ndi umumalayika, kandi nta n’ubwo mbwira abo amaso yanyu asuzugura ko **Allah** atazabahundagazaho ibyiza. **Allah** ni We uzi ibiri mu mitima

قَالَ يَقُومٌ أَرَعَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَإِنَّتِي  
رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ فَعَمِّيْتَ عَلَيْكُمْ أَنْزِلْنِيْ مُكْمُوْهَا  
وَأَنْتُمْ لَهَا كَهُونَ ﴿١٨﴾

وَيَقُومُ لَا أَسْكُنُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ  
**اللَّهِ** وَمَا أَنَا بِطَارِدٍ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّهُمْ مُلْقُوْا  
رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَكُمْ قَوْمًا مَاجْهَلُوْنَ ﴿٢٩﴾

وَيَقُومُ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ **اللَّهِ** إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا  
تَذَكَّرُوْنَ ﴿٣٠﴾

وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي حَزَابٌ **اللَّهُ** وَلَا أَعْلَمُ  
الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ  
تَزَدَّرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ **اللَّهُ** خَيْرًا **اللَّهُ** أَعْلَمُ  
بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَمْنَ أَظْلَمِيْنَ ﴿٣١﴾

yabo. (Ndamutse mbibabwiye naba mbaye mu nkozi z'ibibi.”

32. Baravuga bati “Yewe Nuhu! Rwose watugishije impaka unazitugisha ubugira kenshi; ngaho tuzanire ibyo udukangisha (ibihano), niba koko uri mu banyakuri.”

33. (Nuhu) aravuga ati “Mu by'ukuri **Allah** ni We wenyine uzabibazanira nabishaka, kandi ntimunaniranye (nta ho mwabihungira.)”

34. “Ndetse nta n'ubwo inama zanje zbabagirira akamaro kabone n'ubwo naba nshatse kuzibagira, igihe **Allah** ashaka kubarekera mu buyobe. Ni We Nyagasani wanyu kandi iwe ni ho muzasubizwa.”

35. Cyangwa se (ababangikanyamana b'i Maka) bavuga ko (Muhamadi) yayihimbiye (Qur'an)? Vuga uti “Niba narayihimbye icyo cyaha kimbarweho, ariko njye nta ho mpuriye n'ibaya mukora.”

36. Kandi Nuhu yahishuriwe (ubutumwa bugira buti) “Mu bantu bawe ntawe uzagira ukwemera, usibye abamaze kwemera. Bityo, ntukababazwe n'ibyo bakoraga.”

قَالَ الْوَيْنُونُخُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَكَذَرَتْ جَدَلَنَا فَأَتَنَا بِمَا

تَعَدُّنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٦﴾

قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيُكُمْ بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ

بِمُعْجِزَتِنَ ﴿٢٧﴾

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيَ إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَضْحَى لَكُمْ إِنْ  
كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُعَوِّكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ

تُرْجَعُونَ ﴿٢٨﴾

أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَهُ قُلْ إِنْ أَفْتَرَيْتُهُ فَعَلَىَّ

إِحْرَامِي وَأَنَّا بِرِّئَءٍ مِّمَّا تُحْمِرُونَ ﴿٢٩﴾

وَأَوْحَى إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ وَلَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمَكَ إِلَّا مَنْ

قَدَّمَ أَمَنَ فَلَا تَبْتَسِّسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٠﴾

37. "Maze wubake inkuge tukurinze, (bijyanye) n'ubutumwa bwacu, kandi ntunsabe (kubarira) ba bandi b'inkozi z'ibibi; kuko mu by'ukuri bagomba kurohama."

38. Nuko ubwo yubakaga inkuge, buri uko ibikomerezwa byo mu bantu be byamunyuragaho, byaramusekaga. Akavuga ati "Niba mutunnyega natwe tuzabannyega nk'uko mutunnyega."

39. "Muzanamenya uzagerwaho n'ibihano bimusuzuguza ndetse akazanagerwaho n'ibihanobihoraho."

40. Nuko ubwo itegeko ryacu (ryo kubahana) ryasohoraga, maze itanura rigatangira gupfupfunyukamo amazi afite imbaraga (nk'ikimenyetso cy'uko ibihano bije) twaravuze tuti "Shyiramo (mu nkuge) ikigabo n'ikigore (bya buri nyamaswa) ndetse n'umuryango wawe, uretse abaciriweho iteka (ryo kurimbuka; ari bo umugore wawe n'umwana wawe), unashyiremo abemeye." Kandi ntawigeze yemera hamwe nawe uretse mbarwa.

وَاصْنَعْ الْفُلَكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِينَا وَلَا تُخْطِبْنِي فِي  
الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغَرَّبُونَ ﴿٣٧﴾

وَيَصْنَعُ الْفُلَكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ  
سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ سَخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخُرُ  
مِنْكُمْ كَمَا سَخَرُونَ ﴿٣٨﴾

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِنُهُ وَيَحْلِلُ عَلَيْهِ  
عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٩﴾

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ السَّنُورُ قُلْنَا أَحْمِلُ فِيهَا  
مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ أَثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ  
عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ



41. Nuko (Nuhu) aravuga ati “Muyinjiremo. Kugenda mu mazi kwayo no kugera ku mwaro kwayo bibe mu izina rya Allah. Mu by’ukuri Nyagasanani wanje ni Ubabarira ibyaha, Nyirimpuhwe.”

42. Ubwo (ya nkuge) yari ibatwaye hagati mu muhengeri umeze nk’imisozi, Nuhu yahamagaye umuhungu we wari witaruye ati “Yewe mwana wanje! Ngwino tujyane kandi ntube hamwe n’abahakanyi.”

43. (Umuhungu we) aravuga ati “Ndahungira ku musozi undinde amazi.” (Nuhu) aravuga ati “Uyu munsi nta gikumira iteka rya Allah, usibye uwo yagiriye impuhwe (ni we uza kurokoka).” Nuko umuhengeri urabatandukanya maze (umuhungu we) aba mu barohamye.

44. Maze isi irabwirwa iti “Yewe wa si we! Mira amazi yawe! Nawe wa kirere we! Hagarika (imvura yawe). Nuko amazi arakama, iteka (ryo kuboreka) riba rirasohoye. Maze (inkuge) ihagarara ku musozi witwa Judi<sup>121</sup>. Nuko havugwa imvugo igira iti “Ukurimbuka kubaye ku bantu b’ababangikanyamana!”

\* وَقَالَ أَرْكَبُوا فِيهَا سَمِّ اللَّهِ مَجْرِيهَا  
وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ تَّحِيمٌ ﴿٤١﴾

وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى بُوْحٌ  
أُبَّهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَبْتَئِلُ أَرْكَبَ مَعْنَى وَلَا تَكُونُ  
مَعَ الْكَفِيرِينَ ﴿٤٢﴾

قَالَ سَاقَا وَيَ إِلَى جَبَلٍ يَعْصُمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا  
عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ  
بِيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغَرَّقِينَ ﴿٤٣﴾

وَقِيلَ يَأْرُضُ أَبْلَعِي مَاءِكَ وَيَسْمَاءُ أَقْبَعِي  
وَغِيشَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى  
الْجُودِي وَقِيلَ بَعْدَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾

<sup>121</sup> Umusozi witwa Judi, uherereye kuri ubu mu majyepfo y’igihugu cya Turukiya.

45. Nuko Nuhu ahamagara Nyagasani we agira ati “Nyagasani wanjye! Mu by'ukuri umuhungu wanjye ari mu bagize umuryango wanjye! Kandi rwose isezerano ryawe ni ukuri, ndetse ni na we Mucamanza usumba abandi.”

46. (Allah) aravuga ati “Yewe Nuhu! Rwose we (umuhungu wawe warohamye) ntabwo ari mu bagize umuryango wawe (nagusezeranyije kurokora). Mu by'ukuri ibikorwa bye ntibitunganye, kandi ntukambaze ibyo udafitiye ubumenyi. Mu by'ukuri ndakugira inama ngo utavaho ukaba umwe mu njiji.”

47. (Nuhu) aravuga ati “Nyagasani wanjye! Ndakwiragije ngo undinde kuba nakubaza ibyo ntafitiye ubumenyi. Kandi uramutse utambabariye ngo unangirire impuhwe, mu by'ukuri naba mu banyagihombo.”

48. Arabwirwa ati “Yewe Nuhu! Ururuka (mu nkuge) mu mahoro aduturutseho, kandi imigisha ikubeho no ku bantu bazakomoka ku bo muri kumwe. Ariko (hari abandi) bantu tuzaha umunezero (w'igihe gito), maze ku iherezo

وَنَادَىٰ رُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ أَبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ  
وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنَّتِ أَحَدَكُمُ الْحَكَمِينَ ﴿٤٥﴾

قَالَ يَنْوُحُ إِنَّهُ لَيَسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ  
صَلَاحٍ فَلَا سَهَلٌ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعْظُمُ  
أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٤٦﴾

قَالَ رَبِّي إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ  
عِلْمٌ وَإِنَّا تَغْفِرُ لِي وَتَرْحَمُنِي أَكُنْ مِنْ  
الْخَسِيرِينَ ﴿٤٧﴾

قِيلَ يَنْوُحُ أَهْيَطْ يَسَلَمُ مَنَا وَبَرَكَتِ عَلَيْكَ  
وَعَلَىٰ أُمَّمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَأَمْمٌ سَنَمْتَعْهُمْ ثُمَّ  
يَمْسُهُمْ مَنَّا عَذَابُ الْيَمْرِ ﴿٤٨﴾

bakazagerwaho n'ibihano  
bibabaza biduturutseho."

49. Izo ni zimwe mu nkuru z'ihiyishe tuguhishurira (yewe Muhamadi); wowe n'abantu bawe nta zo mwari muzi mbere (y'ihiyurwa) ry'iyi (Qur'an). Bityo, ihangane kuko mu by'ukuri iherezo (ryiza) rizaba iry'abagandukira (**Allah**).

50. N'abantu bo mu bwoko bw'aba Adi twaboherereje umuvandimwe wabo Hudu, aravuga ati "Yemwe bantu banjye! Nimugaragire **Allah!** Nta yindi mana mufite ikwiye gusengwa itari We. Nta kindi muri cyo uretse kuba abahimba ibinyoma."

51. "Yemwe bantu banjye! (Kubagezaho ubutumwa) nta gihembo mbibasabira, ahubwo igihembo cyanje ngitezé ku wandemye. Ese ntimatekereza?"

52. Yemwe bantu banjye! Nimusabe imbabazi Nyagasani wanyu maze munamwicuzeho; (ibyo nimubikora) azaboherereza imvura nyinshi (izeza imyaka yanyu), anabongerere imbaraga ku zo musanganywe. Kandi muramenye ntimuzirengagize (ibyo mbabwira) ngo mube inkozi z'ibibi.

تَلَكَ مِنْ أَنْبَاءَ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا

فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَقِينَ ﴿٥٦﴾

وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوَدًا قَالَ يَقُولُمْ أَعْبُدُ وَاللَّهُ مَا

لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿٥٧﴾

يَقُولُمْ لَا أَسْكُنُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى

الَّذِي فَطَرَنِيْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥٨﴾

وَيَقُولُمْ أَسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُؤْتُوا إِلَيْهِ

يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مَدْرَارًا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً

إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَوَلُّو مُجْرِمِينَ ﴿٥٩﴾

53. Baravuga bati “Yewe Hudu! Nta kimenyetso utuzaniye, kandi nta n’ubwo tuzigera tureka imana zacu kubera ibyo utubwira, ndetse nta n’ubwo duteze kukwemera.”

54. Icyo twavuga ni uko zimwe mu mana zacu zaguteje ibyago (kuko ubuza abantu kuzisenga). Aravuga ati “Mu by’ukuri njye ntanze **Allah** ho umuhanya, kandi namwe nimube abahamya ko rwose nitandukanyije n’ibyo mumubangikanya musenga,

55. Bitari We (**Allah**). Ngaho nimuncurire imigambi mibisha mwese kandi ntimundindirize.”

56. “Mu by’ukuri njye niringiyе **Allah**, Nyagasanı wanjye akaba na Nyagasanı wanyu. Nta kiremwa na kimwe gifite ubugingo **Allah** atagenga. Rwose, Nyagasanı wanjye ni We ufite inzira igororotse.”

57. “Ubwo nimutera umugongo (ukuri, mumenye ko) njye namaze kubagezaho ubutumwa nahawe, kandi Nyagasanı wanjye azabasimbuza abandi bantu, ndetse nta cyo muzamutwara. Mu by’ukuri Nyagasanı wanjye ni Umurinzi wa byose.”

قَالُوا يَهُودٌ مَا جِئْنَا بِبَيِّنَاتٍ وَمَا نَحْنُ  
بِتَارِكٍ إِلَّا هَمَّنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ

بِمُؤْمِنِينَ ٥٣

إِنْ نَقُولُ إِلَّا أَعْتَرَنَا بَعْضُ إِلَهَتَنَا بِسُوءٍ قَالَ  
إِنِّي أَشْهِدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُ دُوَّاً أَنِّي بِرِّيَءٍ مَمَّا نَشَرَ كُوفَّ

٥٤

مِنْ دُونِنِي فَكِيدُونِي بِجَيِّعَائِمٍ لَا تُتَظَرُونَ ٥٥

إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَآبَةٍ إِلَّا  
هُوَ أَخْذُ بِنَا صَيْتَهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ٥٦

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْغَتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ  
وَيَسْتَحْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّنِهِ شَيْئًا

إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِظٌ ٥٧

58. Ubwo isezerano ryacu (ryo guhana abigometse) ryasohoraga, twarokoye Hudu n'abemeye hamwe na we ku bw'impuhwe ziduturutseho, maze tubakiza ibihano bikomeye.

59. Abo bari (abantu bo) mu bwoko bw'aba Adi. Bahakanye ibimenyetso bya Nyagasan wabo, bigomeka ku ntumwa ze, banakurikira amategeko ya buri mwibone wese winangira (utava ku izima).

60. Kandi bakurikijwe umuvumo muri iyi si ndetse (uzanabakurikirana) no ku munsi w'imperuka. Nta gushidikanya ko mu by'ukuri ubwoko bw'aba Adi bwahakanye Nyagasan wabwo. Barakarimbuka ba Adi, ari bo bantu ba Hudu!

61. N'abantu bo mu bwoko bw'aba Thamudu, twabohererereje umuvandimwe wabo Swalehe, aravuga ati "Yemwe bantu banjye! Nimugaragire **Allah!** Nta yindi mana mufite ikwiye gusengwa itari We. Ni We wabahanze abakomoye mu gitaka anakibatuzaho. Bityo, nimumusabe imbabazi kandi munamwicuzeho, kuko mu

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا بِخَيْرَنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ وَ

بِرَحْمَةِ مَنْ نَارَ بَخَيْرَهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِظٍ ﴿٥٨﴾

وَتَلَكَ عَادٌ جَحَدُوا بِرَبِّهِمْ وَعَصَوْرُسْلَهُ وَ

وَاتَّبَعُوا أَمْرَكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٥٩﴾

وَاتَّبَعُوا فِي هَذِهِ الْأُنْجَى لَعْنَةً وَقَوْمٌ قَيْمَةُ الْآيَةِ

عَادٌ كُفَّارٌ رَّبُّهُمْ الْأَبْعَدُ لِعَادٍ قَوْمٌ هُودٍ ﴿٦٠﴾

\*وَإِلَى شَمْوَدَ أَخَاهُمْ صَلِحَاقًا قَالَ يَقُولُمْ أَعْبُدُو اللَّهَ

مَا أَكُمْ مَنْ إِلَّا عَيْرٌ وَهُوَ أَنْشَأَ كُمْ مَنْ إِلَّا أَرْضٌ

وَاسْتَعْمَرَ كُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبَّ

قَرِيبٌ مُّحِيطٌ ﴿٦١﴾

by'ukuri, Nyagasani wanjye ari hafi, kandi asubiza ubusabe."

62. Baravuga bati "Yewe Swalehe! Mbere y'ibyo (uvuze by'uko tugomba kureka imana zacu), twari twiringiye ko uzaba umutware wacu. Ese uratubuza kugaragira ibyo abakurambere bacu basengaga? Mu by'ukuri twe dufite ugushidikanya guteye inkeke ku kuri kw'ibyo uduhamagarira (udutera guhuzagurika.)"

63. (Swaleh) aravuga ati "Yemwe bantu banjye! Ese murabibona mute ndamutse mfite ikimenyetso kigaragara giturutse kwa Nyagasani wanjye, akaba ari na we wampundagajeho impuhwe (ubutumwa) zimuturutseho, none se ni nde wankiza ibihano bya **Allah** ndamutse mwigometseho? Ku bw'ibyo, mwe nta cyo mwanyongerera uretse igihombo."

64. "Yemwe bantu banjye! Dore iyi ngamiya ya **Allah** ni ikimenyetso kuri mwe, bityo nimuyireke irishe ku butaka bwa **Allah**, kandi ntimuzayisagarire mutazavaho mugerwaho n'ibihano byegereje."

قَالُوا يَصَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوا قَبْلَ هَذَا أَتَهْنَاهَا  
أَنْ تَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ إِبْرَاهِيمَ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا  
تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ

قَالَ يَقُومُ أَرْءَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَاتٍ مِّنْ رَّبِّي  
وَإِنَّتِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ  
عَصَيْتُهُ وَقَاتَرَ يَدُونِي غَيْرَ حَسِيرٍ

وَيَقُومُ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ إِيَّاهَا  
فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا  
بِسُوءٍ فَيَا خَذُ كُوْعَذَابَ قَرَبٍ

65. Nuko (baramuhinyura) barayica, maze aravuga ati “Nimwishimishe mu ngo zanyu mu minsi itatu gusa (nyuma yaho muzahanwa). Iryo ni isezerano ridahinyuzwa.”

66. Maze ubwo itegeko ryacu ryasohoraga, twarokoye Swaleh na ba bandi bemeye hamwe na we ku bw'impuhwe ziduturutseho, tunabakiza ikimwaro cy'uwo munsi. Mu by'ukuri Nyagasanani wawe ni We Munyacyubahiro bihebuje, Ushobora byose.

67. Nuko urusaku rukubita ab'inkozi z'ibibi maze bahinduka imirambo bapfukamye mu mazu yabo,

68. Bamera nk'aho batigeze bayabamo. Nta gushidikanya ko mu by'ukuri abantu bo mu bwoko bw'abitwa Thamudu bahakanye Nyagasanani wabo. Barakarimbuka ba Thamudu!

69. Kandi rwose Intumwa zazu zazaniye Aburahamu inkuru nziza (y'uko azabyara akazanororoka). Ziramubwira ziti “Salam (mugire amahoro!)” Arasubiza ati “Salam (mugire amahoro!)” Nuko ntiyazuyaza, abazimanira ikimasa cyokeje.

فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةٍ  
أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ عَيْرَمَكَتُ ذُوبٍ ٦٥

فَمَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا بَخْسِحَنَا صَلِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا  
مَعَهُ وَبِرَحْمَةِ مِنَّا وَمِنْ خَزْنِي يُؤْمِنُ إِنَّ  
رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ٦٦

وَلَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أُلْصِحَّةً فَاصْبَحُوا فِي  
دِيرِهِمْ جَلِيلَيْنَ ٦٧

كَانَ لَمَّا يَغْنَوْ فِيهَا أَلَّا إِنَّ شَمُودًا كَفَرُوا  
رَسَّاهُمُ الْأَبْعَدَ الشَّمُودُ ٦٨

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِنْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا  
سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لِيَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَيْنِيذِ ٦٩

70. Ariko ubwo yabonaga amaboko yabo ategera (amafunguro yabazimaniye), arabayo berwa, arabishisha. Baravuga bati “Witinya, kuko mu by'ukuri twatumwe ku bantu ba Loti.”

71. N'umugore we (Sara) yari ahagaze (inyuma y'urusika abumva), maze araseka (atangajwe n'ibyo yumvise). Nuko tumuha inkuru nziza yo kuzabyara Is'haqa (Isaka), na nyuma Is'haqa (akazabyara) Yaqub (Yakobo).

72. (Sara) aravuga ati “Ego ko! Nabyara nte kandi ndi umukecuru ndetse n'uyu mugabo wanjye ari umukambwe? Mu by'ukuri iki ni ikintu gitangaje!”

73. (Abamalayika) baravuga bati “Ese uratangazwa n'itegeko rya Allah? Impuhwe za Allah n'imigisha ye nibibe kuri mwe, yemwe bantu bo mu muryango (wa Aburahamu). Mu by'ukuri (Allah) ni Ushimwa bihebuje, Umunyacyubahiro.”

74. Nuko Aburahamu amaze gushira ubwoba no kugerwaho n'inkuru nziza, atangira kutugisha impaka (azigisha abo twatumye) avuganira abantu ba Loti.

فَلَمَّا رَأَهَا أَيْدِيهِمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكَرَهُمْ  
وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِفَةً قَالُوا لَا تَخْفَ إِنَّا  
أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ لُّوطٍ ﴿٧٦﴾

وَأَمْرَاتُهُ وَقَابِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ  
وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴿٧٧﴾

قَالَتْ يَوْمَئِقَاءُ اللُّدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي  
شَيْخًا إِنَّ هَذَا الشَّيْءُ عَجِيبٌ ﴿٧٨﴾

قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَنُ اللَّهُ  
وَبِرَكَتِهِ وَعَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ وَحَمِيدٌ مَّجِيدٌ ﴿٧٩﴾

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنِ إِبْرَاهِيمَ الرُّوعُ وَجَاءَتِهُ الْبُشِّرَى  
يُبَدِّلُنَا فِي قَوْمٍ لُّوطٍ ﴿٨٠﴾

75. Mu by'ukuri Aburahamu yari umuntu udahutiraho, wibombarika (kuri Allah), wicuza (kuri Nyagasani we) cyane.

76. Yewe Abarahamu! Izo (mpaka) zireke. Mu by'ukuri itegeko rya Nyagasani wawe ryasohoye. Kandi rwose ibihano bidashobora gusubizwa inyuma birabageraho.

77. Ubwo Intumwa zacu zageraga kwa Loti, yababajwe no kuza kwazo ndetse abura imbaraga zabarengera (kuko yakekaga ko baza gukorerwa ibya mfura mbi, dore ko atari azi ko ari abamalayika), maze aravuga ati “Uyu ni umunsi mubi cyane.”

78. Nuko abantu be baza bihuta bamusanga, kandi kuva na mbere bari basanzwe bakora amahano (ubutinganyi). Aravuga ati “Yemwe bantu banjye! Ngaba abakobwa banjye ni bo babakwiye (mwashyingiranwa na bo). Ngaho nimugandukire Allah kandi ntimunkoze isoni imbere y'abashyitsi banjye! Ese nta n'umwe muri mwe ufithe ubwenge?”

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَلِيمٌ أَوَّلَهُ مُنِيبٌ  
٧٥

يَا إِبْرَاهِيمَ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا آنِهُ قَدْ جَاءَ أَمْرِ رَبِّكَ  
وَإِنَّهُمْ أَتَيْهُمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ  
٧٦

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُطَاطِيَّةَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ  
ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ  
٧٧

وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهَرَّعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَافُوا  
يَعْمَلُونَ أَسْيَكَاتٍ قَالَ يَقُومَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ  
أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزِنُونَ فِي ضَيْفِي  
الْيَسَّ مِنْ كُوْرَجُلْ رَشِيدٌ  
٧٨

79. Baravuga bati “Rwose uzi ko nta cyo dukeneye ku bakobwa bawe, kandi mu by'ukuri, uzi neza icyo dushaka!”

80. Aravuga ati “Iyaba nari mbarushije imbaraga cyangwa ngo nishingikirize inkingi ikomeye (ari wo muryango ugizwe n'abanyembaraga, kugira ngo bamfashe kubabuza kugera ku byo mushaka).”

81. (Abamalayika) baravuga bati “Yewe Loti! Mu by'ukuri twe turi Intumwa ziturutse kwa Nyagasan wawe. Ntibashobora kukugeraho (ngo bakugirire nabi). Bityo, hungana n'umuryango wawe mu ijoro, kandi muri mwe ntihagire n'umwe ureba inyuma uretse umugore wawe (uza gusigara inyuma), kuko mu by'ukuri aza kugerwaho n'ibiru bubagereho (abo battinganyi). Rwose isezerano ryabo (ryo kubarimbura) ni mu gitondo. Ese gitondo nticyegereje?”

82. Maze ubwo itegeko ryacu ryasohoraga, twubitse imidugudu tubanyagiza imvura y'amabuye y'urufaya yo mu ibumba yacaniriwe.

قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ  
لَتَعْلَمُ مَا مَا تُرِيدُ

قَالَ لَوْأَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ إِمْوَادًا إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ

٨٣

قَالُوا يَلْوُظُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصُلُّوا إِلَيْكَ  
فَأَسْرِي بِأَهْلِكَ يَقْطِعُ مِنَ الْيَلِ وَلَا يَلْتَفِتُ  
مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا مُرْأَتُكَ إِنَّهُ مُؤْمِنٌ بِمَا أَصَابَهُمْ  
إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الْصَّبُوحُ أَلَيْسَ الْأَصْبُوحُ بِقَرِيبٍ

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافَلَهَا  
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ

٨٤

83. (Ayo mabuye) yashyizweho ibimenyetso na Nyagasani wawe. Kandi ibihano nk'ibyo ku nkozi z'ibibi ntibiri kure.

84. N'abantu b'i Madiyani twaboherereje umuvandimwe wabo Shuwayibu arababwira ati "Yemwe bantu banjye! Nimugaragire **Allah**, kuko nta yindi mana mufite itari We, kandi ntimukagabanye ibipimo n'iminzani (igihe mugize ibyo mupima). Njye ndabona mubayeho neza, mu by'ukuri ndatinya ko (muramutse muhakanye) mwazahura n'ibihano by'umunsi uzabagota."

85. "Kandi yemwe bantu banjye! Mujye mwuzuza ibipimo n'iminzani mu buryo bukwiyе, kandi ntimukagire ibintu by'abantu mugabanya, ndetse ntimugakwize ubwangizi ku isi."

86. "Ibyo **Allah** abazigamira (nyuma yo gukuramo ibitari ibyanyu) ni byo byiza kuri mwe, niba koko muri abemeramana. Kandi njye nta bwo ndi umugenzi wanyu (ahubwo ndi umuburizi wanyu)."

مُسَوَّمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ

بِعِيدٍ

\* وَإِلَى مَدِينَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَقُولُ  
أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٌ غَيْرُهُ وَلَا  
تَنْفُصُوا الْمِكَيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَدُكُمْ  
بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ

مُحِيطٌ

وَيَقُولُ أَوْفُوا الْمِكَيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ  
وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي  
الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

بَقَيَّتُ اللَّهُ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ  
وَمَا آنَّا عَلَيْكُمْ بِمَحْفِظٍ

87. Baravuga bati “Yewe Shuwayibu! Ese iswala yawe igutegeka kudutesha ibyo ababyeyi bacu bagaragiraga, cyangwa kudutesha gukora icyo dushaka mu mitungo yacu? (Baravuga bannyega bati) “Mu by’ukuri wowe uri umuntu ucisha make cyane, umunyabwenge!”

88. Aravuga ati “Yemwe bantu banjye! Ese murabibona mute ndamutse mbaye mfite ikimenyetso kigaragara giturutse kwa Nyagasani wanjye, ndetse akaba yaranampaye amafunguro meza amuturutseho (ubwo ibyo nabirengaho nkakora ibibi nk’ibyo mukora?) Sinshaka kubataba mu nama nkora ibyo mbabuza (ngo mubireke mbikore mbyungukemo), ahubwo mparanira gutunganya uko nshoboye. Kandi nta wundi wabinshoboza uretse **Allah**. Ni We niringiye kandi ni na We nicuzaho.”

89. “Kandi yemwe bantu banjye! Urwango mumfitiye ntiruzatumugerwaho n’ibihano nk’ibageze ku bantu ba Nuhu, cyangwa abantu ba Hudu, cyangwa se abantu ba Swaleh. Kandi abantu ba Loti ntibari kure yanyu (kuko nta gihe

قَالُوا يَسْعَيْبُ أَصَلَوْنَاكَ تَأْمُرُوكَ أَنْ نَتَرَكُ مَا  
يَعْبُدُءَ إِبَآءَنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ  
إِنَّكَ لَا أَنْتَ الْحَلِيمُ أَرْشِيدُ

قَالَ يَقُولُ مَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّي  
وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ  
أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَدَكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا  
إِلَّا صَلَحَ مَا أُسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ  
تَوْكِيدُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

وَيَقُومُ لَا يَجِدُ مَنَّكُمْ شِقَاقٍ أَنْ يُصِيبُكُمْ  
مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَلَحٍ  
وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ يَبْعِيدُ

gishize barimbuwe ndetse bakaba bari abaturanyi banyu).”

90. “Munasabe Nyagasanu wanyu kubababarira ndetse munamwicuzeho. Mu by'ukuri Nyagasanu wanjiye ni Nyirimpuhwe zihebuje, Uwuje urukundo (ku wicuza).”

91. Baravuga batii “Yewe Shuwayibu! Ntidusobanukirwa byinshi mu byo uvuga, kandi mu by'ukuri tubona ari wowe munyangoge nke muri twe. Ndetse iyo bitaba (kubaha) umuryango wawe, twari kukwicisha amabuye kandi ntiwatunananira.”

92. (Shuwayibu) aravuga ati “Yemwe bantu banjiye! None se umuryango wanjiye ni wo muha agaciro kurusha **Allah** mwateye umugongo? Mu by'ukuri Nyagasanu wanjiye azi neza ibyo mukora.”

93. “Yemwe bantu banjiye! Nimukore uko mubishaka nanjiye ndakora (nk'uko **Allah** yangetse). Rwose muzamenya uzagerwaho n'ibihano bimusuzuguza ndetse n'umubeshyi. Bityo ngaho nimutegereze, mu by'ukuri ndi kumwe namwe mu bategereje.”

وَاسْتَعْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْلُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبَّكَ

رَحِيمٌ وَدُودٌ

قَالُوا يَسْعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّ

لَرَبِّكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمَنَاكَ

وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ

قَالَ يَقُومُ أَرْهَطِي أَعْزُ عَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ

وَأَخْذَذُمُوهُ وَرَاءَ كُمْ طَهْرِيَا إِنَّ رَبَّكَ

يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

وَيَقُومُ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِيلٌ

سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ بُخْزِيَهُ وَمَنْ

هُوَ كَذِبُوا رَقِيبٌ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ

94. Maze ubwo isezerano ryacu (ryo guhana abigometse) ryasohoraga, twarokoye Shuwayibu n'abemeye hamwe na we ku bw'impuhwe ziduturutseho, nuko ab'inkozi z'ibibi bakubitwa n'urusaku (rw'ibihano), maze bahinduka imirambo bapfukamye mu mazu yabo,

95. Bamera nk'aho batigeze bayabamo. Nta gushidikanya ko mu by'ukuri abantu b'i Madiyani boramye nk'uko aba Thamud boramye.

96. Mu by'ukuri twohereje Musa (azanye) ibitangaza byacu n'ibimenyetso bigaragara,

97. (Twamwohereje) kwa Farawo n'ibyegeera bye, ariko bakurikiye itegeko rya Farawo, nyamara itegeko rya Farawo nta shingiro ryari rifite!

98. Ku munsi w'imperuka (Farawo) azarangaza imbere abantu be aberekeze mu muriro, kandi aho bazaba berekejwe ni ho habi.

99. Kandi bakurikijwe umuvumo, haba mu buzima bw'iyi si ndetse no ku munsi w'imperuka. Mbega ngo barahabwa imperekeza mbi (umuvumo) bakurikijwe!

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ  
عَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخْذَتِ الَّذِينَ  
ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاصْبَحُوا فِي دَيْرٍ هُمْ حَشِيدُونَ

٩٤

كَانَ لَمَّا يَغْنَوْ فِيهَا ﴿٩﴾ أَلَا بَعْدًا لِمَدِينَ كَمَا  
بَعَدَتْ شَمُودُ ﴿٩٥﴾

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَتِنَا وَسُلَطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٩٦﴾

إِلَىٰ فَرْعَوْنَ وَمَلِيْهِ فَاتَّسَعُوا أَمْرَ فَرْعَوْنَ وَمَا  
أَمْرُ فَرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿٩٧﴾

يَقْدُمُ قَوْمُهُ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ الْأَنَارُ  
وَبَيْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ﴿٩٨﴾

وَاتَّبَعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ بِسَ  
الْرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ﴿٩٩﴾

100. Izo ni zimwe mu nkuru tukubarira z'imidugudu (tworetse). Muri yo hari igihagaze (ibimenyetso byayo bikigaragara) ndetse n'iayarimbuwe (ibimenyetso byayo byasibanganye).

101. Ntabwo twigeze tubahemukira (ubwo twabarimbura) ahubwo ni bo bihemukiye ubwabo (babangikanya Allah). Kandi ibigirwamana byabo basengaga mu cyimbo cya Allah ntacyo byabamariye ubwo itegeko rya Nyagasani wawe (ryo kubhana) ryasohoraga, ndetse nta n'icyo byabongereye uretse kurimbuka.

102. Uko ni ko Nyagasani wawe arimbura abatuye mu midugudu igihe baranzwe no gukora ibibi. Mu by'ukuri ibihano bye birababaza kandi birakaze.

103. Mu by'ukuri muri ibyo harimo isomo kuri ba bandi batinya ibihano by'imperuka. Uwo ni umunsi abantu bazakoranyirizwaho, ndetse ni na wo munsi (ibiremwa) byose bizaba bihari.

104. Nta n'ubwo tuwukerereza, ahubwo ufite igihe ntarengwa (cyagenwe).

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرْآنِ نَقْصُهُ وَعَلَيْكَ مِنْهَا  
قَائِمٌ وَحَصِيدٌ

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا  
أَغْنَتْ عَنْهُمْ إِلَهُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ  
مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَهُمْ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُهُمْ عَيْرَ

تَتَبَيَّنٌ

وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرْآنِ وَهِيَ ظَلَمَةٌ  
إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ  
يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ  
مَسْهُودٌ

وَمَا تُؤْخِرُهُ إِلَّا لِأَجْلٍ مَعْدُودٍ

105. Ubwo uwo munsi uzaza, ntawe uzagira icyo yavuga atabiherewe uburenganzira (na Allah). Muri bo hazaba hari umubi (ukwiye ibihano) n'umwiza (ukwiye ibihembo).

106. Ba bandi babi bazajya mu muriro, bawubemo baboroga cyane banahigiza.

107. Bazawubamo mu gihe kingana n'icyo ibirere n'isi bizamara, uretse abo Nyagasani wawe azashaka (ko batawubamo ubuziraherezo). Mu by'ukuri Nyagasani wawe ni Ukora icyo ashaka.

108. Naho ba bandi beza bazajya mu ijuru, baribemo mu gihe kingana n'icyo ibirere n'isi bizamara, uretse abo Nyagasani wawe azashaka (ko badahita barijyamo). (Uko kurijyamo) bizaba ari impano itagira iherez.

109. Bityo (yewe Muhamadi) ntukagire gushidikanya ku byo abo bantu bagaragira (kuko atari ukuri). Ibyo bagaragira ni nk'ibyo abakurambere babo bajyaga bagaragira. Mu by'ukuri tuzabaha umugabane wabo (ibihano) utagabanyije

يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكُونُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِنِهِ فَنَهْمَ شَقِيقٌ  
وَسَعِيدٌ ١٥٥

فَمَمَّا الَّذِينَ شَقُواْ فِي أَنَارَاتِهِمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ

خَلِيلِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا

شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ١٧

\* وَمَمَّا الَّذِينَ سُعِدُواْ فِي الْجَنَّةِ خَلِيلِينَ فِيهَا

مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ

عَطَاءً غَيْرَ مَجُوزٍ ١٨

فَلَا تَأْكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هُؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا

كَمَا يَعْبُدُ ءَابَاوُهُمْ مَنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوْفُهُمْ

نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْفُوصٍ ١٩

110. Kandi rwose twahaye Musa igitabo (Tawurati), ariko nticyavugwaho rumwe. N'iyo bitaza kuba ijambo ryaturutse kwa Nyagasan i wawe ryabanje (ryo kudahaniraho), bari guhita bacirwaho iteka (ryo kurimbuka). Ndets mu by'ukuri (iyi Qur'an) bayishidikanyaho biteye inkeke.

111. Kandi mu by'ukuri Nyagasan i wawe bose azabahembera ibikorwa byabo byuzuye. Rwose azi neza ibyo bakora.

112. Ngaho (yewe Muhamadi) komeza ugire igihagararo (mu idini) nk'uko wabitegetswe wowe n'abicujije muri kumwe, kandi ntimuzarengere (amategeko ya Allah). Mu by'ukuri We ni Ubuna bihebuje ibyo mukora.

113. Kandi ntimukabogamire kuri ba bandi bakora ibibi, mutazavaho mugerwaho n'umuriro kandi mutabona abawubarinda batari Allah, ndets mukaba mutabona ababatabara.

114. Kandi (yewe Muhamadi) ujye uhozaho iswala mu mpera ebyiri z'amanywa (Swalat ul Fajir, Adhuhuri na Al aswir), ndets no mu masaha y'ijoro (Al magrib na Al ishai). Mu by'ukuri ibikorwa byiza bikuraho ibibi.

وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَأَخْتَلَفَ فِيهِ  
وَلَوْلَا كَمَّةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَعُضِّيَ بَيْنَهُمْ

وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٌ

وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا لَوْفَيْنَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَدَهُمْ إِنَّهُ وَيْمًا  
يَعْمَلُونَ خَيْرًا

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغُو

إِنَّهُ وَيْمًا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَقَمَسُكُمُ الْنَّازَارُ  
وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلَيَاءَ ثُرَّ لَا

تُنْصَرُونَ

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَ النَّهَارِ وَرُلْفَاتِ الْأَيَّلِ

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِبُنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ

ذَكْرَ لِلَّذِكْرِ بَيْنَ

Ibyo ni inyigisho ku bantu bibuka.

115. Ujye unihangana kuko mu by'ukuri **Allah** ataburizamo ibihembo by'abakora ibyiza.

116. Mu bakurambere banyu (twarimbuye) iyo haza kubamo abanyabwenge babuza (abandi gukora) ubwangizi ku isi (bari kurokoka ibihano)! Nyamara (ibyo ntibyabaye) kuko byakozwe na bake tvarokoye, mu gihe ba bandi bakoze ibibi bakomeje kuba mu munezero w'iby'isi, kandi bari n'inkozi z'ibibi.

117. Kandi Nyagasan'i wawe ntiyari kurimbura imidugudu ayirenganyije, mu gihe abayituye ari intungane.

118. N'ijo Nyagasan'i wawe aza kubishaka, abantu bose yari kubagira umuryango umwe (bakayoboka idini rimwe rya Isilamu). Ariko bazakomeza kutavuga rumwe (mu madini yabo),

119. Uretse abo Nyagasan'i wawe yagiriye impuhwe (bakayoboka ukuri); no ku bw'ibyo ni cyo yabaremeye. Kandi ijumbo rya Nyagasan'i wawe ryasohoye (rigira riti) "Mu by'ukuri umuriro wa Jahanamu nzawuzuza

وَاصِرِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٥﴾

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَيْتَةٍ  
يَهُوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قِيلَّا مِمَّنْ  
أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الظَّرَبَ طَلَمُوا مَا أَنْرَفُوا فِيهِ  
وَكَانُوا مُجْرِمِينَ

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيَهْلِكَ الْقَرَى بِطُلْمٍ وَأَهْلَهَا  
مُصْلِحُونَ ﴿١١٦﴾

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَحْدَةً وَلَا يَرَى لُونَ  
مُخْتَلِفِينَ ﴿١١٧﴾

إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ حَلَقُهُمْ وَتَمَّتَ  
كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمَلَّا نَجَّهَمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ  
أَجْمَعِينَ ﴿١١٨﴾

(inkozi z'ibibi) zose, mu majini no mu bantu.”

120. Kandi (yewe Muhamadi) inkuru zose z'Intumwa twagutekerereje, zari izo kugukomeza umutima. Ndetse no muri ibi (izi nkuru) wagezweho n'ukuri, inyigisho zikaba n'urwibutso ku bemeramana.

121. Unabwire ba bandi batemera uti “Nimukore uko mubishaka (muzabona iherezoo ryanyu). Mu by'ukuri natwe turakora (nk'uko Allah yadutegetse).”

122. Munategereze! Mu by'ukuri natwe turategereje.

123. Ibitagaragara byo mu birere no mu isi ni ibya Allah, kandi iwe ni ho ibintu byose bigarurwa. Ngaho mugaragire unamwiringire. Kandi Nyagasani wawe ntayobewe ibyo mukora.

وَكَلَّا لَنَفْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرَّسُولِ مَا نُشِّتُ بِهِ  
فَوَادِكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ

لِلْمُؤْمِنِينَ

وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَاتِبِكُمْ إِنَّا

عَمِلُونَ

وَأَنْتَنِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ

وَلَلَّهِ عَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ  
الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ

يَغْفِلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ

## 12 - SURAT YUSUFU

(UMUHANUZI YOZEFU)

Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirongo 111.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Alif Laam Raa<sup>122</sup>. Iyi ni imirongo y'igitabo gisobanutse.

الرِّ تِلْكَ هَأْيَتُ الْكِتَبِ الْمُبِينِ ﴿١﴾

2. Mu by'ukuri twahishuye Qur'an mu (rurimi) rw'Icyarabu kugira ngo musobanukirwe.

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَارِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢﴾

3. Tukubarira inkuru nziza (yewe Muhamadi) binyuze mu byo twaguhishuriye muri iyi Qur'an, n'ubwo mbere (yo guhishurwa) kwayo waru mu batari bafite icyo bayiziho.

نَحْنُ نَقْصُ عَيْلَكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا  
إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْءَانُ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمْ  
أَغْفِلْنَاهُ ﴿٣﴾

4. Ibuka ubwo Yusufu yabwiraga se ati "Dawe! Mu by'ukuri narose inyenyeri cumi n'imwe, izuba n'ukwezi, nabibonye binyubamira"

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَيْهِ يَأْبَتِ إِنْ رَأَيْتُ أَحَدًا  
عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي  
سَجِدِينَ ﴿٤﴾

5. (Se) aramubwira ati "Mwana wanje! Inzozi zawe ntuzirotore abavandimwe bawe, batavaho bakagucurira umugambi mubisha. Mu by'ukuri Shitani ni umwanzi w'abantu ugaragara."

قَالَ يَبْعِيْتَ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى حَوْتِكَ فَيَكِيدُوا  
لَكَ كِيدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلنَّاسِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٥﴾

<sup>122</sup> Inyuguti nk'izi twazivuzeho mu masura yatambutse.

6. “Ni nk’uko Nyagasanani wawe azagutoranya maze akakwigisha gusobanura inzozi, akanagusenderezaho inema ze, ndetse no ku muryango wa Yaqubu (Yakobo) nk’uko mbere yazisendereje ku bakurambere bawe bombi (ari bo) Ibrahimu na Isihaka. Mu by’ukuri Nyagasanani wawe ni Umumenyi uhebuje, Nyirubugenge buhambaye.”

7. Mu by’ukuri inkuru ya Yusufu n’abavandimwe be irimo inyigisho ku babaza (bakeneye kumenya).

8. Wibuke ubwo (abavandimwe ba Yusufu) bavugaga bati “Rwose Yusufu n’umuvandimwe we (Benjamini) ni bo batoni kuri data kuturusha, nyamara ari twe benshi (tunafite imbaraga). Mu by’ukuri Data ari mu buyobe bugaragara.”

9. (Baravuga bati) “Nimwice Yusufu cyangwa mumute ishyanga, bizatuma so abakunda. Maze nyuma y’aho (muzicuze) mube abantu beza.”

10. Umwe muri bo aravuga ati “Ntimwice Yusufu, ahubwo mumujugunye mu iriba azatoragurwe na bamwe mu bagenzi, niba koko (mwagambiriye) kubikora.”

وَكَذَلِكَ يَجْتَهِدُكَ رَبُّكَ وَيَعْلَمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ  
الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُ نِعْمَتَهُ وَعَلَيْكَ وَعَلَىٰ إِلَيْكَ يَعْقُوبَ  
كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبْوَيْكَ مِنْ قَبْلٍ إِبْرَاهِيمَ  
وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيهِمْ حَكِيمٌ ﴿٦﴾

\* لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْرَيْهِ إِيَّا يَتٍ

لِلْسَّائِلِينَ ﴿٧﴾

إِذْ قَالُوا لِيُوسُفَ وَلَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ  
عُصَبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لِنِي ضَلَالٌ مُّبِينٌ ﴿٨﴾

أَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ أَطْرُحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ  
وَجْهُ أَيْسَكُ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَدِلِحِيتَ

﴿٩﴾

قَالَ قَاتِلُ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُو يُوسُفَ وَالْقُوُهُ فِي  
غَيْبَاتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَارَةِ إِنْ كُنْتُمْ  
فَعَلِينَ ﴿١٠﴾

11. (Bamaze kunoza umugambi begera se) baramubwira bati “Dawe! Kuki utatugirira icyizere cyo kuwyana na Yusufu, kandi mu by’ukuri tumwifuriza ibyiza?”

قَالُوا يَا أَبَانَا مَالِكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ  
لَتَصْبِحُونَ ﴿١١﴾

12. “Ejo uzamureke tujyane yidagadure anakine, kandi rwose tuzamurinda (nta cyo azaba).”

أَرَسَلَهُ مَعَنَا غَدَّارَتَهُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ وَلَحَفْظُونَ  
﴿١٢﴾

١٢

13. (Se) aravuga ati “Mu by’ukuri naterwa agahinda no kuba mwamuwyana (kure yanje), ndanatinya ko ikirura cyamurya mwe mwirangariye mutamwitayeho.”

قَالَ إِنِّي لَيَخْرُنُّ أَنْ تَذَهَّبُوا بِهِ وَلَخَافُ أَنْ  
يَأْكُلَهُ الْذَّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ عَاقِلُونَ ﴿١٣﴾

14. Baravuga bati “Mu by’ukuri ikirura kiramatse kimuriye (duhari) turi benshi (tunafite imbaraga), twaba turi abanyagihombo.”

قَالُوا لَيْنَ أَكَلَهُ الْذَّئْبُ وَكَحْنُ عُصَبَةٌ إِنَّا  
إِذَا الْخَسِرُونَ ﴿١٤﴾

15. Maze bamujyanye, bemeranywa kumujugunya mu iriba, nuko turamuhishurira (Yusufu) tuti “Rwose (hari igihe) uzababwira iby’iki gikorwa cyabo batazi (ko ari wowe)!”

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي عَيْتَ  
الْجَبَرِ وَأَوْجَحَنَا إِلَيْهِ لَتَنِسَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا  
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٥﴾

16. Nuko ku mugoroba (barataha) bagera kuri se barira!

وَجَاءَهُمْ عِشَاءً يَكُونُ  
﴿١٦﴾

17. Baravuga bati “Dawe! Mu by'ukuri, twagiye gusiganwa (kwiruka no gutera amacumu) dusiga Yusufu ku bintu byacu maze ikirura kiramurya; ariko ntiwakwemera ibyo tukubwira kabone n'ijo twaba tuvuga ukuri.”

18. Banazana ikanzu ye iriho amaraso atari ay'ukuri. (Se) arababwira ati “Ahubwo imitima yanyu yabashishikarije kumugirira nabi (mubigeraho). Bityo, kwhangana ni byo byiza (kuri njye). Kandi Allah ni We wo kwishingikirizwa mu byo muvuga.”

19. Nuko haza abagenzi bohereza umuvomyi wabo (kubavomera amazi mu iriba), maze amanuye indobo ye (mu iriba, azamuramo Yusufu); aravuga ati “Mbega inkuru nziza! Dore umwana w'umuhungu!” Nuko bamuhisha (bagenzi babo) bamugira igicuruzwa. Kandi Allah ni Umumenyi uhebuje w'ibyo bakoze.

20. Nuko bamugurisha ku giciro gito; amadirihamu<sup>123</sup> make. Kandi ntabwo bamushakaga (baramwikijije).

قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبَنَا لِسَيْقَ وَتَرَكَنَا يُوسُفَ  
عِنْدَ مَتَلِعِنَا فَأَكَلَهُ الْذَّيْبُ وَمَا أَنَّا بِمُؤْمِنِينَ  
لَنَّا لَوْكَنَا صَدِيقَنَ ﴿١٧﴾

وَجَاءَهُ وَعَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمِ كَذِبٍ قَالَ بْلَ سَوَّلَتْ  
لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبَرْ جَمِيلٌ وَاللهُ  
الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصْنَعُونَ ﴿١٨﴾

وَجَاءَتْ سَيَارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَادْلَى دَلْوَهُ  
قَالَ يَبْشِرِي هَذَا غَلْوُ وَاسْرُوهُ بِضَلَاعَةٍ وَاللهُ عَلِيمٌ  
بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾

وَشَرَوْهُ بِشَمَنْ بَخْسِ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَافُوا  
فِيهِ مِنَ الْأَزْهَرِ دِينَ ﴿٢٠﴾

<sup>123</sup> Ni ubwoko bw'amafaranga abarwa agaciro kayo muri Feza. N'ubu hari ibihugu bigikoresha amafaranga afite iyo nyito

21. Nuko Umunyamisiri wamuguze abwira umugore we ati "Mwakire kandi umugirire neza, wenda yazatugirira akamaro cyangwa tukamugira umwana." Uko ni ko twatuje Yusufu mu gihugu (cya Misiri, tumugira umunyacyubahiro tunamwigisha gusobanura inzozi. Kandi **Allah** afite ubushobozi bwo gushyira mu bikorwa ibyo ashaka, nyamara abenshi mu bantu ntibabizi.

22. Maze (Yusufu) amaze kuba igikwerere, tumuha ubushishozi n'ubumenyi (ubuhanuzi); uko ni ko duhemba abakora ibyiza.

23. Nuko umugore yari abereye mu rugo agerageza kumureshya (ngo baryamane), ndetse anakingga imiryango maze aravuga ati "Ngwino unyegere." (Yusufu) aravuga ati "Niragije **Allah** (ngo andinde ikibi)! Mu by'ukuri we (umugabo wawe) ni Databuja, yanyakiriye neza (sinshobora kumuhemukira). Rwose abahemu ntibazakiranuka."

24. Kandi rwose (umugore) yaramwifuje, ndetse na we (Yusufu) yenda kubyemera; iyo ataza kubona ibimenyetso bya Nyagasani we (yari kugwa mu cyaha). Ibyo byari ukugira ngo tumurinde ikibi n'igicumuro

وَقَالَ الَّذِي أَشْتَرَهُ مِنْ مِصْرَ لِأَمْرَاتِهِ  
أَكْرِمِي مَثُولَهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَخَذَهُ وَلَدًا  
وَكَذَلِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ  
وَلِنُغَامَّهُ وَمِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَلَهُ غَالِبٌ  
عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾

وَلَمَّا بَلَغَ أَشَدَّهُ وَأَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا  
وَكَذَلِكَ بَخْزِيَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾

وَرَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ  
وَغَلَقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ  
اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّيْ أَحَسَّ مَثَوَّيْ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ  
الظَّالِمُونَ ﴿٦٣﴾

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَبَّهُنَّ  
رَبِّهِ كَذَلِكَ اِنْصَرَقَ عَنْهُ السُّوءُ وَأَفْحَشَ  
إِنَّهُ وَمِنْ عِبَادِنَا الْمُحَلَّصِينَ ﴿٦٤﴾

(ubusambanyi). Mu by'ukuri we yari umwe mu bagaragu bacu b'imbonera.

25. Batanguranwa ku rugi (Yusufu ahunga, undi na we amukurura) maze umugore aca ikanzu ya Yusufu mu mugongo. Nuko bahurira ku muryango n'umugabo we, maze (umugore) aravuga ati “Ni iki wakorera uwashatse kugirira nabi umugore wawe kitari ukumufunga cyangwa kumuha igihano kibabaza?”

26. (Yusufu) aravuga ati “(Uyu mugore) ni we wanyifuje”, nuko umuhanya wo mu muryango w'umugore atanga ubuhanya agira ati “Niba ikanzu ye yacitse imbere, umugore arabah yavuze ukuri, naho (Yusufu) arabah ari umunyabinyoma.”

27. “Ariko niba ikanzu ye yacitse inyuma, umugore arabah abeshya naho (Yusufu) avuga ukuri.”

28. Maze (umugabo) abonye ikanzu ye (Yusufu) yacitse inyuma, aravuga ati “Mu by'ukuri ibi ni bimwe mu mayeri yanyu abagore! Rwose, amayeri yanyu arahambaye.”

وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِصَهُ وَمِنْ دُبُرٍ  
وَالْفَيَاسِيَّدَهَا لَدَ الْبَابِ قَالَتْ مَا حَزَّنَهُ مَنْ أَرَادَ  
بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابَ الْيَمِّ  
٤٥

قَالَ هِيَ رَوَدْتُنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهَدَ شَاهِدٌ مِنْ  
أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِصَهُ وَقُدَّ مِنْ قُبْلِ  
فَصَدَّقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَذِيْنَ  
٤٦

وَإِنْ كَانَ قَمِصَهُ وَقُدَّ مِنْ دُبُرِ كَذَبَتْ وَهُوَ مِنْ  
الْصَّدِيقَيْنَ  
٤٧

فَلَمَّا رَأَهَا قَمِصَهُ وَقُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ  
كَيْدِ كُنَّ إِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيمٌ  
٤٨

29. (Umugabo aramubwira ati) “Yusufu! Ubyirengagize (ntubivuge). Nawe (mugore) saba imbabazi z’icyaha cyawe. Mu by’ukuri wari mu banyamakosa.”

يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنِيْكَ إِنَّكَ  
كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ ﴿٦﴾

30. Nuko abagore bo mu mujyi (bumvise iyo nkuru) baravuga bat “Umugore w’Umutware yararikiye umucakara we! Rwose urukundo rwamuhumye (umutima)! Mu by’ukuri turabona ari mu buyobe bugaragara.”

\*وَقَالَ نُسُوْفٌ فِي الْمَدِيْنَةِ اُمْرَاتُ الْعَزِيزِ تُرَادُ  
فَتَهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّ النَّرْبَاهَا فِي  
صَلَّى مُبِيْنِ ﴿٣﴾

31. Nuko (uwo mugore) yumvise ibyo bamuvugaho, arabatumira anabategurira ibyo begamaho, anaha buri wese muri bo icyuma (cyo gukata ibiribwa), maze abwira (Yusufu) ati “Ngaho sohoka ubanyure imbere.” Bamubonye baramurangarira (kubera ubwiza bwe) maze bitemagura intoki, baravuga bat “Allah abiturinde! Uyu si ikiremwa muntu! Ahubwo ni malayika mutagatifu!”

فَمَا سَمِعْتَ بِمَكْرِهِنَ اُرْسَلَتْ إِلَيْهِنَ وَأَعْتَدَتْ  
لَهُنَّ مُتَّكَأً وَأَتَتْ كُلَّ وَحْدَةٍ مِمْهُنَ سِكِّينًا وَقَالَتِ  
أَخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَمَا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيهِنَّ  
وَقُلْنَ حَشَّ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَيْرُ

٣١

32. Aravuga ati “Uwo ni we watumye mumveba! Rwose naramwifuje ariko arabyirinda! Ariko (ubutaha) nadakora ibyo mutegeka, azafungwa kandi azaba mu basuzuguritse.”

قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتَنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَأَوْدَتْهُ وَعَنْ  
نَفْسِهِ فَأَسْتَعْصَمَ وَلَمْ يَفْعَلْ مَا أَمْرُهُ  
لَيْسَ جَانَّ وَيَكُونُنَا مِنَ الْصَّاغِرِينَ ﴿٣٢﴾

33. (Yusufu) aravuga ati “Nyagasan! Gereza ni yo nziza kuri njye kuruta ibyo bampamagarira gukora (ubusambanyi). Kandi nuramuka utandinze imigambi yabo, nazabumvira hanyuma nkaba mu bantu b'injinji (b'abanyabyaha).”

34. Nuko Nyagasan we yakira ubusabe bwe, maze amukiza imigambi yabo. Mu by'ukuri We ni Uwumva bihebuje, Umumenyi uhebuje.

35. Hanyuma bamaze kubona ibimenyetso (by'uko Yusufu ari umwere) basanga bagomba kumufunga igihe runaka (kugira ngo bakumire igisebo).

36. Nuko (Yusufu) yinjirana n'abasore babiri muri gereza. Umwe muri bo aravuga ati “Mu by'ukuri narose nenga inzoga.” Undi aravuga ati “Mu by'ukuri njye narose nikoreye imigati ku mutwe inyoni ziyindiraho.” (Baravuga bat) “Dusobanurire iby'izo nzozi. Mu by'ukuri tubona uri mu bakora ibyiza.”

37. Aravuga ati “Ntabwo amafunguro mwagenewe ari bubagereho ntarazibasobanurira. Ibyo ni bimwe mu byo Nyagasan wanjye yanyigishije. Mu by'ukuri naci ukubiri

قَالَ رَبِّ الْسِّجْنِ أَحَبْتُ إِلَيْ مَا يَدْعُونِي إِلَيْهِ وَإِلَّا  
تَصْرِفَ عَنِّي كَيْدُهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ

٣٣

فَأَسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدُهُنَّ إِنَّهُ هُوَ  
الْسَّمِيعُ الْعَلِيمُ

٣٤

ثُمَّ بَدَأَ اللَّهُمَّ مَنْ بَعْدَ مَا رَأَوْا أَلَا كَيْتَ لِي سِجْنَهُ وَ

٣٥

وَدَخَلَ مَعَهُ الْسِّجْنَ فَتَيَانٌ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي  
أَرَيْتُ أَعْصِرُ حَمَراً وَقَالَ الْأَخْرُونِي أَرَيْتُ أَحِيلُ  
فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الظَّيْرُ مِنْهُ نَيْشَنَا  
بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَنَّاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَاعُورٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَاتُكُمَا  
بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيكُمَا ذَلِكُمَا مَمَّا عَلِمْنِي رَبِّي

n’imyemerere y’abantu batemera **Allah** bakanahakana imperuka.”

إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ  
بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٢٧﴾

38. “Kandi nakurikiye idini ry’abakurambere banjye (ari bo) Ibrahimu, Isihaka na Yakubu, ndetse ntibikwiye ko twabangikanya **Allah** n’icyo ari cyo cyose. Izo ni zimwe mu ngabire za **Allah** kuri twe ndetse no ku bantu bose; nyamara abenshi mu bantu ntibashimira.”

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ أَبَاءِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ  
مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشَرِّكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ  
فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ  
النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٨﴾

39. “Yemwe bagenzi banjye (mwembi turi kumwe) muri gereza! Ese (kugaragira) ibigirwamana binyuranye ni byo byiza? Cyangwa (ibyiza ni ukugaragira) **Allah**, Umwe rukumbi, Umunyembaraga z’ikirenga?”

يَصْرِحُ الْسِّجْنُ بِأَرْبَابٍ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمْ  
اللَّهُ أَوْحَدُ الْقَهَّارُ ﴿٢٩﴾

40. “Ibyo musenga mu cyimbo cye (**Allah**) ni amazina masa (adafite icyo avuze) mwihibimiye; mwe n’abakurambere banyu, nyamara **Allah** atarigeze abibahera uburenganzira. Nta wundi ukwiye gutanga itegeko (ry’ukwiye gusengwa) usibye **Allah**. Yategetse ko nta kindi mugomba kugaragira uretse We wenyine. Iryo ni ryo dini ritunganye, nyamara abenshi mu bantu ntibabizi.”

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِنَا إِلَّا أَسْمَاءَ  
سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ مَا أَنَّ اللَّهَ بِهَا  
مِنْ سُلْطَنٍ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَّا الْأَتَّبِعُونَ إِلَّا  
إِيَّاهُ ذَلِكَ الَّذِينَ قَيْمُوا لِكَنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا  
يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

41. "Bagenzi banjye mwembi (turi kumwe) muri gereza! (Ibisobanuro by'inzozi zanyu) ni uko umwe muri mwe (warose yenga inzoga, azafungurwa) maze akazasukira Shebuja inzoga, naho undi (warose yikoreye imigati) azabambwa maze inyoni zirye ku mutwe we. Umwanzuro wamaze gufatwa ku byo mwansobanuzaga."

42. Nuko (Yusufu) abwira uwo yari azi ko azafungurwa ati "Uzamvuganire kuri Shobuja." Ariko Shitani yamwibagije kumuvuganira kuri Shebuja, nuko (Yusufu) amara (indi) myaka muri gereza.

43. Umwami (yaje kurota), aravuga ati "Mu by'ukuri narose mbona inka ndwi zishishe ziribwa n'inka ndwi z'imiguta, (mbona) n'amahundo arindwi mabisi n'andi (arindwi) yumye. Yemwe byegera byanjye! Nimunsobanurire inzozi zanjye, niba koko muzi gusobanura inzozi."

44. Baravuga bati "(Izo nzozi zawe) ni uruvangitirane, ntizisobanutse, kandi ntabwo turi abahanga bo gusobanura inzozi (nk'izo)."

يَصَحِّي السِّجْنَ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ  
خَمْرًا وَأَمَّا الْأَخْرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ  
مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ  
تَسْقَفْتِيَانِ ﴿٦﴾

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٌ مِنْهُمَا أَذْكُرْ فِي عِنْدِ  
رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَيْثَ  
فِي السِّجْنِ بِضَعْ سِينِينَ ﴿٦٥﴾

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانِ  
يَا كَلُهُنَّ سَبْعَ عِجَافٍ وَسَبْعَ سُبْلَاتٍ  
خُضْرٌ وَأَخْرَ يَاسِتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي  
رُعَيَّتِي إِنْ كُنْتُمْ لِرُءَيَا تَعْبُرُونَ ﴿٦٦﴾

قَالُوا أَضَعَفْتُ أَحَلَمِي وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحَلَمِ  
يَعْلَمِينَ ﴿٦٧﴾

45. Maze wa muntu warekuwe (mu bari bafunganywe na Yusufu) aza kwibuka nyuma y'igihe (ko atamuvuganiye), maze aravuga ati “Njye ndababwira ibisobanuro byazo, ngaho nimunyohereze (kuri Yusufu).”

46. (Aravuga ati) “Yewe Yusufu w'umunyakuri! Dusobanurire iby'inka ndwi zishishe ziribwa n'izindi indwi z'imiguta, n'iby'amahundo arindwi mabisu n'andi (arindwi) yumye, kugira ngo nsubire ku bantu (bantumye), bityo basobanukirwe (iby'izo nzozi).”

47. (Yusufu) aravuga ati “Muzahinga imyaka irindwi ikurikirana, maze ibyo muzasarura muzabirekere mu misogwe yabyo, usibye bike mu byo muzarya.”

48. “Nyuma y'icyo gihe, hazaza (imyaka) irindwi (y'amapfa) izarya ibyo muzaba mwarayihunikiye, usibye bike muzaba mwarazigamye (nk'imbuto).”

49. “Maze nyuma yayo haze umwaka abantu babone imvura nyinshi (beze byinshi) nuko benge (imitobe myinshi).”

وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَأَدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَّ  
أَنْتُمْ كُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسَلُونَ ﴿٤٥﴾

يُوسُفُ إِيَّاهَا الصِّدِيقُ أَفْتَنَا فِي سَبْعَ بَقَرَاتٍ  
سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعَ عِجَافٌ وَسَبْعَ  
سُنْلَاتٍ خُضْرٌ وَأَخْرَ يَأْسَتِ لَعَلَّيْ أَرْجِعُ إِلَيْ  
النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾

قَالَ تَرَرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدُتُمْ فَذَرُوهُ  
فِي سُنْلَةٍ إِلَّا قِيلَامَتَانِ كُلُونَ ﴿٤٧﴾

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَا كُلُّ مَا قَدَّمْتُمْ  
لَهُنَّ إِلَّا قِيلَامَتَانِ تُحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ  
يَعْصِرُونَ ﴿٤٩﴾

50. Nuko umwami aravuga ati "Nimumunzanire!" Ariko Intumwa imugezeho, (Yusufu) aravuga ati "Subira kwa Shobuja umubaze ku byerekeye abagore bitemaguye intoki (bari bagambiriye kunshinja ibinyoma)! Mu by'ukuri Nyagasani wanjye ni Umumenyi uhebuje w'amayeri yabo."

51. (Umwami akoranya abo bagore) aravuga ati "Ni iyihe mpamu yabateye kwifusa Yusufu?" Baravuga batii "Allah abimurinde! Nta kibi twamubonyeho." Umugore w'umunyacyubahiro (na we) aravuga ati "Ubu noneho ukuri kuragaragaye; ni njye wamwifuje, kandi rwose ari mu banyakakuri."

52. (Nuko Yusufu aravuga ati) "Ibyo (byo gushaka ko abagore babanza kubazwa) ni ukugira ngo (wa mutware) amenye ko ntigeze muhemukira rwihihswa. Kandi mu by'ukuri Allah ntashoboza abahemu kugera ku migambi yabo mibi."

53. "Kandi sinigira umwere (kuko nanjye naburaga gato ngo mwifufe). Mu by'ukuri umutima akensi utegeka gukora ibibi, uretse uwo Nyagasani wanjye yagiriye impuhwe. Rwose

وَقَالَ الْمَلِكُ أَتَيْتُنِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ أُرْجِعْ إِلَى زَيْلَكَ فَسَلَّهُ مَا بَالُ الْسِّوَةَ الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيهِنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾

قَالَ مَا حَطَبُكَ إِذْ رَأَوْدَتْنَ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْ حَشَّ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتْ أَمْرَاتُ الْعَزِيزِ الْفَنَ حَصَّاصَ الْحَقِّ أَنَّا رَأَوْدَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لِمَنِ الصَّادِقِينَ ﴿٥٤﴾

ذَلِكَ لِعِلْمٍ أَنِّي لَمْ أَخْنُهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَاطِئِينَ ﴿٥٥﴾

\* وَمَا أَبْرَيْتُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَآمَارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَارَجَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٦﴾

Nyagasani wanjye ni Ubabarira ibyaha, Nyirimpuhwe."

54. Maze umwami (abonye ko Yusufu abaye umwere) aravuga ati "Mumunzanire mugire umujyanama wihariye!" Nuko amaze kuvugana na we (ashima imico ye) aravuga ati "Mu by'ukuri uyu munsi ubaye umunyacyubahiro w'umwizerwa muri twe."

55. (Yusufu) aravuga ati "Nshinga ibigega by'igihu, kuko mu by'ukuri ndi umubitsi ubisobanukiwe."

56. Uko ni ko twagize Yusufu umuntu ukomeye mu gihugu (Misiri), agituramo aho ashaka. Duhundagaza impuhwe zazu ku wo dushaka, kandi ntitudya tuburizamo ibihembo by'abakora ibyiza.

57. Kandi rwose, ibihembo byo ku munsi w'imperuka ni byo byiza kuri ba bandi bemeye bakaba baranagandukiraga **Allah**.

58. Nuko (amapfa aratera) abavandimwe ba Yusufu (basuhukira mu Misiri gushakayo amafunguro), binjira iwe arabamenya, ariko bo ntibamumenya.

وَقَالَ الْمَلِكُ أَتَتُونِي بِهِ أَسْتَخْلَصْهُ لِنَفْسِي ﴿٣﴾  
كَلَمَهُ وَقَالَ إِنَّكَ أُلْيَوْمَ لَدِينَ مَكِينٌ أَمِينٌ

قَالَ أَعْجَلْنِي عَلَىٰ حَرَابِنِ الْأَرْضِ ﴿٤﴾ إِنِّي حَفِظُ عَلَيْمٍ

وَكَذَلِكَ مَكَانَ يُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا  
حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا  
نُؤْتِيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥﴾

وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءاْمَنُوا وَكَانُوا  
يَسْتَقْوِنَ ﴿٦﴾

وَجَاءَ إِخْرَوْهُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفُوهُمْ  
وَهُمْ لَهُوَ مُنْكِرُونَ ﴿٧﴾

59. Amaze kubategurira ibiribwa (basabye) aravuga ati “(Ubutaha) muzanzanire umuvandimwe wanyu kuri so (Benjamini). Ese ntimubona ko mbuzuriza ibipimo kandi nkanakira neza abashyitsi?”

60. “Nimuramuka mutamunzaniye nta biribwa muzapimirwa iwanjye, kandi ntimuzanyegere.”

61. Baravuga bati “Tuzinginga se amuduhe, kandi rwose tuzabikora.”

62. (Yusufu) abwira abagaragu be ati “Mushyire amafaranga baguze ibiribwa mu mitwaro yabo (mu ibanga), kugira ngo bazabibone basubiye iwabo, bityo bazagaruke.”

63. Nuko bageze kwa se, baravuga bati “Dawe! Twahakaniwe kuzongera gupimirwa (ibiribwa tutajyanye n’umuvandimwe wacu Benjamini). None duhe umuvandimwe wacu tujyane, kugira ngo tuzapimirwe (ibiribwa), kandi rwose tuzamurinda.”

وَلَمَّا جَهَّزُهُمْ بِجَهَازٍ هُوَ قَالَ أَئْتُنِي بِأَخْ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ لَا تَرَوْنَ أَتَيْ أُوْفِي الْكِيلَ وَإِنَّا خَيْرُ الْمُذْنِلِينَ

٥٩

فَإِنْ لَمْ تَأْتُنِي بِهِ فَلَا كَيْلٌ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرُبُونَ

قَالُوا سَرِّرْ دُعَاهُ أَبَاهُو إِنَّا لِفَاعِلُونَ

وَقَالَ لِفَتِينَهُ أَجْعَلُوهُ أَضَعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا أَنْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

٦٠

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنْعَ مِنَ الْكَيْلِ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ

٦١

64. (Se) aravuga ati “Ese muragira ngo mbizere mubahe, nk’uko nabizeye mbere nkabaha umuvandimwe we (Yusufu ntimumugarure)? **Allah** ni We Murinzi mwiza, kandi ni We Munyembabazi usumba abandi.”

65. Nuko (bageze imuhira) bahambuye imitwaro yabo, basanga amafaranga (baguze ibiribwa) bayasubijwe, baravuga bat “Dawe! Ni iki kindi dushaka kitari iki? Ngaya amafaranga (twari twishyuye) twayasubijwe! (Bityo duhe Benjamini tujyane) kugira ngo tuzanire umuryango wacu ibiribwa (byinshi), kandi umuvandimwe                          wacu tuzamurinda,                          ndetse twongererwe                          n'igipimo (cy'ibiribwa)                                bingana n'umutwaro w'ingamiya, dore ko ickyo gipimo cyoroheye (umwami kugitanga).”

66. (Se) aravuga ati “Ntabwo namubaha mutampaye isezerano murahira ku izina rya **Allah** ko muzamungarurira, usibye igihe mwagotwa (n'umwanzi, akabaganza akamubambura).” Bamaze kumurahirira, aravuga ati “**Allah** ni Umuhamya w'ibyo tuvuze.”

قَالَ هَلْ إِمْتُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمْتُكُمْ عَلَىٰ  
أَخِيهِ مِنْ قَبْلٍ فَلَهُ خَيْرٌ حَفِظًا وَهُوَ أَرَحُّ

الرَّحِيمُونَ

وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتِهِمْ رُدَّتْ  
إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبَغَى هَذِهِ بِضَاعَتِنَا  
رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرٌ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزَّادُ

كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ

قَالَ لَنْ أَرْسِلُهُ وَمَعَكُمْ حَقَّ تُؤْتُونَ مَوْتِي  
مِنْ أَنَّ اللَّهَ لَتَأْتِنَّ بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا  
ءَأَتَهُمْ مَوْتِي هُمْ قَالُوا أَلَّا عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكَيْلٌ

٦٦

67. Aranavuga ati “Bana banjye! (Nimugera mu Misiri) ntimuzinjirire mu irembo rimwe, ahubwo muzinjirire mu marembo atandukanye, kandi nta na kimwe nabamarira ku byo Allah yagena. Mu by'ukuri umwanzuro ni uwa Allah; ni We niringiye, kandi abiringira bose bajye baba ari We biringira.”

68. Nuko ubwo binjiriraga (mu marembo atandukanye) nk'uko se yari yabibategetse, nta cyo byabamariye ku byagenwe na Allah, ariko zari impungenge zari mu mutima wa Yakubu yasohoye. Mu by'ukuri we (Yakubu) yari umumenyi kuko twari twaramwigishije, ariko abenshi mu bantu ntibabizi.

69. Nuko binjiye kwa Yusufu, yiyegeze mwene nyina (Benjamini), maze (aramwongorera) ati “Mu by'ukuri ndi umuvandimwe wawe (Yusufu), bityo ntuterwe agahinda n'ibyo (abavandimwe bacu) bajyaga bakora.”

70. Nuko amaze kubategurira imitwaro yabo, ashyira ingemeru (ikoze muri zahabu) mu mutwaro wa mwene nyina, maze (umwe mu bakozi be) avuza akamo ati “Yemwe mwa bagenzi mwe! Mu by'ukuri muri abajura!”

وَقَالَ يَبْنَيْ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابِ وَحْدَهٖ وَادْخُلُوا  
مِنْ أَبْوَابِ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أَغْنَى عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ  
مِنْ شَيْءٍ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوْكِيدُ  
وَعَلَيْهِ فَلِيَتَوَكَّلَ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٦٧﴾

وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمْرَهُمْ أَبْوَاهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي  
عَنْهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ  
يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَمَنَهُ  
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ  
إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا  
يَعْمَلُونَ ﴿٦٩﴾

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ الْسِقَايَةَ فِي  
رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَنَ مُؤْذِنٍ أَيْتَهَا أُعِيرُ إِنَّكُمْ  
لَسَدِرُقُونَ ﴿٧٠﴾

71. Barahindukira baravuga bati “Ni iki mwabuze?”

قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَا دَأَتْ فَقَدُونَ ﴿٦﴾

72. Baravuga bati “Twabuze ingemeri y’umwami, kandi uyizana arahembwa ibingana n’umutwaro w’ingamiya, kandi ibyo ndabyishingiye.”

قَالُوا نَفِقْدُ صَوَاعَ الْمَلَكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٍ  
وَأَنَّا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧﴾

73. Baravuga bati “Turahiye ku izina rya Allah! Rwose murabizi ko tutazanywe no gukora ubwangizi mu gihugu (cya Misiri), ndetse nta n’ubwo turi abajura.”

قَالُوا تَالَّهُ لَقَدْ عِلْمْتُمْ مَا جَعَلْنَا لِنُفْسِدَ فِي  
الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرِّقِينَ ﴿٨﴾

74. (Abakozi ba Yusufu) baravuga bati “Ubwo se igihano cye (uwibye) kiraba ikihe, nibiba bigaragaye ko muri ababeshyi?”

قَالُوا فَمَا جَزَوْهُ وَإِنْ كُنْتُمْ كَذَّابِينَ ﴿٩﴾

75. Baravuga bati “Igihano cy’uri buyisanganwe mu mutwaro we, abe ari we uhanirwa icyaha yakoze (agirwe umucakara). Uko ni ko duhana inkozi z’ibibi.”

قَالُوا جَزَوْهُ وَمَنْ وُجِدَ فِي رَحْلَاهُ فَهُوَ جَزَوْهُ  
كَذَّالِكَ تَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾

76. Nuko (Yusufu) atangira (gusaka) aherye ku mitwaro y’abandi (bavandimwe be) mbere (yo gusaka) umutwaro wa mwene nyina. Hanyuma ayikura mu mutwaro wa mwene nyina. Uko ni ko twashoboje Yusufu kugera ku mugambi (wo gusigarana mwene nyina). Ntabwo yari kubasha kugumana mwene nyina ibwami bitari ku bushake bwa Allah. Tuzamura mu nzego uwo dushatse. Kandi

فَبَدَأَ يَأْوِي عَيْتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءَ أَخِيهِ ثُمَّ  
أَسْتَحْرِجُهَا مِنْ وِعَاءَ أَخِيهِ كَذَلِكَ كَذَنَا  
لِيُوْسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلَكِ  
إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرَفَعُ دَرَجَتِهِ مَنْ شَاءُ وَقَوْقَ  
كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلَيْهِمْ ﴿١١﴾

hejuru ya buri mumenyi, hari Umumenyi w'ikirenga (**Allah**).

77. (Abavandimwe ba Yusufu) baravuga bati “Niba yibye, hari na mwene nyina (Yusufu) wigeze kwiba.” Nuko Yusufu abigira ibanga mu mutima we, ntiyabibagaragariza. Avuga (yibwira) ati “Ni mwe babi kurusha (uwo muvuga)! Kandi **Allah** azi neza ibyo muvuga.”

78. Baravuga bati “Yewe Munyacyubahiro! Mu by'ukuri (Benjamini) afite se w'umusaza cyane (ntiyakwihanganira kumubura). Bityo, sigarana umwe muri twe mu cyimbo cye. Mu by'ukuri tubona uri mu bagiraneza.”

79. (Yusufu) aravuga ati “**Allah** aturinde kuba twagira undi dufata usibye uwo twasanganye umutungo wacu. Mu by'ukuri (turamutse tubikoze) icyo gihe twaba tubaye inkozi z'ibibi.”

80. Nuko bamaze gutakaza icyizere (cyo kuba bakwemererwa kugira undi basiga mu cyimbo cya Benjamini), bariherera bajya inama maze umukuru muri bo aravuga ati “Ese ntimuzi ko so yagiranye namwe isezerano mu izina rya **Allah** (ko muzamugarura), kandi na mbere mutarubahirije (ibyo

\* قَالُوا إِن يَسِّرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخْ لَهُو مِنْ  
قَبْلٍ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبَدِّهَا  
لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا  
تَصْفُونَ ﴿٧٧﴾

قَالُوا يَا إِيَّاهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَكْبَارًا شَيْخًا كَيْرًا  
فَحُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ وَإِنَّا نَرَيْكَ مِنَ  
الْمُحْسِنِينَ ﴿٧٨﴾

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ تَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَعَنًا  
عِنْدَهُ وَإِنَّا إِذَا لَظَلَمْوْنَ ﴿٧٩﴾

فَلَمَّا أُسْتَيْسُوْ مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ  
كَيْرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخْذَ  
عَلَيْكُمْ مَوْتًا مِنْ أَنَّ اللَّهَ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَطْتُمْ فِي  
يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَنِّي أَوْ  
يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَكِيمِينَ ﴿٨٠﴾

mwasezeranye) kuri Yusufu? Bityo, sinzigerwa mva kuri ubu butaka (Misiri) keretse data abimpereye uburenganzira, cyangwa **Allah** agaca iteka (ryo kuhava mujyanye), kuko ari we Mukiranuzi usumba abandi.”

81. (Ati) nimusubire kwa so mumubwire muti “Dawe! Mu by'ukuri umwana wawe yaribye, kandi ibyo duhamya ni ibyo twabonye (kuko basanze ingemeri yabo mu mutwaro we). Kandi (igihe twaguhaga isezerano) ntitwari tuzi ibyihishe (ko aziba bakamusigarana).”

82. “Unabaze (abatuye) umudugudu twarimo (mu Misiri) ndetse unabaze abagenzi twari kumwe; rwose turavuga ukuri.”

83. (Yakobo) aravuga ati “Ahubwo imitima yanyu yabashishikarije gukora ikibi (kuri Benjamini mukigeraho). Bityo, kwihangana ni byo byiza (kuri njye), hari ubwo **Allah** yazabangarurira bose. Mu by'ukuri ni Umumenyi uhebuje, Nyirubugenge buhambaye.”

أَرْجِعُوكُمْ فَقُولُوا إِنَّا إِنَّا بْنَكُمْ  
سَرَقَ وَمَا شَهَدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا  
لِلْغَيْبِ حَفَظِينَ ﴿٨١﴾

وَسَعَى الْقَرِيَّةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي  
أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ ﴿٨٢﴾

قَالَ بَلْ سَوْلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْ أَفَصَبَّ  
جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَيْعًا إِنَّهُ  
هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٨٣﴾

84. Nuko abatera umugongo aravuga ati “Mbega agahinda ntewe no kubura Yusufu!” Maze amaso ye arahuma kubera agahinda (ariko ariyumanganya) kandi ashenguka.

85. Baravuga bati “Turahiye ku izina rya Allah! Ntuzigera ureka kwibuka Yusufu kugeza ubwo ushegeshwe n’agahinda cyangwa kakaguhitana!”

86. (Yakobo) aravuga ati “Mu by’ukuri akababaro n’agahinda byanje mbituye Allah. Kandi nzi ibyo mutazi kuri Allah.”

87. “(Ati) bana banjye! Nimujye (mu Misiri) mushakishe amakuru ya Yusufu na mwene nyina, kandi ntimutakaze icyizere (cyo kubona Yusufu) ku bw’impuhwe za Allah. Mu by’ukuri nta batakaza icyizere ku mpuhwe za Allah, usibye abantu b’abahakanyi.”

88. Nuko binjiye iwe (kwa Yusufu) baravuga bati “Yewe Munyacyubahiro! Twe n’imiryango yacu twatewe n’amapfa, none twazanye amafaranga make cyane; bityo dupimire utwuzurize (nk’ibyo waduhaye), kandi udufashe. Mu by’ukuri Allah agororera abagiraneza.”

وَقَوْلَىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَأَسَفًا عَلَىٰ يُوسُفَ  
وَأَبْيَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ

٨٤

قَالُواٰتَ اللَّهِ تَقْتُؤُتْذَكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ

حَرَضًاً وَتَكُونَ مِنَ الْهَلَكَيْنَ

٨٥

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَّيْ وَحْزِنِي إِلَى اللَّهِ  
وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

يَدَبِيَّ أَدْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخْيَهِ  
وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيُسُ مِنْ  
رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

٨٦

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا يَاهَا الْعَزِيزُ مَسَانَا  
وَأَهْلَنَا الْصُّرُّ وَجِئْنَا بِضَلَاعَةٍ مُنْجَلَّةٍ فَأَوْفَ  
لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي  
الْمُنْصَدِّقِينَ

٨٧

89. Aravuga ati “Ese muribuka ibyo mwakoreye Yusufu na mwene nyina, igihe mwari injiji (mutazi ingaruka zabyo)?”

90. Baravuga bati “Ese mu by'ukuri ni wowe Yusufu?” Ati “Ni njye Yusufu, n'uyu (Benjamini) ni mwene mama. Rwose, **Allah** yatugiriye neza. Mu by'ukuri ugandukira (**Allah**) akanihangana, **Allah** ntaburizamo ibihembo by'abakora ibyiza.”

91. Baravuga bati “Turahiye ku izina rya **Allah**, rwose **Allah** yarakuturutishije, kandi mu by'ukuri twari abanyamakosa.”

92. Aravuga ati “Uyu munsi ntawe ubaveba; **Allah** ababarire, kandi ni We Munyempuhwe usumba abandi.”

93. “Nimujyane iyi kanzu yanjea muyishyire mu buranga bwa Data, arahita ahumuka, kandi munzanire umuryango wanyu wose.”

94. Nuko itsinda ry'abagenzi (ryarimo abavandimwe ba Yusufu) risohotse mu gihugu (cya Misiri) umubyeyi wabo (Yakobo) aravuga ati “Mu by'ukuri ndumva impumuro ya Yusufu, niba mutari bubyite

قَالَ هَلْ عَمِّشُ مَا فَعَلْتُمْ يُوْسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ  
أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴿٨٩﴾

قَالُوا إِنَّا نَكَلَ لَأَنَّتِ يُوْسُفَ قَالَ أَنَا يُوْسُفُ وَهَذَا  
أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ وَمَنْ يَتَّقِ وَصَبِرْ  
فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٠﴾

قَالُوا تَالَّهُ لَقَدْ أَثْرَأْتِ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ  
كُنَّا لَخَاطِئِينَ ﴿٩١﴾

قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ  
لَكُمْ وَهُوَ أَحَدُ الرَّحْمَنِ ﴿٩٢﴾

أَذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَالْقُوَّهُ عَلَى وَجْهِهِ أَيِ  
يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُوْنِي بِاهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ

٩٣

وَلَمَّا فَصَلَّتِ الْعِيْرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ  
رِيحَ يُوْسُفَ لَوْلَا أَنْ تَفَنِّدُونِ ﴿٩٤﴾

uburindagizi (kubera izabukuru).”

95. (Abari kumwe na we) baravuga bati “Turahiye ku izina rya Allah ko mu by'ukuri ukiri mu makosa yawe ya kera (yo gukunda Yusufu no kutamwibagirwa).”

96. Nuko ubwo uwari uzanye inkuru nziza (y'uko Yusufu akirih) yahageraga, yamushyize ikanzu ya Yusufu mu buranga, ahita ahumuka. Aravuga ati “Sinababwiye ko nzi ibyo mutazi kuri Allah?”

97. Baravuga bati “Dawe! Dusabire imbabazi z'iwaya byacu. Mu by'ukuri twari abanyabyaha.”

98. Aravuga ati “Nzabasabira imbabazi kuri Nyagasani wanje. Mu by'ukuri We ni Uhebuje mu kubarira, Nyirimbabazi.”

99. Nuko (Yakobo n'abana be) binjiye kwa Yusufu, aholera ababyeyi be maze aravuga ati “Nimwinjire mu Misiri ku bushake bwa Allah mutekanye.”

100. Nuko azamura ababyeyi be (abicaza) ku ntebe y'ubwami bwe maze (ababyeyi n'abavandimwe be) bamwikubita imbere bamuha icyubahiro, maze

قَالَ الْوَاتَّا لِلَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالٍ كَمَا قَدِيرٌ<sup>٩٥</sup>

فَلَمَّا آتَاهُنَّ جَاءَهُ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَ  
بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنْ اللَّهِ مَا  
لَا تَعْلَمُونَ<sup>٩٦</sup>

قَالُوا يَأَيُّ أَبَانَا أَسْتَغْفِرُ لَنَا دُؤُوبَنَا إِنَّا كُنَّا لَخَاطِئِينَ

٩٧

قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ  
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ<sup>٩٨</sup>

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ إِذَا أَوْيَ إِلَيْهِ أَبُوهُهُ وَقَالَ  
أَدْخُلُوهُمْ سَرَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَمْنِينَ<sup>٩٩</sup>

وَرَفَعَ أَبُوهُهُ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُوا لَهُ وَسُجَّداً  
وَقَالَ يَكَبَّتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَيْ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا

aravuga ati “Dawe! Iki ni cyo gisobanuro cy'inzozi zanjye narose! Rwose Nyagasanani wanaye yazigize impamo. Yanangiriye neza ubwo yankuraga mu nzu y'imbohe, akaba anabazanye mwese abakuye mu buzima bw'icyaro, nyuma y'uko Shitani anteranyije n'abavandimwe banjye. Rwose Nyagasanani wanjye ibyo ashaka abikorana ubwitonzi. Mu by'ukuri ni Umumenyi uhebuje, Nyirubugenge buhambaye.”

101. “Nyagasanani! Rwose wampaye ku bwami (bwa Misiri), unanyigisha gusobanura inzozi; (ni wowe) Muhanzi w'ibirere n'isi! Ni wowe Mugenga wanjye ku isi no ku mperuka. Uzanshoboze gupfa ndi Umuyisilamu kandi uzampuze n'abagaragu bawe b'intungane.”

102. Izo ni zimwe mu nkuru z'ibyihishe tuguhishurira (yewe Muhamadi). Kuko ntiwari kumwe na bo (abavandimwe ba Yusufu) ubwo bumvikanaga mu mugambi wabo (wo kugirira nabi Yusufu).

103. Kandi ntabwo abenshi mu bantu (babangikanya Imana) baba abemeramana kabone n'ubwo washyiraho umuhate.

رَبِّيْ حَقًا وَقَدْ أَحَسَنَ بِإِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ الْسَّجْنِ  
وَجَاءَهُ بِكُمْ مِنَ الْبَدْرِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَّعَ الشَّيْطَانُ  
بَيْنِ وَبَيْنِ إِحْوَتَيْ إِنَّ رَبِّيْ لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ  
إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

\* رَبِّيْ قَدْ أَتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَمْتَنِي مِنْ  
تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَأَطْرَأَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ  
أَنَّتَ وَلِيَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تُوفِّيْ مُسْلِمًا  
وَالْحَقْنِي يَا أَصْلَاحِينَ

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهُ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ  
لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ بِمَكْرُونَ

وَمَا أَكَّرَ النَّاسَ وَلَوْ حَرَصُتْ بِنُؤُمْنِينَ

104. Ndetse nta n'ubwo (kubagezaho ubutumwa) ubibasabira igihembo (yewe Muhamadi); ahubwo (Qur'an) ni urwibutso ku bantu bose.

105. Ese ni ibimenyetso bingahe banyuraho mu birere no ku isi (bigaragaza ko Imana ari imwe), ariko bakabyirengagiza?

106. Nyamara abenshi muri bo ntibashobora kwemera **Allah** batamubangikanyije.

107. Ese bumva batekanye ku buryo batagerwaho n'ibihano bya **Allah** bikabagota, cyangwa bakagerwaho n'imperuka ibatunguye mu buryo batazi?

108. Vuga (yewe Muhamadi) uti "Iyi ni yo nzira yanjye, mpamagarira (abantu) kugana **Allah** nshingiye ku bumenyi buhamye, njye n'abankurikiye. Ubutagatifu ni ubwa **Allah**. Kandi njye ntabwo ndi mu babangikanyamana."

109. Kandi mbere yawe nta bandi twigeze twohereza ngo tubahishurire ubutumwa, usibye ko babaga ari abagabo bakomoka mu midugudu (twabaga tuboherejemo). Ese ntibatambagira isi ngo barebe uko iherezo (ry'abahakanyi) bababanjurije ryagenze? Kandi

وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ  
لِلْعَلَمِينَ ١٦٤

وَكَائِنٌ مِنْ ءَايَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
يَمْرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعَرِّضُونَ ١٦٥

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ

١٦٦

إِنَّمَنُوا أَنْ تَأْتِيهِمْ عَذَابٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ  
تَأْتِيهِمُ السَّاعَةُ بُغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٦٧

قُلْ هَذِهِ سَيِّئَاتٌ أَدْعُوكُمْ إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ  
أَنَّا وَمَنْ أَتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنْ  
الْمُشْرِكِينَ ١٦٨

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ  
أَهْلِ الْفَرِيْدِ أَفَمَنْ يَسِيرُونَ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُونَ  
كَيْفَ كَانَ عَبْرَةً الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ  
وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ

١٦٩

ubuturo bw'imperuka ni bwo  
bwiza kuri ba bandi  
bagandukiraga **Allah**. Ese nta  
bwenge mugira?

110. (Yewe Muhamadi! Ntuzibwire ko kugera ku ntsinzi byoroshye, kuko n'Intumwa zakubanjirije zitayigezeho aka kanya, ahubwo) izo Ntumwa zageraga aho ziheba zigakeka ko zahakanywe burundi; icyo gihe inkunga yacu ikaba ari bwo izigeraho, maze tukarokora abo dushaka. Kandi ibihano byacu ntibikumirwa ku bantu b'inkozi z'ibibi.

111. Rwose muri (izo) nkuru zabo harimo inyigisho ku banyabwenge. Ntabwo (Qur'an) ari inkuru mpimbanu, ahubwo ishimangira (ibitabo) byayibanjirije, ikanasobanura buri kintu, ndetse ikaba n'umuyoboro n'impuhwe ku bantu bemera (**Allah**).

حَتَّىٰ إِذَا أَسْتَيْئَسَ الرَّسُولُ وَظَنَّوا أَنَّهُمْ قَدْ  
كُنْذِبُوا جَاءُهُمْ نَصْرٌ نَّعْجَنَىٰ مَنْ نَشَاءُ وَلَا  
يُرْدُ بِأَسْنَاعِنَ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١١﴾

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِ عَرْبٌ لَا يُؤْلِمُ الْأَلْبِيمَا كَانَ  
حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَا كِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ  
يَدَيْهِ وَتَقْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَىٰ وَرَحْمَةٌ  
لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾

## 13 - SURAT A-R'AADU (INKUBA)

Yahishuriwe i Madina, igizwe n'imirongo 43.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya **Allah**, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Alif Laam Miim Raa<sup>124</sup>. Iyi ni imirongo y'igitabo (Qur'an), kandi ibyo wahishuriwe (yewe Muhamadi) biturutse kwa Nyagasanji wawe ni ukuri, ariko abenshi mu bantu ntibemera.

2. **Allah** ni We wazamuye ibirere nta nkingi (zibifashe) mubona, nuko aganza hejuru ya Ar'shi<sup>125</sup>. Yacishije bugufi izuba n'ukwezi (ku bw'inyungu z'ibiremwa), buri cyose kigenda mu nzira yacyo kigana ku gihe cyagenwe. Agenga gahunda z'ibintu byose, akanasobanura ibimenyetso (bye) kugira ngo mwemere mudashidikanya kuzahura na Nyagasanji wanyu.

3. Ni na We warambuye isi maze ayishyiraho imisozi n'imigezi. Yanashyize muri buri bwoko bw'imbuto amoko abiri abiri (iz'ibara ryera n'izirabura, inini n'into, iziryohera n'izirura, ingore n'ingabo...), atwikiriza ijoro

الْمَرِءُ تِلْكَ إِيَّاهُ أَنْتُ الْكَتِبُ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١﴾

الَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَحَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ فَلَمْ يَجْرِي لِأَجْلِ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ يَلَقَاءُ رَبِّكُمْ تُوقَنُونَ ﴿٢﴾

وَهُوَ الَّذِي مَدَ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوْسَى وَأَنْهَرَ وَمِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رَوْجَيْنَ أَنْثَيْنِ يُعِيشُ الْيَّالِيَّ الْنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣﴾

<sup>124</sup> Imirongo itangirwa n'inyuguti nk'izi twazivuzeho mu masura yatambutse.

<sup>125</sup> Reba ibisobanuro by'iri jambo muri Surat ul A'raf, Aya ya 54.

amanywa (amanywa na yo akayatwikiriza ijoro). Mu by'ukuri muri ibyo harimo ibimenyetso ku bantu batekereza.

4. No mu butaka hari uduce twegeranye (uturumba n'uturumbuka), imirima y'imizabibu, imirima y'ibimera bitandukanye, imitende icucitse ku gitsinsi ndetse n'itatanye, byuhirwa n'amazi amwe; nyamara bimwe tukabirutisha ibindi mu buryohe. Mu by'ukuri muri ibyo harimo ibimenyetso ku bantu bafite ubwenge.

5. Niba (wowe Muhamadi) utangazwa (no kutemera kwabo nyuma y'ibi bimenyetso), igitangaje (kurushaho) ni imvugo yabo igira iti "Ese (nidupfa) tugahinduka igitaka, tuzasubizwa ubuzima bundi bushya?" Abo ni ba bandi bahakanye Nyagasan wabo, ndetse ni bo bazaboheshwa iminyururu mu majosi. Kandi abo ni abantu bo mu muriro, bazawubamo ubuziraherezo.

6. Bagusaba kwihutisha ikibi (ibihano) mbere y'icyiza (kwemera), kandi mbere yabo harahise ibihano by'intangarugero bisa na byo. Mu by'ukuri Nyagasan wawe ni Umunyembabazi ku bantu

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَوِّرٌ وَجَنَّتُ مِنْ  
أَعْنَبٍ وَرَزْعٍ وَخَيْلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرٌ صِنْوَانٌ  
يُسْقَى بِمَاءٍ وَحِدٍ وَنَفَضَّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي  
الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾

\*وَلَنْ تَعْجَبْ فَعَجَبْ قَوْلُهُمْ أَءَدَّا كُنَّا تُرَبَّا  
أَئْنَا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٌ أَوْلَئِكَ الَّذِينَ  
كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأَوْلَئِكَ الْأَغْلَلُ فِي  
أَعْنَاقِهِمْ وَأَوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْنَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَلِدُونَ ﴿٥﴾

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ  
خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِمْ أُمُّ الْمُثْلَثَةِ وَلَنَّ رَبَّكَ لَذُو  
مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَلَنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ  
الْعِقَابِ ﴿٦﴾

atitaye ku bikorwa bibi byabo. Kandi rwose Nyagasan ni wawe nyiribihano bikaze.

7. Kandi abahakanyi baravuga bati "Kubera iki (Muhamadi) atamanuriwe ikimenyetso (gifatika) giturutse kwa Nyagasan we (kimeze nk'inkoni ya Musa cyangwa nk'ingamiya ya Swaleh)?" Mu by'ukuri (ibyo ntibiri mu bushobozi bwawe kuko) wowe uri umuburizi, kandi buri bantu bagira umuyobozi (Intumwa).

8. **Allah** azi icyo buri kigore gifite muri nyababyeyi, (akanamenya) ibivuka bidashyitse ndetse n'ibisagiza (ibirenya igihe). Kandi iwe buri kintu cyose gifite igipimo.

9. Umumenyi w'ibitagaragara n'ibigaragara, Usumba byose, Uwikirenga.

10. (Kuri **Allah**) uhisha imvugo n'uyigaragaza muri mwe, uwitwikira ijoro ndetse n'ugaragara ku manywa, bose ni bamwe.

11. (Buri muntu) afite abamalayika basimburana imbere n'inyuma he; bamurinda ku bw'itegeko rya **Allah**. Mu by'ukuri **Allah** ntahindura ibiri mu bantu keretse bahinduye

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ  
مِّنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

٧

الَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغْيِضُ  
الْأَرْجَامُ وَمَا تَزَدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ  
بِمِقْدَارٍ

٨

عَدِيمُ الْعَيْنِ وَالشَّهَدَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ

سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ جَاءَ سَرَّاً قَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ  
وَمَنْ هُوَ مُسْتَحْفَى بِالْيَلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ

٩

لَهُ وَمُعَقِّبَتُهُ مَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ  
يَحْفَظُونَهُ وَمَنْ أَمْرَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا يُقَوِّمُ  
حَتَّىٰ يُغَيِّرَ وَمَا يَأْنِسُهُمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ

ibibarimo. Ariko iyo **Allah** ashaka ko ikibi kiba ku bantu ntawe ugikumira, nta n'ubwo bagira undi murinzi utari We.

12. Ni We ubereka imirabyo ibateye ubwoba, ikaba n'icyizere (ku bategereje imvura). Kandi ni na We uzana ibicu bibuditse.

13. N'inkuba isingiza (**Allah**) mu ishimwe rye ryuzuye, ndetse n'Abamalayika (bakamusingiza) kubera kumutinya. Anohereza urusaku rw'inkuba akaruhanisha uwo ashaka; mu gihe (abahakanyi) baba bajya impaka kuri **Allah**, kandi ari Nyirukuburizamo bikomeye imigambi mibisha (wubikira abahakanyi).

14. Ni We (**Allah**) ukwiye ijambo ry'ukuri (ry'uko nta yindi mana ibaho ikwiye gusengwa by'ukuri usibye We). Naho ba bandi basenga ibitari We, ntacyo bibasubiza na kimwe, mbese ni nk'umuntu urambura amaboko ye ayerekeza ku mazi (ari kure ye) kugira ngo amugere mu kanwa, nyamara adashobora kumugeraho. Kandi ubusabe bw'abahakanyi nta kindi buri cyo usibye kuba ari ubuyobe.

سُوءَاءٌ فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٰٓيٰ

۱۱

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرَقَ حَرُوفًا وَطَمَعًا وَيُنَشِّئُ  
السَّحَابَ أَشْقَالَ ۖ ۱۵

وَيُسَيِّحُ الرَّعْدُ بِمَدِّهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِفَتِهِ  
وَيَرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ  
يُجَدِّلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ۖ ۱۶

لَهُ دَعَوْةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيْبُونَ  
لَهُمْ شَيْءٌ إِلَّا كَبِيسْطِ كَفَيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَلْبُغَ فَأَهُوَ  
بِلَبْغَهِ وَمَادِعَهُ الْكُفَّارُ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۖ ۱۷

15. Kandi Allah yubamirwa n'ibiru mu birere no mu isi, bibishaka cyangwa bitabishaka; ndetse n'ibicucu byabyo (biramwubamira) mu gitondo na nimugoroba.

16. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Ni nde Nyagasanu w'ibirere n'isi?” Vuga uti “Ni Allah.” Vuga uti “None se kuki mwishyiriraho abarinzi batari We, batagira icyiza bimarira cyangwa ngo bagire ikibi bikiza?” Vuga uti “Ese utabona ahwanye n'ubona? Cyangwa se umwijima n'urumuri ni bimwe? Cyangwa (abantu) babangikanya Allah n'ibigirwamana (bibwira ko) byaremye nk'uko (Allah) yaremye, ku buryo ibyo (bigirwamana byaremye n'ibyo Allah yaremye) bibatera urujijo kubera ko bisa?” Vuga uti “Allah ni Umuremyi wa buri kintu, kandi ni Umwe rukumbi, Umunyembaraga z'ikirenga.”

17. Yamanuye amazi mu kirere, maze ibibaya bitemba amazi hakurikijwe ingano yabyo. Imivu y'amazi igatembana urufuro hejuru yayo. Ndetse no mu byo bashongesha mu muriro babishakamo imitako cyangwa ibindi bikoresho, hari ibisigara bidafite akamaro. Uko ni ko Allah atanga urugero rugaragaza ukuri n'ikinyoma. Nuko ibidafite

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَفَرًا  
وَظَلَّمُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ ١٥

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ ۚ  
أَفَخَذَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ أُولَيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ  
لَا نَفْسٌ هُنَّ فَاعِلُونَ ۖ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَحْمَانُ  
وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمُتُ وَالنُّورُ ۗ كَمْ جَعَلَ اللَّهُ  
شُرَكَاءَ حَكَمُوا حَكْمَهُ فَتَشَبَّهُ لِحَافِقٍ ۖ قُلِ اللَّهُ  
حَكِيفٌ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ أَوْحَدُ الْقَهَّارُ ۖ ١٦

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا مَأْتَ فَسَالَتْ أُوْدِيَةٌ يَقْدَرُهَا فَأَحْتَمَ  
السَّيْلُ بِنَدَائِيَا وَمَمَا يُوْقَدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ  
حَلِيلَةٍ أَوْ مَتَعَ زَبَدٌ مَّثْلُهُ ۖ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ  
الْحَقَّ وَالْبَطَلَ ۖ فَمَمَا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَمَمَا

akamaro bikaba imfabusa, naho ibifitiye abantu akamaro bikaguma ku isi. Uko ni ko Allah atanga ingero.

18. Ba bandi bumviye Nyagasani wabo bazagororerwa ibyiza (Ijuru). Naho ba bandi batamwumviye, iyo baza kugira ibyo mu isi byose hiyongereyeho n'ibindi nka byo, bari kubyicunguza (kugira ngo barokoke ibihano, ariko ntibigire icyo bibamarira). Abo bazagira ibarura ribi ndetse ubuturo bwabo ni umuriro wa Jahanamu; kandi ubwo ni bwo bushyikiro bubi.

19. Ese wa wundi usobanukiwe ko ibyo wahishuriwe (yewe Muhamadi) biturutse kwa Nyagasani wawe ari ukuri, ameze nka wa wundi w'impumyi (utabona ukuri)? Mu by'ukuri abanyabwenge ni bo bibuka;

20. Ba bandi bubahiriza isezerano rya Allah kandi ntibatatile igihango.

21. Na ba bandi bunga ibyo Allah yategetse ko byungwa (kugirira neza abo bafitanye isano), bakanatinya Nyagasani wabo ndetse bakanatinya kuzagira ibarura ribi (birinda gukora ibyo Allah yaziririje).

يَنْفَعُ النَّاسَ فَمَكُثُّ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضَرُّ  
اللَّهُ أَكْبَرُ الْأَمْثَالَ

لِلَّذِينَ أَسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحَسِنَىٰ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِبُوا  
لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمَثْلُهُ وَمَعَهُ  
لَا فَدْوَلَةٌ إِلَّا وَلَيْكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَا وَهُمْ  
جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَهَادُ

\* أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَمَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحُقْقُ كُمْ هُوَ أَعْمَىٰ  
إِنَّمَا يَدْرِكُ أُولُو الْأَلْبَابِ

الَّذِينَ يُؤْفَنُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيَقَاتَ

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمْرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ  
وَلَا يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَلَا يَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ

22. Na ba bandi bihangana bashaka kwishimirwa na Nyagasani wabo, bagahozaho iswala, bakanatanga mu byo twabahaye, haba mu ibanga cyangwa ku mugaragaro; kandi ikibi bakagikuzaho icyiza. Abo ni bo bazagira iherezo ryiza.

23. Bazinjira mu ijuru rihoraho, bo n'abakoze ibikorwa byiza mu babyeyi babo, abo bashakanye, ndetse n'urubyaro rwabo. Kandi abamalayika bazajya babageraho binjiriye muri buri muryango,

24. (Bababwira batii) "Amahoro abe kuri mwe kubera ko mwihanganye. Mbega ukuntu ubuturo bwa nyuma ari bwiza!"

25. Naho ba bandi bica isezerano rya **Allah** nyuma y'uko baryiyemeje, bakanatanya ibyo **Allah** yategetse ko byungwa (kugirira neza abo mufitanye isano), ndetse bakanakora ubwangizi ku isi, abo baravumwe kandi bazanagira ubuturo bubi.

26. **Allah** atuburira amafunguro uwo ashaka, akanayatubya (ku wo ashaka). Kandi (abahakanyi) bashimishwa n'ubuzima bwo ku isi, nyamara ubuzima bwo ku isi nta cyo buri cyo ubugereranyije n'ubw'imperuka uretse kuba ari umunezero w'akanya gato.

وَالَّذِينَ صَبَرُوا أَبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ  
وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمْ سِرًا وَعَلَيْنَهُ وَيَدُهُونَ  
بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةُ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقَبَى الدَّارِ ﴿٦﴾

جَنَّتُ عَدْنٍ يَدْخُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ إِبَابِهِمْ  
وَأَزْوَاجِهِمْ وَدُرْسَتِهِمْ وَالْمَلِكَةُ يَدْخُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ  
كُلِّ بَابٍ ﴿٧﴾

سَلَمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فِي عَمَّ عَقَبَى الدَّارِ ﴿٨﴾

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيقَاتِهِ  
وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ  
وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ الْمَنَعُ  
وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿٩﴾

الَّهُ يَسْعُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا  
بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَّعٌ

27. Kandi ba bandi bahakanye baravuga batu “Kuki (Muhamadi) atamanuriwe igitangaza giturutse kwa Nyagasan we?” Vuga uti “Mu by’ukuri Allah arekera mu buyobe uwo ashaka, akanayobora iwe uwicujije.”

28. Ba bandi bemeye kandi bakagira imitima ituje ku bwo gusingiza Allah, mu by’ukuri mumenye ko gusingiza Allah bituma imitima ituza.

29. Ba bandi bemeye bakanakora ibikorwa byiza, bazagira umunezero n’igarukiro ryiza.

30. (Nk’uko twohereje Intumwa mbere yawe) ni na ko twakohereje (yewe Muhamadi) ku muryango (Umat) wabanjirijwe n’indi miryango, kugira ngo ubasomere ibyo twaguhishuriye (Qur'an), kuko bo bahakana Nyirimpuhwe. Vuga uti “Ni We Nyagasan wanjiye, nta yindi mana ikwiye gusengwa by’ukuri itari We. Ni We niringiye kandi ni na We nicuzaho.”

31. N’yo haza kubaho Qur'an igendesha imisozi, cyangwa isatagura isi, cyangwa ivugisha abapfuye (yari kuba ari iyi Qur'an wahishuriwe, kandi ntabwo bari kuyemera). Arikoo Allah ni We Mugenga wa byose (ibitangaza ndetse n’ibindi). Ese

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ  
قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضْلِلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنْتَ بِهِ

٢٧

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطَمِّنُ فُؤُلُومُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ الْأَكْبَرِ  
الَّلَّهُ تَطَمِّنُ الْقُلُوبُ

٢٨

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ  
وَحْسُنُ مَعَابٍ

٢٩

كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا  
أُمَّمٌ لَّتَتَّلَوَّ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ  
يَكْفُرُونَ بِالْحَمْنَ قُلْ هُوَ رَبِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ  
تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ

٣٠

وَلَوْ أَنْ قُوَّةً أَنَا سُيرَتِ بِهِ لِجَانِلُ أَوْ قُطْعَتِ بِهِ  
الْأَرْضُ أَوْ كَلْمَمْ بِهِ الْمُوْتَىَ بِكَلْلَهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا  
أَفَمَرَ يَأْيَسَ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ  
لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا

ba bandi bemeye ntibazi ko iyo **Allah** aza kubishaka yari kuyobora abantu bose (nta gitangaza kibayeho)? Kandi ibyago ntibizareka kugera ku bahakanyi cyangwa (bikagera hafi y'ingo zabo) kubera ibyo bakora, kugeza isezerano rya **Allah** risohoye. Mu by'ukuri **Allah** ntajya yica isezerano rye.

32. (Niba bakerensa ubutumwa bwawe), mu by'ukuri n'Intumwa zabayeho mbere yawe zarakerenshejwe (bityo ntukagire agahinda), ariko ba bandi bahakanye nabahaye igihe maze ndabahana. Mbega uko igihano cyanje cyari kimeze!

33. Ese umugenzi wa buri muntu (ari we **Allah**) ni kimwe n'ibigirwamana (bidafite icyo bizi)? Ariko babangikanyije **Allah** n'ibigirwamana (kubera ubujiji). Vuga (yewe Muhamadi) uti "Ngaho nimuvuge amazina yabyo (n'ibisingizo byabyo byatuma bisengwa)! Cyangwa se (**Allah**) muba mumubwira ibyo atazi ku isi, cyangwa muba mwivugira gusa? Ahubwo ba bandi bahakanye bakundishijwe imigambi yabo, babuzwa (kuyoboka) inzira y'ukuri, kandi uwo **Allah** yarekeye mu buyobe ntiyagira umuyobora.

تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا فَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِبًا مِّنْ  
دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ

آلْمَعَادَ ﴿٣﴾

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ  
كَفَرُوا ثُمَّ أَخْذَتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٌ

﴿٣﴾

أَفَمَنْ هُوَ قَابِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا  
لِلَّهِ شَرِكَاءَ قُلْ سَمُونُهُمْ أَمْ تَبْغُونَهُ وَبِمَا لَا يَعْلَمُ  
فِي الْأَرْضِ أَمْ يُظْهِرُ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ رِزْنَ لِلَّذِينَ  
كَفَرُوا مَكْرُهُهُمْ وَصَدُّوْا عَنِ السَّيِّلِ وَمَنْ

يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِيٍ ﴿٣﴾

34. Bazahabwa ibihano mu buzima bwo kuri yi si, kandi rwose ibihano by'imperuka birakomeye kurushaho. Ndetse ntawe uzabarinda ibihano bya Allah.

35. Imiterere yijuru ryasezeranyije abagandukira (Allah), ni iritembamo imigezi, imbuto zaryo zihoraho ndetse n'igicucu cyaryo (gihoraho). Iryo (juru) ni ryo herezo ry'abagandukira (Allah), naho iherezo ry'abahakanye ni umuriro.

36. Kandi ba bandi twahaye ibitabo (abaje kwemera muri bo) bishimira ibyo wahishuriwe (Qur'an, kuko ihuje n'ibyo bafite mu bitabo byabo), ariko hari n'udutsiko muri bo duhakana bimwe muri byo. Vuga (yewe Muhamadi) uti "Mu by'ukuri nategetswe kugaragira Allah (wenyine) no kutagira ibyo mubangikanya na byo. Nanahamagarira (abantu) kumugana, kandi iwe ni ho garukiro ryanjye."

37. (Nk'uko twahishuriye ibitabo Intumwa zakubanjirije biri mu ndimi zazo), ni na ko twayigu hishuriye (Qur'an) ari amategeko (yo kuyoboresha) iri mu (rurimi rw') Icyarabu, kugira ngo uiyoboresha. Kandi

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابٌ أَلَّا خَرَقَ أَشَقُ  
وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍِ

\* مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ بِخَرِيٍّ مِنْ  
نَحْتِهَا الْأَنْهَرُ أَكُلُّهَا دَآءِمٌ وَظِلْلُهَا تَلْكَ  
عُقَبَى الَّذِينَ أَتَّقَوا وَعَقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ

٢٦

وَالَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ  
إِلَيْكَ وَمَنْ أَلْحَزَ إِلَيْكَ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ وَقُلْ  
إِنَّمَا أَمْرُتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْكَ  
أَدْعُوكَ وَإِلَيْكَ مَأْبِ

٢٧

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ أَتَّبَعْتَ  
أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ  
وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍِ

٢٧

nuramuka ukurikiye  
 amarangamutima yabo  
 (ababangikanyamana) nyuma  
 y'uko ugezweho n'ubumenyi, nta  
 nshuti cyangwa umutabazi  
 uzagira wo kukurinda (ibihano)  
 bya **Allah**.

38. Kandi rwose twohereje Intumwa mbere yawe (yewe Muhamadi), tunazigenera (gushaka) abagore (no kugira) urubyaro. Ndetse nta Ntumwa yazana igitangaza bidaturutse ku bushake bwa **Allah**. Buri kintu cyose gifite igihe cyagenewe.

39. **Allah** ahanagura cyangwa akemeza ibyo ashaka (mu mategeko ye). Kandi ni We ufite igitabo gihatse ibindi [(Al Lawuh-ul Mahfudh) (urubaho rurinzwe)].

40. N'yo twakwereka (yewe Muhamadi) bimwe mu byo tubasezeranya (ibihano) cyangwa tukakuzuriza igihe cyawe (ugapfa), mu by'ukuri inshingano zawe ni ugusohoza ubutumwa, maze ibarura rikaba iryacu.

41. Ese ntibabona ko mu by'ukuri dusenya ubutaka tukagenda tubugabanya mu mpande zabwo zose? **Allah** ni We utegeka kandi nta wavuguruza itegeko rye, ndetse ni We ubanguka mu ibarura.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ  
 أَرْوَاجًا وَذِرَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِي بِعَايَةً إِلَّا  
 بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أَمْرٌ  
 الْكِتَابُ

وَإِنْ مَارِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعْدُهُمْ أَوْ نَنْوَقِيَنَّكَ  
 فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ

أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّا أَنْتُمْ أَلَّا تَرَضَ نَقْصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا  
 وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقَّبٌ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعٌ  
 الْحِسَابُ

42. Mu by'ukuri ba bandi babayeho mbere yabo bacuriye imigambi mibisha (Intumwa zabo), ariko **Allah** ni We uburizamo imigambi mibisha yose. Azi neza ibyo buri muntu akora, kandi abahakanyi bazamenya uzagira iherezo ryiza.

43. Ba bandi bahakanye baravuga batii "Ntabwo (wowe Muhamadi) uri Intumwa." Vuga uti "**Allah** arahagije kuba umuhamya hagati yanjiye namwe ndetse n'abafite ubumenyi bw'igitabo (baje kuyoboka Isilamu)."

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فِي اللَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا  
يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ

عُقَيْدَةُ الدَّارِ

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى  
بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ دُلُومٌ  
الْكِتَابُ

#### 14 - SURAT IBRAHIM (UMUHANUZI ABURAHAMU) *Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirongo 52.*

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

Ku izina rya **Allah**, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Alif Laam Raa<sup>126</sup>. (Ilki ni) igitabo twaguhishuriye (yewe Muhamadi) kugira ngo ukure abantu mu mwijima (w'ubuhakanyi) ubaganisha ku rumuri (rwo kwemera Imana imwe), ku bw'ubushake bwa Nyagasani wabo, ubageze mu nzira ya Nyiricyubahiro

الرَّ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ  
الظُّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ  
الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ①

<sup>126</sup>Ayat zitangirwa n'nyuguti nk'izi twazivuzeho mu mirongo yatambutse.

gihebuje, Ukwiyé ibisingizo byose,

2. Allah we Mugenga w'ibiri mu birere n'ibiri mu isi. Kandi abahakanyi bazahura n'ingorane ku bw'ibihano bikaze bazahura na byo.

3. Ba bandi bakunda ubuzima bw'isi bakaburutisha ubw'imperuka, bagakumira abantu kugana inzira ya Allah bifuza ko yatana (ngo igendere ku marangamutima yabo); abo bari mu buyobe bukabije.

4. Kandi nta Ntumwa twohereje itavuga ururimi rw'abantu twayoherejeho kugira ngo ibasobanurire (ubutumwa bwa Allah). Hanyuma Allah akarekera mu buyobe uwo ashaka (kubera kwigomeka kwe), akanayobora uwo ashaka. Ni na We Munyacyubahiro bihebuje, Nyirubugenge buhambaye.

5. Kandi rwose twohereje Musa azanye ibitangaza byacu (tumubwira tuti) "Kura abantu bawe mu mwijima (w'ubuhakanyi) ubaganishe ku rumuri (rwo kwemera Imana imwe), unabibutse ibihe (by'ingabire) bya Allah. Mu by'ukuri muri ibyo harimo inyigisho kuri buri wese

اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي  
الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ

شَدِيدٌ

الَّذِينَ يَسْتَحْبُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى  
الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ  
وَيَبْغُونَهَا عَوْجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ  
لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيَضُلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ  
وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْزَيزُ الْحَكَمِ

٣

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِإِيمَانِنَا أَنَّ أَخْرَجَ  
قَوْمَكَ مِنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ  
وَذَكَرْهُمْ بِإِيمَانِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِكُلِّ صَبَارٍ شَكُورٍ

urangwa no kwihangana cyane,  
akanashimira.”

6. Unibuke (yewe Muhamadi) ubwo Musa yabwiraga abantu be ati “Nimwibuke inema za Allah kuri mwe ubwo yabarokoraga, akabakiza abantu bo kwa Farawo babakoreraga ubugome ndengakamere; bicaga abana banyu b'abahungu bagasiga abakobwa; kandi muri ibyo harimo ikigeragezo gihambaye gituruka kwa Nyagasan wanyu.”

7. Unibuke (yewe Muhamadi) ubwo Nyagasan wanyu yatangazaga (agira ati) “Nimuramuka mushimiye nzabongerera (ingabire zanje), ariko nimuhakana, mumenye ko ibihano byanje bihambaye.”

8. Nuko Musa aravuga ati “Muramutse muhakanye, mwe n'abari ku isi bose, mu by'ukuri (mumenye ko) Allah ari Uwhagije, Ukwiye ibisingizo byose.”

9. Ese inkuru za ba bandi bababanjirije ntizabagezeho, iz'abantu ba Nuhu, iz'aba Adi, iz'aba Thamudu ndetse n'iza ba bandi baje nyuma yabo? Nta wundi ubazi usibye Allah. Intumwa zabo zabazaniye ibimenyetso bigaragara, ariko

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ  
عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَحَكُمْ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ  
يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ  
أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيِيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي  
ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ

وَإِذْ تَاذَنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَاءَرْتُمْ  
لَا زَيْدَنَكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ لَئِنْ عَدَدِي  
لَشَدِيدٌ

وَقَالَ مُوسَى إِنَّكُمْ تَكْفُرُوْا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي  
الْأَرْضِ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ

أَلَمْ يَأْتِكُمْ بِنَبْوَالَذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمٌ نُوحُ  
وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا  
يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ  
بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُوا أَيْدِيهِمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا

bashyize intoki mu minwa yabo (baraziruma kubera uburakari), maze baravuga bati “Mu by’ukuri duhakanye ubutumwa mwazanye, kandi dushidikanya cyane ku byo muduhamagarira.”

10. Intumwa zabo zaravuze ziti “Ese murashidikanya kuri Allah wahanze ibirere n’isi? Abahamagarira (kumusenga wenyine) kugira ngo abababarire ibyaha byanyu ndetse anabarindirize kugeza igihe cyagenwe.” Baravuga bati “Mwe nta kindi muri cyo usibye kuba muri abantu nkatwe. Murashaka kutubuza ibyo abakurambere bacu basengaga? Ngaho nimutuzanire ikimenyetso kigaragara (gishimangira ukuri kw’ibyo muvuga).”

11. Intumwa zabo zarababwiye ziti “Twe nta kindi turi cyo usibye kuba turi abantu nkamwe, ariko Allah ahundagaza ingabire ze ku wo ashaka mu bagaragu be. Kandi ntidushobora kubazanira ikimenyetso bidaturutse ku bushake bwa Allah. Kandi abemera bajye biringira Allah (wenyine).”

إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسَلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ ﴿٩﴾

\* قَالَ رَسُولُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌ فَاطِرِ  
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ  
ذُنُوبِكُمْ وَيُؤْخِرُكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمٍّ قَالُوا إِنَّ  
أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصْدُرُنَا عَمَّا  
كَانَ يَعْبُدُ ءابَاؤُنَا فَأَنُوْنَا بِسُلْطَنٍ

مُّبِينٌ ﴿١٠﴾

قَالَ لَهُمْ رَسُولُهُمْ إِنَّنَّا هُنَّ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ  
وَلِكُنَّ اللَّهَ يَمْنُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ وَمَا  
كَانَ لَنَا أَنْ نَّاتِيَكُمْ بِسُلْطَنٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ  
وَعَلَى اللَّهِ فَلَيَتَوَكَّلَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾

12. Ariko ni gute tutakwiringira Allah kandi mu by'ukuri yaratuyoboye inzira zazu (zatumye tumumenya)? Kandi rwose tuzihanganira uko mudutoteza. Ngaho abiringira nibiringire Allah (wenyine).

13. Nuko ba bandi bahakanye babwira Intumwa zabo (zabatumweho) bati “Rwose tuzabamenesha mu gihugu cyacu, keretse mugarukiye imigenzo yacu (y'ibangikanyamana).” Nuko Nyagasaki wazo arazihishurira ati “Mu by'ukuri tuzarimbura ababangikanyamana”,

14. Kandi mu by'ukuri nyuma yabo, mwe tuzabatuza mu gihugu (cyabo). Ibyo ni kuri wa wundi utinya kuzahagarara imbere yanjye (ku munsi w'ibarura) akanatinya ibihano byanjye.

15. Nuko (Intumwa) zitabaza (Nyagasaki wazo, arazitabara), maze buri munyagitugu wese w'icyigomeke ararimbuka,

16. Imbere ye (buri munyagitugu wese) hari igihano cy'umuriro wa Jahanamu, kandi azanyweshwa amazi avanze n'amashyira,

وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَنَا سُبُّلَنَا  
وَلَنَصِيرُنَا عَلَى مَا إِذَا دِيَتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ  
فَلَيَسْتَوْكِيلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿١٣﴾

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رُسُلُهُمْ لَمُخْرِجَنَا مِنْ  
أَرْضِنَا أَوْ لَنَعُودُ فِي مَا تَنَاهَى فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ  
رَبُّهُمْ لَنَهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ﴿١٤﴾

وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ أَلَّا أَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ  
لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴿١٥﴾

وَاسْتَفْتَهُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَارٍ عَنِيدٍ ﴿١٦﴾

مَنْ وَرَأَهُمْ جَهَنَّمَ وَيُسْقَى مِنْ مَاءِ صَدِيدٍ ﴿١٧﴾

17. Azagerageza kuyamira gake gake ariko ntibizapfa kumukundira (kuko azaba atamuryoheye kandi yatuye), kandi urupfu ruzamuturuka impande zose, ariko ntazapfa ndetse na nyuma y'ibyo, azahura n'ibihano bikaze.

18. Ibikorwa bya ba bandi bahakanye Nyagasan wabo, biggereranywa nk'ivu ryahushywe n'inkubi y'umuyaga ku munsi w'umuyaga ukaze. Ibyo bakoze nta na kimwe kizabagirira akamaro. Ubwo ni bwo buyobe bukabije.

19. Ese ntubona ko Allah yaremye ibirere n'isi ku mpamu y'ukuri? Aramutse abishatse yabakuraho akazana (ibindi) biremwa bishya.

20. Kandi ibyo kuri Allah ntabwo bigoye.

21. Kandi bose bazagera imbere ya Allah (ku munsi w'imperuka) maze abanyantege nke babwire abari abibone bat "Mu by'ukuri ni mwe twakurikiraga; ese hari icyo mwatumarira mukadukiza ibihano bya Allah?" Bazavuga bat "Iyo Allah aza kutuyobora natwe twari kubayobora. Bityo byose ni kimwe kuri twese, twagaragaza kubabara cyangwa

يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكُادُ يُسْيِغُهُ وَبِأَيْتِهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمَنْ وَرَآهُ إِهْدَى عَذَابٍ غَلِظٍ ﴿١٧﴾

مَثُلُ الْذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَلُهُمْ كَمَا دِلَّ أَشْتَدَّ بِهِ الْرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الْضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿١٨﴾

إِنَّمَا تَرَأَتِ اللَّهُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَاءُذْهَبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٩﴾

وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿٢٠﴾

وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الصُّبْعَفُوا لِلَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْثُمْ مُعْنُونُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَنَا اللَّهُ لَهَدَنَا كُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْزِئُنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ ﴿٢١﴾

tukihanganira (ibibihano); nta buhungiro dufite.”

22. Nuko ubwo imanza zizaba zimaze gucibwa, Shitani avuge ati “Mu by'ukuri Allah yabasezeranyije isezerano ry'ukuri (ryo kuzazurwa no kugororerwa). Naho njye isezerano nabahaye sinaryubahirije, kuko nta bubasha nari mbafiteho uretse ko nabahamagaye mukanyitaba. Ku bw'ibyo, ntimumvebe ahubwo mwivebe ubwanyu. (Ubu) nta cyo nabamarira kandi namwe nta cyo mwamarira. Mu by'ukuri njye mpakanye ibikorwa byanyu mwakoze (ubwo mwarekaga kugaragira Allah) mukambangikanya na We. Mu by'ukuri inkozi z'ibibi zirahanishwa ibihano bibabaza.”

23. Kandi ba bandi bemeye bakanakora ibikorwa byiza, bazinjizwa mu busitani butembamo imigezi (Ijuru) bazabamo ubuziraherezo, ku burenganzira bwa Allah. Indamukanyo yabo muri ryo izaba ari ukwifurizanya amahoro (Salamu).

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لِمَا فِي الْأَمْرِ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ  
وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا  
كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَنٍ إِلَّا أَنْ  
دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَوْمُونِي وَلَوْمُوا  
أَنفُسَكُمْ مَآ أَنْهَا بِمُصْرِخَكُمْ وَمَا أَنْتُمْ  
بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشَرَّكُتُمُونِ  
مِنْ قَبْلِ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٦﴾

وَأَدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّتِ  
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا أُلْأَنْهَرُ خَلِيلِينَ فِيهَا بِإِذْنِ  
رَبِّهِمْ تَحِسِّبُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ﴿٦٧﴾

24. Ese ntubona uko Allah yatanze urugero rw'ijambo ryiza (ryo guhamya ko nta yindi mana ikwiye gusengwa by'ukuri uretse Allah) ko ari nk'igitu cyiza, gifite imizi ishikamye mu butaka, ndetse n'amashami yacyo agera mu kirere!

25. Gihora cyera imbuto buri gihe, ku bwa Nyagasanu wacyo, kandi Allah aha abantu ingero kugira ngo babashe kwibuka.

26. Naho urugero rw'ijambo ribi (ryo guhakana Allah) ni nk'igitu kibi kiregetse hejuru ku butaka, kirandurwa (bitagoranye) kuko kiba kidashikamye.

27. Allah ashoboza ba bandi bemeye kuvuga ijambo rihamye (ari ryo guhamya ko nta yindi mana ikwiye gusengwa by'ukuri uretse Allah, no guhamya ko Muhamadi ari Intumwa yayo) mu buzima bwo ku isi, ndetse no mu buzima bwa nyuma (bakabasha gusubiza neza ibibazo by'abamalayika mu mva). Kandi Allah arekera mu buyobe inkozi z'ibibi, ndetse Allah akora icyo ashaka.

28. Ese ntiwabonye ba bandi baguranye inema za Allah (aho gushimira) bagahakana; maze bagatuma abantu babo batura mu nzu y'uburimbukiro?

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً  
كَشَجَرَةً طَيِّبَةً أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَرَعْدُهَا فِي

السَّمَاءِ ﴿٢٦﴾

تُؤْتَىٰ كُلُّهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَضَرِبَ اللَّهُ  
الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾

وَمَثَلٌ كَلِمَةٍ حَيَّشَةٍ كَشَجَرَةٍ حَيَّشَةٍ  
أَجْتَسَثَتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا الْهَامِنْ قَرَارِ ﴿٢٨﴾

يُشَبَّهُ اللَّهُ الَّذِينَ إِذَا آمَنُوا بِالْقَوْلِ أَثْبَاتَتِ فِي الْحَيَاةِ  
الْدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضَلِّلُ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾

وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿٣٠﴾

\* أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَأُوا نِعْمَاتَ اللَّهِ كُفَّرًا

وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبُوَارِ ﴿٣١﴾

29. (Umuriro wa) Jahanamu, bazahiramo kandi ni bwo buturo bubi.

30. Kandi (ababangikanyamana) bashyizeho ibigirwamana babibangikanya na Allah kugira ngo bayobye (abantu) inzira ye. Vuga uti “Nimwinezeze (by’igihe gito)! Ariko mu by’ukuri iherezo ryanyu ni mu muriro.”

31. (Yewe Muhamadi) bwira abagaragu banje bemeye, ko bagomba guhozaho iswala bakanatanga mu byo twabahaye; haba mu ibanga cyangwa ku mugaragaro, mbere yuko haza umunsi utazabamo ubucuruzi n’ubucuti (bigamije gucungura).

32. Allah ni We waremye ibirere n’isi anamanura amazi (imvura) mu kirere, nuko ayameresho imbuto kugira ngo zibabere amafunguro; yanabashyiriye ho amato (ngo bibagirire akamaro), kugira ngo agendere mu nyanja ku itegeko rye, ndetse yanaborohereje imigezi (kugira ngo ibagirire akamaro).

33. Yanaborohereje izuba n’ukwezi bihora bitembera (mu kirere) bidataye inzira yabyo, ndetse anaborohereza ijoro n’amanywa (kugira ngo byose bibagirire akamaro).

جَهَنَّمَ يَصْلُوْنَهَا وَيَسْأَلُّهُ الْقَرَاءُ  
﴿٢٩﴾

وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنَدَادًا لِيُضْلِلُوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ  
تَمَتَّعُوا فِيْ إِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ  
﴿٣٠﴾

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا  
مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّاً وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ  
لَآيَعُ فِيهِ وَلَا خَلَلٌ  
﴿٣١﴾

الَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ  
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَرَاتِ رِزْقًا  
لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلَكَ لِتَجْرِي فِي الْبَحْرِ  
بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ  
﴿٣٢﴾

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَإِبَيْنِ وَسَخَّرَ  
لَكُمُ الْأَيَّلَ وَالنَّهَارَ  
﴿٣٣﴾

34. Yanabahaye ibyo mwamusabye byose, kandi muramutse mushatse kubarura inema za Allah ntimwazihetura. Mu by'ukuri umuntu ni inkozi y'ibibi ya cyane, umuhakanyi ukabije (w'indashima).

35. Unibuke (yewe Muhamadi) ubwo Aburahamu yavugaga ati “Nyagasanani wanjiye! Ha uyu mujiyi (wa Maka) amahoro n'umutekano, unandinde njye n'abana banjiye kuba twagaragira ibigirwamana.”

36. “Nyagasanani wanjiye! Mu by'ukuri (ibyo bigirwamana) byayobeje abantu benshi. Ariko uzankurikira, uwo azaba ari mu bantu banjiye. Naho uzanyigomekaho, mu by'ukuri ni Wowe Ubabarira ibyaha, Nyirimpuhwe.”

37. “Nyagasanani wacu! Mu by'ukuri natuje urubyaro rwanjiye (Isimayili na nyina Hajara) mu kibaya kidahingwa, hafi y'ingoro yawe ntagatifu (Al Kaabat), Nyagasanani wacu, kugira ngo bahozezo iswala. Bityo, shyira urukundo mu mitima y'abantu babakunde, kandi unabahé amafunguro kugira ngo babashe gushimira.”

وَإِنَّكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعْدُوا  
نَعْمَتُ اللَّهِ لَا تُخْصُّوهَا إِنَّ الْإِنْسَنَ لَظَلُومٌ

كَفَّارٌ ٣٥

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَاءِ مِنَ  
وَاجْتَبَنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ٣٦

رَبِّيْ إِنَّهُنَّ أَصْلَانَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ  
تَعَنِي فَإِنَّهُ وَمَنِيْ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَافِرٌ

رَحِيمٌ ٣٧

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي  
زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمَ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا  
الْأَصْلَوَةَ فَاجْعَلْ أَقْيَادَهُ مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ  
وَأَرْرُقْهُمْ مِنَ الشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ٣٨

38. “Nyagasan! wacu! Mu by’ukuri uzi neza ibyo duhisha n’ibyo tugaragaza. Nta na kimwe cyakwihisha **Allah**, haba ku isi cyangwa mu kirere.”

39. “Ishimwe n’ikuzo byuzuye ni ibya **Allah**, we wampaye Ismail na Is’haq ngeze mu zabukuru. Mu by’ukuri Nyagasan wanjye ni Uwumva ubusabe bihebuje.”

40. “Nyagasan! Mpa guhozaho iswala, unabihe urubyaro rwanjye, Nyagasan wacu! Kandi wakire ubusabe bwanjye.”

41. “Nyagasan! wacu! Uzambabarire, njye n’ababyeyi banjye ndetse n’abemeramana, umunsi ibarura ryabaye.”

42. Kandi (yewe Muhamadi) ntugakeke na rimwe ko **Allah** atitaye ku byo inkozi z’ibibi zikora, ahubwo arabarindiriza kugeza ku munsi bazakanura amaso (kubera ibyo bazaba babona bibateye ubwoba).

43. (Bazava mu mva zabo)bihuta bararamye, bakanuye ubudahumbya, kandi imitima yabo yabaye ibishushungwe (kubera ubwoba).

44. Unaburire abantu umunsi ibihano bizabageraho, maze inkozi z’ibibi zikavuga ziti “Nyagasan! wacu! Turindirize

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا يَخْفِي وَمَا تُعْلِمُ بِهِ وَمَا يَخْفَى  
عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٦﴾

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ  
إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٢٧﴾

رَبِّ أَجْعَلَنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا  
وَتَقَبَّلَ دُعَاءِ ﴿٢٨﴾

رَبَّنَا أَغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ  
يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿٢٩﴾

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ  
إِنَّمَا يُؤْخِرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشَخَّصُ فِيهِ الْأَبْصَرُ ﴿٣٠﴾

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِ رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ  
طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدُهُمْ هَوَاءٌ ﴿٣١﴾

وَإِنَّدِيرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ  
الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ

igihe gito twitabe umuhamagaro wawe tunakurikire Intumwa zawe. (Maze zibwirwe ziti) “Ese ntimwari mwararahiye mbere ko mutazava ku isi (kandi ko nta zuka rizabaho)?”

45. Kandi mwanatuye mu mazu ya ba bandi bihemukiye, nyamara mwari mwaramenye neza ibyo twabakoreye (kubarimbura), ndetse twanabahaye ingero nyinshi (ntimwazitaho).

46. Kandi rwose bacuze imigambi yabo ariko Allah ni We uburizamo imigambi yabo, n'ubwo bwose imigambi yabo idashobora kurimbura imisozi.

47. Kandi ntugakeke na rimwe ko Allah azica isezerano yasezeranyije Intumwa ze. Mu by'ukuri Allah ni Umunyacyubahiro bihebuje, Nyirukwihimura bikaze.

48. (Munibuke) umunsi isi izahindurwamo indi si ndetse n'ibirere (bigahindurwamo ibindi), hanyuma (ibiremwa byose) bigahagarikwa imbere ya Allah, Umwe rukumbi, Umunyembaraga z'ikirenga.

يَنْجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعْ رُسُلَكَ أَوْلَمْ تَكُونُوا  
قَسْمَتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ ﴿٤٤﴾

وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَكِينِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ  
وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلَنَا بِهِمْ وَضَرَبَنَا لَكُمْ  
الْأَمْثَالَ ﴿٤٥﴾

وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرُهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ  
وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ  
الْجِبَالُ ﴿٤٦﴾

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفًا وَعَدِيهِ رُسُلَهُ  
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقامَةٍ ﴿٤٧﴾

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ  
وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿٤٨﴾

49. Kuri uwo munsi, uzabona inkozi z'ibibi ziri ku ngoyi (ziboshhywe amaguru n'amaboko).

50. Imyambaro yabo izaba ikozwe muri godoro, kandi uburanga bwabo buzaba bupfutswe n'umuriro.

51. (Ibyo) ni ukugira ngo Allah ahembere buri muntu ibyo yakoze. Mu by'ukuri Allah ni ubanguka mu ibarura.

52. Iyi (Qur'an) ni ubutumwa ku bantu, kugira ngo bukoreshwe mu kubaburira, no kugira ngo banamenye ko (Allah) ari We Mana imwe rukumbi, ndetse no kugira ngo abafite ubwenge babikuremo isomo.

وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي  
الْأَصْفَادِ ﴿١٩﴾

سَرَابِلُهُمْ مِّنْ قَطَرَانٍ وَتَقْشَى وَجْهُهُمُ النَّارُ



لِيَجْرِيَ اللَّهُ كُلَّ نَقْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ  
سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٥٦﴾

هَذَا بَلَغُ لِلنَّاسِ وَلَيُنَذَّرُوا بِهِ وَلَيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ  
إِلَهٌ وَحِدُّهُ وَلَيَذَّكَّرُوا لِذَرْفُ الْأَلَبِ ﴿٥٦﴾

## 15 - SURAT AL HIJRI

(AHANTU HARI HATUYE ABATHAMUDU)

Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirongo 99.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Alif Laam Raa<sup>127</sup>. Iyo ni imirongo (ayat) y'igitabo, ikaba (n'imirongo ya) Qur'an isobanura neza (ibantu).

2. (Ku munsi w'imperuka) ba bandi bahakanye bazicuza impamu batabaye Abayisilamu (igihe bazaba babona Abayisilamu bajyanwa mu ijuru naho abahakanyi bajyanwa mu muriro).

3. Bareke barye baninezze, banarangazwe n'icyizere (cyo kuzaramba), vuba aha bazamenya (ko ibyiringiro byabo bitari ukuri).

4. Nta mudugudu n'umwe twarimbuye, uretse ko wabaga ufite igihe cyawo cyagenwe.

5. Nta muryango (Umat) n'umwe ushobora (kurimburwa) mbere cyangwa nyuma y'ihi cyagenwe.

الرِّتْلَكَءَ اِيَّتُ الْكِتَبِ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ

رَبِّمَا يَوْدُ الدِّينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ

١٤

ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمْلُ  
فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

مَعْلُومٌ

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَاهَهَا وَمَا يَسْتَخْرُونَ

<sup>127</sup> Isura zitangirwa n'inyuguti nk'izi, twazivuzeho mu masura yatambutse, urugero Surat Al Baqarat.

6. Baranavuze bati “Yewe uwamanuriwe urwibutso (Qur'an)! Mu by'ukuri uri umusazi.”

وَقَالُوا يَا إِيَّاهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الْذِكْرُ إِنَّكَ لَمَجِّنُونٌ ﴿٦﴾

7. Kuki utatuzamira abamalayika (bahamya ko uri Intumwa ya **Allah**) niba koko uri umwe mu banyakuri?

لَوْمَاتٍ أَتَيْنَا بِالْمَلَئِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٧﴾

8. (**Allah** aravuga ati) “Ntabwo twohereza abamalayika (ku isi) bitari mu kuri (iyo bazanye ibihano). Kandi icyo gihe (abahakanyi) ntibarindirizwa.”

مَا نُنَزِّلُ الْمَلَئِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ ﴿٨﴾

9. Mu by'ukuri ni twe twahishuye urwibutso (Qur'an), kandi rwose ni natwe tuzarurinda.

إِنَّمَا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْدِكْرَ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ حَفْظُونَ ﴿٩﴾

10. Mu by'ukuri twohereje Intumwa mbere yawe, mu miryango y'bababayeho mbere.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيعَ الْأَوَّلَيْنَ ﴿١٠﴾

11. Kandi nta ntumwa (n'imwe) yabageragaho ngo babure kuyinnyega.

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا يَهُوَ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿١١﴾

12. Uko ni ko tuwushyira (ubo muco wo kunnyega) mu mitima y'inkozi z'ibibi (zo mu gihe cyawe).

كَذَلِكَ سَلَكُوا فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٢﴾

13. Ntabwo bashobora kuyemera (Qur'an), kandi ingero (z'ibihano bya **Allah**) ku bo hambere zarabayeho.

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ حَلَّتْ سُنَّةُ الْأَوَّلَيْنَ ﴿١٣﴾

14. Kandi n'yo tuza kubakingurira umuryango mu kirere, bagakomeza bazamuka (kugera ubwo babonye abamalayika, ntibari kwemera).

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُوا فِيهِ

يَعْرُجُونَ

١٦

15. Ahubwo bari kuvuga bat "Mu by'ukuri amaso yacu yahumye. Ahubwo twe turi abantu barozwe."

لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَرُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ

مَسْحُورُونَ

١٧

16. Kandi rwose twashyize inyenyeri nini mu kirere tunagitakira (abantu) bareba (kugira ngo babikuremo inyigisho).

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيْتَنَّا

لِلنَّظَرِينَ

١٨

17. Twanakirinze amashitani yavumwe (kugira ngo atakigeramo akabasha kumviriza ibivugirwa mu ijuru),

وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ

١٩

18. Uretse amwe muri yo (amashitani) ashobora kugira ibyo yumviriza (bibera mu ijuru), maze agakurikizwa ibishashi by'umuriro bigaragara.

إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتَبَعَهُ دِيَشَابٌ مُّبِينٌ

٢٠

19. Twanashashe isi maze tuyishyiraho imisozi yo kuyishimangira, tunayimezamo ibimera byose ku gipimo gikwiye.

وَالْأَرْضَ مَدَدَنَاهَا وَالْقَيْنَاءِ فِيهَا رَوَسَى وَأَنْبَشَنَا

فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ

٢١

20. Twanayibashyiriyemo ibibabeshaho ndetse n'ibibabeshaho ibindi biremwa mwe mudaha amafunguro.

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعْلِيشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ

بِرَازِقِينَ

٢٢

21. Kandi nta kintu na kimwe tudatunze mu bigega byacu, ndetse tubitanga ku rugero rukwiye.

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَرَائِنُهُ وَمَا نَنْزَلُ إِلَّا  
بِقَدْرِ مَعْلُومٍ ﴿٦﴾

22. Tunohereza imiyaga iremerezza igicu, nuko tukamanura amazi aturutse mu kirere, tukayabaha ngo muyanywe; kandi ntabwo ari mwe mugenga ibigega byayo.

وَأَرْسَلْنَا أَرِيَاحًا لَوَاقِحَ فَانْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً  
فَأَسْقَيْنَاهُ كُمُودًا وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَيْرٍ نِينَ ﴿٧﴾

23. Mu by'ukuri ni Twe dutanga ubuzima n'urupfu, kandi ni twe bazungura (b'isi n'ibiyirimo).

وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْكِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْأَوَّلُونَ ﴿٨﴾

24. Rwose tuzi ababayeho mbere muri mwe, kandi rwose tuzi n'abazabaho nyuma.

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا  
الْمُسْتَخْرِجِينَ ﴿٩﴾

25. Kandi mu by'ukuri Nyagasani wawe ni We uzabakoranya (ku munsi w'ibarura). Rwose ni We Nyirubugenge buhambaye, Umumenyi uhebuje.

وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ وَحْدَهُ حَكِيمٌ عَلَيْهِ ﴿١٠﴾

26. Mu by'ukuri twaremye umuntu (Adamu) mu ibumba ryumye ukomangaho rikirangira, mu ibumba ry'umukara ryahinduye ibara n'impumuro (kubera igihe ryari rimaze).

وَلَقَدْ خَلَقْنَا إِلَيْنَاهُ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَّامَسْنُونٍ ﴿١١﴾

٦٦

27. Naho Amajini (harimo na Shitani) tuyarema mbere (ya Adamu) tuyakomoye mu

وَلَجَانَ حَلَقَتْهُ مِنْ قَبْلٍ مِنْ نَارِ السَّمَوَاتِ ﴿١٢﴾

bishashi by'umuriro utagira  
umwotsi.

28. Unibuke ubwo Nyagasani wawe yabwiraga Abamalayika ati "Mu by'ukuri ngiye kurema umuntu (Adamu) mu ibumba ryumye ukomangaho rikirangira, mu ibumba ry'umukara ryahinduye ibara n'impumuro (kubera igihe ryari rimaze)."

29. "Nimara kumutunganya nkamuhuhamo roho inturutseho, muhite muca bugufi mumwubamire (byo kumuha icyubahiro atari ukumusenga)"

30. Nuko Abamalayika bose barubama,

31. Uretse Ibilisi (Shitani) wanze kuba mu bubama.

32. (**Allah**) aravuga ati "Yewe Ibilisi! Kuki utubamye hamwe n'abubama?"

33. (Ibilisi) aravuga ati "Sinakubamira umuntu waremye mu ibumba ryumye ukomangaho rikirangira, mu ibumba ry'umukara ryahinduye ibara n'impumuro (kubera igihe ryari rimaze)!"

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِّنْ صَلَصَلٍ

مِّنْ حَمَّا مَسْنُونٍ ﴿١٨﴾

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ

سَاجِدِينَ ﴿٢٩﴾

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٣٠﴾

إِلَّا إِبْلِيسُ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٣١﴾

قَالَ يَإِبْلِيسُ مَالَكَ أَلَا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٣٢﴾

قَالَ لَمَّا كُنْ لِّأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ وَمِنْ

صَلَصَلٍ مِّنْ حَمَّا مَسْنُونٍ ﴿٣٣﴾

34. (**Allah**) aravuga ati “Ngaho sohoka hano (mu ijuru), kuko mu by'ukuri ubaye ikivume.”

قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَا إِنَّكَ رَجِيمٌ  
٣٤

35. “Kandi mu by'ukuri umuvumo wanje wazakubaho kugeza ku munsi w'imperuka.”

وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الْدِينِ  
٣٥

36. (Ibilisi) aravuga ati “Nyagasani wanje! Mpa kubaho kuzageza ku munsi (abapfuye) bazazurirwaho.”

قَالَ رَبِّ فَانظُرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبَعَّثُونَ  
٣٦

37. (**Allah**) aravuga ati “Mu by'ukuri ubaye mu bazarindirizwa.”

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنَظَّرِينَ  
٣٧

38. “Kuzageza ku munsi w'igihe kizwi.”

إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ  
٣٨

39. (Ibilisi) aravuga ati “Nyagasani wanje! Kubera ko wampanishije kuyoba, rwose nzabakundisha inzira igana mu buyobe ku isi, nanabayobye bose.”

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيْنَنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ  
وَلَا يَغُوِّنُهُمْ أَجْمَعِينَ  
٣٩

40. “Uretse abagaragu bawe bakwiyegereza muri bo.”

إِلَّا عِبَادُكَ مِنْهُمُ الْمُخَلَّصِينَ  
٤٠

41. (**Allah**) aravuga ati “Iyi ni inzira igororotse igana iwanje.”

قَالَ هَذَا صَرْطُ عَلَىٰ مُسْتَقِيمٍ  
٤١

42. “Mu by'ukuri wowe nta bubasha uzagira ku bagaragu banje, uretse abayobye bazagukurikira.”

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ إِلَّا مِنْ  
أَتَّبَعَكَ مِنْ آنْفَاقِينَ  
٤٢

43. "Kandi rwose umuriro wa Jahanamu ni wo bose basezeranyijwe."

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدٌ هُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٣﴾

44. Ufite imiryango irindwi, kandi buri muryango ufite abo wagenewe.

لَهَا سَبَعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَأْبِ مِنْهُمْ جُزْءٌ  
مَقْسُومٌ ﴿٤٤﴾

45. Mu by'ukuri abagandukira (**Allah**) bazaba bari mu busitani (Ijuru) butembamo imigezi.

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعَيْوَنٍ ﴿٤٥﴾

46. (Bazabwirwa bat) "Nimuryinjiremo mu mahoro kandi mutekanye."

أَدْخُلُوهَا إِسْلَامًا مُّنِيبِينَ ﴿٤٦﴾

47. Tuzanakura inzangano mu bituza byabo (nuko babane mu ijuru) ari abavandimwe, bari ku bitanda barebana (baganira bishimye).

وَنَرَعَنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَيْرِ إِخْرَاجِهِمْ عَلَى سُرُّ  
مُتَّقَلِّيَنَ ﴿٤٧﴾

48. Ntibazigera barigiramo umunaniro kandi ntibazarivanwamo.

لَا يَمْسُحُهُمْ فِيهَا نَصْبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا  
بِمُخْرَجِينَ ﴿٤٨﴾

49. (Yewe Muhamadi) bwira abagaragu banjye ko mu by'ukuri ndi Ubabarira ibyaha, Nyirimpuhwé.

\*نَبِيٌّ عَبْدَ اللَّهِ أَنَّى أَنَا الْغَفُورُ الرَّجِيمُ ﴿٤٩﴾

50. Kandi ko n'ibihano byanjye ari ibihano bibabaza cyane.

وَأَنَّ عَذَابَهُ أَعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿٥٠﴾

51. Unabatekerereze inkuru y'abashyitsi ba Aburahamu (abamalayika),

وَنَبْعَثُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴿٥١﴾

52. Ubwo binjiraga iwe bakavuga bati “Mugire amahoro (Salamu)”, (nuko akabikiriza) maze akavuga ati “Mu by’ukuri muduteye ubwoba!”

إِذَا دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ  
وَجِلُونَ ٥٣

53. Baravuga bati “Ntugire ubwoba! Mu by’ukuri tuje kuguha inkuru nziza (yo kuzabyara) umuhungu w’umumenyi.”

قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نَبِشِّرُكُمْ بِغُلَمٍ عَلَيْمٍ ٥٤

54. (Aburahamu) aravuga ati “Ese murampa iyo nkuru (yo kuzabyara umuhungu) kandi ngeze mu zabukuru mushingiye kuki?”

قَالَ أَبْشِرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنَّ مَسَنِي الْكَبْرُ فِيمَ  
تُبَشِّرُونَ ٥٥

55. Baravuga bati “Tuguhaye iyo nkuru nziza dushingiye ku kuri. Bityo, reka kuba mu bihebye.”

قَالُوا بَشَّرْنَاكُمْ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ  
الْقَنِطِينَ ٥٦

56. (Aburahamu) aravuga ati “None se ni nde wakwiheba mu mpuhwe za Nyagasan we, usibye abayobye?”

قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ ٥٧

57. (Aburahamu arongera) aravuga ati “Ni iki kibagenza yemwe mwa ntumwa mwe?”

قَالَ فَمَا خَاطَبْتُكُمْ أَيْهَا الْمُرْسَلُونَ ٥٨

58. Baravuga bati “Mu by’ukuri twoherejwe ku bantu b’inkozi z’ibibi (ngo tubarimbure)”,

قَالُوا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْ فَوْرَمٌ مُّجَرِّمِينَ ٥٩

59. “Usibye gusa umuryango wa Lutwi (Loti). Mu by’ukuri turabarokora bose.”

إِلَّا إِلَّا لُوطٌ إِنَّا أَمْنَجُوهُمْ أَجْمَعِينَ ٦٠

60. Uretse umugore we (wigometse) twagennye ko aba mu bazasigara inyuma (bakarimbuka).

إِلَّا أَمْرَأَتُهُ وَقَدْرَنَا إِنَّهَا الْمِنَ الْغَافِرِينَ ﴿٦﴾

61. Ubwo za ntumwa (abamalayika) zageraga ku muryango wa Loti;

فَلَمَّا جَاءَهُمْ لُوطٌ الْمُرْسَلُونَ ﴿٦١﴾

62. (Loti) yaravuze ati “Mu by’ukuri sinabamenye.”

قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُونَ ﴿٦٢﴾

63. Baravuga bati “Ahubwo tukuzaniye ibyo bajyaga bashidikanyaho (ibihano).”

قَالُوا بَلْ حَتَّاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٦٣﴾

64. “Tunakuzaniye ukuri (inkuru yo kurimbura inkozi z’ibibi), kandi rwose ibyo tuvuga ni ukuri.”

وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الصَّدْقَوْنَ ﴿٦٤﴾

65. “Bityo, ujyane n’umuryango wawe bujya gucyu, unabagende inyuma kandi ntihagire n’umwe muri mwe ureba inyuma (kugira ngo na we atarimbuka) ndetse mwihute mujye aho mwategetswe.”

فَأَسْرِي بِأَهْلِكَ يَقْطَعُ مِنَ الْيَلِ وَاتَّبِعْ أَدَبَرَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَمُضْرِبُ حَيْثُ تُؤْمِرُونَ ﴿٦٥﴾

66. Nuko tumuhishurira iryo tegeko ko kurimburwa kwabo (abo banyabyaha) kuri bube kare mu gitondo.

وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دِيرَهُؤَلَاءَ مَقْطُوعٌ

مُصْبِحَيْنَ ﴿٦٦﴾

67. Nuko abatuye umujyi (inkozi z’ibibi zo mu mujyi w’i Sodoma) baza bishimye (ku bw’inkuru y’abashyitsi ba Loti, bazi ko bagiye kubakorera ubutinganyi,

وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبَشِرُونَ ﴿٦٧﴾

kuko abo bamalayika bari baje  
mu ishusho y'abagabo)!

68. (Loti) aravuga ati “Mu by'ukuri aba ni abashyitsi banjye; ntimumsebyel!”

69. “Munatinye Allah,  
ntimunkoze isoni!”

70. (Za nkozi z'ibibi) ziravuga ziti  
“Ese ntitwakubujije kwakira  
abantu (batari muri twe)?”

71. Aravuga ati “Aba (bakobwa bose bo mu gihugu) ni abakobwa banjye; bityo niba mukeneye gushaka (ngaho nimuze mbabashyingire, aho kwifusa abagabo bagenzi banyu).”

72. Ndahiye ubuzima bwawe  
(yewe Muhamadi)! Mu by'ukuri  
(abantu ba Loti) bari mu buyobe  
bwabo barindagira.

73. Maze urusaku rw'ibihano  
rubarimbura izuba rirashe.

74. Nuko (imijyi yabo)  
turayubika maze tubanyagiza  
imvura y'amabuye acaniriye.

75. Mu by'ukuri muri ibyo  
harimo inyigisho ku bashishoza.

قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونَ ﴿١٨﴾

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزِنُوْنَ ﴿٦٩﴾

قَالُوا أَوْلَئِنَّا نَنْهَاكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٧٠﴾

قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُ فَعِيلَيْنَ ﴿٧١﴾

لَعْنُوكُمْ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُونٍ يَعْمَلُونَ ﴿٧٢﴾

فَأَخْذَنَاهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقَيْنَ ﴿٧٣﴾

فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِهَاهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً

مِنْ سِجِّيلٍ ﴿٧٤﴾

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَكَيْتِ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿٧٥﴾

76. Kandi mu by'ukuri (iyo mijyi twarimbuye) yari ku nzira nyabagendwa.

وَإِنَّهَا لِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ ﴿٧٦﴾

77. Mu by'ukuri muri ibyo harimo inyigisho ku bemeramana.

إِنَّ فِي ذَلِكَ لِذَيْلًا لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾

78. Ndetse n'abari batuye i Ayikati<sup>128</sup> (na bo) bari inkozi z'ibibi.

وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْآيَةِ لَظَلَامِينَ ﴿٧٨﴾

79. Nuko turabahana. Kandi mu by'ukuri iyo (mijyi) yombi yari ku nzira nyabagendwa, igaragara.

فَأَتَقْمَنَاهُمْ وَإِنَّهُمْ إِلَيْا مَا مَرِيَّ مُّبِينٌ ﴿٧٩﴾

80. Kandi rwose, abari batuye Hijiri (na bo) bahinyuye Intumwa (Swalehe).

وَلَقَدْ كَذَبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٨٠﴾

81. Twanabahaye ibimenyetso byacu, ariko barabyirengagiza.

وَإِنَّهُمْ مَعَ اتِّنَافَ كَافُؤً اعْنَهُمَا مُعَرِّضِينَ ﴿٨١﴾

82. Kandi bajyaga bacukura imisozi bagakoramo amazu, (bakayabamo) batekanye.

وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا إِمِينِينَ ﴿٨٢﴾

83. Maze urusaku (rw'ibihano) rubatera mu gitondo cya kare.

فَأَخْذَهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿٨٣﴾

84. Kandi ibyo bajyaga bakora nta cyo byabamariye.

فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٤﴾

<sup>128</sup> Al Ayikat: Ni ahantu hari ishyamba ry'inzitane hafi y'ahitwa Madiyani, ari naho Intumwa Shuwayibu yoherejwe.

85. Ntitwanaremye ibirere n'isi n'ibiri hagati yabyo bitari ku mpamvu z'ukuri. Kandi mu by'ukuri imperuka izaza (nta gushidikanya). Bityo (yewe Muhamadi) irengagize amakosa (yabo) ubababarire.

86. Mu by'ukuri Nyagasani wawe ni We Muremyi, Umumenyi uhebuje.

87. Kandi rwose (yewe Muhamadi) twaguhaye imirongo (ayat) irindwi (Surat Al Fatihat) isomwa kenshi, tunaguha Qur'an ihambaye.

88. Kandi ntuzarambure amaso yawe urangamira ibyo twahaye bamwe muri bo (abahakanyi), kugira ngo tubashimishe by'igihe gito, ndetse ntibakagutere agahinda. Kandi ujye worohera abemeramana.

89. Unavuge uti "Mu by'ukuri njye ndi umuburizi ugaragara."

90. (Ndababurira ibihano) nk'ibyo (**Allah**) yahanishije abaciymo (Qur'an) ibice.

91. Ba bandi baciyemo ibice Qur'an (bakemera bimwe bagahakana ibindi).

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا  
بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحْ الصَّفَحَ

الْجَمِيلَ ٨٥

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَقُ الْعَلِيمُ ٨٦

وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبَعَاءَ مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْءَانَ

الْعَظِيمَ ٨٧

لَا تَمُدَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَسَّنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا  
تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا خِفْضْ حَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ٨٨

وَقُلْ إِنَّمَا الظَّنِيرُ الْمُبِينُ ٨٩

كَمَا آتَنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ٩٠

الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْءَانَ عَضِيبَ ٩١

92. Ndahiye kuri Nyagasan wawe, rwose tuzababaza bose uko bakabaye

فَوَرِبَّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٣﴾

93. Ku byo bajyaga bakora (bigomeka, babeshya).

عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٤﴾

94. Bityo amamaza ibyo wategetswe, unitandukanye n'ababangikanyamana.

فَاصْدِعْ بِمَا تُؤْمِنُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٥﴾

95. Mu by'ukuri twe turahagije mu kukurinda abanyagasuzuguro,

إِنَّا كَفَيْتَكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿٩٦﴾

96. Ba bandi babangikanya Allah n'ikigirwamana icyo ari cyo cyose. Ariko bazamenya (ingaruka z'ibikorwa byabo).

الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٩٧﴾

97. Kandi rwose tuzi ko ubuzwa amahoro n'ibyo bavuga.

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٨﴾

98. Bityo, singiza ishimwe rya Nyagasan wawe kandi ube mu bamwubamira.

فَسَيِّدُ حَمَدَ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السَّاجِدِينَ ﴿٩٩﴾

99. Unagaragire Nyagasan wawe, kugeza ubwo ukuri kudashidikanywaho (urupfu) kukugezeho.

وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَّكَ الْيَقِينُ ﴿١٠٠﴾

16- SURAT A-NAHLI  
(INZUKI)

*Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirongo 128.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Itegeko rya Allah (ryo kuza kw'imperuka) riregeree, bityo ntimuryihutishe. Ubutagatifu ni ubwe kandi nta ho ahuriye n'ibyo bamubangikanya na byo.

2. Ku bw'itegeko rye, (Allah) amanura malayika (Gaburihiel) azanye ubatumwa ku wo (Allah) ashaka mu bagaragu be (agira ati) "Muburire (abantu) ko nta yindi mana (ikwiye gusengwa by'ukuri) usibye Njye; bityo nimuntinye."

3. Yaremye ibirere n'isi ku mpamu z'ukuri. Ubutagatifu ni ubwe kandi nta ho ahuriye n'ibyo bamubangikanya na byo.

4. Yaremye umuntu amukomoye mu ntanga, none uwo (muntu) yahisemo kuba umunyempaka ugaraagara (mu guhakana izuka).

5. (Allah) yanabaremeye amatungo; muri yo harimo ibibatera gususuruka (imyambaro) n'ibindi bibafitiye

أَتَقَرُّ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  
عَمَّا يُشَرِّكُونَ ①

يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ  
يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْدِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَّهُ  
فَاتَّقُونَ ②

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا  
يُشَرِّكُونَ ③

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ  
مُّبِينٌ ④

وَالَّذِي نَعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءُ وَمَنَافِعُ  
وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ⑤

akamaro, ndetse hari n'ayo murya.

6. Munashimishwa n'ubwiza bwayo igihe muyacyuye nimugoroba n'igihe muyahuye mu gitondo.

7. (Ayo matungo) anikorera imitwaro yanyu iremereye akayijyana aho mutari gushobora kugera bitabagoye. Mu by'ukuri Nyagasani wanyu ni Nyirimpuhwe zihebuje, Nyirimbabazi.

8. (Yanaremye) ifarasi, icyimanyi (cy'ifarasi n'indogobe) ndetse n'indogobe; kugira ngo mubigendereho, kandi binababere imitako. Yanaremye n'ibindi mutazi.

9. **Allah** ni We werekana inzira igororotse (Isilamu), ariko hari n'izindi zigoramye. Kandi iyo aza kubishaka yari kubayobora mwese.

10. Ni We umanura amazi (imvura) aturutse mu kirere, mukayanywa ndetse akanameza ibimera muragiramo amatungo yanyu.

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُهُجُونَ وَحِينَ  
تَسَرُّونَ

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا  
بِلَغِيهِ إِلَّا يُشْقِيَ الْأَنْفُسُ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ  
رَّحِيمٌ

وَلَخْلِيلَ وَالْبِغَالَ وَالْحِمَرَ لَتَرْكَبُوهَا وَزِينَةٌ  
وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّيْلِ وَمِنْهَا جَاهِرٌ وَلَوْ شَاءَ  
لَهُدَنَكُمْ أَجْمَعِينَ

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ  
شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ

11. Ayameresha ibihingwa, imizeti, imitende, imizabibu ndetse na buri bwoko bw'imbuto. Mu by'ukuri muri ibyo harimo inyigisho ku bantu baterekereza.

12. Kandi yabashyiriye ho ijoro (kugira ngo mubashe kuruhuka) n'amanywa (kugira ngo mubashe gukora), izuba n'ukwezi (kugira ngo bibamurikire), ndetse n'inyenyeri zorohejwe ku bw'itegeko rye. Mu by'ukuri muri ibyo harimo inyigisho ku bantu bafite ubwenge.

13. Kandi ibyo yabaremeye ku isi (haba mu matungo, ibihingwa n'amabuye y'agaciro) bifite amabara atandukanye. Mu by'ukuri muri ibyo harimo inyigisho ku bantu bazirikana (ko Imana ari imwe no kuba ari yo yonyine ikwiye gusengwa).

14. Ni na We woroheje inyanja kugira ngo (mukuremo) inyama z'umwimerere (amafi) muzirye, munakuremo imitako mwambara. Kandi ubona amato azihinguranya kugira ngo mushakishe ingabire ze, no kugira ngo mubashe gushimira.

يُئْتِ لَكُمْ بِهِ الرَّزْعَ وَالرَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ  
وَالْأَعْنَبَ وَمَنْ كُلَّ أُثْمَرَ إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لَايَةً لِقَوْمٍ يَفْكَرُونَ ﴿١٦﴾

وَسَخَرَ لَكُمُ الْيَلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمَسَ  
وَالقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لَايَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾

وَمَا ذَرَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا لَوْنَهُ وَ  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَرُونَ

١٣

وَهُوَ الَّذِي سَخَرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ  
لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخِرُوا مِنْهُ حَلِيَّةً  
تَلْبِسُونَهَا وَتَرِي الْفُلَكَ مَوَاحِرَ فِيهِ وَلَتَبَغُوا  
مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴿١٨﴾

15. Yanashyize imisozi ku isi aranayishimangira kugira ngo itabahungabanya, (anayishyiramo) imigezi (kugira ngo munywe amazi yayo), ndetse n'inzira kugira ngo zibayobore (aho mugana).

16. (Yanabashyiriye) ibimenyetso (bibayobora ku manywa) ndetse n'inyenyeri (zibayobora nijoro) kugira ngo bayoboke (aho bagana).

17. None se ubwo (**Allah**) urema wamugereranya n'ibitarema (ibigirwamana)? Ese ntimuzirkana?

18. Kandi muramutse mushatse kubarura ingabire za **Allah** (yabahaye) ntimwazihetura. Mu by'ukuri **Allah** ni Ubabarira ibyaha, Nyirimpuhwe.

19. Kandi **Allah** azi ibyo muhisha n'ibyo mugaragaza.

20. Na bya bindi basenga bitari **Allah**, nta cyo byigeze birema ahubwo na byo byararemwe.

21. Ni ibipfu, nta buzima bifite kandi ntibinazi igihe (ababisengaga) bazazurirwa.

وَالْقَوْنِيَّ فِي الْأَرْضِ رَوَسِيَّ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ  
وَأَنْهَرَ أَوْ سُبْلًا لَعَلَّكُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٥﴾

وَعَلِمَتِ ﴿١٦﴾ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ

أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

﴿١٧﴾

وَإِنْ تَعُدُوا نِعَمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ

لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨﴾

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِمُونَ ﴿١٩﴾

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا

وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿٢٠﴾

أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُعَثُّونَ

﴿٢١﴾

22. Imana yanyu ni Imana imwe. Ariko ba bandi batemera imperuka, imitima yabo ihakana (ubumwe bwa **Allah**), kandi babaswe n'ubwibone.

إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَحْدَهُ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ  
بِالْآخِرَةِ فَلَوْلَاهُمْ مُنْكَرٌ وَهُمْ مُسْتَكِرُونَ

٢٣

23. Nta gushidikanya ko **Allah** azi ibyo bahisha n'ibyo bagaragaza. Mu by'ukuri ntakunda abibone.

لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا  
يُعْلَمُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكِرِينَ

24. N'ijo babwiwe bati “Ni iki Nyagasanin wanyu yamuhihuriye (Muhamadi)?” Baravuga bati “Ni imigani y'abo hambere.”

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواً  
أَسْطِرُ الْأَوَّلِينَ

٢٤

25. Ku munsi w'imperuka bazikorera imitwaro (ibaya) yabo uko yakabaye ndetse n'imitwaro y'abo bayobeje (bakabakurikira) kubera kudasobanukirwa. Mbega imitwaro mibi bazaba bikoreye!

لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمَنْ  
أَوْزَارَ الَّذِينَ يُضْلُّنَّهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَرِزُونَ

٢٥

26. Mu by'ukuri ba bandi babayeho mbere yabo bacuriye imigambi mibisha (Intumwa zabo), nuko **Allah** arimbura inyubako zabo aherye mu misingi, maze ibisenge bibagwa hejuru, nuko ibihano bibageraho biturutse aho batakekaga.

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بِنِيَنَهُمْ  
مِنْ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ  
فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حِثٍ لَا  
يَشْعُرُونَ

٢٦

27. Hanyuma ku munsi w'imperuka (**Allah**) azabasuzuguza maze ababwire ati “Ibigirwamana mwajyaga

شَرَكَائِي الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قَالَ

mumbangikanya na byo,  
 murwanya (Intumwa  
 n'abemeramana) kubera byo,  
 biri he? Ba bandi bahawe  
 ubumenyi (bujyanye  
 n'ukwemera) bazavuga bati  
 "Ugusuzugurika n'ingorane kuri  
 uyu munsi biri ku bahakanyi,"

28. "Ba bandi abamalayika bakuramo roho barihemukiye (bakora ibyaha)." Bazicisha bugufi (bagira bati) "Nta kibi twajyaga dukora!" (Abamalayika bazasubiza bati) "Oya! (Murabeshya) Mu by'ukuri **Allah** ni Umumenyi uhebuje w'ibyo mwakoraga."

29. "Ngaho nimwinjire mu miryango y'umuriro wa Jahanama, muzabamo ubuziraherezo, kandi ni cyo cyicaro kibi cy'abibone."

30. Naho ba bandi batinye (**Allah**) bazabwirwa bati "Ni iki Nyagasani wanyu yahishuye?" Bazavuga bati "Ni ibyiza." Abakora ibyiza kuri iyi si bazagororerwa ibyiza, ariko ibihembo by'ingoro y'imperuka (ijuru) ni byo byiza kurushaho, ndetse ni na yo ngoro ihebuje y'abagandukira (**Allah**)!

الَّذِينَ أَتَوْا الْعِلْمَ إِنَّ الْخَرَى الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧﴾

الَّذِينَ تَوَفَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِيْنَ فَأَقْرَأُوهُمُ الْأَسْلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ حَلَالِينَ فِيهَا فَلِئِسْ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٩﴾

\* وَقَدْ يَلْهُلُ الَّذِينَ أَتَقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَائِرَةُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنَعْمَدُ دَارَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٠﴾

31. Bazinjira mu busitani buhoraho, butembamo imigezi. Bazabonamo ibyo bashaka byose; uko ni ko **Allah** agororera abamugandukira.

جَئْتُ عَدِّنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  
الْأَنْهَرُ أَهْمَّ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ وَكَذَلِكَ يَجْزِي  
اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴿٢١﴾

32. Ba bandi abamalayika bakuramo roho zabo bararanzwe no gukora ibikorwa byiza, bazababwira bati “Mugire amahoro! Ngaho nimwinjire mu ijuru kubera ibyo mwakoraga (ku isi).”

الَّذِينَ تَوَفَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبُونَ يَقُولُونَ  
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

﴿٢٢﴾

33. Ese hari ikindi bategereje kitari ukugerwaho n'abamalayika (babakuramo roho) cyangwa kugerwaho n'itegeko rya Nyagasani wawe (ryo kubahaha)? Uko (bahakana) ni na ko abababanjirije babigenje. Nyamara **Allah** ntiyabarenganyije ahubwo ni bo ubwabo bihemukiye.

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيهِمُ الْمَلَائِكَةُ أُوْيَانِيَّ  
أَمْ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا  
ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٢٣﴾

34. Ku bw'ibyo bazagerwaho n'ingaruka z'ibyo bakoze, kandi bazagotwa n'ibyo (ibihano) bajyaga bakerensa.

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتٌ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ  
يَسْتَهِنُونَ ﴿٢٤﴾

35. Na ba bandi babangikanyije (**Allah**) baravuze bati “Iyo **Allah** aza kubishaka, yaba twe cyangwa ababyeyi bacu, nta kindi twari kugaragira mu cyimbo cye, ndetse nta n'icyo twari kuziririza ataziririje we ubwe.” Uko ni na ko

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدَنَا مِنْ  
دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَا إِبَّا اؤْنَا وَلَا حَرَمَنَا مِنْ

abababanjirije babigenje. None se hari ikindi Intumwa zishinzwe kitari uguusohoza ubutumwa mu buryo bugaragara?

36. Kandi rwose buri muryango (umat) twawoherejemo Intumwa (kugira ngo ibabwire iti) "Nimusenge **Allah** (wenyine) kandi mwirinde (kugaragira ibigirwamana." Muri bo harimo abo **Allah** yayoboye, ndetse no muri bo hari abokamwe n'ubuyobe. Bityo nimutambagire ku isi, maze murebe uko iherezo ry'abahinyuye ukuri ryagenze.

37. N'yo (wowe Muhamadi) wakoresha umuhate kugira ngo bayoboke, mu by'ukuri **Allah** ntayobora uyobya abandi. Kandi ntibazagira ababatabara.

38. Kandi barahiye ku izina rya **Allah** indahiro zabo zikomeye bavuga ko **Allah** atazazura abapfuye. Si uko bimeze! (Ahubwo azabazura nta shiti) ni isezerano rye ry'ukuri; ariko abenshi mu bantu ntibabizi.

39. (**Allah** azabazura) kugira ngo azabasobanurire ibyo batavugagaho rumwe ndetse no kugira ngo abahakanye

دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ  
فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا أَبْلَغَ الْمُبْيِنِ ﴿٢٦﴾

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ  
أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَبَيْنَا الظَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ  
هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الظَّلَالةُ  
فَسَيِّرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ  
عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٦﴾

إِنْ تَخْرِصَ عَلَى هُدُوْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ  
يُضْلِلُ وَمَا هُمْ مِنْ نَصَارَى ﴿٢٧﴾

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ  
يُمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ  
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ  
الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَاذِبُوا كَانُوا كَذِيْبِينَ ﴿٢٩﴾

bazamenye ko bari  
abanyabinyoma.

40. Mu by'ukuri imvugo yacu ku kintu dushaka (ko kibaho), turakibwira tuti "Ba, ubwo kikaba!"

41. Naho ba bandi bimutse kubera **Allah** nyuma y'uko barenganyijwe, tuzabatuza aheza ku isi, ariko mu by'ukuri igihembo cyo ku munsi w'imperuka ni cyo gihebuje; iyo baza kubimenya!

42. (Abo ni) ba bandi bihanganye kandi bakiringira Nyagasani wabo (wenyine).

43. Kandi mbere yawe nta bandi batari abagabo twigeze twohereza ngo tubahishurire ubutumwa. Ngaho (yemwe babangikanyamana b'i Maka) nimubaze abahawe ubumenyi (bw'ibitabo byo hambere) niba mutabizi.

44. (Twazohereje zizanye) ibimenyetso bigaragara n'ibitabo (bitagatifu). Twanakumanuriye (yewe Muhamadi) urwibutso (Qur'an) kugira ngo usobanurire abantu ibyo bahishuriwe, ndetse no kugira ngo batekereze (ku bikubiye muri Qur'an banayisobanukirwe).

إِنَّمَا قَوْلُنَا إِشْتِيٌّ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

٤٣

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلْمُوا  
لَنُبَيِّنَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَا جُرْأَةً الْآخِرَةِ  
أَكَبُرُ لُقْكَانُفَا يَعْلَمُونَ

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ  
فَسَعَلُوا أَهْلَ الْكِتَابَ كَيْفَ كُنْتُمْ لَا تَعْمَلُونَ

بِالْبَيِّنَاتِ وَالْزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْذِكْرَ لِتُبَيِّنَ  
لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

45. Ese ba bandi bacuze imigambi mibisha bibwira ko batekanye ku buryo **Allah** atabarigitisha mu butaka, cyangwa ko batagerwaho n'ibihano biturutse aho batakekaga?

46. Cyangwa akabagwa gitumo bajya cyangwa bava (mu mirimo yabo), uko byagenda kose ntibananirana (nta ho bacikira ibihano bya **Allah**).

47. Cyangwa akabagwa gitumo bafite ubwoba (bwo kubura imitungo n'ubuzima byabo)? Mu by'ukuri Nyagasani wanyu ni Nyiribambe, Nyirimbabazi.

48. Ese ntibabona uko ibicucucucu by'ibintu **Allah** yaremye bibogamira iburyo n'ibumoso byumvira **Allah**, ndetse binicisha bugufi (ku mategeko ye)?

49. Kandi ibiremwa byose biri mu birere, ibigenda ku isi ndetse n'abamalayika, byubamira **Allah** kandi ntibyishyira hejuru.

50. Bitinya Nyagasani wabyo uri hejuru yabyo, kandi bikora ibyo byategetswe.

أَفَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا إِلَيْنَا سَيِّئَاتٍ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمْ  
الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا

يَشْعُرُونَ ﴿٤٥﴾

أَوْ يَأْخُذُهُمْ فِي تَقْلِيلٍ هُمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٤٦﴾

أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخْوِيفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ

﴿٤٧﴾

أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظَلَلَهُ  
عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَاءِ إِلَيْهِ سُجَّدَ اللَّهُ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿٤٨﴾

وَلَلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ  
مِنْ دَآبَةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُنْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٩﴾

يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَقْعُلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ ﴿٥٠﴾

﴿٥١﴾

51. Allah yaranavuze ati “(Yemwe bantu!) Ntimuzasenge imana ebyiri. Mu by'ukuri We (Allah) ni Imana imwe rukumbi. Ngaho nimube ari Njye njyenyine mutinya.”

\* وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَخْذُلُوا إِلَهَيْنِ أُثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَحْدَهُ فَإِنَّمَا فَارَهُوْنَ ﴿٥١﴾

52. Ibiri mu birere n'ibiri mu isi byose ni ibye. Ni na We ukwiye gusengwa by'ukuri. Ese mugandukira undi utari Allah?

وَلَهُ وَمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الْدِينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ ﴿٥٢﴾

53. Ingabire zose mufite zituru ka kwa Allah (ariko ntimumushimira). Nyamara iyo amakuba abagezeho mumutakambira mu ijwi riranguruye,

وَمَا يَكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فِينَ اللَّهُ ثُمَّ إِذَا مَسَكُوكُ الظُّرُّ فَإِلَيْهِ يَتَحْرُونَ ﴿٥٣﴾

54. Hanyuma yabakiza ayo makuba, bamwe muri mwe bakabangikanya Nyagasan iyo wabo.

ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الظُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾

55. Bikaba impamu y'uko bahakana ibyo twabahaye. Ngaho nimwinezeze (by'igihe gito), vuba aha muzaba mumenza (ingaruka z'ubuhakanyi bwanyu).

لِيَكُفُرُوْا بِمَا أَتَيْنَاهُمْ فَتَمَّتُوْا فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٥٥﴾

56. Banafata bimwe mu byo twabahaye bakabigenera ibidafite icyo bizi (ibigirwamana). Ku izina rya Allah! Muzabazwa ibyo mwajyaga muhimba.

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُوْنَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ لَتُسْعَنَ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿٥٦﴾

57. Banahimbira **Allah** (ko yabyaye) abakobwa. Ubutagatifu ni ubwe, nta ho ahuriye n'ibyo bamwitirira! Nyamara bo bihitiramo ibyo bifusa (kubyara abahungu).

58. N'yo umwe muri bo ahawe inkuru yuko yabyaye umukobwa, uburanga bwe burijima akanagira umujinya w'umuranduranzuzi.

59. Akihisha abantu kubera inkuru mbi yagejejweho. (Akibaza ati) "Ese amugumane n'ubwo biteye isoni cyangwa amutabe mu gitaka (ari muzima)?" Mbega ukuntu ibyemezo byabo ari bibi!

60. Abatemera umunsi w'imperuka ni bo barangwa (no kwitirira **Allah** kugira abana b'abakobwa), naho **Allah** ni we ufite ibisingizo by'ikirenga. Kandi ni we Munyacyubahiro bihebuje, Nyirubugenge buhambaye.

61. N'yo **Allah** aza guhaniraho abantu kubera ibikorwa byabo bibi, nta kiremwa na kimwe yari gusiga ku isi. Ariko arabarindiriza kugeza igihe cyagenwe, kandi iyo igihe cyabo kigeze, ntibarindirizwa na gato cyangwa ngo bihitishwe mbere yacyo.

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، وَلَهُمْ مَا يَشَاءُونَ

٥٧

كَظِيمٌ

يَتَوَرَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ  
أَيْمَسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدْسُهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا  
يَحْكُمُونَ

٥٨

لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثُلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَمْلُ  
الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

٥٩

وَلَوْ يُؤْخَذُ اللَّهُ أَنَاسًا بِظُلْمٍ مِّمَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ  
دَآبَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمَّىٍ فَإِذَا جَاءَهُمْ  
أَجَهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْقُدُونَ

٦٠

62. Bitirira **Allah** ibyo (ubwabo) banga, kandi indimi zabo zivuga ibinyoma ko bazagira iherezo ryiza. Nta gushidikanya ko bazahanishwa umuriro, ndetse bazawinjizwamo mbere (y'abandi), kandi bawurekerwemo.

63. Ku izina rya **Allah!** Mu by'ukuri twohereje Intumwa ku miryango (Umat) yakubanjirije, ariko Shitani abakundisha ibikorwa byabo (bibi). None ubu ni we nshuti magara yabo, kandi bazahanishwa ibihano bibabaza.

64. Kandi nta kindi cyatumye tuguhishurira igitabo (cya Qur'an, yewe Muhamadi), bitari ukugira ngo ubasobanurire ibyo batavugagaho rumwe, ndetse no kugira ngo (icyo gitabo) kibe umuyoboro n'impuhwe ku bantu bemera.

65. Kandi **Allah** amanura amazi (imvura) ayakuye mu kirere, nuko akayahesha isi ubuzima nyuma yo gupfa kwayo (gukakara). Mu by'ukuri muri ibyo harimo inyigisho ku bantu bumva.

66. Kandi mu by'ukuri mu matungo mukuramo inyigisho. Tubaha ibinyobwa biturutse mu nda zayo, bikomoka mu mase (akiri mu mara) n'amaraso; ibyo

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصْفُ أَسْنَتُهُمْ  
الْكَذِبَ أَنَّهُمُ الْحُسْنَى لَأَجْرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ  
وَأَنَّهُمْ مُقْرَطُونَ ﴿٦﴾

تَالَّهُ لَقَدْ أَرْسَلَنَا إِلَى أُمَّةٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَنِيزَنَ لَهُمْ  
الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ أُلْيَوْمَ وَلَهُمْ  
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦﴾

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي  
أَخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ  
يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾

وَإِنَّ اللَّهَ أَنَّزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ  
مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦﴾

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَمِ لِعِبْرَةٍ سُقِيْكُمْ مَمَّا فِي بُطُونِهِ  
مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَّا خَاصَّا سَابِغًا لِلشَّرَبِينَ ﴿٦﴾

bikaba amata y'umwimerere aryohera abayanywa.

67. No mu mbuto z'imitende n'imizabibu, mukuramo ibisindisha (byaziririjwe) ndetse n'amafunguro meza. Mu by'ukuri muri ibyo harimo isomo ku bantu bafite ubwenge.

68. Nyagasaki wawe yanahishuriye inzuki (agira ati) "Mwubake amazu mu misozi, mu biti no mu byo (abantu) bubaka (imitiba)",

69. "Hanyuma murye ku mbuto zose, munanyure mu nzira za Nyagasaki wanyu yaborohereje." Mu nda zazo havamo ikinyobwa (ubuki) cy'amabara atandukanye, kirimo umuti ku bantu. Mu by'ukuri muri ibyo harimo inyigisho ku bantu batekereza.

70. Kandi **Allah** yarabaremye ndetse ni na We ubambura ubuzima. No muri mwe hari abo ageza mu zabukuru (bakaba abasaza rukukuri), kugeza ubwo bayoberwa ibyo bari bazi. Mu by'ukuri **Allah** ni Umumenyi wa byose, Ushobora byose.

71. Kandi **Allah** yarutishije bamwe muri mwe abandi mu butunzi. Nyamara ba bandi barutishijwe abandi, ntibashobora kwemera guha

وَمِنْ شَمَرَتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَبِ تَسْخِذُونَ مِنْهُ

سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِيَّةً لِقَوْمٍ يَعْقُلُونَ ﴿٧٧﴾

وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنَّ الْمَنْزِلَى مِنَ الْجَنَانِ بُيُوتًا

وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعِشُونَ ﴿٧٨﴾

لَهُ كُلِّي مِنْ كُلِّ الْشَّمَرَاتِ فَأَسْلُكِي سُبْلَ رَبِّي ذُلْلَا  
يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفُ الْوَانُّ فِيهِ شَفَاءٌ  
لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِيَّةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾

وَاللَّهُ حَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى  
أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ  
عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٧٠﴾

وَاللَّهُ فَضَلَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا

الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَآدِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكُوك

imitungo yabo abacakara babo kugira ngo bareshye mu butunzi. (Ese niba mutemera kureshya n'abagaragu banyu, ni gute mureshyeshya Imana n'ibigirwamana?) None se bahakana ingabire za **Allah**?

72. Kandi **Allah** yabaremeye abagore ababakomoyemo, maze abaha abana n'abuzukuru bakomotse ku bagore banyu, ndetse abaha n'amafunguro meza. Ese bemera ibitari ukuri (ibigirwamana) bagahakana ingabire za **Allah**?

73. Bakanasenga ibitari **Allah**, bitagenga amafunguro (yabo) yaba aturutse mu birere cyangwa ku isi, kandi ntabwo byabishobora (kubaha amafunguro) yaba aturutse mu birere cyangwa ku isi, kandi nta na kimwe bishoboye.

74. Bityo, ntimukagire icyo mugereranya na **Allah** (kuko nta cyo asa na cyo). Mu by'ukuri **Allah** azi (ibyo mukora) ariko mwe ntimuzi (ingaruka zabyo).

75. **Allah** yatanze urugero rw'umucakara uhatswe (na shebuja) utagira icyo ashoboye, ndetse n'urw'umuntu twahaye amafunguro meza aduturutseho, maze akagira ayo atanga mu ibanga no ku mugaragaro. Ese (abo bombi)

يَمْنَهُمْ فَهُمْ فِي سَوَاءٍ أَفْيَعْمَةُ اللَّهُ يَحْدُورُ

٧٦

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاحًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَرْوَاحِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الظِّيَّاتِ أَفِ الْبَطْلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ

٧٣

تَعْلَمُونَ

فَلَا تَصْرِبُوا إِلَيْهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا

\*ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنَا فَهُوَ يُنِيفُ

bameze kimwe? Ishimwe n'ikuzo byuzuye ni ibya **Allah!** Nyamara abenshi muri bo ntibabizi.

إِنَّهُ سِرًا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوْنَ الْحَمْدُ لِلَّهِ  
بَلْ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٥﴾

76. Allah yanatanze (urundi) rugero rw'abantu babiri; umwe muri bo utavuga ndetse ntagire icyo ashoboye, ahubwo ari umutwaro kuri shebuja; aho amutumye hose ntagire icyiza azana. Ese (umuntu nk'ubo) ashobora kureshya n'ubwiriza (abantu) kurangwa n'ubutabera, ndetse na we ubwe akaba ari mu nzira igororotse?

77. Kandi Allah ni We uzi ibitagaragara byo mu birere no mu isi. Kandi (kugera) kw'imperuka bizaba nko guhumbya cyangwa ibyihuse kurushaho. Mu by'ukuri Allah ni Ushobora byose.

78. Allah yanabakuye mu nda z'ababyeyi banyu nta cyo muzi, maze abaha kumva, kubona ndetse (abaha) n'immitima (ubwenge) kugira ngo mushimire.

79. Ese ntibabona ko inyonzi zoroherejwe kuguruka mu kirere nta kindi kizifashe kitari Allah? Mu by'ukuri muri ibyo harimo inyigisho ku bantu bemera.

وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبَكَهُ  
لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْمَانًا  
يُوَجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ  
يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

٧٦

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرَ  
السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمَحُ الْبَصَرِ أَوْهُ أَقْرَبَ  
إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٧٧﴾

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا  
تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَعَ  
وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْيَدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴿٧٨﴾

أَمْرِرُوا إِلَى الطَّيْرِ مُسَحَّرَتِ فِي جَوِ السَّمَاءِ مَا  
يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يُؤْمِنُونَ ﴿٧٩﴾

80. Kandi **Allah** yagize amazu yanyu aho mutura, anabagirira impu z'amatungo amazu (amahema) aborohera kuyatwara igihe muri mu ngendo ndetse n'igihe mutazirimo. No mu bwoya n'imigara yabyo (ihene, ingamiya n'intama) yabahaye (gukoramo) ibikoresho n'imitako (mwifashisha) by'igihe runaka.

81. **Allah** yanabashyiriye ibicucucu mu byo yaremye (ibiti, amazu, ibicu...), abashyirira ubuvumo mu misozi, abaha imyambaro ibarinda ubushyuhe (n'imbeho) ndetse n'imyambaro (ingabo) ibarinda (ibikomere) mu ntambara. Uko ni ko (**Allah**) abasenderezaho ingabire ze, kugira ngo muce bugufi (ku mategeko ye).

82. Nibaramuka bateye umugongo, mu by'ukuri icyo ushinzwe (yewe Muhamadi) ni ugusohoza ubutumwa mu buryo bugaragara.

83. Bazi neza ingabire za **Allah** ariko (bakabirengaho) bakazihakana, kandi abenshi muri bo ni abahakanyi.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ يُوتَكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ  
مِّنْ جُلُودِ الْأَغْنَمِ يُوتَا سَتَّاخْفُونَهَا يَوْمَ  
ظَعْنَكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتُكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا  
وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا آثَاثًا وَمَتَعًا إِلَى حِينٍ ﴿٨١﴾

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَّلًا وَجَعَلَ  
لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكَنَّا وَجَعَلَ لَكُمْ  
سَرَبِيلَ تَقِيمُكُمُ الْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيمُكُمْ  
بَاسِكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ  
لَعَلَّكُمْ سُلَمُونَ ﴿٨١﴾

فَإِنْ تَوَلُّوْا فَإِنَّمَا عَيَاكَ الْبَالِغُ الْمُبِينُ ﴿٨٢﴾

يَعْرِفُونَ بِنِعْمَتِ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا  
وَأَكَثَرُهُمُ الْكُفَّارُونَ ﴿٨٣﴾

84. (Unibuke) umunsi tuzazura umuhamya wa buri muryango (Intumwa yawo); icyo gihe abahakanye ntibazemererwa gutanga impamvu (z'ibyaha bakoze), ndetse nta n'ubwo bazasabwa kwisubiraho (gusubira ku isi ngo bicuze cyangwa ngo basabe imbabazi Allah).

85. N'igihe ba bandi b'inkozi z'ibibi bazabona ibihano, ntabwo bazabyoroherezwa, ndetse nta n'ubwo bazarindirizwa.

86. N'igihe ba bandi babangikanyije Allah bazabona ibigirwamana byabo, bazavuga bati "Nyagasani wacu! Biriya ni ibigirwamana byacu twajyaga dusaba mu kimbo cyawe." Maze bivuge (bibanyomoza) biti "Mu by'ukuri mwe muri abanyabinyoma."

87. Kuri uwo munsi bazicisha bugufi kuri Allah, kandi ibyo bihimbiye (birgingira ko bizabakorera ubuvugizi kwa Allah ku munsi w'imperuka) bizabitarura babibure!

88. Ba bandi bahakanye bakanakumira (abantu) kugana inzira ya Allah, tuzabongerera ibihano hejuru y'ibindi kubera ko bajyaga bakwirakwiza

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَأُهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٨٦﴾

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخْفَفُ عَنْهُمْ  
وَلَا هُمْ يُنَظَّرُونَ ﴿٨٧﴾

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَاتُلُوا رَبَّنَا  
هَوْلَاءَ شُرَكَاءُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ  
دُونِنَا قَالُوا إِلَيْهِمْ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٨٨﴾

وَالْقَوْلُ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلْمُ وَضَلَالٌ عَنْهُمْ مَا  
كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٨٩﴾

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ  
زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا  
يُفْسِدُونَ ﴿٩٠﴾

ubwangizi (bigomeka kuri Allah bakanabishishikariza abandi).

89. (Unibuke) umunsi tuzazura umuhamya wa buri muryango (Intumwa yawo) ubakomokamo, maze nawe (Muhamadi) tukakuzana uri umuhamya wabo (abahakanyi bo ku gihe cyawe). Twanaguhishuriye igitabo (Qur'an) gisobanura buri kintu, kikaba n'umuyoboro, impuhwe n'inkuru nziza ku bicishije bugufi (Abayisilamu).

90. Mu by'ukuri Allah ategeka (abantu) kurangwa n'ubutabera, kugira neza no gufasha abo bafitanye isano. Anabuza gukora ibikozasoni, ibibi no kurenganya abandi. Ababurira kugira ngo mwibuke (amategeko ye kandi abagirire akamaro).

91. Kandi mujye mwuzuza isezerano rya Allah igihe muritanze, ndetse ntimugatatire indahiro nyuma yo kuzishimangira kandi mwaragize Allah umwishingizi wanyu (ko muzazubahiriza). Mu by'ukuri Allah azi ibyo mukora.

92. Kandi ntimuzamere nka wa wundi (umugore w'ubwenge buke) waboshye umutako we akawukomeza nyuma akawubohora, mugira indahiro zanyu uburyo bwo kuriganya hagati yanyu, kubera ko

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ  
أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ  
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبَيَّنَ لِكُلِّ شَيْءٍ  
وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

\* إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَإِلَحْسَنِ وَإِيتَاءِ  
ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
وَالْبَغْيِ يَعْظُلُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا  
الْأَيْمَنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ  
عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَقْعُلُونَ

٦١

وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقْضَتْ غَزَلَهَا مِنْ بَعْدِ فُرْقَةٍ  
أَنْ كَثَّا تَتَخَذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلَيْنَكُمْ  
أَنْ تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَأْبُلُوكُمُ اللَّهُ

(mwabonye) abantu bafite imbaraga kandi ari benshi kurusha abandi (abo mwagiranye amasezerano). Mu by'ukuri **Allah** abagerageresha ibyo (kugira ngo agaragaze uwumvira n'uwigomeka). Kandi rwose, ku munsi w'imperuka azabagaragariza ibyo mutavugagaho rumwe.

93. N'iyo **Allah**aza kubishaka yari kubagira umuryango umwe (Abayisilamu), ariko arekera mu buyobe uwo ashaka akanayobora uwo ashaka. Kandi rwose muzabazwa ibyo mwajyaga mukora.

94. Kandi ntumuzagire indahiro zanyu uburyo bwo kuriganya hagati yanyu, bityo ikirenge (cyanyu) kitazavaho kikanyerera (kiva muri Isilamu) nyuma y'uko cyari gishikamye (mu kwemera), maze mugasogongera ikibi (ibihano byo ku isi) kubera ko mwakumiriye (abantu) kugana inzira ya **Allah**, ndetse mukazahanishwa ibihano bihambaye.

95. Ntimuzanagurane isezerano rya **Allah** igiciro gito. Mu by'ukuri ibiri kwa **Allah** ni byo byiza kuri mwe iyaba mwari mubizi.

٦٠ ۖ وَلَيَبْيَسَنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةَ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتَسْعَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَ كُمْ فَتَرَلَ قَدْمًا بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذَوْقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

وَلَا تَشْرُكُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

96. Ibyo mutunze bizashira, ariko ibiri kwa Allah bizahoraho. Kandi rwose, ba bandi bihanganye tuzabagororera ibihembo byabo byiza kurusha ibyo bakoraga.

97. Ukoze ibitunganye, yaba uw'igitsina gabu cyangwa uw'igitsina gore, kandi akaba ari umwemeramana, rwose tuzamuha ubuzima bwiza, ndetse tuzabagororera ibihembo byabo byiza kurusha ibyo bakoraga.

98. Bityo nuba ugiye gusoma Qur'an, ujye wiragiza Allah kugira ngo akurinde Shitani wavumwe.

99. Mu by'ukuri (Shitani) nta bushobozi afite kuri ba bandi bemeye bakaniringira Nyagasani wabo (wenyine).

100. Mu by'ukuri ubushobozi bwe (Shitani) abugira kuri ba bandi bamugira umunywanyi wabo, na babandi babangikanya (Allah n'i bindi) kubera we (Shitani).

101. N'yo dufashe umurongo (wa Qur'ani) tukawusimbuza undi -kandi Allah azi neza ibyo ahishura (ko biba biri mu nyungu zibiremwa)-, (abahakanyi) baravuga batu "Mu by'ukuri wowe (Muhamadi) uri

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجِزِنَّ  
الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِإِحْسَنِ مَا كَانُوا  
يَعْمَلُونَ ٩٦

مَنْ عَمِلَ صَدِيقًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ  
مُؤْمِنٌ فَنَحْتَهِنَّهُ حَيَاةً طَيْبَةً وَلَنَجِزِنَّهُمْ  
أَجْرَهُمْ بِإِحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧

فَإِذَا قَرَأَتِ الْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ  
الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ٩٨

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَنٌ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَنَّا وَعَلَى  
رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٩٩

إِنَّمَا سُلْطَنُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ  
بِهِ مُشْرِكُونَ ١٠٠

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّا كَانَ آيَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ  
بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَأِلٌ أَكَثَرُهُمْ لَا  
يَعْلَمُونَ ١٠١

umubeshyi (uhimbira Allah ibyo atavuze)." Nyamara abenshi muri bo nta cyo bazi (ku byo Allah ategeka).

102. Vuga (yewe Muhamadi) uti "Roho Mutagatifu [Malayika Jibril (Gaburiheli)] ni we wayimanuye (Qur'an) ayikuye kwa Nyagasani wawe, ikubiyemo ubutumwa bw'ukuri, kugira ngo ikomeze (ukwemera kw') abemeramana, ndetse ikaba umuyoboro n'inkuru nziza ku bicisha bugufi (kuri Allah)."

103. Kandi rwose tuzi neza ko (ababangikanyamana) bavuga bati "Mu by'ukuri hari umuntu umwigisha (iyi Qur'an)." Ururimi rw'uko bitirira (ko amwigisha) ni urunyamahanga, nyamara iyi (Qur'an) iri mu rurimi rw'Icyarabu rusobanutse.

104. Mu by'ukuri ba bandi batemera amagambo ya Allah, Allah ntazabayobora kandi bazahanishwa ibihano bibabaza.

105. Mu by'ukuri abahimba ikinyoma ni ba bandi batemera amagambo ya Allah, kandi abo ni bo banyabinyoma.

106. Uwo ari we wese uhakana Allah nyuma y'uko yemeye, (ibihano bikomeye biramutegereje), uretse wa

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُّسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِتُبَيَّنَ  
الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدَىٰ وَبُشِّرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

١٢

وَلَقَدْ نَعَمْ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يَعْلَمُ  
بَشَّرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمٌ  
وَهَذَا إِلَسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ

١٣

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعِيَاتِ اللَّهِ لَا  
يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

١٤

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ  
بِعِيَاتِ اللَّهِ وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ

١٥

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ  
أَكَرَهَ وَقَبْلَهُ وَمُظْمِنٌ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ

wundi uzabihatirwa (agahakana ku rurimi) ariko umutima we wuje ukwemera (ubo nta cyaha aba akoze). Ariko abugururira ibituza byabo ubuhakanyi, abo uburakari bwa **Allah** buri kuri bo, kandi bazahanishwa ibihano bihambaye.

107. Ibyo ni ukubera ko bakunze ubuzima bw'isi bakaburutisha ubw'imperuka. Kandi mu by'ukuri **Allah** ntayobora abantu b'abahakanyi.

108. Abo ni ba bandi **Allah** yadanangiye imitima yabo, amatwi yabo ndetse n'amaso yabo; kandi abo ni bo barindagiye.

109. Nta gushidikanya ko ari bo bazaba abanyagihombo ku munsi w'imperuka.

110. Naho ba bandi bimutse nyuma yo gutotezwa, maze bagaharanira inzira ya **Allah** bakanihangana, nyuma y'ibyo byose, Nyagasani wawe (ku bantu nk'abo) ni Ubabarira ibyaha, Nyirimpuhwe.

مَنْ شَرَحَ بِالْكُفَّارِ صَدَرًا فَعَلَيْهِمْ  
غَضَبٌ مِّنْ أَنَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

ذَلِكَ يَأْنَهُمْ أَسْتَحْبُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا  
عَلَى الْآخِرَةِ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي  
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ  
وَسَمِعَهُمْ وَأَنْصَرَهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ  
الْغَافِلُونَ

لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ  
الْخَسِرُونَ

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا  
فُتِنُوا ثُمَّ جَهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ  
مِنْ عَدِيهِ الْغَافِرُ الرَّحِيمُ

111. Wibuke (yewe Muhamadi) umunsi buri muntu azaza yiburanira, maze buri wese agahemberwa mu buryo bwuzuye ibyo yakoze, kandi ntabwo bazarenganywa.

112. Kandi **Allah** yatanze urugero rw'umudugudu (Maka) wari utekanye kandi utuje; amafunguro yawo awugeraho ku bwinshi aturutse impande zose, ariko abawutuye bahakana ingabire za **Allah**. Nuko **Allah** awuteza amapfa n'ubwoba kubera ibyo bakoraga (guhakana ubutumwa bwa Muhamadi).

113. Kandi rwose bari baragezweho n'Intumwa (Muhamadi) ibakomokamo, ariko barayihakanye, nuko ibihano bibasanga ari inkozi z'ibibi.

114. Ngaho nimurye mu byo **Allah** yabafunguriye, biziruye kandi byiza. Munashimire ingabire za **Allah**, niba koko ari We wenyine musenga.

115. Mu by'ukuri (**Allah**) yabaziririje (kurya) ibyipfushije, amaraso, inyama y'ingurube n'icyabagiwe ikitari **Allah**. Ariko uzasumbirizwa (akabiryia) atari ukwigomeka cyangwa kurengera (ngo arenze urugero

\* يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ بِحَدْلٍ عَنْ نَفْسِهَا  
وَقُوَّتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا  
يُظْلَمُونَ ﴿١١٦﴾

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيَّةً كَانَتْ إِيمَانَهُ  
مُطْمِئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغْدًا مِنْ كُلِّ  
مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَقَهَا اللَّهُ  
لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَرْفِ بِمَا كَانُوا  
يَصْنَعُونَ ﴿١١٧﴾

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَبُوهُ فَلَمْ يَخْذُلُهُمْ  
الْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِيلُونَ ﴿١١٨﴾

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا  
وَأَشْكُرُوا لِعَمَّتِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيمَانَهُ  
تَعْبُدُونَ ﴿١١٩﴾

إِنَّمَا حَرَمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْلَّدَمَ وَلَحْمَ  
الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطَرَّ  
بِإِعْلَامٍ وَلَا عَادِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٠﴾

rw'ibyamuramira, icyo gihe nta cyaha azaba akoze); mu by'ukuri Allah ni Ubabarira ibyaha, Nyirimpuhwe.

116. Ntimukavuge ibinyoma mukoresheje indimi zanyu (muvuga muti) "Iki kiraziruye n'iki kiraziririjwe" mugamije guhimbira Allah ibinyoma. Mu by'ukuri abahimbira Allah ibinyoma ntibazakiranuka.

117. (Bazagira) umunezero w'igihe gito, kandi bazahanishwa ibihano bibabaza.

118. Na ba bandi babaye Abayahudi, twabaziririje ibyo twakubwiye mbere (yewe Muhamadi). Kandi ntabwo twigeze tubarenganya (ubwo twabaziririzaga ibyari bisanzwe bibaziruriwe), ahubwo ni bo ubwabo bihemukiye (bigomeka ku mategeko ya Allah).

119. Hanyuma ba bandi bakoze ibibi kubera kudasobanukirwa maze bakicuza, nyuma y'ibyo bagakora ibikorwa byiza, mu by'ukuri Nyagasani wawe ni Ubabarira ibyaha, Nyirimpuhwe.

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصْفُ أَسْتَكُمُ الْكَذِبَ  
هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَقْرَرُوا عَلَى اللَّهِ  
الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَقْرَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا  
يُفْلِحُونَ

مَتَعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمَنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلٍ  
وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا أَسْوَأَ  
تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ

بَعْدِهَا الْغَفُورُ رَحِيمٌ

120. Mu by'ukuri Aburahamu yari umuyoboz w'intangarugero, wicisha bugufi kuri Allah, usenga Allah gusa, kandi nta n'ubwo yigeze aba mu babangikanyamana.

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتَ لِلَّهِ حِنْفًا وَلَمْ يَكُنْ  
مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ١٢٠

121. Yashimiraga ingabire za Allah. (Allah) yaramutoranyije anamuyobora inzira igorotse.

شَاكِرًا لِأَنْعُمَّةٍ أَجْتَبَهُ وَهَدَهُ إِلَى صَرَاطٍ  
مُسْتَقِيْرٍ ١٢١

122. Twanamuhaye ibyiza ku isi, ndetse no ku mperuka azaba mu ntungane.

وَءَاتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمَّا  
أَصَابَهُ ١٢٢

123. Hanyuma (yewe Muhamadi) twaguhishuriye ko ugomba gukurikira idini rya Aburahamu (Isilamu), wasengaga Allah gusa, kandi akaba atarigeze aba mu babangikanyamana.

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ أَتَّبِعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا  
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ١٢٣

124. Mu by'ukuri Isabato yashyiriweho ba bandi batayivuzeho rumwe (Abayahudi n'Intumwa yabo). Kandi mu by'ukuri ku munsi w'imperuka Nyagasani wawe azabakiranura ku byo batavugagaho rumwe.

إِنَّمَا جَعَلَ السَّبَطَ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ  
رَبَّكَ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا  
كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١٢٤

125. Hamagarira (abantu) kugana inzira ya Nyagasani wawe ukoresheje ubushishozi n'inyigisho nziza, unabagishe impaka mu buryo bwiza. Mu by'ukuri Nyagasani wawe ni We uzi neza uwabyo inzira ye,

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ  
الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحَسَّبُ إِنَّ

ndetse ni na We uzi neza abayobotse.

رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ صَلَّ عَنْ سَيِّلَةٍ وَهُوَ أَعْلَمُ

بِالْمُهَتَّدِينَ ﴿١٢٥﴾

126. Kandi nimwihorera (ku babagiriye nabi), mujye mwihorera bijyanye n'ibyo mwakorewe. Ariko nimwihangana (mukabarira), ni byo byiza ku bihangana.

وَإِنْ عَاقِبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَوْقَبْتُمْ يَهُ

وَلَئِنْ صَرَّمْ لَهُ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿١٢٦﴾

127. Ujye unihangana (yewe Muhamadi), (kuko) kwihangana kwawe ugushobozwa na Allah. Kandi (abaguhakanye) ntibazagutere agahinda, ndetse ntukanababazwe n'imigambi yabo mibisha.

وَاصِرْ وَمَا صَرِبْ إِلَّا بِاللهِ وَلَا تَخْرُجْ

عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٧﴾

128. Mu by'ukuri Allah ari kumwe na ba bandi bamugandukira, ndetse na ba bandi bakora ibyiza.

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْ وَالَّذِينَ هُمْ

مُّحْسِنُونَ ﴿١٢٨﴾

17 - SURAT AL ISR'A-U  
(URUGENDO RW'IJORO)

Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirongo 111.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Ubutagatifu ni ubwa wa wundi (Allah) wajyanye umugaragu we (Muhamadi) nijoro, amuvanye ku Musigiti Mutagatifu (wa Maka) akamujyana ku Musigiti wa Al Aq'sa (Umusigiti Mutagatifu w'i Yeruzalemu), twahundagaje imigisha impande zawo zose; (ibyo twabikoze) kugira ngo tumwereke bimwe mu bitangaza byacu. Mu by'ukuri (Allah) ni Uwumva buri kintu, Ubona bihebuje.

2. Twanahaye Musa igitabo (Tawurati) tukigira umuyoboro kuri bene Isiraheli (tugira tuti) "Muramenye ntimuzagire undi mwiringira utari Njye."

3. Yemwe abakomoka ku bo twatwaye (mu bwato) hamwe na Nuhu mwe! Mu by'ukuri yari umugaragu ushimira cyane (bityo nimumukurikize).

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيَلَّا مِنَ الْمَسْجِدِ  
الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَّكَاهُ  
لِرُزْيَهُ وَمِنْ مَا إِتَنَا إِنَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١﴾

وَإِنَّا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّلنَّاسِ  
إِسْرَئِيلَ لَا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِنَا وَكِيلًا

ذُرِّيَّةً مَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا  
شَكُورًا ﴿٣﴾

4. Twanaciye iteka kuri bene Isiraheli, (tubivuga) mu gitabo tugira tuti “Mu by'ukuri muzakora ubwangizi mu gihugu ubugira kabiri (ubugizi bwa nabi muzakorera ku Musigiti Mutagatifu w'i Yeruzalemu n'ahawukikije ndetse no kwica kwanyu abahanuzi), kandi muzarengera imbago (z'ibizirijwe) mu buryo bukabije.”

5. “Nuko ubwo isezerano rya mbere muri yombi ryasohoraga, twabohererereje abagaragu bacu b'ibihangange, maze bakwirakwira mu mazu yanyu (babahiga baranabamenesha). Kandi iryo ni isezerano ryagombaga gusohora.”

6. “Nuko nyuma yaho tubaha kubigaranzura murabanesha. Twanabongereye imitungo n'urubyaro ndetse tunabagira benshi kubarusha”.

7. (Twaranavuze tuti) “Nimugira neza ni mwe muzaba mwigiriye neza, kandi nimunagira nabi ni mwe muzaba mwihemukiye. Nuko ubwo isezerano rya nyuma rizasohora, (tuzashoboza abanzi banyu) kugira ngo babasuzuguze, baninjire mu Musigiti (w'i Yeruzalemu) nk'uko bawinjiyemo bwa mbere, ndetse

وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتَفْسِدُنَّ  
فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلَمَ عُلُوًّا كَيْرًا ﴿٦﴾

فَإِذَا جَاءَهُ وَعَدُوا لَهُمَا بِعَثْنَا عَلَيْهِ كُمْ عِبَادًا  
لَّنَّ أُولَئِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خَلَلَ الْدِيَارِ  
وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ﴿٧﴾

تُرْدَدَنَا لَكُمُ الْكَوَافِرَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ  
وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ فَقِيرًا ﴿٨﴾

إِنَّ أَحْسَنَنَا لَهُمْ لَأَنَّفُسَكُمْ وَإِنَّ أَسَأَنَا  
فَلَهُمْ فِإِذَا جَاءَهُ وَعَدُوا الْآخِرَةَ لِيُسْتَوْهُ وَجُوهَكُمْ  
وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ  
وَلَيُتَبَرُّوا مَا عَلَوْا تَبِيرًا ﴿٩﴾

bazanasenya ibyo bazajya  
bahura na byo byose."

8. (Muramutse mwicujije), hari ubwo Nyagasani wanyu yabagirira impuhwe, ariko nimwongera (gukora ubwononnyi) natwe tuzongera (tubahane). Kandi umuriro wa Jahanamu twawugize gereza ku bahakanyi.

9. Mu by'ukuri iyi Qur'an iyobora (abantu) mu nzira itunganye kurusha izindi ikanaha inkuru nziza abemeramana; ba bandi bakora ibikorwa byiza, ko rwose bazagororerwa ibihembo bihebuje (Ijuru),

10. Kandi ko ba bandi batemera imperuka, twabateganyirije ibihano bibabaza (Umuriro).

11. Kandi umuntu (ijo arakaye cyangwa ari mu ngorane hari ubwo) asaba ikibi nk'uko asaba icyiza, kuko umuntu (muri kamere ye) arangwa no kugira ubwira.

12. Twanagize ijoro n'amanywa ibimenyetso bibiri (bigaragaza ubushobozi bwacu), nuko dukuraho ikimenyetso cy'ijoro. Naho ikimenyetso cy'amanywa tukigira umucyo kugira ngo mushakishe ingabire zituruka

عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرَحَمَكُمْ وَإِنْ عُذْتُمْ عُذْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ

لِلْكُفَّارِ حَصِيرًا ﴿٨﴾

إِنَّ هَذَا الْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلّٰهِي أَفْوُرُ وَيَسِّرُ

الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ

أَجْرًا كَيْرًا ﴿٩﴾

وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُقْرِئُونَ بِالآخرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا

أَلِيمًا ﴿١٠﴾

وَيَدْعُ إِلَيْهِ إِلَيْسَنُ بِالشَّرِّ دُعَاءُهُ وَبِالْخَيْرِ وَكَانَ إِلَيْهِ إِنْسَنُ

عَوْلًا ﴿١١﴾

وَجَعَلْنَا إِلَيْهِ وَالنَّهَارَ إِيَّاتِينَ فَمَحْرُنَاءِ إِيَّاهُ إِلَيْلٍ

وَجَعَلْنَا إِيَّاهُ إِلَيْلَ النَّهَارِ مُبِرَّةً لِتَبَغُّوْ فَضْلًا مِنْ

رَبِّكُمْ وَلَتَعْلَمُوا عَدَدَ أَلْسِنَنَ وَالْحَسَابَ

وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَلَّنَهُ تَقْصِيْلًا ﴿١٢﴾

kwa Nyagasan i wanyu, no kugira ngo mumenye umubare w'imyaka n'uburyo bwo kubara (ibihe). Kandi buri kintu twagisobanuye mu buryo burambuye.

13. Na buri muntu twamuziritseho ibikorwa bye (nk'urunigi) mu ijosi, kandi ku munsi w'imperuka tuzamuzanira igitabo azasanga gifunguye.

14. (Azabwirwa ati) “Soma igitabo cyawe! Uyu munsi wowe ubwawe urihagije kwibera umubaruzi.”

15. Uyobotse, mu by'ukuri (ibihembo by'uko kuyoboka) biba kuri we, n'uyobye (ibihano by'uko kuyoba) biba kuri we. Kandi ntawe uzikorera umutwaro w'undi. Ndetsa nta bo tujya duhana tutabanje kuboherereza Intumwa (ngo ibaburire).

16. N'igihe dushatse kurimbura umudugudu (kubera ubwangizi bwabo), dutegeka abadamarye muri wo (kumvira amategeko yacu) ariko bagakomeza kuwukoramo ubwangizi. Nuko imvugo (y'ibihano) ikabasohoreraho, maze tukawurimbura bikomeye.

وَكُلَّ إِنْسَنٍ أَنَّ زَمْنَهُ طَلَرَهُ وَفِي عُنْقِهِ وَنُخْجِ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَهُ مَنْ شُرِّاً ۚ ۲۳

أَقْرَأَ لِكُبَّكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَيْكَ حَسِيبًا ۲۴

مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضْلُلُ عَلَيْهَا وَلَا تَرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ يَعْثَرَ رَسُولًا ۲۵

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهَلِّكَ قَرِيَّةً أَمْ رَبَّانِيًّا فَنَسْقُوا فِيهَا فَقَعَ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرَنَاهَا تَدْمِيرًا ۲۶

17. None se twarimbuye ibisekuru bingahe nyuma ya Nuhu (Nowa)! Kandi birahagije ko Nyagasani wawe amenya akanabona byimazeyo ibyaha by'abagaragu be.

وَكَمْ أَهْلَكَنَا مِنْ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ  
بِذُنُوبِ عِبَادِهِ حَبِيرًا بَصِيرًا ﴿١٧﴾

18. Ushaka umunezero wo ku isi utaramba, twihutira kuyimuheramo ibyo dushaka (kandi tukabiha) uwo dushaka. Nyuma y'ibyo, twamugeneye umuriro wa Jahanamu azinjiramo asuzuguritse (kandi) yirukanywe (mu mpuhwe za Allah).

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ جَعَلْنَا لَهُ وَفِيهَا مَا شَاءَ  
لِمَنْ نِيَدُ ثُرُّجَعَلْنَا لَهُ وَجَهَنَّمَ يَصْلَهَا مَذْمُومًا  
مَدْحُورًا ﴿١٨﴾

19. N'uzashaka imperuka akanayiharanira uko bikwiye kandi akaba ari n'umwemeramana; abo umuhate wabo uzashimwa (na Allah anabibahembere).

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ  
مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴿١٩﴾

20. Abo bose -aba na bariya (abemeramana n'abahakanyi)-tubahundagazaho impano za Nyagasani wawe (ku isi). Kandi impano za Nyagasani wawe ntizikumirwa (ku wo ari we wese).

كُلَّا نِمْدُهَوْلَاءِ وَهَوْلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ  
وَمَا كَانَ عَطَاءَ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿٢٠﴾

21. Reba uko bamwe tubarutisha abandi (mu buzima bwo ku isi), kandi mu by'ukuri ubuzima bw'imperuka ni bwo buzagira urwego rwo hejuru bukanagira agaciro gahebuje.

أَنْظُرْنَاهُ كَيْفَ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلآخرةُ  
أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَقْضِيَاتًا ﴿٢١﴾

22. Ntukagire ubangikanya na utazavaho uba cyatereranywe.

23. Kandi Nyagasani wawe yaciye iteka ko nta kindi mukwiye kugaragira uretse We wenyine, kandi ko mugomba kugirira neza ababyeyi banyu. Igihe umwe muri bo cyangwa bombi bageze mu zabukuru, ntukababwire amagambo yo kubinuba ndetse ntuzanabakankamire, ahubwo ujye ubabwira mu mvugo y'icyubahiro.

24. Ujye unabichishaho bugufi kubera kubagirira impuhwe, ndetse ujye (ubasabira) uvuga uti “Nyagasani wanjiye! Bagirire impuhwe nk'uko bandeze nkiri muto.”

25. Nyagasani wanyu azi neza ibiri mu mitima yanyu. Niba mukora ibyiza (mubikorera ababyeyi banyu, ariko rimwe na rimwe mugacikwa, Nyagasani wanyu azababarira), mu by'ukuri We (**Allah**) ni Uhebuje mu kubabarira abamugarukira bamwicuzaho.

26. Kandi ujye uha uwo mufitanye isano, umukene n'uwashiriwe ari ku rugendo

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخَرَ قَعْدَدْ مَدْمُومًا حَذْلَوًا ﴿٢٢﴾

\* وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْدُوا إِلَّا إِيَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ  
إِحْسَنًا إِمَّا يَجْلِغَنَ عِنْدَكُمُ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ  
كَلَّاهُمَا فَلَا تَقْتُلْ لَهُمَا أَفْقِ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ  
لَهُمَا قَرَّلَأَ كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الْذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ  
أَرْحَمَهُمَا كَمَارِبَيَانِ صَغِيرًا ﴿٤٤﴾

رَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَادِقِينَ  
فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّلِينَ عَفُورًا ﴿٤٥﴾

وَإِاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمُسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ  
وَلَا تُبُدِّلْ رَبِّنِيرًا ﴿٤٦﴾

ibyo bakwiye. Ariko ntukajye waya.

27. Mu by'ukuri abaya ni abavandimwe b'amashitani, kandi Shitani ntajya ashimira Nyagasani we.

28. Kandi nubirengagiza (ntugire icyo uha abo mufitanye isano, abakene n'abashiriwe bari ku rugendo) kubera ko ugishakisha impuhwe za Nyagasani wawe wizeye, ujye ubabwira amagambo yoroheje.

29. Kandi akaboko kawe ntukakagire nk'agahambiriye mu ijosi ryawe (kubera ubugugu), cyangwa ngo ukarambure cyane (nk'uwaya), utazavaho ugawa ukaganira ubukene bukabije.

30. Mu by'ukuri Nyagasani wawe atuburira amafunguro uwo ashaka, akanatubiriza (uwo ashaka). Mu by'ukuri azi kandi abona byimazeyo iby'abagaragu be.

31. Ntimukanice abana banyu kubera gutinya ubukene, kuko bo namwe ari twe tubaha amafunguro. Mu by'ukuri kubica ni icyaha gikomeye.

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانُ الشَّيَطِينِ وَكَانَ  
الشَّيَطَنُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

وَإِمَّا تُعَرِّضَنَّ عَنْهُمْ أَبْغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا  
فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا

وَلَا تَتَجَعَّلْ يَدَكَ مَعْلُوَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا  
كُلُّ الْبَسْطِ فَقَعْدَ مَلُومًا مَمْسُورًا

إِنَّ رَبَّكَ يَسْعُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ وَكَانَ  
بِعِبَادَةِ خَيْرٍ أَصْبِرًا

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ تَحْنُ تَرْزُّهُمْ  
وَإِنَّمَا كُلُّهُمْ إِنَّ فَتَاهُمْ كَانَ خَطَّافًا كَيْرًا

32. Ntimukanegere ubusambanyi. Mu by'ukuri bwo ni icyaha gikomeye bukaba n'inzira mbi.

وَلَا تَقْرِبُوا الْتِنَّ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَّةً وَسَاءً  
٣٣ سِيلًا

33. Kandi ntimukice umuntu Allah yaziririje (kwica) uretse ku mpamvu y'ukuri. N'uzicwa arenganyijwe, rwose twahaye umuhagarariye ububasha (bwo gusaba ubutabera kumuhorera, cyangwa kwaka impozamarira, cyangwa kubarira). Ariko ntazarengere mu kwihihorera, kuko mu by'ukuri we arengerwa (n'amategeko).

وَلَا تَقْتُلُوْا النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ  
وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلَنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا  
فَلَا يُسَرِّفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

34. Ntimukanegere umutungo w'imfubyi uretse igihe mugamije ineza (ifitiye inyungu iyo mfubyi), kugeza igeze mu gihe cy'ubukure (muzaihe umutungo wayo iwicungire). Kandi mujye mwuzuza isezerano kuko mu by'ukuri isezerano muzaribazwa (ku munsi w'imperuka).

وَلَا تَقْرِبُوا مَالَ الْيَتَمِ إِلَّا بِالْيَتِيمِ هِيَ أَحَسَنُ حَتَّىٰ  
يَجْعَلَنَّ أَشَدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ  
مَسْؤُلًا

35. Kandi mujye mwuzuza ibipimo igihe mupima, ndetse mupimishe iminzani itunganye. Ibyo ni byo byiza (kuri mwe ku isi) kandi ni byo (bizagira) iherezoo ryiza (ku mperuka).

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلُّتُمْ وَزُنُّوْا بِالْقَسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ  
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

36. Ntukanakurikire ibyo udafitiye ubumenyi. Mu by'ukuri amatwi, amaso n'umutima, ibyo byose

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمَعَ وَالْبَصَرَ  
وَالْفُؤَادُ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا

muzabibazwa (uko  
mwabikoresheje).

37. Kandi ntukagende ku isi wibona kuko mu by'ukuri udashobora gutobora isi ndetse nta n'ubwo wareshya n'imisozi.

38. Ibibi muri ibyo byose (byavuzwe), Nyagasani wawe arabyanga.

39. Ibi ni (bimwe) mu bushishozi Nyagasani wawe yaguhishuriye (yewe Muhamadi). Kandi ntuzabangikanye Allah n'ikigirwamana icyo ari cyo cyose, utazavaho ukajugunywa mu muriro wa Jahanamu, ugawa ndetse unirukanwe (mu mpuhwe za Allah).

40. Ese (mwa  
babangikanyamana mwe)! Nyagasani wanyu yabahaye umwihariko wo kubyara abahungu, maze we yigenera Abamalayika b'abakobwa? Mu by'ukuri imvugo yanyu ni mbi bikabije.

41. Kandi rwose twasobanuye (byinshi) muri iyi Qur'an, kugira ngo (abantu) babashe kwibuka, ariko (ababangikanyamana) nta cyo bibongerera usibye guhunga (ukuri).

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ  
وَلَنْ تَبْلُغْ لِجَبَالَ طُولًا ﴿٣٧﴾

كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ وَعِنْدَ رَبِّكَ مَكْوَهَا ﴿٣٨﴾

ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ  
اللَّهِ إِلَهًا أَخْرَقْتُكَ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ﴿٣٩﴾

أَفَأَصْفَدُكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَيْنَ وَأَنْخَذَ مِنَ الْمَلِكَةِ  
إِنَّثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَلَّا عَظِيمًا ﴿٤٠﴾

وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكُرُوا وَمَا يَرِيدُهُمْ  
إِلَّا نُفُورًا ﴿٤١﴾

42. Vuga (yewe Muhamadi) uti "Iyo haza kuba hariho izindi mana (zibangikanye) na We (**Allah**) nk'uko (ababangikanyamana) babivuga, zari gushaka inzira izigeza kwa (Nyagasan) Nyiri Ar'shi<sup>129</sup> (kugira ngo zimurwanye)."

43. Ubutagatifu ni ubwe (**Allah**), kandi nta ho ahuriye n'ibyo bavuga (ko abangikanye n'izindi mana).

44. Ibirere birindwi n'isi ndetse n'ibibrimo biramusingiza (**Allah**), kandi nta na kimwe kitamusingiza kimukuza. Ariko ntimusobanukirwa uko bimusingiza. Mu by'ukuri (**Allah**) ni Uworohera (abagaragu be), Ubabarira ibyaha.

45. N'igihe usoma Qur'an (yewe Muhamadi), dushyira urusika rutagaragara hagati yawe n'abatemera imperuka (kugira ngo batayisobanukirwa).

46. Twanashyize ibipfuko ku mitima yabo kugira ngo batayisobanukirwa, tunaziba amatwi yabo. Ndetse n'ijo uvuze Nyagasan wawe wenyine muri Qur'an, batera umugongo

قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ إِلَهٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّمْ يَتَغَيَّرُ إِلَى ذَي  
الْعَرْشِ سَيِّلًا ﴿٤٦﴾

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عَلَّوْ كَيْرًا ﴿٤٧﴾

تَسْبِحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسْبِحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَقْهَّمُونَ  
تَسْبِحُهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤٨﴾

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا  
يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حَجَابًا مَسْتُورًا ﴿٤٩﴾

وَجَعَلْنَا عَلَيْهِمْ أَكْثَرَهُمْ رَفِيعَ اذْنِهِمْ  
وَقُرْآنًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْءَانِ وَحْدَهُ وَلَوْا عَلَيْهِمْ أَذْكِرَهُمْ نُفُورًا ﴿٥٠﴾

<sup>129</sup> Reba uko twasobanuye iri jambo muri Surat ul A'raf: 54.

47. Tuzi neza ibyo baba bumva  
iyo baguteze amatwi. N'igihe  
baba bongorerana, inkozi z'ibibi  
(muri bo) ziba zivuga ziti "Uwo  
mukurikira ni umuntu  
warozwe."

48. Dore uko bakugereranya (bakwita umusazi, uwarezwe, umunyabinyoma,...). Bityo barayobye kandi ntibashobora kuzayoboka inzira y'ukuri.

49. Baranavuga bati "Ese  
(nitumara gupfa) tughinduka  
amagufa n'ubuvungukira,  
tuzazurwa tube ibiremwa  
bishya?"

50. Vuga (yewe Muhamadi) uti  
“Nimube amabuye cyangwa  
ibyuma,”

51. "Cyangwa ikindi kiremwa  
mutekereza ko cyaba gikomeye  
(n'ubwo mwaba mumeze mutyo  
muzazurwa). Bazavuga bati "Ni  
nde uzadusubiza ubuzima?"  
Vuga uti "Muzabusubizwa  
n'uwabaremye bwa mbere."  
Bazakuzunguriza imitwe  
bahakana, bavuge bati "Ibyo  
bizaba ryari?" Vuga uti "Wenda  
biri bugufi."

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ  
وَإِذْ هُرْجَمُوا إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنَّا تَتَّبِعُونَ إِلَّا  
**رَجَلًا مَسْحُورًا**

أَنْظُرْ كِيفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا  
لِسْتَ بِطَاغِيٍّ وَلَا مُنْهَكٌ إِلَّا مَنْ يَعْلَمُ

وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَمًا وَرَفْتَ أَعْنَانَ الْمَبْعُوثَنَ خَلَقَنَا  
حَمَدِيدًا

\* قُلْ كُنُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا

أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكُونُ فِي صُدُورِهِ فَسَيَقُولُونَ  
مَنْ يُعِيدُ نَاقِلَ الْأَذْيَ فَطَرَهُ أَوْ لَمْ يَفْتَحْهُ فَسَيُنْعَذُونَ  
إِلَيْكُمْ رُءُوسُهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَّى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ

يَكُونَ قَرِيبًا

52. Umunsi (**Allah**) azabahamagara (kugira ngo muve mu mva zanyu) maze mukitaba mumusingiza. Icyo gihe muzakeka ko mwabaye (ku isi) igihe gito.

53. Bwira abagaragu banjye, bajye bavuga amagambo meza, kuko rwose (nibatabikora) Shitani izabateranya. Mu by'ukuri Shitani ni umwanzi ugaragara w'umuntu.

54. Nyagasani wanyu arabazi neza; nabishaka azabagirira impuhwe, kandi nabishaka azabahana. Kandi (yewe Muhamadi) ntitwabakoherejeho ngo ubabere umurengezi (kugeza ubwo ubahatira kuyoboka).

55. Kandi Nyagasani wawe azi neza abari mu birere no mu isi. Kandi rwose bamwe mu bahanuzi twabarutishije abandi, ndetse twanahaye Dawudi (igitabo cya) Zaburi.

56. Vuga (yewe Muhamadi) uti "Nimuhamagare abo mwise imana mu cyimbo cye (**Allah**, kugira ngo babatabare). Nta bushobozi bafite bwo kubakiza ingorane, cyangwa ngo bazihinduremo (ibyiza)."

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَظُنُونَ إِنْ  
لَّيْسْتُمْ إِلَّا قَبِيلَاً ﴿٥﴾

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا أَلَّا هِيَ أَحَسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ  
يَنْزَعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلنَّاسِ عَدُوًّا  
مُّبِينًا ﴿٥٣﴾

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَاءُ حَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَاءُ  
يُعَذِّبُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿٥٤﴾

وَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ  
فَضَلَّنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضٍ وَءَاتَيْنَا دَارِودًا  
زُبُورًا ﴿٥٥﴾

قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ  
كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿٥٦﴾

57. Abo basenga (bababangikanyije na Allah; nka Ezra, Yesu n'abandi biyeguriye Imana) na bo ubwabo (basengaga Allah) bakanashaka uburyo bwo kumwiyegereza, bizera impuhwe ze ndetse bakanatinya ibihano bye. Mu by'ukuri ibihano bya Nyagasan i wawe biratinyitse.

58. Nta mudugudu n'umwe (wahakanye Allah, ukana hinyura Intumwa ze) tutazarimbura mbere y'umunsi w'imperuka, cyangwa ngo tuwuhanishe ibihano bikaze. Mu by'ukuri ibyo byaranditswe mu gitabo (gikubiyemo ibizaba).

59. Nta n'ikindi kitubuza kohereza ibitangaza (abahakanyi basaba), uretse kuba abo hambere (barabisabye) bakabihakana (nuko tukabarimbura; bityo n'abandi babihawé bakabihakana twabarimbura). Kandi twahaye abantu bo mu bwoko bwa Thamudu ingamiya ari igitangaza kigaragara, nuko baraghinyura (iyo ngamiya barayica). Ndetse nta kindi gituma twohereza ibitangaza bitari ukuburira (abantu) no kubatinyisha (ibihano by'Imana).

أَوْلَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمْ  
أَوْسِيلَةً أَيْمُونَ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَةً  
وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ وَإِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا

٥٧

وَإِنْ مِنْ قَرِيبَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ بَوْمِ الْقِيَمَةِ أَوْ  
مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ

مسطوراً ٥٨

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ تُرِسْلَ إِلَيْآيَتٍ إِلَّا أَنَّ كَذَبَ بِهَا  
الْأَوَّلُونَ وَإِنَّا نَهُوذُ إِلَيْآتَهُ مُبَصِّرَةً فَظَلَمُوا لِيَهَا  
وَمَا نُرِسْلُ إِلَيْآيَتٍ إِلَّا تَخْوِيفًا

٥٩

60. Ibuka (yewe Muhamadi) ubwo twakubwiraga tuti “Mu by'ukuri Nyagasan i wawe azi abantu byimazeyo (abafiteho ubushobozi bwose). Kandi ibyo twakweretse (mu rugendo rw'ijoro wakoze ujya i Yeruzalemu no mu Ijuru), twabigize ikigeragezo ku bantu (kugira ngo dutandukanye abemeramana n'abahakanyi), ndetse n'igitu cyavumwe (kivugwa) muri Qur'an (na cyo twakigize ikigeragezo ku bantu). Turababurira tukanabatinyisha (ibihano), ariko nta cyo bibongerera uretse kurushaho kwigomeka.”

61. Kandi wibuke ubwo twabwiraga Abamalayika tuti “Nimwubamire Adamu”, nuko bakubama bose uretse Ibilisi (Shitani) wavuze ati “Ese nakubamira uwo waremye mu ibumba?”

62. (Shitani) aravuga ati “Ntureba uyu wubahishije kundusha, nuramuka undetse nkakomeza kubaho kugeza ku munsi w'imperuka, rwose nzigarurira urubyaro rwe (nduyobye) uretse bake (muri bo)!”

وَإِذْ قُنَّا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلَنَا  
أَرْءِيَالَتِي أَرْيَنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةُ  
الْمُلْعُونَةُ فِي الْقُرْءَانِ وَخُوَفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ  
إِلَّا طُغِيَّنَا كَيْرًا ﴿٦﴾

وَإِذْ قُنَّا لِلْمَلَائِكَةِ أَسْجَدُوا لِلَّادَمَ فَسَجَدُوا  
إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ إِنَّمَا أَسْجَدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿٦﴾

قَالَ أَرْعَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمَتَ عَلَيَّ لِي  
أَخْرَتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَسِكَنَ ذُرِّيَّتِهِ  
إِلَّا أَقِيلَا ﴿٦﴾

63. (**Allah**) aravuga ati “Genda! Uzagukurikira muri bo, mu by'ukuri umuriro wa Jahanama uzaba ari cyo gihembo cyanyu mwese; igihembo gikwiye.”

64. “Uzigarurire abo ushoboye muri bo ukoresheje ijwi ryawe, maze ubakoranyirize ingabo zawe zigendera ku ifarasi n'izigenza amaguru, wifatanye na bo mu mitungo (ubashishikariza kuyishaka mu nzira zaziririjwe) n'abana (ubashishikariza kubabyara mu nzira zitemewe), kandi ubahe amasezerano (y'ibinyoma). Ariko ibyo Shitani asezeranya ni ibishuko.”

65. “Mu by'ukuri abagaragu banjye (b'abemeramana nyakuri) nta bushobozi uzabagiraho. Kandi Nyagasan wawe arahagije kuba umurinzi.”

66. Nyagasan wanyu ni We ubagenzereza amato mu nyanja, kugira ngo mushakishe ingabire ze. Mu by'ukuri ni Nyirimpuhwe kuri mwe.

67. Kandi iyo ingorane zibagezeho muri mu nyanja, ibyo musenga (ibigirwamana) birabura mukibuka **Allah** wenylene. Ariko iyo abarokoye akabageza i musozi,

قَالَ أَذْهَبْ فَمَنْ تَعَلَّكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ  
جَزَءٌ مِّنْ جَزَاءِ مَوْفُورًا ﴿٦٣﴾

وَاسْتَقْرِرْ مَنِ اسْتَطَعَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ  
وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلَكَ وَرَحْلَكَ وَشَارِكُهُمْ فِي  
الْأَمْوَالِ وَالْأُولَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمْ  
الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿٦٤﴾

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى  
بِرَبِّكَ وَكَيْلَا ﴿٦٥﴾

رَبُّكُمُ الَّذِي يُنْهِي لَكُمُ الْفُلُكَ فِي الْبَحْرِ  
لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا  
﴿٦٦﴾

وَإِذَا مَسَكُوكُ الْضُّرُّ فِي الْبَحْرِ حَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا  
إِيَاهُ فَلَمَّا تَجْلَمَكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِسْكُنْ  
كَفُورًا ﴿٦٧﴾

muramwirengagiza. Rwose umuntu ni indashima.

68. Ese mwibwira ko mutekanye ku buryo (**Allah**) atabarigitisha mu butaka cyangwa ngo aboherereze inkubi y'umuyaga uvanze n'amabuye, maze ntimubone ubatabara?

69. Cyangwa mwibwira ko mutekanye ku buryo atabasubiza mu nyanja bwa kabiri, akaboherereza inkubi y'umuyaga, ukabaroha kubera ubuhakanyi bwanyu? Hanyuma ntimugire utubaza impamu twabahannye.

70. Kandi rwose twubahishije bene Adamu tubashoboza kugenda i musozi no mu nyanja, tubaha amafunguro meza, ndetse tunabarutisha byinshi mu byo twaremye.

71. (Unibuke) umunsi tuzahamagara buri tsinda ry'abantu riri kumwe n'umuyobozi waryo (ryakurikiraga ku isi). Bityo, abazahabwa igitabo cyabo (gikubiyemo ibikorwa bakoze) mu kuboko kw'iburyo, bazasoma igitabo cyabo (bishimye), kandi ntibazahuguzwa kabone n'yo byaba ikingana n'akadodo ko mu rubuto rw'itende.

أَفَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُلِّ جَانِبِ الْبَرِّ أَوْ يُرِسِّلَ

عَلَيْكُمْ حَاصِبَاتٌ لَا يَتَبَدَّلُ الْكَوْكَبُ وَكَيْلًا

أَمْ أَمْنَتُمْ أَنْ يُعِيدَ كُلُّ فِيهِ تَارَةً لِّخَرَىٰ فَيُرِسِّلَ

عَلَيْكُمْ قَاصِفَاتٌ مِّنَ الرِّيحِ فَيُغَرِّقُ كُمْ بِمَا كَفَرُتُمْ ثُمَّ لَا

يَتَبَدَّلُ الْكَوْكَبُ عَلَيْنَا بِهِ تَبِعًا

\* وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ إَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ

وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ

عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَقْضِيَلًا

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أَنْاسٍ بِإِامَمِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ

كِتَابَهُ وَيَمِينَهُ فَأُولَئِكَ يَقْرُؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا

يُظْلَمُونَ فَتَيَلًا

72. N'uzaba ari impumyi (y'umutima) kuri iyi si (atabona ububasha bw'Imana ngo ayemere), no ku mperuka azaba ari impumyi (atabona inzira imuganisha mu ijuru), kandi azanarushaho kuyoba iyo nzira.

73. Mu by'ukuri (yewe Muhamadi, ababangikanyamana) bendaga kugutesha ibyo twaguhishuriye (Qur'an), kugira ngo uduhimbire ibindi bitari yo; ubwo (iyo ubikora) bari kukugira inshuti magara.

74. Kandi iyo tutaza kugukomeza, rwose wari hafi gato yo kubabogamiraho.

75. Iyo uza kubikora, twari kukumvisha ku bihano byikubye kabiri ku isi n'ibihano byikubye kabiri nyuma y'urupfu. Kandi ntiwari kubona umutabazi ukudukiza.

76. Kandi (abahakanyi) bari hafi yo kugutera guhunga igihugu (cyawe cya Maka, kubera guhora bagutoteza) kugira ngo bakigucemo (bakumeneshe). Ariko n'yo baramuka babikoze, na bo ntibari kukibamo nyuma yawe, uretse igihe gito (kuko twari kubarimbura).

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ  
أَعْمَى وَأَضَلُّ سَيِّلًا

٧٣

وَإِنْ كَادُوا لِيَفْتَنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوحَيْنَا  
إِلَيْكَ لِتَفَرَّقَ عَلَيْنَا غَيْرُهُ وَإِذَا لَأْتَهُمْ  
خَلِيلًا

٧٤

وَلَوْلَا أَنْ شَبَّثْنَاكَ لَقَدِ كَدَّ تَرَكْنَ إِلَيْهِمْ شَيْئًا  
قَلِيلًا

٧٥

إِذَا لَأَذْقَنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ  
ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا

٧٦

وَإِنْ كَادُوا لِيَسْتَرُونَكَ مِنِ الْأَرْضِ  
لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَأَيْلَكُونَ خَلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا

٧٧

77. Ibyo (byo kurimbura abamenesha Intumwa zabo) byari umugenzo ku ntumwa zazu twohereje mbere yawe, kandi umugenzo wacu ntuzigera uhinduka.

78. Ujye uhozaho iswala (za ngombwa) ku manywa kuva izuba rirenze mu kirere hagati (ari cyo gihe cy'iswala ya Adhuhuri n'iya Al'aswiri), kugeza haje umwijima w'ijoro (ari cyo gihe cy'iswala ya Magharibi n'iya Al Isha-u). Ujye unasoma Qur'an igithe umuseke utambitse (iswala ya Al Fajr). Mu by'ukuri Qur'an (isomwa mu iswala yo) mu museke iba yitabiriwe (n'abamalayika b'amanywa n'ab'ijoro).

79. Kandi na nijoro ujye uyisoma (Qur'an) mu iswala yo mu gicuku (Tahajudi) nk'iswala y'innyongera kuri wowe (Muhamadi), kugira ngo Nyagasani wawe azakuzure uri mu rwego uzashimirwa.

80. Kandi (yewe Muhamadi) ujye uvuga uti "Nyagasani wanjiye! Mpa kwinjira kwanjiye (mu mujyi wa Madina) kube kwiza, kandi no gusohoka kwanjiye (mu mujyi wa Maka) kube kwiza. Unanshyigikize imbaraga ziguturutseho."

سُنَّةً مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا بَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا  
تَحْمِلْ لِسْبِتَنَا تَحْمِيلًا

٧٧

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى عَسْقِ الْيَلِ  
وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ فُرَءَانَ الْفَجْرِ كَانَ  
مَشْهُودًا

٧٨

وَمِنْ الْيَلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ  
يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا

٧٩

وَقُلْ رَبِّ أَذْخُلْنِي مُدْخَلَ صَدَقٍ وَلَخِينِي  
مُخْرَجَ صَدَقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا  
نَصِيرًا

٨٠

81. Unavuge uti “Ukuri (Idini rya Isilamu) kwaraje ikinyoma (ibangikanyamana) kirayoyoka. Mu by'ukuri ikinyoma kizahora kiyoyoka.”

82. Kandi twahishuye Qur'an ari umuti ikaba n'impuhwe ku bemeramana, nyamara nta cyo yongerera inkozi z'ibibi uretse igihombo.

83. N'yo tumuhundagajeho zazu, arirengagiza akishyira kure (y'amategeko yacu), ariko ikibi cyamugeraho akiheba cyan.

84. Vuga uti “Buri wese akora mu buryo bwe, ariko Nyagasani wanyu ni We uzi neza uwayobotse inzira y'ukuri.”

85. Baranakubaza (yewe Muhamadi) ku bijyanye na roho. Vuga uti “Ubumenyi bw'ibya roho bwihariwe na Nyagasani wanjye. Kandi (mwe abantu) mwahawwe ubumenyi buke.”

86. N'yo tuza kubishaka, twari kukwambura ibyo twaguhishuriye (Qur'an), kandi ntiwari kubona ukurengera ngo abitubuze.

وَقُلْ جَاءَ الْحُقْ وَزَهَقَ الْبَطْلُ إِنَّ الْبَطْلَ كَانَ زَهْوَكَا

۸۱

وَنَزَّلْ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ  
لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

۸۲

وَإِذَا آنَعْنَا عَلَى الْأَنْسَنِ أَعْرَضَ وَنَعَّا بِحَابِبِهِ  
وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرْكَانَ يَعُوْسَا

۸۳

فُلُكُلُ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ  
أَهْدَى سِيَّلَا

۸۴

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّيِّ وَمَا  
أُوتِيَتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قِيلَا

۸۵

وَلَئِنْ شِئْنَا لَنْذَهَنَّ بِالْأَنْزِيَ أَوْ حِينَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ  
لَكَ بِهِ عَيْنَانَا وَكِيلَا

۸۶

87. (Ariko) kubera impuhwe za Nyagasan wawe (yayishimangiyen mu mutima wawen). Mu by'ukuri ingabire ze kuri wowe zirahambaye.

إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ

كَيْرَكَ  
AV

88. Vuga (yewe Muhamadi) uti "N'iyo abantu n'amajini baza kwishyira hamwe ngo bazane igisa nk'iyi Qur'an, ntibari kuzana igisa na yo, kabone n'iyo baza kwifatanya."

قُلْ لِئِنْ أَجْتَمَعَتِ الْأَنْسُ وَالْجُنُونُ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا  
۲۸

89. Kandi rwose buri rugero (rugaragaza ko Imana iriho kandi ari na yo yonyine ikwiye gusengwa) twarusobanuriye abantu muri iyi Qur'an, nyamara abenshi mu bantu baranze barahakana.

وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْءَانِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَيْأَ كُثُرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا

90. Maze baravuga batii "Ntidushobora kukwemera (yewe Muhamadi) keretse utuvuburiye isoko y'amazi mu butaka."

وَقَالُوا لَنَ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا

91. "Cyangwa ukaba uftite ubusitani bw'imitende n'ubw'imirabibu, maze ukavuburamo imigezi itemba hagati yabwo."

أَوْتَكُورَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعَنْبٍ فَتَفْجِرَ الْأَنْهَرَ خَلَلَهَا تَفْجِيرًا  
۹۱

92. "Cyangwa ukatugushaho ikirere ibice bice, nk'uko ubyibwira, cyangwa se ukatuzanira Allah n'abamalayika tukababona imbonankubone."

أَوْسَقَطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنَا كَسْفًا أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قِيلًا  
۹۲

93. "Cyangwa ukaba ufite inzu itatse zahabu, cyangwa ukazamuka mu kirere, kandi nta n'ubwo twakwemera izamuka ryawe utatumaniye igitabo (gihama) ko uri Intumwa) tukagisoma. Vuga (yewe Muhamadi) uti "Ubutagatifu ni ubwa Nyagasani wanje! Ese hari ikindi ndi cyo usibye kuba ndi umuntu watumwe?"

94. Nta n'ikindi cyabujije abantu kwemera ubwo umuyoboro wabageragaho, uretse kuvuga bati "Ese **Allah** yokohereza ikiremwamuntu ngo kibe Intumwa?"

95. Vuga (yewe Muhamadi) uti "N'iyo ku isi haza kuba (hatuye) abamalayika bagenda batuje, twari kubamanurira umumalayika uturutse mu kirere akababera Intumwa."

96. Vuga (yewe Muhamadi) uti "**Allah** arahagije kuba umuhanya hagati yanje namwe. Mu by'ukuri ni Uzi byimazeyo, akanaba Ubona abagaragu be bihebuje."

97. Kandi uwo **Allah** yashoboje kuyoboka ni we wayobotse nyabyo, ariko uwo yarekeye mu buyobe ntiyagira abatabazi batari We (**Allah**); ndetse tuzanabazura ku munsi

أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ بُخْرُفٍ أَوْ تَرَقَ فِي السَّمَاءِ  
وَلَكَ نُؤْمِنَ لِرُقِيقٍ حَتَّى تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا  
نَقْرُوهُ وَقُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا

رَسُولًا ﴿٢٣﴾

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا  
أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا سُولَّا ﴿٩٦﴾

قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلِكٌ كَيْمَشُونَ مُطَمِّئِنٌ  
لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلِكًا كَارَسُولًا ﴿٩٥﴾

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بِيَنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ وَكَانَ  
بِعِبَادِهِ خَيْرًا بَصِيرًا ﴿٩٦﴾

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ أَمْهَدٌ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ يَجِدَ  
لَهُمْ أَوْلَاءِ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ

w'imperuka bagenza uburanga bwabo, ari impumyi, ibiragi, ndetse n'ibipfamatwi. Ubuturo bwabo buzaba umuriro wa Jahanamu. Buri uko ugabanyije imbaraga tuzajya tuwongererera ubukana.

98. Icyo ni cyo gihano cyabo kubera ko bahakanye amagambo yacu bakavuga bat "Ese (nitumara gupfa) tugahinduka amagufa n'ubuvungukira, tuzazurwa tube ibiremwa bishya?"

99. Ese ntibabona ko Allah waremye ibirere n'isi ashoboye kurema abameze nka bo? Kandi (Allah) yabashyiriyeo igihe kidashidikanywaho (cyo kuzazurwa nyuma yo gupfa), ariko abahakanyi baranze bakomeza guhakana.

100. Vuga (ubwira abahakanyi) uti "Iyo muza kugira ibigega by'impuhwe za Nyagasani wanjye, mwari kugundira mutinya gushirirwa, kandi umuntu ahora ari umunyabugugu."

101. Kandi rwose Musa twamuhaye ibitangaza icyenda bisobanutse. Ngaho baza bene Isiraheli ubwo yabageragaho, maze Farawo akamubwira ati

وُجُوهُهُمْ عُمِيَا وَبَكَّا وَصُمَّا مَأْوِيهِمْ جَهَنَّمُ  
كُلَّمَا خَبَثَ زَدَنَاهُمْ سَعِيرًا

ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِعِيَاتِنَا وَقَالُوا إِذَا  
كُنَّا عَظَلَمًا وَرَفَتَنَا أَعْنَانَ لَمْبَعُوتُونَ خَلْقًا

جَدِيدًا ٩٨

\*أَوْلَئِرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ  
قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا  
رَبَّ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ٩٩

قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَرَبَنَ رَحْمَةَ رَبِّي إِذَا  
لَمَسْكُتُمْ حَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَنُ  
قَاتُورًا ١٠٠

وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا مُوسَى تِسْعَاءِيَتْ بِسَنَتِ فَسَعَلَ بَنِي  
إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءُهُمْ فَقَالَ لَهُمْ فِرْعَوْنُ إِنِّي  
لَأَظْلُمُكُمْ بِيَمْوَنِي مَسْحُورًا ١٠١

“Yewe Musa! Mu by'ukuri ndakeka ko warozwe.”

102. (Musa) aravuga ati “Rwose uzi ko ibi bitangaza nta wundi wabimanuye utari Nyagasanji w'ibirere n'isi, kugira ngo bibe gihamya (ko Imana ari imwe rukumbi). Kandi mu by'ukuri ndemeza ko wowe Farawo wamaze korama.”

103. Nuko (Farawo) ashaka kubaca mu gihugu (cya Misiri), maze turamuroha n'abari kumwe na we bose.

104. Nyuma ye twanabwiye bene Isiraheli tuti “Nimuture mu gihugu (cya Misiri ndetse na Shami), ubwo isezerano ry'umunsi w'imperuka rizaza, tuzabazana muri igihiriri (muri amahanga atandukanye).”

105. Twaranayihishuye (Qur'an) mu kuri kandi yamanutse irimo ukuri. Ndetsse nta kindi cyatumye tukohereza (yewe Muhamadi) bitari ukugira ngo utange inkuru nziza (yo kuzagororerwa ijuru ku bazakurikira ubutumwa bwawe) ukaba n'umuburizi (uburira abazahakana ubutumwa bwawe ko bazahanishwa igihano cy'umuriro).

قَالَ لَقَدْ عِلِّمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ  
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَارٍ وَلِئِنْ لَأَظْنَنَّ

يَفْرَغُونُ مَثْبُورًا ﴿١٣﴾

فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِرُّهُمْ مِنْ الْأَرْضِ فَأَعْرَقْنَهُ  
وَمَنْ مَعَهُ وَجَيْعَانًا ﴿١٤﴾

وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لَيْسَ إِسْرَائِيلُ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا  
جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ حَتَّنَا كُمْ لَفِيقًا ﴿١٥﴾

وَبِالْحِقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحِقِّ نَزَّلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا ﴿١٦﴾

وَنَذِيرًا ﴿١٧﴾

106. Kandi Qur'an twayihishuye mu bice bice kugira ngo uyisomere abantu buhoro buhoro (babashe kuyisobanukirwa).

Twanayihishuye mu byiciro (mu myaka makumyabiri n'itatu).

107. Vuga (yewe Muhamadi) uti "Nimuyemere cyangwa ntimuyemere! Mu by'ukuri abahawe ubumenyi mbere yayo (Qur'an), iyo bayisomewe baca bugufi bakubama",

108. Bakavuga batii "Ubutagatifu ni ubwa Nyagasani wacu! Rwose isezerano rya Nyagasani wacu rirasohoye."

109. Banubamira (**Allah**) barira, bikabongerera kwibombarika.

110. Vuga (yewe Muhamadi) uti "Mwasaba muvuga (izina) **Allah** cyangwa muvuga Rahmani, izina iryo ari ryo ryose mwakoresha mumusaba (byose ni kimwe), kuko afite amazina meza." No mu isengesho ryawe ntukarangurure ijwi cyangwa ngo urimanure; ahubwo ujye uba hagati aho.

وَقُرْءَانًا فَرَقَنَهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكَثٍ وَنَزَّلَهُ  
تَنْزِيلًا

قُلْ إِيمُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أَوْفُوا الْعِلْمَ مِنْ  
قَبْلِهِ إِذَا أُتْلِيَ عَلَيْهِمْ يَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا

وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدَ رَبِّنَا مَفْعُولًا

وَيَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا

قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّاً مَا تَدْعُوا فَلَهُ  
الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَخَافِتْ  
بِهَا وَابْتَغِ يَنِّي ذَلِكَ سَيِّلًا

111. Unavuge uti “Ishimwe n’ikuzo byuzuye ni ibya Allah, We utagira umwana, ntagire uwo babangikanye mu bwami bwe, ndetse ntanagire umurinda kuko atajya agira intege nke.” Ujye unamuha ikuzo rihambaye.

وَقُلْ أَحْمَدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيكٌ  
فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الْأَذْلِ وَكَبُرَةُ تَكْبِيرٍ



### 18 - SURAT AL KAH'FU

(UBUVUMO)

*Yahishuriwe i Maka, igizwe n’imirongo 110.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Ishimwe n’ikuzo byuzuye ni ibya Allah, We wahishuriye umugaragu we (Muhamadi) igitabo (Qur'an), hanyuma ntiyagishyiramo amayobera (ayo ari yo yose).

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ دِعْوَةً

ۚ

2. (Yakigize igitabo) kigororotse kugira ngo kiburire (abahakanyi) ibihano bikomeye bituruka kuri We (Allah), ndetse no kugira ngo gihe inkuru nziza abemeramana; ba bandi bakora ibikorwa byiza, ko bazagororerwa ibihembo byiza (Ijuru),

فِيمَا لَيُنَذِّرَ بَاسَّا شَدِيدًا مِّنْ لَدُنْهُ وَيَبْشِّرُ  
الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ  
لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا

ۖ

3. Bazabamo ubuziraherezo.

مَلِكِيْنَ فِيهِ أَبْدَأً ﴿٢﴾

4. No kugira ngo kiburire ba bandi bavuga ko **Allah** agira umwana.

وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَاتَلُوا أَخْذَنَ اللَّهَ وَلَدَاهُ ﴿٤﴾

5. Baba bo ndetse n'abakurambere babo, nta bumenyi babifitiye. Ni ijambo rihambaye risohoka mu minwa yabo (ko **Allah** afite umwana)! Ibyo bavuga ni ibinyoma.

مَا أَلَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا إِلَبَآءِهِمْ كَبُرَتْ كَلْمَةٌ

تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴿٥﴾

6. (Yewe Muhamadi) ushobora kuzicwa n'agahinda ku bwo gutera umugongo kwabo (bitandukanya nawe), kuko batemera iby'iyi nkuru (Qur'an).

فَعَلَّاكَ بِذِيْخٍ نَفْسَكَ عَلَىَّ إِثْرِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا

بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسْفًا ﴿٦﴾

7. Mu by'ukuri ibiri ku isi twabigize umutako wayo kugira ngo (abantu) tubagerageze, maze tugaragaze abarusha abandi gukora ibikorwa byiza.

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَىَّ الْأَرْضِ زِيَّةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ

إِيمَّهُمْ أَحَسَنُ عَمَلاً ﴿٧﴾

8. Kandi mu by'ukuri ibiyiraho (isi) tuzabigira imbuga nsa.

وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴿٨﴾

9. Ese ukeka ko abantu bo mu buvumo n'urubaho rwanditsweho (amazina yabo) byari igitangaza mu bigize ibimenyetso byacu?

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا

مِنْ إِيمَّتِنَا بَعْدًا ﴿٩﴾

10. Ibuka ubwo abasore bahungiraga mu buvumo, bakavuga bati "Nyagasani wacu! Duhundagazeho impuhwe

إِذَا أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا

مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةٌ وَهَيْئَ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشْدًا ﴿١٠﴾

ziguturutseho, unaduhe  
gutungana mu byo dukora."

11. Maze tubapfuka amatwi  
(turabasinzipira cyane, baguma)  
mu buvumo imyaka myinshi.

فَضَرَبَنَا عَلَىٰ إِذَا نَهَمُ فِي الْكَهْفِ سِينِينَ

عَدَدًا

12. Hanyuma turabakangura  
kugira ngo mu matsinda abiri  
(yagiye impaka ku gihe bamaze  
mu buvumo), tumenye  
iryabashije kumenya igihe  
bamazemo kurusha irindi.

ثُمَّ بَعْثَنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَئِ الْحَرِيقَنَ أَحْصَى لِمَا

لِسْتُوا أَمْدَادًا

13. Turagutekerereza inkuru  
yabo mu kuri. Rwose, bari  
abasore bemeye Nyagasani  
wabo, nuko tubongerera  
ukuyoboka.

نَحْنُ نَقْصُ عَلَيْكَ نَبَاهُ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فَتَيَّةٌ

إِمَانُوا بِرَبِّهِمْ وَزَدَنَهُمْ هُدًى

14. Twanakomeje imitima yabo  
ubwo bahagurukaga (imbere  
y'umwami wabo w'umuhakanyi)  
bakavuga bati "Nyagasani wacu  
ni Nyagasani w'ibirere n'isi,  
ntituzigera tugaragira indi mana  
itari We; turamutse tubikoze,  
rwose twaba tuvuze imvugo  
y'ubuyobe."

وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنَّنَا دُونَهُ إِلَيْهَا

لَقَدْ قُنْتَ إِذَا شَطَّطَ

15. Abo bantu bacu bahisemo  
kugaragira izindi mana zitari We  
(Allah). Kuki zitajya zibazanira  
ibimenyetso bigaragara (ngo  
zerekane ko ari imana koko)?  
Ese ni nde munyabyaha  
kurusha uhimbira Allah  
ikinyoma?

هَؤُلَاءِ قَوْمًا أَخْنَدُوا مِنْ دُونِهِ اللَّهُ لَوْلَا

يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَنٍ بَيْنِ فَمَنْ أَظْلَمُ مَمْنَ

أَفْتَرَى عَلَىٰ اللَّهِ كَذِبًا

16. (Ba basore barbwirana bat) “Nimuza gutandukana na bo n’ibyo basenga bitari **Allah**, muhungire mu buvumo, Nyagasanis wanyu azabahundagazaho impuhwe ze, anaborohereze ibyababayeho.”

17. Kandi iyo izuba ryarasaga wabonaga ribogamira iburyo bw’ubuvumo bwabo, ryaba rirenga rikabajya kure ahagana ibumoso (kugira ngo ritabatwika); kandi bari ahisanzuye muri ubwo buvumo. Ibyo ni bimwe mu bitangaza bya **Allah**. Kandi uwo **Allah** yashoboje kuyoboka ni we wayobotse nyabyo, ariko uwo yarekeye mu buyobe ntuzamubonera umurinzi umuyobora.

18. (N’yo wababonaga) wakekaga ko bari maso kandi basinziriye. Tukabahindukiza iburyo n’ibumoso (kugira ngo ubutaka butonona imibiri yabo), naho imbwa yabo yabaga irambuye amaboko ku bwinjiriro (imeze nk’ibarinze). Iyo uza kubabona wari guhindukira ubahunga, kandi rwose wari kubagirira uwoba.

19. Uko ni na ko twabakanguye (tubakuye mu bitotsi by’igihe kirekire) kugira ngo babazanye. Umwe muri bo aravuga ati

وَإِذْ أَعْتَرْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ فَأَوْفُوا  
إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ  
وَيَهْيَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَقًا ﴿١٦﴾

\* وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَ تَزَوَّرُ عَنْ  
كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا عَرَبَتْ نَقْرَضُهُمْ  
ذَاتَ السِّمَاءِ وَهُمْ فِي فَجُوَّةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ  
ءَاءِكَيْتَ اللَّهُ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهَدَّدُ وَمَنْ  
يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ﴿١٧﴾

وَتَخَسِّبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُؤُوفُونَ وَقَلِيلُهُمْ ذَاتَ  
الْيَمِينِ وَذَاتَ السِّمَاءِ وَكَبُوْهُمْ بَكِسْطُ دِرَاعِيهِ  
بِالْوَصِيدِ لَوْ اطَّلَعَتْ عَلَيْهِمْ لَوْلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا  
وَلَمْلِيَّتَ مِنْهُمْ رُعَبًا ﴿١٨﴾

وَكَذَلِكَ بَعْثَنَهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ  
قَابِلُهُمْ كَمْ لِيَشْتُمُ قَالُوا لِيَشَانَا يَوْمًا أَوْ يَعْضَ

"Mumaze igihe kingana iki (aha)?" (Bamwe) baravuga bati "(Dushobora kuba) tumaze umunsi cyangwa igice cy'umunsi." (Abandi) baravuga bati "Nyagasani wanyu ni we uzi neza igihe mumaze (aha)." Ngaho nimwohereze umwe muri mwe mu mujyi ajyane iki giceri cyanyu cya Feza, arebe ibiryo byiza kurusha ibindi maze abazaniremo amafunguro. Kandi yitwararike ntatume hagira ubamenya n'umwe.

20. Mu by'ukuri nibaramuka babamenye bazabatera amabuye cyangwa babasubize mu idini ryabo; kandi (nimubikora) ntimuzigera mukiranuka.

21. Uko ni na ko twaberetse (abantu b'icyo gihe) kugira ngo bamenye ko isezerano rya Allah (ryo kuzazura abapfuye) ari ukuri, kandi ko mu by'ukuri imperuka izabaho nta gushidikanya. (Wibuke) ubwo (abantu bo mu mujyi) bajyaga impaka ku byerekeye abo (bantu bo mu buvumo), bamwe bakavuga bati "Nimwubake inyubako (imbere y'ubwinjiriro bw'ubuvumo bwabo)"; Nyagasani wabo ni We uzi neza ibyabo. Naho abarushije abandi ijambo (muri bo) baravuga bati

يَوْمَ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَيَتُّمْ فَأَبْعَثُوا  
أَحَدَكُمْ بِرَقِيقًا مَّهَذِهَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَيَنْظُرْ  
إِيَّاهَا أَزْكَى طَعَامًا فَإِنَّا إِنَّكُمْ بِرِزْقِنَا  
وَلَيَسْتَأْطُفْ وَلَا يُشَعِّرُنَّ بِكُمْ أَحَدًا

إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ  
يُعِيدُوكُمْ فِي مَلَتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا  
أَبْدَأُوكُمْ

وَكَذَلِكَ أَعْرَنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ  
اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَارِيبٌ فِيهَا إِذْ يَتَنَزَّعُونَ  
بِيَنْهُمْ أَمْرُهُمْ فَقَالُوا أَبْنُوا عَلَيْهِمْ بُيْتَنَا  
رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَبَوْا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ  
لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسِيْدًا

“Rwose aho bari bari tuzahagira urusengero.”

22. (Bamwe mu bahawe igitabo) bazavuga batu “Bari batatu n’imbwa yabo ikaba iya kane; naho (abandi) bavuge batu “Bari batanu n’imbwa yabo ikaba iya gatandatu, (ibyo) ari ugukekeranya ku byo batazi”; (abandi na bo) bavuge batu “Bari barindwi n’imbwa yabo ikaba iya munani.” Vuga (yewe Muhamadi) uti “Nyagasani wanje ni We uzi byimazeyo umubare wabo”; ntawe uzi umubare wabo (nyakuri) uretse bake. Bityo ntukajye impaka ku bijyanye (n’umubare wabo) keretse bya nyirarureshwu), kandi ntuzagire n’umwe (mu bahawe igitabo) ubaza inkuru yabo (kuko nta yo bazi).

23. Kandi rwose ntuzagire icyo ari cyo cyose uvuga (wemeza) uti “Nzagikora ejo”,

24. Keretse (wongeyeho ijambo rigira riti) ‘Allah nabishaka’. Kandi ujye usingiza Nyagasani wawe igihe wibagiwe (kuvuga uti “Allah nabishaka”), unavuge uti “Hari ubwo Nyagasani wanje yanyobora inzira ziri hafi cyane (y’iyi nkuru y’abantu bo mu buvumo) zo kuyoboka.”

سَيَقُولُونَ تَلَاثَةٌ رَّأَيْهُمْ كُلَّهُمْ وَيَقُولُونَ  
 حَمْسَةٌ سَادُسُهُمْ كُلَّهُمْ رَّبِّهِمْ بِالْغَيْبِ  
 وَيَقُولُونَ سَبَعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كُلَّهُمْ قُلْ رَّبِّ الْعَالَمِ  
 يَعِدُّهُمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا  
 مِرَاءً ظَهِيرًا وَلَا تَسْتَقْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَأْيِئٍ فَاعْلُمْ ذَلِكَ غَدَّاً ﴿٢٣﴾

إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَأَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيَتْ  
 وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّ لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا

25. Kandi bamaze mu buvumo bwabo imyaka magana atatu yiyongeraho (imyaka) icyenda.

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَأَرْدَادُوا

٢٥ تِسْعَةٌ

26. Vuga (yewe Muhamadi) uti “**Allah** ni We uzi neza igihe bamaze (mu buvumo).” Ni We uzi ibitagaragara byo mu birere n’ibyo mu isi. Mbega ukuntu abona neza bitangaje akanumva (buri kintu)! Nta mugenga wundi bafite utari We (**Allah**), kandi nta we bafatanyije mu guca iteka.

قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ عَيْنُ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ أَبْصَرَ بِهِ وَأَسْمَعَ مَا لَهُمْ مِنْ  
دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشِّرِّكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا

٢٦

27. Unasome ibyo wahishuriwe mu gitabo cya Nyagasanii wawe (yewe Muhamadi). Ntawahindura amagambo ye, kandi nta handi wabona ubuhungiro hatari iwe.

وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ  
لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ يَخْدَمَ مِنْ دُونِهِ مُتَّحِدًا

٤٧

28. Ujye unihanganira kugumana na ba bandi (b’abakene) basenga Nyagasanii wabo igitondo n’ikigoroba, bashaka kwishimirwa na We, ndetse ntukabirengagize (wita ku bikomerezwa)<sup>130</sup> ushaka guha agaciro imitako y’ubuzima bwo ku isi. Kandi ntukumvire uwo twarekeye umutima we mu burangare maze agakurikira irari rye, nuko ibye bikaba kurengera.

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ  
بِالْغَدَوَةِ وَالْعَشِّيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا نَعْدُ  
عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطْعِنَ  
مَنْ أَغْفَلْتَ أَقْبَهُ وَعَنْ ذِكْرِنَا وَأَتَّبَعَ هَوَنَهُ وَكَانَ أَمْرُهُ

فُرُطَا

<sup>130</sup> Uyu murongo wahishuwé kubera ibikomerezwa by’abakurayishi, babwiye Intumwa y’Imana (Muhamadi) bati “Niba ushaka ko tukuyoboka, banza wirukane abo bakene bakuyobotse”

29. Unavuge (yewe Muhamadi) uti “Uku ni ukuri guturutse kwa Nyagasani wanyu; bityo uzashaka azemere n’uzashaka azahakane.” Mu by’ukuri twateguriye abahakanyi umuriro, bazaba bagoswe n’ibirimi byawo. Kandi nibatabaza (basaba icyo kunywa), bazahabwa amazi yatuye nk’umushongi w’icyuma, uzabatwika uburanga. Kizaba ari ikinyobwa kibi n’ubuturo bubi!

30. Mu by’ukuri ba bandi bemeye bakanakora ibikorwa byiza, rwose ntitezaburizamo ibihembo by’uwakoze ibikorwa bye neza.

31. Abo ni bo bazagororerwa ijuru rihoraho, imigezi itemba munsi yabo. Bazanambikwa muri ryo imitako ya zahabu (ku maboko), banambare imyambaro y’icyatsi kibisi ikozwe mu ihariri yorohereye n’iremereye, begamye ku bitanda bitatse. Bizaba ari ibihembo byiza n’ubuturo bwiza!

32. Unabahe urugero rw’abantu babiri (umwemera n’umuhakanyi); umwe muri bo (umuhakanyi) twamuhaye imirima ibiri y’imizabibu, tunayizengurutsa imitende,

وَقُلْ لِّلْحُقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلِيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفِرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سَرَادُقُهَا وَإِنْ يَسْتَغْيِثُوا يُعَذَّبُوا بِمَا إِلَيْهِمْ كَلِمُهُلْ يَشْوِي الْوُجُوهَ يَسْسَ الْشَّرَابَ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَنُضِيعُ لَجَرَمِنَ أَحْسَنَ عَمَلاً

أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبِسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَرْقِيْ مُتَّكِيَّنَ فِيهَا عَلَى الْأَرَأَيِّكَ يَعْمَلُونَ التَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا

\*وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّاتَيْنِ مِنْ أَعْنَبٍ وَحَفَنَهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَعْدًا

maze hagati yayo dushyiramo ibihingwa (bitandukanye).

33. Iyo mirima yombi yeze neza ntiyarumba, tunashyira umugezi hagati yayo.

34. Kandi (uwo muhakanyi) yari afite imitungo (myinshi), nuko abwira mugenzi we (w'umwemera) amuganiriza ati “Njye nkurusha umutungo nkanakurusha umuryango.”

35. Nuko (uwo muhakanyi) ynjira mu murima we arihemukira (kubera kutemera no kwirata), agira ati “Sinkeka ko ibi bizigera bishira!”

36. Kandi sinkeka ko imperuka izigera ibaho! Ndetse inabaye ngasubizwa kwa Nyagasani wanjye, rwose nzasangayo ibyiza biruta ibi.

37. Mugenzi we (w'umwemera) amubwira amuganiriza ati “Ese urahakana uwakuremye mu gitaka (cyaremwemo umukurambere wawe Adam), hanyuma (akakurema) mu ntanga (z'ababyeyi), maze akagutunganya akakugira umuntu?”

38. Ahubwo ku bwanjye (uwakoze ibyo) ni Allah, Nyagasani wanjye, kandi ntawe

كُلَّا جَنَتَيْنِ إِنَّمَا أَكُلُّهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا  
وَفَجَرَنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا ﴿٣٣﴾

وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ إِصْحِحْهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَّ  
أَكَثُرُهُ مِنْكَ مَالًا وَأَعْزَزُهُ فَرِنْدًا ﴿٣٤﴾

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظْلَنْتُ أَنَّ  
تَيِّدَ هَذِهِ أَبَدًا ﴿٣٥﴾

وَمَا أَظْلَنْتُ السَّاعَةَ قَلِيمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي  
لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَبَاتًا ﴿٣٦﴾

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرَتِ بِاللَّهِي  
خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ فَمُنْ تُظْفَةٌ ثُمَّ سَوَّلَكَ رَجْلًا  
﴿٣٧﴾

لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبُّنَا وَلَا أَشْرِكُ بِرَبِّنَا أَحَدًا  
﴿٣٨﴾

nzigera mbangikanya na  
Nyagasani wanjye.

39. (Byari kuba byiza kuri wowe) iyo uza kwinjira mu murima wawe ugira uti “Ibi ni ibyo Allah yanshoboje! Nta cyo nakwishoborera ku bwanjye bitari ku bushobozi bwa Allah. N’ubwo ubona ndi munsi yawe mu mutungo n’abana”,

40. Hari ubwo Nyagasani wanjye yampa ibiruta umurima wawe, (maze uwawe) akawuteza ikiza giturutse mu kirere, maze ugahinduka imbuga nsa, inyerera.

41. Cyangwa amazi yawo (umurima) akarigita, ntuzashobore kuyagarura.

42. Nuko umurima we uterwa n’ikiza (kirawararika), maze asigara yimyiza imoso (abitewe n’agahinda) kubera ibyo yawutanzebo, (abonye ibihingwa) byagwiriranye aravuga ati “Iyo nza kuba ntarabangikanyije Nyagasani wanjye n’uwo ari we wese!”

43. Kandi ntiyigeze agira itsinda ry’abantu bamutabara (ngo bamurinde) ibihano bya Allah, ndetse na we ubwe ntiyashoboye kwitabara.

وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا

بِاللَّهِ إِنَّ تَرَنَّ أَذَقَّ مِنْكُمَا لَا وَلَدَأَ

فَعَسَى رَبِّيَ أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرِسَّ

عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَصُبِّحَ صَعِيدًا زَلَّا

أَوْ يُصْبِحَ مَأْوَاهَا عَوْرَاتِ فَلَنْ تَسْتَطِعَ لَهُ وَطَلَبَأَا

وَلْحِيطَ بِشَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيْهِ عَلَى

مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهَيْ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ

يَكِيَّتِنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرِّيَّتِيْ أَحَدًا

وَلَمْ تَكُنْ لَهُ وَفَغَةٌ يَضُرُّونَهُ وَمِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ

مُنْتَصِرًا

44. Mu bihe nk'ibyo, ubutabazi nyabwo buba ari ubwa **Allah**, Imana y'ukuri. Ni We uhebuje mu gutanga ingororano, ndetse ni na We uhebuje mu gutanga iherezo ryiza.

هُنَالِكَ الْوَلِيَّةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ حَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عَقْبًا

45. Bahe urugero rw'ubuzima bwo ku isi ko ari nk'amazi twamanuye mu kirere, akuhira ibimera byo ku isi (bigatohagira), ariko nyuma bikumagara, bigatumurwa n'umuyaga. Kandi **Allah** ni Ushobora byose.

وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءً أَنْ لَنْ يَهُ منَ

الْسَّمَاءَ فَاخْتَلَطَ بِهِ بَنَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا

تَذْرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقتَدِرًا ﴿٤٥﴾

46. Umutungo n'urubyaro ni imitako y'ubuzima bwo ku isi (buzarangira). Naho ibikorwa byiza bihoraho ni byo bitanga ingororano n'amizero meza kwa Nyagasani wawe.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيقَتُ

أَصْلَاحَتُ خَيْرٍ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلًا ﴿٤٦﴾

47. Unabibutse umunsi tuzakuraho imisozi, ukabona isi ishashe hose hagaragara, maze tukabakoranya bose nta n'umwe dusize.

وَيَوْمَ سُسِرُ الْبَيْلَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرَنَاهُمْ

فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿٤٧﴾

48. Bazanahagarikwa imbere ya Nyagasani wawe bari ku mirongo (babwirwe bat) "Rwose muje mudusanga (mumeze) nk'uko twabaremye bwa mbere, nyamara mwaribwiraga ko tutazasohoza isezerano (ryo kubazura no kubabarurira)."

وَعَرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّ الْقَدَحِ جَمِيعُهُمَا كَمَا خَلَقَنَكُمْ

أَوْلَ مَرَّةً بِكُلِّ زَعْمَتُمُ أَنَّنْ تَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ﴿٤٨﴾

49. Kandi buri wese azahabwa igitabo (cy'ibikorwa bye), maze ubone inkozi z'ibibi zitewe ubwoba n'ibigikubiyemo (bibi), nuko zivuge ziti "Mbega ukorama kwacu! Iki gitabo ni bwoko ki kidasiga (icyaha) gito n'ikinini kitakibaruye!" Bazanasanga ibyo bakoze byose birimo, kandi Nyagasan i wawe ntawe ajya arenganya.

50. Ibuka ubwo twabwiraga abamalayika tuti "Nimwubamire Adamu", nuko bakubama uretse Ibilisi (Shitani) wari umwe mu majini wigometse ku itegeko rya Nyagasan we. Ese ni gute mumugira inshuti we n'abamukomokaho mundetse, kandi ari abanzi banyu? Uko ni uguhitamo nabi kw'inkozi z'ibibi!

51. Ndema ibirere n'isi ntabwo (Ibilisi n'abamukomokaho) bari bahari, ndetse n'igihe nabaremaga (na bo ubwabo ntibari bahari). Kandi sinigeze nifashisha abayobya abandi.

52. Kandi (wibuke) umunsi (**Allah**) azavuga ati "Ngaho nimuhamagare abo mwambangikanyaga na bo mwibwira ko dufatanyije (kugira ngo babakize ibihano)." Bazabahamagara ariko ntibazabitaba, ndetse hagati

وَرُوْضَعَ الْكِتَبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا  
فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوْمَئِنَا مَالِ هَذَا الْكِتَبِ لَا  
يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كِبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنَهَا وَوَجَدُوا  
مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿٦﴾

وَإِذْ قُنَّا لِلْمَلَائِكَةِ أَسْجَدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا  
إِلْيَاسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ  
أَفْتَخَذُونَهُ وَدُرْسَتَهُ أُولَيَاءُ مِنْ دُونِهِ وَهُمْ  
لَكُمْ عَدُوٌّ فِي سَلْطَانِ الظَّالِمِينَ بَدَلَ ﴿٧﴾

\* مَا أَشَهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا  
خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَخَذِّلُ الْمُضِلِّينَ عَصْدًا ﴿٨﴾

وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شَرِكَاءِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ  
فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ  
مَوْبِقًا ﴿٩﴾

yabo tuzahashyira ikibaya (cyo mu muriro) tuzaborekeramo.

53. Inkozi z'ibibi zizanabona umuriro zimenye neza ko zigiye kuwugwamo, kandi ntizizabona aho ziuhungira.

54. Kandi rwose twagaragarije umuntu ingero zitandukanye muri iyi Qur'an (kugira ngo azikuremo amasomo), ariko umuntu ni umunyempaka kurusha ibindi biremwa byose.

55. Nta kindi cyabujije abantu kwemera no gusaba imbabazi Nyagasani wabo ubwo umuyoboro (Qur'an) wabageragaho, usibye (ubwibone bwabo no gusaba Intumwa) ko bagerwaho (n'ibihano) nk'ibyashyikiye abababanjirije, cyangwa bakagerwaho n'ibihano imbonankubone.

56. Kandi nta kindi gituma twohereza Intumwa uretse kugira ngo zigeze inkuru nziza (ku bantu) ndetse zinababurire. Naho ba bandi bahakanye, bajya impaka z'ibinyoma kugira ngo baburizemo ukuri. Kandi amagambo yanje ndetse n'ibyo (bihano) baburirwa babigize ibikinisho.

وَرَءَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَلُّوا نَهْمًا مُّوَاقِعُهَا وَلَمْ

يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِقًا ﴿٥﴾

وَلَقَدْ صَرَقْنَا فِي هَذَا الْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ

مَثَلٍ وَكَانَ إِلَيْهِنَّ أَكْثَرَ شَرِّيٍّ بَعْدَ لَهُ ﴿٦﴾

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ

وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيهِمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ

أُوْيَأْتَهُمُ الْعَذَابُ قُبْلًا ﴿٧﴾

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴿٨﴾

وَيُجَدِّلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَطِيلِ لِيُنَحْضُوا بِهِ

الْحَقُّ وَأَنْتَ حُذْوَاءِ آيَتِي وَمَا أَنْذُرُوا هُرُوفًا ﴿٩﴾

57. Ni nde nkodzi y'ibibi kurusha wa wundi wibukijwe amagambo ya Nyagasan i we maze akayatera umugongo, akanibagirwa ibyo amaboko ye yakoze? Mu by'ukuri twashyize ibipfuko ku mitima yabo kugira ngo batayisobanukirwa (Qur'an), ndetse tunaziba amatwi yabo. N'ubwo wabahamagarira kuyoboka (inzira y'ukuri), ntibazigera bayoboka na rimwe.

58. Kandi Nyagasan i wawe ni Uhebuje mu kubabarira ibyaha, Nyirimpuhwe. Iyo aza kubahora ibyo bakora, rwose yari kubihutishiriza ibihano, ariko bafite igihe (cyabo ntarengwa) batazigera babonera ubuhungiro.

59. Kandi n'iyi midugudu (y'abantu ba Loti na Hudu ndetse na Swalehe) twayoretse ubwo abayituye bakoraga ibibi. Kandi iyorekwa ryabo ryari ryarashyiriweho igihe ntarengwa.

60. Unibuke (yewe Muhamadi) ubwo Musa yabwiraga umukozi we ati "Sinzigera mpagarika urugendo ntageze ku masangano y'inyanja ebyiri cyangwa nkagenda imyaka n'imyaniko" (kugeza mpuye n'uwo nshaka).

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِرَ بِعَيْتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ  
عَنْهَا وَسِيَّ ما قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ  
أَكِنَّةً أَنْ يَقْرَئُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُّوا  
تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذَا بَدَأُوا

وَرَبُّكَ الْعَفْوُرُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْلَا حَذَّرْنَاهُمْ بِمَا  
كَسَبُوا لَعَجَلَ لَهُمُ الْعَذَابُ كُلَّ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنَّ  
يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْلًا

وَتِنَكَ الْقُرْيَىٰ أَهْلَكَنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلَنَا  
لِمَهْلِكَهُمْ مَوْعِدًا

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَّلَهُ لَا أَبْرُحُ حَقََّ ابْلُغُ مَجْمَعَ  
الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُّيَا

61. Nuko bageze ku masangano yazo, bahibagirirwa ifi yabo maze (ya fi ihinduka nzima) yifatira inzira yo mu nyanja.

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ يَئِنْهَا حُوتَهُمَا فَأَخْذَ  
سَيِّلَهُ وَفِي الْبَحْرِ سَرَّبَا ﴿٦١﴾

62. Nuko ubwo bari bamaze kuharenga, (Musa) abwira umukozi we ati “Tuzanire ifunguro ryacu ryo ku manywa, rwose twahuye n’umunaniro muri uru rugendo rwacu.”

فَلَمَّا جَاءَهُمْ قَالَ لِفَتَنَهُ إِنَّا عَدَمْنَا لَقَدْ لَقِينَا  
مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصِيبًا ﴿٦٢﴾

63. (Umukozi we) aramubwira ati “Uribuka ubwo twaruhukiraga ku rutare? Mu by’ukuri ni ho nibagiriwe (kukubwira ibya) ya fi kandi nta wundi wabinyibagije utari Shitani. Yafashe inzira y’inyanja mu buryo butangaje cyane!”

قَالَ أَرْءَيْتَ إِذْ أَوْيَنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيْتُ  
الْحُوتَ وَمَا أَنْسَيْنِي إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنَّ أَذْكُرُهُ  
وَلَأَخْذَ سَيِّلَهُ وَفِي الْبَحْرِ عَجَبًا ﴿٦٣﴾

64. (Musa) aravuga ati “Aho (byabereye) ni ho twashakaga.” Nuko basubira inyuma bagana iyo baturutse (kuri rwa rutare).

قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَتَّبِعُ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا  
قَصَصًا ﴿٦٤﴾

65. Nuko bahasanga umwe mu bagaragu bacu (Al Khidri) twahundagajeho impuhwe ziduturutseho, kandi twigishije ubumenyi budukomokaho.

فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا إِذِنَهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا  
وَعَلَمَنَهُ مِنْ لَدُنَنَا عِلْمًا ﴿٦٥﴾

66. Musa aramubwira ati “Ese ngukurikire kugira ngo unyigishe bimwe mu byo wigishijwe bijyanye no kuyoboka?”

قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَيْتَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا  
عِلْمَتْ رُشْدًا ﴿٦٦﴾

67. (Al Khidri) aravuga ati “Mu by'ukuri ntuzigera ushobora kunyihanganira (kubera ibyo uzabona nkora)!”

68. Ubundi se ni gute wakwihanganira ibyo udafitiye ubumenyi bwimbitse!”

69. (Musa) aravuga ati “**Allah** nabishaka uzasanga nihangana, kandi sinzigeru nigomeka ku mabwiriza yawe.”

70. (Al Khidri) aravuga ati “Niba rero uhisemo kunkurikira, ntugire icyo umbaza kugeza igihe nza kugira icyo nkikubwiraho.”

71. Nuko bombi baragenda. Bamaze kurira ubwato, (Al Khidri) arabutobora. (Musa) aramubaza ati “Ese ubwo ubutoboye kugira ngo ababurimo barohame? Rwose ukoze ikintu kibi cyane.”

72. (Al Khidri) aramusubiza ati “Sinakubwiye ko utazashobora kunyihanganira!”

73. (Musa) aramubwira ati “Ntumpore ibyo nibagiwe, kandi ntunanize ngo ungore mu rugendo turimo.”

قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِعَ مَعِيَ صَبَرًا ﴿٧٧﴾

وَكَيْفَ تَصِيرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحْكُمْ بِهِ خُبْرًا ﴿٧٨﴾

قَالَ سَتَجْدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي  
لَكَ أَمْرًا ﴿٧٩﴾

قَالَ فَإِنِّي أَتَبْعَثُنِي فَلَا تَسْعَنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أَحْدِثَ  
لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٨٠﴾

فَانْظَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكَبَا فِي السَّفِينَةِ حَرَقَهَا قَالَ  
أَحْرَقَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا  
﴿٨١﴾

قَالَ أَلَمْ أَقْلِ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِعَ مَعِيَ صَبَرًا ﴿٨٢﴾

قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي  
عَسْرًا ﴿٨٣﴾

74. Nuko bombi bakomeza urugendo kugeza ubwo bahuye n'umwana, maze (Al Khidiri) aramwica. (Musa) aramubwira ati “Wishe umuntu w'inzirakarengane utamuho耶 ko hari uwo yishe! Rwose ukoze amahano!”

75. (Al Khidiri) aramusubiza ati “Sinakubwiye ko utazashobora kunyihanganira!”

76. (Musa) aramubwira ati “Ningira icyo nkubaza nyuma y'ibi, ntukomezanye nanjye, rwose uraba ufite impamvu igaragara.”

77. Bombi baragenda bageze mu mudugudu bafunguza abawutuye ariko banga kubafungurira. Nuko bawusangamo urukuta rwenda guhirima (Al Khidri) ararwegura. (Musa) aravuga ati “Iyo ubishaka wari gusaba igihembo (cy'uyu murimo ukoze).”

78. (Al Khidiri) aramubwira ati “Iki ni cyo gihe cyo gutandukana kwanjye nawe, (ariko) ngiye kugusobanurira ibyo utashoboye kwihanganira.”

فَانْظَلَقَاهَتِي إِذَا لِقَيَ اُغْلَمَاقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتَنَفْسًا  
رَّبِّكَهُ لِغَيْرِنَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكَرًا

\* قَالَ اللَّهُ أَقْلُلَ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِعَ مَعِي صَبَرًا

قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصْبِحُنِي قَدْ  
بَأْعَثْتَ مِنْ لَدُنِي عُذْرًا

فَانْظَلَقَاهَتِي إِذَا آتَيْتَهُ أَهْلَقَرِيَّةً أَسْتَطَعْمَاً أَهْلَهَا  
فَأَبْوَأْنَ يُضَيِّقُهُمَا فَوَجَدَاهُمَا حِدَارًا يُرِيدُنَ  
يَنْقَضَ فَأَقَمْهُ وَقَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَخَذَّتَ عَلَيْهِ  
أَجْرًا

قَالَ هَذَا فِرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنَكَ سَأَنْتُكَ بِتَأْوِيلِ مَا مَرَّ  
تَسْتَطِعُ عَلَيْهِ صَبَرًا

79. Bwa bwato (natoboye), bwari ubw'abakene bakora mu nyanja. Nashakaga kubutera ubusembwa kuko inyuma yabo hari umwami washimutaga buri bwato (budafite inenge).

80. Naho wa mwana (nishe), ababyeyi be bari abemeramana, twatinye ko yazabatera kwigomeka no guhakana.

81. Maze dushaka ko Nyagasan wabo yabashumbusha utunganye kumurusha kandi unamurusha kubagirira impuhwe.

82. Naho rwa rukuta (neguye), rwari urw'abana b'imfubyi babiri b'abahungu muri wa mudugudu, kandi munsi yarwo hari harimo umutungo wabo, kandi ise yari umuntu mwiza. Nyagasan wawe yashatse ko babanza bagakura, maze bakazakuramo umutungo wabo, ku bw'impuhwe za Nyagasan wawe. Kandi (ibyo wabonye nkora) sinabikoze ku bwanjye (ahubwo byari ku itegeko rya Allah). Ngibyo ibisobanuro by'ibyo utashoboye kwihangana.

83. Baranakubaza (yewe Muhamadi) ku witwa Dhul

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي  
الْبَحْرِ فَارْدَتْ أَنَّ عَيْبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ  
كُلَّ سَفِينَةٍ عَصَبًا

وَأَمَّا الْغُلْمُرُ فَكَانَ أَبُوهُ مُؤْمِنٍ فَخَشِينَا أَنَّ  
يُرْهِقُهُمَا طَعْيَانًا وَكُفْرًا

فَأَرْدَنَا أَنْ يُجْدِلَهُمَا بِعِزَّتِهِ مِنْهُ رُكْوَةً وَأَقْرَبَ  
رُحْمًا

وَأَمَّا الْحِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي  
الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا  
صَدِيقًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشْدَهُمَا  
وَيَسْتَخِرْجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا  
فَعَلْتُهُ وَعَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ  
صَبَرَكَ

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتَلُوا عَيْكُمْ  
مِنْهُ ذِكْرًا

Qar'nayini<sup>131</sup>. Vuga uti "Ndagira icyo mubabwiraho."

84. Rwose twamuhaye ububasha ku isi, ndetse tunamuha uburyo bwo kugera ku byo ashaka.

85. Nuko akurikira inzira.

86. Kugeza ubwo yageze aho izuba rirengera, akabona rirengera mu mugezi w'amazi ashyushye n'isayo ryirabura, nuko ahasanga abantu. Turamubwira tuti "Yewe Dhul Qar'nayini! Nushaka ubahane (kubera ko batemera Imana) cyangwa ubagirire neza (ubigishe)."

87. (Dhul Qar'nayini) aravuga ati "Uwakoze ibikorwa bibi (agahakana Nyagasani we) tuzamuhana (hano ku isi), hanyuma azasubizwe kwa Nyagasani we amuhanishe igihano gihambaye."

88. Naho uwemeye (**Allah**) akanakora ibikorwa byiza, uwo azagororerwa ibyiza (Ijuru), kandi tuzamworohereza (tumuha amategeko amworoheye).

إِنَّمَا مَكَّنَ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ وَأَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿٨٤﴾

فَاتَّبَعَ سَبَبًا ﴿٨٥﴾

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ السَّمَاءِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ  
حَمَّئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَاتِيَّا قَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ  
تَعْرِبَ وَإِمَّا أَنْ تَسْخَدَ فِيهِمْ حُسْنَاتِهِ ﴿٨٦﴾

قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ وَنُرْيِدُ إِلَىٰ رَبِّهِ  
فَيَعْدِبُهُ وَعَذَابًا أَنْكَرَ ﴿٨٧﴾

وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ وَجَزَاءٌ حُسْنَىٰ  
وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿٨٨﴾

<sup>131</sup> Dhul Qar'nayini: Ni izina ry'umuntu wavuzwe muri Qur'an, wari umwami w'umunyakuri akaba ari we wubatse urukuta rurinda abantu kugerwaho n'ibikorwa by'inkozi z'ibibi zitwa Yaajuja na Maajuja.

89. Nuko ahindura inzira,

ثُمَّ أَتَبَعَ سَبَبًا ﴿٨٩﴾

90. Kugeza ubwo yageze aho izuba rirasira, asanga rirasira ku bantu tutahaye ubwugamo.

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلَعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ  
نَجْعَلْ لَهُمْ مِّنْ دُونِهَا سِرَّاً ﴿٩٠﴾

91. Ni uko byagenze. Kandi rwose twari tuzi neza ibye (Dhul Qar'nayni).

كَذَلِكَ وَقَدْ أَحْطَنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿٩١﴾

92. Nuko akurikira indi nzira.

ثُمَّ أَتَبَعَ سَبَبًا ﴿٩٢﴾

93. Kugeza ubwo yageze hagati y'imisozi ibiri miremire, inyuma yayo ahasanga abantu batumvaga neza (ibyo babwirwa bitewe no kudasobanukirwa neza ururimi).

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا  
يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿٩٣﴾

94. Baravuga bati “Yewe Dhul Qar'nayini! Mu by'ukuri Yaajuja na Maajuja<sup>132</sup> bakora ubwononnyi ku isi. Ese tuguhe igihembo kugira ngo wubake urukuta hagati yacu na bo?”

قَالُوا يَنْدَا الْقَرَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ  
فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَّا  
وَبَيْنَهُمْ سَدًا ﴿٩٤﴾

95. Arabasubiza ati “Ibyo Nyagasani wanje yanshoboje (ubutunzi n'ububasha) ni byo byiza (kurusha ibyo mwampa).” Ahubwo nimumfashe mukoreshsheje imbaraga nubake urukuta hagati yanyu na bo.

قَالَ مَا مَكَنَّ فِيهِ رَبِّ خَيْرٍ فَأَعْيُنُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ  
بَيْنَكُو وَبَيْنَهُمْ دَمًا ﴿٩٥﴾

<sup>132</sup> Yaajuja na Maajuja: Ni amazina ya bamwe mu bantu babayeho ku isi mu gihe cy'umwami Dhul Qar'nayini igaruka ryabo rikaba ari kimwe mu bimenyetso bikuru by'umunsi w'imperuka.

96. “Nimunzanire ibice by’ibyuma (nuko abyubaka hagati ya ya misozi ibiri), bimaze kuringanira na yo, aravuga ati “Nimucanire (ibyo byuma)!” Bimaze gutukura aravuga ati “Nimunzanire umushongi w’umuringa nywusukeho.”

97. Nuko (Yaajuja na Maajuja) ntibongera gushobora kururenga, habe no kongera kurupfumura.

98. (Dhul Qar’nayini) aravuga ati “(Uru rukuta) ni impuhwe za Nyagasani wanjye (ku biremwa), ariko isezerano rya Nyagasani wanjye (imperuka) nirisohora, azaruhindura ubushwange. Kandi isezerano rya Nyagasani wanjye ni ukuri.”

99. Nuko kuri uwo munsi (isezerano ryacu rizasohoreraho), tuzareka (Yaajuja na Maajuja) babyigane bamwe barwana n’abandi (banyuranamo ari uruvunganzoka), maze nihavuzwa impanda, tuzabakoranyirize hamwe bose.

100. Kuri uwo munsi kandi umuriro wa Jahanamu tuzawugaragariza abahakanyi (bawubone) imbona nkubone,

إِنَّمَا نُوحُونَ زُبُرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَأَوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ  
أَنْفُسُهُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ وَنَارًا قَالَ إِنَّمَا نُوحُونَ أُقْبَعَ عَلَيْهِ قِطْرًا

٩٦

فَمَا أُسْطَلَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا أُسْتَطَعُوا لَهُ وَنَقْبَاهُ

٩٧

قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَّبِّي جَعَلَهُ وَدَكَّاهُ  
وَكَانَ وَعْدُ رَّبِّي حَقًّا

٩٨

\* وَتَرَكَنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفَخَ فِي  
الْأَصْوَرِ فَجَعَلْنَاهُمْ جَمِيعًا

٩٩

وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكُفَّارِينَ عَرَضاً

101. (Ba bahakanyi) amaso yabo yari ariho igikingirizo cyababuzaga kubona urwibutso rwanje (Qur'an), kandi ntibashobore no kumva (iyo Qur'an).

102. Ese abahakanye bibwira ko gufata abagaragu banjye bakabagira ibigirwamana bandetse (hari icyo bizabamarira)? Mu by'ukuri abahakanyi twabateganyirije umuriro wa Jahanamu ngo uzababere ubuturo.

103. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Ese tubabwire abanyagihombo kurusha abandi mu bikorwa (bakoze)?”

104. Ni ba bandi ibikorwa byabo bakoze hano ku isi bizaba imfabusa (kubera kutemera Allah), nyamara bo baribwiraga ko barimo gukora ibyiza.

105. Abo ni bo bahakanye ibimenyetso bya Nyagasani wabo no kuzahura na We (ku munsi w'imperuka). Bityo, ibikorwa byabo bizaba imfabusa, kandi ku munsi w'imperuka nta gaciro tuzabiha.

106. Ku bw'ibyo, ingororano yabo izaba umuriro w'iteka (Jahanamu) kubera ko bahakanye ndetse ibimenyetso

الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غُطَّاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيغُونَ سَمَاعًا

أَخْسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُولَتِي  
أُولَئِكَ إِنَّا أَعْتَدْنَا لَهُمْ لِلْكَفَرِ بِنُزُلًا

قُلْ هَلْ نَتَبَشَّرُ كُلُّ الْأَحْسَرِينَ أَعْمَالًا

الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَعْسُبُونَ أَنَّهُمْ  
يُحْسِنُونَ صُنْعًا

أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّكُمْ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَيَنْهَا  
أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقْيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَرَزَنا

ذَلِكَ جَزَاءُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَلَا تَخْدُوا إِيَّاكُمْ وَرَسُولِي  
هُنُّوْرًا

byanje n'Intumwa zanjye  
bakabihindura ibikinisho.

107. Mu by'ukuri ba bandi  
bemeye bakanakora ibikorwa  
byiza, bazagororerwa ubusitani  
bwa Firidawusi (Ijuru risumbye  
ayandi) ari na ho bazakirirwa.

108. Bazaribamo ubuziraherezo,  
batifuza kurikurwamo.

109. Vuga (yewe Muhamadi) uti  
“Iyo inyanja iza kuba wino (ngo  
yandike) amagambo ya  
Nyagasani wanje, rwose iyo  
nyanja yari gukama mbere y'uko  
amagambo ya Nyagasani wanje  
arangira, kabone n'ubwo twari  
kuzana izindi (nyanja) nka yo  
ngo ziyunganire.”

110. Vuga (yewe Muhamadi) uti  
“Mu by'ukuri njye ndi umuntu  
nkamwe. Nahishuriwe ko Imana  
yanyu ari Imana imwe rukumbi  
(**Allah**). Bityo, uwiringiye  
kuzahura na Nyagasani we, ajye  
akora ibikorwa byiza, kandi  
ntazagire ikindi asenga  
akibangikanyije na Nyagasani  
we.”

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتٌ  
۝ الْفِرْدَوْسُ نُرْبَّاً

خَلِيلِينَ فِيهَا الْأَيَّبَغُونَ عَنْهَا حَوَّلَ

قُلْ لَوْكَانَ الْبَحْرُ مَدَادِ الْكَامِتِ رَبِّ لَقِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ  
تَنْفَدَ كَلَمَتُ رَبِّي وَلَوْجَنَّا بِمِثْلِهِ مَدَادًا

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَّا هُنْ كُلُّهُمْ لِهِ  
وَحْدَهُ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقاءَ رَبِّهِ فَلَيَعْمَلْ عَمَلاً  
صَالِحًا حَوْلًا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

19 - SURAT MARIAM  
(MARIYA)

*Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirongo 98.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Kaaf-Haa -Yaa -Ayin-Swaad<sup>133</sup>.

كَهِيْعَصْ

2. (Iyi) ni inkuru ivuga iby'impuhwe za Nyagasan'i wawe yagiriye umugaragu we Zakariya.

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدُهُ وَرَكِيْأَ

3. Ubwo yasabaga Nyagasan'i we mu ibanga, yiherereye,

إِذْنَادَى رَبَّهُ وَنِدَاءَ حَفِيْأَ

4. Agira ati "Nyagasan'i wanjye! Mu by'ukuri amagufa yanje yaranegekaye (kubera gusaza), ndetse n'umutwe wanjye wuzuye imvi, kandi sinigeze ngusaba ngo unyime, Nyagasan'i wanjye!"

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظُمُ مِنِّي وَأَشْتَعَلَ أَرْسَأْشِيْأَ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيْأَ

5. Kandi mu by'ukuri ndatinya ko bene wacu (bazareka inzira yawe) nyuma yanje, kandi umugore wanjye ari urubereri. Bityo, mpa umuzungura uguturutseho.

وَإِنِّي خَفَقْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَاءِي وَكَانَتْ أُمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنِكَ وَلِيَّا

6. Uzanzungura akanazungura umuryango wa Yakobo (si ubutunzi azazungura ahubwo ni

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْهُ إِلَيْهِ قُوبَ وَأَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيْأَ

<sup>133</sup>-Kaaf-Haa-Yaa-Ayin-Swaad: Inyuguti nk'izi twazivuzeho mu ntangiriro z'amwe mu masura yabanje.

ubutumwa). Nyagasanani wanjye!  
Uzanamugire uwo wishimira.

7. Yewe Zakariya! Mu by'ukuri tuguuhaye inkuru nziza yo (kuzabyara) umwana w'umuhungu. Izina rye ni Yahaya kandi ntawe twigeze duha iryo zina mbere ye.

8. (Zakariya) aravuga ati “Nyagasanani wanjye! Ni gute nagira umwana w'umuhungu kandi umugore wanjye ari urubereri, ndetse nanjye ngeze mu zabukuru?”

9. (Malayika) aramubwira ati “Uko ni ko bizagenda! Nyagasanani wawe aravuze ati “Ibyo kuri njye biroroshye. Kandi rwose mbere nkurema nta cyo wari cyo!”

10. (Zakariya) aravuga ati “Nyagasanani wanjye! Mpa ikimenyetso.” (Allah) aravuga ati “Ikimenyetso cyawe ni uko utazabasha kuvugisha abantu amajoro atatu kandi umeze neza nta cyo ubaye.”

11. Nuko (Zakariya) asohoka aho yasengeraga agana ku bantu be, maze ababwira abacira amarenga ko bagomba gusingiza (Allah) igitondo n'ikigoroba.

يَرَكَرِيَّا إِنَّا بِشَرِيكٍ بِعَلِيمٍ أَسْمُهُ، يَحْيَى  
لَمْ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلِ سَمِيَّا ⑦

قَالَ رَبِّ أَنِّي يَكُونُ لِي عَلَمٌ وَكَانَتْ أُمْرَاتِي  
عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنْ الْكِبَرِ عِتْيَا ⑧

فَالَّذِي لَكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيْثُ وَقَدْ  
خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلٍ وَلَمْ تَكُنْ شَيْئًا ⑨

قَالَ رَبِّ أَجْعَلْتِي إِيَّاهُ قَالَ إِيْتُكَ لَا  
تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ⑩

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحَرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ  
سَيِّحُوا بُكْرَةً وَعِشِيَّا ⑪

12. (Umuhungu we yarabwiwe ati) “Yewe Yahaya! Akira iki gitabo (Tawurati) ugikomereho. Kandi twamuhaye ubushishozi akiri muto.”

13. Ndetse twanamuhye igikundiro ari impuhwe ziduturutseho, tunamuweza ibyaha kandi yubahaga Allah.

14. Ndetse yumviraga ababyeyi be kandi ntiyari intakoreka cyangwa ngo yigomeke (kuri Allah ndetse no ku babyeyi be).

15. Amahoro nabe kuri we umunsi yavukiyeho, umunsi yapfiriyeleho ndetse n'umunsi azazurirwaho.

16. Babwire inkuru ya Mariyamu mu gitabo (cya Qur'an, yewe Muhamadi), ubwo yitaruraga umuryango we akajya ahagana iburasirazuba.

17. Maze agashyira urusika hagati ye na bo, nuko tumwoherereza Roho wacu (Malayika Gaburihel) amwiyeraka mu ishusho ry'umugabo uteye neza.

18. (Mariyamu) aravuga ati “Mu by'ukuri niragije Nyagasani Nyirimpuhwe ngo andinde ikibi cyaguturukaho, niba koko utinya Imana (ntunyegere).”

يَدِيْحِيَ خُذْ الْكِتَبَ بِقُوَّةٍ وَعَاتِنَهُ الْحَكْمُ

صَبِيَّاً

وَهَنَانَا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَّوْهُ وَكَانَ تَقِيَّاً

وَبَرَّا بِوَلَدِيهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيَّا

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلْدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبَعَّثُ

حَيَّا

وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَبِ مَرِيمَ إِذْ أَنْتَبَذَتِ مِنْ أَهْلِهَا

مَكَانًا شَرِقِيًّا

فَأَنْتَخَدَتِ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا

رُوحًا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا

قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيَّاً

19. (Malayika) aravuga ati “Mu by'ukuri ndi Intumwa ya Nyagasani wawe ije kuguha (inkuru) y'impano y'umuhungu wejejwe (ibyaha).”

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لَأَحَبَّ لَكِ عُلَمَاءَ

رَبِّكَ ١٩

20. (Mariyamu) aravuga ati “Ni gute nagira umuhungu kandi nta mugabo nigeze, ndetse nkaba ntarigeze niyandarika?”

قَالَتْ أَنِّي يَكُونُ لِي عُلَمَاءُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ  
وَلَمْ أَكُ بُغَيَا ٢٠

21. (Malayika) aramubwira ati “Uko ni ko bizagenda! Nyagasani wawe aravuze ati “Ibyo kuri njye biroroshye. (Turashaka) kumugira ikimenyetso ku bantu (kigaragaza ubushobozzi bwacu) n'impuhwe ziduturutseho, kandi iryo ni iteka ryamaze gucibwa.”

قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىٰ هِينٌ  
وَلَنْ جَعَلْهُ إِيمَانَ النَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا  
وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيَا ٢١

22. Nuko (Mariyamu) aramutwita (Issa), maze amwitarurana kure (y'abantu).

\*فَحَمَلَتْهُ فَأَنْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيَا ٢٢

23. Nuko ibise bimuhyana ku ruti rw'umutende, aravuga ati “Mbega ububabare! Iyo nza kuba narapfuye mbere y'ibi, nkanibagirana burundi.”

فَأَجَاءَهَا الْمَخَاصُ إِلَى جَذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ  
يَكِيلَتِنِي مِثْ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيَا  
مَنَسِيَا ٢٣

24. Nuko yumva ijwi munsi ye rimuhamagara rigira riti “Ntugire agahinda! Rwose Nyagasani wawe yashyize isoko y'amazi munsi yawe.”

فَنَادَنَهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَا تَخْرُنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ  
تَحْتَكِ سَرِيَا ٢٤

25. Unanyeganyeze uruti rw'umutende, rurakumanurira itende nziza kandi zihishije.

وَهُرِزِي إِلَيْكِ بِجَذْعِ النَّخْلَةِ سُكِّطَ عَلَيْكِ رُطْبَا  
جَنِيَا ٢٥

26. Maze urye unanywe kandi unishime (kubera umwana). Nugira umuntu ubona, uvuge uti “Mu by’ukuri njye niyemeje guceceka kubera Imana Nyirimpuhwe, bityo uyu munsi nta muntu nza kuvugisha.”

27. Nuko (Mariyamu) agera muri bene wabo amuteruye (uruhinja rwe), maze (bamubonye) baravuga bat “Yewe Mariyamu! Rwose wakoze amahano!”

28. “Yewe mushiki wa Haruna! So ntiyari umuntu mubi ndetse na nyoko ntiiyandarikaga.”

29. Maze aramwerekana (ngo bamwibarize). Baravuga bat “Ni gute twavugana n’uruhinja rukiri mu ngobyi?”

30. [Issa (Yesu)] aravuga ati “Mu by’ukuri ndi umugaragu wa Allah. Yampaye igitabo anangira umuhanuzi.”

31. Yanampundagajeho imigisha aho nzaba ndi hose, anantegeka gusali no gutanga amaturo igihe cyose nzaba ndiho.

32. (Yanantegetse) kumvira mama, kandi ntiiyangize umwibone cyangwa ngo angire umunyabyago.

فُكْلِي وَأَشْرِي وَقَرِي عَيْنَا فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ  
أَحَدًا فَقُولِي إِلَيْيَ نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ  
أَكَلَمُ الْيَوْمَ إِنْسِيَا

فَأَتَتْ يَهُ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَمْرِئُ لَقَدْ  
جَهَّتْ شَيْئًا فَرِيَا ﴿٢٧﴾

يَأْخُذَ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِي أُمَرَّاسَوْءِ وَمَا  
كَانَتْ أُمُّكِ بَغْيَا ﴿٢٨﴾

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي  
الْمَهْدِ صَبِيَا ﴿٢٩﴾

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ إِاتَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي بَيِّنًا

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَنِي  
بِالصَّلَاةِ وَالزَّكُوْةِ مَادُمْتُ حَيَا ﴿٣١﴾

وَبَرَّ بِوَالَّدِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَارًا شَقِيًّا ﴿٣٢﴾

33. Amahoro nabe kuri njye umunsi navutseho, umunsi nzapfiraho ndetse n'umunsi nzazurirwaho.

34. Uwo ni we Issa (Yesu) mwene Mariyamu. Ni imvugo y'ukuri (abenshi mu bantu) bashidikanyaho.

35. Ntibikwiye ko Allah yagira umwana (nk'uko hari benshi bavuga ko amufite). Ubutagatifu ni ubwe. Iyo aciye iteka ry'ikintu, arakibwira ati “Ba, nuko kikaba!”

36. [Issa (Yesu) yaravuze ati] “Kandi mu by'ukuri Allah ni Nyagasani wanje akaba na Nyagasani wanyu; bityo nimumugaragire (wenyine). Iyo ni yo nzira igorotse.”

37. (Nyuma yaho) amatsinda (yo mu bahawe ibitabo) ntiyavuze rumwe (ku bya Issa). Bityo, ibihano bikaze bizaba ku bahakanyi (igihe) bazahura n'umunsi uhambaye (imperuka).

38. Mbega ukuntu (abahakanyi) ku munsi bazaza batugana, bazaba babona bakanumva neza! Ariko uyu munsi inkozi z'ibibi ziri mu buyobe bugaragara.

وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمِ وُلْدَتْ وَيَوْمَ أَمْوَاتُ وَيَوْمَ  
بُعْثَ حَيَا ۝

ذَلِكَ عِيسَى اُبْنُ مَرِيَمَ قَوْلُ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ  
يَمَرُونَ ۝

مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَخَذَ مِنْ وَلَيْ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا  
فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُنْ فَيَكُونُ ۝

وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّنَا وَرَبِّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صَرْطُ مُسْتَقِيمٍ  
۝

فَلَخَلَفَ الْأَحَزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا  
مِنْ مَشَهِدِيَّةِ عَظِيمٍ ۝

أَسْمَعَ بِهِمْ وَأَبْصَرَ يَوْمَ يَأْتُونَا لَكِنَّ الظَّالِمُونَ  
أَلْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

39. Unababurire umunsi w'agahinda, ubwo iteka (ryo kwinjira mu ijuru cyangwa mu muriro) rizacibwa, mu gihe bo (ku isi) nta cyo bitayeho kandi batemera (**Allah**).

40. Mu by'ukuri tuzazungura isi n'ibiyiriho kandi iwacu ni ho bose bazagarurwa.

41. Unababwire inkuru ya Ibrahim (Aburahamu) mu gitabo (cya Qur'an, yewe Muhamadi). Mu by'ukuri yari umuhanuzi w'umunyakuri.

42. (Ibuka) ubwo (Ibrahimu) yabwiraga se (Azara) ati “Dawe! Kuki ugaragira ibitumva, ntibibone ndetse bitanafite icyo byakumarira?”

43. “Dawe! Mu by'ukuri njye nagezweho n'ubumenyi butigeze bugushyikira. Bityo, nkurikira nkuyobore inzira itunganye.”

44. Dawe! Ntukagaragire Shitani kuko Shitani yigometse kuri (**Allah**) Nyirimpuhwe.

45. Dawe! Mu by'ukuri ndatinya ko wazagerwaho n'ibihano biturutse kwa (**Allah**) Nyirimpuhwe (uramutse upfiriye mu buhakanyi), maze ukaba inshuti ya Shitani (mu muriro).

وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحُسْنَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفَلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٩﴾

إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِنَّا يُرْجِعُونَ ﴿٣٠﴾

وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِنَّ رَبِّهِمْ أَنَّهُ كَانَ صَدِيقَنِيَّ ﴿٣١﴾

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَأْبَىٰ لَهُ تَبَدُّدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبَصِّرُ  
وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ﴿٣٢﴾

يَأْبَىٰ إِلَيْيَ قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَأُنَبِّئُكَ  
أَهْدَاكَ صِرَاطَ اسْوِيَّا ﴿٣٣﴾

يَأْبَىٰ لَأَتَبْعِدُ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِرَحْمَنِ  
عَصِيًّا ﴿٣٤﴾

يَأْبَىٰ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمْسَكَ عَذَابًا مِنَ الرَّحْمَنِ  
فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَإِلَيْا ﴿٣٥﴾

46. (Azara) aravuga ati "Yewe Ibrahimu, ese wanze (kugaragira) imana zanjye? Nutareka (gutuka imana zanjye) nzakwicisha amabuye, ndetse ndanaguciye by'iteka."

47. (Ibrahimu) aravuga ati "Amahoro abe kuri wowe! Nzagusabira imbabazi kwa Nyagasaki wanjye. Mu by'ukuri, ni Umunyempuhwe zihebuje kuri njye."

48. Kandi nitandukanyije namwe ndetse n'ibyo musenga bitari Allah. Nzajya nsaba Nyagasaki wanjye, kandi nizera ko Nyagasaki wanjye atazanyima nimusaba.

49. Nuko amaze kwitandukanya na bo ndetse n'ibyo basengaga bitari Allah, tumuha Isihaq (Isaka) na Yaqubu (Yakobo) nk'impano, kandi buri wese twamugize umuhanuzi.

50. Twanabahundagajeho impuhwe zazu, ndetse tunabaha kuvugwa neza (mu bantu).

51. Unababwire inkuru ya Musa mu gitabo (cya Qur'an, yewe Muhamadi). Mu by'ukuri yari intoranywa, ndetse akaba Intumwa n'umuhanuzi.

52. Twanamuhamagariye mu ruhande (rwe) rw'iburyo ku

قَالَ أَرَأْغَبُ أَنْتَ عَنْ ءَالْهَمَىٰ يَٰابْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ  
تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَكَ وَأَهْجُرْ فِي مَلِيْكًا

قَالَ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ  
بِي حَفِيْيَا

وَأَعْتَرْلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوْرَبِي  
عَسَى الَّا كُوْنَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَكِيْيَا

فَلَمَّا أَعْتَرْلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبَنَا لَهُ  
إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا

وَهَبَنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ  
صِدِّيقٍ عَلَيْهَا

وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ وَكَانَ مُحَلَّصًا وَكَانَ  
رَسُولًا نَبِيًّا

وَنَدِيْهُ مِنْ جَانِبِ الْطُّورِ الْأَعْيَمِ وَقَرَبَنَهُ نَجِيَا

musozi wa Twuri (i Sinayi), turamwiyegereza kugira ngo tuvugane na we mu ibanga.

53. Ku bw'impuhwe zacu, twamuhyaye umuvandimwe we Haruna, (na we) wari umuhanuzi (ngo amufashe).

54. Unababwire inkuru ya Isimayili (Ishimayeli) mu gitabo (cya Qur'an, yewe Muhamadi). Mu by'ukuri yubahirizaga isezerano kandi yari Intumwa ndetse akaba n'umuhanuzi.

55. Yajyaga abwiriza abantu be gusali no gutanga amaturo, kandi yari yishimiwe na Nyagasani we.

56. Unababwire inkuru ya Idrissa mu gitabo (cya Qur'an, yewe Muhamadi). Mu by'ukuri yari umunyakuri akaba n'umuhanuzi.

57. Twanamuzamuye mu rwego rwo hejuru.

58. Abo ni bamwe mu bahanuzi **Allah** yahundagajeho ingabire ze, bakomoka ku rubyaro rwa Adamu, no ku bo twatwaye (mu bwato) hamwe na Nuhu (Nowa), no ku rubyaro rwa Ibrahimu na Isiraheli (Yakobo), no ku bo twayoboye tukanabatoranya. Iyo basomerwaga amagambo ya (**Allah**) Nyirimpuhwe, bacaga

وَوَهَبَنَا اللَّهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَرُونَ بَيْتَهُ ﴿٥٦﴾

وَذَكْرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلُ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ  
وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ﴿٥٧﴾

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ وَيَا الصَّلَاةِ وَالزَّكُورَةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ  
مَرْضِيًّا ﴿٥٨﴾

وَذَكْرُ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسٌ إِنَّهُ كَانَ صَدِيقًا نَّبِيًّا ﴿٥٩﴾

وَرَفِعَهُ مَكَانًا عَلَيْهَا ﴿٦٠﴾

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَعْجَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ  
إِدَمَ وَمِنْ حَمْلَنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ  
وَلَسَرَّاءِيلَ وَمِنْ هَدَدِنَا وَلَحَتِيَّنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ  
أَيْتُ الرَّحْمَنَ حَرُوا سَجَدَا وَبِكَيَّا ﴿٦١﴾

bugufi bakubama (kubera Allah)  
kandi bakarira (ku bwo kumutinya).

59. Nuko baje gukurikirwa n'abandi bantu baretse gusali, bakurikira ibyo bararikira. Abo bazahura n'ukorama guhambaye,

60. Uretse abazicuza, bakemera Allah ndetse bakanakora ibikorwa byiza; abo bazinjira mu Ijuru kandi ntibazahuguzwa na gato.

61. (Bazinjira) mu busitani buhoraho, (Allah) Nyirimpuhwe yasezeranyije abagaragu be (bemeye ibyo) batabonye. Mu by'ukuri isezerano rye rizasohora nta kabuza.

62. (Mu ijuru) ntibazigera bumvamo amagambo adafite umumaro; uretse (kumva) indamutso y'amahoro (Salamu). Kandi bazaba bafitemo amafunguro mu gitondo na nimugoroba.

63. Iryo ni ryo juru tuzaha abagaragu bacu bagandukira (Allah) ngo barizungure.

64. Kandi (twe abamalayika) ntitujya tumanuka bitari ku itegeko rya Nyagasani wawe

\* فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَفْ أَصْبَاعُوا الْصَّلَاةَ

وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسُوقَ يَلْقَوْنَ غَيْرَهُمْ ﴿٥٩﴾

إِلَّا مَنْ تَابَ وَاءَمَنَ وَعَمَلَ صَلِحًا فَأُولَئِكَ

يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴿٦٠﴾

جَنَّاتٍ عَدِينَ أُلَّى وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادُهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ وَ

كَانَ وَعْدُهُ وَمَاتِيًّا ﴿٦١﴾

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَعْوًا إِلَّا سَلَمًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ

فِيهَا بُكْرَةٌ وَعَشِيشًا ﴿٦٢﴾

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿٦٣﴾

وَمَا نَتَرَكُلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّنَا لَهُ وَمَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا

حَلَفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾

(yewe Muhamadi)<sup>134</sup>. Ni We ugenga ibiri imbere yacu, ibiri inyuma yacu ndetse no hagati yabyo ubwabyo; kandi Nyagasani wawe ntajya yibagirwa.

65. Nyagasani w'ibirere n'isi n'ibiri hagati yabyo. Bityo, jya umugaragira (wenyine) kandi ujye uhozaho kumugaragira (kabone n'yo byaba bikugoye). Ese hari uwo waba uzi witiranwa na we?

66. Kandi umuntu (w'umuhakanyi) aravuga ati “Ese nindamuka mpfuye, nzazurwa mbe muzima?”

67. Ese umuntu ntiyibuka ko mbere y'ibyo, ari twe twamuremye kandi nta cyo yari cyo?

68. Ndahiye kuri Nyagasani wawé! Rwose tuzabakoranya (abahakana izuka) hamwe n'amashitani, hanyuma tubazane ku nkengero z'umuriro wa Jahanamu bapfukamye.

69. Hanyuma rwose muri buri gatsiko tuzakuremo abarushije abandi kwigomeka kuri (**Allah**) Nyirimpuhwe (babe ari bo babanza guhanwa).

رَبُّ الْسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنُهُمَا فَاعْبُدْهُ

وَاصْطَبْرِ لِعَبْدِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ وَسَمِّيَّا

٦٥

وَيَقُولُ إِلَيْ إِنْسَنٍ إِذَا مَاءِتُ لَسْوَفَ أُخْرَجُ حَيًّا

أَوْلَادِيْذَكُرُ إِلَيْ إِنْسَنٍ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَمُ

يَكُ شَيْئًا

فَرَبِّكَ لَحَشْرَنَهُمْ وَالشَّيْطَنَ نُمَّ

لَنْخَضْرَنَهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ حِشِّيَا

ثُمَّ لَنْزِعَنَ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيْهُمْ أَشَدُ عَلَى

الرَّحْمَنِ عَيْنَا

<sup>134</sup>Intumwa Muhamadi yajyaga yifuza ko Malayika Jibril yajya amugeraho kenshi amuzaniye ubutumwa (Wah'y), nuko Jibril amubwira aya magambo.

70. Hanyuma mu by'ukuri ni twe tuzi neza abakwiye gutwikirwa mu muriro kurusha abandi.

٧٠ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلَيْتَ

71. Nta n'umwe muri mwe utazayinyuraho (Siratwa)<sup>135</sup>; iryo ni ihame ntakuka rya Nyagasan i wawe.

وَإِنْ مَنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَيْ رِبِّكَ حَتَّمًا  
مَقْضِيَّاً

72. Hanyuma tuzarokore ba bandi batinye (**Allah**, bayinyureho), maze tureke inkozi z'ibibi (zigwe mu muriro) zipfukamye.

ثُمَّ نُنْهِيُ الَّذِينَ أَتَقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا  
جَهَنَّمَ

73. N'yo (abantu) basomewe amagambo yacu asobanutse, abahakanye babwira abemeye bati “Ese ni irihe tsinda muri aya yombi (abahakanye n'abemeye) rihagaze neza kurusha irindi rikaba rinarimo abantu beza?”

وَإِذَا شُتِّلَ عَلَيْهِمْ إِيمَانُنَا بَيْنَتِي قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا  
لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا  
وَأَحْسَنُ نَدِيَّاً

74. None se ni ibisekuru bingahe twarimbuye mbere yabo (abahakanyi bo ku gihe cy'Intumwa Muhamadi), byabarushaga ubutunzi no kugaragara neza!

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنَهُمْ أَحَسَنُ أَثْنَانَ  
وَرَعِيَّا

<sup>135</sup>Siratwa: Nk'uko Gihamya zitandukanye muri Qur'an no mu nyigisho z'Intumwa y'Imana (Imana iyihe amahoro n'imigisha) zibigaragaza, ni ikiraro kizaba kiri hejuru y'umuriro wa Jahanamu cyerekeza mu ijuru, kizanyuraho n'abemeye Imana gusa by'ukuri bagere mu ijuru. naho abemeramana b'abanyabyaha ntibazabasha kukirenga bazagwa mu muriro wa Jahanamu, nyuma y'igihe runaka **Allah** azashaka ko bawubamo azabakuremo. Naho abahakanyi n'babangikanyamana bo ntibazanyura kuri icyo kiraro kuko bazaba baramaze gutabwa mu muriro.

75. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Umuntu uri mu buyobe, (**Allah**) Nyirimpuhwe azamwongererera igihe (cyo gukomeza kuba muri ubwo buyobe) kugeza ubwo bazabona ibyo basezeranyijwe, byaba ibihano (ku isi) cyangwa imperuka. Ubwo ni bwo bazamenya ufite umwanya mubi (ubuturo bubi) cyane n’ufite ingabo z’inyantenge nke.”

76. Kandi **Allah** yongerera kuyoboka ba bandi bayobotse. Naho ibikorwa byiza bihoraho ni byo bitanga ingororano n’iherezo ryiza kwa Nyagasanji wawe.

77. Ese wabonye wa wundi wahakanye amagambo yacu, maze akavuga ati “Rwose (ku munsi w'imperuka) nzahabwa imitungo n'urubyaro?”

78. Ese yaba yaramenye ibiyishe (akabona ko azahabwa imitungo n'urubyaro)? Cyangwa yagiranye isezerano na (**Allah**) Nyirimpuhwe (ry'uko azabihabwa)?

79. Si ko bimeze! Ahubwo tuzandika ibyo avuga, maze tuzamwongererera ibihano.

80. Kandi tuzamuzungura ibyo avuga (imitungo n'urubyaro), maze atugereho ari wenyine.

قُلْ مَنْ كَانَ فِي الْضَّلَالَةِ فَلَيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَذَّا  
حَسِّنَ إِذَا رَأَوْ مَا يُوَعَدُونَ إِمَّا عَذَابٌ وَإِمَّا السَّاعَةَ  
فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَصْعَفُ جُنَاحًا

وَيَرِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْ هُدًى وَالْبَقِيرَتُ  
الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثُوا بَأْوَ خَيْرٌ مَرَدًا

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَتِنَا وَقَالَ لَأُوتَنَّ  
مَا لَأَوْلَادًا

أَطْلَمَ الْغَيْبَ أَمْ أَخْذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا

كَلَّا سَنَكِتُ مَا يَقُولُ وَنَمَدْ لَهُ مِنَ  
الْعَذَابِ مَذَّا

وَنِرْثُهُ وَمَا يَقُولُ وَيَأْتِنَا فَرَدًا

81. ibigirwamana (barabisenga) baretse **Allah**, kugira ngo bibarinde (ibihano bya **Allah**) kandi bibaheshe icyubahiro.

وَأَخْذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لَّيْكُنُوا لَّهُمْ  
عَزَّا ﴿٨١﴾

82. Si ko bimeze! Ahubwo (ibyo bigirwamana) bizophakana uko kubisenga kwabo, maze bibabere abanzi (ku munsi w'imperuka).

كَلَّا سَيَّكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ  
ضِدًا ﴿٨٢﴾

83. Ese ntubona ko twoherereje abahakanyi amashitani, kugira ngo abashishikarize kwigomeka?

أَلَّمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيْطَانَ عَلَى الْكَفِيرِينَ  
تَوْزِعُهُمْ أَذًًا ﴿٨٣﴾

84. Bityo, ntugire ubwira (bwo gushaka ko bahanwa), kuko mu by'ukuri tubabarira iminsi ntarengwa.

فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعْذِلُهُمْ عَدَدًا ﴿٨٤﴾

85. Umunsi tuzakoranya abagandukira (**Allah**), berekeza kwa (**Allah**) Nyirimpuhwe, bameze nk'abashyitsi b'imena,

يَوْمَ خَسُرُ الْمُتَقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفَدَأَ ﴿٨٥﴾

86. Tukanashorera inkozi z'ibibi tuziganisha mu muriro wa Jahanamu, zishwe n'inyota.

وَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرَدَأَ ﴿٨٦﴾

87. Ntibazagira ubushobozi bwo kugira uwo bakorera ubuvugizi, uretse uzaba afite isezerano rya (**Allah**) Nyirimpuhwe (ryo gukora ubwo buvugizi).

لَا يَمْلِكُنَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنَ  
عَهْدًا ﴿٨٧﴾

88. (Abahakanyi) baranavuze bati “(Allah) Nyirimpuhwe afite umwana!”

وَقَالُوا نَخْذُ الْرَّحْمَنَ وَلَدًا ﴿٨٨﴾

89. Rwose ibyo muvuga ni amahano!

لَقَدْ حِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا ﴿٨٩﴾

90. Ibirere biba byenda gusandara, n'isi yenda gusatagurika, ndetse n'imisozi yenda kuriduka,

تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَنْقَطَرُنَّ مِنْهُ وَتَسْقَى  
الْأَرْضُ وَتَخْرُجُ الْجَبَالُ هَذَا ﴿٩٠﴾

91. Kubera ko bavuze ko (Allah) Nyirimpuhwe afite umwana,

أَنْ دَعَوْا لِلَّرَّحْمَنَ وَلَدًا ﴿٩١﴾

92. Kandi bidakwiye ko (Allah) Nyirimpuhwe yagira umwana.

وَمَا يَنْبَغِي لِلَّرَّحْمَنِ أَنْ يَتَخَذَ لَدَاهُ ﴿٩٢﴾

93. Nta na kimwe mu biri mu birere no ku isi kizagera imbere ya (Allah) Nyirimpuhwe kitari umugaragu (uciye bugufi).

إِنْ كُلُّ مَنِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا إِنَّ  
الَّرَّحْمَنَ عَبْدَهُ ﴿٩٣﴾

94. Mu by'ukuri (Allah) arabazi neza kandi yaranababaruye nyabyo.

لَقَدْ أَحَصَّهُمْ وَعَدَهُمْ عَدَّا ﴿٩٤﴾

95. Kandi ku munsi w'izuka, buri wese azamugana ari wenyine (nta buvugizi, nta n'icyo yitwaje).

وَكُلُّهُمْ أَتَيْهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرَدًا ﴿٩٥﴾

96. Mu by'ukuri abemeye bakanakora ibyiza, (Allah) Nyirimpuhwe azabahundagazaho urukundo rwe, (anabahe gukundwa n'abagaragu be).

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
سَيَجْعَلُ لَهُمُ الْرَّحْمَنُ وُدَّا ﴿٩٦﴾

97. Mu by'ukuri (Qur'an) twayoroheje gusobanuka mu rurimi rwawe (yewe Muhamadi) kugira ngo uyikoreshhe ugeza inkuru nziza ku bagandukira (**Allah**), ndetse unayikoreshhe uburira abantu (b'abahakanyi) bagira izima.

98. None se ni ibisekuru bingahe twarimbuye mbere yabo! Ese hari n'umwe muri bo ukibona cyangwa ngo wumve akoma?

فَإِنَّمَا يَسِّرَنَا بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ  
الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّثُّدًا ٦٧

وَكَمْ أَهْلَكَنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسْ مِنْهُمْ  
مَّنْ أَحَدٌ أَوْ سَمِعَ لَهُمْ رِكْزَا ٦٨

## 20 - SURAT TWAHA

*Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirongo 135.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya **Allah**, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Twa Ha<sup>136</sup>.

طه ١

2. (Yewe Muhamadi) ntabwo twaguhishuriye Qur'an kugira ngo ikubere umuzigo.

مَا آنَزْنَا عَيْنَكَ الْقُرْءَانَ لِتَشَقَّقَ ٢

3. Ahubwo (twayihishuye kugira ngo ibe) urwibutso kuri ba bandi bagandukira **Allah**.

إِلَّا ذَكَرَةً لِمَنْ يَخْشَى ٣

<sup>136</sup>Twa Haa: Inyuguti nk'izi twazivuzeho mu masura yatambutse.

4. (Iyo Qur'an) yahishuwe iturutse ku waremye isi n'ibirere bihanitse.

تَنْزِيلًا لِمَنْ حَقَّ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتُ الْعُلَىٰ ﴿٤﴾

5. (**Allah**) Nyirimpuhwe uganje hejuru ya Ar'shi<sup>137</sup>.

الْرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ أَسْتَوَى ﴿٥﴾

6. Ibiru mu birere n'ibiri mu isi, n'ibiri hagati yabyo ndetse n'ibiri munsi y'ubutaka ni ibye.

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا  
وَمَا تَحْتَ الْأَرْضِ ﴿٦﴾

7. Kandi n'ubwo warangurura ijwi (cyangwa ukavuga bucece, byose ni kimwe kuko) mu by'ukuri (**Allah**) azi amabanga ndetse n'ibiyishe cyane (kurenza ayo mabanga).

وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السَّرَّ وَأَخْفَى ﴿٧﴾

8. **Allah!** Nta yindi mana iriho ikwiye gusengwa by'ukuri uretse We. Afite amazina meza.

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ﴿٨﴾

9. Ese (yewe Muhamadi) waba waragezweho n'inkuru ya Musa?

وَهَلْ أَتَيْكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿٩﴾

10. Ubwo yabonaga umuriro nuko akabwira ab'iwe ati "Mugume aha! Mu by'ukuri ndabutswe umuriro, hari ubwo nabazaniraho igishirira, cyangwa kuri uwo muriro nkahasanga uwatuyobora (inzira)."<sup>138</sup>

إِذْ رَءَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ أُمْكِنُوا إِلَيَّ إِنْتُمْ  
نَارًا عَلَىٰ إِنِّي كُمْ مِنْهَا بِقَبِيسٍ أَوْ لَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدَىٰ

١٠

<sup>137</sup> Nkuko iyi nkuru yaje muri Surat Al Qaswasw

<sup>138</sup> Ubwo Musa yari amaze kurangiza igihe yasezeranye na Sebukwe cyo kumuragirira ihene, yagarutse mu Misiri ava i Madiyani, ari kumwe n'umugore we. Kubera ko yari amaze igihe gisaga imyaka icumi atahagera, yaje kuyohera mu butayu mu ijoro ry'umwijima n'ubukonje, ari bwo yarabukwaga umuriro.

11. Nuko awugezeho, yumva ijwi rimuhamagara riti “Yewe Musa!”

فَمَمَّا أَتَهَا نُودِيَ يَمُوسَى ۝

12. “Mu by’ukuri ndi Nyagasanai wawe, bityo kwetura inkweto zawe kuko uri mu kibaya gitagatifu cya Tuwa”,<sup>139</sup>

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَأَخْلَعَ نَعْيَكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ  
الْمُقَدَّسِ طُورِي ۱۳

13. “Kandi nagutoranyije (ngo ube Intumwa). Bityo, tega amatwi ibyo uhishurirwa”,

وَأَنَا أَخْرَتُكَ فَأَسْتَمِعُ لِمَا يُوحَى ۱۴

14. Mu by’ukuri ndi Allah! Nta yindi mana iriho ikwiye gusengwa itari Njye. Bityo, jya ungaragira kandi unahozeho iswala kugira ngo unyibuke.

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا عَبْدِنِي وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ  
لِذِكْرِي ۱۵

15. Mu by’ukuri imperuka izaba. Nayihishe (ibiremwa byose) kugira ngo buri muntu azahemberwe umuhate we.

إِنَّ الْسَّاعَةَ إِاتِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيَهَا لِتُجَزَّى كُلُّ  
نَفْسٍ بِمَا سَعَى ۱۶

16. Bityo, uramenye umuntu utayemera (imperuka) agakurikira ibyo umutima we ukunda, ntazakubuze kuyemera bitazakuviramo kurimbuka.

فَلَا يُصِدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هَوَانَهُ  
فَرَدَدَى ۱۷

17. (Allah aramubaza ati) “Ese icyo ni iki kiri mu kuboko kwawe kw’iburyo, yewe Musa?”

وَمَا تِلْكَ بِسِمِينِكَ يَمُوسَى ۱۸

18. (Musa) aravuga ati “Ni inkoni yanjye nishingikiriza, nkanayimanuza amababi y’ibiti ngaburira intama zanjye, kandi mfite n’ibindi nyikoresha.”

قَالَ هِيَ عَصَمَىٰ أَتَكَوْأَ عَلَيْهَا وَأَهْشِ بِهَا  
عَلَىٰ عَنْمَىٰ وَلِيٰ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ ۱۹

<sup>139</sup>Twuwa: Ni ikibaya gitagatifu kiri mu majyepfo y’umusozi wa Sinayi.

19. (**Allah**) aravuga ati “Yinage hasi, yewe Musa!”

قَالَ أَلْقَاهَا يَمُوسَى ﴿١٩﴾

20. Nuko ayinaga hasi, ihita ihinduka inzoka ikururuka.

فَأَلْقَاهَا إِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ﴿٢٠﴾

21. (**Allah**) aravuga ati “Yifate kandi ntutinye! Turongera tuyigire (inkoni) nk’uko yari imeze”,

قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخْفَ سَنِيدُهَا سِيرَهَا  
اَلْأُولَى ﴿٢١﴾

22. “Unashyire ukuboko kwawe mu kwaha, kuravamo kurabagirana bidatewe n’uburwayi; icyo kiraba ari ikindi gitangaza”,

وَاصْبِرْ مِيمَدَأَكَ إِلَى جَنَاحَكَ تَخْرُجَ بِضَاءَ مِنْ عَيْنِ  
سُوْءَاءِ اَيَّهَ اُخْرَى ﴿٢٢﴾

23. “[Ibyo] ni ukugira ngo tukwereke bimwe mu bitangaza byacu bihambaye”,

لِنُرِيَكَ مِنْ اِيَّتَنَا اَكْبَرَى ﴿٢٣﴾

24. (**Allah** aramubwira ati) “Jya kwa Farawo (umuhamagarire kwemera **Allah**). Mu by’ukuri akabije kwigomeka.”

اُذْهَبْ إِلَى فَرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴿٢٤﴾

25. (Musa) aravuga ati “Nyagasani wanjye! Agura igituza cyanje (kugira ngo mbashe gusohoza ubutumwa bwawe)”,

قَالَ رَبِّ اشْحَ لِ صَدَرِي ﴿٢٥﴾

26. Kandi unyorohereze inshingano zanjye (umpaye),

وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي ﴿٢٦﴾

27. Unagobotore ururimi rwanjye,

وَاحْلُلْ عُقْدَةَ مِنْ لَسَانِي ﴿٢٧﴾

28. Kugira ngo babashe gusobanukirwa amagambo yanje,

يَفْقَهُو أَفْوَلِي ﴿٥٨﴾

29. Kandi umpe umwunganizi ukomoka mu muryango wanje,

وَلْجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ﴿٦٩﴾

30. (Ari we) Haruna (Aroni), umuvandimwe wanje,

هَرُونَ أَخِي ﴿٢٠﴾

31. Munshyigikize mu kunyongerera imbaraga,

أَشْدُدْ دِبَاهَ أَزْرِي ﴿٣١﴾

32. Kandi umuhe gufatanya nanje mu nshingano zanje (zo gusohoza ubutumwa bwawe),

وَأَشْرَكَهُ فِي أَمْرِي ﴿٣٢﴾

33. Kugira ngo tubashe kugusingiza cyane,

كَيْ سُبِّحَ كَيْثِيرًا ﴿٣٣﴾

34. Tunakwambaze cyane,

وَنَذَرَ كَيْثِيرًا ﴿٣٤﴾

35. Mu by'ukuri wowe utubona bihebuje."

إِنَّكَ كُنْتَ إِنْتَ بَصِيرًا ﴿٣٥﴾

36. (Allah) aravuga ati "Rwose ubusabe bwawe bwakiriwe, yewe Musa!"

قَالَ قَدَأْتِيَتَ سُؤَالَكَ يَمْوَسَى ﴿٣٦﴾

37. Kandi rwose, twari twaranaguhundagajeho ingabire zacu indi nshuro,

وَلَقَدْ مَنَّا نَاعِيَكَ مَرَّةً أُخْرَى ﴿٣٧﴾

38. Ubwo twahishuriraga nyoko ibyo twamuhibshuriye (tugira) tuti

إِذَا وَحَيْنَا إِلَى أَمْكَنَ مَأْيُوحَةً ﴿٣٨﴾

39. “Shyira (uwo mwana) mu isanduku maze uyunage mu mugezi, hanyuma umugezi uzayigeza ku nkcombe, maze izatoragurwe n’umwanzi wanjye (Farawo) ari na we mwanzi we. Kandi naguhundagajeho urukundo rwanjye (yewe Musa), kugira ngo ukure nguhojejeho ijisho ryanjye (nkurinze).”

40. (Wibuke) ubwo mushiki wawe yagendaga (agukurikiye maze akabwira abagutoraguye) ati “Ese mbarangire uwamurera?” Nuko tukugarura kwa nyoko kugira ngo yishime kandi ntakomeze kugira agahinda. Hanyuma uza kwica umuntu (w’umunyamisiri, utabigambiriye), tugukiza akababaro (igihe wicuzaga tukakubabarira, tukanagukiza imigambi y’abashakaga kukwica), nuko tukunuza mu biggeragezo bikomeye. Nyuma waje guhungira mu bantu b’i Madiyani imyaka myinshi, nuko uza kugaruka (mu Misiri) nk’uko byagenwe, yewe Musa!

41. Kandi narakwitoranyirije (ngo ube Intumwa yanjye).

42. (Yewe Musa!) “Genda wowe n’umuvandimwe wawe (Haruna) mwitwaje ibitangaza byanjye, kandi ntimuzadohoke mu kunsingiza.”

أَنْ أَقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَأُقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَيُلْقَاهُ إِلَيْهِ  
بِالسَّاحِلِ يَأْخُدُهُ عَدُوُّهُ وَعَدُولُهُ وَأَلْقَيْتُ عَيْكَ

مَحَاجَةً مَّنِيْ وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِيْ

إِذْ تَشِئُ أَخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَذْلُكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ  
فَرَجَعْتَكَ إِلَى أَمْكَانِكَ كَمَا تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَخْزَنَ  
وَقَاتَلْتَ نَفَسَانَجَيَّنَاتَكَ مِنْ الْغَمِّ وَفَتَنَاتَكَ فُتُونًا  
فَلَيْلَتَ سِينَيْنَ فِي أَهْلِ مَدِينَ ثُرِجَتْ عَلَى قَدَرِ

يَمُوسَى

وَأَصْطَنَعْتُكَ لِغَنِيْسِي

أَذْهَبْتَ أَنَّتَ وَأَخْرُوكَ يَعَايَتِيْ وَلَا تَتَيَّا في ذَكْرِي

43. Nimujye kwa Farawo (mumuhamagarire kwemera Allah). Mu by'ukuri akabije kwigomeka.

أَذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴿٤٣﴾

44. Mumubwire amagambo yoroheje, wenda ashobora kwibuka (akemera Allah) cyangwa agatinya (ibihano).

فَقُولَا لَهُ وَقُولَا إِنَّا عَلَهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ﴿٤٤﴾

45. (Musa na Haruna) baravuga bat "Nyagasani wacu! Mu by'ukuri turatinya ko yahita atugirira nabi cyangwa agakomeza kwigomeka."

قَالَ رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطْ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى

﴿٤٥﴾

46. (Allah) arababwira ati "Ntimutinye! Mu by'ukuri ndi kumwe namwe; ndumva nkanabona."

قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرِي  
﴿٤٦﴾

47. Mumugereho maze mumubwire muti "Mu by'ukuri turi Intumwa za Nyagasani wawe, (udutumye) ngo urekure bene Isiraheli tujyane kandi ntubatoteze, kuko rwose twaje twitwaje igitangaza giturutse kwa Nyagasani wawe! Kandi amahoro nabe ku wakurikiye umuyoboro (utunganye)."

فَأَتَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولًا رَّبِّكَ فَأَرْسَلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تَعْدِهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِيَأْتِيَ مِنْ رَّبِّكَ  
وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ أَتَيَ الْهُدَى ﴿٤٧﴾

48. "Mu by'ukuri twahishuriwe ko ibihano bizaba ku wahinyuye akanatera umugongo (amategeko ya Allah)."

إِنَّا قَدْ أَوْحَى إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَبَ  
وَتَوَلََّ ﴿٤٨﴾

49. (Farawo) aravuga ati “None se Nyagasani wanyu ni nde, yewe Musa?”

قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَمُوسَىٰ ﴿٦٩﴾

50. (Musa) aravuga ati “Nyagasani wacu ni uwahaye buri kintu ishusho n’imiterere, maze akakiyobora.”

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَلَهُ هَدَىٰ ﴿٦٧﴾

51. (Farawo) aravuga ati “None se ababayeho mbere (bakaba barahakanye mbere yacu) bizabagendekera bite?”

قَالَ فَمَابَأْلُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ ﴿٦٨﴾

52. (Musa) aravuga ati “Ubumenyi bwabyo buri mu gitabo kwa Nyagasani wanjye. Nyagasani wanjye ntajya yibeshya cyangwa ngo yibagirwe.”

قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيٍّ فِي كِتَابٍ لَا يَضُلُّ رَبِّيٍّ وَلَا

يَنْسَىٰ ﴿٦٩﴾

53. Ni We wabagiriye isi nk’isaso, anabashyiriramo amayira menshi ndetse anabamanurira amazi mu kirere (imvura), nuko tuyamerresha ibimera by’amoko atandukanye.

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهَدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ بَنَاتٍ شَفَّافَاتٍ ﴿٧٠﴾

54. Ngaho nimurye (muri ibyo bimera) munabiragiremo amatungo yanyu. Mu by’ukuri muri ibyo harimo ibimenyetso (bigaragaza ubushobozi bwa Allah) ku banyabwenge.

كُلُّوا وَارْعُوا أَنْعَمَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنْتِ لَا وَلِيٰ ﴿٧١﴾

أَنْتُهُى ﴿٧٢﴾

55. Twabaremye tubakomoye mu gitaka, ni na cyo tubasubizamo (igihe mwapfuye), ndetse ni na cyo tuzongera

\* مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ

تَارَةً أُخْرَىٰ ﴿٧٣﴾

kubavanamo ku yindi nshuro  
(igihe cyo kuzurwa).

56. Mu by'ukuri (Farawo) twamweretse ibitangaza byacu byose, ariko yarabihinyuye yanga no kwemera.

57. (Farawo) aravuga ati “Ese wazanywe no kutwirukana mu gihugu cyacu ukoresheje uburozi bwawe, yewe Musa?”

58. “Rwose natwe tuzakuzanira uburozi bumeze nka bwo; bityo tanga igihe n'ahantu hakwiye ho kuzahurira na we, ku buryo ntawe uzabura muri twese.”

59. (Musa) aravuga ati “Tuzahure ku munsi mukuru mwaserutse, kandi (icyo gihe) abantu bazakoranywe ari mu gitondo ku gasusuruko.”

60. Nuko Farawo aragenda, maze acura imigambi ye mibisha, nyuma aragaruka (kuri wa munsi mukuru bumvikanye).

61. Musa arababwira ati “Muramenye mutorama! Ntimuhimbire **Allah** ikinyoma atavaho akabarimbuza ibihano. Kandi rwose abahimbiye (**Allah**) ikinyoma bazorama!”

62. Nuko (abarozi ba Farawo) bajya impaka hagati yabo,

وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُمْ أَيْتَنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى ٥٦

قَالَ أَجِئْنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرٍ ٥٧

يَمْوَسَى

فَلَمَّا أَتَيْنَاهُ بِسِحْرٍ مُّثْلِدٍ فَأَجْعَلْنَاهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ

مَوْعِدَّاً لَا نُخَلِّفُهُ وَنَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانُسُوَى ٥٨

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الْزِيَّةِ وَأَنْ يُحْشِرَ النَّاسُ صُحَّى ٥٩

٥٩

فَتَوَلَّ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَنْ

قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيَلَكُمْ لَا تَقْرُبُوا إِلَيَّ اللَّهُ كَذِبًا

فَيُسْحِكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ مِنْ أَفْتَرَى ٦٠

فَتَنَزَّلُ عَوْمَرُهُمْ يَنْهَمُ وَأَسْرُوا النَّجَوَى ٦١

bongorerana ku cyo bagomba  
gukora.

63. (Abarozi) baravuga bati “Aba bombi (Musa na Haruna) ni abarozi. Umugambi wabo ni uwo kubamenesha mu gihugu cyanyu bakoresheje uburozi bwabo, bakabakura ku myemerere yanyu ntangarugero.”

64. (Barabwirana bati) “Ngaho nimwegeranye imigambi yanyu, maze muze ku murongo. Kandi arahiriwe uri butsinde uyu munsi.”

65. Baravuga bati “Yewe Musa! Hitamo kubanza kunaga (inkoni yawe) cyangwa abe ari twe tubanza kunaga!”

66. (Musa) aravuga ati “Ahubwo nimube ari mwe mubanza kunaga! (Bakimara kunaga) imigozi n’inkoni byabo bimugaragarira nk’ibiri kugenda (nk’inzoka) kubera uburozi bwabo.”

67. Nuko Musa yiyumvamo ubwoba.

68. Turavuga tuti “Witinya! Mu by’ukuri ni wowe uri butsinde.”

قَالُوا إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرٍ نِيْرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَكُمْ  
مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسَاحِرِهِمَا وَيَدْهَبًا بِطَرِيقَتِكُمْ  
الْمُشَّلَّى

فَأَجْمِعُوا يَعْدِمُونَ ثُمَّ أَتَتُوهُمْ صَفَّاً وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مِنْ  
أَسْتَعْلَى

قَالُوا يَمُوسَى إِنَّمَا أَنْتُ قَرِئَ وَإِنَّمَا أَنْ تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَنْتَ

قَالَ بْلَأْلَقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيمُهُمْ يُخْيَلُ إِلَيْهِ  
مِنْ سَاحِرِهِمْ أَنَّهَا شَعْرٌ

فَأَوْجَسَ فِي نَقْسِهِ خِيفَةً مُوسَى

قُنْتَالَانْخَفَ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى

69. "Ngaho naga hasi ikiri mu kuboko kwawe kw'iburyo (inkoni)! Kiraza kumiragura ibyo bakoze. Mu by'ukuri ibyo bakoze ni ubucakura bw'abarozi, kandi umurozi ntashobora gutsinda aho yaba ari hose."

70. (Nuko Musa anaga inkoni hasi maze ihinduka inzoka nini, imiragura ibyo bari bakoze) abarozi bitura hasi barubama, baravuga bati "Twemeye Nyagasani wa Haruna na Musa."

71. (Maze Farawo) aravuga ati "(Musa) mumwemeye mbere y'uко" mbibahera uburenganzira? Mu by'ukuri ni we muyobozi wanyu mukuru wabigishije uburozi. Rwose ndabaca amaboko n'amaguru imbusane, maze mbabambe ku biti by'imitende, hanyuma muraza kumenya muri twembe; (njye Farawo n'Imana ya Musa) ushobora gutanga ibihano bikomeye kandi bihoraho."

72. (Abarozi) baravuga bati "Ntidushobora kuguhitamo turetse ibyo (Musa) yatugejejeho (by'ibitangaza) bigaragara, (cyangwa se ngo) tureke Uwaduhanze! Ngaho ca iteka uko ubishaka kuko mu by'ukuri iteka uca ni iry'ubu buzima bw'isi."

وَأَلَقَ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفَ مَا صَنَعْتُ أَنَّمَا صَنَعْتُ كَيْدَ  
سَحِيرٌ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى  
٦٧

فَأَلَقَ السَّحَرُ سُجَّدًا قَالُوا إِنَّمَا يَرَبِّ هَرُونَ وَمُوسَىٰ

٦٨

قَالَ إِنَّمَنْتُ لَهُ وَقَبَلَ أَنْ إَذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرٌ كُمْ  
الَّذِي عَلِمْتُمُ الْسِّحَرَ فَلَا يُفْلِطُنَّ أَيْدِيكُمْ  
وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خَلْفِ وَلَا أَصْبِلَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ  
النَّخْلِ وَتَعَلَّمُنَّ أَيْتَا أَشَدُ عَذَابًا وَأَنْقَنَى  
٦٩

قَالُوا نَنُوشُرُكُمْ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي  
فَطَرَنَا فَأَقْضِي مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ

الْدُّنْيَا  
٦١

73. "Mu by'ukuri twemeye Nyagasani wacu kugira ngo atubabarire amakosa yacu n'uburozi waduhatiye gukora. Kandi **Allah** ni mwiza (kukurusha wowe Farawo) ndetse ahoraho."

74. Mu by'ukuri uzajya kwa Nyagasani we ari inkozi y'ibibi, azashyirwa mu muriro wa Jahanamu, kandi ntazigera awuboneramo urupfu n'ubuzima (bwiza).

75. Ariko uzamusanga ari umwemeramana kandi yarakoze ibikorwa byiza, abo bazaba bari mu nzego zo hejuru,

76. (Mu) busitani buhoraho, buzaba butembamo imigezi, bazabamo ubuziraherezo. Icyo ni cyo gihembo cy'abiyejeje (birinda gukora ibyo **Allah** yazaririje).

77. Kandi rwose twahishuriye Musa (tugira) tuti "Jyana abagaragu banje nijoro, unabacire inzira yumutse mu nyanja udatinya ko (Farawo) yakugeraho (ngo akugirire nabi), cyangwa ngo utinye (kurohama)."

78. Nuko Farawo n'ingabo ze barabakurikira, maze (Farawo

إِنَّا أَمَّا بِرَبِّنَا لِيَعْفَرَنَا خَطَلَيْنَا وَمَا أَكْرَهَنَا عَلَيْهِ  
مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَّأَنْقَىٰ

إِنَّهُ وَمَنْ يَأْتِ رَبَّهُ بِمُحْجِرٍ مَّا فَإِنَّهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا

وَلَا يَخْيَىٰ

وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ

الْدَّرَجَاتُ الْأَعْلَىٰ

جَنَّتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتَهَا الْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا

وَذَلِكَ جَزَاءٌ مَّا تَرَكُوا

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ أَنَّ أَسْرِيعَادِي فَاضْرِبْ  
لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ بَسَّا لَا تَخْفُ دَرَگَا وَلَا تَخْشَى

۱۷

فَاتَّبَعَهُمْ فَرْعَوْنُ يَهُوَدَهُ فَغَشَيْهِمْ مِّنْ أُلَيْهِ مَا

عَشِيشُهُمْ

n'izo ngabo) barengerwa  
n'inyanja uko bakabaye!

79. Kandi Farawo yayobeje abantu be (abaganisha mu buhakanyi), ndetse ntiyabayoboye (inzira y'ukuri).

80. Yemwe bene Isiraheli! Rwose twabakijije umwanzi wanyu (Farawo), tunabasezeranya (kugera amahoro) iruhande rw'iburyo ku musozi (wa Sinayi), nuko tunabamanurira (amafunguro ya) Manu na Saluwa<sup>140</sup>,

81. (Tugira tuti) “Nimurye mu byiza twabafunguriye kandi ntumuzarengere, mutazavaho mugerwaho n'uburakari bwanjye, kuko rwose ugezweho n'uburakari bwanjye aba yoramye.”

82. “Kandi mu by'ukuri mbabarira uwicujije, akemera, agakora ibikorwa byiza, hanyuma akayoboka (inzira igororotse).”

83. (Allah abwira Musa ati) “Yewe Musa! Ni iki cyatumye wihuta ugasiga abantu bawe?”

وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَوَمَاهَدَىٰ ﴿٧٩﴾

يَبْنَىٰ إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْتَكُمْ مِّنْ عَدُوٍّ كَثِيرٍ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الظُّرُورِ الْأَيَّمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمُنَّ وَالسَّلَوَىٰ

٧٩

كُلُّوْمَنْ طَيِّبَتِ مَارِزَقَكُمْ وَلَا تَطْعُرْ أَفِيهِ فَيَحْلَّ عَلَيْكُمْ عَذَابٌ حَمِيمٌ وَمَنْ يَحْلِمْ عَلَيْهِ عَذَابٌ فَقَدْ هَوَىٰ

٨١

وَإِنِّي لِغَفَارٌ لِمَنْ تَابَ وَأَمَنَ وَعَمِلَ صَلَاحًا ثُمَّ أَهْتَدَىٰ ﴿٨٢﴾

\*وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمَكَ يَهُوَسَىٰ ﴿٨٣﴾

<sup>140</sup> Reba uko twasobanuye aya magambo muri Surat al Baqarat, umurongo wa 57.

84. (Musa) aravuga ati “Bari inyuma yanje barankurikiye; nihutiye kugusanga Nyagasan, kugira ngo wishime.”

قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أُثْرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ  
لِرَضَىٰ ﴿٨٤﴾

85. (**Allah**) aravuga ati “Mu by'ukuri abantu bawe twabahaye ikigeragezo nyuma y'uko ugiye, nuko Samiriyu arababayoya (abashishikariza kugaragira akamasa).”

قَالَ إِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلْتُمُ  
السَّامِرِيُّ ﴿٨٥﴾

86. Nuko Musa agaruka mu bantu be arakaye kandi anababaye. Aravuga ati “Bantu banje! Ese Nyagasan wanyu ntiyahahaye isezerano ryiza (ryo kubahishurira Tawurati)? Ese igihe cy'isezerano cyababanye kirekire (murarambirwa)? Cyangwa mwashatse ko uburakari bwa Nyagasan wanyu bubageraho, muca ukubiri n'isezerano ryanje (muhitamo kugaragira akamasa muretse **Allah**)?”

فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضِبَنَ أَسْفًا قَالَ  
يَقُولُ اللَّهُمَّ يَعْدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَا حَسَنًا أَفَطَالَ  
عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحْلَّ عَلَيْكُمْ  
غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمُ مَوْعِدِي ﴿٨٦﴾

87. Baravuga bati “Ntitwaciye ukubiri n'isezerano ryawe ku bushake bwacu, ahubwo twikorejwe imitwaro y'imitako y'abantu (ba Farawo) nuko tuyijugunya (mu muriro) nk'uko Samiriyu yabigenje.”

قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِكَا وَلِكَنَّا حُمِّلْنَا  
أَوْزَارًا مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَدْ فَتَاهَا فَكَذَّلَكَ أَلْقَى  
السَّامِرِيُّ ﴿٨٧﴾

88. Nuko (muri ya mitako yajugunywe mu muriro, Samiriyu) ababumbiramo akamasa kameze nk'aho kabira, maze (bamwe muri bo) baravuga

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عَجَلًا جَسَدَ اللَّهِ وَخُوارٍ فَقَالُوا هَذَا  
إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ﴿٨٨﴾

bati “Iyi ni yo mana yanyu, ikaba  
ari na yo mana ya Musa, uretse  
ko (Musa) yibagiwe (imana ye)!”

89. Ese ntibabona ko (ako kamasa bagize imana) katagira  
imvugo (n’imwe) kabasubiza,  
ndetse ko nta n’ubushoboz  
gafite bwo kugira icyo kabatwara  
cyangwa ngo kagire icyiza  
kabamarira?

90. Kandi rwose Haruna yari  
yarabibabwiye na mbere, ati  
“Yemwe bantu banjye! Mu  
by’ukuri mwaguye mu  
kigeragezo (cyo kugaragira  
akamasa), kandi mu by’ukuri  
Nyagasani wanyu ni (Allah)  
Nyirimpuhwe; bityo  
nimunkurikire kandi mwumvire  
itegeko ryanje.”

91. Baravuga bati “Ntituzigera  
tureka kugasenga (ako kamasa)  
kugeza igihe Musa azagarukira.”

92. (Ubwo Musa yari agarutse)  
yaravuze ati “Yewe Haruna!  
Ubwo wabonaga bamaze  
kuyoba, ni iki cyakubujije,

93. Kunkurikira (kugira ngo uze  
ubimbwire)? Ese wigometse ku  
itegeko ryanje?

أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ  
لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَقْعَدًا ﴿٨٩﴾

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَرُونُ مِنْ قَبْلٍ يَقُولُ إِنَّمَا  
فُتَنَّتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّسِعُونِي وَأَطِيعُوا  
أَمْرِي ﴿٩٠﴾

قَالُوا لَنْ تَبْرَحَ عَلَيْهِ عَذَافِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا  
مُوْسَىٰ ﴿٩١﴾

قَالَ يَاهْرُونُ مَا مَنَعَكِ إِذْ أَرَيْتَهُمْ صَلَوةً ﴿٩٢﴾

الْأَلَّاتَ تَبْيَعُنَ اغْصَبَيْتَ أَمْرِي ﴿٩٣﴾

94. (Haruna) aravuga ati “Mwana wa mama! Winkurura ubwanwa unanjegeza umutwe! Mu by'ukuri natinye ko uzavuga ko natandukanyije bene Isiraheli, nkaba ntaranubahirije imvugo yawe.”

95. (Musa) aravuga ati “Wabitewe ni iki, yewe Samiriyu?”

96. (Samiriyu) aravuga ati “Nabonye ibyo batabashije kubona, nuko mfata mu kiganza igitaka cy'aho (ifarasi ya Malayika Gaburihel) yakandagiye nkinaga (mu muriro). Uko ni ko nibwiye.”

97. Musa aravuga ati “Hoshi genda! Kandi igihano cyawe mu buzima, kizaba kubaho uvuga uti “Ntunkoreho (uzabaho uri igicibwa)! Kandi ufite n'isezerano (ryo guhanwa) utazagira aho uhungira. Ikindi kandi reba iki kigirwamana cyawe wahoraga usenga, turagitwika nta kabuza, maze tunyanyagize ivu ryacyo mu nyanja.”

98. Rwose (mwa bantu mwe) Imana yanyu ni Allah wenyine. Nta yindi mana ikwiye gusengwa by'ukuri uretse We. Azi buri kintu cyose.

قَالَ يَبْتَهِمْ لَا تَأْخُذْ بِلِحِيَتِي وَلَا بِرَأْسِي هٰذِهِ  
خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَقَتْ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ  
تَرْقِبْ قَوْلِي ٩٤

قَالَ فَمَا خَطَبُكَ يَسَّمِيرِي ٩٥

قَالَ بَصَرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ  
قَبْصَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذَنَهَا  
وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ٩٦

قَالَ فَادْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا  
مَسَاسٌ وَلَنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخَافَهُ وَأَنْظُرْ إِلَيْكَ  
إِلَهَكَ الَّذِي ظَلَّتْ عَلَيْهِ عَاكِفًا  
لَنْ حَرَقَنَهُ وَلَمْ لَنْ سِفَنَهُ وَفِي الْيَمِّ سَفَانًا ٩٧

إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسَعَ  
كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ٩٨

99. Nguko uko tukubarira inkuru z'ibyabayeho mbere yawe (yewe Muhamadi). Kandi mu by'ukuri twaguhaye urwibutso ruduturutseho (Qur'an ntagatifu).

كَذَلِكَ نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ  
عَاتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذَكَرًا

100. Uzarutera umugongo (ntarwemere ndetse ntanakurikize ibirurimo), mu by'ukuri azikorera umutwaro (w'ibaya) ku munsi w'imperuka,

مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا

101. Bazabana na wo ubuziraherezo, kandi uzaba ari wo mutwaro mubi kuri bo ku munsi w'imperuka.

خَلِيلِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمَلًا

102. Umunsi impanda izavuzwa, tuzakoranya inkozi z'ibibi kuri uwo munsi zisa n'ibara ry'ubururu (kubera ubwoba bukabije).

يَوْمَ يُنَفَّحُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذِ

رُزْقًا

103. Bazaba bongorerana hagati yabo bagira bati "Ku isi mwahamaze (iminsi) icumi gusa."

يَتَخَلَّفُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَيَشْتُمُ الْأَعْشَارًا

104. (**Allah** azavuga ati) "Tuzi neza ibyo bazavuga, ubwo ubarusha ubwenge muri bo azavuga ati "(Ku isi) mwahamaze igihe kitarenze umunsi umwe."

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْلُهُمْ طَرِيقَةً  
إِنْ لَيَشْتُمُ الْأَيَّومَا

105. Baranakubaza ku byerekeye (iherezo ry') imisozi (ku munsi w'imperuka). Vuga uti "Nyagasani wanje

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجَبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا

١٥

azayiritura ihinduke ivumbi ritumuka."

106. Nuko (isi) ayisige ari ikibaya kiringaniye (kitagira ikimera),

107. Utabonaho ikoni cyangwa ahegutse n'ahacuramye.

108. Kuri uwo munsi (abantu bose) bazakurikira (ijwi ry') umuhamagazi (uzaba abahamagarira kujya ku gihagararo cy'imperuka) ntawe unyuranyije na we. Ndetse amajwi (yose) azaca bugufi imbere ya (**Allah**) Nyirimpuhwe, kandi nta yandi majwi uzaba wumva uretse kongorerana.

109. Kuri uwo munsi nta buvugizi buzagira akamaro usibye gusa uwo (**Allah**) Nyirimpuhwe azaha uburenganzira (bwo gukora ubuvugizi), kandi akanamwemerera kuvuga.

110. (**Allah**) azi ibyababayeho (ku isi) n'ibizababaho (ku munsi w'imperuka), kandi bo ntibashobora kumumenya wese.

111. Kandi uburanga bwose (ku munsi w'imperuka) buzaba bwaciye bugufi imbere ya (**Allah**), Uhoraho akanabeshaho

فَيَذْرُهَا قَاعَاصَفَصَفَا

لَّا تَرَى فِيهَا عَوْجَأَ وَلَا أَمْتَا

يَوْمَئِذٍ يَتَعْوَنَ الدَّاعِي لِأَعْوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ  
الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَأً

يَوْمَئِذٍ لَا تَتَفَعَّلُ الشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذْنَ لَهُ الرَّحْمَنُ  
وَرَضَى لَهُ وَقْلًا

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ  
بِهِ عِلْمًا

\* وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلَّهِ الْقَيُومَ وَقَدْ حَابَ مَنْ  
حَمَلَ ظُلْمًا

ibiraho byose. Kandi inkozi z'ibibi zizaba ziri mu kaga.

112. N'ukora ibyiza kandi ari umwemera, ntazigera atinya kurenganywa cyangwa kwamburwa (ibyiza yakoze).

113. Uko ni ko twahishuye Qur'an mu rurimi rw'Icyarabu, tunayisobanuramo ibibaburira kugira ngo barusheho kugandukira (**Allah**) cyangwa bibahe kwibuka.

114. Ku bw'ibyo, uri hejuru ya byose ni **Allah**, ubutungane ni ubwe, Umwami w'ukuri. Bityo (yewe Muhamadi) ntukagire ubwira (mu kwakira) Qur'an mbere y'uko kuyiguuhishurira birangira. Ahubwo ujye uvuga uti “Nyagasani wanjye! Nyongerera ubumenyi.”

115. Kandi rwose mbere twari twarahaye Adamu isezerano (ryo kutarya ku giti cyo mu ijuru), ariko yaribagiwe (akiryaho), ntitwigeze tumusangana ukutagamburuzwa.

116. Unibuke ubwo twabwiraga abamalayika tuti “Mwubamire Adamu!” Nuko barubama, uretse Ibilisi (Shitani) wabyanze.

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ أَصْحَاحٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَنْهَا ف  
ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴿١٣﴾

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَفْنَا فِيهِ مِنْ  
الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُورُونَ أَوْ يُنْجِدُ لَهُمْ ذِكْرًا

﴿13﴾

فَتَعْلَمَ اللَّهُ أَمْلَكُ الْحُقُوقِ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْءَانِ  
مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي  
عِلْمًا ﴿١٤﴾

﴿14﴾

وَلَقَدْ عَاهَدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنِسِيَ وَلَمْ يَجِدْ  
لَهُ عَزْمًا ﴿١٥﴾

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ  
فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى ﴿١٦﴾

117. Nuko turavuga tuti “Yewe Adamu! Mu by'ukuri uyu ni umwanzi wawe, wowe n'umugore wawe. Bityo, muramenye ntazabakure mu ijuru mutazavaho mukagorwa.”

فَقُلْنَا إِنَّكَ آدَمُ إِنَّهُ هَذَا عَدُوُّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا  
يُخْرِجَ حَتَّىٰ كَمَا مِنْ أَجْنَانَةٍ فَتَشَقَّقَ  
ۖ

118. Mu by'ukuri nta nzara uzarigiriramo ndetse nta n'ubwo uzariburiramo icyo kwambara.

إِنَّ لَكَ لَا يَجْوِعُ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ  
ۖ

119. Kandi nta nyota uzarigiriramo ndetse nta n'ubwo uziewa n'izuba.

وَأَنْكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ  
ۖ

120. Nuko Shitani imwoshyia igira iti “Yewe Adamu! Ese nkurangire igititi waryaho ukazabaho iteka ndetse ukazanagira ubwami budashira?”

فَوَسَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَنُ قَالَ يَكَادُمْ هَلْ أَدْلُكَ  
عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلِكٌ لَا يَبْلِي  
ۖ

121. Nuko bombi (Adamu na Hawa) bakiryaho maze ubwambure bwabo burabagaragarira, bityo batangira kubutwikiriza amababi (y'ibiti) byo mu busitani bwo mu Ijuru. Nuko Adamu aba acumuye kuri Nyagasani we, maze arayoba.

فَأَكَلَ لَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَ ثُومَهُمَا وَلَفِقَا  
يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىَ آدَمُ  
رَبَّهُ وَغَوَّرَ  
ۖ

122. Hanyuma Nyagasani we aramutoranya, yakira ukwicuza kwe aranamuyobora.

ثُمَّ أَجْبَتْهُ رَبُّهُ وَقَاتَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ  
ۖ

123. (**Allah**) aravuga ati “Nimumanuke mwembi murivemo (mujye ku isi), bamwe muri mwe ari abanzi b'abandi (abantu bazaba abanzi ba Shitani, ndetse na we abe umwanzi wabo). Kandi umuyoboro wanjye nuramuka ubagezeho, uzakurikira uwo muyoboro wanjye ntazigera ayoba cyangwa ngo agorwe.”

124. Ariko uzirengagiza urwibutso rwanjye, mu by'ukuri azagira ubuzima bw'inzitane ndetse no ku munsi w'imperuka tuzamuzura ari impumyi.”

125. Azavuga ati “Nyagasani wanjye! Ni kuki unzuye ndi impumyi kandi (ku isi) narabonaga?”

126. (**Allah**) azavuga ati “Uko ni ko bigomba kumera, (kuko) ibimenyetso byacu byakugezeho ukabyiyibagiza; none nawe uyu munsi uribagiranye.

127. Uko ni na ko duhana awarengereye ntiyemere ibimenyetso bya Nyagasani we. Kandi rwose ibihano byo ku munsi w'imperuka ni byo bikaze ndetse bizahoraho.

قَالَ أَهِيَطَ مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِنَّكُمْ مِّنْ هُدَىٰ فَمَنْ أَتَّبَعَ هُدَىٰ فَلَا يَضُلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿١٢٣﴾

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنِ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَخَسْرَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَىٰ ﴿١٢٤﴾

قَالَ رَبِّ لِرَحْمَرَتِنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿١٢٥﴾  
قَالَ كَذَلِكَ أَتَشَكَّ ءَايَتُنَا فَنَسِيَتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ ﴿١٢٦﴾

وَكَذَلِكَ بَخِرِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِإِيمَانِ رَبِّهِ وَعَذَابُ الْكُفَّارِ أَشَدُ وَأَقَعَ ﴿١٢٧﴾

128. Ese kuba twaroretse ibisekuru byinshi mbere yabo, bakaba banyura mu matongo yabo ntibibaha kuyoboka? Mu by'ukuri muri ibyo harimo inyigisho ku bantu bafite ubwenge."

129. Kandi iyo bitaza kuba ijambo ryaturutse kwa Nyagasan wawe ryabanje (ryo kudahaniraho) ndetse ntihanabeho igihe cyagenwe (cyo guhanwa), byari kuba ihame ko bacirwaho iteka (hano ku isi).

130. Bityo, ujye wihanganira ibyo bavuga (yewe Muhamadi), unatagatifuze Nyagasan wawe umukuza mbere yuko izuba rirasa na mbere yuko rirenga, ndetse ujye unamutagatifuze umukuza mu bihe by'ijoro no mu mpera z'amanywa; kugira ngo uzagire ibyishimo (by'ingororano za Nyagasan).

131. Kandi ntuzarambure amaso yawe urangamira ibyo twahaye amatsinda anyuranye muri bo (ababangikanyama) kugira ngo bishimishe, (kuko) ari imitako y'ubuzima bw'isi (twabahaye) ngo tuyibageragereshe. Kandi ingororano Nyagasan wawe azatanga (mu ijuru) ni zo nziza ndetse zizahoraho.

فَلَمَّا يَهَدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكَنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ  
يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَأُولَئِ

الْأَنْهَى

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِرَأْمًا وَأَجْلٌ

مُسَمَّىٰ

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَيَحْمَدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ  
الشَّمْسِ وَقَبْلَ عُرُوهِهَا وَمِنْ ءَاذَاءِ أَلَيْلِ فَسَيَحْ  
وَأَطْرَافَ الْأَنْهَارِ لَعَلَّكَ تَرَضَىٰ

وَلَا تَمْدَدَنَ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ  
زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتَنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ

وَابْيَقَ

132. Kandi ujye ubwiriza abo mu rugo iwawe gusali ndetse unabihozeho. Ntitujya tugusaba amafunguro, kuko ari twe tuyaguha. Kandi iherezo ryiza ni iry'abagandukira (**Allah**).

وَأَمْرَ أَهْلَكَ بِالصَّلَوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْكُلْ رِزْقًا  
نَحْنُ تَرْفُقُكَ وَالْعِقْبَةُ لِلْتَّقْوَىٰ

١٣٢

133. (Abahakanye) baravuga batii "Kuki (Muhamadi) atatuzanira igitangaza giturutse kwa Nyagasani we?" Ese ntibagezweho n'igitangaza (Qur'an) gishimangira ibyawuzwe mu bitabo byabanje<sup>141</sup>?

وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِنَا بِعَيْنَةٍ مِّنْ رَّبِّهِ أَوْ لَمْ تَأْتِنَاهُ  
بِيَنَّةٌ مَّا فِي الصُّحْفِ الْأُولَىٰ

١٣٣

134. N'yo tuza kubarimbuza ibihano mbere ye (Muhamadi), mu by'ukuri bari kuvuga batii "Nyagasani wacu! Iyo uza kutwoherereza Intumwa, twari gukurikira amagambo yawe mbere y'uko dusuzugurika ngo tunasebe."

وَلَوْلَا أَهْلَكَهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا  
لَوْلَا أَرْسَلَتِ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبَعَهُ إِنَّكَ مِنْ  
قَبْلِ أَنْ نَذَلَّ وَنَخْرَزَ

١٣٤

135. Vuga (yewe Muhamadi) uti "Buri wese arategereje, bityo namwe nimutegereze, muzamenya abari mu nzira igororotse kandi bayobotse."

قُلْ كُلُّ مَرِيضٍ دُوْ فَتَرِضُوا فَسَعَلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ  
الصِّرَاطَ أَسْوَىٰ وَمَنِ اهْتَدَىٰ

١٣٥

<sup>141</sup> Ibitabo byabanjirije Qur'an ni Suhufi yahishuriwe Intumwa Ibrahim, Zaburi yahishuriwe Intumwa Dawudi, Tawurati yahishuriwe Intumwa Musa, Injili (Ivanjili) yahishuriwe Intumwa Issa (Yesu). Kubyemera bikaba ari inkigi ya kane mu nkingsi zigize ukwemera kwa Isilamu.

## 21 - SURAT AL ANBIYA-U

(ABAHANUZI)

Yahishuriwe i Maka, igizwe n 'imirongo 112.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Ibarura ry'abantu riregereje, mu gihe bo bari mu burangare, birengagije (amategeko ya Allah).

2. Nta rwibutso rushya rubageraho ruturutse kwa Nyagasani wabo ngo barwumve batarukerensa,

3. Imitima yabo ihugije mu bibi. Naho inkozi z'ibibi zongorerana zigira ziti "Ese uyu (Muhamadi) hari ikindi ari cyo usibye kuba ari umuntu nkamwe? Ese muremera gukurikira uburozi kandi mububona"?

4. (Muhamadi) aravuga ati "Nyagasani wanje azi ibivugwa mu kirere no ku isi (byose), kandi ni Uwumva bihebuje, Umumenyi uhebuje."

5. Ahubwo baravuze bati "(Iyi Qur'an) ni inzozi z'uruvangitirane, (abandi bati) ahubwo yarayihimbye! (Abandi bati) ahubwo ni umusizi! Ngaho natuzanire igitangaza nk'uko

أَقْرَبَ لِتَائِسٍ حَسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفَلَةٍ  
مُعَرِّضُونَ ①

مَا يَأْتِيهِم مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحَدَّثٌ إِلَّا  
أَسْتَمْعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ②

لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسْرُوا الْتَّجَوَى الَّذِينَ  
ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مُّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ  
السِّحْرَ وَإِنَّمَا تُبَصِّرُونَ ③

قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْفُوْلَ في السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ  
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ④

بَلْ قَالُوا أَضَغَتُ أَحَلَمِي بَلْ أَفْتَرَلُهُ بَلْ هُوَ  
شَاعِرٌ فَلَمَّا تَابَ آيَةٌ كَمَا أُرْسَلَ الْأَوْلُونَ ⑤

(Intumwa) zo hambere zoherejwe (zibifite)."

6. Nta mudugudu n'umwe mu yo tworetse mbere yabo wigeze wemera (ari uko ubonye ibitangaza); ese ni bo bakwemera?

7. Kandi nta ntumwa twigeze twohereza mbere yawe (yewe Muhamadi) zitari abagabo, tuzihishuriye ubutumwa. Ngaho nimubaze abahawe ubumenyi (bw'ibitabo byo hambere) niba mutabizi.

8. Kandi (Intumwa) ntitiwazihaye imibiri idakenera ibyo kurya, ndetse ntizanabayeho ubuziraherezo.

9. Hanyuma twazuzurije isezerano, nuko tuzirokorana n'abo twashatse (kurokora), maze tworeka abakabya (mu gukora ibyaha.)

10. Rwose twabahishuriye igitabo (Qur'an) gikubiyemo urwibutso rwanyu. Ese nta bwenge mugira?

11. Ni imidugudu ingahe yakoraga ibikorwa bibi twarimbuye, maze nyuma yayo tukazana abandi bantu!

مَاءَ امْنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ فَرِيَةٍ أَهْلَكَ نَهَا أَفْهَمْ

يُؤْمِنُونَ ٧

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِنِ إِلَيْهِمْ  
فَسَعَلُوا أَهْلَ الْذِكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

٦

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الظَّعَامَ وَمَا  
كَانُوا خَلِيلِينَ ٨

ثُمَّ صَدَقُوهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءَ

وَأَهْلَكَنَا الْمُسْرِفِينَ ٩

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا  
تَعْقِلُونَ ١٠

وَكُمْ قَصَمْنَا مِنْ فَرِيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا  
بَعْدَهَا قَوْمًا لَخَرِينَ ١١

12. Nuko babonye ibihano byacu, bagerageza kwiruka babihunga.

فَلَمَّا أَحَسُوا بِآسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ﴿١٢﴾

13. (Babwirwa bannyegwa bati) “Mwihunga! Ahubwo nimusubire mu buzima bw’umunezero no mu ngo zanyu, kugira ngo mubazwe.”

لَا تَرْكُضُوا وَأَرْجِعُوا إِلَى مَا أَتَيْتُ فِيهِ وَمَسْكُنُكُمْ  
لَعَلَّكُمْ تُسَلِّمُونَ ﴿١٣﴾

14. Baravuga bati “Mbega ishyano tugushije! Mu by’ukuri twari inkozi z’ibibi.”

قَالُوا يَا وَيَلَانَا إِنَّا كُنَّا نَظَاهِمِينَ ﴿١٤﴾

15. Ayo ni yo yakomeje kuba amaganya yabo, kugeza ubwo tubagize nk’imyaka yarandaguwe, ikuma.

فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا  
خَمْدَيْنَ ﴿١٥﴾

16. Ntabwo twaremye ikirere n’isi n’ibiru hagati yabyo dukina.

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا يَنْهَا مَا لَعِينَ ﴿١٦﴾

17. Iyo tuza kuba dushaka ibitunezeza (kugira umwana cyangwa umugore), twari kubyitoranyiriza iwacu (mu ijuru, tutarinze kubikenera kuri mwe) iyo koko tuza kuba turi ababikora.

لَوْأَرَدْنَا أَنْ تَتَخَذَهُمْ لَا تَخَذَنَهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كَانَ  
فَعَلِيْنَ ﴿١٧﴾

18. Ahubwo tugaragaza ukuri kugasenya ikinyoma, maze kikayoyoka. Kandi mufite akaga kubera ibyo mwitirira Allah (muvuga ko afite umugore n’umwana).

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ  
زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصْفُونَ ﴿١٨﴾

19. Abari mu birere no ku isi ni abe. Kandi abari iwe (abamalayika) ntibagira ubwibone ngo bumve ko batamusenga ndetse ntibananirwa.

20. Basingiza (**Allah**) ijoro n'amanywa ubutarambirwa.

21. Ese (ababangikanyamana) bishyiriye ibigirwamana bishobora kuzura (abapfuye) bibakuye mu butaka?

22. Iyo (mu kirere no ku isi) haza kuba hari izindi mana zitari **Allah**, byombi byari kuba mu kaduruvayo. Ubutungane ni ubwa **Allah**, Nyagasani Nyiri Ar'shi<sup>142</sup> ihambaye, nta ho ahuriye n'ibyo bamwitirira.

23. (**Allah**) ntabazwa ibyo akora, nyamara bo (ibiremwa) bazabazwa (ibyo bakora).

24. Ese birakwiye ko (ababangikanyamana) bishyiriraho izindi mana zitari We? Vuga (yewe Muhamadi) uti "Ngaho nimuzane ikimenyetso cyanyu (gihamya ukuri kw'ibyo musenga). Iyi (Qur'an) ni urwibutso ku bari kumwe nanjye (abemeramana), ikaba n'urwibutso ku babayeho mbere yanje (kuko ibitabo

وَلَهُو مَنِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحِسِرُونَ ﴿١٩﴾

لَيُسِّيَّحُونَ إِلَيْهِ وَالنَّهَارَ لَا يَقْتُرُونَ ﴿٢٠﴾

أَمْ أَخْذَدُ وَاءَ الْهَمَاءَ مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ ﴿٢١﴾

لَوْ كَانَ فِيهِمَا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ أَفْسَدَ تَা فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٢٢﴾

لَا يُسْعَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ لَا يُسَاءُونَ ﴿٢٣﴾

أَمْ أَخْذَدُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهٌ مَّا لَهُ بِهِنْكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعَى وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحُقْقَانَ فَهُمْ مُعَرِّضُونَ ﴿٢٤﴾

<sup>142</sup> Reba uko twasobanuye iri jambo muri Surat ul Araf, Aya ya 54.

byayibanjirije na byo  
byahakanye ko Imana  
ibangikanywa). Ariko abenshi  
muri bo ntibazi ukuri, ku  
bw'ibyo ntacyo bitaho."

25. Kandi nta ntumwa twigeze twohereza mbere yawe (yewe Muhamadi) ngo tubure kuyihishurira ko nta yindi mana ibaho ikwiriye gusengwa mu kuri itari Njye (**Allah**). Bityo nimungaragire (njenyine).

26. Kandi (Ababangikanyamana) baravuze bati "(**Allah**) Nyirimpuhwe afite umwana. Ubutagatifu ni ubwe (ntibibaho ko yagira umwana)! Ahubwo (abo bamalayika bita abana be) ni abagaragu bubashywe."

27. Nta cyo bajya bavuga batagitegetswe (na **Allah**), kandi bubahiriza itegeko rye.

28. (Abo bamalayika, **Allah**) azi ibiri imbere yabo n'inyuma yabo (ibyo bakoze n'ibyo bazakora), kandi ntibashobora kugira uwo bavuganira (**Allah**) atamwishimiye. Ndetse bahora bicishije bugufi kubera kumutinya.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ  
أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿٥﴾

وَقَالُوا أَنْخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ عَبَادُهُ  
مُكَرْمُونَ ﴿٦﴾

لَا يَسِّقُونَهُ وَبِالْقَوْلِ وَهُمْ يَأْمِرُونَ يَعْمَلُونَ ﴿٧﴾

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا  
يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ حَشِّيَّةٍ  
مُسْفِقُونَ ﴿٨﴾

29. N'uwo ari we wese muri bo (abamalayika) wavuga ati "Mu by'ukuri njye ndi imana mu cyimbo cye (**Allah**)"; uwo twazamuhanisha umuriro wa Jahanamu. Kandi uko ni ko duhemba inkozi z'ibibi.

30. Ese abahakanye ntibabonye ko ibirere n'isi byari bifatanye nyuma tukabitandukanya, kandi ko buri kinyabuzima cyose twakiremye mu mazi? Ese ubwo ntibemera?

31. Nuko dushyira imisozi ishimangiye ku isi kugira ngo itabanyeganyeza, ndetse tunayishyiramo inzira kugira ngo bamenye aho banyura.

32. N'ikirere twakigize igisenge kirinzwe, nyamara birengagiza ibitangaza byacyo (izuba, ukwezi, inyenyeri,...).

33. Ni na We waremye ijoro, amanywa, izuba ndetse n'ukwezi; buri cyose kigenda mu nzira zacyo cyihuta.

34. Kandi nta n'umwe mu babayeho mbere yawe (Muhamadi) twahaye kubaho ubudapfa. Ese niba wowe uzapfa, ni bo bazabaho ubuziraherezo?

\* وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ  
نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْرِي الظَّالِمِينَ ﴿٦﴾

أَوْلَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ  
كَانَتَا تَقَاعًا فَفَتَقَنَا هُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ  
شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَّا أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ  
وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهَتَدُونَ

٢١

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ  
ءَاهِنَّهَا مُعْرِضُونَ ﴿٣١﴾

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْيَلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ  
فِي فَلَاكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٣٢﴾

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخَلَدَ أَفَإِنْ مِتَّ  
فَهُمُ الْخَلِدُونَ ﴿٣٤﴾

35. Buri wese azasogongera ku rupfu, kandi tuzabagerageresha ibibi n'ibyiza. Ndetse iwacu ni ho muzagarurwa.

36. N'yo abahakanye bakubonye (yewe Muhamadi), nta kindi bagukorera uretse kukunnyega (babwirana bat) "Ese uyu ni we uvuga (nabi) imana zanyu?" Nyamara iyo havuzwe (**Allah**) Nyirimpuhwe, barahakana.

37. Umuntu yaremanywe kamere yo kugira ubwira. (Vuba aha) nzabereka ibimenyetso byanje (ibihano), bityo mwinsaba kubyihutisha.

38. (Abahakanyi) baravuga bat "Ese isezerano (ryo guhanwa) rizasohora ryari niba koko muri abanyakuri?"

39. Iyo abahakanyi baza kumenya (uko bazaba bameze), igihe bazaba badashobora gukumira umuriro kugera mu buranga bwabo cyangwa mu migongo yabo, cyangwa ngo bamenye ko batazatabarwa (ntibari kuguma mu buhakanyi)!

40. Ahubwo (imperuka) izabageraho ibatunguye, ibateshe umutwe, kandi ntibazashobora kuyikumira ndetse nta n'ubwo

كُلُّ نَقِيسٍ ذَاهِقَةُ الْمَوْتِ وَبَتَلُوكُمْ بِالشَّرِّ  
وَالْخَيْرِ فِتْنَةٌ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٢٥﴾

وَإِذَا رَءَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا  
هُزُوا أَهْنَدًا الَّذِي يَدْكُرُهُ الْهَتَّاكُمْ وَهُمْ  
يُذِكِّرُ أَرْحَمَنْ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٢٦﴾

خُلِقَ الْإِنْسَنُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ  
هَيْكِيٰ فَلَا تَسْتَعِجِلُونَ ﴿٢٧﴾

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ  
صَدِيقِيْنَ ﴿٢٨﴾

لَمْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَآيَاتُنَا  
عَنْ وُجُوهِهِمُ الظَّارِفَاتُ لَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ  
يُنْصَرُونَ ﴿٢٩﴾

بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبَهَّتُهُمْ فَلَا  
يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٣٠﴾

bazarindirizwa (kugira ngo bicuze).

41. (Niba bakerensa ubutumwa bwawe, yewe Muhamadi, ntukagire agahinda) kuko mu by'ukuri n'Intumwa zabayeho mbere yawe zarakerenshejwe, maze abazisekaga bagerwaho n'ibihano by'ibyo basuzuguraga.

42. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Ni nde ushobora kubarinda ibihano bya (**Allah**) Nyirimpuhwe ijoro n'amanywa (aramutse ashaka kubahaha)? Ariko (abahakanyi) birengagiza kwibuka Nyagasanji wabo.”

43. Ese baba bafite izindi mana zabarinda zitari twe? Mu by'ukuri na zo ubwazo ntizishobora kwitabara, ndetse nta n'uwasidukiza (turamutse dushatse kuzihana).

44. Ahubwo abo (bahakanyi) n'abakurambere babo twabahaye umunezero kugeza ubwo babayeho igihe kirekire (barirara). Ese ntibabona ko mu by'ukuri tugenda tugabanya ubutaka (bwabo) mu mpande zabwo zose? Ese koko (abahakanyi b'i Maka) ni bo bazatsinda?

وَلَقَدِ أَسْتَهْزَئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ  
بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَهْ

يَسْتَهْزَءُونَ ﴿٤١﴾

قُلْ مَنْ يَكْلُؤُكُمْ بِالْيَلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ  
بَلْ هُمْ عَنْ ذَكْرِ رَبِّهِمْ مُّغَرِّضُونَ ﴿٤٢﴾

أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ ثُمَّ نَعْهُمْ مَنْ دُونَا لَا  
يَسْتَطِيعُونَ نَصَرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِّنَ  
يُصْحَبُونَ ﴿٤٣﴾

بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ ابْنَاءَ هُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمْ  
الْعُمُرُ فَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ  
نَقْصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمْ أَغْنَابُونَ ﴿٤٤﴾

45. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Mu by’ukuri njye mbaburira nshingiye ku byo mbanahishuriwe (na Allah). Ariko ibipfamatwi iyo biburirwa ntibyumva.”

قُلْ إِنَّمَا أَنذِرْكُمْ بِالْوَحْيٍ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُ  
الْدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿٤٥﴾

46. Kandi iyo (abahakanyi) baza kugerwaho n’igihano gito giturutse kwa Nyagasan wawe, bari kuvuga batu “Mbega ibyago byacu! Mu by’ukuri twari inkozi z’ibibi!”

وَلَئِنْ مَسَّتُهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابٍ رَّيِّكَ لَيَقُولُنَّ  
يَوْمَئِنَّا إِنَّا كُنَّا نَظَالِمِينَ ﴿٤٦﴾

47. Ndetse ku munsi w’imperuka tuzashyiraho iminzani y’ubutabera, ku buryo nta muntu n’umwe uzarenganywa, kabone n’iyo ibikorwa bye bizaba bifite uburemere bungana nk’ubw’akanyampeke gato cyane (Kharidali), tuzabizana. Kandi turihagije mu gukora ibarura.

وَنَصَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا  
تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَمْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ  
مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَسِيبَنَ ﴿٤٧﴾

48. Kandi mu by’ukuri twahaye Musa na Haruna igitabo gitandukanya ukuri n’ikinyoma (Tawurati) kikaba urumuri n’urwibutso ku bagandukira (Allah),

وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى وَهَرُورَتُ الْفُرْقَانَ وَضَيَّأَ  
وَذِكْرَ الْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾

49. Ba bandi batinya Nyagasan wabo batamubona, kandi bagaterwa uwomba n’umunsi w’imperuka.

الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ  
مُشْفِقُونَ ﴿٤٩﴾

50. Kandi iyi (Qur'an) ni urwibutso rwoje imigisha twahishuye. None se ni gute (mwatinyuka) kuruhakana?

وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنَزَلْنَاهُ إِفَاعَتُمْ لَهُ  
مُنْكِرُونَ ﴿٥﴾

51. Kandi rwose Ibrahimu twamuhaye kuyoboka mbere (ya Musa na Haruna), ndetse twari tumuzi neza (ko abikwiye).

\*وَلَقَدَّ أَتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا وَمِنْ قَبْلُ وَلَنَا بِعْدَهُ  
عَلِمْيَنَ ﴿٦﴾

52. (Wibuke) ubwo yabwiraga se ndetse n'abantu be ati "Ibi ni bigirwamana ki muhora musenga?"

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّسْمَائِيلُ مَا تَرَى  
لَهَا عَدِيكُفُونَ ﴿٧﴾

53. Baravuga bati "Twasanze abakurambere bacu babisenga."

قَالُوا وَجَدْنَا إِبَاءَنَ الْهَاعِدِينَ ﴿٨﴾

54. (Ibrahimu) aravuga ati "Mu by'ukuri mwe n'abakurambere banyu, muri mu buyobe bugaragara."

قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٩﴾

55. Baravuga bati "Ese utuzaniye ukuri cyangwa urikinira?"

قَالُوا أَجِئْنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ الْلَّاعِبِينَ ﴿١٠﴾

56. (Ibrahimu) aravuga ati "Ahubwo Nyagasanii wanyu (mbahamagarira kugaragira) ni Nyagasanii w'ibirere n'isi, ari na We wabihanze; kandi ibyo nanjye ndi umwe mu babihamya."

قَالَ بَلْ رَبِّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي  
فَطَرَهُنَّ وَأَنَّا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿١١﴾

57. Kandi ndahiye ku izina rya **Allah!** Rwose ndaza kugirira nabi ibigirwamana byanyu nyuma y'uko mugenda.

وَتَالَّهِ لَأَكِيدَنَ أَصْنَمُكُمْ بَعْدَ أَنْ تُؤْلُوا  
مُذَبِّرِينَ ﴿١٢﴾

58. Nuko byose arabijan jagura asiga ikinini muri byo, kugira ngo nibagaruka, (bakibaze uwagiriye nabi imana zabo).

فَجَعَلَهُمْ جُذَادًا إِلَّا كَيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ  
يَرْجِعُونَ ﴿٥٨﴾

59. (Bagarutse babona imana zabo zamenaguritse) baravuga bati “Ni nde wagize atya imana zacu? Mu by'ukuri ni umwe mu bagizi ba nabi.”

قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِإِلَهِنَا إِنَّهُ وَلَمْ  
أَظْلَمْ مِنْ ﴿٥٩﴾

60. Baravuga bati “Twumvise umusore uzivuga nabi witwa Ibrahimu.”

قَالُوا سَمِعْتَنَا فَيَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَاهِيمُ ﴿٦٠﴾

61. Baravuga bati “Nimumuzane imbere y'abantu kugira ngo birebere (ibyo agiye gukorerwa).”

قَالُوا فَأَنُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ  
يَشَهُدُونَ ﴿٦١﴾

62. (Bamuzanye) baravuga bati “Ese yewe Ibrahimu, koko ni wowe wagize utya imana zacu?”

قَالُوا إِنَّمَا فَعَلْتَ هَذَا بِإِلَهِنَا إِنَّا إِبْرَاهِيمُ ﴿٦٢﴾

63. Aravuga ati “Ahubwo byakozwe n'iki (kigirwamana) kinini muri byo! Ngaho nimubibaze niba bishobora kuvuga!”

قَالَ بَلْ فَعَلَهُ وَكِيرُهُمْ هَذَا فَسَلُوْهُمْ إِنْ  
كَانُوا نَاطِقُونَ ﴿٦٣﴾

64. Nuko barigaya ubwabo, maze barabwirana bati “Mu by'ukuri ni mwe nkodzi z'ibibi.”

فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ  
الظَّالِمُونَ ﴿٦٤﴾

65. Nuko bubika imitwe (ariko bangaa kuva ku izima nyuma yo kumenya ukuri, baravuga) bati “(Wowe Ibrahimu, ni gute udusaba kuzivugisha kandi)

ثُمَّ تُكْسُوْعَلَى رُؤُسِهِمْ لَقَدْ عِلِّمْتَ مَا هَذُولَاءَ  
يَنْطِقُونَ ﴿٦٥﴾

usanzwe uzi neza ko izi (mana zacu) zitavuga!"

66. (Ibrahimu) aravuga ati "None se ni gute musenga ibitari Allah; bitagira icyo bibamarira cyangwa ngo bigire icyo bibatwara?"

67. Ni igisebo kuri mwe no ku byo musenga bitari Allah. Ese nta bwenge mugira?

68. Baravuga bati "Nimumutwike (Ibrahimu) maze murengere imana zanyu, niba mushobora kugira icyo mukora."

69. Nuko twe (Allah) turavuga tuni "Yewe muriro! Ba ubukonje n'amahoro kuri Ibrahimu."

70. Bashaka kumugirira nabi, (tuburizamo umugambi wabo mubisha) maze baba ari bo bahinduka abanyagihombo.

71. Nuko tumurokorana na Lutwi (Loti) tubajyana mu gihugu (cya Shami<sup>143</sup>) twashyiriyemo ibiremwa byose imigisha.

72. Maze (Ibrahimu) tumuha impano (yo kubyara) Isihaqa (Isaka) tunamwongereraho Yakubu (Yakobo, umwuzukuru

قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْعَمُ كُلُّ شَيْءٍ وَلَا يَضُرُّ كُلُّ شَيْءٍ

أَفِ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

قَالُوا حَرَقُوهُ وَأَنْصُرُوهُ إِلَهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعْلِمُونَ

قُلْنَا يَا نَارُ كُوْنِي بَرْدًا وَسَلَمًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ

وَأَرْادُوا بِهِ كِيدَّا فَجَعَلْنَا هُمُ الْأَحْسَرِينَ

وَنَحْنُ نَحْنُ أَهُولُّا بِإِلَهِنَا إِلَيْهِ لَوْطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكَنَا فِيهَا لِلْعَامِمِينَ

وَهَبَنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكَلَّا جَعَلْنَا صَابِرِينَ

<sup>143</sup> Shami: Ni akarere ko mu Burasirazuba bwo hagati, kari kagizwe n'ibihugu by'ubu bya Yorudaniya, Libani, Siriya na Palesitina.

we). Kandi bombi twabagize intungane.

73. Twanabagize abayobozi bayobora ku bw'itegeko ryacu, tunabahishurira (ko bagomba) gukora ibyiza, guhozaho iswala no gutanga amaturo. Kandi ni twe (**Allah**, twenyine) basengaga.

74. Na Lutwi (Loti) twamuhaye ubushishozi mu guca imanza tunamuha ubumenyi, ndetse turamurokora tumukura mu mudugudu (wa Sodoma) wakoraga ibibi. Mu by'ukuri (abari bawutuye) bari abantu babi bakaba n'ibygomeke.

75. Twanamushyize mu mpuhwe zazu. Mu by'ukuri yari mu ntungane.

76. Kandi (wibuke yewe Muhamadi) ubwo Nuhu yatakambaga mbere. Twakiriye ubusabe bwe, tumurokorana n'abantu be mu makuba ahambaye.

77. Twanamukijije abantu bahakanye ibimenyetso byacu. Mu by'ukuri bari abantu babi maze tubarohesha umwuzure bose uko bakabaye.

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهَدُونَ بِمَا رَأَيْنَا وَأَوْحَيْنَا  
إِلَيْهِمْ فَعَلَ الْحَيْرَاتِ وَإِقَامَ الْأَصْلَوَةِ وَإِيتَاءَ  
الزَّكَوْةِ وَكَانُوا لَنَا عَبْدِينَ

وَلُوطًا إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنْ  
الْفَرِيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَيْثَرَاتِ إِنَّهُمْ كَانُوا  
قَوْمًا سَوْءًا فَسِيقِينَ

وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلٍ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ  
فَنَجَّيْنَاهُ وَهُلُوَّهُ وَمِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ

وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءًا فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ

78. Kandi (wibuke) Dawudi na Sulayimani igihe bacaga urubanza rw'umurima wari wonwe mu ijoro n'intama za bamwe mu bantu. Kandi twari abahamya b'uburyo barukijije<sup>144</sup>.

79. Nuko dushoboza Sulayimani kurusobanukirwa neza; kandi bombi (Dawudi na Sulayimani) twabahaye ubushishozi n'ubumenyi. Twategetse imisozi n'inyoni guca bugufi kugira ngo bijye bisingiza (*Allah*, bifatanyije) na Dawudi. Kandi ibyo ni twe twabikoze.

80. Twanamwigishije kubacurira ingabo kugira ngo zibarinde mu ntambara zanyu. Ese mujya mushimira?

81. Kandi twategetse umuyaga ufite imbaraga kumvira Sulayimani (ukajya umutwara) ku bw'itegeko rye, umujyana mu gihugu (cya Shami) twahundagajemo imigisha. Kandi ibintu byose twari tubizi.

وَدَأْوَدَ وَسُلَيْمَانٌ إِذْ يَحْكُمَا فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَّثَ فِيهِ عَنْهُ الْقَوْمَ وَكَانَا لِحُكْمِهِمْ

شَهْدِينَ ﴿٧٨﴾

فَفَهَمَنَاهَا سُلَيْمَانٌ وَكُلَّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعَلِمَ مَا وَسَحَّرْنَا مَعَ دَأْوَدَ الْجِبَالَ يُسَيْحَنَ وَالظَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿٧٩﴾

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ الْبُوَسِ لَكُمْ لِتُحْصِنَ كُمْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَكِرُونَ ﴿٨٠﴾

وَلِسُلَيْمَانَ الْرِّيحَ عَاصِفَةً جَجَّيْ بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ أُلَّى بَرَكَاتِنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمِينَ ﴿٨١﴾

<sup>144</sup> Urubanza ruvugwa muri uyu murongo, ni igihe intama za bamwe mu bantu zonaga umurima w'abandi mu ijoro, nuko nyir'umurima akajya kurega kwa Dawudi na Sulayimani. Mu guca urwo rubanza, Dawudi yavuze ko nyir'umurima yatwara ayo matungo yamwoneye yose, naho Sulayimani we aruca avuga ko nyir'umurima yajyana ayo matungo yamwoneye akajya ayakama, akanayakuraho ifumbire n'ibindi, kugeza igihe nyir'amatungo azasubiza umurima uko wari umeze, hanyuma agasubirana amatungo ye. Uko Sulayimani yakijje urubanza ni byo Imana yishimiye.

82. No mu majini (twategetse guca bugufi akumvira Sulayimani), hari ayajyaga yibira (mu nyanja, akamuzanira amabuye y'agaciro), akanamukorera n'indi mirimo itari iyo; kandi ni Twe twayagenzuraga.

83. Kandi (wibuke, yewe Muhamadi) ubwo Ayubu (Yobu) yatakambiraga Nyagasani we, agira ati "Mu by'ukuri nagezweho n'ingorane (z'uburwayi) kandi ni Wowe Munyempuhwe usumba abandi."

84. Nuko twakira ugu takamba kwe, maze tumukiza uburwayi yari afite, tunamugarurira umuryango we (umugore n'abana ndetse n'umutungo yari yaratakaje), tumwongreraho n'ibindi nka byo. (Ibyo twabikoze) ari impuhwe ziduturutseho (bikaba) n'urwibutso ku bagaragira **Allah**.

85. (Unibuke kandi) Isimayili na Idirisa (Enoki) na Dhulikifili, bose bari mu bihangana.

86. Twanabahundagajeho impuhwe zazu. Mu by'ukuri bari bamwe mu bakora ibikorwa byiza.

وَمِنَ الْشَّيَاطِينِ مَن يَغُصُّونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ  
عَمَلًا دُونَذِلَكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَفَظِينَ

\*وَأَيُوبَ إِذْ نَادَ رَبَّهُ وَأَنِّي مَسَقَ أَضْرُرٌ  
وَأَنْتَ أَرَحَمُ الرَّاحِمِينَ

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضَرٍّ  
وَإِنَّا هُنَّا أَهْلُهُ وَمِثْلُهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةٌ مِّنْ  
عِنْدِنَا وَذَكْرُى لِلْعَابِدِينَ

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكَفْلِ كُلُّ مِنَ  
الصَّابِرِينَ

وَأَدْخِلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِّنَ  
الصَّالِحِينَ

87. (Unibuke inkuru ya) Dhu Nun (Yunusu) ubwo yagendaga arakaye (kubera ko abantu be banze kumwumva), akeka ko tutamuhana (kubera kutihanganira abantu be, maze **Allah** amuhanisha kumirwa n'ifi). Nuko atakambira mu mwijima (wo mu nda y'ifi ndetse n'uwo mu nyanja) avuga ati “Nta yindi mana ibaho ikwiye gusengwa by'ukuri uretse wowe (**Allah**). Ubutagatifu ni ubwawe. Mu by'ukuri njye nari umwe mu nkozi z'ibibi.”

88. Nuko twakira ugutakamba kwe maze tumukiza ingorane n'akababaro. Uko ni na ko turokora abemeramana.

89. Kandi (unibuke) Zakariya, ubwo yatakambilaga Nyagasani we agira ati “Nyagasani wanjye! Ntundeke (ngo nkomeze kubaho) ndi njiyeniyine (nta rubyaro), kandi ari wowe muzungura mwiza.”

90. Nuko twakira ugutakamba kwe tumuha impano (yo kubyara) Yahaya (Yohani), ndetse dukiza umugore we (tumuha kumubyarira umwana). Mu by'ukuri bajyaga bihitira gukora ibikorwa byiza, bakadusaba biringiye (impuhwe zacu), bagatinya (ibihano byacu) ndetse banatwibombarikagaho.

وَذَا الْنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَرَبَ أَنَّ لَنْ  
نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلْمِتِ أَنْ لَا إِلَهَ  
إِلَّا أَنَّ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ  
الظَّالِمِينَ

فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَرَجَحَتْ هُمْ مِنَ الْغَمَّ وَكَذَلِكَ  
نُحِي الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾

وَزَكَرِيَاٰ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَرَبِّ لَا تَذَرْنِي  
فَرَدَأَ وَأَنَّتْ خَيْرُ الْوَرِثَيْنَ ﴿٨٩﴾

فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَيَحِيَا  
وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا  
يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَا رَغْبًا  
وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاسِعِينَ ﴿٩٠﴾

91. Kandi (unibuke) wa wundi warinze ubusugi bwe (Mariyamu), maze tukamuhumekeramo (tubinyujije kuri) roho wacu [(Malayika Jibril), (nuko agasama inda ya Yesu)], maze we n'umuhungu we tukabagira igitangaza ku biremwa byose.

92. Mu by'ukuri uyu muryango (Isilamu) wanyu ni umuryango umwe, nanjye nkaba Nyagasani wanyu; bityo mujye munsenga (nnyenyine).

93. Ariko (abantu) bacitsemo ibice mu idini ryabo<sup>145</sup>, nyamara bose bazagaruka iwacu.

94. Bityo, uzakora ibikorwa byiza akaba ari umwemeramana, ibikorwa bye ntibizaburizwamo. Kandi mu by'ukuri tubimwandikira (mu gitabo cy'ibikorwa bye).

95. Kandi kirazira ko umudugudu twarimbuye wagaruka (ku isi mbere y'umunsi w'imperuka, kugira ngo abari bawutuye batunganye ibyo bateshutseho cyangwa ngo batwicuzeho).

وَالْتَّقِ أَحَصَنَتْ فَرَجَهَا فَفَخَنَافِيهَا مِنْ  
رُّوحَنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا إِبَةً  
لِلْعَالَمِينَ ﴿٩١﴾

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنَّ  
رَبَّكُمْ فَاعْبُدُوهُنَّ ﴿٩٢﴾

وَتَقْطَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَا  
رَجِعُونَ ﴿٩٣﴾

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا  
كُفَّارَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّ اللَّهَ وَكَبِيرُونَ ﴿٩٤﴾

وَحَرَمْ عَلَى قَرِيَةٍ أَهْلَكَنَاهَا أَنْهُمْ لَا  
يَرْجِعُونَ ﴿٩٥﴾

<sup>145</sup> Idini ryabo rivugwa aha, ni ukugaragira Imana imwe rukumbi batayibangikanyije n'icyo ari cyo cyose; zikaba ari zo nyigisho z'idini rya Isilamu, ndetse bukaba ari na bwo butumwa Intumwa n'abahanuzi bose baje bigisha.

96. Kugeza ubwo Yaajuja na Maajuja bazafungurirwa (urukuta), maze bakamanuka ku misozi banyanyagira mu bibaya bihuta (bakora ubwononnyi).

97. Icyo gihe isezerano ry'ukuri (imperuka) rizaba ryegereje, ubwo amaso y'abahakanye azaba akanuye ubudahumbya; (bazaba bavuga) bati “Mbega ibyago byacu! Mu by'ukuri ibi twabigizemo uburangare, ndetse twari n'inkozi z'ibibi!”

98. Mu by'ukuri mwe (abahakanyi) hamwe n'ibyo mugaragira bitari **Allah**, muzaba ibicanwa by'umuriro wa Jahanamu; kandi mwese muzawinjiramo.

99. Iyo ibigirwamana mwasengaga biza kuba Imana (y'ukuri), ntibyari kwinjira mu muriro, kandi bizawubamo ubuziraherezo.

100. (Uwo muriro) bazawugiriramo imiborogo kandi ntibazaba bumva (kubera ibihano bihambaye).

101. Mu by'ukuri ba bandi bagezweho n'ibyiza byacu

حَقٌّ إِذَا فُتَحَ يَأْجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمْ مِنْ  
كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿٦٦﴾

وَاقْرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَخْصَةٌ  
أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَوْمَنَا قَدْ كُنَّا فِي  
عَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا نَظَلِمِينَ ﴿٦٧﴾

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ  
حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴿٦٨﴾

لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ إِلَهَةٌ مَا وَرَدُوهَا  
وَكُلُّ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿٦٩﴾

لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقُتْ لَهُمْ مِنَ الْجُنُونِ أَلْتَهَى  
عَنْهَا مُبَعِّدُونَ ﴿١٠١﴾

mbere, abo bazaba bari kure  
y'umuriro<sup>146</sup>.

102. Ntibazumva ukugurumana  
kwawo kandi bazaba babayeho  
mu buryo bifusa ubuziraherezo.

لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا أَسْتَهَتْ  
أَنفُسُهُمْ خَلِدُونَ ﴿١٢٦﴾

103. (Abagezweho n'ibiza  
byacu) ntibazaterwa ubwoba  
n'igikanganye cyane (ku munsi  
w'imperuka), kandi  
bazasanganirwa n'abamalayika  
(bababwira) bat "Uyu ni wo  
munsi wanyu  
mwasezeranyijwe."

لَا يَحْزُنُهُمْ الْفَرَغُ الْأَكْبَرُ وَتَلْقَاهُمْ  
الْمُلَكِيَّةُ هَذَا يَوْمًا كُمُوكُ الَّذِي كُنْتُمْ  
تُوعَدُونَ ﴿١٢٣﴾

104. (Wibuke) umunsi tuzazinga  
ikirere nk'uko impapuro  
z'ibitabo zizingwa. Nk'uko  
twatangiye irema rya mbere ni  
na ko tuzarisubiramo. Ni  
isezerano twiyemeje kandi mu  
by'ukuri tuzaryuzuza.

يَوْمَ نَظُرِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِيلِ لِكُتُبٍ  
كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدَّا عَلَيْنَا إِنَّا  
كُنَّا فَعِيلِينَ ﴿١٢٤﴾

105. Kandi rwose twanditse  
muri Zaburi nyuma y'uko twari  
twarabyanditse mu gitabo cyo  
mu ijuru [Lawuhul Mah'fudhi  
(urubaho rurinzwe)] ko iyi si  
izazungurwa n'abagaragu  
banje bakora ibyiza.

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الْزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الْزَّكَرِ أَنَّ  
الْأَرْضَ يَرْثَاهَا عَبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿١٢٥﴾

<sup>146</sup> Uyu murongo wahishuwe usubiza amagambo umwe mu babangikanyamana b'i Maka witwaga  
Ibun Zibaara yavuze agira ati "Niba amagambo Muhamadi avuga y'uko twe n'ibyo tugara gira  
tuzajya mu muriro, ubwo n'abamalayika bazawujyamo kuko na bo tubasenga, na Uzayiru  
awujyemo kuko Abayahudi bamusenga, ndetse na Yesu awujyemo kuko Abanaswara  
bamusenga."

106. Mu by'ukuri muri iyi (Qur'an) harimo inyigisho zihagije ku bantu bagaragira (**Allah**).

107. Kandi (yewe Muhamadi) nta yindi mpamvu yatumye tukohereza itari ukugira ngo ube impuhwe ku biremwa byose.

108. Vuga uti "Mu by'ukuri nahishuriwe ko rwose Imana yanyu ari Imana imwe rukumbi (**Allah**). Ese mwemeye kwicisha bugufi (kuba Abayisilamu)?"

109. Ariko (abahakanyi) nibaramuka bataye umugongo (bakanga kwemera Isilamu), uzavuge uti "Mwese nabagejejeho ibyo nahishuriwe mu buryo bungana (nta we nsize); kandi sinzi niba ibyo mwasezeranyijwe (ibihano) biri hafi cyangwa biri kure."

110. Mu by'ukuri we (**Allah**) azi ibyo muvuga mwerura, ndetse azi n'ibyo muhisha.

111. Kandi sinzi niba (kubatinziriza ibihano) atari ikigeragezo kuri mwe n'umunezero w'akanya gato.

إِنَّ فِي هَذَا الْبَلَاغَ الْقَوْمَ عَبِيدِينَ ١٦

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٧

قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَكَ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ  
وَحْدَهُ فَهُلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ١٨

فَإِنْ تَرَكُوا فَقُلْ إِذَا نَسِيْكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِيَ  
أَقْرِبُهُمْ أَمْ بَعِيْدُهُمْ مَا تُوعَدُونَ ١٩

إِنَّهُو يَعْلَمُ الْجَهَرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا  
تَكُنُتُمُونَ ٢٠

وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ وَفِتْنَةً لَّكُمْ وَمَتَّعْ إِلَى حِينٍ ٢١

112. (Intumwa Muhamadi) iravuga iti "Nyagasanwanjye! Dukiranure mu kuri! Kandi Nyagasanwanjye, wacu ni Nyirimpuhwe, usabwa ubutabazi bwo kwikingaho ibyo muvuga."

قَدَّ رَبِّ الْحَكْمِ يَالْحَقِّ وَرَبِّنَا الْحَمَّ  
الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصْفُونَ ﴿١٢﴾

## 22 - SURAT AL HAJJ

(UMUTAMBAGIRO MUTAGATIFU)

Yahishuriwe i Madina, igizwe n'imirongo 78.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Yemwe bantu! Nimugandukire Nyagasanwanjye! Mu by'ukuri umutingito wo ku munsi w'imperuka ni ikintu gihambaye.

يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةً أَسَاطِيرٌ  
شَقِّيٌّ عَظِيمٌ ﴿١﴾

2. Umunsi muzawubona, buri wese wonsa azibagirwa uwo yonsaga, ndetse na buri wese utwite azakuramo inda. Uzanabona abantu babaye abasinzi kandi atari bo (nta cyo banyoye), kubera ko ibihano bya Allah bizaba bikomeye.

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذَهَّلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرَضَعَتْ  
وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمِيلٍ حَمِيلَهَا وَتَرَى النَّاسَ  
سُكَّرَى وَمَا هُمْ سُكَّرَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ  
شَدِيدٌ ﴿٢﴾

3. No mu bantu hari abajya impaka kuri Allah nta bumenyi babifitiye, bakanakurikira buri shitani ryigometse.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ  
كُلَّ شَيْطَنٍ مَّرِيدٍ ﴿٣﴾

4. (Iryo shitani) ryaciriweho iteka ko uzarigira inshuti rizamuyobia, rikazanamuganisha mu muriro ugurumana.

5. Yemwe bantu! Niba mushidikanya ko izuka rizabaho (nimutekereze uko twabaremye): Mu by'ukuri twabaremye tubakomoye mu gitaka (umukurambere wanyu Adamu), hanyuma (mwe tubarema) mu ntanga, hanyuma (zihinduka) urusoro rw'amaraso, hanyuma (zihinduka) ikinyama kigaragaza ishusho n'ikitayigaragaza; kugira ngo tubagaragarize (ubushoboz bwacu). Tunarekera muri nyababyeyi uwo dushaka kugeza ku gihe cyagenwe, maze tukabasohora (muri nyababyeyi) muri impinja, (tukabakuza) kugira ngo muzagere mu gihe cyanyu cy'ubukure. No muri mwe, hari abapfa batarageza icyo gihe (cy'ubukure), ndetse no muri mwe hari n'abagera mu zabukuru bakamera nk'aho batigeze bagira icyo bamanya. Ndetse ubona ubutaka bwumagaye, maze twabumanuraho amazi (imvura) bukanyeganyega bukanabyimba, bukanameraho ibimera binyuranye bishimishije.

كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّهُ فَأَنَّهُ وَيُضْلِلُهُ  
وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٤﴾

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثَ  
إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ  
مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُّخْلَقَةٍ وَعِيرٌ مُّخْلَقَةٍ  
لِنَبِيِّنَ لَكُمْ وَنَقْرُرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى  
أَجَلٍ مُّسَمٍّ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طَفَلًا ثُمَّ لَتَبْلُغُوْ  
أَشْدَادَكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَقَّى وَمِنْكُمْ مَنْ  
يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ  
عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا  
عَلَيْهَا الْمَاءَ أَهْتَرَتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ

رَوْجَ بَهِيجِ ﴿٥﴾

6. Ibyo ni ibigaragaza ko Allah ari ukuri, kandi ko ari We uha ubuzima ibyapfuye, ndetse ko ari We ushobora byose.

ذَلِكَ يَأْنَ اللَّهَ هُوَ الْحُقُّ وَإِنَّهُ يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ وَإِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾

7. Kandi ko imperuka izaza nta gushidikanya, ndetse ko Allah azazura abari mu mva.

وَإِنَّ السَّاعَةَ عِاتِيَّةٌ لَا يَرِبُّ فِيهَا وَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴿٧﴾

8. No mu bantu hari ujya impaka ku byerekeye Allah nta bumenyi (abifitiye), nta muyoboro ndetse nta n'igitabo kimumurikira (afite),

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٨﴾

9. (Uwo muntu ujya impaka) anaga ijosi (agaragaza imyitwarire y'ubwibone) kugira ngo ayobye (abantu) inzira ya Allah; azagira ikimwaro ku isi, ndetse no ku munsi w'imperuka tuzamusogongeza ibihano by'umuriro utwika.

ثَانِيَ عَطْفِهِ لِيُضْلِلَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ وَفِي الدُّنْيَا خَزْنٌ وَنُذِيقُهُ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابٌ أَلْحِيقٌ ﴿٩﴾

10. (Azabwirwa ati) “Ibyo ni ukubera ibyakozwe n'amaboko yawe, kandi mu by'ukuri Allah ntarenganya abagaragu be.”

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَكَ وَإِنَّ اللَّهَ لَيَسَ بِظَلَّمٍ لِلْعَبْدِ ﴿١٠﴾

11. Ndetse no mu bantu hari ugaragira Allah ashidikanya. Iyo icyiza kimugezeho aratuza, naho yagerwaho n'ikigeragezo agasubira mu buhakanyi (nyuma y'uko yari yarayobotse); ubwo akaba ahombye (ibyiza byo ku) isi n'imperuka. Icyo ni cyo gihombo kigaragara.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرَفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ أَطْمَانَ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ أَنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُمِينُ ﴿١١﴾

12. Asenga ibitari **Allah** bitagira icyo bimutwara cyangwa ngo bigire icyo bimumarira. Uko ni ko kuyoba guhambaye (kutagira igaruriro).

يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّ وَمَا لَا يَنْفَعُ  
ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ

١٢

13. Asenga icyo inabi yacyo iri hafi kurusha ineza yacyo, kandi rwose (ibyo bihitiyemo kugaragira bitari **Allah**) ni byo barinzi babi ndetse bikaba n'inshuti mbi.

يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّ وَأَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لِيَسَ الْمَوْلَى  
وَلِيَسَ الْعَشِيرُ

١٣

14. Mu by'ukuri ba bandi bemeye bakanakora ibikorwa byiza, **Allah** azabinjiza mu busitani butembamo imigezi (Ijuru), kuko rwose **Allah** akora ibyo ashaka.

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا  
الصَّالِحَاتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ  
اللَّهَ يَفْعُلُ مَا يُرِيدُ

١٤

15. Uwo ari we wese wibwira ko **Allah** atazatabara (Intumwa Muhamadi) kuri iyi si ndetse no ku munsi w'imperuka, namanike umugozi ku gisenge maze awushyire mu ijosi, narangiza awuce (yyahure) maze arebe ko umugambi we (mubisha) ukuraho uburakari bwe.

مَنْ كَانَ يَظْنُنَ أَنَّ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ  
فَلَيَمْدُدْ بَسَبِيلًا إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيُقْطَعَ فَلَيَنْظُرْهُ  
يُذْهِبَنَ كَيْدُهُ وَمَا يَعِظُ

١٥

16. Uko ni na ko twahishuye imirongo isobanutse (igitabo cya Qur'an), kandi **Allah** ayobora uwo ashaka.

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكُمْ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي  
مَنْ يُرِيدُ

١٦

17. Mu by'ukuri ba bandi bemeye (**Allah** n'Intumwa ye Muhamadi), Abayahudi (abemeye ubutumwa bwa Musa ku gihe cye), Abaswaabi'i (abagumye kuri kamere yabo batagize idini bayoboka), Abanaswara

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِرِينَ  
وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ

[abemeye ubutumwa bwa Issa (Yesu) ku gihe cye], Abamajusi (abasenga umuriro) ndetse n'abasenga ibindi bitari Allah; rwose Allah azabakiranura ku munsi w'imperuka. Mu by'ukuri Allah ni Umuhamya uhebuje wa buri kintu.

18. Ese ntubona ko ibiri mu birere n'ibiri ku isi, izuba, ukwezi, inyenyeri, imisozi, ibiti, ibiremwa byose bigenda ku isi ndetse na benshi mu bantu byubamira Allah? Ariko abenshi (mu bantu batamwubamira) bakwiye ibihano. Kandi uwo Allah yasuzuguje ntawamwubahisha, kuko mu by'ukuri Allah akora ibyo ashaka.

19. Aya matsinda abiri (abemerama n'abahakanyi) ntiyavuze rumwe kuri Nyagasan wayo; bityo ba bandi bahakanye bazadoderwa imyambaro ikozwe mu muriro, maze basukwe amazi yatuye mu mitwe.

20. (Ayo mazi yatuye) azayengesha ibyo mu nda zabo ndetse n'impu zabo.

21. Kandi bazahondeshwa inyundo z'ibyuma.

أَللّٰهُ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ  
شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١٧﴾

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهُ وَمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي  
الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالقَمَرُ وَالنُّجُومُ  
وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ  
وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِّ اللّٰهُ فَمَا لَهُ  
مِنْ مُّكَبِّرٍ إِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿١٨﴾

\* هَذَا نِحْمَانٌ خَصْمَانٌ أَخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ  
كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ شَيَابٌ مِّنْ تَارِيُصَبُّ مِنْ  
فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴿١٩﴾

يُصَهِّرُ بِهِ سَمَافِ بُطُونِهِمْ وَالْجَلُودُ ﴿٢٠﴾

وَلَهُمْ مَقَامٌ مِّنْ حَدِيدٍ ﴿٢١﴾

22. Buri uko bazajya bashaka kuwuvamo kubera ububabare, bazajya bawusubizwamo; maze (babwirwe bati) “Ngaho nimusogongere ibihano bitwika.”

23. Mu by'ukuri ba bandi bemeye bakanakora ibikorwa byiza, Allah azabinjiza mu busitani butembamo imigezi (Ijuru). Bazambikirwamo ibikomo bya zahabu n'amasaro arabagirana, ndetse n'imyambaro yabo izaba ari ihariri.

24. Kandi (ku isi) bayobowe ku mvugo nziza (yo guhamya ko nta yindi mana ikwiye gusengwa by'ukuri uretse Allah), kandi bayoborwa inzira (Isilamu) y'Ukwiye ikuzo n'ishimwe (Allah).

25. Mu by'ukuri ba bandi bahakanye bakanakumira (abantu kuyoboka) inzira ya Allah no kugana ku Musigitu Mutagatifu<sup>147</sup> twashyiriye abantu bose mu buryo bureshya; baba abawuturiye cyangwa abawugenderera (tuzabahanisha ibihano bihambaye). N'uzashaka kuwukoreramo ikibi icyo ari cyo cyose, tuzamusogongeza ku bihano bibabaza.

كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمِّ أَعْدَوْا فِيهَا  
وَدُوْقُوا عَذَابَ الْحَيْثِ ٢٢

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ يُحَلَّوْنَ  
فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا  
وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ٢٣

وَهُدُوا إِلَى الْطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى  
صِرَاطَ الْحَمِيدِ ٢٤

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ  
وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً  
الْعِكْفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدُ فِيهِ بِالْحَاجَةِ  
يُظْلَمُ نُذْقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلَّيمٍ ٢٥

<sup>147</sup>Uyu murongo ugaragaza ko habayeho igihe abahakanyi b'i Maka babuza Intumwa Muhamadi n'abasangirangendo bayo kugera ku Musigitu Mutagatifu, hari mu mwaka wa 6 w'iyimuka ry'Intumwa Muhamadi.

26. Kandi (wibuke) ubwo twerekaga Ibrahimu aho yubaka inzu ntagatifu (Al Kaabat, tumubwira tuti) “Ntuzambangikanye n’icyo ari cyo cyose, unasukurire inzu yanje abayizenguruka (bakora umutambagiro mutagatifu), abayihagararamo, abunama n’abubama (basali).”

27. Unahamagarire abantu gukora umutambagiro mutagatifu (Hija). Bazakugana bagenda n’amaguru, abandi bari ku ngamiya (ndetse n’ibindi byose bigenderwaho), baturutse imihanda yose.

28. (Ibyo) ni ukugira ngo babone ibibafitiye akamaro (ibihembo byo gukora Hija), ndetse banasingize izina rya Allah mu minsi izwi<sup>148</sup> kubera amafunguro akomoka ku matungo yabahaye. Bityo nimurye kuri ayo mafunguro munayagaburireho abatindi nyakujya.

29. Hanyuma (abakora umutambagiro) bazirure ibyo bari baziririjwe (mu mutambagiro: kogosha, guca inzara,...), buzuze ibikorwa bisigaye, banasohoze ibyo bahize, maze bazenguruke ingoro yo hambere (Al Kaabat).

وَإِذْ بَوَأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا  
تُشْرِكُ بِي شَيْئًا وَطَهَّرْ بَيْتَهُ لِلظَّاهِرِينَ  
وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكُوعُ السُّجُودُ ﴿٦﴾

وَأَذْنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجَّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَالَى  
كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِيهِ مِنْ كُلِّ فَجَّ عَمِيقٍ ﴿٧﴾

لِيَشْهَدُوا مَنْفَعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا أَسْمَ اللَّهِ فِي  
أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَارِزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ  
الْأَنْعَمِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَآسِ  
الْفَقِيرَ ﴿٨﴾

ثُمَّ لِيَقْصُدُوا تَفَثَّهُمْ وَلَيُوفُوا نُذُورَهُمْ  
وَلِيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٩﴾

<sup>148</sup> Iminsi itatu izwi yavuzwe muri uyu murongo, ni iminsi ikurikira Ilayidi y'ibitambo, ari yo tariki ya 11,12 na 13 z'ukwezi kwa cumi n'abiri kwa Kisilamu (Dhul Hija).

30. Ibyo (mwategetswe bigomba kubahirizwa) kandi uzubaha ibyo **Allah** yagine bitagatifu, bizaba ari byiza kuri we imbere ya Nyagasani we. Mwanaziruriwe (kurya) amatungo, usibye ayo mwagaragariwe (ko yaziririjwe). Bityo, nimwirinde (kugaragira) ibigirwamana (kuko ari) umwanda, munirinde amagambo y'ibinyoma,

31. Mugaragira **Allah** gusa kandi mutamubangikanya n'icyo ari cyo cyose. Naho ubangikanya **Allah**, aba ameze nk'uwanutse mu kirere maze inyoni zikamucakiza iminwa yazo (zikamucagagura), cyangwa nk'uwatwawe n'inkubi y'umuyaga ikamujugunya kure.

32. Ibyo (**Allah** yategetse; ni byo umuntu ategetswe kubahiriza)<sup>149</sup>, kandi uwubahirije imigenzo ya **Allah**, mu by'ukuri ni bimwe mu bituma imitima igandukira (**Allah**).

33. Ayo (amatungo atangwaho igitambo) abagirira akamaro kugeza igihe cyagenwe, hanyuma aho atangirwaho igitambo ni hafi y'ingoro yo hambere (Al Kaabat).

ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ  
لَهُوَ عِنْدَ رَبِّهِ وَأَحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَمُ إِلَّا مَا  
يُشَاءُ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الْرِّجْسَ مِنْ  
الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الْزُّورِ ﴿٣٠﴾

حُفَّاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ  
فَكَانَ مَا خَرَّمَ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطُفُهُ الظَّيْرُ وَتَهُوِي بِهِ  
الْيَسِّيرُ فِي مَكَانٍ سَاحِقٍ ﴿٣١﴾

ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى  
الْقُلُوبُ ﴿٣٢﴾

لَكُمْ فِيهَا مَنْفَعٌ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمٍّ ثُمَّ مَحَلُّهَا إِلَى  
الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٣٣﴾

<sup>149</sup> Ibyo **Allah** yategetse bivugwa muri uyu murongo ni ibyo yategetse mu mirongo yatambutse ya 27, 28, 29, 30, 31

34. Na buri muryango w'abantu (Umat) twawushyiriye ho imigenzo kugira ngo bajye bavuga izina rya Allah (igihe cyo kubaga) amatungo yabahaye ngo ababere amafunguro. Kandi Imana yanyu ni Imana imwe, bityo nimuyicisheho bugufi. Ndetsé (yewe Muhamadi) uhe inkuru nziza abicisha bugufi,

35. Ba bandi imitima yabo ikangarana igihe Allah avuzwe, bihanganira ibyababayeho, bahozaho iswala, ndetsé bakanatanga mu byo twabahaye.

36. Kandi ingamiya (zitangwaho ibitambo) twazibashyiriye ho nk'imwe mu migenzo ya Allah mufitemo ibyiza byinshi (amafunguro, ibihembo ku munsi w'imperuka). Bityo, (igihe mugiye kuzibaga) mujye muzivugiraho izina rya Allah igihe ziziritse (zigiye kubagwa), maze nizigwa hasi (nyuma yo kuzibaga), mujye muzikuraho (inyama) muzirye, munaziheho abakene badasaba ndetsé n'abasabirizi. Uko ni ko twategetse (ayo matungo) kubacira bugufi kugira ngo mushimire.

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذَكُرُوا أَسْمَهُ  
أَللَّهُ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَعْمَالِ فَإِلَهُكُمْ  
إِلَهٌ وَحْدَهُ فَلَهُ وَاسِلْمُوا وَبَشِّرُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٥﴾

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلتَ قُلُوبُهُمْ وَأَصَابَرُوهُنَّ  
عَلَىٰ مَا آتَاهُمْ وَالْمُقِيمُونَ الْصَّلَاةَ وَمِمَّا  
رَزَقَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٢٥﴾

وَالْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا الْكُمْ مِنْ شَعَابِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ  
فَادْكُرُوا أَسْمَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا صَوَافٌ إِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا  
فَكُلُّهُ مِنْهَا وَاطْعِمُوا الْفَانِعَ وَالْمَعْرِيْزَ ذَلِكَ سَخَرَنَاهَا

لَكُمْ لَعَدَ كُمْ تَشَكُّرُونَ ﴿٢٦﴾

37. Inyama n'amaraso byazo si byo bigera kwa Allah, ahubwo kumugandukira kwanyu ni ko kumugeraho. Uko ni ko twategetse (ayo matungo) kubacira bugufi kugira ngo musingize Allah kubera ko yabayoboye. Kandi (yewe Muhamadi) ha inkuru nziza abakora ibyiza.

38. Mu by'ukuri Allah arengera abemeye. Rwose Allah ntakunda umuhemu wese w'umu hakanyi (w'indashima).

39. (Abemeramana) bahawe uburenganzira bwo kwirwanaho igihe batewe kubera ko barenganyijwe, kandi rwose Allah ashobora kubatabara<sup>150</sup>;

40. Ba bandi bameneshejwe mu ngo zabo barenganyijwe, nta kindi bazira uretse gusa kuba baremeye Imana bavuga bati “Nyagasani wacu ni Allah.” Nyamara iyo Allah ataza kurinda abantu (akarengane) akoresheje abandi, inzu z'abihayimana, insengero, amasinagogi ndetse n'imisigitu ivugirwamo izina rya Allah kenshi, byari gusenywa. Kandi rwose Allah azatabara abaharanira idini rye. Mu by'ukuri Allah ni

لَن يَنَالُ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلِكُنْ يَنَالُهُ  
الْتَّقْوَىٰ مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخْرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُ وَاللَّهُ

عَلَىٰ مَا هَدَىٰ رَكُومٌ وَلَبَثَرٌ الْمُحَسِّنُونَ ﴿٢٧﴾

\*إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

كُلَّ حَوَانٍ كَفُورٍ ﴿٢٨﴾

أُذْنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَّمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ

نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٢٩﴾

الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيْرِهِمْ بِغَيْرِ حِقٍّ إِلَّا أَنَّ

يَقُولُوا أَرْبَبُنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفَعَ اللَّهُ أَنَّاسًا بَعْضَهُمْ

بِعَضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعٍ وَبَيْعٍ وَصَالَوَتْ

وَمَسَاجِدٍ يُذْكَرُ فِيهَا أَسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا

وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ

عَنِيزٌ ﴿٣٠﴾

<sup>150</sup>Mu bihe bya mbere, Abayisilamu bari babujijwe kurwanya abahakanyi, ahubwo bategetswa kwhanganira itotezwa bakorerwaga. Nyuma y'aho iryo totezwa rimaze gufatira indi ntera, ndetse na nyuma y'uko Intumwa Muhamadi yimukiye i Madina n'Ubuysilamu bumaze gukomera, Allah yahishuye uyu murongo uha Abayisilamu uburenganzira bwo kwirwanaho.

Umunyembaraga,  
Umunyacyubahiro bihebuje.

41. (Abo tuzatabara ni) ba bandi  
igihe tubahaye ubushobozi (bwo  
gutsinda abanzi babo) ku isi,  
bahozaho iswala, bagatanga  
amaturo, bakabwiriza (abandi)  
gukora ibyiza ndetse  
bakabuzanya gukora ibibi. Kandi  
iherezo rya buri kintu ni kwa  
**Allah**.

42. Kandi nibaguhinyura (yewe  
Muhamadi), umenye ko na mbere  
yabo, abantu ba Nuhu, aba Adi  
n'aba Thamudu bahinyuye  
(Intumwa zabo).

43. N'abantu ba Ibrahim  
n'abantu ba Lutwi (na bo  
bahinyuye Intumwa zabo).

44. N'abantu b'i Madiyani  
(bahinyuye Intumwa  
Shuwayibu), ndetse na Musa  
yarahinyuwe. Nuko abahakanye  
mbaha igihe, maze ndabafata  
(ndabahana)! Mbega ukuntu  
ibihano byanje byari bikaze!

45. Ese ni imidugudu ingahe  
yarangwaga n'ibikorwa bibi  
twarimbuye igahinduka  
amatongo, amariba akaba  
yarasibye, ndetse n'ingoro  
zikomeye zikaba zitagituwe?

الَّذِينَ إِنْ مَكَثُوهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ  
وَإِذَا قَدِمُوا إِلَيْهِمْ رَبِّهِمْ وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ  
الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عِلْمُهُ الْأَمْرُ

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمٌ نُوحٌ  
وَعَادٌ وَثَمُودٌ

وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ  
وَاصْحَابُ مَدِينَ وَكُذَّبَ مُوسَى فَأَمْلَأَتِ لِلْكُفَّارِ  
ثُمَّ أَخْذَنَاهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ

فَكَانُوا مِنْ قَرِئَةِ أَهْلَكَنَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ  
فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٌ مُّعَطَّلَةٌ وَقَصَرٌ  
مَّشِيدٌ

46. Ese (abo bahakanyi) ntibagenda ku isi (ngo birebere ibisigisigi by'abrimbuwe), bigatuma bagira imitima ibafasha gutekereza ndetse n'amati abafasha kumva? Mu by'ukuri amaso si yo ahuma, ahubwo hahuma imitima iri mu bituza.

47. Banagusaba kwihutisha ibihano (wababuriye, yewe Muhamadi), nyamara Allah ntazigera yica isezerano rye (ryo kuzabahaha ku munsi w'imperuka). Mu by'ukuri umunsi umwe kwa Nyagasani wawe, ungana n'imyaka igihumbi mu yo mubara (hano ku isi).

48. Ese ni imidugudu ingahe narindirije (sinyihanireho) kandi yararangwaga n'ibikorwa bibi, hanyuma nkayifata (nkayihana)? Kandi iwanje ni ho byose biza subira.

49. Vuga (yewe Muhamadi) uti "Yemwe bantu! Mu by'ukuri ndi umuburizi wanyu ugaragara."

50. Bityo ba bandi bemeye bakanakora ibikorwa byiza, bazababarirwa ibyaha banahabwe amafunguro meza.

أَفَمَنْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ  
يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ إِذَا نُسَمِّعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا  
تَعْمَلُ الْأَبْصَرُ وَلَكِنْ تَعْمَلُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي  
الْأَصْدُورِ

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلَفَ اللَّهُ وَعْدُهُ  
وَلَنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مَّمَّا  
تَعْدُونَ

وَكَأَيْنَ مِنْ قَرِيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ  
أَخْدَثُهَا وَإِلَى الْمَصِيرِ

قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَّ الْكُفَّارَ نَذِيرٌ مُّبِينٌ

فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ  
وَرِزْقٌ كَيْرٌ

51. Naho ba bandi bashishikajwe no kurwanya amagambo yacu (Qur'an), abo ni abantu bo mu muriro wa Jahanamu.

52. Nta ntumwa n'imwe cyangwa umuhanuzi twohereje mbere yawe (yewe Muhamadi) ngo asome (ibyo yahishuriwe), maze ngo Shitani ibure gushyira urujijo mu byo yasomye (kugira ngo ibuze abantu gukurikiza ibyo basomewe). Nuko **Allah** agakuramo urwo rujijo Shitani yateje, hanyuma **Allah** agashimangira amagambo ye. Kandi **Allah** ni Umumenyi uhebuje, Nyirubugenge buhambaye.

53. Ibyo byari ukugira ngo urwo rujijo Shitani yateje, (**Allah**) arugire ikigeragezo kuri ba bandi bafite uburwayi (bw'uburyarya n'ubuhakanyi) mu mitima ndetse n'abafite imitima inangiyе. Kandi mu by'ukuri inkozi z'ibibi ziri mu buyobe bukabije.

54. No kugira ngo abahawе ubumenyi bamenyе ko (Qur'an) ari ukuri kwaturutse kwa Nyagasani wawe, maze bayemere kandi imitima yabo iyicisheho bugufi. Mu by'ukuri **Allah** ni Uyobora abemeramana inzira igororotse.

وَالَّذِينَ سَعَوْفَ فِي أَيَّتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ  
أَصْحَابُ الْجَحْمِ ﴿٥١﴾

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا  
تَمَّتَ الْقَى الشَّيْطَلُ فِي أُمَّنِيَّتِهِ فَيَسْخُّ اللَّهُ مَا  
يُلْقِي الشَّيْطَلُ ثُمَّ يُحَكِّمُ اللَّهُ أَيَّتِهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ  
حَكِيمٌ ﴿٥٢﴾

لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَلُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ  
مَرْضٌ وَالْفَاسِدَةُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي  
شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ  
رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُحِبُّتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ  
اللَّهَ لَهُادُ الَّذِينَ أَمْنَوْا إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٤﴾

55. Ariko ba bandi bahakanye ntibazareka kuyishidikanyaho (Qur'an), kugeza igihe imperuka izabagereraho ibatunguye cyangwa bakagerwaho n'ibihano by'umunsi ugumbahaye (umunsi w'imperuka, utagira icyiza na kimwe).

56. Kuri uwo munsi ubwami buzaba ari ubwa **Allah** wenyingine uzabacira imanza. Ba bandi bazaba baremeye bakanakora ibikorwa byiza bazaba mu busitani bwujeinema (Ijuru).

57. Naho ba bandi bahakanye bakanahinyura amagambo yacu, bazahanishwa ibihano bisuzuguza.

58. Na ba bandi bimutse kubera **Allah**, hanyuma bakicwa cyangwa bagapfa (urupfu rusanzwe), mu by'ukuri **Allah** azabaha amafunguro meza. Kandi rwose, **Allah** ni We uhebuje mu batanga amafunguro.

59. Rwose azabinjiza mu bwinjiriro bazaba bishimiye, kandi mu by'ukuri **Allah** ni Umumenyi uhebuje, Uduhubuka.

60. Ibyo ni ko biri! Naho uzihorera bingana nk'uko yarenganyijwe, hanyuma akongera akarenganywa, rwose **Allah** azamutabara. Mu by'ukuri

وَلَا يَرَأُلُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِنَيَّةٍ مِنْهُ حَتَّىٰ  
تَأْتِيهِمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيهِمْ عَذَابٌ يَوْمٍ

عَقِيمٌ

الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ  
فَالَّذِينَ ءامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي  
جَنَّاتِ النَّعِيمِ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعِيَادَتِنَا  
فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِمِّينَ

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتْلُوا أَوْ  
مَاتُوا لَيَرْزُقَنَاهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ  
اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرِّزْقِينَ

لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ  
لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ

\* ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عَوْقَبَ بِهِ ثُمَّ  
بَعْدَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ  
عَنْ كُوْرُ

Allah ni Uhanaguraho ibyaha,  
Nyirimbabazi zihebuje.

61. Ni n'uko Allah yinjiza ijoro mu manywa, akannjiza amanywa mu ijoro. Kandi rwose, Allah ni Uwumva cyane, Ubona bihebuje.

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِّي لِلْأَيَّلَ فِي النَّهَارِ  
وَيُولِّي لِلْأَيَّلَ فِي الْأَيَّلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ

بَصِيرٌ ﴿٦١﴾

62. Ibyo ni ibigaragaza ko Allah ari we Kuri, naho ko ibyo (ababangikanyamana) basenga bitari We ari ibinyoma kandi ko Allah ari Uwikirenga, Usumba byose.

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ  
دُونِهِ هُوَ الْبَطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ

أَكْبَرٌ ﴿٦٢﴾

63. Ese ntubona ko Allah amanura amazi mu kirere (imvura, ikameza ibimera) maze isi igahinduka icyatsi kibisi? Mu by'ukuri Allah ni Ugenza buhoro, Umumenyi wa byose.

أَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا يَفْتَصِيبُ  
الْأَرْضَ مُخْضَرًا إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿٦٣﴾

64. Ibiri mu birere n'ibiri mu isi ni ibye. Kandi mu by'ukuri Allah ni Uwhagije, Ulkwiye gushimwa.

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ  
اللَّهَ لَهُوَ الْغَفُورُ الْحَمِيدُ ﴿٦٤﴾

65. Ese ntubona ko Allah yategetse ibiri mu isi kubacira bugufi ndetse ko n'amato agenda mu nyanja ku bw'itegeko rye? Anafashe ikirere kugira ngo kitagwa ku isi uretse igihe azabishakira. Mu by'ukuri Allah ni Nyirimpuhwe bihebuje, akaba na Nyirimbabazi ku bantu.

أَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ  
وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ  
السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ  
بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٥﴾

66. Ni na We wabahaye ubuzima hanyuma akazabubambura (jighe cyo gupfa), maze akazabubasubiza (ku munsi w'imperuka). Mu by'ukuri, umuntu ni indashima.

67. Buri muryango w'abantu (Umat) twawuhaye imigenzo bagomba gukurikiza (mu kugaragira n'indi mihango y'idini). Bityo, (abahakanyi) ntibazakugishe impaka kuri iryo hame, ahubwo ujye ubahamagarira kugana Nyagasani wawe. Mu by'ukuri wowe (Muhamadi) uri mu muyoboro ugororotse (idini rya Isilamu).

68. Kandi nibaramuka bakugishije impaka, ujye uvuga uti “**Allah** ni We uzi neza ibyo mukora.”

69. **Allah** azabakiranura ku munsi w'imperuka ku byo mutavugagaho rumwe.

70. Ese ntuzi ko **Allah** azi ibiri mu kirere no ku isi byose? Mu by'ukuri ibyo byose biri mu gitabo (kirinzwe). Mu by'ukuri ibyo kuri **Allah** biroroshye.

وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمْسِكُكُمْ ثُمَّ يُحِيِّكُمْ كُلَّا  
إِلَّا نَسِنَ لَكُفُورُ<sup>٦٦</sup>

لَكُلُّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَّكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا  
يُنَزِّعُنَا فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى  
هُدَىٰ مُسْتَقِيمٍ<sup>٦٧</sup>

وَإِنْ جَدَلُوكَ فَقُلْ أَلَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ<sup>٦٨</sup>

أَللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَ كُلِّ يَوْمٍ أَقْيَمَةً فِيمَا كُنْتُمْ  
فِيهِ تَخْتَلِفُونَ<sup>٦٩</sup>

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ  
وَالْأَرْضِ<sup>٧٠</sup> إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى  
اللَّهِ يَسِيرٌ<sup>٧١</sup>

71. Kandi bagaragira ibindi bitari **Allah**, atigeze abahera gihama yendetse batanafitiye ubumenyi. Kandi ababangikanyamana ntibazagira umutabazi.

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَنًا  
وَمَا أَلِيسَ هُمْ بِهِ عَالِمُونَ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ

٧١

72. Kandi iyo basomewe amagambo yacu asobanutse, ubona mu buranga bw'abahakanye (hagaragaramo) kutayishimira, bari hafi gusumira ababasomera amagambo yacu! Vuga (yewe Muhamadi) uti "Ese mbabwire ibibi birusha ibyo? Ni umuriro **Allah** yasezeranyije ba bandi bahakanye, kandi iryo ni ryo herezo ribi."

وَإِذَا شَأْتَ عَلَيْهِمْ إِيمَانَنَا بَيْنَكَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ  
الَّذِينَ كَفَرُوا أَمْنَكَرْ كَيْكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ  
يَتَلَوَّنَ عَلَيْهِمْ إِيمَانَنَا قُلْ أَفَأَنْتُمْ كُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكُمْ  
النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمُصِيرُ

٧٢

73. Yemwe bantu! Mwahawe urugero, ngaho nimurutege amatwi! Mu by'ukuri ibyo musenga bitari **Allah** ntibishobora kurema n'isazi kabone n'yo byayiteraniraho. Kandi n'yo iyo sazi yagira icyo ibyambura, ntibyashobora kucyisubiza. Bityo, usaba n'usabwa bose ni abanyantenge nke!

يَأَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ وَإِنَّ  
الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا دُبَابًا  
وَلَوْ أَجْتَمَعُوا أَهْلُهُ وَإِنْ يَسْلُبُهُمْ أَلْدُبَابُ شَيْئًا لَا  
يَسْتَنِقُذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الْطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ

٧٣

74. (Ababangikanyamana) ntibahaye **Allah** icyubahiro kimukwiye. Mu by'ukuri **Allah** ni Umunyembaraga, Umunyacyubahiro bihebuje.

مَا قَدَرُوا اللَّهُ حَقًّا قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَوِيٌّ عَزِيزٌ

75. Allah atoranya Intumwa mu bamalayika no mu bantu. Mu by'ukuri Allah ni Uwumva cyane, Ubona bihebuje.

76. Azi ibiri imbere habo (ibizababaho) n'ibiri inyuma habo (byababayeho). Kandi kwa Allah ni ho ibintu byose bizasubizwa.

77. Yemwe abemeye! Nimwuname, mwubame, kandi mugaragire Nyagasani wanyu, ndetse munakore ibyiza kugira ngo muzahirwe.

78. Kandi muharanire inzira ya Allah by'ukuri, mukoresheje imbaraga zanyu zose (kugira ngo izina rye rishyirwe hejuru). Ni We wabatoranyije (kugira ngo musohoze ubutumwa bwe), kandi nta nzitizi yigeze abashyirira mu idini. (Iryo dini) ni na ryo dini ry'umubyeyi wanyu Ibrahimu. Ni We (Allah) wabise Abayisilamu mbere (mu bitabo byabanje), ndetse no muri iyi (Qur'an) kugira ngo Intumwa (Muhamadi) ibabere umuhamya ndetse namwe mube abahamya ku bantu bose. Bityo, nimuhozeho iswala, mutange amaturo, kandi mufatane urunana ku (idini rya) Allah. Ni We Mugenga wanyu; Umugenga mwiza, akaba n'Umutabazi mwiza.

أَللَّهُ يَصَطَّفِي مِنْ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنْ  
الْإِنْسَانِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بِصَرِيرٍ

يَعْلَمُ مَا بَيْتَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ  
تُرْجَعُ الْأُمُورُ

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أُرْكَعُوا وَأَسْجُدُوا  
وَأَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعُلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ

وَجَهَدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جَهَادِهِ هُوَ جَنِيدُكُمْ  
وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَّلَةً أَيْكُمْ  
إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَدُكُمْ أُمُّ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ  
وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا  
شَهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَاقْمِمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوْا الزَّكَوْةَ  
وَأَعْصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَكُمْ فَنَعَمْ الْمَوْلَى وَنَعِمْ

النَّصِيرُ

**23 - SURAT AL MUUMINUNA  
(ABEMERAMANA)**

Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirongo 118.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

Ku izina rya **Allah**, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Rwose abemeramana  
barahiriwe,

قَدْ أَفْلَحَ اللَّهُ مُؤْمِنُونَ ①

2. Ba bandi bakora iswala zabo  
bibombaritse,

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاةٍ هُمْ خَشِعُونَ ②

3. Na ba bandi birengagiza  
ibidafite akamaro (mu mvugo no  
mu bikorwa),

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ الْأَغْوَى مَعْرُضُونَ ③

4. Na ba bandi batanga Zakat  
(amaturo ya ngombwa),

وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَّكْوَةِ فَقِيلُونَ ④

5. Na ba bandi barinda ibitsina  
byabo (ntibishore mu  
busambanyi),

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ⑤

6. Uretse gusa ku bagore babo  
cyangwa ku bo bafiteho  
ububasha (abaja)<sup>151</sup>, kuko kuri  
bo batabigayirwa,

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ  
عَمَّا مَلَوْمُونَ ⑥

<sup>151</sup> Abaja bari abagore bagurwaga cyangwa bafatirwaga bunyago ku rugamba, bakamburwa uburenganzira bwo kwigenga. Icyo gihe ubwigenge bwabo bwabaga buri mu maboko ya ba Shebuja, bakaba bemerewe no kubagira abagore nta masezerano yo gushyingiranwa abayeho. Arikoiyo babaga Abayisilamu byatumaga bahabwa ubwigenge, bakava mu buja.

7. Ariko abazashaka kwinezeza ku batari abo (bavuzwe), rwose abo bazaba batandukiriye,

8. Na ba bandi barinda ibyo baragijwe kandi bakubahiriza amasezerano,

9. Na ba bandi bahozaho iswala (z'itegeko, bakazikorera ku bihe byagenwe),

10. Abo ni bo bazungura,

11. Bazazungura Firidawusi (Ijuru risumba ayandi), bakazaribamo ubuziraherezo.

12. Kandi mu by'ukuri twaremye umuntu (Adamu) tumukomoye mu ibumba ry'umwimerere.

13. Maze tumuha kororoka (kw'abamukomokaho) binyuze mu ntanga (twashyize) mu cyicaro gitekanye (nyababyeyi),

14. Hanyuma intanga (tuyiremamo) urusoro rw'amaraso, hanyuma (turemamo) ikinyama, muri icyo kinyama turemamo amagufa, maze amagufa tuyambika umubiri, hanyuma (duhuhamo roho) tugihindura ikindi kiremwa (kigaragaza

فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

٧

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاغُورَ

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَالَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ

٨

الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرَدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ

٩

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَكَيْنٍ

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً  
فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَمًا فَكَسَوْنَا الْعِظَلَمَ  
لَهُمَا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا أَخْرَى فَتَبَارَكَ اللَّهُ

أَحْسَنُ الْخَلِيقَيْنَ

١٠

ishusho). Bityo, ubutagatifu ni ubwa **Allah**, Umuremyi uhebuje.

15. Nyuma y'ibyo, mu by'ukuri muzapfa.

16. Hanyuma (nanone) muzazurwa ku munsi w'imperuka.

17. Rwose twaremye ibirere birindwi bigerekeranye (tubishyira) hejuru yanyu, kandi ntabwo tuyoberwa ibyo twaremye (cyangwa ngo tubyibagirwe).

18. Twanamanuye amazi (imvura) mu kirere ku rugero rukwiye, tuyagumisha mu butaka, kandi mu by'ukuri dushoboye no kuyakamya.

19. (Muri ayo mazi), tuyaberezamo imirima y'imitende n'imizabibu, (muri iyo mirima) mugiramo imbuto nyinshi, ndetse hakanabamo izo murya.

20. (Muri ayo mazi kandi **Allah** yabamerejemo) igit (cy'umuzeti) cyera ku Musozi wa Sinayi, kivamo amavuta yifashishwa n'abayafungura.

21. Kandi mu by'ukuri mu matungo (iremwa ryayo) harimo inyigisho kuri mwe (zigaragaza ubushobozi bwa **Allah**).

ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَمْتُوْنَ ﴿١٥﴾

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تُبَعَّثُونَ ﴿١٦﴾

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ

الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴿١٧﴾

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يُقَدَّرُ فَأَسْكَنَاهُ فِي

الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِهِ لَقَدْ رُونَ ﴿١٨﴾

فَإِنَّشَانَ لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّنْ نَحْيَلٍ وَأَعْنَبٍ لَكُمْ  
فِيهَا فَوْكَهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿١٩﴾

وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ

وَصَبِيعٌ لِلَّا كِلَيْتَ ﴿٢٠﴾

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَمِ لِعَبْرَةٌ نُسْقِيكُمْ مَمَّا فِي بُطُونِهَا

وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفَعٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾

Tubahamo ibyo munywa (amata) biturutse mu nda zayo, kandi (ayo matungo) muyakuramo byinshi bibafitiye akamaro, ndetse amwe muri yo muranayarya.

22. Kandi (ayo matungo) ndetse n'amato birabatwara (ijo muri mu ngendo zanyu).

23. Rwose, twohereje Nuhu ku bantu be, maze arababwira ati "Yemwe bantu banjye! Nimugaragire **Allah**. Nta yindi mana mufite itari We (**Allah**). Ese ntimumgandukira?"

24. Ariko abanyacyubahiro bo mu bantu be bahakanye, baravuga bati "Uyu ntacyo ari cyo usibye kuba ari umuntu nkamwe, icyo ashaka ni ukwisyira hejuru (ngo abategeke). Kandi iyo **Allah** aza gushaka (kohereza Intumwa) yari kohereza umumalayika. Ntabwo twigeze twumva ibintu nk'ibi ku babyeyi bacu bo hambere!"

25. Mu by'ukuri ni umuntu wahanzweho n'amashitani. Bityo, nimutegereze igihe runaka (agarure ubwenge maze areke ibyo avuga cyangwa apfe mumukire).

وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلَكِ تَحْمَلُونَ ﴿٢٣﴾

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَقُولُ  
أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَإِنَّا  
تَسْتَقُونَ ﴿٢٣﴾

فَقَالَ الْمَلَوِّدُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ  
مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَا نَزَّلَ  
مَلَكٌ كَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي أَبْابَانِنَا الْأَوَّلِينَ

﴿٢٤﴾

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ يَهُدِّي حَنَّةً فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ

﴿٢٥﴾

26. (Nuhu) aravuga ati “Nyagasani wanje! Ntabara unkize (abantu banje) kubera ko bahakana (ibyo mvuga).”

قَالَ رَبِّ أَنْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُوكُمْ ﴿٦﴾

27. Nuko tumuhishurira tugira tuni “Ubaka inkuge tukugenzura, (bijyanye) n’ubutumwa bwacu. Maze itegeko ryacu (ryo kubarimbura) nirisohora, nuko itanura rigapfupfunyukamo amazi afite imbaraga (nk’ikimenyetso cy’uko ibihano bije), uzinjizemo ikigabo n’ikigore (kuri buri bwoko bw’inyamaswa), ndetse n’umuryango wawe, usibye abaciriweho iteka muri wo (ari bo umugore wawe n’umwana wawe).” Kandi ntugire icyo umbaza (uvuganira) inkozi z’ibibi. Mu by’ukuri bo bagomba kurohama.

فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ أَصْنَعَ الْفُلُكَ يَأْعِينَا وَوَحْيَنَا  
فِي ذَاجَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ  
زَوْجَيْنِ أُشْيَنَ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقُولُ  
مِنْهُمْ وَلَا تُخْطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّعَرَّفُونَ

٦٧

28. Maze wowe n’abo muri kumwe nimumara gutuza mu nkuge, uzavuge uti “Ishimwe n’ikuzo byuzuye ni ibya Allah, We waturokoye abantu b’abahakanyi.”

فَإِذَا أَسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلُكِ فَقُلْ لِحْمَدٌ  
لِلَّهِ الَّذِي بَخَتَنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٨﴾

29. Uzanavuge uti “Nyagasani wanje! Nyorohereza umpe kururukira ahuje imigisha, kuko ari Wowe Uhebuje mu kururutsa (abantu mu mahoro).”

وَقُلْ رَبِّ أَنْزَلَنِي مُنْزَلًا مُبَارَّكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزَلِينَ ﴿٦٩﴾

30. Mu by'ukuri muri ibyo (kurokora abemeye no kurimbura abahakanye) harimo ibimenyetso (bigaragaza ubushobozi bwa Allah). Kandi mu by'ukuri tugerageza (abantu).

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَكِتِ وَإِنْ كُوْنُوا مُبْتَلِينَ ﴿٢﴾

31. Nuko nyuma yabo turema ikindi gisekuru (aba Adi bo ku bwa Hudu).

لَمْ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَاءَ أَخْرَى ﴿٣﴾

32. Maze tuboherereza Intumwa (Hudu) ibakomokamo (ibabwira iti) “Nimugaragire Allah, nta yindi mana mufite itari We. Ese ntimumgandukira?”

فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٌ غَيْرُهُ وَأَفْلَاتَتَقُونَ ﴿٤﴾

33. Maze ibikomerezwa byo mu bantu be bahakanye (Allah) bakanahinyura kuzahura n'umunsi w'imperuka, kandi twarabahaye ubuzima bwiza hano ku isi, biravuga biti “Uyu nta cyo ari cyo usibye kuba ari umuntu nkamwe, urya ibyo murya akananywa ibyo munywa.”

وَقَالَ الْمَلَائِكَةُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِلِقَاءَ الْآخِرَةِ وَأَرْفَنَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَدَاهُ إِلَّا شَرٌّ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرُبُ مِمَّا تَشْرُبُونَ ﴿٥﴾

34. Kandi nimuramuka mwumviye umuntu nkamwe, mu by'ukuri muzaba mubaye abanyagihombo.

وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَسَرُونَ

35. Ese abasezeranya ko nimuramuka mupfuye mugahinduka igitaka ndetse n'amagufa (akabora) muzazurwa?

أَيَعْدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِنْتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعَظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ مُّحْرَجُونَ ﴿٦﴾

36. Ibyo musezeranywa (na Hudu) biri kure, kure cyane.

\*هَيَّهَا تَهَيَّهَا لِمَا أُوعِدُوكُمْ ﴿٣٦﴾

37. Nta bundi (buzima buzabaho), usibye ubu buzima bwacu bwo ku isi! Turapfa, tukanabaho (hakaza abandi) kandi ntabwo tuzazurwa.

إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَا تُنَا الَّذِي نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَوْعِدٍ

بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣٧﴾

38. (Hudu) nta cyo ari cyo, usibye kuba ari umuntu uhimbira **Allah** ibinyoma, kandi ntabwo tuzamwemera.

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ

بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨﴾

39. (Hudu) aravuga ati “Nyagasani wanjye! Ntabara unkize (abantu banjye) kubera ko bahakana (ibyo mvuga).”

قَالَ رَبِّ أَنْصُرْنِي بِمَا كَذَبُونِ ﴿٣٩﴾

40. (**Allah**) aravuga ati “Rwose mu kanya gato baraba bicuza (impamu bahakanye).”

قَالَ عَمَّا قَاتَلَ لِيُصْبِحُونَ نَذِيرِينَ ﴿٤٠﴾

41. Maze urusaku rw'ibihano rubatera rutabarenganyije, nuko tubahindura nk'ibishingwe (bireremba hejuru y'amazi). Bityo, kurimbuka nikube ku bahakanyi.

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ عَثَاءً

فَبَعْدَ الْقَوْمَ الظَّلَمِينَ ﴿٤١﴾

42. Nuko nyuma yabo turema ibindi bisekuru.

ثُمَّ أَنْشَأَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا أَخْرَى ﴿٤٢﴾

43. Nta bantu bashobora kwihutisha igihe cyabo (cyo kurimbuka) cyangwa ngo bagikerereze.

مَا سَيِّقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَخْرُونَ ﴿٤٣﴾

44. Hanyuma twohereza Intumwa zacu zigenda zikurikirana, ariko buri uko Intumwa yageraga mu bantu bayo (yatumbweho) barayihinyuraga. Nuko tugenda tubakurikiza (ibihano) bamwe ku bandi, kandi tubagira iciro ry'imgani (kugira ngo bizabere isomo n'nyigisho ku bazabaho nyuma). Bityo, kurimbuka nikube ku bantu batemera.

45. Hanyuma twohereza Musa n'umuvandimwe we Haruna, tubahaye ibitangaza byacu n'ibimenyetso bigaragara.

46. (Tubohereza) kwa Farawo n'ibyegera bye, ariko (barabasuzugura) bagaragaza ubwibone, kandi bari abantu bishyira hejuru.

47. Baravuga bati “Ese twemere abantu babiri bameze nkatwe, kandi bene wabo ari abacakara bacu?”

48. Nuko babahinyura bombi, maze (Farawo n'ibyegera bye) baba mu boretswe.

49. Kandi rwose twahaye Musa igitabo (Tawurati) kugira ngo bayoboke.

لَئِنْ أَرَزَّنَا رُولَانَاتِرَكُلَّ مَاجَاهَ أُمَّةَ رَسُولُهَا كَذَبُوهُ  
فَأَتَبَعَنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ

فَبَعْدَ الْقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ

لَئِنْ أَرَزَّنَا مُوسَى وَآخَاهُ هَرُونَ يَأْتِنَا وَسَاطِلِينَ

مُّبَيِّنٌ ﴿٤٦﴾

إِلَى قَرْعَوْنَ وَمَلِيِّهِ فَاسْتَكَبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِيَّنَ

﴿٤٧﴾

فَقَالُوا أَنْقُمُ لِسَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَ

عَيْدُونَ ﴿٤٨﴾

فَكَذَبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهَلَّكِينَ ﴿٤٩﴾

وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لِعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٥٠﴾

50. Twanagize mwene Mariyamu (Issa) na nyina, ikimenyetso (kigaragaza ubushobozi bwacu), nuko tubatuza ahirengeye, hatekanye kandi hari amazi.

وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرِيمَ وَأَمَّهُ وَإِيَّاهُ وَءَوْيَهُمَا إِلَى رَبْوَةِ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿٥٠﴾

51. Yemwe ntumwa! Nimurye amafunguro meza (aziruwe) kandi mukore ibikorwa byiza. Mu by'ukuri njye ndi Umumenyi uhebuje w'ibyo mukora.

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ كُلُّوْمَنَ الظَّيْبَتِ وَاعْمَلُوا صَلِحًا ﴿٥١﴾ إِنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيهِمْ

52. Kandi mu by'ukuri uyu muryango wanyu (idini rya Isilamu) ni umuryango umwe, nanjye nkaba Nyagasani wanyu; bityo nimuntinye (mwubahiriza ibyo nabategetse).

وَإِنَّ هَذِهَ أُمَّتُكُمْ أَمْمَةً وَحْدَةً وَأَنَّا بِكُمْ فَاتَّقُونَ

٥٢

53. Ariko idini ryabo bariciyemo ibice, buri gatsiko kishimira ibyako.

فَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُوْرًا كُلُّ حَزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرَحُونَ ﴿٥٣﴾

54. Bityo (yewe Muhamadi), barekere mu buyobe bwabo kugeza igihe runaka (bazagerwaho n'ibihano).

فَذَرُهُ فِي عَمَرٍ نَهْمَحَّى حِينٍ ﴿٥٤﴾

55. Ese bakeka ko imitungo n'urubyaro tubaha (ku isi),

أَيْخَسِبُونَ أَنَّا مُمْدُهُرِيَّهُ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ ﴿٥٥﴾

56. Tubibihutishiriza ku bw'ineza (bakwiye)? (Si ko bimeze) ahubwo (ni ukubareshya) nyamara ntibabimanya.

نُسَارٍ لَهُمْ فِي الْخَيْرِاتِ كُلَّ لَآيَةٍ شَرُونَ ﴿٥٦﴾

57. Mu by'ukuri ba bandi bitwararika kubera gutinya Nyagasani wabo,

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشِيَّةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ ﴿٥٧﴾

58. Na ba bandi bemera ibimenyetso bya Nyagasani wabo,

وَالَّذِينَ هُمْ يَعَايَثُونَ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٨﴾

59. Na ba bandi batagira icyo babangikanya na Nyagasani wabo,

وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾

60. Ndetse na ba bandi batanga mu byo bahawe (mu bikorwa byiza nk'amaturo, ineza, iswala, igisibo n'ibindi) imitima yabo ifite ubwoba (ko ibyo bakoze bitakirwa, ndetse banatinya igihe) bazasubira kwa Nyagasani wabo.

وَالَّذِينَ يُقْتَلُونَ مَاءَ أَقْرَأْ وَقُلُوبُهُمْ وَجَاهَةُ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ

رَجِيعُونَ ﴿٦٠﴾

61. Abo ni bo bihutira gukora ibyiza, kandi ni na bo baza imbere muri byo.

وَلِلَّئِكَ يُسَرِّعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَيِّقُونَ ﴿٦١﴾

62. Kandi nta we dutegeka gukora icyo adashoboye, ndetse dufite igitabo kivuga ukuri (cyanditsemo ibikorwa byabo), kandi ntibazarenganywa.

وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطَلِقُ  
بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٢﴾

63. Ahubwo imitima yabo (abahakanyi) iri mu bujiji (bwo kudasobanukirwa) iyi (Qur'an), ndetse hari n'ibindi bikorwa (bibii) bakora bitari ibyo.

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمَرَةٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَلُ مِنْ  
دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ ﴿٦٣﴾

64. Kugeza ubwo dufashe abadamaraye muri bo tukabahana, nuko bagatangira guca bugifi batabaza.

حَقٌّ إِذَا أَخَذْنَا مُؤْمِنًا فِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْحُرُونَ

٦٤

65. Mwitatbaza kuri uyu munsi! Mu by'ukuri ntawe uri bubadukize (ngo abatabare.)

لَا يَجْحُرُوا أَلَيْمَ إِنَّكُمْ مِّنَ الظَّاهِرِينَ

٦٥

66. Rwose mwajyaga musomerwa amagambo yanje yanje ariko mukayatera umugongo.

قَدْ كَانَتْ إِيمَانِي تُتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى آعْقَابِكُمْ  
تَنْكِصُونَ

٦٦

67. (Muvuga ko Umuusigiti Mutagatifu wa Maka ari uwanyu nta wawubakuramo) mukawiratana, naho nijoro mukarara muvuga nabi (iyi Qur'an).

مُسْتَكِبِرِينَ بِهِ سَلِمَ رَأَهُ جُرُونَ

٦٧

68. Ese ntibatekereza ku magambo (ya Allah), cyangwa (babuzwa kuyemera nuko) bagezweho n'ibitarageze ku babyeyi babo bo hambere?

فَلَمْ يَدَّبِرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا مَأْمَرْيَاتِ إِبَآهُمْ  
الْأُولَئِينَ

٦٨

69. Cyangwa (babuzwa kuyoboka) no kuba bataramenye Intumwa yabo (Muhamadi), bikaba ari byo bituma bayihakana?

أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ وَمُنْكِرُونَ

٦٩

70. Cyangwa bavuga ko (Muhamadi) yahanzweho n'amashitani? (Si ko bimeze!) Ahubwo yabazaniye ukuri (idini rya Isilamu) ariko abenshi muri bo barakwanga.

أَمْ يَقُولُونَ بِهِ حِتَّةً بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكَثَرُهُمْ  
لِلْحَقِّ كَرِهُونَ

٧٠

71. Kandi iyo ukuri kuza kuba kujuanye n'ibyifuzo byabo, rwose ibirere n'isi ndetse n'ababirimo bari kwangirika. Nyamara twabazaniye urwibutso rwabo (Qur'an), ariko barutera umugongo.

72. Cyangwa (babuzwa kwemera) no kuba waba ubasaba igihembo (kugira ngo ubagezeho ubatumwa)? (Si ko bimeze!) Ahubwo ibihembo bya Nyagasan wawe ni byo byiza, kandi ni We Uhebuje mu batanga amafunguro.

73. Kandi mu by'ukuri (wowe Muhamadi) ubahamagarira kugana inzira igororotse.

74. Kandi rwose ba bandi batemera umunsi w'imperuka bayobye cyane iyo nzira.

75. N'ijo tuza kubagirira impuhwe tukabakuriraho ingorane barimo, bari gukomeza gutsimbarara ku bwigomeke bwabo, barindagira.

76. Kandi rwose twabahaye ibihano ariko ntibaca bugufi kuri Nyagasan wabo, ndetse ntibanamusaba bibombaritse (kugira ngo abibakize).

وَلَوْ أَتَّبَعَ الْحُقْرُ هُوَ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ  
وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ  
عَنِ ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٦﴾

أَمْ سَأَلُوهُمْ خَرَجَا فَخَرَجُوا إِلَيْكُمْ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرٌ  
الرَّازِقِينَ ﴿٧﴾

وَإِنَّكَ لَتَدْعُهُمْ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٣﴾

وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ  
لَنَكِبُونَ ﴿٧٤﴾

\* وَلَوْ رَحْمَنَهُمْ وَشَفَنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَّكُوْنُوا فِي جُهُونَ ﴿٧٥﴾

وَلَقَدْ أَحَدَهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا أُسْتَكَانُوا لَرَبِّهِمْ  
وَمَا يَتَضَرَّرُ عَوْنَ ﴿٧٦﴾

77. Kugeza ubwo (ku munsi w'imperuka) tuzabafungurira umuryango w'ibihano bikaze, maze bakazabibamo bihebye.

حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَاهِدًا عَذَابٌ شَدِيدٌ إِذَا هُمْ

فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٧﴾

78. Kandi (**Allah**) ni We wabahaye ukumva, ukubona ndetse (abaha) n'imitima (kugira ngo musobanukirwe), ariko ni gake mushimira.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئَةَ

قِيلَادَمَاتَشَكُرُونَ ﴿٧٨﴾

79. Ni na We wabakwirakwije ku isi, kandi iwe ni ho muzakoranyirizwa.

وَهُوَ الَّذِي ذَرَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُخَشِّرُونَ ﴿٧٩﴾

80. Kandi ni We utanga ubuzima akanatanga urupfu, ndetse ni na We ugenga ukubisikana kw'ijoro n'amanywa. Ese ntimumgira ubwenge?

وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمْسِي وَلَهُ اخْتِلَافٌ أَيْلِ

وَالنَّهَارِ إِنَّا لَعَقِلُونَ ﴿٨٠﴾

81. Ahubwo bavuga nk'iby'abo hambere bavugaga.

بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ﴿٨١﴾

82. Bajyaga bavuga bati “Ese nidupfa, tugahinduka igitaka ndetse n'amagufa (akabora), koko tuzazurwa?”

قَالُوا إِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعَظَلَمًا إِنَّا

لَمْ بَعُودُونَ ﴿٨٢﴾

83. Rwose ibyo twabisezeranyijwe mbere, twe n'ababyeyi bacu. Ibi nta kindi biri cyo usibye kuba ari inkuru z'abo hambere!

لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَإِنْ أَبْرَقْنَا هَذَا مِنْ قَبْلِ إِنْ

هَذَا إِلَّا سَطِيرٌ الْأَوَّلِينَ ﴿٨٣﴾

84. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Ese isi n'ibiyirimo ni ibya nde niba mubizi?”

قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٨٤﴾

85. Bazavuga bati “Ni ibya **Allah**.” Vuga uti “None se ubwo ntimwibuka?”

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَمْ تَرَوْنَ  
٨٥

86. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Ni nde Nyagasan i wibirere birindwi, ndetse ni na nde Nyagasan wa Ar’shi<sup>152</sup> ihambaye?”

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ  
٨٦

87. Bazavuga bati “Ni ibya **Allah**.” Vuga uti “None se ubwo ntimutinya?”

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَمْ تَتَقْوِنَ  
٨٧

88. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Ni nde ufite ubwami bwa buri kintu mu kuboko kwe, akaba ari na we urinda (umwikinzeho) mu gihe (We) adakeneye kurindwa, niba mubizi?”

قُلْ مَنْ يَدْعُهُ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُحِبُّ  
وَلَا يُحِبُّ أَعْلَيَهُ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ  
٨٨

89. Bazavuga bati “Ni ibya **Allah**.” Vuga uti “None se ni gute mushukwa (mugateshuka ku kuri)?”

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَإِنِّي سُسْخَرُونَ  
٨٩

90. Ahubwo twabazaniye ukuri, ariko mu by’ukuri (ababangikanyamana) ni abanyabinyoma.

بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ  
٩٠

91. Ntabwo **Allah** agira umwana kandi nta yindi mana babangikanye. (Iyo haza kubaho imana nyinshi), buri mana yari kwiharira ibyo yaremye, kandi zimwe zari kuganza izindi. Ubutagatifu ni ubwa **Allah** kandi

مَا أَخْذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ وَمِنْ إِلَهٍ  
إِذَا ذَهَبَ كُلُّ إِلَيْهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى  
بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ  
٩١

<sup>152</sup> Reba ibisobanuro by’iri jambo muri Suratul A’araf, Aya ya 54.

nta ho ahuriye n'ibyo  
bamubangikanya na byo.

92. Ni Umumenyi  
w'ibitagaragara n'ibigaragara!  
Nta ho ahuriye n'ibyo  
bamubangikanya na byo.

93. Vuga (yewe Muhamadi) uti  
“Nyagasan wanjye! Nibiba  
ngombwa ko unyeraka ibyo  
(bihano) basezeranyije”,

94. “Nyagasan wanjye!  
Ntuzanshyire mu bantu  
b'ababangikanyamana.”

95. Kandi mu by'ukuri  
kukwereka ibyo  
twabasezeranyije  
turabishoboye.

96. Jya ukumira ikibi  
ukoreshsheje ibyiza. Twe tuzi neza  
ibyo bavuga.

97. Vuga (yewe Muhamadi) uti  
“Nyagasan wanjye!  
Nkwikinzeho ngo undinde  
ibishuko by'amashitani.”

98. Nanakwakinzeho Nyagasan  
wanjye! Ngo uyandinde  
ntanyegere.

99. (Bazakomeza guhakana)  
kugeza ubwo umwe muri bo  
agezwaho n'urupfu, maze

عَلِمَ الْغَيْبُ وَالشَّهَدَةُ فَتَعَالَى عَمَّا يُشَرِّكُونَ

٩٣

قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِّيَ مَا يُوَعَّدُونَ

رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدْ رُونَ

أَدْفَعَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا

يَصْفُونَ

وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَرَاتِ الشَّيْطِينِ

وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْصُرُونِ

أَرْجِعُونِ

avuge ati “Nyagasani wanjye!  
Nimungarure (ku isi),

100. Kugira ngo mbashe gukora ibyiza ntakoze. Ibyo ntibishoboka! Mu by'ukuri ibyo ni amagambo yivugira, kandi inyuma yabo hari urusika (rubabuza kugaruka ku isi) kuzageza ku munsi bazazurirwaho.”

101. Hanyuma impanda nivuzwa, nta masano azarangwa hagati yabo kuri uwo munsi, ndetse nta n'uzaba agira icyo abaza undi

102. Abo iminzani yabo (y'ibikorwa byiza) izareméra; abo ni bo bazaba bahiriwe.

103. Naho ab'iminzani yabo (y'ibikorwa byiza) izagira uburemere buke; abo ni bo bazaba barihemukiye, bazaba mu muriro wa Jahanamu ubuziraherezo.

104. Umuriro uzatwika uburanga bwabo (iminwa iveho), maze bawubemō bashinyitse.

105. (Babwirwe batı) “Ese ntimwajyaga musomerwa amagambo yanjye maze mukayahinyura?”

لَعَلَّيْ أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكَتُ كَلَّا إِنَّهَا  
كَلِمَةٌ هُوَ قَدِيلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرَزَ إِلَيْ يَوْمِ  
يُبَعَثُونَ

فِإِذَا نَفَخْنَا فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا  
يَتَسَاءَلُونَ

فَمَنْ ثَقَلَتْ مَوَازِينُهُ وَفَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَفَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا  
أَنفُسُهُمْ فِي جَهَنَّمِ حَالِدُونَ

تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَلِيلُونَ

أَلَمْ تَكُنْ عَائِتِي تُتَلَّ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ يَهَا  
تُكَذِّبُونَ

106. Bazavuga bati “Nyagasan wacu! Twaganjijwe n’irari ryacu maze tuba mu bantu bayobye.”

قَالُوا رَبَّنَا غَابَتْ عَيْنَا شَقَوْتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا  
ضَالِّينَ ﴿١٦﴾

107. Nyagasan wacu! Wudukuremo (udusubize ku isi). Nituramuka dusubiye (mu buyobe), mu by’ukuri, tuzaba turi abahemu (dukwiye guhanwa koko!)

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا إِنْ عُدْنَا فِي أَنَّا ظَلِيمُونَ ﴿١٧﴾

108. (Allah) avuge ati “Nimuwubemo (musuzuguritse) kandi ntimugire icyo mwongera kumbwira!”

قَالَ أَخْسَرُوا فِيهَا وَلَا تُكَلُّوْنَ ﴿١٨﴾

109. Mu by’ukuri hari itsinda mu bagaragu banjye (ryajyaga risaba Allah) rigira riti “Nyagasan wacu! Twaremeye, bityo tubabarire unatugirire impuhwe, kuko ari wowe uhebuje mu kugira impuhwe!”

إِنَّهُ كَانَ فِي قِبْلَةٍ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا فَاعْفُرَ

لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٩﴾

110. Ariko mwarabannyegaga kugeza ubwo babibagije kunyibuka, kandi mwajyaga mubaseka.

فَلَمَّا خَذَلُوكُمْ سُبْحَانِي حَقِّيَ أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ  
مِّنْهُمْ تَضَعَّكُونَ ﴿٢٠﴾

111. Mu by’ukuri uyu munsi mbahembye (Ijuru) kubera kwihangana kwabo, ndetse ni na bo batsinze.

إِنِّي جَزِيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمْ  
الْفَارِزُونَ ﴿٢١﴾

112. (Allah) azabwira (inkozi z’ibibi) ati “Ese mwamaze imyaka ingahe ku isi?”

قَلَّ كُلَّمَا شَتَّتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿٢٢﴾

113. Bazavuga bati “Twahamaze umunsi cyangwa igice cy’umunsi. Ngaho baza abazi kubara!”

قَالُوا إِنَّا نَحْنُ مَا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسَأَلُ الْعَادِينَ ﴿١١٣﴾

114. (**Allah**) avuge ati “Mwamaze igihe gito cyane. Iyaba mwari muzi (ko igihe mugiye kumara ari cyo kirekire kuruta icyo mwamaze ku isi, muba mwaremeye).”

قَلَّ إِنْ لَيَشْتُمُ إِلَّا قَلِيلًا لَوْلَا أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١٤﴾

115. Ese mukeka ko twabaremye dukina (nta mpamu), kandi ko mutazagarurwa iwacu?

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا  
تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾

116. Bityo, **Allah** asumba byose, Umwami w’ukuri; nta yindi mana ikwiye gusengwa by’ukuri uretse We, Nyagasanai wa Ar’shi<sup>153</sup> y’icyubahiro.

فَتَعَلَّمَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ  
الْعَرْشِ الْكَبِيرِ ﴿١١٦﴾

117. N’uzabangikanya **Allah** n’ikindi kintu adafitiye gihama, rwose ibarura rye rizakorwa na Nyagasanai we. Mu by’ukuri abahakanyi ntibazatsinda.

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخْرَلَابُرْهَنَ لَهُ وِيهَ  
فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُنْفِلُ الْكُفَّارُونَ ﴿١١٧﴾

118. Unavuge (yewe Muhamadi) uti “Nyagasanai wanjye! Babarira unagire impuhwe, kuko ari Wowe Uhebuje mu kugira impuhwe.”

وَقُلْ رَبِّ أَغْفِرْ وَأَرْحَمْ وَأَنْتَ حَيْرُ الرَّحِيمِينَ ﴿١١٨﴾

<sup>153</sup> Reba uko twasobanuye iri jambo muri Surat ul A’araf: 54.

## 24 - SURAT A-NUR

(URUMURI)

Yahishuriwe i Madina, igizwe n'imirongo 64

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. (Iyi ni) isurat twahishuye kandi twanategetse (ko amategeko ayikubiyemo ashayirwa mu bikorwa), ndetse twanayihishuyemo imirongo isobanutse kugira ngo muyitekerezeho.

2. Umusambanyikazi n'umusambanyi (batari bashaka), buri wese mujye mumukubita inkoni ijana. Kandi ntimuzabagirire impuhwe igihe mushyira mu bikorwa itegeko rya Allah niba koko mwemera Allah n'umunsi w'imperuka. Ndetsé (iyubahirizwa ry'icyo gihano cyabo) rijye ryitabirwa n'itsinda ry'abemeramana.

3. Umusambanyi nta wundi akwiye gushyingiranwa na we usibye umusambanyikazi cyangwa umubangikanyamanakazi. N'umusambanyikazi nta wundi akwiye gushyingiranwa na we utari umusambanyi cyangwa umubangikanyamana. Kandi

سُورَةُ أَنْزَلْنَا وَفَرَضْنَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيْتٍ  
عَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۚ

الْإِنْزَانِيَّةُ وَالْإِرَانِيَّةُ فَاجْلِدُوا كُلَّ مَنْ حَدَّدَ مِنْهُمَا مِائَةً جَلَدَةً وَلَا  
تَأْخُذُوهُ بِمَا رَأَفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ قُوْمُنَّ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِشَهَادَةِ عَذَابِهِمَا طَافِقَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ

۱

الْإِرَانِيَّ لَا يَنْكِحُ إِلَّا إِرَانِيَّةً وَمُشْرِكَةً وَالْإِرَانِيَّةُ لَا يَنْكِحُهَا  
إِلَّا إِرَانِيَّ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۲

ibyo byose biziririjwe ku bemeramana.

4. Kandi ba bandi babeshyera abagore biyubashye (bakabashinja) ko basambanye, ariko ntibabitangire abahamya bane (babibonye), mujye mubakubita inkoni mirongo inani, ndetse ntimuzongere kwemera ubuhamya bwabo na rimwe. Mu by'ukuri abo ni bo nkozi z'ibibi,

5. Keretse ba bandi bicujije nyuma y'ibyo maze bagakora ibikorwa byiza; kuko mu by'ukuri **Allah** ari Ubabarira ibyaha, Nyirimpuhwé.

6. Naho ba bandi babeshyera abagore babo (babashinja) ubusambanyi, ariko bakaba batabifitiye abahamya usibye bo ubwabo; (icyo gihe) ubuhamya bw'umwe muri bo (umugabo) ni ukurahira ku izina rya **Allah** inshuro enye (yemeza) ko ari mu bavuga ukuri (ku cyaha cy'busambanyi ashinja umugore we).

7. Naho ku nshuro ya gatanu (akarahira yisabira) ko umuvumo wa **Allah** umubaho niba ari mu babeshyi (abeshyera umugore we).

وَالَّذِينَ يَرْءُونَ الْمُحْصَنَاتِ تُرْهِمُهُنَّا يَأْتُوا بِأَرْبَعَةٍ  
شُهَدَاءَ إِذَا فَاجَلُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلَدَةً وَلَا تَقْبِلُوا لَهُمْ  
شَهَدَةً أَبْدًا وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴿٤﴾

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَاصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ  
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَرَبِيْكُنْ لَهُمْ شَهَدَاءَ  
إِلَّا أَنَفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدٍ هُرَبَّ أَرْبَعُ شَهَادَتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ  
لِمَنِ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾

وَالْخَيْمَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَذِيبِينَ ﴿٧﴾

8. (Umugore) akurirwaho igihano igihe arahiye ku izina rya Allah inshuro enye (ahamya) ko umugabo we ari umubeshyi (mu byo amushinja).

9. Ku nshuro ya gatanu (umugore arahira yisabira) ko uburakari bwa Allah bwamubaho niba (umugabo we) ibyo avuga ari ukuri.

10. N'yo bitaza kuba ingabire za Allah n'impuhwe ze kuri mwe, ndetse no kuba mu by'ukuri Allah ari we wakira ukwicuza, Nyirubugenge buhambaye; (umubeshyi muri mwe yari guhita agerwaho n'ibyo yisabiye).

11. Mu by'ukuri ba bandi bahimbye ikinyoma (babeshyera Ayisha, umugore w'Intumwa Muhamadi ko yasambanye) ni bamwe muri mwe. Ntimwibwire ko (ikinyoma cyabo) ari kibi kuri mwe, ahubwo ni cyiza kuri mwe (kuko bigira umugore w'Intumwa umwere, bikanatuma hamenyekana abemeramana nyakuri). Buri wese muri bo (abakwije icyo kinyoma) azahanirwa icyaha yakoze. Naho uwabigizemo uruhare runini ruruta urw'abandi, azahanishwa ibihano bihambaye.

وَيَدْرُؤُ عَنْهَا الْعَذَابُ أَنْ تَشَهَّدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ  
إِنَّمَا لِمَنِ الْكَذِبُينَ ﴿٨﴾

وَالْخَمْسَةَ أَنْ غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

٩

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَابٌ

حَيْكُمٌ

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفَاقِ عُصَبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسُسُوهُ  
شَرَّ لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ أُمَّرِي مِنْهُمْ مَا  
أَكْسَبَ مِنْ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّ كَبُرَهُ وَمِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ

عَظِيمٌ

12. None se ubwo mwumvaga (ibi bihuha bivugwa), kuki abemeramana baba ab'abagabo cyangwa ab'abagore, batatekerereje ibyiza bagenzi babo, maze ngo bavuge bati "Iki ni ikinyoma kigaragara"?

13. Kuki (abo banyabinyoma) batigeze batanga abahamy bane (bemeza ibyo bavuga)? Kandi nibaramuka batazanye abo bahamya, ubwo ni bo bazaba babaye abanyabinyoma imbere ya **Allah**.

14. N'ijo bitaza kuba ingabire za **Allah** ndetse n'impuhwe ze kuri mwe hano ku isi ndetse no ku mperuka, mwari kugerwaho n'ibihano bihambaye kubera ibyo mwavuze.

15. Ubwo mwabikwirakwizaga mukoresheje indimi zanyu, ndetse mukavugisha iminwa yanyu ibyo mudafitiye ubumenyi, mwakekaga ko byoroheje, nyamara imbere ya **Allah** bihambaye.

16. Kubera iki igihe mwabyumvaga mutavuze muti "Ntibikiye ko tuvuga ibi. Ubutungane ni ubwawe (Nyagasani wacu)! Iki ni ikinyoma gihambaye."

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ  
خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِلَّا فَكُلُّ مُمِيتٍ

لَوْلَا جَاءُ وَعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا  
بِالْشُهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُهُ فِي الدُّنْيَا  
وَالْآخِرَةِ لَمَسَكُوكُمْ فِي مَا أَفْضَلْتُمُوهُ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

١٤

إِذْ تَلَقَّنَهُ وَبِالسِّنَّتِ كُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ  
لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسِبُونَهُ هَيْئَا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ

١٥

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَبَّرَ  
بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَنَ عَظِيمٌ

17. Allah arabakangurira kutazabyongera na rimwe, niba koko muri abemeramana.

يَعْظُلُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ  
مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾

18. Kandi Allah abasobanurira amagambo (Ye), ndetse Allah ni Umumenyi uhebuje, Nyirubugenge buhambaye.

وَبَيْنَهُمُ اللَّهُ لَكُمْ أَلْيَاتٍ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ

﴿١٨﴾

19. Mu by'ukuri ba bandi bishimira guharabika abemeramana (babashinja) icyaha cy'ubusambanyi, bazahanishwa ibihano bibabaza hano ku isi ndetse no ku munsi w'imperuka. Kandi Allah azi (ibinyoma byanyu) ariko mwe ntimuzi (ingaruka zabyo).

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَحْشَةُ فِي الَّذِينَ  
أَمْنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ  
يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾

20. N'ijo bitaza kuba ingabire za Allah ndetse n'impuhwe ze kuri mwe, no kuba mu by'ukuri we ari Nyirimpuhwe zihebuje, Nyirimbabazi, (yari kwihutisha ibihano ku bigomeka ku mategeko ye).

وَلَا فَضْلٌ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ وَلَكُنَّ اللَّهَ  
رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

21. Yemwe abemeye! Ntimugakurikire inzira za Shitani. Kandi ukurikiye inzira za Shitani, (amenye ko) mu by'ukuri itegeka gukora ibiteye isoni ndetse n'ibibi. N'ijo bitaza kuba ingabire za Allah n'impuhwe ze kuri mwe, nta n'umwe wari kwezwa ibyaha. Ariko Allah yeza uwo ashaka,

\* يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنُوا لَا تَتَّبِعُوا حُطُولَتِ الشَّيْطَانِ  
وَمَنْ يَتَّبِعُ حُطُولَتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ  
بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَا فَضْلٌ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ  
وَرَحْمَةُ وَمَا زَكَّى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكُنَّ اللَّهَ  
يُنِيبُكُمْ مِنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْمٌ ﴿٢١﴾

kandi Allah ni Uwumva bihebuje, Umumenyi uhebuje.

22. Kandi abagiriwe ubuntu ndetse n'abakungu muri mwe, ntibakarahire bavuga ko badashobora guha (ubufasha) abo bafitanye isano n'abakene (kubera amakosa bakoze), ndetse n'abimutse kubera Allah. Bityo bajye bababarira banirengagize (ibyabaye) barenzeho. Ese ntimwifuza ko namwe Allah yabababarira? Kandi Allah ni Ubabarira ibyaha, Nyirimpuhwe.

23. Mu by'ukuri ba bandi bahimbira (icyaha cy'abusambanyi) abagore biyubashye, barengana kandi b'abemeramana; (abo babahimbira) baravumwe hano ku isi ndetse no ku munsi w'imperuka, kandi bazahanishwa ibihano bihambaye,

24. Umunsi indimi, amaboko n'amaguru byabo bizabashinja ibyo bajyaga bakora.

25. Kuri uwo munsi Allah azabahembera ibyo bakoze mu buryo bwuzuye, (icyo gihe) bazamenya ko Allah ari We (uhemba mu) kuri kugaragara.

وَلَا يَأْتِي أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةُ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى  
الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَلَيَعْفُوا وَلَيَصْفِحُوا لَا يَنْجُونَ أَنْ يَعْفَرَ اللَّهُ لَهُمْ  
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢﴾

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ  
الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ  
عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

يَوْمَ تَشَهَّدُ عَلَيْهِمْ أَسْتَهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا  
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾

يَوْمَئِذٍ يُوَقِّيْهُمُ اللَّهُ دِيْهُمْ أَحَقُّ وَيَعْمَلُونَ أَنَّ اللَّهَ  
هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿٢٥﴾

26. Abagore b'inkozi z'ibibi (cyangwa se imvugo mbi) bakwiranye n'abagabo b'inkozi z'ibibi, ndetse n'abagabo b'inkozi z'ibibi (cyangwa se imvugo mbi) bakwiranye n'abagore b'inkozi z'ibibi. Naho abagore bakora ibikorwa byiza bakwiranye n'abagabo bakora ibikorwa byiza, ndetse n'abagabo bakora ibikorwa byiza bakwiranye n'abagore bakora ibikorwa byiza. Abo (bakora ibyiza) ni abere ku byo babavugaho. Bazababarirwa ndetse banahabwe amafunguro meza (mu Ijuru).

27. Yemwe abemeye! Ntimukinjire mu mazu atari ayanyu mutabanje gukomanga no gusuhuza bene yo. Ibyo ni byo byiza kuri mwe kugira ngo mwibuke (amategeko ya Allah).

28. Nimutagira uwo muhasanga, ntimukayinjiremo kugeza muhawe uburenganzira. Kandi nimusabwa gusubira inyuma, mujye musubirayo; ibyo ni byo biboneye kuri mwe. Kandi Allah azi neza ibyo mukora.

الْخَيْثَاتُ لِلْخَيْثِينَ وَالْخَيْثُونَ لِلْخَيْثَاتِ  
وَالظَّيْبَاتُ لِلظَّيْبِينَ وَالظَّيْبُونَ لِلظَّيْبَاتِ  
أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ

كَيْمٌ  
٦٦

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِذَا آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيوْتًا أَغْرِيَ بُيوْتَكُمْ  
حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوهُ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمُ الْخَيْرُ  
لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

إِنَّمَا يَنْهَا الَّذِينَ لَا يَأْمُرُونَ لَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ  
يُؤْذَنَ لَكُمْ وَلَنْ قِيلَ لَكُمْ أَنْ جِعْلُوهَا فَارْجِعُوهُ  
هُوَ أَنْجَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

29. Nta cyaha kuri mwe kwinjira (nta burenganzira mubisabiye) mu mazu adatuwemo (nko mu masoko, amasomero n'ahandi) igihe arimo ibyo mukeneeye. **Allah** azi neza ibyo mugaragaza ndetse n'ibyo muhisha.

30. (Yewe Muhamadi) bwira abemeramana b'abagabo bajye bubika amaso yabo (birinda kureba ibyaziririjwe) ndetse banarinde ibitsina byabo (ntibishore mu busambanyi). Ibyo ni byo byiza kuri bo. Mu by'ukuri **Allah** azi neza ibyo bakora.

31. Unabwire abemeramana b'abagore kujya bubika amaso yabo (birinda kureba ibyaziririjwe) ndetse banarinde ibitsina byabo (kwishora mu busambanyi). Kandi ntibakagaragaze imirimbo yabo, usibye gusa isanzwe igaragara muri yo (uburanga, ibiganza). Ndetse bajye bamanura imyitero yabo kugera ku bituza byabo. Ntibakanagaragaze imirimbo yabo (ku bandi), usibye gusa ku bagabo babo, ba se, ba sebukwe, abahungu babo, abahungu b'abagabo babo, basaza babo, abisengeneza babo, abahungu babereye ba nyina wabo, abagore bagenzi babo, abacakara babo, abakozi b'abagabo batagira ingufu za

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَّعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدِّلُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ

قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُبُوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكِي لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُبْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبَدِّلْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا أَنْظَهَرَ مِنْهَا وَلَيَضْرِبَنَّ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى حِجُوْبِهِنَّ وَلَا يُبَدِّلْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعْوَلَتِهِنَّ أَوْ إِبَاءِهِنَّ أَوْ إِبَاءَهُ بُعْوَلَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَهُ بُعْوَلَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيَ إِخْرَانِهِنَّ أَوْ بَنِيَ أَخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَاءِهِنَّ أَوْ مَامَلَكَتْ أَيْمَانَهُنَّ أَوْ التَّسِيعَنَ غَيْرَ أُولَئِكَ الْأَرْبَةَ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْطِفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهِرُوا عَلَى عَوَرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبُنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعَلَّمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُؤْبُوا

إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿٣﴾

kigabo (ibiremba), cyangwa abana batarasobanukirwa iby'ubwambure bw'abagore. Kandi (abemeramanakazi) ntibakagende bakubita ibirenge byabo hasi kugira ngo bamenyekanishe imirimbo yabo yihishe. Ndetse mujye mwicuza kwa Nyagasani wanyu mwese, yemwe abemeramana, kugira ngo mukiranuke!

32. Kandi mujye mushyingira ingaragu muri mwe, (munashyingire) abagaragu n'abaja banyu barangwa n'imico myiza. Nibaba ari abakene, Allah azabakungahaza ku bw'ingabire ze. Kandi Allah ni Nyiringabire zagutse, Umumenyi uhebuje.

33. Kandi abadafite ubushobozi bwo gushaka, bajye bifata kugeza igihe Allah azabahera ubushobozi mu ngabire ze. Ndetse no mu bagaragu banyu, abazashaka ko mugirana amasezerano (yo kubaha ubwigenge), mujye tuyagirana igihe mubaziho imico myiza. Kandi mujye mubahya imitungo Allah yabahaye. Ndetse ntimugahatire abaja banyu gukora uburaya mugamije kubona indonke z'isi mu gihe bo bashaka kwifata. Ariko uzabahatira (gukora uburaya), mu by'ukuri nyuma y'uko

وَأَنِكُحُوا الْأَيْمَنَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرَاتِ مِنْ عِبَادِكُمْ  
وَإِمَامَكُمْ إِنِّي كُوْنُوا فُقَرَاءَ يُعْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ  
فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣﴾

وَلَيْسَ عَفِيفٌ الَّذِينَ لَا يَحْدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْنِيهِمُ اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَتَغَنَّوْنَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَ  
أَيْمَنَكُمْ فَكَاتِبُهُمْ إِنْ عَمِّتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَثُرُهُمْ  
مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَتَلَكُمْ وَلَا تُكِرُّهُمْ فَتَبَيَّنُهُمْ عَلَى  
الْإِلْغَاءِ إِنْ أَرْدَنَ تَحْصُنَا لِتَبَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ  
الْدُّنْيَا وَمَنْ يُكِرِّهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ

عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

kubahatira, **Allah** (azababarira abo baja kuko) ari Ubabarira ibyaha, Nyirimpuhwe.

34. Kandi rwose twabahishuriye amagambo asobanutse (akubiyemo) inger0 z'ababayeho mbere yanyu ndetse (akaba) n'inyigisho ku bagandukira (**Allah**).

35. **Allah** ni Urumuri rw'ibirere n'isi. Urumuri rwe (ari rwo ukwemera ndetse na Qur'an bimurikira umutima w'umwemeramana), ni nk'urw'itara riri mu kobo gafukuye mu rukuta, iryo tara rikaba riri mu kirahuri, icyo kirahuri kikaba kimeze nk'inyenyeri irabagirana, ricanishijwe amavuta y'igit cy'umuzeti cyuje imigisha. Si icy'iburasirazuba (ku buryo izuba ritakigeraho ku gicamunsi) cyangwa icy'iburengerazuba (ku buryo izuba ritakigeraho igihe rirashe). Amavuta yacyo asa nk'amurika (ubwayo) n'ubwo yaba atagezweho n'umuriro. (Iyo ashyizwe ku muriro) aba urumuri (rw'amavuta) rugeretse ku rundi rumuri (rw'umuriro). Kandi **Allah** ayobora ku rumuri rwe uwo ashaka. **Allah** anaha abantu inger0 (kugira ngo

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ إِيمَانٍ مُّبِينٍ وَمَثَلًا مِّنَ  
الَّذِينَ حَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢٤﴾

\* اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثُلُّ نُورٍ  
كَمَشْكُوفَةٍ فِيهَا مَصْبَاحٌ الْمَصْبَاحُ فِي رُجَاحَةِ  
الْرُّجَاحَةِ كَانَهَا كُوكُبٌ دُرْرِيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةِ  
مُبَرَّكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا  
يُضِيَّءُ وَلَوْلَمْ تَمَسَّسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي أَلَّهُ  
لِنُورٍ مَّنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ  
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٥﴾

basobanukirwe), kandi Allah ni Umumenyi wa byose.

36. (Urwo rumuri ruboneka) mu mazu (imisigit) Allah yategetse ko yubakwa ikanubahwa, maze izina rye rikambarizwamo, ndetse akanasingirizwamo mu gitondo na nimugoroba,

37. (N') abantu batarangazwa n'ibicuruzwa n'ubucuruzi (ngo bibibagize) kwambaza Allah, guhozaho iswala ndetse no gutanga amaturo; batinya umunsi imitima n'amaso bizabura icyerekezo (kubera gutinya ibihano by'imperuka).

38. Kugira ngo Allah azabahembere ibyiza bakoze anabongerere mu ngabire ze. Kandi Allah aha amafunguro uwo ashaka nta kugera.

39. Naho ba bandi bahakanye, ibikorwa byabo ni nk'ibiroriori biri ku murambi w'ubutayu; ufite inyota akeka ko ari amazi yahagera agasanga ntayo; (uko ni na ko umuhakanyi ku munsi w'imperuka azaza yiringiye guhemberwa ibyo yakoze asange nta byo), ahubwo azahasanga Allah amuhembe ibyo akwiye (jighano cy'umuriro). Kandi Allah ni Ubanguka mu ibarura.

فِي بُيُوتٍ أَذَنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا

أَسْمُهُ وَيُسَيِّحُ لَهُ وِفِيهَا بِالْغَدُوِ وَالآصَالِ

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِنَّ تَجَرَّهُ وَلَا يَبْعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكُوْنَ يَخَافُونَ يَوْمًا تَقْلَبُ

فِي الْقُلُوبِ وَالْأَبْصَرِ

لِيَجْرِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَرِيدُهُمْ مِنْ

فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرُؤُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُهُمْ كَسَابٌ بِقِيَّةٍ يَحْسَبُهُ

الظَّمَآنُ مَا هُنَّ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُو لَمْ يَجِدُهُ شَيْئًا

وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُو فَوَقَّنَهُ حِسَابٌ وَاللَّهُ سَرِيعُ

الْحِسَابِ

40. Cyangwa (ibikorwa byabo) ni nk'umwijima wo mu nyanja ifite ubujyakuzimu burebure, itwikiriwe n'umuhengeri utwikiriwe n'undi muhengeri, hejuru yayo hari ibicu byirabura; ni umwijima ugeretse hejuru y'undi, umuntu aramutse arambuye ukuboko kwe akubona bigoranye (kubera umwijima ukabije). Kandi uwo Allah atahaye urumuri, nta rundi rumuri yagira (rwamuyobora).

41. Ese (yewe Muhamadi) ntuzi ko ibiri mu birere n'ibiri ku isi, ndetse n'inyoni igihe zirambuye amababa (ziguruka mu kirere) bisingiza Allah? Rwose buri (kiremwa) cyose kizi uko gisenga nuko gisingiza. Kandi Allah ni Umumenyi w'ibyo bikora.

42. Kandi ubwami bw'ibirere n'ubw'isi ni ubwa Allah, ndetse kwa Allah ni ho (byose) bizasubira.

43. Ese (yewe Muhamadi) ntubona ko Allah agenza ibicu, hanyuma akabihuriza hamwe, maze akabigerekeranya nuko ukabona imvura ibimanukamo? Kandi (Allah) amanura urubura mu kirere (ruturutse) mu bicu bimeze nk'imisozi, akaruteza uwo ashaka ndetse akanarurinda uwo ashaka.

أَوْكَظْلَمْتِ فِي بَحْرٍ لَّهُجَيِّ يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ  
مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلْمَتْ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا  
أَخْرَجَ يَدَهُ وَلَمْ يَكُدْ يَرَنَهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلْ اللَّهُ لَهُ  
نُورًا فَمَا لَهُ وَمَنْ نُورٌ ﴿٢٣﴾

أَلَّمْ تَرَأَنَ اللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ وَمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  
وَالْطَّيْرِ صَفَقَتْ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَوَاللَّهُ  
عَلِيهِ مِمَّا يَفْعَلُونَ ﴿٤١﴾

وَلَلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

٤٤

أَلَّمْ تَرَأَنَ اللَّهَ يُنْزِحُ سَحَابًا ثُمَّ يُؤْلِفُ بَيْنَهُ وَثُمَّ يَجْعَلُهُ  
رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خَلَاهُ وَيُنْزَلُ مِنَ  
السَّمَاءِ مِنْ جَبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ  
وَيَصْرِفُهُ وَعَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقَهِ يَذْهَبُ  
بِالْأَبْصَرِ ﴿٤٣﴾

Urumuri rw'imirabyo (ituruka mu kugongana kw'ibicu) ruba rwenda guhuma amaso.

44. Allah asimburanya ijoro n'amanywa. Mu by'ukuri muri ibyo harimo isomo ku bashishoza.

45. Kandi Allah yaremye buri nyamaswa yose mu mazi (intanga). Muri byo, hari ibikururanda, no muri byo hari ibigendera ku maguru abiri, ndetse no muri byo hari ibigendera ku maguru ane. Allah arema ibyo ashaka. Mu by'ukuri Allah ni Ushobora byose.

46. Kandi rwose twabahishuriye amagambo asobanutse. Kandi Allah ayobora uwo ashaka mu nzira igororotse.

47. Kandi (indyarya) ziravuga ziti "Twemeye Allah n'Intumwa (Muhamadi), kandi twumvira (amategeko yabo)." Hanyuma nyuma y'ibyo, agatsiko muri bo kagatera umugongo (kakanga gukurikiza ayo mategeko); abo ntabwo ari abemeramana.

48. N'yo bahamagawe ngo bagane Allah ndetse n'Intumwa ye kugira ngo abakiranure, icyo gihe agatsiko muri bo

يُقْلِبُ اللَّهُ الْأَيَّلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعْبَةً لَّاْؤْلَىٰ

الْأَبْصَرٌ ﴿٤٤﴾

وَاللَّهُ خَالِقُ كُلَّ دَابَّةٍ مَّا يُمَلِّئُ فَنَهُمْ مَّنْ يَمْشِي عَلَىٰ بَطْرِينَهُ  
وَمِنْهُمْ مَّنْ يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَمْشِي عَلَىٰ  
أَرْبَعَ يَحْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٥﴾

لَقَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ  
إِلَىٰ صَرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٦﴾

وَيَقُولُونَ إِنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطْعَنَا ثُمَّ  
يَتَوَلَّ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مَّنْ بَعْدَ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ  
بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾

وَإِذَا دُعُوا إِلَىٰ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إِذَا فِي  
مِنْهُمْ مُّعَرِّضُونَ ﴿٤٨﴾

karabyanga  
umugongo.

kagatera

49. Ariko iyo ari bo bafite ukuri,  
baza bayigana (Intumwa)  
bicishije bugufi.

50. Ese bafite uburwayi mu  
mitima yabo? Cyangwa se  
barashidikanya? Cyangwa  
batinya ko Allah n'Intumwa ye  
batabakiranura mu kuri?  
Ahubwo ni bo nkozi z'ibibi.

51. Mu by'ukuri imvugo  
y'abemeye igihe bahamagariwe  
kugana Allah n'Intumwa ye  
kugira ngo babakiranure, ni  
ukuvuga batii "Turumvise kandi  
turumviye." Abo ni bo  
bakiranutsi (bazaba mu Ijuru  
ubuziraherezo).

52. Kandi uwumvira Allah  
n'Intumwa ye, akanatinya Allah  
ndetseakanamugandukira; abo  
ni bo batsinze.

53. Barahira mu izina rya Allah  
indahiro zabo zikomeye ko  
(wowe Muhamadi) nuramuka  
ubategetse gusohoka (bajya  
guharanira inzira ya Allah),  
bazajayayo. Vuga uti "Mwirahira;  
uko kumvira kwanyu kurazwi (si  
ukuri)." Mu by'ukuri Allah azi  
byimazeyo ibyo mukora.

وَلَن يَكُن لَّهُمْ لُحْقٌ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذَكَّرٌ

إِنَّ فُلُوْبِهِمْ مَرْضٌ أَمْ أَرْتَابًا أَمْ يَخَاوُفُونَ أَنْ يَحْجَفَ اللَّهُ

عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ وَبَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ

لِيَحْكُمُ بِيَنْهُمْ أَنَّ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ

هُمُ الْمُفْلِحُونَ

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقَهُ

فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَارِزُونَ

\* وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَنِهِمْ لِئَنْ أَمْرَتُهُمْ

لِيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةً مَعْرُوفَةً إِنَّ

اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

54. Vuga (yewe Muhamadi) uti "Nimwumvire Allah munumvire Intumwa, ariko nimuhakana (mumenye ko) iyo ntumwa izabazwa ibyo yashinzwe, namwe mukabazwa ibyo mwashinzwe." Nyamara nimuramuka muyumviye muzaba muyobotse. Nta kindi Intumwa ishinzwe kitari ugusohoza ubutumwa mu buryo bugaragara gusa.

55. Allah yasezeranyije abemeye muri mwe bakanakora ibikorwa byiza ko rwose azabagira abazungura ku isi nk'uko yabigiriye abababanjirije. Kandi ko azubahisha idini ryabo yahabitiyemo (Isilamu). Ndetsé ibihe bahozemo by'ubwoba azabisimbuza iby'umutekano (igihe cyose bazaba) bangaragira batambangikanya n'icyo ari cyo cyose. Ariko abazahakana nyuma y'ibyo, abo ni bo byigomeke.

56. Kandi mujye muhozaho iswala munatange amaturo, ndetse munumvire Intumwa (Muhamadi) kugira ngo mugirirwe impuhwe.

57. Ntuzibwire ko ba bandi bahakanye bananiye (Allah kubahanira) ku isi. Ahubwo ubuturo bwabo buzaba mu muriro, kandi ni ryo herezo ribi.

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلُّوْ فَإِنَّمَا  
عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ  
تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَغُ الْمُبِينُ ﴿٥٦﴾

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا  
أَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ  
دِينَهُمُ الَّذِي أَرْتَضَنَّ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ  
خَرْفِهِمْ أَمَّا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ  
كَفَرَ بِعَدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٧﴾

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَوَةَ وَأَطِيعُوا  
الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرَحَّمُونَ ﴿٥٨﴾

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ  
وَمَا أُولَئِكُمْ بَشَّارٌ وَلَيَسَ الْمَصِيرُ ﴿٥٩﴾

58. Yemwe abemeye! Abacakara banyu ndetse na ba bandi bataragimbuka muri mwe, bajye babasaba uburenganzira (bwo kwinjira mu byumba byanyu) mu bihe bitatu: mbere y'isengesho ryo mu rukerera, igihe mwiyambuye imyambaro yanyu ku manywa (muruhutse), ndetse na nyuma y'isengesho rya nijoro. (Ibyo) bihe bitatu ni ibyanyu by'umwihariko (muruhukamo). Mu bindi bihe bitari ibyo, nta cyaha kuri mwe cyangwa kuri bo kuba mwanyuranyuranamo. Uko ni ko **Allah** abasobanurira amagambo ye. Kandi **Allah** ni Umumenyi uhebuje, Nyirubugenge buhambaye.

59. Kandi abato muri mwe nibagera igihe cyo kugimbuka, bajye basaba uburenganzira (bwo kwinjira mu byumba byanyu) nk'uko bakuru babo babusaba. Uko ni ko **Allah** abasobanurira amagambo ye. Kandi **Allah** ni Umumenyi uhebuje, Nyirubugenge buhambaye.

60. Naho abagore bacuze batagifite icyizere cyo kurongorwa (kubera izabukuru), nta cyaha kuri bo kuba bakwambura imyitero yabo ariko batagaragaza imirimbo (iri ahiihishe), nyamara

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِمَنُوا لِيَسْتَدِنُكُمُ الَّذِينَ  
مَلَكُتُ أَيمَنَكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَأْتُوكُمْ الْحُمُرُ مِنْكُمْ ثَلَثَةٌ  
مَرَّتِ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُورَتِ  
شَيَابَكُمْ مِنَ الظَّاهِرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَثَةٌ  
عَوَرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ  
طَوَّفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ  
اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ  
فَلِيَسْتَدِنُوا كَمَا أَسْتَدَنَ الَّذِينَ مِنْ  
قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ  
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا  
فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ شَيَابَهُنَّ عَيْرَ

baramutse biyubashye  
(ntibayikuremo) byaba ari byo  
byiza kuri bo. Kandi Allah ni  
Uwumva bihebuje, Umumenyi  
uhebuje.

61. Si bibi ku muntu utabona, uwamugaye, umurwayi cyangwa mwe ubwanyu kuba mwarya mu ngo zanyu, mu ngo za ba so, mu ngo za ba nyoko, mu ngo z'abavandimwe banyu, mu ngo za bashiki banyu, mu ngo za ba so wanyu, mu ngo za ba nyoko wanyu, mu ngo za ba nyokorome, mu ngo za ba nyogosenge, mu ngo (z'abo) mufitiye imfunguzo (mwarindishijwe) cyangwa mu ngo z'inshuti zanyu. Ndetse si n'ikosa kuri mwe kuba mwasangirira hamwe cyangwa se mukarya intatane. Ariko igihe mwinjiye mu mazu (atuwe ndetse n'adatuwe), mujye musuhuzanya mu ndamutso nziza ituruka kwa Allah kandi yuje imigisha<sup>154</sup>. Uko ni ko Allah abasobanurira amagambo ye, kugira ngo musobanukirwe.

62. Mu by'ukuri abemeramana nyabo ni ba bandi bemeye Allah n'Intumwa ye (Muhamadi). Kandi igihe bari kumwe na yo mu gikorwa kibahuza, nta ho bajya batabanje kuyisaba uruhushya. Mu by'ukuri abo

مُتَبَرِّجَتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفَنَ خَيْرٌ  
لَهُنَّ فَوْلَادُ اللَّهِ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ ۖ

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَغْرَاجِ حَرْجٌ  
وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَفْسِسِكُمْ أَن  
تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَبَارِيكُمْ أَوْ  
بُيُوتِ أَمْهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْرَانِكُمْ أَوْ  
بُيُوتِ أَخْرَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ  
بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْرَالِكُمْ أَوْ  
بُيُوتِ خَالِتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكُوكُمْ  
مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقَكُمْ لَيْسَ عَلَيْهِمْ  
جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا  
دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحْيَيَةً مِنْ  
عِنْدِ اللَّهِ مُبَرَّكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ  
لَكُمْ أَلَايَتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۚ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِيمَانُهُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا  
كَانُوا مَعَهُمْ عَلَى أَمْرِ رَجَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَقِّيَّةً يَسْتَعْذِنُو  
إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَعْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ

<sup>154</sup> Iyo ndamutso ni (Assalamu alayikum wa rah'matullahi wa barakatuhu)

bagusaba uruhushya ni bo bemera **Allah** n'Intumwa ye (by'ukuri). Bityo, nibaramuka bagusabye uruhushya ku bw'impamvu zabo bwite, ujye uruha uwo ushatse muri bo kandi unabasabire **Allah** imbabazi. Mu by'ukuri **Allah** ni Ubabarira ibyaha, Nyirimpuhwe.

63. Ntimukajye muhamagara Intumwa y'Imana (mu mazina yayo bwite) nk'uko muhamagarana hagati yanyu (Ahubwo mujye mumwubaha muvuge muti 'Yewe Ntumwa y'Imana!') Rwose **Allah** azi abasohoka rwihihwa muri mwe bikingakinga ku bandi. Bityo, abigomeka ku mategeko yayo (Intumwa) bajye bitwararika batazavaho bakagerwaho n'ikigeragezo cyangwa bakagerwaho n'ibihano bibabaza.

64. Mu by'ukuri ibiri mu birere n'ibiri ku isi ni ibya **Allah**. Rwose azi neza ibyo (mwe) muri mo, kandi (azi) n'umunsi (abantu bose) bazasubizwa iwe maze akababwira ibyo bakoze. Kandi **Allah** ni Umumenyi wa byose.

بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ إِذَا أَسْتَغْنَوْكُمْ بِعَصْرٍ شَأْنُهُمْ  
فَأَدْنِ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْهُمْ اللَّهُ  
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٤﴾

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءَ  
بَعْضُكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ  
يَسْأَلُونَ مِنْكُمْ لَوْاً فَيَحْذِرُ الَّذِينَ  
يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ  
يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٥﴾

أَلَا إِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا  
أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَيَّثُهُمْ بِمَا  
عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٦﴾

**25 - SURAT AL FUR'QAN**  
**(GUTANDUKANYA UKURI N'IKINYOMA)**  
*Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirongo 77*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya **Allah**, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Ubutagatifu ni ubw'uwamanuriye umugaragu we (Muhamadi) igitabo cya Fur'qan (gitandukanya ukuri n'ikinyoma, ari cyo Qur'an), kugira ngo abe umuburizi w'ibiremwa byose.

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ  
 لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴿١﴾

2. We Nyirubwami bw'ibirere n'isi, utarigeze agira umwana ndetse ntanagire n'umufasha mu bwami (bwe). Yanaremye buri kintu cyose kandi agiha ikigero kigikwiriye.

الَّذِي لَهُ وَمُنْكُرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ يَتَّخِذُ وَلَدًا  
 وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَشَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَحَاقَ كُلَّ شَيْءٍ  
 فَقَدَرَهُ وَتَقْدِيرًا ﴿٢﴾

3. (Abahakanyi) bishyiriye ho ibigirwamana bitari We (**Allah**), bitigeze bigira icyo birema na kimwe, ahubwo na byo ubwabyo byararemwe. Nta kibi byakwikiza ndetse nta n'icyiza byakwimarira, kandi ntibifite ubushobozi bwo kwica cyangwa gutanga ubuzima, habe n'ubwo kuzura (abapfuye).

وَأَنْخَذُوا مِنْ دُونِهِ مَا لَهُ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا  
 وَهُمْ يُخْلِقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنَّفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا  
 نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ﴿٣﴾

4. Abahakanye baravuze bati “Iyi (Qur'an) nta kindi iri cyo usibye kuba ari ikinyoma (Muhamadi) yahimbye abifashijwemo n'abandi bantu. Rwose (ibyo bavuga) ni bibi cyane kandi ni n'ikinyoma.”

5. Baranavuze bati “(Qur'an) ni inkuru z'abo hambere (Muhamadi) bamwandikiye; akaba azisomerwa mu gitondo na nimugoroba.”

6. Vuga (yewe Muhamadi) uti “(Qur'an) yahishuwe n'uzi amabanga yo mu birere n'isi (Allah). Mu by'ukuri We ni Ubabarira ibyaha, Nyirimpuhwe.”

7. Baranavuze bati “Iyi ni ntumwa ki, irya ibiryo ikanajaya mu masoko (nkatwe)? Kuki itamanuriwe umumalayika ngo ayifashe kuburira (abantu)?”

8. “Cyangwa (kubera iki iyo ntumwa) itamanuriwe ubutunzi, cyangwa ngo igire umurima ikuramo amafunguro?” Kandi abahakanyi baranavuze bati “Uwo mukurikiye nta cyo ari cyo usibye kuba ari umuntu warozwe!”

وَقَالَ الَّذِي كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْرَانٌ  
وَأَعْنَاهُ وَعَلَيْهِ قَوْمٌ مُّؤْخَرُونَ فَقَدْ جَاءُهُ وَظُلْمًا  
وَزُورًَا ﴿١﴾

وَقَالُوا أَسْطِرُ الْأَوَّلِينَ أَكُنْتَ بَهَا فِيهِ ثُمَّ  
عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصْلَادًا ﴿٢﴾

قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ الْأَيْمَنَ فِي السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ إِنَّهُ وَكَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٣﴾

وَقَالُوا مَا لِهِذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ  
وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ  
فَيَكُونَ مَعَهُ وَنَذِيرًا ﴿٤﴾

أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ  
مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجْلًا  
مَسْحُورًا ﴿٥﴾

9. Reba uko bakugize iciro ry'imigani (kugira ngo babone uko baguhakana!) Ahubwo barayobye, kandi ntibashobora kugera mu nzira (igororotse).

أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرُبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا  
فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَيِّلًا ⑨

10. Ubutagatifu ni ubwe (**Allah**), aramutse abishatse yaguha ibyiza biruta ibyo; (yaguha) imirima itembamo imigezi (ku isi) ndetse akanaguha ingoro (zihambaye).

تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ  
جَهَنَّمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ وَيَجْعَلُ لَكَ  
قُصُورًا ⑩

11. Nyamara bahakanye imperuka, kandi abahakana imperuka twabateganyirije umuriro utwiika.

بَلْ كَذَبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدَنَا لِمَنْ كَذَبَ  
بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ⑪

12. (Umuriro) nubabonera kure, bazumva ijwi ry'uburakari bwawo no kugurumana kwawo.

إِذَا رَأَتُهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَعِيُوا لَهَا تَغْيِيْظًا  
وَزَفِيرًا ⑫

13. N'igihe bazajugunywa mu mfunganwa zowo baboshye, aho ni ho bazisabira kurimbuka (ngo bakire ububabare bwawo).

وَإِذَا أَلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقْرَنِينَ دَعَوْا  
هُنَالِكَ ثُبُورًا ⑬

14. (Maze babwirwe bati) "Uyu munsi mwisaba kurimbuka inshuro imwe, ahubwo nimusabe kurimbuka kenshi (kuko nta cyo biri bubamarire)!"

لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَحْدًا وَادْعُوا ثُبُورًا  
كَثِيرًا ⑭

15. Vuga (yewe Muhamadi) uti "Ese uwo (muriro) ni wo mwiza, cyangwa ijuru rihoraho abagandukira (**Allah**) basezeranyijwe ngo ribe

قُلْ أَذْلَكَ خَيْرٌ أَمْ حَنَّةُ الْخُلْدُ الَّتِي وُعِدَ  
الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا ⑮

igihembo cyabo ndetse n'iherezo ryabo (ni ryo ryiza)?”

16. Bazaribonamo ibyo bazifuza byose kandi bazabamo ubuziraherezo. Iryo ni isezerano rya Nyagasan i wawe rigomba gusohora.

17. Kandi umunsi (**Allah**) azabakoranyiriza hamwe n'ibyo basengaga bitari **Allah**, azavuga ati “Ese ni mwe mwayobeje aba bagaragu banje, cyangwa ni bo ubwabo bayobye inzira (y'ukuri)?”

18. (Ababangikanyijwe na **Allah**) bazavuga bat “Ubutagatifu ni ubwawe! Ntabwo byari bikwiye ko habaho abandi tugira inshuti batari Wowe, ahubwo bo n'ababyeyi babo wabahaye umunezero kugeza ubwo bibagiwe urwibutso (rwawe), nuko baba abantu barimbutse.”

19. (Ababangikanyamana bazabwirwa bat) “Rwose (ibigirwamana mwasengaga) byabanyomoje mu byo mubivugaho (ko ari byo mana zanyu), bityo ntumushobora kwikiza (ibihano) cyangwa ngo mubone ubutabazi. N'uzaramuka abangikanyije (**Allah**) muri mwe, tuzamusogongeza ibihano bikaze.”

لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ تَخْلِدِينَ كَانَ عَلَىٰ  
رِتَابٍ وَعَدَاهُمْ شُوَّلًا ﴿١٦﴾

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ  
فَيَقُولُ إِنَّمَا أَضَلَّتُكُمْ عَبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ  
ضَلُّوا أَلْسِيلًا ﴿١٧﴾

قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَبْغِي لَنَا أَنْ تَتَخَذَنَا  
دُونَكَ مِنْ أُولَيَاءِ وَلَكِنْ مَتَّعْتُهُمْ وَإِبَاهُمْ  
حَتَّى نَسُوا الْذِكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُرُّا ﴿١٨﴾

فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا  
تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ  
مِنْ كُمْ نُذْقُهُ عَذَابًا كَيْرًا ﴿١٩﴾

20. Kandi nta ntumwa twigeze twohereza mbere yawe (yewe Muhamadi) ngo zibure kuba zararyaga ibyo kurya ndetse zikarema n'amasoko. Kandi bamwe muri mwe twabagize ibigeragezo ku bandi; ese mushobora kwihangana? Kandi Nyagasani wawe ni Ubona bihebuje (buri kintu).

21. Naho ba bandi batizera kuzahura natwe, baravuze bati "Kuki tutohererezwa Abamalayika (bo kutubwira ko uri Intumwa y'ukuri) cyangwa ngo tubone Nyagasani wacu?" Rwose bishyize hejuru bikabije baranarengera!

22. Umunsi bazabona Abamalayika, nta nkuru nziza (abo bamalayika bazaba bazaniye) inkozi z'ibibi kuri uwo munsi, (ahubwo) bazazibwira bati "Mukumiriwe (kwinjira mu ijuru) bidasubirwaho."

23. Maze twerekere ku bikorwa bakoze tubigire umukungugu utumuka..

24. Kuri uwo munsi, abo mu ijuru bazaba bafite icyicaro cyiza n'aho kuruhukira hahebuje.

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ  
لِيَأْكُلُونَ الْطَّعَامَ وَيَمْسُونُ فِي  
الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَهُمْ لِيَعْصِي فِتْنَةً  
أَنْصَرِرُوهُنَّ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿٢٠﴾

\* وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا  
الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ أَسْتَكْبَرُوا فِي  
أَنفُسِهِمْ وَعَتَّوْ أَكِيرًا ﴿٢١﴾

يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشَّرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ  
وَيَقُولُونَ حَجَرَاتٌ مَحْجُورًا ﴿٢٢﴾

وَقَدِمَنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَعَلَنَاهُ هَبَاءً  
مَنْثُرًا ﴿٢٣﴾

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقْرَأً  
وَأَحْسَنُ مَقْيِلًا ﴿٢٤﴾

25. (Unibuke) umunsi ikirere kizasatagurika (mu myenge yacyo) hagaragaramo ibicu, maze abamalayika bakamanurwa ari benshi.

26. Ubwami nyabwo kuri uwo munsi buzaba ari ubwa Nyirimpuhwe (**Allah**), kandi uzaba ari umunsi ukomeye ku bahakanyi.

27. (Unibuke) umunsi inkozi y'ibibi izirumagura intoki (yicuza ibyo yakoze) igira iti "Iyo nza kuba narayobotse inzira y'Intumwa (Muhamadi)!"

28. "Mbega ibyago byanje! Iyo nza kuba ntaragize kanaka inshuti magara!"

29. Rwose yaranyobeje antesha gukurikira urwibutso (Qur'an), nyuma yuko rwari rwarangezeho. Kandi Shitani atererana umuntu.

30. Nuko Intumwa (Muhamadi) iravuga iti "Nyagasani wanjye! Mu by'ukuri abantu banjye bitaruye iyi Qur'an (ntibayiha agaciro.)"

31. Uko ni na ko buri muhanuzi twamushyiriye abanzi bakomoka mu nkozi z'ibibi. Ariko Nyagasani wawe arahagije

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَمِ وَنُزِلَ الْمَلِئَةُ تَنْزِيلًا ﴿٢٥﴾

الْمُلَكُ يَوْمٌ ذِي الْحُقُوقِ لِرَحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكُفَّارِ عَسِيرًا ﴿٢٦﴾

وَيَوْمَ يَعْضُ أَظْلَالُهُ عَلَى يَدِيهِ يَقُولُ يَلِيَتِنِي أَخْذَتُ مَعَ الرَّسُولِ سَيِّلًا ﴿٢٧﴾

يَوْلَتِنِي لَيَتِنِي لَمْ أَخْنَذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿٢٨﴾

لَقَدْ أَصَلَنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلنَّاسِ حَذُولًا ﴿٢٩﴾

وَقَالَ الرَّسُولُ يَرَبِّ إِنَّ قَوْمِي أَتَخْذُوا هَذَا الْفُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿٣٠﴾

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًّا وَنَصِيرًا ﴿٣١﴾

kuba Uyobora ndetse  
n'Umutabazi.

32. Na ba bandi bahakanye baravuze batu "Kuki (Muhamadi) atahishuriwe Qur'an icyarimwe ari imbumbé?" (Allah aravuga ati) "Uko (kuyihishura itatanye) ni ukugira ngo tuyikoreshe tugukomeza umutima (yewe Muhamadi). Kandi twayiguhihuriye buhoro buhoro (kugira ngo yorohere abayisoma)."

33. Kandi nta rugero bakuzanira (rugamije guhinyura Qur'an) ngo tubure kukuzanira (igisubizo cy') ukuri ndetse n'ibisobanuro birushijeho kuba byiza.

34. Ba bandi bazakoranyirizwa mu muriro wa Jahanamu bagenza uburanga bwabo, ni bo bazaba bari mu rwego rubi kandi barayobye inzira (y'ukuri) bikabije.

35. Kandi mu by'ukuri twahaye Musa igitabo (Tawurati), tunamugenera umuvandimwe we Haruna (Aroni) kugira ngo amufashe.

36. Nuko turababwira tuti "Nimujye ku bantu bahakanye amagambo yacu (maze bajyayo barabigisha ariko bakomeza

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ جُمِلَةً  
وَحْدَةً كَذَلِكَ لِتُبَيَّنَ لَهُ فُؤَادُكُمْ وَرَأْنَاكُمْ  
تَرْتِيلًا ﴿٣٢﴾

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثِيلٍ إِلَّا جِئْنَكَ بِالْحَقِّ  
وَأَحَسَنَ تَقْسِيرًا ﴿٣٣﴾

الَّذِينَ يُحَشِّرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ  
أُولَئِكَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَيِّلًا ﴿٣٤﴾

وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ  
أَخَاهُ هَرُونَ وَزِيَّرًا ﴿٣٥﴾

فَقُلْنَا أَذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُواْ بِإِيمَانِنَا  
فَدَمَرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴿٣٦﴾

guhakana), nuko turabarimbura bihambaye.”

37. Ndetse n'abantu ba Nuhu (Nowa) ubwo bahinyuraga Intumwa, twabaroshye mu mazi maze tubagira isomo ku bantu. Kandi inkozi z'ibibi twaziteguriye ibihano bibabaza.

38. (Twanarimbuye) aba Adi<sup>155</sup> ndetse n'aba Thamudu<sup>156</sup>, n'abari baturiye iriba rya Rasi<sup>157</sup>, ndetse n'ibisekuru byinshi byabayeho hagati aho.

39. Kandi buri wese (muri bo) twamuhaye ingeri zihagije, maze bose (banga kwemera) tubarimbura bihambaye.

40. Kandi rwose (Ababangikanyamana b'i Maka) bajyaga banyura ku mudugudu (w'abantu ba Lutwi) wamanuriweho imvura mbi (y'amabuye). Ese ntibawubonaga (ngo bibahe isomo)? Ahubwo ntibizeraga izuka.

وَقَوْمٌ نُوحٌ لَمَّا كَذَبُوا رَسُولَ أَغْرَقْنَاهُمْ  
وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ  
عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣٧﴾

وَعَادَا وَثَمُودًا وَاصْحَابَ الْرَّيْسِ وَقُرُونًا بَيْنَ  
ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿٣٨﴾

وَكُلَّا لَّا ضَرَبَنَا لَهُ الْأَمْثَلُ وَكُلَّا لَّا تَبَرَّنَا  
تَتَّيَّرًا ﴿٣٩﴾

وَلَقَدْ أَقْرَأْنَا عَلَى الْقَرِيَةِ الَّتِي أَمْطَرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ  
أَفَمَمْ يَكُوْنُوا إِرْؤَنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ  
لُشُورًا ﴿٤٠﴾

<sup>155</sup> Adi ni izina ry'umuntu witirirwa ubwoko bw'aba Adi, bakaba baratumweho Intumwa yitwa Hudu, ubu bwoko bukaba bwari butuye Ah'qaf muri Oman.

<sup>156</sup> Thamudu: Ni abantu bitiriwe umukurambere wabo witwaga Thamudu, bakaba baratumweho Intumwa yitwa Swaleh, ubu bwoko bukaba bwari butuye aho bita Al Hijri ubu ni muri Arabiya Sawudite.

<sup>157</sup> Abantu bari baturiye iriba rya Rasi, Qur'an nta byinshi yabavuzeho uretse kugaragaza ko ari bamwe mu bantu basengaga imana y'igiti, nuko Allah abohereriza Intumwa barayihakana maze barayica bayita muri iryo riba, nuko Allah araboreka. Bamwe mu banyakamateka bavuga ko kuri ubu ari mu gihugu cyo Azerbaijan, abandi bakavuga ko ari Antioche muri Turukiya, abandi bakavuga ko ari mu buhinde.

41. N'yo bakubonye (yewe Muhamadi) baragukerensa (bagira bati) "Ese uyu ni we **Allah** yatumye ngo abe Intumwa?"

وَلَدَّا رَأَوْكَ إِنْ يَتَخَذُونَكَ إِلَّا هُنُّوا أَهْذَا الَّذِي  
بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴿٦﴾

42. "Yari hafi yo kutuyobya ngo adukure ku mana zacu, iyo tutaza kwihangana ngo tuzikomereho!" Ariko igihe bazabona ibihano ni bwo bazamenya uwayobye cyane inzira (y'ukuri)?

إِنْ كَادَ لِيُضْلِنَا عَنِ الْهَدِّيَّةِ لَوْلَا أَنْ  
صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ  
الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَيِّلًا ﴿٤٢﴾

43. Ese (yewe Muhamadi) wabonye uwafashe irari rye akarigira imana ye? Ese ni wowe uzamubera umwishingizi (wo kumugarura ku kwemera)?

أَرَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهًهُ هَوْنَهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ  
عَلَيْهِ وَكَيْلًا ﴿٤٣﴾

44. Cyangwa utekereza ko abenshi muri bo bumva cyangwa basobanukirwa (amagambo ya **Allah**)? Ahubwo bameze nk'amatungo ndetse bo bayobye cyane bata inzira.

أَرْتَحَسِبَ أَنَّ أَكَيْرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ  
إِنْ هُمْ إِلَّا كَاذَّابُونَ بَلْ هُوَ أَضَلُّ سَيِّلًا ﴿٤٤﴾

45. Ese ntubona uko Nyagasani wawe arambura igicucu? N'yo aza kubishaka yari kukigumisha hamwe. Hanyuma izuba twarigize ikimenyetso cyacyo<sup>158</sup>.

أَلَّا تَرَى إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظَّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ  
سَاكِنًا لَمْ يَجْعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿٤٥﴾

<sup>158</sup> Iyo izuba rirashe igicucu cya buri kintu kiba ari kirekire, nuko ku manywa kikagenda kigabanuka. Maze ku gicamunsi kikongera kuba kirekire uko izuba rigenda rirenga. Iyo hataza kubaho izuba n'igicucu nticyari kubaho.

46. Maze tukagenda tukigabanya tukigarura iwacu buhoro buhoro.

ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا بَقَصَّا يَسِيرًا ﴿٤٦﴾

47. Kandi ni We (**Allah**) wabagiriye ijoro kuba nk'umwambaro (ubahishira), ibitotsi abigira ikiruhuko ndetse n'amanywa ayagira igihe cyo gushakisha imibereho.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْيَلَى إِلَيْسَا وَأَنْوَمَ  
سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴿٤٧﴾

48. Ni na We wohereza imiyaga itanga icyizere, ibanziriza impuhwe ze (imvura); kandi tumanura mu kirere amazi asukuye.

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشِّرًا بَيْنَ يَدَيْهِ  
رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلَنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾

49. Kugira ngo dusubize ubuzima ubutaka bwapfuye (bwakakaye), kandi tunayanywesha byinshi mu byo twaremye; (yaba) amatungo ndetse n'abantu.

لَنُنْجِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَسُقِيقَةً وَمِمَّا خَلَقْنَا  
أَعْنَمَا وَأَنَابِيَّ كَثِيرًا ﴿٤٩﴾

50. Kandi rwose (imvura) twarayibasaranganyije kugira ngo batekereze (inema za **Allah**), ariko abenshi mu bantu baranze bahitamo guhakana.

وَلَقَدْ صَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكُرُوا فَإِنَّ أَكْثَرَ  
النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٥٠﴾

51. N'yo dushaka twari kohereza umuburizi muri buri mudugudu.

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعْثَنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ﴿٥١﴾

52. Bityo ntuzumvire abahakanyi, ahubwo ujye uhangana na bo (ubigisha) uyifashishije (Qur'an).

فَلَا تُطِعُ الْكُفَّارِينَ وَجَهَدُهُمْ بِهِ جَهَادًا  
كَثِيرًا ﴿٥٢﴾

53. Kandi (**Allah**) ni We wahuje inyanja ebyiri; ifite amazi y'urubogobogo amara inyota, naho indi ikaba urwunyunu rukaze. Maze ashyla urubibi hagati yazo rutuma zitivanga.

54. Ndetse ni na We waremye umuntu amukomoye mu mazi (intanga), anamushyiriraho uburyo azajya agira amasano binyuze mu maraso ndetse no gushyingiranwa. Kandi Nyagasani wawe ni Ushobora byose.

55. (Abahakanyi) basenga ibitari **Allah** bitagira icyo bibamarira cyangwa ngo bigire icyo bibatwara. Kandi umuhakanyi afatanya (na Shitani) kwigomeka kuri Nyagasani we.

56. Kandi nta kindi twakohererere usibye kuba utanga inkuru nziza (yo kuzagororerwa ijuru ku bazumvira **Allah**) ndetse n'umuburizi (ku bazigomeka).

57. Vuga (yewe Muhamadi) uti "Ntabwo (kubagezaho ubutumwa) mbibasabira igihembo, ariko uzashaka gukurikira inzira imuganisha kwa Nyagasani we (yemerewe kugira icyo atanga mu nzira ya **Allah** ku bushake bwe)."

\* وَهُوَ الَّذِي مَرَحَ الْبَحْرَيْنَ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ  
وَهَذَا مَلْحٌ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا  
وَحِجَرًا مَحْجُورًا ﴿٥٣﴾

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ وَسَبَّا  
وَصَهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَيِّرًا ﴿٥٤﴾

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ  
وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَاهِرًا ﴿٥٥﴾

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٥٦﴾

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ  
يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سِيلًا ﴿٥٧﴾

58. Ujye uniringira Uhoro (Nyirubuzima bwuzuye), Udapfa, unamusingize umushima. Kandi arahagije kuba azi byimazeyo ibyaha by'abagaragu be.

59. We waremye ibirere n'isi ndetse n'ibiri hagati yabyo mu minsi itandatu, hanyuma Nyirimpuhwe (**Allah**) aganza hejuru ya Ar'shi<sup>159</sup>. Bityo (yewe Muhamadi) mubaze ibijyanye na We (akwibwire kuko) ariyizi neza.

60. N'yo (abahakanyi) babwiwe bat "Nimwubamire Nyirimpuhwe!" Baravuga bat "Nyirimpuhwe nde? Ese tugomba kubamira uwo (wowe Muhamadi) udutegetse?" Nuko ibyo bikabongerera guhunga (ukuri).

61. Ubutagatifu ni ubw'uwashyize inyenyeri nini mu kirere, akanashyiramo itara ryaka (izuba) ndetse n'ukwezi kumurika.

62. Ni na We washyizeho ugusimburana kw'ijoro n'amanywa (kugira ngo bibere isomo) wa wundi ushaka kwibuka cyangwa gushimira.

وَتَوَكَّلْ عَلَيَ الْحَيِ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيَّحْ  
بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَيْرًا

٥٨

الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي  
سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَيْ الْعَرْشِ<sup>۱۵۹</sup> الرَّحْمَنُ فَسَعَ  
بِهِ خَيْرًا

٥٩

وَلَذَا قِيلَ لَهُمْ أَسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا  
الرَّحْمَنُ أَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ  
فِيهَا سَرَجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الْيَلَ وَالنَّهَارَ حَلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ  
أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا

<sup>159</sup> Reba uko twasobanuye iri jambo muri Surat al A'raf: 54.

63. Kandi abagaragu ba (**Allah**) Nyirimpuhwe ni ba bandi bagenda ku isi biyoroheje. N'iyo injiji zibavugishije (amagambo mabi) baravuga bati “Amahoro!”

64. Ni na bo barara amajoro bubama, ndetse banahagaze (basingiza) Nyagasani wabo.

65. Ni na bo bavuga bati “Nyagasani wacu! Dukize ibihano by'umuriro wa Jahanamu, kubera ko mu by'ukuri ibihano byawo bizahoraho.”

66. Mu by'ukuri (umuriro) ni ho hantu habi ho kuba no gutura.

67. Ni na bo batanga (mu byo batunze) badasesagura, cyangwa ngo bagundire. Ahubwo bajya hagati y'ibyo byombi.

68. Ni na bo batabangikanya **Allah** n'izindi mana, ntibice icyo **Allah** yaziririje bitanyuze mu kuri, kandi ntibanasambane. Kandi ukora ibyo azahura n'ibihano (bibabaza).

69. Azongererwa ibihano ku munsi w'imperuka, kandi azabibamo ubuziraherezo asuzuguritse.

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْسُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُوَنَا وَإِذَا  
خَاطَبُهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿٦٣﴾

وَالَّذِينَ يَبْتُرُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقَيْمَامًا

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ  
إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٤﴾

إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَاماً

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا  
وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ فَوَاماً ﴿٦٥﴾

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَيْهَا إِلَّا خَرَ وَلَا  
يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا  
يَزِنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً ﴿٦٦﴾

يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْلُدُ  
فِيهِ مُهَاجِنًا ﴿٦٧﴾

70. Usibye uzuicuza akanemera (**Allah**) ndetse akanakora ibikorwa byiza; abo ibikorwa byabo bibi **Allah** azabihinduramo ibyiza. Kandi **Allah** ni Ubabarira ibyaha, Nyirimpuhwe.

71. Kandi uwicujije akanakora ibyiza, mu by'ukuri aba yicujije kuri **Allah** ukwicuza nyako.

72. (Abagaragu ba Nyirimpuhwe kandi) ni na bo batajya baba abahamya b'ibinyoma, kandi iyo banyuze ku bidafite akamaro, babinyuraho biyubashye.

73. Ni na bo kandi igihe bibukijwe amagambo ya Nyagasani wabo, batifata nk'abatumva cyangwa nk'abatabona.

74. Ni na bo kandi bavuga bati "Nyagasani wacu! Duhe kunezezwa n'abagore bacu ndetse n'urubyaro rwacu, kandi utugire kuba abayobozи b'abagandukiramana."

75. Abo ni bo bazahembwa imyanya yo hejuru (mu ijuru) kubera ukwihangana kwabo. Bazakirizwamo indamutso n'amagambo by'amahoro,

إِلَّا مَنْ تَابَ وَأَمْنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَلِحًا  
فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَتِ  
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ  
مَتَابَةً

وَالَّذِينَ لَا يَشَهِدُونَ الزُّورَ وَلَا مَرْوِأً بِالْغُوِّ  
مَرْوِأ كَرَامًا

وَالَّذِينَ إِذَا دُكَرُوا بِعَيْنَتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا  
عَلَيْهَا صُنَّا وَعُمَيَّانًا

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا  
وَذُرِّيَّتَنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِمُمْتَقِينَ  
إِمَامًا

أُولَئِكَ يُبَحِّرُونَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَرَّبُوا وَلِفَوْرَتِ  
فِيهَا نَحِيَّةٌ وَسَلَمًا

76. Bazabamo ubuziraherezo. Ni ho hantu heza ho kuba no gutura.

خَلِيلِنَّ فِيهَا حَسْنَتٌ مُّسْتَقْرَأً  
وَمُقَامًا

77. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Iyo bitaza kuba ugusaba kwanyu, Nyagasan iwanjye ntiyari kubitaho ariko (mwebwe abahakanyi) mwahinyuye (Intumwa ye). Bityo ibihano byanyu bizahoraho.”

قُلْ مَا يَعْبُدُونَ بِكُمْ دِيْنُ لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ  
كَذَّبُتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِرَأْمًا

**26 - SURAT ASHU-ARA-U**  
(ABASIZI)  
*Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirongo 227*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Twaa Siin Miim<sup>160</sup>.

طَسَمٌ

2. Iyi ni imirongo y'igitabo gisobanutse (Qur'an).

تَلَكَّ أَيَّتُ الْكِتَابُ الْمُبِينُ

3. Hari ubwo (yewe Muhamadi) wazicwa n'agahinda kubera ko batemeye (ubutumwa bwawe).

لَعَلَّكَ بِخَيْرٍ فَقَسَكَ الَّذِي كُونُوا مُؤْمِنِينَ

4. Tubishatse twabamanurira igitangaza giturutse mu kirere, maze amajosi yabo agahora acyicishijeho bugufi (baba

لَهَا خَضِيعَيْنَ

<sup>160</sup> Twaa Siin Miim: Inyuguti nk'izi twazivuzeho mu masura yatambutse.

babishaka cyangwa  
 batabishaka, ariko nta we  
 dushaka guhatira kwemera).

5. Kandi nta rwibutso rushya  
 ruturutse kuri (**Allah**)  
 Nyirimpuhwe rubageraho ngo  
 babure kurwirengagiza.

6. Rwose barahakanye; bityo  
 inkuru z'ibyo bakerensaga  
 zizabageraho (bidatinze).

7. Ese ntibitegereza uko isi  
 twayimejejeho buri bwoko bwiza  
 (bw'ibimera)?

8. Mu by'ukuri muri ibyo harimo  
 ikimenyetso (kigaragaza  
 ubushobozi bwa **Allah**), ariko  
 abensi muri bo ntibemera.

9. Kandi mu by'ukuri Nyagasani  
 wawe ni We Munyacyubahiro  
 bihebuje, Nyirimpuhwe.

10. (Unibuke) ubwo Nyagasani  
 wawe yahamagaraga  
 Musa (akamubwira ati) “Jya ku  
 bantu b'inkozi z'ibibi”,

11. Abantu ba Farawo,  
 (ubabwire uti) “Ese ntibakwiye  
 gutinya (ibihano bya **Allah**,  
 bakareka ibibi barimo)?”

12. (Musa) aravuga ati  
 “Nyagasani! Mu by'ukuri  
 ndatinya ko bazampinyura,

وَمَا يَأْتِيهِم مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٌ إِلَّا كَفُوًا عَنْهُ

مُعْرِضِينَ ﴿٥﴾

فَقَدْ كَذَّبُوا فَسِيَّاطِهِمْ أَبْيَأُوا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ

﴿٦﴾

أَلَوْ يَرْفَأُ إِلَى الْأَرْضِ كَمَا نَبَتَنَا فِيهَا إِنْ كُلُّ زَوْجٍ كَيْفَ يُعِدُّ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٧﴾

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ أَعْزَزُ الرَّحِيمُ ﴿٨﴾

وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٩﴾

قَوْمَ فَرَّعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ ﴿١٠﴾

قَالَ رَبِّي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿١١﴾

13. Maze igituza cyanjye kigafungana (kubera intimba n'agahinda), kandi ururimi rwanjye ntirubanguka (mu gusobanura amagambo). Bityo nyohererereza Haruna (aze amfashe).

14. “Kandi (abantu ba Farawo) hari icyaha banshinja, nkaba ntinya ko bazanyica.”

15. (Allah) aravuga ati “Si ko bimeze (ntibazakwica)! Ngaho mwembi nimujye ibitangaza byacu (kwa Farawo). Mu by'ukuri tuzaba turi kumwe namwe twumva (ibizavugwa byose).”

16. Mwembi nimujye kwa Farawo mumubwire muti “Mu by'ukuri twe turi Intumwa za Nyagasani w'ibiremwa byose.”

17. (Adutumye) ngo “Rekura bene Isiraheli tubajyane.”

18. (Farawo) aravuga ati “Ese ntitwakureze kuva ukiri umwana, ukabana natwe imyaka (myinshi) y'ubuzima bwawe?”

19. Maze ugakora igikorwa wakoze (cyo kwica umuntu), uri mu ndashima (ineza twakugiriye)!”

وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسَلْتُ إِلَيْكَ هَرُونَ ﴿١٣﴾

وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبٍ فَآخَافُ أَنَّ يَقْتُلُونِ ﴿١٤﴾

قَالَ كَلَّا فَأَذْهَبَا إِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَعِنُونَ ﴿١٥﴾

فَأَتَيْتَاهُمْ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾

أَنَّ أَرْسَلْتُ مَعَنَابِي إِلَيْسَرَإِيلَ ﴿١٧﴾

قَالَ أَمَّرْ نُرِبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلِبَثَتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِينِينَ ﴿١٨﴾

وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ أَلَّا تَرَكَ فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾

20. (Musa) aravuga ati “Nagikoze ubwo nari mu bayoby”,

قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَنَأْمَنْتُ مِنَ الضَّالِّينَ ﴿٢٠﴾

21. “Nuko ndabahunga kubera kubatinya. Ariko Nyagasanwanjye yampaye ubumenyi (bwo kumusobanukirwa ndetse n’ubuhanuzi), anangira umwe mu ntumwa (ze).

فَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خَفَتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا  
وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢١﴾

22. Ese ibyo (kundera) ni yo neza uncyurira kandi waragize bene Isiraheli abacakara?”

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تُمُّهَا عَلَى أَنْ عَبَدَتْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٢٢﴾

23. Farawo aravuga ati “Ese Nyagasanani w’ibiremwa byose ni nde?”

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ الْعَالَمِينَ ﴿٢٣﴾

24. (Musa) aravuga ati “Ni Nyagasanani w’ibirere n’isi ndetse n’ibiri hagati yabyo, niba mudashidikanya (ko ari We wabiremye ngaho nimumwemere).”

قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ  
مُّؤْقِنِينَ ﴿٢٤﴾

25. (Farawo) abwira abamukikije ati “Aho ntimumyumbira (ibyo ari kuvuga)?”

قَالَ لِمَنْ حَوَلَهُ وَلَا تَسْتَعِمُونَ ﴿٢٥﴾

26. (Musa) aravuga ati “(Uwo) ni Nyagasanani wanyu akaba na Nyagasanani w’abakurambere banyu!”

قَالَ رَبِّكُمْ وَرَبُّ إِبْرَاهِيمَ كُمْ أَلَّا يَأْلَمَنَّ ﴿٢٦﴾

27. (Farawo) aravuga ati “Mu by’ukuri, iyi ntumwa yanyu yabatumweho ni umusazi!”

قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسَلَ إِلَيْكُمْ لَمَجِنُونٌ ﴿٢٧﴾

28. (Musa) aravuga ati “(Uwo) ni Nyagasani w’Uburasirazuba n’Uburengerezuba n’ibiri hagati yabyo, (ibyo ni ibyatuma mumwemera) niba mufite ubwenge.”

29. (Farawo) aravuga ati “Nuramuka ugize indi mana (wemera) itari njye, rwose ndakugira umwe mu mbohe.”

30. (Musa) aravuga ati “Ese (wamfunga) n’yo naba nkuzaniye ikintu kigaragara (cyerekana ukuri kwanjye)?”

31. (Farawo) aravuga ati “Ngaho kizane niba koko uri mu banyakuri.”

32. Nuko (Musa) anaga inkoni ye hasi, maze ihinduka inzoka igaragara.

33. Anavana ukuboko kwe (mu kwaha), kuza kwererana kugaragarira abareba.

34. (Farawo) abwira ibyegera bye ati “Mu by’ukuri uyu ni umurozi w’umuhangha;

35. Arashaka kubakura mu gihugu cyanyu akoresheje uburozi bwe. Murabivugaho iki?”

قَالَ رَبُّ الْمَسَرِّقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُثُّرَ  
تَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾

قَالَ لِئِنْ أَخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ  
الْمَسْجُونِينَ ﴿٢٩﴾

قَالَ أَوْلَوْ جِئْنُوكَ شَيْءٌ مُّبِينٌ ﴿٣٠﴾

قَالَ فَأَتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٣١﴾

فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثَعَانٌ مُّبِينٌ ﴿٣٢﴾

وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بِضَاءٍ لِلنَّاظِرِينَ ﴿٣٣﴾

قَالَ لِلْمَالِحَوَلَهُ وَإِنَّ هَذَا السَّاحِرُ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾

يُرِيدُ أَنْ يُحْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسَاحِرٍ فَمَاذَا  
تَأْمُرُونَ ﴿٣٥﴾

36. Baravuga bati “Ba umwihereye (we) n’umuvandimwe we, maze wohereze abakoranya abantu mu mijyi;

37. Bakuzanire buri murozi wese w’umuhanga.”

38. Nuko abarozi barakoranywa (bahabwa) igihe n’umunsi byagenwe<sup>161</sup> (byo guhura na Musa).

39. Maze abantu barabwirwa bati “Ese muraza mu iteraniro?”

40. “Hari ubwo twakurikira abarozi (bo ku ruhande rwa Farawo) baramutse ari bo batsinze.

41. Nuko abarozi baje, babwira Farawo bati “Ese hari igihembo tubona nituramuka dutsinze?”

42. (Farawo) aravuga ati “Yego! Kandi mu by’ukuri muraba mu byegera (byanjye).”

43. Musa arababwira ati “Nimunage ibyo mushaka kunaga (bigaragaza ukuri kwanyu)!”

44. Nuko banaga imigozi yabo n’inkoni zabo (bihinduka inzoka nto), baravuga bati “Ku

قَالُوا أَرْجِه وَأَخَاهُ وَبَعَثَ فِي الْمَدَائِنِ حَسِيرَاتٍ ﴿٣﴾

يَا نُوكَ بِكُلِ سَحَارٍ عَلِيمٍ ﴿٣٧﴾

فَجَمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴿٣٨﴾

وَقَيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ﴿٣٩﴾

لَعَنَّا نَتَّيَعُ السَّحَرَةُ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿٤٠﴾

فَلَمَّا جَاءَهُ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفَرْعَوْنَ إِنَّا لَأَخْرَى إِنْ كُنَّا  
نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿٤١﴾

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمْنَ الْمُقْرَبِينَ ﴿٤٢﴾

قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَقْوِمْ مَا أَنْشَمْ مُلْقُونَ ﴿٤٣﴾

فَأَقْرَأَ جَاهَلَهُمْ وَعَصَيَهُمْ وَقَالُوا يُعِزَّةُ فَرَعَوْنَ إِنَّا  
نَحْنُ الْغَالِبُونَ ﴿٤٤﴾

<sup>161</sup> Igihe bahawe cyari igihe cy’agassusuruko, ku munsi mukuru babaga baruhutseho bagateranira hamwe.

bw'icyubahiro cya Farawo,  
rwose ni twe dutsinda."

45. Maze Musa anaga inkoni ye  
(ihinduka inzoka nini), itangira  
kumiragura ibyo (abarozi) bari  
bamaze guhimba.

46. Nuko abarozi bitura hasi  
bubamye,

47. Bavuga bati "Twemeye  
Nyagasani w'ibiremwa byose,"

48. "Nyagasani wa Musa na  
Haruna."

49. (Farawo) aravuga ati  
"Mumwemeye mbere y'uko  
mbibahera uburenganzira. Mu  
by'ukuri (Musa) ni umukuru  
wanyu wabigishije uburozi.  
Rwose muraza kumenya (icyo  
nza kubakorera)! Rwose ndaza  
kubaca amaboko n'amaguru  
byanyu imbusane, maze  
mbabambe mwese."

50. Baravuga bati "Nta cyo  
bitwaye! Mu by'ukuri tuzasubira  
kwa Nyagasani wacu."

51. Mu by'ukuri twiringiye ko  
(Nyagasani) azatubarira  
ibyaha byacu kuko tubaye aba  
mbere mu kwemera (ubutumwa  
bwa Musa).

فَالْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلَقَفُ مَا يَأْفِيكُونَ

٤٥

فَالْقَىٰ السَّحْرَةُ سَجِدِينَ

قَالُوا إِمَّا تَبَرِّ بِالْعَالَمِينَ

رَبِّ مُوسَىٰ وَهَرُونَ

قَالَ إِنَّمَنْتُمْ لَهُوَ قَبْلَ أَنَّ إِذَنَ لَكُمْ إِلَهٌ وَلَكِيرُكُو  
الَّذِي عَلِمْتُكُمُ الْسِّحْرَ فَلَسْوَقَ تَعْلَمُونَ لَا فَطَعْنَ  
أَيْدِيكُو وَأَجْحُلُكُمْ مِنْ خَلْفِ وَلَا صَبَبَتُكُمْ أَجْعَينَ

قَالُوا لَا ضَيْرٌ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ

إِنَّا نَخَمُّ أَن يَعْفِرَ لَنَا رَبُّنَا حَطَلَنَا أَن كُنَّا أَوْلَ

الْمُؤْمِنِينَ

52. Kandi twahishuriye Musa (tugira tuti) "Jyana abagaragu banje (Abayisiraheli) nijoro! Mu by'ukuri muraza gukurikirwa (na Farawo n'ingabo ze)."

\* وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنَّ أَسْرِي بِعِبَادِي إِنَّكُمْ

٥٣ مُتَّبِعُونَ

53. Maze Farawo (yumvise ko bagiye), yohereza mu mijyi abakoranya (ingabo zo kubakumira).

فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَشِيرِينَ ٥٤

54. (Farawo arababwira ati) "Mu by'ukuri bariya (Bayisiraheli) ni agatsiko k'abantu bake."

إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشَرِذَمَةٌ قَلِيلُونَ ٥٥

55. "Kandi rwose baturakaje (kugenda tutabibahereye uburenganzira)."

وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِبُونَ ٥٦

56. "Ndetse twese turi maso kandi twiteguye (guhangana na bo)."

وَإِنَّ الْجَمِيعَ حَذَرُونَ ٥٧

57. Nuko (Farawo n'abantu be) tubakura (mu gihugu cye kirimo) ubusitani n'imigezi,

فَأَخْرَجَهُمْ مِنْ جَنَّتِهِمْ وَعُيُونِ ٥٨

58. (Tubakura) mu mitungo ndetse no mu nyubako ziubahshe,

وَكُنُزٍ وَمَقَامٍ كَيْمٍ ٥٩

59. Uko (kubasohora mu byabo) ni ko twabizunguje bene Isiraheli.

كَذَلِكَ وَأَرْسَلْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ٦٠

60. Maze (Farawo n'ingabo ze) barabakurikira mu gitondo izuba rirashe (kugira ngo babice).

فَأَتَبْعَهُمْ مُشْرِقِينَ ٦١

61. Nuko ubwo amatsinda yombi yarebanaga, abantu ba Musa baravuga bati “Mu by'ukuri batugezeho!”

62. (Musa) aravuga ati “Si ko bimeze! Mu by'ukuri ndi kumwe na Nyagasanani wanjye, aranyobora.”

63. Nuko duhishurira Musa (tugira tuti) “Kubita inkoni yawe mu nyanja! (Akubise, inyanja) icikamo ibice (bibiri), buri gice kimera nk'umusozi munini cyane.”

64. Maze abandi (Farawo n'ingabo ze) tubegereza hafi (na bo bakurikira iyo nzira).

65. Nuko turokora Musa n'abari kumwe na we bose.

66. Hanyuma abandi (Farawo n'ingabo ze) turabaroha.

67. Mu by'ukuri muri ibyo harimo ikimenyetso (kigaragaza ubushobozi bwa Allah), nyamara abenshi muri bo ntibemera.

68. Kandi mu by'ukuri Nyagasanani wawe ni Umunyacyubahiro bihebuje, Nyirimpuhwe.

فَلَمَّا تَرَءَ أَجْمَعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا  
لَمُدْرَكُونَ ﴿٦١﴾

قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَّهَدِينَ ﴿٦٢﴾

فَأَوْحَيْنَا إِلَيْ مُوسَىٰ أَنَّ أَصْرِبْ بِعَصَابَ الْبَحْرِ  
فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فُرْقَ كَالْطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿٦٣﴾

وَأَزْفَنَاهُ لِلْآخَرِينَ ﴿٦٤﴾

وَأَبْنَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ﴿٦٥﴾

ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ﴿٦٦﴾

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِيَّةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ  
مُؤْمِنِينَ ﴿٦٧﴾

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٦٨﴾

69. (Yewe Muhamadi) unabasomere inkuru ya Ibrahimu.

وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأً إِبْرَاهِيمَ ﴿٦﴾

70. Ubwo yabwiraga se n'abantu be ati “Ese ibi ni ibiki musenga?”

إِذْ قَالَ لِأَيْهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٦﴾

71. Baravuga bati “Tugaragira ibishusho kandi tuzahora tubisenga.”

قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَأَنْظَلُ لَهَا عَاصِفَاتٍ ﴿٧﴾

72. (Ibrahimu) aravuga ati “Ese iyo mubisabye birabumva?”

قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿٧﴾

73. “Cyangwa hari icyo bibamarira cyangwa ngo bigire icyo bibatwara?”

أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿٨﴾

74. Baravuga bati “(Oya)! Ahubwo twasanze abakurambere bacu babikora batyo.”

قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا إِلَيْهَا كَذَّالِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٩﴾

75. (Ibrahimu) aravuga ati “Ese ntimatekereza ku byo musenga?”

قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿١٠﴾

76. “Mwebwe n'abakurambere banyu bo hambere?”

أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ﴿١١﴾

77. “Mu by'ukuri ibyo (musenga) ni abanzi banjye (sinshobora kubisenga), ahubwo (nsenga) Nyagasani w'ibiremwa byose.”

فَإِنَّهُمْ عَدُوُّنِي إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢﴾

78. “We wandemye akaba ari na We unyobora.”

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِنِي ﴿١٣﴾

79. “Ni na We umpsa icyo kurya n'icyo kunywa.”

وَالَّذِي هُوَ يُطِعِّمُنِي وَيَسِّرِينِي ﴿١٤﴾

80. "N'iyo ndwaye ni We unkiza."

وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ﴿٨٦﴾

81. "Ni na We uzanyambura ubuzima, hanyuma akazabunsubiza (igihe cy'izuka).

وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِيْنِ ﴿٨٧﴾

82. Kandi ni We niringiye ko azambabarira ibyaha byanje ku munsi w'imperuka.

وَالَّذِي أَطْمَعَ أَنْ يَغْفِرَ لِي حَطِيقَةً يَوْمَ الْدِينِ ﴿٨٨﴾

83. Nyagasan! Mpa kugira ubumenyi (bwo kugusobanukirwa ndetse n'ubuhanuzi), kandi uzampuze n'abagaragu bawe b'intungane.

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿٨٩﴾

84. Kandi umpe kuzavugwa neza mu bazaza nyuma.

وَأَجْعَلْ لِي لِسانَ صَدِيقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿٩٠﴾

85. Unanshyire mu bazzungura Ijuru ryuje inema.

وَأَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ﴿٩١﴾

86. Unababarire data kuko mu by'ukuri ari mu bayobye.

وَأَعْفُرُ لِأَنِّي إِلَهٌ كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٩٢﴾

87. Kandi ntuzankoze isoni ku munsi (ibiremwa byose) bizazurwa.

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبَعَّثُونَ ﴿٩٣﴾

88. Umunsi imitungo n'urubyaro bitazagira icyo bimarira (nyirabyo).

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٩٤﴾

89. Usibye gusa uzagera kwa Allah afite umutima usukuye (uzira ibangikanyamana).

إِلَّا مَنْ أَنْتَ أَنْتَ اللَّهُ يَقْلِبُ سَلِيمٍ ﴿٩٥﴾

90. Kandi ijuru rizegerezwa abagandukira Allah.

وَارْلَفْتَ الْجَنَّةَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٩٦﴾

91. N'umuriro uzagaragarizwa abayobye (ba nyamujya iyo bijya).

وَبِرَزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغَاوِيْنَ ﴿٩١﴾

92. Nuko babwirwe bati “Ibyo mwajyaga musenga biri he?

وَقَلَّ لَهُمْ أَنَّ مَا كَنُواْ تَبَدُّوْنَ ﴿٩٢﴾

93. “Bitari **Allah**? Ese bishobora kubatabara cyangwa ngo byitabare ubwabyo?”

مِنْ دُوْنِ اللَّهِ هُلْ يَصْرُونَ كُلُّ أَوْيَاتَصْرُونَ ﴿٩٣﴾

94. Maze bo ndetse n'abayobye bajugunywemo (mu muriro) bacuramye.

فَكُلُّ كُبُوْنِهَا هُمْ وَالْعَاوُونَ ﴿٩٤﴾

95. Ndetse n'ingabo za Ibilisi (Shitani) zose.

وَجَهُوْدُ اِلِيْسَ آجَمُوْنَ ﴿٩٥﴾

96. Nibawugeramo (abayobye n'bababayobeje) bazavuga batongana bati,

قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٩٦﴾

97. “Ku izina rya **Allah**! Rwose twari mu buyobe bugaragara (ubwo twabasengaga).”

تَأَلَّهُ إِنْ كُنَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِيْنٌ ﴿٩٧﴾

98. Ubwo twabareshyeshyaga na Nyagasani w'ibiremwa byose.

إِذْ سُوِيْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴿٩٨﴾

99. Kandi nta bandi batuyobeje batari inkozi z'ibibi.

وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا مُجْرِمُوْنَ ﴿٩٩﴾

100. None nta bavugizi dufite (batuvuganira tukava mu bihano).

فَمَا أَنَا مِنْ شَفِيعَيْنَ ﴿١٠٠﴾

101. Nta n'inshuti magara dufite (yatugirira impuhwe).

وَلَا صَدِيقٌ حَمِيْرٌ ﴿١٠١﴾

102. Iyaba twagiraga (amahirwe yo) gusubira ku isi maze ngo tube mu bemeramana.

فَلَوْ أَنَّا كَرَّهَ فَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥٠﴾

103. Mu by'ukuri muri ibyo harimo ikimenyetso (kigaragaza ubushobozi bwa **Allah**), ariko abenshi muri bo ntibemera.

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِيْهَ وَمَا كَانَ أَكَّبَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٦﴾

104. Kandi mu by'ukuri Nyagasani wawe ni We Munyacyubahiro bihebuje, Nyirimpuhwe.

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٤٤﴾

105. Abantu ba Nuhu bahakanye Intumwa.

كَذَّبُتْ قَوْمٌ بِوْحَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٥٥﴾

106. Ubwo umuvandimwe wabo Nuhu yababwiraga ati “Ese ntimugandukira **Allah**?”

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخْوَهُمْ بُوْحُ الْأَتَّقُونَ ﴿١٦٦﴾

107. “Mu by'ukuri njye ndi Intumwa yanyu yizewe.”

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٦٧﴾

108. “Bityo nimugandukire **Allah** kandi munyumvire.”

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٦٨﴾

109. “Kandi ntabwo (kubagezaho ubutumwa) mbibasabira igihembo, kuko ibihembo byanje biri kwa Nyagasani w'ibiremwa byose.”

وَمَا أَسْلَكْمُ عَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٩﴾

110. “Bityo nimugandukire **Allah** kandi munyumvire.”

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٧٠﴾

111. Baravuga bati “Ese twakwemera dute kandi warayobotswe n'abantu basuzuguritse?”

\*قَالُوا أَنَّوْمَنُ لَكَ وَأَتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ﴿١٧١﴾

112. (Nuhu) aravuga ati “Ntabwo nshinzwe kumenya ibyo bakora (icyo nshinzwe ni ukubagezaho ubutumwa gusa)”

113. Ibarura ryabo rireba Nyagasan iwanjye, iyaba mwari mubizi!

114. Kandi njye sinshobora kwirukana abemeramana.

115. Nta kindi ndi cyo, usibye kuba ndi umuburizi ugaragara.

116. Baravuga bati “Yewe Nuhu! Nuramuka utarekeye aho (ibyo wigisha), rwose uzaba mu bazaterwa amabuye (kugeza upfuye).”

117. (Nuhu) aravuga ati “Nyagasan! Mu by’ukuri abantu banjye barampakanye”,

118. “Bityo ca iteka ridasubirwaho hagati yanjye na bo (ririmbura abahakanye), kandi undokorane n’abemeramana turi kumwe.”

119. Nuko tumurokorana n’abari kumwe na we mu nkuge yuzuye (ibiremwa bitandukanye yashyizemo).

120. Maze nyuma tworeka abasigaye (abahakanye).

قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٦﴾

إِنْ حَسَابُهُمُ الْأَعْلَى رَبِّ الْوَشْعَرُونَ ﴿١١٧﴾

وَمَا أَنَا بِطَارِدٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾

إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١١٩﴾

قَالُوا إِنَّمَا لَمْ تَتَنَاهِ يَكُنُوا لَّكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴿١٢٠﴾

١٢٠

قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونَ ﴿١٢١﴾

فَأَفْتَحْ بَيْنِ وَبَيْنَهُمْ فَجَّا وَبَيْنَهُمْ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٢﴾

فَأَنْجَنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلُكِ الْمَسْحُونِ ﴿١٢٣﴾

١٢٣

ثُمَّ أَغْرَقَنَا بَعْدَ الْبَاقِينَ ﴿١٢٤﴾

121. Mu by'ukuri muri ibyo harimo ikimenyetso (kigaragaza ubushobozi bwa **Allah**), nyamara abenshi muri bo ntibemera.

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِيَّةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ

١٦١

122. Kandi mu by'ukuri Nyagasani wawe ni We Munyacyubahiro bihebuje, Nyirimpuhwe.

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

١٦٢

123. Aba Adi (na bo) bahinyuye Intumwa.

كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ

١٦٣

124. Ubwo umuvandimwe wabo Hudu yababwiraga ati “Ese ntimwatinya (**Allah**)?”

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخْوَهُمْ هُودٌ لَا تَتَّقُونَ

١٦٤

125. “Mu by'ukuri njye ndi Intumwa yanyu yizewe.”

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ

١٦٥

126 . “Bityo nimugandukire **Allah** kandi munyumvire.”

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِي

١٦٦

127. “Kandi ntabwo (kubagezaho ubutumwa) mbibasabira igihembo, kuko ibihembo byanje biri kwa Nyagasani w'ibiremwa byose.”

وَمَا أَسْعَلْتُكُمْ عَيْنَهُ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرَى إِلَّا عَلَى رَبِّ

١٦٧

الْعَالَمِينَ

128. Ese mwubaka (amazu maremare) ahirengeye hose mugamije kunnyega no gusuzugura (abagenzi bayanyuraho)?

أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيحٍ إِيَّاهُ تَعْبُثُونَ

١٦٨

129. Mukanubaka ingoro z'imitamenwa nk'aho muzazibamo ubuziraherezo?

وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَحْلُدُونَ

١٦٩

130. N'yo mugabye igitero (ku wo ari we wese), mukigaba nta mpuhwe.

وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطْشَتُمْ جَبَارِينَ ﴿١٣٠﴾

131. “Bityo nimugandukire Allah kandi munyumvire.”

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوهُنَّ ﴿١٣١﴾

132. Kandi mugandukire uwabahayeinema (zose) muzi.

وَأَتَقْوُا الَّذِي أَمَدَكُمْ بِمَا نَعَلَمُونَ ﴿١٣٢﴾

133. Yabahaye amatungo n'urubyaro,

أَمَدَكُمْ بِأَغْلَمِ وَبَنِينَ ﴿١٣٣﴾

134. (Anabaha) imirima n'imigezi.

وَجَنَّتِ وَعِيُونَ ﴿١٣٤﴾

135. (Hudu aravuga ati) “Mu by'ukuri ndatinya ko (nimukomeza guhakana) mwazahanishwa ibihano byo ku munsi uhambaye.”

إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣٥﴾

136. Baravuga bati “Watwigisha utatwigisha byose ni kimwe kuri twe (ntidushobora kukwemera).”

قَالُواْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوْ عَزَّتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنْ

الْوَعَظِيْنَ ﴿١٣٦﴾

137. Ibi (twemera) si ibindi, usibye ko ari imigenzo n'imyemerere (gakondo) y'abo hambere.

إِنْ هَذَا إِلَّا لَحْقُ الْأَوَّلَيْنَ ﴿١٣٧﴾

138. Kandi ntitzahanwa (nk'uko ubivuga).

وَمَا لَنَّ يُعَذَّبُونَ ﴿١٣٨﴾

139. Nuko baramuhinyura, maze turabarimbura. Mu by'ukuri muri ibyo harimo ikimenyetso (kigaragaza ubushobozi bwa Allah), ariko abenshi muri bo ntibemera.

فَكَذَّبُوهُ فَلَهُمْ كَذَّابُونَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ

أَكَثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

140. Kandi mu by'ukuri  
Nyagasani wawe ni We  
Munyacyubahiro bihebuje,  
Nyirimbabazi.

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ أَعْزَىٰ رَحِيمٌ ﴿١٦٠﴾

141. Abantu bo mu bwoko bwa  
Thamudu (na bo) bahinyuye  
Intumwa.

كَذَّبَتْ شَمْوَدُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٦١﴾

142. Ubwo umuvandimwe wabo  
Swalehe yababwiraga ati “Ese  
ntimwatinya **Allah**? ”

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخْوَهُمْ صَلَحٌ لَا تَتَقْوُنَ ﴿١٦٢﴾

143. “Mu by'ukuri njye ndi  
Intumwa yanyu yizewe.”

إِنِّي لَكُوْرَسُولُ أَمِينٌ ﴿١٦٣﴾

144. “Bityo nimugandukire  
**Allah** kandi munyumvire.”

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٦٤﴾

145. “Kandi ntabwo  
(kubagezaho ubutumwa)  
mbibasabira igihembo, kuko  
ibihembo byanje biri kwa  
Nyagasani w'ibiremwa byose.”

وَمَا أَسْعَلْتُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرَىٰ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ  
الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾

146. “Ese (mukeka ko)  
muzarekerwa mu byo murimo  
aha (ku isi, ngo mubeho)  
mutekanye (ntabihano nta no  
gupfa)? ”

أَنْتَ كُوْنَ فِي مَا هُنَّا مَاءِ امْنَىٰنَ ﴿١٦٦﴾

147. “Mu mirima (myiza) ndetse  
n'imigezi (itemba),”

فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٦٧﴾

148. “No mu bihingwa  
(bitandukanye) n'imitende ifite  
imigondoro yoroshye?”

وَزُرْوَعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿١٦٨﴾

149. "Kandi muhanga amazu mu misozi mu buryo bwa gihanga."

وَتَنْحَتُونَ مِنَ الْجَبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ ﴿١٤٩﴾

150. "Bityo nimugandukire Allah kandi munyumvire."

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا طَغَوْا ﴿١٥٠﴾

151. "Kandi ntimukumvire amategeko y'inkozi z'ibibi."

وَلَا نُطْبِعُوا أَمْرَ الْمُسَرِّفِينَ ﴿١٥١﴾

152. "Ba bandi bakora ubwononnyi ku isi kandi ntibagire ibyo batunganya."

الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿١٥٢﴾

153. Baravuga bati "Mu by'ukuri wowe (Swalehe) uri umwe mu bantu barozwe!"

قَالُوا إِنَّمَا أَنَّتَ مِنَ الْمَسَحَّرِينَ ﴿١٥٣﴾

154. "Wowe nta kindi uri cyo usibye ko uri umuntu nkatwe. Ngaho zana ikimenyetso (kigaragaza ko uri Intumwa) niba koko uri mu banyakuri!"

مَا أَنَّتِ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأَتَ بِيَأْيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ

الْمَصَدِّقِينَ ﴿١٥٤﴾

155. (Swalehe) aravuga ati "Dore iyi ngamiya y'ishashi, izajya inywa amazi umunsi umwe namwe munywe ku wundi munsi uzwi."

قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شَرُبٌ وَلَكُمْ شَرُبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ ﴿١٥٥﴾

١٥٥

156. "Kandi muramenye ntimuzayigirire nabi mutazavaho mukagerwaho n'ibihano by'umunsi uhambaye."

وَلَا تَمْسُوهَا سُوءٍ فَيَا خُذْكُمْ عَذَابُ يَوْمَ عَظِيمٍ ﴿١٥٦﴾

157. Ariko barayishe maze basigara bicuza

فَعَرَوْهَا فَاصْبَحُوا نَذِيرًا ﴿١٥٧﴾

158. Nuko bagerwaho n'ibihano. Mu by'ukuri muri ibyo harimo ikimenyetso (kigaragaza ubushobozi bwa Allah), ariko abenshi muri bo ntibemera.

فَلَا خَذَّهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذَّةً وَمَا كَانَ  
أَكَثُرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٥٨﴾

159. Kandi mu by'ukuri Nyagasani wawe ni We Munyacyubahiro bihebuje, Nyirimpuhwe.

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٥٩﴾

160. Abantu ba Lutwi (Loti) bahinyuye Intumwa (zaboherejweho).

كَذَّبَ قَوْمٌ لِوَطِ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٦٠﴾

161. Ubwo umuvandimwe wabo Lutwi yababwiraga ati “Ese ntimwatinya (Allah)?”

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَقَوَّنَ ﴿١٦١﴾

162. “Mu by'ukuri njye ndi Intumwa yanyu yizewe.”

إِنِّي لَأَكُمْ رَسُولًا مِنْ أَمْيَنْ ﴿١٦٢﴾

163. “Bityo nimugandukire Allah kandi munyumvire.”

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ ﴿١٦٣﴾

164. “Kandi ntabwo (kubagezaho ubutumwa) mbibasabira igihembo, kuko ibihembo byanje biri kwa Nyagasani w'ibilemwa byose.”

وَمَا أَسْعَلْ كُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى  
رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٤﴾

165. “Kuki muhitamo kuryamana n'abantu b'igitsinagabo (nkamwe),”

أَتَقُونَ الْذِكْرَ كَمَنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾

166. “Maze mukareka abo Nyagasani wanyu yabaremeye ngo bababere abagore? Ahubwo mwe muri abantu barengera (amategeko ya Allah).”

وَتَذَرُّونَ مَا حَكَّ لَكُمْ رَبُّكُمْ مَنْ أَزْوَجَكُمْ بِلَّ  
أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾

167. Baravuga bati “Yewe Lutwi (Loti)! Nutarekera aho (ibyo utubwira), rwose uzaba mu bazirukanwa (mu gihugu cyacu)!”

قَالُوا لِئِنْ لَّهُ تَذَنَّتْ يَلُوتُ لَتَكُونَ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴿١٧٧﴾

168. (Lutwi) aravuga ati “Mu by'ukuri ibyo mukora ndabyanga cyane.”

قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنْ أَقْوَالِنَ ﴿١٧٨﴾

169. (Lutwi) aravuga ati “Nyagasan! Ndokorana n'umuryango wanjye (uturinde) ibyo bakora.”

رَبِّنِحْنِي وَأَهْلِ مِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٧٩﴾

170. Nuko tumurokorana n'umuryango we wose,

فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿١٨٠﴾

171. Usibye umukecuru (umugore we) wasigaye (akaba) mu barimbutse.

إِلَّا عَجَزَ فِي الْغَيْرِينَ ﴿١٨١﴾

172. Hanyuma turimbura abasigaye bose;

لَمْ دَمَرْنَا الْأَخْرَيْنَ ﴿١٨٢﴾

173. Nuko tubanyagiza imvura (y'amabuye); iba imvura mbi ku baburiwe (ntibumve).

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿١٨٣﴾

174. Mu by'ukuri muri ibyo harimo ikimenyetso (kigaragaza ubushobozi bwa **Allah**), ariko abenshi muri bo ntibemera.

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذَّةٌ وَمَا كَانَ الْأَثْرُ هُمُ مُؤْمِنُينَ ﴿١٨٤﴾

175. Kandi mu by'ukuri Nyagasan! wawe ni We Munyacyubahiro bihebuje, Nyirimpuhwé.

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٨٥﴾

176. Abantu bari batuye Ayikati (na bo) bahinyuye Intumwa.

كَذَّبَ أَصْحَابُ لَعْيَكَةَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧٦﴾

177. Ubwo Shuwayibu yababwiraga ati “Ese ntimwatinya Allah?”

إِذْ قَالَ لَهُمْ شَعِيبٌ لَا تَنْتَقِونَ ﴿١٧٧﴾

178. “Mu by’ukuri njye ndi Intumwa yanyu yizewe.”

إِنِّي لَكُوْنُ رَسُولُ إِمَامٍ ﴿١٧٨﴾

179. “Bityo nimugandukire Allah kandi munyumvire.”

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا طَيْعُونَ ﴿١٧٩﴾

180. “Kandi ntabwo (kubagezaho ubutumwa) mbibasabira igihembo, kuko ibihembo byanje biri kwa Nyagasani w’ibiremwa byose.”

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٠﴾

181. “Mujye mwuzuza ibipimo (by’iminzani) kandi ntimugatere (abandi) igihombo.”

\*أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾

182. “Kandi mujye mupimisha iminzani itunganye.”

وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾

183. “Ntimugahuguze abantu mugabanya ku byabo, kandi ntimugakwize ubwangizi ku isi.”

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءٌ هُنَّ وَلَا تَعْثُرُونَ فِي الْأَرْضِ  
مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

184. “Munatinye uwabaremye, mwe n’ababayeho mbere (yanyu).”

وَأَنْقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِيلَةَ الْأَوَّلَيْنَ ﴿١٨٤﴾

185. Baravuga bati “Mu by’ukuri wowe (Shuwayibu) uri umwe mu bantu barozwe!”

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٨٥﴾

186. Wowe nta kindi uri cyo, usibye kuba uri umuntu nkatwe. Kandi tunakeka ko uri umunyabinyoma.

وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنْ نَظُنْتَ لِمَنْ  
أَكَدِّيْنَ ﴿١٨٦﴾

187. (Baravuga bati) “Ngaho tugsheho ikirere ibice bice niba koko uri umwe mu banyakuri!”

فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنْ  
الْصَّادِقِينَ ﴿١٨٧﴾

188. (Shuwayibu) aravuga ati “Nyagasanwanjye ni We uzi neza ibyo mukora.”

قَالَ رَبِّنِيْ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨٨﴾

189. Nuko baramuhinyura, maze bagerwaho n'ibihano by'umunsi w'igicucucucu<sup>162</sup>. Mu by'ukuri byari ibihano by'umunsi uhambaye.

فَكَذَّبُوهُ فَلَخَّذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الْظُّلَّةِ إِنَّهُمْ كَانُوا  
عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٨٩﴾

190. Mu by'ukuri muri ibyo harimo ikimenyetso (kigaragaza ubushobozi bwa **Allah**), ariko abenshi muri bo ntibemera.

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذَّةً وَمَا كَانَ أَكَّهُ شَرُّهُمُؤْمِنِينَ ﴿١٩٠﴾

191. Kandi mu by'ukuri Nyagasanwanjye ni We Munyacyubahiro bihebuje, Nyirimpuhwe.

وَلَاتَّرَبَّكَ لَهُوَ أَعْزَىٰ رَحْمَيْنُ ﴿١٩١﴾

192. Kandi mu by'ukuri iyi (Qur'an) yahishuwe na Nyagasanwanjiremwa (byose),

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾

193. Nuko izanwa (ku isi) na Roho w'umwizerwa [Malayika Jibrilu (Gaburiheli)],

نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾

<sup>162</sup> Umunsi w'igicucucucu uvugwa muri uyu murongo ni igihe abari batuye ahitwa Ayikati bagerwagaho n'ubushyuhe bukabije, nuko babona igicu babuhungiramo bakeka ko ari igicucucucu gisanzwe, bamaze kwirunda munsi yacyo, **Allah** yohereza umuriro urabarimbura.

194. (Ayishyitsa) ku mutima wawe (yewe Muhamadi) kugira ngo ube umwe mu baburira,

عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴿١٩٤﴾

195. (Yayizanye iri) mu rurimi rw'icyarabu gisobanutse.

بِلِسَانٍ عَرَبِيًّا مُّبِينٍ ﴿١٩٥﴾

196. Kandi mu by'ukuri iyo (Qur'an) yavuzwe no mu bitabo byahishuriwe Intumwa zo hambere.

وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٩٦﴾

197. Ese ntibyababera ikimenyetso (kigaragaza ko Qur'an ari ukuri) kuba abamenyi b'Abayisiraheli barayimene (nk'iy'ukuri, ndetse bamwe muri bo bakayoboka Isilamu)?

أَوَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ أَيَّهَا أَنْ يَعْلَمُهُ، عُلَمَؤُبْنَىٰ إِسْرَاعِيلَ ﴿١٩٧﴾

198. N'yo (Qur'an) tuza kuyihishurira umwe mu batari Abarabu,

وَلَوْزَنَّاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿١٩٨﴾

199. Maze akayibasomera, ntibari kuyemera.

فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٩﴾

200. Uko ni ko dushyira mu mitima y'inkozi z'ibibi (guhakana Qur'an).

كَذَلِكَ سَلَكَهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٠٠﴾

201. Ntibazigera bayemera kugeza igihe bazabonera ibihano bibabaza,

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرُوُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٢٠١﴾

202. Bikabageraho bibatunguye, batabizi.

فِيَأَنَّهُمْ بَعْتَهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٠٢﴾

203. Maze bakavuga bati “Ese ntitwahabwa umwanya (kugira ngo twicuze)?”

فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ ﴿٢٣﴾

204. Ubu koko ibihano byacu (ni byo) basaba ko byihutishwa?

أَفِيدَ إِنَّا لَسَعِيْلُونَ ﴿٢٤﴾

205. Urabona (yewe Muhamadi), turamutse tubahaye kubaho igihe kirekire,

أَفَرَبِيتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿٢٥﴾

206. Hanyuma bakagerwaho n’ibyo basezeranyijwe (ibihano),

ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٢٦﴾

207. Ibyo bahawe ngo babyinezezemo ntibyagira icyo bibamarira.

مَا أَعْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَعُونَ ﴿٢٧﴾

208. Kandi nta mudugudu n’umwe twarimbuye utaragize ababurizi

وَمَا آهَلَكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا هَامَنْذِرُونَ ﴿٢٨﴾

209. (Twohereje) ngo bibutse, kandi ntitwigizeze tuba abahemu (ngo tubarimbure tubarenganyije).

ذُكْرٌ وَمَا كُنَّا ظَاهِرِينَ ﴿٢٩﴾

210. Kandi ntabwo amashitani ari yo yayihishuye (Qur'an),

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيْطَانُ ﴿٣٠﴾

211. Nta n’ubwo abikwiye ndetse ntianabishobora!

وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِعُونَ ﴿٣١﴾

212. Mu by’ukuri ayo (mashitani) yakumiriwe kumva (ibivugirwa mu ijuru).

إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿٣٢﴾

213. Bityo (uramenye) ntuzabangikanye Allah n’izindi

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَيْهَا إِلَّا خَرَ فَتَكُونَ مِنَ

الْمُعَذَّبِينَ ﴿٣٣﴾

mana, utazavaho ukaba umwe  
mu bazahanwa.

214. Kandi (yewe Muhamadi)  
ujye uburira abantu ba hafi mu  
muryango wawe.

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿٦٤﴾

215. Unicishe bugufi ku  
bemeramana bakuyobotse.

وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٥﴾

216. Ariko nibaramuka  
bakwigometseho, uzababwire  
uti “Mu by'ukuri njye  
nitandukanyije n'ibyo mukora.”

فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا أَعْمَلُونَ ﴿٦٦﴾

217. Kandi ujye uniringira  
(**Allah**), Umunyacyubahiro  
bihebuje, Nyirimpuhwe.

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٦٧﴾

218. We ukureba igihe ubyutse  
gukora iswala (mu gicuku),

الَّذِي يَرَكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٦٨﴾

219. Ndetse n'ibyo ukora  
(wunama, ununamuka) uri  
kumwe n'abubama.

وَتَقْبَلْكَ فِي السَّاجِدِينَ ﴿٦٩﴾

220. Mu by'ukuri (**Allah**), ni  
Uwumva bihebuje, Umumenyi  
uhebuje.

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٧٠﴾

221. Ese (mwa bantu mwe!)  
mbabwire abo amashitani  
amanukiraho?

هَلْ أُنَيْسُكُ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلَ الشَّيْطَانُ ﴿٧١﴾

222. Amanukira buri  
munyabinyoma,  
w'umunyabyaha,

تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكِ أَثْيَارٍ ﴿٧٢﴾

223. Yumviriza (amagambo  
avugwa n'abamalayika mu ijuru  
akongeramo ibyayo), nyamara

يُلْقَوْنَ السَّمَعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَذَّابُونَ ﴿٧٣﴾

amenshi muri yo ni  
amanyabinyoma.<sup>163</sup>

224. Naho abasizi bakurikirwa  
n'abayobye.<sup>164</sup>

225. Ese ntubona ko (mu busizi  
bwabo) bavuga kuri buri ngingo  
bashimagiza cyangwa basebya?

226. Kandi ko mu by'ukuri  
bavuga ibyo badakora?

227. Usibye gusa ba bandi  
bemeye bakanakora ibikorwa  
byiza, bagasingiza Allah cyane,  
ndetse bakanirwanaho  
(bakoresheje ibisigo mu  
kunyomoza abasizi  
b'abanyabinyoma) nyuma yo  
kurenganywa (batukwa). Naho  
inkozi z'ibibi bidatinze  
zizamenya icyerekezo  
zizerekero.

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْفَاجُونَ ﴿٢٤﴾

أَمْ تَرَاهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٢٥﴾

وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

إِلَّا الَّذِينَ إِمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ  
كَثِيرًا وَأَنْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ  
فَقْرَبُوا إِلَيْهِمْ مُنْقَلِبٌ يَقْلِبُونَ ﴿٢٧﴾

ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَقْلِبُونَ ﴿٢٧﴾

<sup>163</sup> Uyu murongo mutagatifu uvuga ko amashitani atumviriza amagambo avugwa n'abamalayika ntabwo uhabanye n'uwallawanjirije wa 212 uvuga ko amashitani yakumiriwe kumva (ibivugirwa mu ijuru), ahubwo nk'uko imirongo ya Qur'ani yunganirana kugira ngo umuntu ayisobanukirwe, wifashishije isurat ya 37 (A-Swafati), Ayat ya 7 kugera kuri ayat ya 10 hagaragazwa ko ubusanzwe ikitire cyarinzwé buri shitani, bituma adashobora kumviriza ibivugwa n'abamalayika, usibye ko hari ubwo muri yo hari ayashobora kugira icyo yiba mu mabanga y'ibivugirwa mu ijuru, agakurikizwa ibishashi by'umuriro. Ibi bikaba nabyo byaje mu mvugo zitandukanye z'Intumwa y'Imana (Imana iyihe amahoro n'imigisha) ku byerekeranye n'ibi.

<sup>164</sup> Abahakanyi bajyaga bavuga ko Muhamadi ari umusizi, maze Allah arabahinyuza muri uyu murongo wa Qur'ani.

## 27 - SURAT ANAM'LU (INSHISHI)

Yahishuriwe i Maka, igizwe n 'imirongo 93.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Twaa-Siin<sup>165</sup>; iyo ni imirongo ya Qur'an ikaba n'igitabo gisobanutse (kinashyira ibantu ku mugaragaro).

طَسْ تِلْكَءَ آيَتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ﴿١﴾

2. (Iyo mirongo) ni umuyoboro ndetse ikaba n'inkuru nziza ku bemera.

هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

3. Ba bandi bahozaho iswala, bagatanga amaturo, kandi bakemera badashidikanya umunsi w'imperuka.

الَّذِينَ يُقْيِمُونَ الصَّلَاةَ وَيُقْرَأُونَ الْزَّكُوَةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقَنُونَ ﴿٣﴾

4. Mu by'ukuri ba bandi batemera imperuka, twabakundishije ibikorwa byabo (ibibi bakabibonamo ibyiza), bityo bakaba barindagira.

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ رَبَّنَا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَلُونَ ﴿٤﴾

5. Abo ni bo bazabona ibihano bibi (kuri iyi si), kandi ku munsi w'imperuka ni bo bazaba abanyagihombo gikabije.

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ﴿٥﴾

6. Kandi mu by'ukuri, wowe (Muhamadi) wakira Qur'an iturutse kuri Nyirubugenge

وَإِنَّكَ لَتَأْلَمُ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلَيْهِ ﴿٦﴾

<sup>165</sup> Twaa Siin Miim: Inyuguti nk'izi twazivuzeho mu masura yatambutse.

buhambaye (**Allah**), Umumenyi uhebuje.

7. (Wibuke) ubwo Musa yabwiraga umuryango we (igihе yavaga i Mediyani ajya Misiri) ati “Mu by’ukuri njye ndabutswe umuriro; ndaje mbazanire amakuru yawo (yadufasha kumenya inzira) cyangwa mbazanire igishirira cyaka kugira ngo mwote.”

8. Ubwo yawugeragaho, yarahamagawe (arabwirwa) ati “Yuje umugisha uri muri uyu muriro n’abari iruhande rwawo; kandi ubutagatifu ni ubwa **Allah**, Nyagasani w’ibiremwa byose.”

9. Yewe Musa! Mu by’ukuri ni Njye **Allah**, Umunyacyubahiro bihebuje, Nyirubugenge buhambaye.

10. (**Allah** aravuga ati) “Ngaho naga inkoni yawe hasi!” Maze (Musa ayinaze) ayibona yinyagambura nk’inzoka, ahindukira yiruka ntiyagaruka inyuma. (**Allah** aramubwira ati) “Yewe Musa! Witinya! Mu by’ukuri iwanjye Intumwa ntizitinya.”

11. Uretse uwakoze ikibi hanyuma ikibi (yakoze) akagisimbuza icyiza. Mu

إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي أَنْتَ نَارٌ سَعَيْتَكُمْ فِيهَا  
بِخَبَرٍ أَوْ أَتَيْتَكُمْ بِشَهَابٍ قَبْسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ

فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ يُورَكَ مَنْ فِي الْنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا  
وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

يَمُوسَىٰ إِنَّهُ وَأَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

وَأَلِقْ عَصَالَكَ فَلَمَّا رَأَهَا تَهَنَّزَ كَانَهَا جَانٌ وَلَيْ مُدِيرًا  
وَلَمْ يُعِقِّبْ يَمُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَنِي  
الْمُرْسَلُونَ

إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُرَدَلَ حُسْنَا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ

by'ukuri ndi Nyir'ukubabarira,  
Nyirimpuhwe.

12. Unashyire ukuboko kwawe (ikiganza cyawe) mu kwaha, uragukuramo kwererana ntacyo kwabaye. (Iki ni kimwe) mu bitangaza icyenda (wahawe ngo ubyifashishe) kwa Farawo n'abantu be. Mu by'ukuri bo ni abantu b'ibygomeke.

13. Ariko ubwo ibitangaza byacu bisobanutse byabageragaho ku buryo bugaragara, baravuze bati "Ubu ni uburozi bugaragara."

14. Nuko barabihinyura bidakwiye ndetse baranibona, nyamara imitima yabo ibihamya (ko ari ukuri). Ngaho reba uko iherezo ry'abangizi ryagenze!

15. Kandi rwose twahaye ubumenyi Dawudi na Sulaymani (Salomo), maze bombi baravuga bati "Ishimwe n'ikuzo ni ibya Allah, We waturutishije benshi mu bagaragu be b'abemeramana."

16. Kandi Sulaymani yazunguye (ubuhanuzi, ubumenyi n'ubwami bwa) Dawudi, nuko aravuga ati "Yemwe bantu! Twigishijwe (kumva) imvugo z'inyoni kandi duhabwa buri kintu. Mu by'ukuri izi ni ingabire

وَأَدْخَلَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بِضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي  
تِسْعَ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ

١٣

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا أَيَّنَا مُبَصَّرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ  
مُّبِينٌ

١٤

وَجَحَدُوا بِهَا وَأَسْتَيْقَنُوهُمْ أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا  
فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عِلْقَبَةُ الْمُفْسِدِينَ

وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَاؤَدَ وَسَلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ  
الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ

وَرَرِثَ سَلَيْمَانُ دَاؤَدَ وَقَالَ يَا يَاهَا النَّاسُ عِلْمَنَا  
مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ  
الْفَضْلُ الْمُبِينُ

١٥

zigaragara (ziturutse kwa Allah).”

17. Nuko Sulayimani akoranyirizwa ingabo ze zo mu majini no mu bantu ndetse no mu nyoni, maze zishyirwa mu masibo.

18. Kugeza ubwo bageraga mu kibaya cy'inshishi, rumwe mu nshishi rukavuga ruti “Mwa nshishi mwe! Nimwinjire mu buturo bwanyu, Sulayimani n'ingabo ze batabasyonyora batabizi.”

19. Nuko (Sulayimani) aramwenyura asetswa n'iryo jambo ryarwo, maze aravuga ati “Nyagasani wanjye! Nshoboza gushimira inema zawe wampundagajeho, njye n'ababyeyi banjye, unanshoboze gukora ibitunganye wishimira. Kandi unanyinjize mu bagaragu bawe beza ku bw'impuhwe zawe.”

20. Nuko agenzura inyonni maze aravuga ati “Ko ntabona Samusure (Hud Hud)? Cyangwa iri mu zidahari?

21. Mu by'ukuri ndayihanisha igihano gikaze cyangwa nyibage, cyeretse ninzanira impamu zumvikana.”

وَحُشَرَ لِسَلِيمَنَ جُنُودٌ مِّنْ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ

وَالْطَّيْرِ فَهُمْ يُؤْزَعُونَ ﴿١٨﴾

حَقٌّ إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ الْنَّمَلِ قَالَ نَمَلٌ يَأْتِيهَا

النَّمَلُ أَدْخُلُوا مَسَكِنَكُمْ لَا يَحْطِمُكُمْ سُلَيْمَانٌ

وَجُنُودٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٩﴾

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوْرِغَنِيْ أَنَّ

أَشْكُرُ بِعِمَّتِكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَلِدَيَّ وَأَنَّ

أَعْمَلَ صَلِحًا تَرَضِهُ وَأَدْخُلِنِي بِرَحْمَتِكَ فِي

عِبَادِكَ الصَّلِحِينَ ﴿٢٠﴾

وَنَفَقَ الْطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهُدُّهُ أَمْ

كَانَ مِنَ الْفَاسِدِينَ ﴿٢١﴾

لَا عَذَّبَنَّهُ وَعَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَا ذَبَحَنَّهُ أَوْ

لَا أَتَيْتَ بِسُلَطَنٍ مُّبِينٍ ﴿٢٢﴾

22. Nuko bidatinze (Samusure) iraza maze iravuga iti “Namenye ibyo utamenye kandi nje nturutse i Saba-i (Sheba muri Yemen), nkuzaniye inkuru y’impamo.”

فَمَكَثَ عَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَاطْتُ بِمَا لَمْ تُحْطِ  
بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبْعَ بَنَابِيَّقِينٍ ﴿٢٣﴾

23. Mu by’ukuri nahasanze umugore (witwa Balqis ari we) ubategeka. Kandi yahawe buri kintu, ndetse afite n’intebe y’ubwami ihambaye.

إِنِّي وَجَدْتُ اُمَّرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوْتِيَّتْ مِنْ  
كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٤﴾

24. Nasanze we n’abantu be bubamira izuba mu cyimbo cya Allah. Kandi Shitani yabakundishije ibikorwa byabo (bibi), inabakumira kugana inzira (igororotse), bityo ntibayoboka.

وَجَدَتْهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ  
اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَنُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ  
السَّيِّلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٢٥﴾

25. (Shitani yabakumiriye kugana inzira ya Allah) kugira ngo batubamira Allah, We ushyira ahagaragara ibyihishe mu birere no mu isi, ndetse azi ibyo muhisha n’ibyo mugaragaza.

أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تَخْفُونَ وَمَا  
تُعْلِنُونَ ﴿٢٦﴾

26. Allah, nta yindi mana ibaho ikwiye gusengwa by’ukuri itari We, Nyagasani wa Ar’shi<sup>166</sup> ihambaye.

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٢٧﴾

27. (Sulayimani) aravuga ati “Turareba niba uvugisha ukuri

\* قَالَ سَنَنُطُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنْ  
الْكَاذِبِينَ ﴿٢٨﴾

<sup>166</sup> Eba uko twasobanuye iri jabo muri Surat ul A’raf:54

cyangwa niba uri umwe mu banyabinyoma!"

28. "Jyana uru rwandiko rwanje urubanagire, nurangiza ubibete maze urebe icyo basubiza."

29. (Samusure irarujyana irarunaga, Umwamikazi w'i Sheba) aravuga ati "Yemwe banyacyubahiro! Mu by'ukuri nazaniwe urwandiko rwubahitse",

30. Mu by'ukuri rwaturutse kwa Sulayimani, kandi rwose ruragira ruti "Ku izina rya Allah Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi";

31. "Ntimunyiboneho ahubwo munsange mwicishije bugufi."

32. (Umwamikazi arongera) aravuga ati "Yemwe banyacyubahiro! Nimungire inama muri iki kibazo. Ntabwo nari gufata umwanzuro mudahari ngo mungire inama."

33. Baramusubiza batì "Twebwe turi abanyembaraga kandi turi inkazi (ku rugamba). Itegeko ni iryawé, bityo reba icyo utegeka."

34. (Umwamikazi) aravuga ati "Mu by'ukuri iyo abami binjiye mu mudugudu (igihugu) barawangiza, ndetse

أَذْهَبْتِكُمْ هَذَا فَالْقِهَةِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ  
فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿٢٩﴾

قَالَتْ يَأَيُّهَا الْمَلَوِّهُ إِلَى الْقِيَامَةِ كَيْمِرْ ﴿٣٠﴾

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣١﴾

الْأَلَّا تَعْلُوْ أَعْلَىٰ وَأَلْوَنِي مُسْلِمِينَ ﴿٣٢﴾

قَالَتْ يَأَيُّهَا الْمَلَوِّهُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً  
أَمْ رَاحَتِي تَشَهِّدُونَ ﴿٣٣﴾

قَالُوا نَحْنُ أُولَوْ قُوَّةٍ وَأُولَوْ بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ  
إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿٣٤﴾

قَالَتِ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرِيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا  
أَعْزَةَ أَهْلِهَا أَذْلَةً وَكَذَّابَ يَقُولُونَ ﴿٣٥﴾

bagasuzuguza abanyacyubahiro bawo. Uko ni ko bakora.”

35. Ahubwo ngiye kuboherereza impano maze ndebe icyo abo nohereje bagarukana.

36. Nuko ubwo (uhagarariye Intumwa zitwaye impano) yageraga kwa Sulayimani yaramubwiye ati “Ese murashaka kumfashisha umutungo (wanyu) kandi ibyo **Allah** yampaye ari byo byiza kurusha ibyo yabahaye? Ahubwo ni mwe mwishimira impano muhawe!”

37. (Nuko Sulayimani aramubwira ati) “Subirayo! Rwose tuzabohereza ingabo badashobora guhangana na zo, kandi rwose (igihugu cyabo) tuzakibasohoramo baciye bugufi kandi basuzuguritse.”

38. (Sulayimani) aravuga ati “Yemwe byegera! Ni nde muri mwe wanzanira intebi ye (umwamikazi) y'ubwami mbere y'uko baza bansanga baciye bugufi?”

39. Kabuhariwe mu majini aravuga ati “Njye ndayikuzanira mbere y'uko uhaguruka mu cyicaro cyawe, kandi rwose kuri ibyo ndi umunyembaraga w'umwizerwa.”

وَإِنِّي مُرْسَلٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرُهُ بِمَا يَرْجِعُ  
أَمْرُ الرَّسُولِ ﷺ

فَمَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتَمُدُونَ بِمَا لِقَاءَ أَتَلَنَّ اللَّهَ  
خَيْرٌ مِّمَّا أَتَكُمْ بِلَّا أَنْتُ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفَرَّحُونَ ﴿٣٦﴾

أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ بِهَا  
وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَا أَذَلَّهُ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٣٧﴾

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمُلَوُّؤُ ائْتُكُمْ يَا تَبَّانِي بِعَرِشِهَا قَبْلَ أَنْ  
يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣٨﴾

قَالَ عَفَّرِيتُ مَنْ أَلْجَيَ أَنَا إِلَيْكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ  
مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴿٣٩﴾

40. Umwe mu bahawe ubumenyi bw'igitabo aravuga ati "Njye ndayikuzanira mbere y'uko uhumbya!" (Nuko ahita ayizana!) Nuko (Sulayimani) ayibonye iteye imbere ye, aravuga ati "Ibi ni ku bw'ingabire za Nyagasanwanjye kugira ngo angerageze (arebe) niba nshimira cyangwa ntashimira! Kandi ushimira aba ashimira ku bw'inyungu ze, naho uhakana (aba yihemukiye). Mu by'ukuri Nyagasanani ni Uwihagije, Umunyabuntu."

41. (Sulayimani) aravuga ati "Nimuyo beranye intebeye ye y'ubwami kugira ngo turebe niba ari buyimenye cyangwa se ari buyiyo berwe nk'abandi?"

42. Nuko aje, arabazwa ati "Ese intebeye y'ubwami yawe imeze itya?" Aravuga ati "Irasa nka yo neza!" (Nuko Sulayimani aravuga ati) "Kandi twari twaramenyeshejwe (ko azayoboka Islamu) mbere y'uko aza, ndetse twari abicisha bugufi (Abayasilamu)."

43. Kandi ibyo yajyaga agaragira bitari **Allah** byamubujije (kuyoboka), kuko yari mu bantu bahakanye.

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَّهَا إِتَّيْكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرَدَ إِلَيْكَ طَرُفُكَ فَلَمَّا رَأَهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ وَقَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّ لِيَبْلُوْنِي إِنَّمَا شُكْرُكَ أَنْ تُكْفِرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يُشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي عَنِّيْ كَرِيمٌ

٤٣

قَالَ نَسِيْرٌ وَالْهَا عَرَشَهَا نَنْظُرُ أَنْهَتِي أَمْ تَكُونُ مِنْ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ

﴿٤٣﴾

فَلَمَّا جَاءَتِ قِيلَ أَهَدَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَانَهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ

﴿٤٤﴾

وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ

كَفِيرِينَ

﴿٤٥﴾

44. (Umwamikazi) yarabwiwe ati “Injira mu ngoro!” Nuko ayibonye aeka ko ari amazi menshi (azamura imyambaro) agaragaza imirundi ye. (Sulayimani) aravuga ati “Mu by’ukuri (ibi ubona) ni ingoro ishashemo ibirahuri (bishashe hejuru y’amazi)!” (Umwamikazi) aravuga ati “Nyagasani wanjye! Mu by’ukuri narihemukiye none nifatanyije na Sulayimani kwicisha bugufi kuri Allah, Nyagasani w’ibiremwa byose.”

45. Kandi rwose twoherereje abantu bo mu bwoko bwa Thamudu umuvandimwe wabo Swalehe, (arababwira ati) “Mugaragire Allah (wenyine).” Nuko bacikamo amatsinda abiri ashayamiranye (irimwemera n’irimuhakana).

46. (Swalehe abwira itsinda ryamuhakanye) ati “Yemwe bantu banjye! Kuki mushaka kwihutisha ikibi (ibihano bya Allah) mbere y’icyiza (impuhwe za Allah)? Kuki mudasaba Allah imbabazi kugira ngo mugirirwe impuhwe?”

47. Baravuga batii “Wowe n’abo muri kumwe tubabonamo abateramwaku.” Aravuga ati “Ibyago byanyu bituruka kwa Allah; ahubwo mwe muri abantu bari mu bigeragezo.”

قِيلَ لَهَا أَدْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً  
وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِيهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مَمْرُّدٌ مِنْ قَوَابِرٍ  
قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمَتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ  
لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٤﴾

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْ شَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنْ  
أَعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانٌ يَخْتَصِّصُونَ ﴿٤٥﴾

قَالَ يَقُولُ لَهُ تَسْتَعِجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ  
الْحُسْنَةِ لَوْلَا تَسْتَعْفِرُونَ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ  
تُرَحَّمُونَ ﴿٤٦﴾

قَالُوا أَطَّلَيْرَتَا يَكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَلِيلُكُمْ عِنْدَ  
اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿٤٧﴾

48. No muri uwo mujyi hari agatsiko k'abantu icyenda bawukoreragamo ubwangizi aho kugira ngo batunganye.

49. (Bamwe muri bo babwira abandi) bati "Murahire ku izina rya Allah ko turi bumwubikire mu ijoro, we n'abantu be (tukabica), maze tukazabwira abo mu muryango we tuti "Ntitwabonye icyoretse umuryango we, kandi rwose turavuga ukuri."

50. Nuko bacura umugambi mubisha, maze natwe tuburizamo umugambi wabo batabizi.

51. Ngaho reba uko iherezo ry'umugambi wabo mubisha ryagenze! Mu by'ukuri twabarimburanye n'abantu babo bose.

52. Ziriya ni ingo zabo zahindutse amatongo kubera ibikorwa byabo bibi. Mu by'ukuri muri ibyo harimo ikimenyetso ku bantu bafite ubumenyi.

53. Nuko turokora abemeye kandi bari abagandukiramana.

54. (Unibuke) ubwo Lutwi (Loti) yabwiraga abantu be ati "Ese murakora igikorwa

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهَطٍ يُفْسِدُونَ  
فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿٤٨﴾

قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِاللَّهِ لَنْبِيَّنَا وَآهَلَهُ ثُمَّ  
لَتَقُولُنَّ لِوَالِيِّهِ مَا شَهَدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا  
لَصَدِيقُونَ ﴿٤٩﴾

وَمَكَرُواْ مَكْرًا وَمَكَرَنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا  
يَشْعُرُونَ ﴿٥٠﴾

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلِقَبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَا  
دَمَرَتْهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥١﴾

فَتَلَكَ يُؤْتُهُمْ خَاوِيَّةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّهُ فِي  
ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾

وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٣﴾

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُكُمْ الْفَحْشَةَ  
وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾

cy'urukozasoni kandi mubona  
(ububi bwacyo)?”

55. “Ese koko muryamana (mukora imibonano) n'abagabo ku bw'irari ryanyu muretse abagore? Ahubwo mwe muri abantu b'injiji!”

56. Nta kindi cyabaga igisubizo cy'abantu be uretse kuvuga bati “Mumeneshe abantu ba Lutwi (Loti) mu mudugudu wanyu. Mu by'ukuri ni abantu bashaka kwigira abere!”

57. Nuko tumurokorana n'umuryango we usibye umugore we twageneye kuba mu barimbuwe.

58. Tubagushaho imvura (y'amabuye), ububi bw'imvura ku baburiwe (ntibumvire) twabunganya iki?

59. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Ishimwe n'ikuzo byuzuye ni ibya **Allah**, kandi amahoro abe ku bagaragu be yahisemo. Ese **Allah** ni We mwiza cyangwa ibyo bamubangikanya (na we ni byo byiza)?”

60. Ese uwaremye ibirere n'isi, akabamanurira amazi mu kirere, maze tukayameresha imirima igatoha (si we mwiza kurusha ibigirwamana byanyu)? Mwebwe ntimushobora kumeza

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ رَبِّ الْجَاهَ شَهُودًا مِّنْ دُورِنَ  
النِّسَاءِ بِلَ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ٦٦

\* فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَاتَلُوا  
أَخْرِجُوا إِلَّا لُطِّيَ قَرِيتُكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ  
يَظْهَرُونَ ٦٧

فَأَنْجَيْتَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتُهُ وَقَدَرْنَهَا مِنْ  
الْغَيْرِينَ ٦٨

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطْرُ الْمُنْذَرِينَ  
٦٩

قُلْ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ  
أَصْطَطْفَنَ اللَّهَ خَيْرًا مَا يُشْرِكُونَ ٧٠

أَمَّنْ حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ  
السَّمَاءِ مَا مَأْنَى بِهِ فَأَنْبَتَنَا بِهِ حَدَّاقِ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا

ibiti byayo. Ese hari indi mana ibangikanye na **Allah**? (Nta yo), ahubwo ni abantu batannye (babangikanya **Allah**)!

61. Ese uwagize isi aho gutura, akayishyiramo imigezi, akayishyiraho imisozi, ndetse akanashyira urubibi hagati y'inyanja ebyiri (ifite amazi y'urwunyunu n'ifite ay'urubogobogo; si We mwiza kurusha ibigirwamana byanyu)? Ese hari indi mana ibangikanye na **Allah**? Ariko abenshi muri bo ntibabizi?

62. Ese uwakira ubusabe bw'uri mu makuba igihe amusabye, akanakuraho ikibi ndetse akabagira abasigire ku isi (si We mwiza kurusha ibigirwamana byanyu)? Ese hari indi mana ibangikanye na **Allah**? Ni gake mwibuka!

63. Ese ubayobora mu mwijima w'imusozi n'uwo mu nyanja, akabohererereza imiyaga itanga inkuru nziza ibanziriza impuhwe ze (imvura, si We mwiza kurusha ibigirwamana byanyu)? Ese hari indi mana ibangikanye na **Allah**? **Allah** ntaho ahuriye n'ibyo bamubangikanya na byo.

كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْتَسِوْ شَجَرَهَا إِلَهٌ مَّعَ  
اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿٦﴾

أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خَلَلَهَا  
أَنْهَرًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَابِيْنَ وَجَعَلَ بَيْنَ  
الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا إِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكَثَرُهُمْ لَا  
يَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾

أَمَّنْ يُحِبُّ الْمُضْطَرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْسِفُ  
السُّوءَ وَيَجْعَلُ كُمْ خُلْفَاءَ الْأَرْضِ إِلَهٌ  
مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾

أَمَّنْ يَهْدِي كُمْ فِي ظُلْمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ  
يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيِ رَحْمَتِهِ إِلَهٌ  
مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشِّرِّكُونَ ﴿٦٣﴾

64. Ese uwatangije irema akazanarisubiramo (azura abapfuye), akabaha amafunguro aturutse mu kirere no mu isi (si We mwiza kurusha ibigirwamana byanyu)? Ese hari indi mana ibangikanye na **Allah**? Vuga (yewe Muhamadi) uti “Ngaho nimuzane ibimenyetso byanyu (bigaragaza ko **Allah** afite uwo abangikanye na We) niba koko muri abanyakuri.”

65. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Nta n’umwe mu bari mu birere no ku isi uzi ibiyishe uretse **Allah**, kandi ntibazi igihe bazazurirwa.”

66. Ahubwo bazasobanukirwa neza ku munsi w'imperuka; ariko bawushidikanyaho, ndetse ni n'impumyi kubiwerekeyeho.

67. Na ba bandi bahakanye baravuze bati “Ese twe n’abakurambere bacu nituba igitaka (nyuma yo gupfa), mu by’ukuri tuzazurwa?”

68. Rwose ibyo twabisezeranyijwe mbere, twe n’abakurambere bacu. Ibi nta kindi biri cyo usibye kuba ari inkuru z’abo hambere.

أَمَنَ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِدُهُ وَمَنْ يَرُقُّكُمْ مِنَ  
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا لَهُ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَا تُأْبِرُهُنَّ كُمْ  
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤﴾

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ  
وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبَعْثُرُونَ ﴿٦﴾

بَلْ أَدَرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا  
بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ ﴿٦٦﴾

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَذَاكُمْ نَارُ بَأْوَأْ بَأْ وَنَا أَيْنَا  
لِمُحْرَجُونَ ﴿٦٧﴾

لَقَدْ وَعَدْنَا هَذَا نَحْنُ وَإِنَّا مِنْ قَبْلٍ إِنَّ هَذَا  
إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾

69. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Nimutambagire ku isi, maze murebe uko iherezo ry’inkozi z’ibibi ryagenze.”

70. Kandi (abaguhakanye) ntibazagutere agahinda, ndetse ntukababazwe n’imigambi mibisha bacura.

71. (Abahakanyi) baravuga bati “Ese ni ryari iri sezerano rizasohora niba muri abanyakuri?”

72. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Hari ubwo bimwe mu byo musaba kwihutishwa (ibihano) byaba biri hafi yanyu.”

73. Kandi mu by’ukuri Nyagasani wawe ni Nyiringabire ku bantu, ahubwo abenshi muri bo ntibashimira.

74. Ndetse mu by’ukuri Nyagasani wawe azi ibyo ibituza byabo bihishe kandi azi n’ibyo bagaragaza.

75. Nta na kimwe cyihishe mu kirere no ku isi kitari mu gitabo gisobanutse.

76. Mu by’ukuri iyi Qur’an iha bene Isiraheli ukuri kw’inkuru nyinshi batavugaho rumwe.

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَيْنَهُ

الْمُجْرِمِينَ ﴿٦﴾

وَلَا تَخَرَّجْ عَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا

يَمْكُرُونَ ﴿٧﴾

وَيَقُولُونَ مَقَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٨﴾

قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدْفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي

تَسْعَ حِلْوَنَ ﴿٩﴾

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُرْفَضِيلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا

يَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِمُونَ ﴿١١﴾

وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ

مُبِينٍ ﴿١٢﴾

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَفْضُلُ عَلَى بَيْنِ إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ

الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٣﴾

77. Kandi rwose yo (Qur'an) ni umuyoboro n'impuhwe ku bemeramana.

وَإِنَّهُ لَهُدَىٰ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧﴾

78. Mu by'ukuri Nyagasan i wawe azabakiranura akoresheje itegeko rye. Kandi We ni Nyiricyubahiro bihebuje, Umumenyi uhebuje.

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ بِمَا فِي هُمْ بِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ  
الْعَلِيمُ ﴿٧٦﴾

79. Bityo (yewe Muhamadi) jya wiringira **Allah!** Mu by'ukuri wowe uri mu kuri kugaragara.

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿٧٧﴾

80. Mu by'ukuri ntushobora kumvisha abapfu (ukuri), ndetse ntiwanakumvisha ibipfamatwi umuhamagaro (wawe) mu gihe bateye umugongo bagenda.

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُؤْمِنَ وَلَا تُسْمِعُ الصَّمَدَ الدُّعَاءَ إِذَا  
وَلَوْا مُدْبِرِينَ ﴿٧٨﴾

81. Kandi ntiwanashobora kuyobora impumyi (uzikura) mu buyobe bwazo, ahubwo abo wumvisha ni abemera amagambo yacu, bakaba ari na bo bicisha bugufi (Abayisilamu).

وَمَا أَنْتَ بِهَدِي الْعُمَّىٰ عَنْ ضَلَالِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا  
مَنْ يُؤْمِنُ بِمَا يَأْتِيٰ فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٧٩﴾

82. N'igihe imvugo (y'ibihano) izabasohoreraho (abahakanyi), tuzabasohorera inyamaswa mu butaka ibabwira ko abantu batagyaga bizera amagambo yacu.

\*وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجَنَا الَّهُمَّ آتِهِ مِنْ  
الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَأْتِيَنَا لَا  
يُوقِنُونَ ﴿٨٠﴾

83. (Unibuke) umunsi tuzakoranya muri buri muryango (Umat) itsinda ry'abahakanye amagambo yacu,

وَيَوْمَ نَخْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ  
بِمَا يَأْتِيَنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٨١﴾

maze bagashyirwa ku mirongo  
(mu matsinda).

84. Kugeza ubwo bazagera (imbere ya Allah) akavuga ati “Ese mwahakanye amagambo yanje mutaranabanje kuyasobanukirwa (ngo mumenye niba ari ukuri cyangwa ari ibinyoma), cyangwa mwakoraga iki (kindi)?”

85. Nuko imvugo (y'ibihano) ibasohoreraho kubera ibibi byabo, kandi ntibazashobora kugira icyo bavuga (biregura).

86. Ese ntibabona ko twabashyiriye ho ijoro kugira ngo bariruhukemo, n'amanywa kugira ngo babashe kubona (bityo bashake ibibabeshaho)? Mu by'ukuri muri ibyo harimo ibimenyetso ku bantu bemera.

87. (Unibuke) umunsi impanda izavuzwa, maze ibiri mu birere no mu isi bigakangarana, uretse uwo Allah azashaka (guhumuriza). Kandi bose bazamugana bicishije bugufi.

88. Uzanabona imisozi wibwire ko iri hamwe, nyamara izaba

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ وَقَالَ أَكَدَّهُمْ بِيَأْتِيٍ وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا  
عِلْمًا أَمَّا مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾

وَرَقَّ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ

٨٥

أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا الْيَلَى لِسَكُنْوِفِيهِ وَالنَّهَارَ  
مُبَصِّرًا لِلنَّاسِ فِي ذَلِكَ لَأَيَّتِ لَقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٨٦﴾

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الْمُوْرِقَنَعِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ  
فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتْوَهُ دَاخِرٌ

٨٧

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مِنَ السَّحَابِ  
صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ وَحْدَهُ بِمَا  
تَفْعَلُونَ ﴿٨٨﴾

igenda yihuta nk'ibicu<sup>167</sup>. Ibyo ni  
ibikorwa na **Allah**, We  
watunganyije buri kintu. Mu  
by'ukuri We azi byimazeyo ibyo  
mukora.

89. (Kuri uwo munsi) uzaba  
yarakoze icyiza (ku isi) azabona  
icyiza kikiruta, kandi kuri uwo  
munsi bazaba batekanye, nta  
bwoba bafite.

90. Naho abazaba barakoze  
ibibi, bazarohwa mu muriro  
babanjemo uburanga bwaboo  
(maze babwirwe bati) "Ese iki si  
igihembo cy'ibyo mwajyaga  
mukora?"

91. Mu by'ukuri njye  
(Muhamadi) nategetswe  
kugaragira Nyagasani w'uyu  
mujyi (wa Maka), We  
wawutagatifuje kandi akaba ari  
na We Mugenga wa buri kintu.  
Ndetse nanategetswe kuba mu  
bicisha bugufi (Abayisilamu).

92. (Ntegekwa) no gusoma Qur'an. Bityo uzayoboka, mu by'ukuri ni we bizagirira akamaro. N'uzayoba, uzavuge uti "Mu by'ukuri njye ndi umwe mu baburizi."

وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ وَخَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَرَّعَ يَوْمَ مَيِّذٍ

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ  
تَحْكِرُونَ الْأَمَانَةَ الَّتِي تَعْمَلُونَ

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّهُذِهِ الْبَلْدَةُ الَّذِي  
حَرَمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ  
الْمُسْلِمِينَ

وَأَنْ أَتُوا الْقُرْبَانَ فَمِنْ أَهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي  
النَّفَسَهُ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ

<sup>167</sup> Abahanga mu bumenyi bw'isi baje kumenya ko imigabane igize isi igenda yimuka gake gake yegerana cyangwa itatana mu gihe kirekire cyane. Ibi bikaba bishimangira ukuri kw'uyu murongo wa Our'ani.

93. Kandi (yewe Muhamadi) uvuge uti “Ishimwe n’ikuzo byuzuye ni ibya Allah. Azabereka ibimenyetso bye mubimenye.” Kandi Nyagasan i wawe ntabwo ayobewe ibyo mukora.

وَقَلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيِّدِ الْكُوَفَّ إِيَّاكَ نَعْرِفُ فُنَاحَا وَمَا  
رَبُّكَ يُغَيِّل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٦﴾

## 28 - SURAT AL QASWASW

(INKURU Z’ABAHANUZI)

*Yahishuriwe i Maka, igizwe n’imirongo 88*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Twaa Siin Miim<sup>168</sup>

طَسَمَ ﴿١﴾

2. Iyo ni imirongo (ayat) y’igitabo gisobanutse.

تَلَكَّءَ اِيَّاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿٢﴾

3. Turakubarira zimwe mu nkuru za Musa na Farawo mu kuri (ngo uzigeze) ku bantu bemera.

نَثَلُوا عَنِيكَ مِنْ بَيْنِ مُوسَىٰ وَفَرْعَوْنَ بِالْحَقِّ  
لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣﴾

4. Mu by’ukuri Farawo yishyize hejuru mu gihugu (cya Misiri), anacamo ibice abantu baho, akandamiza bamwe muri bo (Abayisiraheli), abicira abana b’abahungu naho abakobwa

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَىٰ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا  
شَيْعَانَسْتَصْرِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَيْحُ أَبْنَاءَهُمْ  
وَيَسْتَحِي نِسَاءُهُمْ إِنَّهُ وَكَانَ  
مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٤﴾

<sup>168</sup>-Twaa Siin Miim: Inyuguti nk’izi twazivuzezo mu masura yatambutse.

babo akabareka. Mu by'ukuri yari mu bangizi.

5. Kandi twashakaga guha ingabire zacu abakandamijwe mu gihugu, tukabagira abayobozi ndetse tukanabagira abazungura (ba Misiri nyuma yo kurimbura Farawo).

6. No kubaha ubushobozi mu gihugu, ndetse no kugira ngo twereke Farawo na Hamana ndetse n'ingabo zabo, ibyo bajyaga bikanga ko byaturuka kuri bo (Abayisiraheli).

7. Nuko duhishurira nyina wa Musa (tumubwira) tuti “Mwonse, ariko niba ufite uwobwa (bw'uko yagirirwa nabi), munage mu mazi kandi ntutinye cyangwa ngo ugire agahinda. Mu by'ukuri tuzamukugarurira ndetse tumugire umwe mu ntumwa (zacu).”

8. Nuko atoragurwa n'abantu bo kwa Farawo, (nyuma) azu kubabera umwanzi n'impamu y'umubabaro. Mu by'ukuri Farawo na Hamana n'ingabo zabo bari abanyamakosa.

9. Umugore wa Farawo aravuga (abwira Farawo) ati “(Uyu mwana) azaba ibyishimo byanjye nawe! Ntimumwice! Hari ubwo yazatugirira akamaro cyangwa tukamugira umwana wacu.”

وَنَرِيدُ أَنْ تَمْنَعَ عَلَى الَّذِينَ أَسْتُضْعِفُوا  
فِي الْأَرْضِ وَتَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَتَجْعَلَهُمْ  
الْوَارِثِينَ ﴿٦﴾

وَنُمْكِنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ  
وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴿٧﴾

وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَىٰ أَنَّ أَرْضِيَهُ  
فِي ذَادِخَفْتِ عَيْنِهِ فَلَقِيَهُ فِي الْكِبْرِ وَلَا تَخَافِ  
وَلَا تَحْزَنْ إِنَّ رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعَلُوهُ مِنَ  
الْمُرْسَلِينَ ﴿٨﴾

فَالْتَّقَطَهُ وَإِلَّا فِرْعَوْنَ لَيَكُوبَ لَهُمْ عَدُوًا  
إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَجُنُودَهُمَا وَحَزَنًا  
كَانُوا خَاطِئِينَ ﴿٩﴾

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ

Ariko (Farawo n'abantu be) ntibiyumvishaga (ko ari we uzaba impamvu yo korama kwabo).

10. Umutima wa nyina wa Musa wasigaye nta kindi kiwurimo (usibye gutekereza umwana we). Haburaga gato ngo amugaragaze (ko ari uwe) iyo tutamukomeza umutima kugira ngo abe mu bemera (isezerano ryacu).

11. Nuko (nyina wa Musa) abwira mushiki wa Musa (igihe yamunagaga mu mazi) ati “Mukurikire!” Maze agenda amurebera kure batabiyumvisha.

12. (Musa) twari twaramuziririje konswa n’(abandi bagore) mbere (y’uko tumugarura kwa nyina), maze mushiki we arababwira ati “Ese mbarangire umuryango wamubarerera kandi ukamuha uburere bwiza?”

13. Nuko tumusubiza kwa nyina kugira ngo (nyina) yishime ashire agahinda, kandi amenye ko isezerano rya **Allah** ari ukuri. Ariko abenshi muri bo ntibabizi.

14. Nuko amaze kuba igikwerere anatunganye (mu bwenge), tumuha ubushishozi

لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَخَذَهُ وَلَدًا  
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾

إِنْ كَادَتْ وَاصْبَحَ فُؤَادُ أَمْ مُوسَىٰ فَرِغًا  
لَتُبَدِّيَ بِهِ لَوْلَا أَنَّ رَبَّنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمَا إِلَّا تَكُونَ  
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠﴾

وَقَالَتْ لِأَخْتِهِ قُصِّيَّةٌ فَصَرَّتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ  
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١١﴾

\*وَحَرَّمَ مِنَاعَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ فَقَالَتْ  
هَلْ أَدْلُلُكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ  
لَكُمْ وَهُمْ لَهُونَصُحُورٌ ﴿١٢﴾

فَرَدَدَنَهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقْرَعَيْنَاهَا وَلَا تَحْزَنَ  
وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا كَيْنَ  
أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾

وَلَمَّا بَلَغَ أَشْدَدَهُ وَأَسْتَوَىٰ إِلَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا  
وَكَذَلِكَ بَخِزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤﴾

n'ubumenyi. Uko ni ko duhemba abakora ibyiza.

15. Nuko yinjira mu mujyi (wa Farawo) mu gihe abawutuye bahuze, ahasanga abagabo babiri barwana; umwe akomoka muri bene wabo, undi akomoka mu banzi be. Maze ukomoka muri bene wabo aramutabaza kugira ngo amufashe kwivuna umwanzi we, nuko Musa amukubita igipfunsi aramwica. (Musa amaze kumwica) aravuga ati "Ibi (nkoze) ni igikorwa cya Shitani. Mu by'ukuri yo ni umwanzi uyobya ku buryo bugaragara."

16. (Musa) aravuga ati "Nyagasani! Mu by'ukuri nihemukiye; bityo mbabarira." Nuko (**Allah**) aramubarira. Rwose We ni Nyir'ukubabarira ibyaha, Nyirimbabazi.

17. (Musa) aravuga ati "Nyagasani! Ku bw'inema wampaye, sinzigeri nshygikira inkozi z'ibibi."

18. Nuko bukeye (Musa) aramukira mu mujyi afite ubwoba, akurikirana (ngo amenye inkurikizi z'ibyo yakoze). Maze wa wundi wamutabaje ku munsi wabanje avuza akamo amutabaza (nanone). Musa

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفَلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا  
فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَلَانِ هَذَانِ مِنْ شَيْعَتِهِ  
فَأَسْتَغْثَثُهُ الَّذِي مِنْ شَيْعَتِهِ عَدُوٌّ وَهَذَا مِنْ  
عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوٍّ فَرَكَرَهُ مُوسَى  
فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ  
مُضِلٌّ مُبِينٌ ١٥

قَالَ رَبِّي إِنِّي طَامِتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ  
إِنَّهُ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ١٦

قَالَ رَبِّي مَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ  
ظَاهِرًا لِلْمُجْرِمِينَ ١٧

فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَلِيفَاً يَرَقِبُ فَإِذَا الَّذِي  
أُسْتَنْصَرُهُ بِالْأَمْمَى يَسْتَصْرِخُهُ وَقَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ  
لَغَوِيٌّ مُبِينٌ ١٨

aramubwira ati “Mu by’ukuri bigaragara ko wiienza.”

19. Nuko (Musa) ashaka gusumira umwanzi wabo bombi, (wa mwanzu) aravuga ati “Yewe Musu! Urashaka kunyica nk’uko wishe umuntu ejo? Nta kindi ushaka kitari ukuba icyigomeke mu gihugu. Nta n’ubwo ushaka kuba mu bakora ibitunganye.”

20. Maze haza umugabo yihuta, aturutse mu nkengero z’umuji, aravuga ati “Yewe Musu! Rwose ibyegera (bya Farawo) biragucurira umugambi wo kukwica, bityo hunga! Mu by’ukuri ndi umwe mu bakugira inama.”

21. Nuko awusohokamo akebaguza, afite ubwoba (bw’uko ashobora gufatwa). Aravuga ati “Nyagasani! Nkiza abantu b’inkozi z’ibibi.”

22. Ubwo (Musa) yerekezaga i Madiyani, yaravuze ati “Hari ubwo Nyagasani wanje yanyobora inzira y’ukuri.”

23. Maze ageze ku mazi (iriba) ya Madiyana, ahasanga abantu benshi buhira (amatungo yabo), inyuma yabo hari abagore babiri bakumira (amatungo yabo kwegera amazi). Aravuga ati “Mufite ikihe kibazo?” Baravuga batu “Ntidushobora gushora

فَلَمَّا آتَى أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ  
يَمُوسَىٰ أَتَرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَاتَلْتَ نَفْسًا  
**بِالْأَمْمَةِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَارًا فِي الْأَرْضِ**  
وَمَا أَرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٦﴾

وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَمُوسَىٰ  
إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَأْتِمُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرَجَ إِنَّ  
لَكَ مِنَ النَّصْحِينَ ﴿١٧﴾

**فَرَجَّعَ مِنْهَا خَابِيًّا يَرَقِبُ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ بَخَسِفَ مِنَ الْقَوْمِ**  
الظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَنْ  
يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٩﴾

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ  
النَّاسِ يَسْقُطُونَ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ أُمَّرَاتٍ

(amatungo yacu) abashumba badakutse, kandi data ni umusaza ukuze.”

24. Nuko arabuhirira (amatungo), nyuma yerekeza mu gicucu (cy'igit) maze aravuga ati “Nyagasan! Rwose nkeneye ibyiza wamanurira uko byaba bimeze kose.”

25. Maze umwe muri ba bagore babiri aza amusanga afite isoni, aravuga ati “Mu by'ukuri data araguhamagaye kugira ngo aguhe igihembo cy'uko watwuhiriye (amatungo).” Nuko (Musa aramwitaba) amugezeho amubarira inkuru (y'ibyamubayeho), maze aramubwira ati “Ntugire ubwoba! Ukize abantu b'inkozi z'ibibi.”

26. Umwe muri bo (abagore) aravuga ati “Dawe! Muhe akazi! Kubera ko mu by'ukuri umwiza ukwiriyе kugaha ni umunyembaraga w'umwizerwa.”

27. (Shuwayibu) aravuga ati “Mu by'ukuri ndashaka kugushyingira umwe muri aba bakobwa banjye babiri, ukazankorera imyaka umunani; ariko unujuje icumi, byaba ari ubushake bwawe kuko ntashaka kukugora. Ku bushake bwa

تَذَوَّدَنَ قَالَ مَا حَطَبُكُمَا قَاتَ الْأَسْقِي حَتَّىٰ  
يُصْدِرَ أَرِعَاءً وَأَبُونَاسِيْحَ كَبِيرٌ ٦٣

فَسَقَى لَهُمَا شَمَرْ تَوَّلَّ إِلَى الظَّلَلِ فَقَالَ رَبٌّ  
إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

فَأَمَّةٌ إِحْدَى لَهُمَا تَمَشِّي عَلَى أَسْتِحْيَاءٍ قَالَ  
إِنَّ أَيِّ يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرًا  
مَاسَقَيْتَ لَنَا فَمَا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ  
بَحْوَتَ مِنَ الْقَوْمِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخْفَفْ  
الظَّلَلِمِينَ ٦٤

قَالَتْ إِحْدَى لَهُمَا يَأْتِيَتْ أُسْتَجْرُهُ  
إِنَّ خَيْرَ مِنْ أَسْتَجْرَتْ الْقَوْيُ الْأَمِينُ ٦٥

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنِكِحَنَ إِحْدَى أُبْنَتَي هَكَيْنَ  
عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَاجَ فَإِنْ أَتَمَّتَ  
عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُشْقَ

Allah, uzasanga ndi umwe mu bantu beza.”

28. (Musa) aravuga ati “Ibyo ni (amasezerano) hagati yanje nawe. Kimwe muri ibyo bihe byombi nzakora, sinzarenganywe. Kandi Allah ni umuhanya w’ibyo tuvuga.”

29. Nuko Musa yujuje igihe (bumvikanye), ajyana n’umuryango we (basubiye mu Misiri), arabukwa umuriro iruhande (rw’umusozi) wa Twuri. Maze abwira umuryango we ati “Nimusigare aha, mu by’ukuri njye ndabutswe umuriro; hari ubwo nabazanira amakuru yawo (yadufasha kumenya inzira) cyangwa nkabazanira igishirira kugira ngo mwote.”

30. Nuko awugezeho, ahamagarirwa iruhande rw’ikibaya iburyo (bwe) ku butaka butagatifu, (ijwi rituruka) ku giti, (abwirwa) ati “Yewe Musa! Mu by’ukuri ni njye Allah, Nyagasani w’ibiremwa byose.”

31. “Naga inkoni yawe hasi!” (Arayinaga) maze abonye yinyagambura imeze nk’inzoka (ikubita hirya no hino), agira ubwoba arahunga ntiyahindukira. (Allah) aramubwira ati “Yewe Musa!

عَلَيْكَ سَتَجِدُنَّ إِن شَاءَ اللَّهُ مِنْ

الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

قَالَ ذَلِكَ بِيَنِي وَبَيْنَكَ أَيْمَانَ الْأَجَلَيْنِ  
قَضَيْتُ فَلَا عُذْوَرَاتَ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ  
وَكَيْلٌ ﴿٢٨﴾

\* قَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَىٰ الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ  
قَالَ لِأَهْلِهِ أَمْكُثُوا إِنِّي ءَانَسَ مِنْ جَانِبِ الْطُّورِ نَارًا  
ءَانَسَتْ نَارًا لَعِلَّهُ أَتِيكُمْ مِنْهَا بَخْرَاءٍ  
أَوْ جَذْوَقَ مِنْ النَّارِ لَعَلَّكُمْ  
تَصْطَلُونَ ﴿٢٩﴾

فَلَمَّا آتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَطَطِ الْوَادِ الْأَيَّمِنِ فِي  
الْبَيْقَعَةِ الْمُبَرَّكَةِ مِنْ الشَّجَرَةِ  
أَن يَكُمُوسَىٰ إِنِّي أَنَّ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٠﴾

وَإِنَّ أَنَّكَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَهَا تَهَرَّكَتْ كَانَهَا  
جَانٌ وَلَّ مُدَبِّرًا وَلَمْ يَعِقِبْ يَكُمُوسَىٰ أَقْبِلَ  
وَلَا تَخْفَ إِنَّكَ مِنَ الْأَمْنِينَ ﴿٣١﴾

Garuka kandi ntugire ubwoba,  
mu by'ukuri uri mu batekanye."

32. Injiza ukuboko kwawe (ikiganza cyawe) mu kwaha (mu mwenge w'ikanzu yawe), kuravamo kurabagirana bidatewe n'uburwayi. Kandi wipfumbate kugira ngo ushire ubwoba. Ibyo byombi ni ibimenyetso bigaragara biturutse kwa Nyagasanai wawe, uzifashisha kwa Farawo n'ibyegera bye. Mu by'ukuri bo ni abantu b'inkozi z'ibibi.

33. (Musa) aravuga ati "Nyagasanai! Mu by'ukuri nabishemo umuntu none ndatinya ko bazanyica."

34. "Kandi umuvandimwe wanje Haruna andusha kuba intyoza, bityo mumpe tujyane anyunganire, anahamye ibyo mvuga. Mu by'ukuri ndatinya ko bampinyura."

35. (Allah) aravuga ati "Tuzagushyigikiza umuvandimwe wawe, tunabahe ibimenyetso bidasubirwaho mwembi; bityo ntibazabasha kugira icyo babatwara ku bw'ibitangaza byacu. Mwembi n'abazabakurikira muzatsinda."

أَسْلَكَ يَدَكَ فِي جَيْلِكَ تَخْرُجُ بِيَضَاءَ مِنْ  
غَيْرِ سُوَءٍ وَأَصْمُمُ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنْ أَرْهَبِ  
فَذَنِكَ بُرْهَدَنَانِ مِنْ رَّيْلَكَ إِلَى فِرْعَوْنَ  
وَمَلِإِيْهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴿٣٣﴾

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا خَافَ  
أَنْ يَقْتُلُونِي ﴿٣٤﴾

وَأَخِي هَرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا  
فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدَاءً يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ  
يُكَذِّبُونِ ﴿٣٥﴾

قَالَ سَنَشُدْ عَصْدَكَ بِأَخِيكَ وَتَجْعَلُ لَكُمَا  
سُلْطَنًا فَلَا يَصْلُونَ إِلَيْكُمَا يَأْتِنَا  
أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَ كُمَا الْفَاجِلُونَ ﴿٣٦﴾

36. Nuko Musa abagejejeho ibitangaza byacu bigaragara, baravuga bati “Ibi nta kindi biri cyo uretse ko ari uburozi bw’ubuhimbano, kandi ibi (uduhamagarira) ntitwigeze tubyumva ku babyeyi bacu bo hambere.”

37. Musa aravuga ati “Nyagasani wanje ni We uzi neza uwazanye umuyoboro umuturutseho, kandi ni na We uzi uzagira iherezo ryiza ku munsi w’imperuka. Mu by’ukuri inkozi z’ibibi ntizizatsinda.”

38. Nuko Farawo aravuga ati “Yemwe byegera! Nta yindi mana nzi mufite itari njye, bityo ntwikira amatafari yewe Hamana, maze unyubakire umunara muremure kugira ngo nshobore kubona Imana ya Musa. Kuko mu by’ukuri nkekako (Musa) ari mu banyabinyoma.”

39. Maze (Farawo) n’ingabo ze bigira abibone mu gihugu bitari mu kuri kandi banibwira ko batazagarurwa iwacu (kwa Allah).

40. Nuko tumufatana n’ingabo ze maze tubajugunya mu nyanja. Ngaho reba uko iherezo ry’inkozi z’ibibi ryagenze!

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِغَايَتِنَا أَبَيْنَتِ قَالُوا مَاهَذَا  
إِلَّا سَحْرٌ مُفْرَّغٌ وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا  
فِيٰ إِبَآءَاتِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٢٧﴾

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّنَا أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ  
مِنْ عِنْدِنِيٰ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عِلْقَبَةُ الدَّارِ  
إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٨﴾

وَقَالَ فِرْعَوْنٌ يَا أَيُّهَا الْمَلَائِكَةُ مَا عَلِمْتُ  
لَكُمْ مِنْ إِلَّا إِغْيَرِيٍ فَأَوْقَدْنِي يَهْمَنْ عَلَىٰ  
الْأَطْلِينَ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا عَلَىٰ أَطْلِي إِلَىٰ  
إِلَهِ مُوسَىٰ وَلِيٰ لَأْذُنْهُ مِنَ الْكَذِيلِينَ ﴿٢٩﴾

وَأَسْتَكِنْ بَرَهُو وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ  
بِغَيْرِ الْحَقِّ وَطَبُوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿٣٠﴾

فَانْظُرْ فَأَخْذَنَهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذَنَهُمْ فِي الْيَمِّ  
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٣١﴾

41. Twanabagize abayobozi bahamagarira (abantu) kugana umuriro, kandi ku munsi w'imperuka ntibazatabarwa.

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ  
الْقِيَامَةِ لَا يُنَصِّرُونَ ﴿٤١﴾

42. Twanabakurikije umuvumo hano ku isi, ndetse no ku munsi w'imperuka bazaba bari mu bantu babi.

وَأَتَبْعَثُهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً  
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴿٤٢﴾

43. Kandi rwose twahaye Musa igitabo (Tawurati) nyuma yo kurimbura ibisekuru byo hambere, (ngo kibe) urumuri n'umuyoboro ndetse n'impuhwe ku bantu, kugira ngo babashe kwibuka.

وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ  
مَا أَهْلَكَنَا الْقُرُونُ الْأُولَى بِصَاعِرَةِ اللَّاسِ  
وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٣﴾

44. Kandi (yewe Muhamadi) ntabwo wari iruhande rw'iburengerazuba (bw'umusozi) ubwo twahaga Musa amategeko, ndetse nta n'ubwo wari mu bari aho (icyo gihe).

وَمَا كُنَّا بِجَانِبِ الْغَرْبَةِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى  
الْأَمْرَ وَمَا كُنَّا مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٤٤﴾

45. Ahubwo twaremye ibisekuru byinshi (nyuma ya Musa), bibaho igihe kirekire [biza kwibagirwa isezerano rya Allah, kugeza ubwo wowe Muhamadi uje], kandi nta n'ubwo wabaye mu bantu b'i Madiyana ngo ubasomere amagambo yacu. Ariko ni twe twoherezaga (Intumwa, tukanaziha inkuru z'ibyabaye mbere).

وَلَكِنَّا آنَّا نَاقُرُونَ فَطَاؤَلَ عَلَيْهِمُ  
الْعُمُرُ وَمَا كُنَّتْ شَأْوِيَّا فِي أَهْلِ مَدِينَةِ  
تَشْلُوْ أَعْلَيَهُمْ إِيَّنَا وَلَكِنَّا  
كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٤٥﴾

46. Kandi nta n'ubwo wariruhande rwa (umusozi wa) Twuri, ubwo twahamagaraga (Musa, ngo wumve ibyo tumuhishurira) ahubwo (twakohereje) ku bw'impuhwe ziturutse kwa Nyagasan wawe, kugira ngo uburire abantu batigeze bagerwaho n'umuburizi mbere yawe, kugira ngo babashe kwibuka.

47. N'ijo (tutaza kukohereza mu bantu b'i Maka) nyuma bakagerwaho n'ibihano kubera ibyo bakoze, bari kuvuga bat "Nyagasan wacu! Iyo uza kutwoherereza Intumwa, twari gukurikira amagambo yawe kandi tukaba mu bemera."

48. Nuko ubwo ukuri (Intumwa Muhamadi) kuduturutseho kwabageragaho, baravuze bat "Kuki atahawe nk'ibyo Musa yahawe?" (Babwire uti) "Ese mbere (Abayahudi) ntibahakanye ibyo Musa yahawe?" Bakanavuga bat "Mu by'ukuri ni uburozi bwombi (Qur'an na Tawurati) bwunganirana." Baranavuga bat "Mu by'ukuri byose turabihakanye."

49. Vuga (yewe Muhamadi) uti "Ngaho nimuzane igitabo giturutse kwa Allah kibirusha byombi kuba umuyoboro mwiza,

وَمَا كُنْتَ بِحَاجَةٍ إِلَّا نَادَيْنَا  
وَلَكِنَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا  
مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذْيِرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ  
يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٦﴾

وَلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمُتْ  
أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلَتِ إِلَيْنَا  
رَسُولًا فَنَتَّبَعَهُ أَيْتِكَ وَنَكُونُ  
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَاتَلُواْ  
لَوْلَا أُوتَى مِثْلَ مَا أُوتِقَ مُوسَىٰ أَوْلَمْ  
يَكُنْ فُرُواْ بِمَا أُوتَى مُوسَىٰ مِنْ قَبْلٍ  
قَالُواْ سَاحِرٌ تَظَاهِرٌ وَقَالُواْ إِنَّا يَكُلُّ كُفَّارُونَ ﴿٤٨﴾

قُلْ فَأَتُواْ بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى  
مِنْهُمْ أَتَتْهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٩﴾

maze ngikurikire niba koko muri abanyakuri."

50. Ariko nibaramuka batagusubije, umenye ko nta kindi bakurikira kitari irari ryabo. Ese ni nde wayobye kurusha wa wundi wakurikiye irari rye adafite umuyoboro uturutse kwa Allah? Mu by'ukuri Allah ntayobora abantu b'inkozi z'ibibi.

51. Kandi rwose twabagejejeho ijambo (Qur'an) kugira ngo babashe kwibuka.

52. Ba bandi twahaye igitabo mbere yayo (Qur'an, bamwe muri bo) baracyemeye.

53. N'yo bayisomewe baravuga bati "Turayemera! Mu by'ukuri ni ukuri guturutse kwa Nyagasani wacu. Kandi rwose na mbere yayo twari abicisha bugufi (Abayisilamu)."

54. Abo bazahabwa ibihembo byabo byikubyebabiri kubera ko bihanganye, n'ikibi bakagikuzaho icyiza, ndetse bakanatanga mu byo twabafunguriye.

فَإِنَّمَا يَتَبَعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ  
هَوَلَهُ بِغَيْرِ هُدَىٰ مِنْ اللَّهِ  
إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ٦٥

وَلَقَدْ وَصَلَنَا إِلَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

٦٤

الَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ  
هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ٦٥

وَلَإِذَا تُتَلَّ عَلَيْهِمْ قَالُوا إِنَّا بِهِ إِلَهٌ حُقُّ مِنْ  
رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ٦٦

وَلَئِنْكُمْ يُوتَّنَ أَجْرَهُمْ مَرَرَتِينَ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرُوْنَ  
بِالْحَسَنَةِ السَّيِّةِ وَمَمَارِرَ قَنَاهُمْ بِنِفَقَوْنَ ٦٧

55. N'yo bumvise ibidafite akamaro barabyirengagiza, bakavuga bati "Twe dufite ibyo dukora namwe mukagira ibyanyu, amahoro nabe kuri mwe. Ntidushaka kugirana ubucuti n'injiji."

56. Rwose, wowe (Muhamadi) ntuyobora uwo ukunze, ahubwo **Allah** ni We uyobora uwo ashaka. Kandi ni We uzi neza abayobotse.

57. (Abahakanyi b'i Maka) baranavuga bati "Nituramuka dukurikiye umuyoboro (wazanye, tukaba) hamwe nawe, tuzirukanwa ku butaka bwacu!" Ese ntitwabatuje ahantu hatagatifu kandi hatekanye (Maka), hazanwa imbuto z'ubwoko bwose zikaba ari amafunguro aba aduturutseho? Nyamara abenshi muri bo ntibabizi."

58. Ese ni imidugudu ingahe yigometse tukayoreka kubera imibereho myiza yari ifite (ikabashuka ibatesha kwemera **Allah** n'Intumwa ze)? Ngariya amazu yabo atarongeye guturwamo nyuma yabo uretse make muri yo. Kandi mu by'ukuri ni twe twari abazungura.

وَإِذَا سَمِعُوا الْغَوَّ أَغْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا نَّا  
أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ  
لَا يَنْتَغِي الْجَنَّابُونَ ٥٦

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ  
الَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهَدِّدِينَ

٥٦

وَقَالُوا إِنَّنَّنَا نَتَّبِعُ الْهُدَىٰ مَعَكُمْ نُتَخَطَّفُ  
مِنْ أَرْضِنَا أَوْ نُمَكَّنُ لَهُمْ حَرَماً إِنَّا  
يُبَحِّبُّ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَدُنَّا  
وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٥٧

وَلَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ بِطَرَّاتٍ مَّعِيشَتَهَا  
فَتَلَكَّ مَسَكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ  
إِلَّا قِيلَادَ وَكُنَّا لَخَنْ أُلُوَّرِثِينَ ٥٨

59. Kandi Nyagasanai wawe ntayarimbura imidugudu atabanje kohereza mu murwa mukuru wayo Intumwa ibasomera amagambo yacu. Ndetse ntidushobora kurimbura imidugudu abayituye atari inkozi z'ibibi.

60. Kandi icyo mwahawwe cyose ni umunezero w'ubuzima bw'isi n'umutako wayo (by'ihi gito). Naho ibiri kwa **Allah** (ingororano) ni byo byiza kandi bizahoraho. Ese ntimugira ubwenge?

61. Ese uwo twasezeranyije isezerano ryiza (ijuru) maze akazaribona, ni kimwe n'uwo twahaye umunezero w'ubuzima bw'isi (akaba ari bwo ahitamo gusa) maze ku munsi w'imperuka akazaba mu bazazanwa (ngo bahanwe)?

62. Kandi (wibuke) umunsi (**Allah**) azabahamagara akavuga ati “Ese ibyo mwajyaga mumbangikanya na byo biri he?”

63. Ba bandi bazahamwa n'imvugo (y'ibihano) bazavuga batu “Nyagasanai! Bariya ni abo twayobeje. Twabayobeje nk'uko natwe twayobye. Turabihakanye imbere yawe! Rwose si twe basengaga.”

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَّهَارُسُولًا يَتُوَلِّهُمْ إِذَا تَأْتَاهُمْ وَمَا كُنَّا نَمُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهُمَاظَلَمُونَ ﴿٥٥﴾

وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَعُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ وَزَيَّنَهَا أَفَلَا تَعْقُلُونَ ﴿٦٠﴾

إِنَّمَا وَعَدَنَا وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَقِيهِ كَمَ مَسْتَعْنَاهُ مَمْتَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا هُوَ يَوْمُ الْقِيَمَةِ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦١﴾

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَرْغُمُونَ ﴿٦٢﴾

قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَعْوَيْنَا آَعْوَيْهِمْ كَمَا عَوَيْنَا بَرَانَا إِلَيْكَمَا كَانُوا إِلَيْنَا يَعْبُدُونَ ﴿٦٣﴾

64. Bazabwirwa bati “Ngaho nimuhamagare ibigirwamana byanyu! Maze babihamagare ariko ntibizabitaba. Nuko babone ibihano (bibategereje), maze (bicuze bavuga bati): Iyo tuza kuba twarayobotse.”

65. Kandi (wibuke) umunsi (**Allah**) azabahamagara akavuga ati “Ni iki mwasubije Intumwa (ku byo twazibatumyeho)?”

66. Bazabura icyo basubiza kuri uwo munsi kandi ntibazashobora kubazanya.

67. Ariko uzaba yaricujije, akemera (**Allah**) akanakora ibikorwa byiza, uwo azaba mu bakiranutsi.

68. Kandi Nyagasani wawe arema icyo ashakaakanahitamo (uwo aha ubutumwa), nta mahitamo (abantu) babigiramo. Ubutagatifu ni ubwa **Allah**, nta ho ahuriye n’ibyo bamubangikanya na byo.

69. Ndetse Nyagasani wawe azi ibyo ibituza byabo bihishe n’ibyo bagaragaza.

70. Kandi ni We **Allah**; nta yindi mana ikwiye gusengwa by’ukuri itari We. Ishimwe n’ikuzo byuzuye ni ibye ku ntangiriro (ku isi) no ku mperuka. Ni we uca

وَقَيْلَ أَدْعُوا شُرَكَاءَ كَمَا فَدَ عَوْهُمْ فَمَرِيَّسْتَجِبُوا  
لَهُمْ وَرَأُوا الْعَذَابَ لَوْأَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ  
٦٤

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا آجَبْتُمْ  
الْمُرْسَلِينَ  
٦٥

فَعَمِيتَ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَ مِيزِنَةِ فَهُمْ  
لَا يَتَسَاءَلُونَ  
٦٦

فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَأَمْنَ وَعِمِّلَ صَلِحَافَعَسَى  
أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ  
٦٧

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخَيْرُ  
سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشَرِّكُونَ  
٦٨

صُدُورُهُمْ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ  
وَمَا يُعْلِمُونَ  
٦٩

لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّاهُو  
وَالْآخِرَةَ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ  
٧٠

iteka, kandi iwe ni ho muzagarurwa.

71. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Nimumbwire! Ese **Allah** aramutse abashyiriye ijoro rihoraho kuzageza ku munsi w'imperuka, ni iyihe mana itari **Allah** yabazanira urumuri? Ese ntimwumva?”

72. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Nimumbwire! Ese **Allah** aramutse abashyiriye amanywa ahoraho kuzageza ku munsi w'imperuka, ni iyihe mana itari **Allah**, yabazanira ijoro muruhukamo? Ese ntimubona?”

73. No kubera impuhwe ze (**Allah**) yabashyiriye ijoro kugira ngo muriruhukemo, n'amanywa kugira ngo mushakishemo ingabire ze, (ibyo byose yabashyiriye) kugira ngo mubashe gushimira.

74. Kandi (wibuke) umunsi (**Allah**) azabahamagara akavuga ati “Ese ibyo mwajyaga mumbangikanya na byo biri he?”

75. Tuzazana umuhamya muri buri muryango (Umat), maze tuvuge tuti “Ngaho nimuzane ibimenyetso byanyu (bigaragaza ukuri kw'ibyo mwasengaga; maze babibure).” Ubwo ni bwo bazamenya ko ukuri ari ukwa

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أُلْيَالَ  
سَرَمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنِ إِنَّ اللَّهَ عَيْرَ اللَّهَ  
فَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٧٦﴾ يَا أَيُّتِكُمْ بِضِيَاءِ

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أُلْيَالَ  
عَيْرَ اللَّهِ سَرَمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنِ إِنَّ اللَّهَ  
يَا أَيُّتِكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ  
أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٧٧﴾

وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ أُلْيَالَ وَالنَّهَارَ  
لَتَسْكُنُوا فِيهِ وَلَا تَبْغُوا مِنْ فَضْلِهِ  
وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴿٧٨﴾

وَيَوْمَ يَأْدِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِي الَّذِينَ  
كُنْتُمْ تَرْعَمُونَ ﴿٧٩﴾

وَنَزَّعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا  
هَا تُؤْبِرُهُنَّا كُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ  
وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٨٠﴾

**Allah.** Kandi ibyo bihimbiye (biringira ko bizabakorera ubuvugizi kwa **Allah** ku munsi w'imperuka) bizabitarura babibure!

76. Mu by'ukuri Qaruna yari umwe mu bantu ba Musa, nuko abigiraho umwibone. Kandi twamuhaye ibigega by'ubutunzi ku buryo imfunguzo zabyo zaremereraga itsinda ry'abantu bafite imbaraga. (Wibuke) ubwo abantu be bamubwiraga batii "Ntukibone. Mu by'ukuri **Allah** ntakunda abibona."

77. Kandi ushake ubuturo bwo ku munsi w'imperuka mu byo **Allah** yaguhaye (ubitanga mu nzira nziza), ntuzanibagirwe umugabane wawe ku isi (kwishimisha bitanyuranye n'amategeko ya **Allah**), kandi ujye ugira neza nk'uko nawe **Allah** yakugiriye neza. Ndetse ntugakore ubwononnyi ku isi, mu by'ukuri **Allah** ntakunda abononnyi.

78. (Qaruna) aravuga ati "Mu by'ukuri ibi nabihawé kubera ubumenyi mfite." Ese (Qaruna) ntiyamenye ko **Allah** yarimbuye ibisekuru mbere ye byamurushaga imbaraga no kurundanya imitungo? Kandi inkozi z'ibibi ntizizabazwa

إِنَّ قَرْوَنَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُّوسَىٰ فَبَعْدَ  
عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ  
لَتَنْتَهُ بِالْعُصْبَةِ أُولَئِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ وَقَوْمُهُ  
لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾

وَأَبْتَغِ فِيمَا آتَنَاكَ اللَّهُ الدَّارُ الْأَخِرَةَ وَلَا تَنْسَ  
نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ  
وَلَا تَنْتَعِنْ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

قَالَ إِنَّمَا أُوقِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِيٍّ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ  
قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ شَدِّ  
مِنْهُ قُوَّةٌ وَكَثُرَ جُمَاعًا وَلَا يُسْكَلُ عَنْ دُرُّبِهِمْ  
الْمُجْرُمُونَ ﴿٧٨﴾

ibijyanye n'ibyaha byazo (kuko  
**Allah** abizi neza)!

79. Nuko (Qaruna) arasohoka  
agera mu bantu be (yambaye)  
imirimbo ye, maze ba bandi  
bakunda ubuzima bw'isi  
baravuga bati "Iyaba twari dufite  
nk'ibyahawé Qaruna (imitungo).  
Mu by'ukuri ni umunyamahirwe  
ahambaye."

80. Ariko ba bandi bahawebi  
ubumenyi baravuga batimba  
“Muramenye! Ibihembo byabili  
**Allah** ni byo byiza kuri wa wundi  
wemeye akanakora ibikorwa  
byiza.” Kandi ibyo ntibibonwa  
(n’uwo ari we wese) usibye  
abihangana.

81. Nuko tumurigitisha mu  
butaka we n'inzu ye, ntiyigeran  
abona itsinda rimutabara ritari  
**Allah**. Kandi na we ubwe  
ntiyashoboye kwitabara.

82. Maze abifuzaga urwego nk'urwe ku munsi wabanje, baravuga bati "Burya bwose! Allah yongerera amafunguro uwo ashaka mu bagaragu be akanayagabanya (ku wo ashaka). Iyo Allah ataza kutugirira ubuntu natwe yari kuturigitisha (mu butaka). Burya bwose! Abahakanyi ntibazakiranuka!"

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ  
 بُرِيُّدُونَ الْحَمِيمَةُ الدُّنْيَا يَلَيَّتَ لَنَا  
 مِثْلَ مَا أَوْقَى قَرُونُ إِنَّهُ لَدُوْحَظٌ عَظِيمٌ  
 ٧٩

وَقَالَ الْمَسِيحُ ابْنُ مُوسَى  
لِلْأَعْلَمِ وَيَكْلِمُ ثَابُتَ اللَّهِ  
وَلَا يُلْقِي هَمَّ حَيْرَ لِمَنْ أَمَّنَ  
وَعَمِلَ صَلَاحًا

فَخَسَقَنَا بِهِ وَبَدَارَهُ الْأَرْضُ فَمَا  
كَانَ لَهُ وَمَنْ فِعَّلَهُ يَصْرُونَهُ وَمَنْ دُونِ  
اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنَتَّصِرِينَ

وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنُوا مَكَانَهُ وَيَا الْأَمْمَـٰنِ  
يَقُولُونَ وَكَانَ اللَّهُ يَعْلَمُ الْإِرْقَـٰلَمْ  
بِسَاءَ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنَّ مَنْ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا<sup>١٣</sup>  
لَنْسَفَ بِتَأْوِيْكَانَهُ لَا يَقْلِمُ الْكَفَرُونَ<sup>١٤</sup>

83. Ubwo buturo bwa nyuma (Ijuru) twabugeneye ba bandi badashaka kwishyira hejuru cyangwa ngo bakore ubwononnyi ku isi. Kandi iherezo ryiza ni iry'abagandukira **Allah**.

84. (Kuri uwo munsi), uzaba yarakoze icyiza (ku isi) azabona icyiza kikiruta, n'uzaba yarakoze ikibi (amenye ko) abakoze ibibi nta kindi bazahembwa kitari ibyo bakoraga.

85. Mu by'ukuri uwaguhishuriye Qur'an (yewe Muhamadi) azanagusubiza ahantu hawe h'isezerano (Maka cyangwa mu Ijuru nyuma yo gupfa kwawe). Vuga uti "Nyagasani wanje ni We uzi neza uwayobotse (by'ukuri) ndetse n'uri mu buyobe bugaragara."

86. Kandi ntabwo wigeze utekereza ko uzahishurirwa igitabo (cya Qur'an), ariko ku bw'impuhwe za Nyagasani wawe (waragihishuriwe). Bityo ntuzashyigikire abahakanyi.

87. Kandi rwose (babangikanyamana) ntibazakubuze kugeza amagambo ya **Allah** (ku bantu) nyuma y'uko uyahishuriwe. Ujye unahamagarira (abantu) kugana

تِلْكَ الْدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ  
عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَنْ جَاءَ  
بِمُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا الْسَّيِّئَاتِ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا  
إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ لَرَادُكَ إِلَى  
مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ  
فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨٥﴾

وَمَا كُنْتَ تَرْجُوا أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ  
إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا  
لِلْكُفَّارِينَ ﴿٨٦﴾

وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنِّهِ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ  
إِلَيْكَ وَأَدْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ  
الْمُسْرِكِينَ ﴿٨٧﴾

Nyagasani wawe, ndetse ntuzabe mu babangikanyamana.

88. Kandi ntuzabangikanye **Allah** n'uwo ari we wese. Nta yindi mana ikwiriye gusengwa by'ukuri itari We. Buri kintu cyose kizarimbuka usibye uburanga bwe (**Allah**). Ni we ufite ubutware (bwa buri kintu) kandi Iwe ni ho muzasubizwa.

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخْرَى إِلَّا هُوَ  
وَلَا يُعْلَمُ شَيْءٌ بِهَا لِإِلَّا وَجْهَهُ وَلَا حُكْمُ  
وَلِإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

### 29 - SURAT AL ANKABUT

(IGITAGANGURIRWA)  
Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirongo 69.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya **Allah**, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Alif Laam Miim<sup>169</sup>

الْمَ

2. Ese abantu bibaza ko bazabaho batageragezwa kubera ko bavuze bati “Twaremeye?”

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتَكَوَّنُوا أَنْ يَقُولُوا إِنَّا  
وَهُنَّ لَا يُفْتَنُونَ

3. Kandi rwose twagerageje ababayeho mbere yabo; bityo nta gushidikanya ko **Allah** azi neza abanyakuri, kandi nta gushidikanya ko azi neza abanyabinyoma.

وَلَقَدْ فَتَنَاهُ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَإِنَّمَا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ  
صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

<sup>169</sup> Alif Laam Miim: Inyuguti nk'izi twazivuzeho mu masura (ibice) yatambutse.

4. Cyangwa ba bandi bakora ibikorwa bibi bibwira ko bazaducika? Rwose ibyo bibwira ni bibi.

5. Uwizera kuzahura na Allah, mu by'ukuri igihe ntarengwa Allah yagennye kizagera nta kabuza. Kandi We ni Uwumva bihebuje, Umumenyi uhebuje.

6. Kandi uzagira umuhate, uwo azaba abyigiriye ubwe. Mu by'ukuri Allah arihagije nta cyo akeneye ku biremwa byose.

7. Kandi ba bandi bemeye bakanakora ibikorwa byiza, rwose tuzababarira ibyaha, tunabagororere bihebuje kubera ibyo bakoraga.

8. Twanategetse umuntu kugirira neza ababyeyi be; ariko nibaramuka baguhatiye kumbangikanya n'ibyo udafitiye ubumenyi, ntuzabumvire. Iwanjye ni ho garukiro ryanyu, maze nkazababwira ibyo mwajyaga mukora.

9. Na ba bandi bemeye bakanakora ibyiza, rwose tuzabinjiza mu ntungane (mu ijuru).

10. No mu bantu hari abavuga bati "Twemeye Allah!" Ariko batotezwa bazira Allah, bagafata ibigeragezo by'abantu

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْتَقِعُونَا  
سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ  
الْسَّمِيعُ الْعَلِيمُ

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجْهَدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْهُ  
الْعَالَمِينَ

وَالَّذِينَ إِمَّا آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنَكَفَرُنَّ عَنْهُمْ  
سَيِّعَاهُمْ وَلَجَزِيَّاهُمْ أَحَسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ

وَوَصَّيْنَا إِلَيْنَاهُ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَهَدَاكَ  
لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لِكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطْعِهُمَا إِلَيَّ  
مَرْجِعُكُمْ فَإِنِّي شُكُّرٌ بِمَا كُنْتُ تَعْمَلُونَ

وَالَّذِينَ إِمَّا آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي  
الصَّالِحِينَ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ إِمَانًا بِاللَّهِ فَإِذَاً أُوذِيَ فِي اللَّهِ  
جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعْدَابَ اللَّهِ وَلَيْسَ جَاءَ نَصْرًا

nk'ibihano bya Allah (bagata ukwemera); nyamara ubutabazi buturutse kwa Nyagasani wawe bwagera (ku bemeramana), (indyarya) zikavuga ziti “Mu by'ukuri twari kumwe namwe.” Ese Allah si We uzi neza ibiri mu bituza by'ibiremwa byose?

11. Kandi Allah azi neza abemeye ndetse azi neza indyarya.

12. Na ba bandi bahakanye babwiye abemeye batii “Nimukurikire inzira yacu, tuzirengera ibyaha byanyu.” Nyamara ntibazigera birengera ibyaha byabo, ahubwo mu by'ukuri ni abanyabinyoma.

13. Kandi rwose ku munsi w'imperuka bazikorera imitwaro yabo hamwe n'indi mitwaro (y'abo bayobeje) yiyongereye ku yabo. Ndetse rwose kuri uwo munsi bazabazwa ibyo bahimbaga.

14. Kandi rwose twohereje Nuhu ku bantu be, abana na bo imyaka igihumbi iburaho mirongo itanu (abahamagarira kwemera Allah, ntibamwumvira). Nuko barimburwa n'umwuzure kandi bari inkozi z'ibibi.

١٠ ﴿ مِنْ رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ۚ ۱۰﴾

وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُسْفِقِينَ ۱۱

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَتَيْعُوا سَيِّلَانًا وَلَنْ حِمْلَ خَطَّابِكُمْ وَمَا هُمْ بِحَمِيلِينَ ۖ ۱۲  
مِنْ خَطَّابِهِمْ مَنْ شَاءَ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ۖ ۱۲

وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَلَا قَالَ أَمَّا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْعَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۖ ۱۳

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَمَّا فِيهِمُ الْفَسَادُ ۖ ۱۴  
سَنَةٌ إِلَّا حَمِسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الظُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ۖ ۱۴

15. Nuko turamurokora we n'abari mu nkuge, maze tubigira ikimenyetso ku biremwa byose.

فَلَمْ يَجِدْهُنَّهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آئِيَةً  
لِلْعَالَمِينَ ١٥

16. (Unibuke yewe Muhamadi) ubwo Ibrahimu yabwiraga abantu be ati “Nimugaragire **Allah** munamugandukire. Ibyo ni byo byiza kuri mwe, iyaba mwari mubizi.”

وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَأَنْتُوْهُ  
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَقْاْمُونَ ١٦

17. Rwose ibyo mugaragira bitari **Allah** ni ibigirwamana, maze mugahimba ikinyoma (mubyita Imana). Mu by'ukuri ibyo mugaragira bitari **Allah**, si byo bigenga amafunguro yanyu. Bityo nimushakire amafunguro kwa **Allah**, mumugaragire (wenyine) kandi mumushimire. Iwe ni ho muzasubizwa.

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَنَا وَخَلْقُونَ  
إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا  
يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ  
وَاعْبُدُوهُ وَأَشْكُرُوهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٧

18. Kandi nimuhinyura (Intumwa, mumenye ko) rwose n'abababanjirije barazihinyuye. Nta n'ikindi Intumwa ishinzwe usibye gusohoza ubutumwa ku buryo bugaragara.

وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَبَ أُمُّمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ  
وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا أَلْبَعَ الْمُجْرِمِينَ ١٨

19. Ese (abahakanyi) ntibabona uko **Allah** yaremye ibiremwa (bitari biriho) hanyuma akazanabigarura (nyuma yo gupfa)? Mu by'ukuri ibyo kuri **Allah** biroroshye.

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبَدِّئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ  
يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ١٩

20. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Nimutambagire ku isi maze murebe uko (**Allah**) yaremye ibiremwa (bitari biriho), hanyuma **Allah** akazongera kurema bwa nyuma (ku izuka). Mu by'ukuri **Allah** ni Ushobora byose.”

21. Ahana uwo ashaka, akanagirira impuhwe uwo ashaka; kandi iwe ni ho muzagarurwa.

22. Kandi ntabwo mwananira (**Allah**) haba ku isi cyangwa mu kirere. Nta n'undi murinzi cyangwa umutabazi mufite utari **Allah**.

23. Na ba bandi bahakanye amagambo ya **Allah** no kuzahura na We, ni bo bataye icyizere cyo kuzabona impuhwe zanje, kandi ni na bo bazahanishwa ibihano bibabaza.

24. Nta kindi cyari igisubizo cy'abantu be (Ibrahimu) uretse kuvuga bati “Mumwice cyangwa mumutwike!” Maze **Allah** amurokora umuriro. Mu by'ukuri muri ibyo harimo ibimenyetso ku bantu bemera.

25. Nuko (Ibrahimu) aravuga ati “Mu by'ukuri mwishyiriye ibigirwamana mu cyimbo cya

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ  
الْخَلْقُ ثُمَّ اللَّهُ يُشَيِّئُ النَّسَاءَ إِلَيْهِ أُكْرَاهَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى  
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

يُعَذَّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرَحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ  
تُقْلِبُونَ ﴿٢١﴾

وَمَا أَنْتُ بِمُعَجِّزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي  
السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا  
نَصِيرٌ ﴿٢٢﴾

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِيَاْيِتِ اللَّهِ وَلَقَائِهِ أُولَئِكَ  
يَسُوْءُونَ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ  
﴿٢٣﴾

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَقْتُلُوهُ  
أَوْ حَرِقُوهُ فَأَبْحَجَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٤﴾

وَقَالَ إِنَّمَا أُنْهَى دُنْهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْ كَنَا مَوْدَةً  
بِئْسَ كُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Allah, kugira ngo mushimangire urukundo hagati yanyu mu buzima bw'isi. Nyamara ku munsi w'imperuka bamwe bazi hakana abandi, banavumane. Kandi ubuturo bwanyu buzaba umuriro, ndetse nta n'abatabazi muzagira.”

26. Nuko Lutwi (Loti) yemera ubutumwa bwa Ibrahimu. Maze (Ibrahimu) aravuga ati “Nimukiye kwa Nyagasanwanjye kuko ari Umunyacyubahiro bihebuje, Nyirubugenge buhambaye.”

27. Maze (Ibrahimu) tumuha impano (yo kubyara) Isihaqa (Isaka) na Yaqubu (Yakobo). Nuko dushyira mu rubyaro rwe ubuhanuzi n'ibitabo. Tunamuha ibihembo bye hano ku isi (mu kuvugwa neza n'abantu bose), kandi ku munsi w'imperuka azaba ari mu ntungane.

28. Unibuke (yewe Muhamadi) ubwo Lutwi yabwiraga abantu be ati “Mu by'ukuri murakora ibikorwa by'urukozasoni bitigeze bikorwa n'uwo ari we wese mu biremwa.”

29. Ese koko mukora ubutinganyi n'abagabo (nkamwe), mugategera abantu ku nzira mugamije ubugizi bwa nabi, mukanakorera ibibi mu byicaro byanyu? Nta kindi

يَكُفُرُ بَعْضُهُمْ بِعَصْبٍ وَيَأْلِمُ بَعْضُهُمْ  
بَعْضًا وَمَا وَلَكُمْ أُثَارٌ وَمَا لَكُمْ مِنْ

تَصْرِيفٍ ٦٥

\* فَقَامَنَ لَهُ وَلُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى  
رَبِّيْتُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

٦٦

وَهَبَنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلَنَا  
فِي ذُرِّيَّتِهِ الْنُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَإِتَيْنَاهُ  
أَجْرَهُ وَفِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ وَفِي الْآخِرَةِ لَمِنَ  
الصَّالِحِينَ

٦٧

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ  
الْفَاجِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ  
الْعَلَمِينَ

٦٨

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّيْلَ  
وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ

cyabaga igisubizo cy'abantu be uretse kuvuga bati "Ngaho tuzanire ibihano bya Allah niba koko uri umwe mu banyakuri!"

30. (Lutwi) aravuga ati "Nyagasani! Ntsindira abantu b'abangizi."

31. Maze ubwo Intumwa zacu (Abamalayika) zageraga kuri Ibrahimu zimuzaniye inkuru nziza, zaravuze ziti "Mu by'ukuri tugiye kurimbura abatuye uyu mudugudu, kuko rwose abawutuye ari inkozi z'ibibi."

32. (Ibrahimu) aravuga ati "Ariko (muzirikane ko) harimo Lutwil" Baravuga bati "Twe tuzi neza abawurimo, rwose turamurokorana n'umuryango we, usibye umugore we uribube mu basigara (mu bihano)."

33. Nuko ubwo Intumwa zacu zageraga kwa Lutwi, byamuteye agahinda ahagarika umutima (atinya ko na zo zakorerwa ibya mfurambi), maze ziravuga ziti "Ntugire ubwoba ndetse ntunagire agahinda! Rwose turakurokorana n'umuryango wawe usibye umugore wawe uri busigare (mu bihano)."

قَوْمَهُ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَئْتَنَا بِعَذَابَ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُصَدِّقِينَ ﴿٢٩﴾

قَالَ رَبِّيْ أَنْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿٣٠﴾

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهِلُّكُوْا أَهْلِ هَذِهِ الْقُرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا أَظْلَمُ الْمِنْ ﴿٣١﴾

قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنْ نَجِيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَاتُهُ كَانَتْ مِنْ الْغَارِبِينَ ﴿٣٢﴾

وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سَيَّرَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذِرَّا وَقَالُوا لَا تَخْفَ وَلَا تَحْزَبْ إِنَّا مُنْجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أَمْرَاتُكَ كَانَتْ مِنْ الْغَارِبِينَ ﴿٣٣﴾

34. Mu by'ukuri turamanurira igihano giturutse mu kirere ku batuye uyu mudugudu kubera ubwononnyi bakora.

35. Ni n'uko rwose twawusizemo ikimenyetso kigaragara ku bantu basite ubwenge.

36. N'abantu b'i Mediyani twabohererereje umuvandimwe wabo Shuwayibu. Aravuga ati "Yemwe bantu banjye! Nimugaragire **Allah**, kandi mwizere (ibihembo byanyu) ku munsi w'imperuka. Ndetsen timugakwize ubwangizi ku isi."

37. Nuko baramuhinyura maze baterwa n'umutingito ukaze, bahinduka imirambo bapfukamye mu mazu yabo.

38. Kandi (twarimbuye) abantu bo mu bwoko bwa Adi n'abo mu bwoko bwa Thamudu, ndetsen rwose ibyo byabagaragariye ku mazu yabo (yabaye amatongo). Shitani yanabakundishije ibikorwa byabo (bibi) maze abakumira kugana inzira y'ukuri, kandi mu by'ukuri bari abanyabwenge.

إِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقُرْيَةِ رِجَّا  
مِنْ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَسْفُوْنَ ﴿٢٥﴾

وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آءِيَةً بَيْنَهَا لِقَوْمٍ  
يَعْقِلُوْنَ ﴿٢٦﴾

وَإِلَىٰ مَدِيْنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَقُوْمٌ  
أَعْبُدُوْا اللَّهَ وَأَرْجُوْا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْشُوْنَ  
فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿٢٧﴾

فَكَذَّبُوْهُ فَأَخْذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوْهُوْ فِي  
دَارِهِمْ جَنَّمِيْنَ ﴿٢٨﴾

وَعَادَا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ  
مَسَكِيْنِهِمْ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ  
أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ  
وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِيْنَ ﴿٢٩﴾

39. (Twanarimbuye) Qaruna, Farawo na Hamana. Kandi rwose Musa yabazaniye ibimenyetso bigaragara, ariko bagaragaje ubwibone ku isi; nyamara ntibaducitse.

40. Bityo, buri tsinda twarihaniye ibyaha byaryo; muri bo hari abo twoherereje inkubi y'umuyaga uvanze n'amabuye (abantu ba Lutwi), hari abakubiswe n'urusaku rw'ibihano (abantu ba Swalehe n'aba Shuwayibu), hari abo twarigitishije mu butaka (Qaruna), ndetse hari n'abo tvarohamishije (abantu ba Nuhu na Farawo n'ingabo ze). Kandi **Allah** ntiyigeze abarenganya, ahubwo ni bo ubwabo bihemukiye.

41. Urugero rw'abashyize ibigirwamana mu cyimbo cya **Allah** (biringiye ko hari icyo byabamarira) ni nk'igitagangurirwa cyiyubakiye inzu (cyiringiye ko ikomeye nta cyagihungabanya); ariko mu by'ukuri inzu yoroshye kurusha izindi ni inzu y'igitagangurirwa; iyaba bari babizi.

42. Mu by'ukuri **Allah** azi ibyo basaba bitari We. Kandi (**Allah**) ni Umunyembaraga, Nyirubugenge buhambaye.

وَقَرْوَنَ وَفَرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُّوسَى  
بِالْبَيِّنَاتِ فَأَسْتَكَبُرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا  
كَانُوا سَيِّقِينَ

فَكُلًا لَا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمَنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا  
عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ  
وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَقْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ  
أَعْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ  
كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

مَثَلُ الَّذِينَ أَخْذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلَيَاءَ  
كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ أَخْذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ  
أَوْهَنَ الْبَيْوَتَ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ  
كَانُوا يَعْلَمُونَ

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ  
شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

43. N'izo ni ingero duha abantu, ariko nta bandi bazisobanukirwa usibye abamenyi.

44. Allah yaremye ibirere n'isi mu kuri. Mu by'ukuri muri ibyo harimo ikimenyetso ku bemera.

45. Soma ibyo wahishuriwe mu gitabo (Qur'an), unahozezo iswala; mu by'ukuri iswala zibuza gukora ibiteye isoni n'ibibi. Kandi rwose gusingiza Allah biruta byose; ndetse Allah azi ibyo mukora.

46. Kandi ntimukajye impaka n'abahawe igitabo (Abayahudi n'Abanaswara, mubahamagarira kugana inzira y'ukuri) mutabikoze mu buryo bwiza; uretse abahemu (inkozi z'ibibi) muri bo (babarwanya). Munababwire muti "Twemeye ibyo twamanuriwe (Qur'an) n'ibyo mwamanuriwe (Ivanjili na Tawurati); ndetse Imana yacu ari yo Mana yanyu ni imwe rukumbi. Ariko twe tuyicishaho bugufi."

47. Uko ni ko twaguhishuriye (Yewe Muhamadi) igitabo (Qur'an), kandi abo twahaye igitabo (Tawurati n'Ivanjili, mbere yawe) baracyemeye (bemeye Qur'an bayoboka Isilamu); ndetse no muri abo

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضَرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ

خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِيَّةً لِلْمُؤْمِنِينَ

۴۱  
أَقْتُلُ مَا أُوحِيَ إِلَيَّكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقْرِئُ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

\* وَلَا تُجَدِّلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالْقَيْمَنِ أَحَسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُلُولُهُمْ إِمَامًا بِالَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْنَا وَإِنْزَلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُنَا وَحْدُونَا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ هُوَ لَأَءَادَ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِمَا أَنْزَلْنَا إِلَّا الْكُفَّارُونَ

(Abarabu) hari abacyemeye (Qur'an). Kandi nta we uhinyura amagambo yacu uretse abahakanyi.

48. Kandi ntabwo wigeze usoma igitabo mbere yayo (Qur'an), ndetse nta n'ubwo wigeze ucyandikisha ukuboko kwawe kw'iburyo. (Iyo biza kugenda bityo) abahinyura ukuri bari kuyishidikanyaho (bavuga ko wayiyandikiye).

49. Ahubwo iyo (Qur'an) ni imirongo isobanutse iri mu bituza by'abahawe ubumenyi. Kandi nta we uhakana amagambo yacu uretse abanyamahugu (abahakanyi).

50. Kandi (ababangikanyama) baravuze batu "Kuki (Muhamadi) atamanuriwe ibitangaza biturutse kwa Nyagasani we?" Vuga uti "Mu by'ukuri ibitangaza (byose) biri kwa **Allah**; naho njye ndi umuburizi ugaragara."

51. Ese ntibibahagije kuba twaraguhishuriye igitabo (Qur'an) basomerwa? Mu by'ukuri muri cyo harimo impuhwe n'urwibutso ku bantu bemera.

وَمَا كُنْتَ تَتَلَوْنُ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا  
تَخْطُلُهُ وَبِيَمِينِكَ إِذَا لَأَزْتَابَ الْمُبْطَلُونَ

٤٨

بَلْ هُوَ أَيَّتُهُ بَيْتَنَا فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا  
الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِأَيْتَنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ

وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ أَيَّتُهُ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا  
أَنْزَلْنَا إِنَّمَا أَنْزَلْنَا مِنْ رَبِّهِ مُبِينٌ ٥١

أَوْلَئِكَ فِيهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُشَكِّ  
عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذَكْرًا لِقَوْمٍ  
يُؤْمِنُونَ ٥١

52. Vuga (yewe Muhamadi) uti “**Allah** arahagije kuba umuhamya hagati yanje namwe. Azi ibiri mu birere n’ibiri ku isi. Naho ba bandi bemeye ikinyoma bakanahakana **Allah**, abo ni bo banyagihombo.”

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا  
يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَوْلَادُ  
إِمَانُوا بِالْبَطْلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ  
الْخَاسِرُونَ ﴿٥٩﴾

53. Banagusaba kwihutisha ibihano, nyamara iyo bitaza kuba igihe cyagenwe (cyo kubahaha), ibihano byari kubageraho. Kandi rwose bizabageraho bibatunguye, batabizi.

وَيَسْتَعِجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلُ مُسَمٍّ  
لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيهِمْ بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

٥٣

54. Bagusaba kwihutisha ibihano. Kandi mu by’ukuri umuriro wa Jahanamu uzagota abahakanyi.

يَسْتَعِجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لِمُحِيطَةٍ  
بِالْكُفَّارِ ﴿٥٤﴾

55. (Wibuke) umunsi (abahakanyi) bazatwikirwa n’ibihano bibaturutse hejuru no munsi y’ibirenge byabo, maze (**Allah**) akababwira ati “Nimwumve ingaruka z’ibyo mwajiyaga mukora.”

يَوْمَ يَغْشَلُهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ  
أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٥﴾

56. Yemwe bagaragu banje bemeye! (Niba mubuzwa kugaragira **Allah**, muzimuke kuko) mu by’ukuri isi yanje ni ngari. Bityo, mube ari Njye musenga Njyenine.

يَعْبَادُونَ الَّذِينَ إِمَانُوا إِنَّ أَرْضَى وَاسِعَةٌ فَإِيَّاهُ  
فَاعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

57. Buri roho izasogongera ku rupfu. Hanyuma iwacu ni ho muzasubizwa.

كُلُّ نَفْسٍ ذَآيَةٌ الْمَوْتُ شُرُّمٌ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٥٧﴾

58. Na ba bandi bemeye bakanakora ibikorwa byiza, rwose tuzabatuza mu magorofa yo mu Ijuru ritembamo imigezi; bazabamo ubuziraherezo. Ibyo ni ibihembo byiza by'abakora neza,

59. Ba bandi bihanganye bakaniringira Nyagasan wabo.

60. Ni bingahe mu biremwa bigenda ku isi bidashobora kwishakira amafunguro; **Allah** akaba ari We ubiha amafunguro ndetse namwe akayabaha? Kandi We ni Uwumva bihebuje, Umumenyi uhebuje.

61. N'yo ubabajije uti “Ni nde waremye ibirere n'isi akanacisha bugufi izuba n'ukwezi?” Rwose baravuga batu “Ni **Allah**.” None se ni gute bahinduka (bakareka ukuri bagakurikira ikinyoma?)”

62. **Allah** yongerera amafunguro uwo ashaka mu bagaragu be akanayagabanya ku wo ashaka. Mu by'ukuri **Allah** ni Umumenyi wa byose.

63. N'yo ubabajije uti “Ni nde umanura amazi mu kirere akayahesha isi ubuzima nyuma yo gupfa kwayo (gukakara)?” Rwose baravuga batu “Ni **Allah**.” Vuga uti “Ishimwe n'ikuzo byuzuye bikwiye **Allah**. Nyamara

وَالَّذِينَ ءامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَهُم مِّنَ  
الْجَنَّةِ عُرْقًا تَجْرِي مِنْ تَحْمِهَا أَلَّا تَهُرُّ خَلِيلُهُنَّ فِيهَا

نَعَمْ أَجْرُ الْعَمَلِينَ ٥٨

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٥٩

وَكَائِنُ مِنْ دَآبَةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا  
وَإِنَّهُ كُوْنٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٦٠

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ  
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ فَلَيْنَ يُؤْفَكُونَ ٦١

الَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُهُ  
إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٦٢

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا  
بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ اللَّهَ قُلْ الْحَمْدُ  
لِلَّهِ بِكُلِّ أَكْثَرِهِ لَا يَعْقِلُونَ ٦٣

abenshi muri bo nta bwenge bagira."

64. Kandi ubu buzima bw'isi nta kindi buri cyo uretse kuba ari umukino no kwinezaza, ariko mu by'ukuri ubuturo bwo ku munsi w'imperuka (Ijuru) ni bwo buzima nyakuri, iyaba bari babizi.

65. N'yo bagiye mu bwato (bagahuramo n'ingorane), basaba **Allah** bamwibombaritseho. Maze yabageza imusozi amahoro, bagahita bamubangikanya.

66. Kugira ngo bahakane ibyo twabahaye (tubarokora) kandi banishimishe. Ariko baraza kumenya (ingaruka z'ibyo bakoze).

67. Ese ntibabona ko twagize (Maka) ahantu hatagatifu kandi hatekanye, mu gihe mu nkengero zaho abantu bashimutwa? None se ibitari ukuri ni byo bemera hanyuma inema za **Allah** bakaba ari zo bahakana?

68. Ni nde nkozi y'ibibi kurusha uwahimbiye **Allah** ikinyoma, cyangwa uwahakanye ukuri kwamugezeho? Ese mu muriro wa Jahanamu si ho cyicaro (kibi) cy'abahakanyi?

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوَ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ  
الْآخِرَةَ لِهِيَ الْحَيَاةُ أَنَّ كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٤﴾

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفَلَكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخَصِّصِينَ لَهُ الدِّينَ  
فَلَمَّا جَهَّزُوهُمْ إِلَى الْمَرْءَةِ إِذَا هُمْ يُسْرِكُونَ ﴿٦٥﴾

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْقَ  
يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾

أَوْلَئِرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا إِمْنَا وَيُتَخَطَّفُ  
النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفِي الْبَطْلِ يُؤْمِنُونَ  
وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿٦٧﴾

وَمَنْ أَظْلَمُ مَنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ  
بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى  
لِلْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾

69. Kandi ba bandi bagira umuhate (mu nzira yacu itugana) kubera twe, rwose tuzabayobora inzira zacu. Ndetse mu by'ukuri **Allah** ari kumwe n'abakora ibyiza.

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهَدِيَنَّهُمْ سُبْلَنَا وَإِنَّ  
اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

### 30 - SURAT A-RUUM

(ABAROMA)

*Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirongo 60.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya **Allah**, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Alif Laam Miim<sup>170</sup>.

الْمَ

2. Abaroma baratsinzwe<sup>171</sup>,

عَلِيَّتِ الرُّومُ ﴿٢﴾

3. Mu gihugu cyo hafi (y'Abaperise)<sup>172</sup>. Arikoyu nyuma yo gutsindwa kwabo na bo bazatsinda.

فِي أَذْنَ الْأَرْضِ وَهُم مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ  
سَيَغْلِبُونَ ﴿٣﴾

<sup>170</sup> Inyuguti nk'izi twazivuzeho mu masura yatambutse.

<sup>171</sup> Ugutsindwa kw'Abaromani kuvugwa muri uyu murongo kwakomotse ku ntambara barwanagamo n'Abaperise. Muri icyo gihe ababangikanyamana b'i Maka bifuzaga ko Abaperise batsinda Abaromani kuko basengaga ibigirwamana nka bo, mu gihe ku rundi ruhande Abayisilamu bo bifuzaga ko Abaroma ari bo batsinda kuko bari Abanaswara.

<sup>172</sup> Igihugu kiri hafi y'Abaperise iyo ntambara yabereyemo ni aho bita Al Jazira hagati y'umugezi wa Tigre na Euphrate kuri ubu ni mubihugu bya Iraki, Siriya, Jordan na Palestina.

4. Mu myaka mike (iri hagati y'itatu n'icum)! Umwanzuro ni uwa Allah mbere (yo gutsinda kw'Abaroma) na nyuma (yaho). Kandi icyo gihe abemeramana bazishima,

5. Ku bw'inkunga ya Allah (azatera Abaromani bagatsinda Abaperise). Atera inkunga uwo ashaka kandi We ni Umunyacyubahiro bihebuje, Nyirimbabazi.

6. (Iryo) ni isezerano rya Allah, kandi Allah ntajya yica isezerano rye, ariko abenshi mu bantu ntibabizi.

7. Bazi gusa ibigaragara mu buzima bw'isi, nyamara bakirengagiza ubuzima bw'imperuka.

8. Ese ntibitekerezaho (ngo barebe uko Allah yabaremye)? Nta kindi cyatumye Allah arema ibirere n'isi ndetse n'ibiru hagati yabyo, uretse impamu y'ukuri ndetse anabigenera igihe ntarengwa (bizabaho)! Ariko mu by'ukuri abenshi mu bantu bahakana kuzahura na Nyagasani wabo.

9. Ese (abahakanyi) ntibatambagira isi ngo barebe uko iherezo ry'abababanjirije ryagenze? Bari abanyembaraga kubarusha, banahinga isi

فِي بِضَعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلٍ وَمَنْ بَعْدٌ  
وَيَوْمَ إِذْ يَقْرَئُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٤﴾

يَنْصَرِ اللَّهُ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْزِيزٌ  
الْرَّحِيمُ ﴿٥﴾

وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدُهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ  
لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ  
الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴿٧﴾

أَوَلَمْ يَتَكَبَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا حَلَقَ اللَّهُ أَسْمَوْاتِ  
وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَاجْلِ مُسَمَّى  
وَلَمْ كَيْرًا مِنَ النَّاسِ يُلْقَاهُ رَبِّهِمْ  
لِكُفَّارِونَ ﴿٨﴾

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ  
عَلِقَبَةُ الْذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً  
﴿٩﴾

kubarusha bakanayibyaza  
 umusaruro, ndetse  
 bakanayubaka kurusha uko bo  
 bayubaka. Banagezweho  
 n'Intumwa zabo zibazaniye  
 ibimenyetso bigaragara (ariko  
 barazihinyura, maze **Allah**  
 arabarimbura). **Allah** ntiyigeze  
 abarenganya, ahubwo ni bo  
 ubwabo bihemukiye.

10. Nuko ibyo biba iherezo ribi  
 kuri ba bandi bakoraga nabi,  
 kubera ko bahinyuye  
 amagambo ya **Allah**  
 (n'ibimenyetso  
 bye)  
 bakanayakerensa.

11. **Allah** ni We wahanze  
 ibiremwa bitari biriho,  
 akazanabigarura (abizura),  
 hanyuma Iwe ni ho  
 muzasubizwa.

12. N'igihe imperuka izabera,  
 inkozi z'ibibi ziziheba (zitakaze  
 icyizere cyo kurokoka).

13. Kandi ntibazagira abavugizi  
 mu bigirwamana byabo, ndetse  
 bazabyihakana.

14. N'umunsi imperuka izaba,  
 icyo gihe (abantu)  
 bazatandukana.

وَأَثَارُوا أَلْأَرْضَ وَعَمَّرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا  
 عَمَّرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا  
 كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ  
 يَظْلِمُونَ ٦١

ثُمَّ كَانَ عِلْقَبَةُ الَّذِينَ أَسْغَوْا السُّوَادَيْ أَنَّ  
 كَذَّبُوا بِيَقِيْنِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهِنُونَ ٦٢

اللَّهُ يَدْعُوا الْحَلَقَ ثُرِّيْعِدُهُ وَثُرِّيْأَيِّهِ تُنْجَعُونَ

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبَلِّسُ الْمُجْرِمُونَ ٦٣

وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ مِنْ شَرِكَائِهِمْ شُفَّاعُوا وَكَانُوا  
 يُشْرَكُوا بِهِمْ كَافِرِينَ ٦٤

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذْ يَتَفَرَّقُونَ ٦٥

15. Ba bandi bemeye  
bakanakora ibikorwa byiza,  
bazakirirwa mu busitani  
bishimye.

16. Naho ba bandi bahakanye  
bakanahinyura amagambo yacu  
ndetse no kuzahura n'umunsi  
w'imperuka, abo bazajyanwa  
mu bihano (by'umuriro).

17. Ngaho nimusingize **Allah**  
igihe mugeze nimugoroba [igihe  
cy'isengesho ry'umugoroba  
(Magharibi) n'rya nijoro (Isha-  
u)], ndetse n'igihe mugeze mu  
gitondo (igihe cy'isengesho rya  
mu gitondo).

18. Kandi ishimwe n'ikuzo  
byuzuye ni ibye mu birere no ku  
isi; (munamusingize) ku  
gicamunsi (igihe cy'isengesho  
rya Al Aswir) n'igihe mugeze mu  
gihe cy'amanywa (igihe  
cy'isengesho rya Adhuhur)<sup>173</sup>.

19. Akura ikizima mu kidafite  
ubuzima, akanambura ubuzima  
icyari kizima, ndetse agaha isi  
ubuzima nyuma yo gupfa kwayo  
(gukakara). Uko ni na ko  
muzazurwa.

فَإِنَّمَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي  
رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿١٥﴾

وَإِنَّمَا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَايَتِنَا وَلَقَاءِ  
الآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿١٦﴾

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تَمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿١٧﴾

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعِيشَيَا  
وَحِينَ تُظَهِرُونَ ﴿١٨﴾

يُخْرِجُ الْحَىٰ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىٰ  
وَيُخْرِجُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرِجُونَ ﴿١٩﴾

<sup>173</sup>-Ibn Abasi yavuze ko ibi ari byo bihe by'iswala eshanu z'itegeko byavuzwe muri Qur'an.

20. No mu bimenyetso bye (Allah), ni uko yabaremye abakomoye mu gitaka, none dore muri abantu bakwirakwiye ku isi.

21. No mu bimenyetso bye ni uko yabaremeye abagore ababakomoyemo (Hawa yakomotse mu rubavu rwa Adamu), kugira ngo mubabonemo ituze, anashyira urukundo n'impuhwe hagati yanyu. Mu by'ukuri muri ibyo harimo inyigisho ku bantu batekereza.

22. No mu bimenyetso bye (harimo) iremwa ry'ibirere n'isi no gutandukana kw'indimi zanyu ndetse n'amabara y'uruwu rwanyu. Mu by'ukuri muri ibyo harimo inyigisho ku bantu bafite ubumenyi.

23. No mu bimenyetso bye ni ugusinzira kwanyu nijoro no ku manywa, no gushakisha ingabire ze kwanyu (ku manywa). Mu by'ukuri muri ibyo harimo inyigisho ku bantu bumva.

24. No mu bimenyetso bye ni uko abereka imirabyo mukagira ubwoba (bw'inkuba) n'icyizere (cyo kubona imvura), akanamanura amazi mu kirere, akayahesha isi ubuzima nyuma yo gupfa kwayo (gukakara). Mu

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنَّ خَفَّكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا  
أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴿٢٠﴾

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنَّ حَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَرَوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَنْفَكِرُونَ ﴿٢١﴾

وَمِنْ ءَايَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  
وَلِخِلْفُ الْسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ ﴿٢٢﴾

وَمِنْ ءَايَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيلِ وَالنَّهَارِ  
وَأَبْتَغَأُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٢٣﴾

وَمِنْ ءَايَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرَقَ حَوْفًا وَطَمَعًا  
وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ

by'ukuri muri ibyo harimo inyigisho ku bantu bafite ubwenge.

٢٤ مَوْتَهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

25. No mu bimenyetso bye ni uko ikitere n'isi biriho ku bw'itegeko rye. Hanyuma nabahamagara umuhamagaro umwe (w'izuka), icyo gihe muzasohoka mu mva zanyu.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا آتَيْتُمْ تَحْرُجُونَ

26. Kandi ibiri mu birere no ku isi ni ibye. Byose bimwibombarikaho.

وَلَهُ مَنِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّهُ لَهُ قَاتِلُونَ

27. Ni We urema ibiremwa bitari biriho akazanabigarura (nyuma yo gupfa); kandi ibyo biroroshye kuri We. Anafite ibisingizo by'ikirenga mu birere no ku isi. Kandi ni Umunyacyubahiro bihebuje, Nyirubugenge buhambaye.

وَهُوَ الَّذِي يَبْدُؤُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهُونُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمِثْلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ أَعْزَيزُ الْحَكَمِ

28. (Allah) yabahaye urugero kuri mwe ubwanyu (agira ati) "Ese mwaba musangiyе n'abacakara banyu ibyo twabafunguriye kugeza ubwo babigizeho uburenganzira bungana n'ubwanyu; mukaba mubatinya (nk'abo muzagabana imitungo) nk'uko mutinya (kuyigabana) ubwanyu (mwe mutari abacakara? Niba mutabyishimira, ni gute mwumva ko Allah yabyishimira?) Uko ni ko

صَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ كُلَّ لَكُمْ مِّنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءِ فِي مَا رَزَقْنَكُمْ فَإِنَّمَا فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسُكُمْ كَذَلِكَ فُصِّلَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

dusobanurira amagambo (yacu) abantu bafite ubwenge."

29. Ahubwo abakora ibibi bakurikiye irari ryabo (bigana abakurambere babo) nta bumenyi babifitiye. None se ni nde wayobora uwo Allah yarekeye mu buyobe? Kandi ntibazagira abatabazi.

30. Bityo (yewe Muhamadi), shikama ku idini (Isilamu) ugaragira Allah wenyine; (kuko ari yo) kamere Allah yaremeye abantu. Nta guhindura kamere ya Allah yaremeye. Iryo ni ryo dini ritunganye, nyamara abenshi mu bantu ntibabizi.

31. Nimube abamwicuzaho, mumugandukire ndetse munahozeho iswala. Kandi muramenye ntimuzabe mu babangikanyamana,

32. Muri ba bandi batavuze rumwe mu idini ryabo nuko bagacikamo udutsiko, maze buri gatsiko kakishimira ibyako.

33. N'yo abantu bagezweho n'ingorane, basaba Nyagasan wabo bamwicuzaho. Maze yabasogongeza ku mpuhwe ze (abakiza izo ngorane), bamwe muri bo (bakongera) bakabangikanya (Nyagasan wabo),

بَلِ اتَّبَعَ الظَّالِمُونَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ قَمَنْ  
يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَصِيرٍ

فَأَقْرَأْتَ وَجْهَكَ لِلَّدِينِ حِنْيَقًا فِطَرَتَ اللَّهُ أَنْتِي  
فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِيلَ  
الَّدِينُ الْقَيْمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا  
يَعْلَمُونَ

\* مُنِينِينَ إِلَيْهِ وَأَتَقْوُهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا  
تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

مِنَ الَّذِينَ قَرَفُوا دِيَنَهُمْ وَكَانُوا شَيْعًا كُلُّ  
حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

وَإِذَا مَسَ الْنَّاسُ ضُرًّا دَعَوْرَبَّهُمْ مُنِينِينَ إِلَيْهِ شَمَّ  
إِذَا آذَ أَهْمَمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَرِئُهُمْ  
يُشَرِّكُونَ

34. Kugira ngo bahakane ibyo twabahaye (tubarokora). Ngaho nimwinezeze ariko (bidatinze) muzaba mumenya (ingaruka z'ibyo mwakoze).

لِيَكُفُرُوا بِمَا أَتَيْنَاهُمْ فَتَمَسَّوْفَ  
تَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾

35. Ahubwo se twaba twarabamanuriye ikimenyetso simusiga (igitabo), kikaba ari cyo kivuga (ukuri kw') ibyo bamubangikanya na byo?

أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَنًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا  
بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿٣٥﴾

36. N'yo dusogongeje abantu ku mpuhwe (ibyiza) barazishimira; ariko bagerwaho n'ingorane kubera ibyo bakoze, bakiheba.

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرَحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِيبُهُمْ  
سَيِّئَاتٌ مُّمَاقَدَّثٌ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٣٦﴾

37. Ese ntibabona ko Allah yongerera amafunguro uwo ashaka akanayagabanyiriza (uwo ashaka)? Mu by'ukuri muri ibyo harimo inyigisho ku bantu bemera.

أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَسْرُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٧﴾

38. Bityo, umuvandimwe wawe wa hafi, umukene ndetse n'uri ku rugendo, ujye ubaha ibyo ubagomba. Ibyo ni byo byiza kuri ba bandi bashaka kwishimirwa na Allah, kandi abo ni bo bakiranutsi.

فَقَاتِذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمُسِكِينَ وَأَيْنَ السَّبِيلُ  
ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ  
الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾

39. N'ibyo mutanga nka Riba<sup>174</sup> kugira ngo bitubukire mu mitungo y'abandi ntibishobora gutubuka kwa Allah. Ariko ibyo mutanga mu maturo mugamije kwishimirwa na Allah, abo (abakora nk'ibyo) ni bo bazatuburirwa (imitungo).

40. Allah ni We wabaremye maze abaha amafunguro, hanyuma akazabambura ubuzima (igihe cyo gupfa), akazanabubasubiza (igihe cy'izuka). Ese mu bigirwamana byanyu hari icyakora nk'ibyo? Ubutagatifu ni ubwe, kandi (Allah) nta ho ahuriye n'ibyo bamubangikanya na byo.

41. Ubwangizi bwagaragaye imusozi no mu nyanja kubera ibyo abantu bakoze bibi, kugira ngo (Allah) abasogongeze (ibihano) bya bimwe mu byo bakoze; bityo babashe kwisubiraho.

42. Vuga (yewe Muhamadi) uti "Nimutambagire ku isi maze murebe uko iherezo ry'ababayeho mbere (yanyu) ryagenze! Abenshi muri bo bari ababangikanyama."

وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ رِبَا لَيَرْبُوْ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ زَكَوْةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعُوفُونَ ﴿٣٩﴾

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمْتَكِّمُ ثُمَّ يُحْيِي كُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَاءِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مَنْ شَاءَ سُبِّحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشَرِّكُونَ ﴿٤٠﴾

ظَاهِرُ الْفَسَادِ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتِ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذْيِقُهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانَ أَكْثَرُهُمُ شَرِّكِينَ ﴿٤٢﴾

<sup>174</sup> Reba uko twasobanuye iri jambo muri Surat Al Baqarat, Ayat ya 275.

43. Ngaho (yewe Muhamadi) shikama ku idini ritunganye (Isilamu) mbere y'uko haza umunsi uturutse kwa Allah udashobora gusubizwa inyuma. Kuri uwo munsi (abantu) bazacikamo ibice (bibiri, icyo mu ijuru n'icyo mu muriro).

44. Uzahakana, ubuhakanyi bwe buzamugiraho ingaruka, naho uzakora ibikorwa byiza, abo bazaba biteganyirije (umwanya mwiza mu ijuru).

45. Kugira ngo (Allah) azahembe mu ngabire ze ba bandi bemeye bakanakora ibikorwa byiza. Mu by'ukuri (Allah) ntakunda abahakanyi.

46. No mu bimenyetso bye ni uko yohereza imiyaga itanga inkuru nziza kugira ngo abasogongeze ku mpuhwe ze (imvura), amato abashe kugenda ku bw'itegeko rye, ndetse no kugira ngo mushakishe mu ngabire ze, bityo mubashe gushimira.

47. Kandi rwose (yewe Muhamadi) twohereje Intumwa (nyinshi) ku bantu bazo mbere yawe, nuko zibagezaho ibimenyetso bigaragara (barazihinyura), maze duhana abigometse; kandi byari

فَأَقْمَ وَجْهَكَ لِلَّذِينَ أَقْتَمَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ  
لَّا مَرَدَّ لَهُ وَمِنَ اللَّهِ يُوْمٌ يَصْدَعُونَ

مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرٌ وَمَنْ عَمِلَ صَلَاحًا  
فَلَا نَفْسٌ هُوَ مَهْدُونَ

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَحَمَلُوا الصَّابَاحَتِ مِنْ فَضْلِهِ  
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

وَمِنْ أَيَّتِهِ أَنْ يُرِسِّلَ الرِّبَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذْيِقُمُ  
مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ  
فَضْلِهِ وَلَعَلَّ كُلُّ شَكُونَ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمَهُمْ فَجَاءُهُمْ  
بِالْبَيِّنَاتِ فَأَنْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا  
عَلَيْنَا نَاصِرُ الْمُؤْمِنِينَ

ngombwa kuri twe gutabara abemeramana.

48. Allah ni We wohereza imiyaga ikikorera ibicu (ikanabizamura), maze akabikwirakwiza mu kirere uko ashaka, maze akabigira ibice bice, nuko ukabona imvura ibisohokamo. Maze yayigeza ku bo ashaka mu bagaragu be bakishima,

49. N'ubwo mbere yaho, mbere y'uko bayimanurirwa bari bihebye.

50. Bityo reba ibimenyetso by'impuhwe za Allah, urebe uko aha isi ubuzima nyuma yo gupfa kwayo (gukakara). Ni ukuri rwose uwo ni We uzazura abapfuye kandi ni We Ushobora byose.

51. Kandi iyo tuza kohereza umuyaga (wangiza ibintu) maze bakabona (imyaka yabo) yahindutse umuhondo, nyuma yawo ntibyari kubabuza gukomeza guhakana.

52. Kandi mu by'ukuri wowe (Muhamadi) ntushobora kumvisha abapfu (ukuri), ndetse ntiwanumvisha ibipfamatwi umuhamagaro

اللَّهُ الَّذِي يُرِسِّلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فِي بَسْطَهُ وَفِي  
الْسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كَسَفًا فَتَرَى الْوَدَقَ  
يَخْرُجُ مِنْ خَلْلِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ  
عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبِّشُونَ ﴿٤٨﴾

وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ  
لَمْ يُبَلِّسِينَ ﴿٤٩﴾

فَانْظُرْ إِلَيْهِ أَثْرَ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحِيِّ الْأَرْضَ بَعْدَ  
مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لِمَحِّي الْمُوْتَقَ ﴿٥٠﴾ وَهُوَ عَلَى  
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥١﴾

وَلَئِنْ أَرَسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًا لَظَلُوا مِنْ بَعْدِهِ  
يَكْفُرُونَ ﴿٥٢﴾

فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُوْتَقَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ  
إِذَا وَلَّوْ مُدَبِّرِينَ ﴿٥٣﴾

(wawe) mu gihe bateye umugongo (ukuri) bakigendera.

53. Kandi ntiwanashobora kuyobora impumyi (uzikura) mu buyobe bwazo, ahubwo abo wumvisha ni abemera amagambo yacu, akaba ari na bo bicisha bugufi (Abayisilamu).

54. Allah ni We wabaremye muri abanyantege nke, nyuma y'intege nke abaha imbaraga, nyuma y'imbaraga abaha intege nke n'ubusaza. Arema ibyo ashaka, kandi We ni Umumenyi uhebuje, Ushobora byose.

55. N'igihe imperuka izaba, inkozi z'ibibi zizarahira zivuga ko zitigeze ziba (ku isi) usibye isaha imwe gusa (akanya gato). Uko ni na ko zateshwaga ukuri.

56. Ba bandi bahawe ubumenyi no kwemera bazavuga bat "Rwose mwabayeho ku bw'itegeko rya Allah (n'igeno rye) kugeza ku munsi w'izuka; bityo uyu ni wo munsi w'izuka, ariko ntimwari mubizi."

57. Bityo kuri uwo munsi urwitwazo rw'inkozi z'ibibi nta cyo ruzazimarira, kandi nta n'ubwo bazasabwa (gukora ibishimisha Allah).

وَمَا أَنْتَ بِهَدٍ لِّأَعْمَى عَنْ ضَلَالَةٍ هُمْ إِنْ تَسْمِعُ إِلَّا

مَنْ يُؤْمِنُ بِعَائِدَتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ٥٣

\*  
اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ ضَعْفٍ ثُرَجَعَ مِنْ

بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُرَجَعَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا

وَشَيْءَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ

٥٤

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا

لِشَوَّافِيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُوفِيْكُونَ ٥٥

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لِئَشُمُّ

فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ

وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٥٦

فِي يَوْمٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا

هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ٥٧

58. Kandi rwose twahaye abantu ingero zitandukanye muri iyi Qur'an. Ariko ba bandi bahakanye n'iyo wabazanira igitangaza (kigaragaza ukuri k'ubutumwa bwawe), baravuga bati "Nta kindi muri cyo usibye ko muri abiyita abo batari bo."

59. Uko ni ko Allah adanangira imitima y'abadafite ubumenyi.

60. Bityo, jya wihangana (yewe Muhamadi)! Mu by'ukuri isezerano rya Allah ni ukuri. Kandi ba bandi bafite ugushidikanya ntibakaguce intege (ngo batume udasohoza ubutumwa bwa Allah).

وَلَقَدْ صَرَّبَا لِلثَّابِسِ فِي هَذَا الْقُرْءَانِ مِنْ  
كُلِّ مَثَلٍ وَلِئِنْ جَعَّتْهُمْ بِعَايَةً لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ  
كَفَرُوا إِنَّ أَنْشِئَ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿٥٨﴾

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الظَّنِّ لَا يَعْمَلُونَ ﴿٥٩﴾

فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَكَ الَّذِينَ لَا  
يُوقِنُونَ ﴿٦٠﴾

31 - SURAT LUQMAN  
(LUKUMANI)

*Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirongo 34.*

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

Ku izina rya **Allah**, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Alif Laam Miim<sup>175</sup>

الْمَرْ

2. Iyo ni imirongo y'igitabo cyuje ubushishozi (Qur'an).

تَلَكَّ أَيْتُ الْكِتَابُ الْحَكِيمُ ①

3. Ni umuyoboro n'impuhwe ku bakora ibyiza.

هُدَىٰ وَرَحْمَةٌ لِلْمُحْسِنِينَ ②

4. Ba bandi bahozaho iswala, bakanatanga amaturo, ndetse bakanemera imperuka badashidikanya.

الَّذِينَ يُقْيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْلِمُونَ الزَّكُورَةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقُونُ ③

5. Abo ni bo bari mu tuyoboro uturuka kwa Nyagasan wabo, kandi ni na bo bakiranutsi.

أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدَىٰ مِنْ رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ④

6. No mu bantu hari uhitamo amagambo agandisha abantu gukora ibishimisha **Allah** (nka muzika n'ibindi nka byo) kugira ngo ayobye (abantu) abakura mu nzira ya **Allah** kubera kutagira ubumenyi, ndetse bakanakerensa (amagambo ya

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثُ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ يَعِيرُ عَلَيْهِ وَيَتَخَذَهَا هُرْزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ⑤

<sup>175</sup> Alif Laam Miim: Inyuguti nk'izi twazivuzeho mu masura yatambutse.

Allah). Abo bazahanishwa ibihano bisuzuguza.

7. N'yo asomewe amagambo yacu, ayatera umugongo yibona akigira nk'aho atayumvise, akamera nk'aho afite ibihato mu matwi. Bityo, muhe inkuru y'ibihano bibabaza.

8. Mu by'ukuri ba bandi bemeye bakanakora ibikorwa byiza, bazagororerwa ijuru ryuje inema,

9. Bazabamo ubuziraherezo. Isezerano rya Allah ni ukuri. Kandi ni Umunyacyubahiro bihebuje, Nyirubugenge buhambaye.

10. Yaremye ibirere nta nkingi mubona zibifashe, anashyira ku isi imisozi ishimangiyе kugira ngo (isi) itabahungabanya, ndetse anayikwizamo inyamaswa z'amoko yose. Kandi twamanuye amazi mu kirere, maze tumeza (ku isi) buri bwoko bwiza bw'ibimera.

11. Ibi ni ibiremwa bya Allah. Ngaho nimunyereke ibyo ibitari We byaremye? Ahubwo ababangikanyamana bari mu buyobe bugaragara.

وَإِذَا تُشَلِّي عَيْنَهُ إِذَا كُنَّا مُسْتَكِنِينَ  
يَسْمَعُهَا كَاتَبَ فِي أَذْنَيْهِ وَقَرَأَ فِي بَشَرِهِ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

٧

إِنَّ الَّذِينَ إِيمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَاحُ  
النَّعِيْمِ

خَلِدِينَ فِيهَا وَعَدَ اللَّهُ حَقًا وَهُوَ أَعْزَى  
الْحَكِيمُ

٩

حَقَّ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَنَّهَا وَالْقَمَرُ فِي الْأَرْضِ  
رَوَسَى أَنْ تَقِيدَ بِكُوْكُوْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ  
وَأَنْزَلَنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا شَاءَ فَأَنْبَتَنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ

كَرِيمٌ

هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرَوْنِي مَاذَا حَقَّ الَّذِينَ مِنْ  
دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

١١

12. Kandi rwose twahaye Luq'man ubushishozi, (turamubwira tuti) "Ngaho shimira Allah." Kandi ushimiye, mu by'ukuri (uko) gushimira ni we kugirira akamaro, naho uhakanye (ni we uba yihemukiye); rwose Allah arihagije (utamushimiye ntacyo bimutwara na gito), Ushimwa cyane.

13. Kandi (wibuke) ubwo Luq'man yabwiraga umwana we amugira inama ati "Mwana wanjye! Ntukabangikanye Allah, kuko mu by'ukuri ibangikanyamana ari ubuhemu buhambaye."

14. Twanategetse umuntu kugirira neza ababyeyi be. Nyina yamutwitanye imvune yiyongera ku zindi, anamucutsa ku myaka ibiri. Ngaho nshimira unashimire ababyeyi bawe. Iwanjye ni ho byose bizasubira.

15. Ariko (ababyeyi bawe) nibaramuka baguhatiye kumbangikanya mu byo udafitiye ubumenyi, ntuzabumvire; ariko uzababanire neza ku isi, kandi ujye ukurikira inzira y'unyicuzaho. Hanyuma iwanjye ni ho garukiro ryanyu, maze nkazababwira ibyo mwajyaga mukora.

وَلَقَدْ أَتَيْنَا لِقَمَنَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرْ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ حَمِيدٌ

وَإِذْ قَالَ لُقَمَنُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعْظُمُهُ يَبْتَئِلَ نُشْرِكَ بِاللَّهِ إِنَّ الْشَّرِكَ لِأَظْلَمُ عَظِيمٌ

وَوَصَّيْنَا إِلَيْنَسَنَ بِوَالَّدِيهِ حَمَاتَهُ أُمَّهُ وَهُنَّا عَلَىٰ وَهُنِّ رَفِضَلُهُ وَفِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالَّدِيهِكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَيْكَ أَنْ تُشْرِكَ بِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطْعِمُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفٌ وَأَتَيْتَهُمْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَإِنَّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

16. "Mwana wanjye! Mu by'ukuri, n'yo (icyiza cyangwa ikibi cyagira) uburemere bungana nk'ubw'akanyampeke gato cyane (Kharidali), kikaba kiri mu rutare, mu birere cyangwa se ikuzimu, **Allah** azakigaragaza (ku munsi w'imperuka). Mu by'ukuri, **Allah** ni Ugenza buhoro, Umumenyi uhebuje."

17. "Mwana wanjye! Jya uhozaho iswala, ubwirize (abantu) gukora ibyiza, unababuze gukora ibibi, kandi ujye wihanganira ibikubayeho (byose). Mu by'ukuri ibyo ni bimwe mu byo (buri muntu) agomba kwitwararika."

18. "Kandi ntukaneguze abantu umusaya wawe ubibonaho, ntukanagende ku isi wibonabona (ku bantu). Mu by'ukuri **Allah** ntakunda umunyagasuzuguro wese, w'umwibone."

19. "Kandi ujye ugenda wiyyorohereje ndetse n'ijwi ryawe uricishe bugufi. Mu by'ukuri ijwi ribi kurusha ayandi ni ijwi ry'indogobe."

20. Ese ntimubona ko **Allah** yaborohereje ibiri mu birere n'ibiri mu isi, akanabasenderezaho ingabire ze; izigaragara n'izitagagaragara?

يَبْنِي إِلَهًا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرَدِلٍ فَتَكُنْ فِي  
صَحْرَاءٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ  
إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ حَبِيرٌ ١٦

يَبْنِي أَقْرَبَ الصَّلَوةَ وَأَمْرَرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ  
الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرَمٍ  
الْأَمْرُور١٧

وَلَا تُصْعِرْ خَدَكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ  
اللَّهَ لَآيُوبُ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٌ ١٨

وَأَقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَأَعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ  
الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِير١٩

أَلْتَرَقَا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي  
الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وَظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمَنْ

Ndetse no mu bantu hari ujya impaka ku byerekeye Allah nta bumenyi, umuyoboro cyangwa igitabo kimumurikira.

21. N'yo babwiwe batii "Nimukurikire ibyo Allah yahishuye", baravuga batii "Ahubwo turakurikira ibyo twasanganye abakurambere bacu." Ese (bazakomeza gukurikira abakurambere babo) kabone n'yo Shitani yaba ibahamagarira kujya mubihano by'umuriro ugurumana?

22. Kandi uwicisha bugufi imbere ya Allah akaba anarangwa n'ibikorwa byiza, uwo aba afashe umugozu uboshye ukomeye. Ndetse kwa Allah ni ho herezo rya buri kintu.

23. Naho uzahakana, ubuhakanyi bwe ntibuzagutere agahinda! Iwacu ni ho garukiro ryabo maze tukazababwira ibyo bakoze. Mu by'ukuri Allah ni Umumenyi uhebuje w'ibiru mu bituza (by'abantu).

24. Tubanezeza igihe gito (hano ku isi), hanyuma (ku munsi w'imperuka) tukazabasunikira mu bihano bikomeye.

النَّاسُ مَنْ يُحَكِّمُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا  
كِتَابٌ مُّنِيرٌ ﴿٢٦﴾

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَتَبِعُوا مَا آنَزَ اللَّهُ قَاتِلُ الْأَبْلَى نَتَّيَعُ مَا  
وَجَدْنَا عَلَيْهِ إِبَاءَتَا أَوْلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ  
يَدْعُهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٢٦﴾

\* وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ  
أَسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوهَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عِقَبَةُ الْأَمْوَارِ

وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفُرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ  
فَنُنَتِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٦﴾

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُهُمْ إِلَى عَذَابٍ  
غَلِيظٍ ﴿٢٦﴾

25. N'yo ubabajije uti “Ni nde waremye ibirere n'isi?” Rwose baravuga bati “Ni **Allah**.” Vuga (yewe Muhamadi) uti “Ishimwe n'ikuzo byuzuye ni ibya **Allah!** Ariko abenshi muri bo ntibabizi.”

26. Ibiri mu birere n'ibiri mu isi ni ibya **Allah**. Mu by'ukuri **Allah** ni We Uwhagije, Ushimwa cyane.

27. N'yo ibiti byose byo ku isi byahinduka amakaramu, inyanja (zigahinduka wino) zikanunganirwa n'izindi nyanja ndwi, ntabwo byakwandikishwa amagambo ya **Allah** ngo biyarangize. Mu by'ukuri **Allah** ni Umunyacyubahiro bihebuje, Nyirubugenge buhambaye.

28. (Yemwe bantu) ukuremwa kwanyu ndetse no kuzurwa kwanyu mwese (byoroshye nko kurema no kuzura) umuntu umwe. Mu by'ukuri **Allah** ni Uwumva cyane, Ubona bihebuje.

29. Ese ntubona ko **Allah** yinjiza ijoro mu manywa, akaninjiza amanywa mu ijoro, ndetse akaba yaranacishije bugufi izuba n'ukwezi (ku bw'inyungu z'ibiremwa), buri kimwe kikazenguruka (mu mbibi zacyo)

وَلَيْسَ سَائِلُهُمْ مَنْ حَقَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ  
لَيَقُولُنَّ اللَّهُمَّ قُلْ لَحْمَدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا

يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ

الْحَمْدُ ﴿٢٧﴾

وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمُهُ وَالْبَحْرُ  
يَمْدُدُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفَدَتْ  
كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾

مَا خَلَقْتُكُمْ وَلَا بَعْثَكُمْ إِلَّا كَنَفِيسٍ وَحِدَةٍ إِنَّ  
اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٢٩﴾

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ  
النَّهَارَ فِي الْأَيَّلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي  
إِلَى أَجَلٍ مُّسَمٍّ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ حَنِيرٌ ﴿٣٠﴾

ku gihe cyagenwe? Kandi Allah azi bihebuje ibyo mukora.

30. Ibyo ni ibigaragaza ko Allah arri We w'ukuri, naho ibyo basenga bitari We ko ari ibinyoma, kandi ko Allah arri Uwikirenga, Usumba byose.

31. Ese ntubona ko amato agenda mu nyanja ku bw'ingabire za Allah kugira ngo abereke bimwe mu bimenyetso bye? Mu by'ukuri muri ibyo harimo ibimenyetso kuri buri wese wihangana cyane, unashimira.

32. N'yo umuhengeri ubatwikiriye nk'igicucu ubagose ugasa nk'ugije kubarenga hejuru, basaba Allah bamwibombaritseho, ariko yabageza imusozi amahoro, bamwe muri bo bagahitamo kuba hagati (yo kwemera no guhakana). Kandi nta we uhinyura amagambo yacu uretse umuhemu ruharwa, umuhakanyi uhambaye.

33. Yemwe bantu! Nimugandukire Nyagasani wanyu, munatinye umunsi umubyeyi atazagira icyo amarira umwana we, cyangwa ngo umwana agire icyo amarira umubyeyi we. Mu by'ukuri isezerano rya Allah ni ukuri. Bityo ubuzima bw'isi

ذَلِكَ يَأْنَ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ

الْبَطِلُ وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ أَعَلٰى الْكَبِيرِ ﴿٢٣﴾

أَلَّا تَرَأَنَ الْفُلَكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ  
لِيُرِيكُمْ مِنْ عَائِتَةٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ  
صَبَابِ رِشَادِكُورِ ﴿٢٤﴾

وَإِذَا غَشَيْهُمْ مَوْجٌ كَأَطْلَلَ دَعَوْا اللَّهَ مُحْلِصِينَ  
لَهُ الَّذِينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَنَهُمْ مُقْتَصِدُوْمَا  
يَجْحَدُ دِيَارِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَارٍ كَفُورِ ﴿٢٥﴾

يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاحْشُوا يَوْمًا لَا  
يَجْزِي وَالَّدُّ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَنْ  
وَالَّدُوْدِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغْرِيْكُمْ

ntibuzabashuke cyangwa ngo umushukanyi mukuru (Shitani) abashuke abakura mu nzira ya Allah.

34. Mu by'ukuri Allah ni We ufite ubumenyi bw'igihe imperuka izabera; (ni na We) umanura imvura kandi azi n'ibirri muri nyababyeyi. Nta muntu ushobora kumenya icyo azabona (azageraho) ejo, ndetse nta n'umenya aho azagwa. Mu by'ukuri Allah ni Umumenyi uhebuje, Uzi byose.

الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغْرِنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ

٣٣

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ  
وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضَ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّا ذَرَ  
تَكْسِبُ غَدَاءً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ  
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَمِيرٌ

**32 - SURAT A-SAJDAT**  
(KUBAMA)  
Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirongo 30

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Alif Laam Miim<sup>176</sup>.

الْمَ

2. Ihishurwa ry'igitabo  
kidashidikanywaho (Qur'an)  
ryaturutse kwa Nyagasani  
w'ibiremwa byose.

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَبَّ لَهُ مِنْ رَبٍّ  
الْعَلَمَيْنَ

<sup>176</sup> Inyuguti nk'izi twazivuzeho mu masura yatambutse.

3. Cyangwa bavuga ko (Muhamadi) ari we wayihimbye? (Si ko bimeze), ahubwo yo ni ukuri kwaturutse kwa Nyagasani wawe ngo uyifashishe mu kuburira abantu batagezweho n'umuburizi uwo ari we wese mbere yawe kugira ngo bayoboke.

4. **Allah** ni We waremye ibirere n'isi n'ibiriri hagati yabyo mu minsi itandatu, hanyuma aganza hejuru ya Ar'shi<sup>177</sup>. Nta wundi murinzi cyangwa umuvugizi muzagira utari We. Ese ntawo mwibuka?

5. Ayoborera mu kirere gahunda zose (z'ibiremwa) zigana ku isi, maze zikazamuka zigana iwe mu munsi umwe ungana n'imyaka igihumbi mu yo mubara (ku isi).

6. Uwo (**Allah**) ni Umumenyi w'ibiyishe n'ibigaragara, Umunyacyubahiro bihebuje, Nyirimbabazi.

7. We watunganyije buri kintu yaremye, akanatangira iremwa ry'umuntu utari uraho, amuremye mu ibumba.

8. Hanyuma agena ko kororoka kwa muntu bizabaho binyuze mu mazi aciriritse (intanga).

أَمْ يَقُولُوْتَ أَفْتَرَنَهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ  
لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا آتَيْتَهُمْ مِنْ تَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ  
لَعَلَّهُمْ يَهَتَّدُوْنَ ﴿٣﴾

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا  
فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ  
دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٤﴾

يُدِيرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْوِجُ إِلَيْهِ فِي  
يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مَمَّا تَعْدُوْنَ ﴿٥﴾

ذَلِكَ عَدْلِيُّ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

الَّذِي أَحَسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلَقَ  
أَلْإِنْسَنَ مِنْ طِينٍ ﴿٦﴾

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ﴿٧﴾

<sup>177</sup> Reba ibisobanuro by'iri jambo muri Surat ul A'raf, aya ya 54.

9. Maze aramutunganya, amuhuhamo roho imuturutseho; abaha ukumva, amaso n'umutima. Ariko ni gake (yemwe bantu) mushimira!

لَمْ يُسَوَّلْهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمْ  
الْأَسْمَعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْعَدَةَ قَلِيلًا مَا  
تَشْكُرُونَ ﴿٩﴾

10. Baranavuga bati “Ese (nidupfa) tukaburira mu gitaka, tuzasubizwa ubuzima bundi bushya?” Ahubwo bo bahakana kuzahura na Nyagasan wabo.

وَقَالُوا إِذَا ضَلَّنَا فِي الْأَرْضِ أَءَنَا لَفِي خَلْقٍ  
جَدِيدٍ بَلْ هُمْ يَلْقَاءُونَ رِبِّهِمْ كُفَّارُونَ ﴿١٠﴾

11. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Malayika w'urupfu ubashinzwe azabatwara ubuzima; hanyuma kwa Nyagasan wanyu ni ho muzasubizwa.”

\* قُلْ يَوْمَ دِكْرُ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُلِّ شَيْءٍ  
إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١١﴾

12. (Wari kubona bikomeye) iyaba wari kuzabona inkozi z'ibibi zubitse imitwe imbere ya Nyagasan wazo (zigira ziti) “Nyagasan! Twabonye kandi twumvise (ukuri kw'ibyo twahakanaga). Bityo, dusubize (ku isi) dukore ibikorwa byiza. Mu by'ukuri (ubu) twamenye ukuri!”

وَلَوْ تَرَى إِذَا الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسَهُمْ  
عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجَعْنَا  
نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿١٢﴾

13. N'yo tuza kubishaka buri wese twari kumuha ukuyoboka kwe, ariko imvugo (y'ibihano) inturutseho ni impamo ko rwose nzuzuza umuriro wa Jahanamu amajini n'abantu bose hamwe.

وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَّاهَا  
وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمَلَّانَ جَهَنَّمَ مِنَ  
الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٣﴾

14. Ngaho nimwumve (ibihano) kubera kwibagirwa ko muzahura n'uyu munsi wanyu, mu by'ukuri natwe twabibagiwe; kandi nimwumve ibihano bizahoraho kubera ibyo mwajyaga mukora.

15. Mu by'ukuri abemera amagambo yacu, ni ba bandi baca bugufi bakubama igihe bayibukijwe, basingiza ishimwe n'ikuzo bya Nyagasani wabo, kandi batibona.

16. Begura imbavu zabo mu buryamo bwabo kugira ngo basabe Nyagasani wabo batinya (ibihano) kandi bizera (ingororano ze), ndetse bakanatanga mu byo twabafunguriye.

17. Nta n'umwe uzi ibyo bahishiwe biryoheyeye ijisho, bizaba ingororano z'ibyo bajyaga bakora.

18. Ese uwemera (*Allah*) ni kimwe n'inkozi y'ibibi? Ntibashobora kureshyia (imbere ya *Allah*).

19. Ba bandi bemeye bakanakora ibikorwa byiza, bazagororerwa ubuturo mu ijuru nk'izimano ry'ibyo bajyaga bakora.

فَذُوقُوا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمَكُمْ هَذَا إِنَّ  
نَسِيْتُكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخَلِيلِ بِمَا  
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِعَايَتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرَفُوا  
سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا  
يَسْتَكِنُونَ ﴿١٧﴾

تَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ  
خَوْفًا وَطَمَاعًا وَمَمَّارَزَقَهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿١٨﴾

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفَى لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ  
جَزَاءً إِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوْنَ ﴿٢٠﴾

أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ  
جَنَّتُ الْمَأْوَى نُزُلًا إِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢١﴾

20. Naho inkozi z'ibibi, ubuturo bwazo buzaba umuriro; buri uko bazajya bashaka kuwuvamo, bazajya bawusubizwamo maze babwirwe bati “Ngaho nimwumve ibihano by’umuriro mwajyaga muhakana!”

21. Kandi rwose tuzabasogongeza kubihano bya hafi (hano ku isi) mbere y’ibihano bihambye (byo ku munsi w’imperuka) kugira ngo bisubireho.

22. Ese ni nde muhemu kurusha uwibutswa amagambo ya Nyagasani we maze akayatera umugongo? Mu by’ukuri tuzihorera ku nkozi z’ibibi.

23. Kandi rwose twahaye Musa igitabo (Tawurati). Bityo, ntuzagire ugushidikanya ko kuzahura na we<sup>178</sup>. Kandi twakigize umuyoboro kuri bene Isiraheli.

24. Kandi bamwe muri bo (bene Isiraheli) twabagize abayobozi bayobora ku bw’itegeko ryacu, ubwo bihanganaga bakanemera amagambo yacu batayashidikanyaho.

وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَا أُولَئِمُ اتَّنَارُ كُلَّمَا أَرَادُوا  
أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أَعْيُدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ دُوْقُونُ  
عَذَابُ اتَّنَارِ الَّذِي كُنُّتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٦﴾

وَلَنُذِيقَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ أَلَّا يَدْرِي دُونَ الْعَذَابِ  
الْأَكْثَرُ بِلَعَبَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٦﴾

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِإِيمَانِهِ ثُمَّ أَعْرَضَ  
عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ﴿٦﴾

وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ  
مِنْ لِقَاءِهِ وَرَجَعْنَا مُهَمَّدَى لِبَنِ إِسْرَائِيلَ ﴿٦﴾

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةً يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا  
وَكَانُوا إِيمَانَنَا أُوقِنُونَ ﴿٦﴾

<sup>178</sup> Abazahura bavugwa muri uyu murongo ni Musa na Muhamadi (Imana ibahe amahoro n’imigisha) ubwo bahuraga mu ijoro rya Is’ra-i na Miraji, igahe Inumwa Muhamadi yavanwaga i Maka akajyanwa i Yeruzalemu hanyuma akajyanwa mu Ijuru.

25. Mu by'ukuri Nyagasan iyo wawe ni We uzabakiranura ku munsi w'imperuka mu byo batavugagaho rumwe.

26. Ese ntibabera ikimenyetso iyo bibajije umubare w'ibisekuru twarimbuye mbere yabo, bakaba banyura mu matongo yabyo? Mu by'ukuri muri ibyo harimo ibimenyetso; ese ntibumva?

27. Ese ntibabona uko twohereza amazi ku butaka bwumagaye, tukayeresha ibimera bitanga amafunguro ku matungo yabo ndetse na bo ubwabo? Ese ntibabona?

28. Baranavuga bati "Ese uko kudukiranura kuzaba ryari, niba muri abanyakuri?"

29. Vuga (yewe Muhamadi) uti "Ku munsi w'urubanza, ukwemera kwa ba bandi bahakanye nta cyo kuzabamarira kandi ntibazarindirizwa (kugira ngo bicuze)."

30. Ngaho bitarure ubirengagize unategereze (ibizababaho), mu by'ukuri na bo bategereje (ibizakubaho).

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَقْصُلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٢٥﴾

أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكَنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مَنْ أَلْقَرُونَ يَمْسُونَ فِي مَسَكِنِهِمْ إِنَّهُ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٦﴾

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنَخْرُجُ بِهِ رَزْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَعْمَمُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبَصِّرُونَ ﴿٢٧﴾

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٨﴾

قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنَظَّرُونَ ﴿٢٩﴾

فَأَغْرِضُ عَنْهُمْ وَأَنْتَطِرِ إِنَّهُمْ مُّنْتَظَرُونَ ﴿٣٠﴾

33 - SURAT AL AHZAB  
(UDUTSIKO)

Yahishuriwe i Madina, igizwe n'imirongo 73.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

Ku izina rya **Allah**, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Yewe Muhanuzil! (Komeza) ugandukire **Allah**, kandi ntukumvire abahakanyi ndetse n'indyarya. Mu by'ukuri **Allah** ni Umumenyi uhebuje, Nyirubugenge buhambaye.

يَا أَيُّهَا الَّذِي أَنْقَلَ اللَّهَ وَلَا نُطْلِعُ الْكَافِرِينَ  
وَالْمُنَفِّقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

۱

2. Kandi jya ukurikira ibyo uhishurirwa bituruka kwa Nyagasani wawe. Mu by'ukuri **Allah** ni Umumenyi uhebuje w'ibyo mukora.

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا

۲

3. Uniringire **Allah**. Kandi **Allah** arahagije kuba Umurinzi.

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبِهِ فِي جَوَافِهِ وَمَا  
جَعَلَ أَزْوَاجَهُمُ الَّتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ  
أَمْهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَذْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ

4. **Allah** ntiyashyize imitima ibiri mu gituza cy'umuntu, ndetse nta n'ubwo abagore banyu yabagize ba nyoko nyuma y'uko mubagereranyije na bo murahirira kutazongera kubonana na bo<sup>179</sup>. Nta n'ubwo abana mwareze mukabiyitirira

<sup>179</sup>Muri Isilamu ntibyemewe ko umugabo yarahira ko atazongera kugirana imibonano mpuzabitsina n'umugore we amugereranyije na nyina. Iyo umugabo amaze kurahira gutyo hanyuma agashaka kongera kubonana na we, icyo gihe ategetswe kubanza kubohora umucakara, atamubona agasiba amezi abiri akurikiranye, atabishobora akagaburira abakene mirongo itandatu nk'uko bigaragara mu Isurat ya 58 (Al Mudjadilat), umurongo wa 3 kugeza ku wa 4.

yabagize abana banyu (b'ukuri). Ayo ni amagambo yanyu mwivugira. Kandi Allah avuga ukuri, ni na We uyobora inzira itunganye.

5. (Abo bana mwareze) mujye mubitirira ba se, ibyo ni byo bikwiye imbere ya Allah. Ariko niba mutazi ba se, mujye mubita abavandimwe banyu mu idini cyangwa inshuti zanyu. Kandi nta cyaha mubarwaho ku byo mwakoze mutabizi, ariko muzabazwa ibyo mukora mubigambiriye. Kandi Allah ni Ubabarira ibyaha, Nyirimpuhwe.

6. Umuhanuzi (Muhamadi) ni we ufite agaciro ku bemeramana kurusha ako bifiteho ubwabo, ndetse n'abagore be ni ababyeyi babo (ku bw'icyubahiro bakwiye ndetse no kuba batashakwa n'abandi bagabo). Kandi abafitanye isano ni bo b'ibane (mu kuzungurana) kurusha (ukuzungurana gushingiye ku buvandimwe bwo) kwemera ndetse (n'ubushingiye) ku kwimuka (kw'abavuye i Maka bajya i Madina) nk'uko biri mu gitabo cya Allah, uretse igihe mugiriye ineza (muha umurage) inshuti zanyu magara. Ibyo (ni ibisanzwe) biranditse mu gitabo.

قَوْلُكُمْ بِأَفْوَهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ  
يَهْدِي السَّيِّلَ ﴿٤﴾

أَدْعُوهُمْ لِأَبَاهُمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ لَمْ  
تَعْمَلُوا إِبَاهُمْ فَإِنَّهُمْ فِي الْذِينِ وَمَوَالِيهِمْ  
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ  
وَلَكِنَّ مَا تَعْمَدَتُ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ  
غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

الَّتِي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ  
وَأَرْوَجُهُمْ وَأَمْهَاتُهُمْ وَأَوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ  
أَوْلَى بِيَعْصِيِنِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  
وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَيْنَا أُولَئِكَ  
مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾

7. (Unibuke) ubwo twagiranaga isezerano n'abahanuzi, ndetse (turigirana) nawe (Muhamadi), na Nuhu, na Ibrahimu, na Musa, na Issa mwene Mariyamu. Kandi twagiranye nabo isezerano rikomeye cyane.

8. Kugira ngo (**Allah**) azabaze abanyakuri ibijyanye n'ukuri kwabo. Kandi yateganyirije abahakanyi ibihano bibabaza.

9. Yemwe abemeye! Nimwibuke inema za **Allah** yabahundagajeho, ubwo ingabo zabateraga, tukazoherezamo umuyaga n'ingabo mutabonaga (Abamalayika). Kandi **Allah** ni Ubona bihebuje ibyo mukora.

10. Ubwo zabateraga zibaturutse haruguru no hepfo yanyu mukanuye amaso, imitima yabageze mu ngoto (kubera ubwoba), mutangiye gukekera **Allah** byinshi.

11. Aho abemera barahageragerejwe, banahindishwa umushyitsi ukomeye cyane.

12. (Unazirikane) ubwo indyarya n'abafite uburwayi mu mitima yabo (bwo gushidikanya) bavugaga batu "Ibyo **Allah** n'Intumwa ye badusezeranyije ni ibinyoma".

وَإِذْ أَخْذَنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيقَاتَهُ وَمِنْكَ وَمِنْ  
نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أُبْنَ مَرْيَمَ وَأَخْذَنَا  
مِنْهُمْ مِيقَاتَهُمْ إِنَّا لَغَلِيلُهُمْ ﴿٧﴾

لِيُسْكَلُ الصَّدِيقِينَ عَنْ صَدْقَتِهِمْ وَأَعَدَ لِلْكُفَّارِ  
عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٨﴾

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نُعْمَانَ اللَّهِ عَلَيْهِ كُفُّوكُمْ إِذْ  
جَاءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ  
تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٩﴾

إِذْ جَاءَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ  
وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَرُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ  
وَتَظَاهَرُوا بِاللَّهِ الظَّنُونُ ﴿١٠﴾

هُنَالِكَ أَبْتُلُ الْمُؤْمِنَوْنَ وَرُلَّنُوا زِلَّا لَأَشْدِيدَا  
﴿١١﴾

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَفِّقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ  
مَرْضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا  
﴿١٢﴾

13. Kandi (wibuke) igihe bamwe muri bo bavugaga bati “Yemwe bantu ba Yathiribu (Madina)! Nta mpamvu yo kuba muri hano (murwana urugamba mutatsinda), nimwitahire. Nuko bamwe muri bo basaba umuhanuzi (Muhamadi) uburenganzira (bwo kutajya ku rugamba) bavuga bati “Rwose ingo zazu ntawe twazisizeho”, kandi atari ko biri. Nyamara nta kindi bashakaga usibye guhunga.

14. N’yo baza guterwa (n’ingabo) ziturutse mu mpande zazo zose (umujiyi wa Madina), bakageragezwa basabwa (guhakana ukwemera kwabo) nta shiti bari kubikora batazuyaje, ndetse nta n’ubwo bari gutindiganya (guhakana).

15. Ndetse rwose mbere, bari barasezeranyije Allah ko batazuhungu urugamba. Kandi isezerano rya Allah bazaribazwa.

16. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Guhunga nta cyo byabamarira mubaye muhunga urupfu cyangwa kwicwa, kandi ntimwanezezwu (n’ubuzima bw’isi) usibye igihe gito (mwagenewe cyo kubaho)”

وَإِذْ قَاتَ طَلَابَةً مِّنْهُمْ يَأْهَلَ يَثْرَبَ لَا  
مُقَامَ لَكُمْ فَأَرْجِعُوهُ وَيَسْتَعِذُنَ فِرِيقٌ مِّنْهُمْ  
الَّتِي يَقُولُونَ إِنَّمَا يُوْتَنَا عَوْرَةً وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ  
إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿١٣﴾

وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُلِّمُوا الْقِتَّةَ  
لَا كَوَافِرُهَا وَمَا تَكْبِثُ أَبْهَا إِلَّا يَسِيرًا ﴿١٤﴾

وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُؤْلُونَ  
الْأَدْبَرَ وَكَانَ عَاهَدُ اللَّهِ مَسْعُولاً ﴿١٥﴾

قُلْ لَّمَّا يَنْفَعُكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ أَوْ  
الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قِيلَادًا ﴿١٦﴾

17. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Ni nde wabarinda **Allah** aramutse ashatse kubahana, cyangwa (ngo akumire) impuhwe ze (aramutse ashatse kuzibahundagazaho)? Kandi ntibazagira umurinzi cyangwa umutabazi utari **Allah**.”

18. Rwose **Allah** azi abagandisha abandi muri mwe ndetse n'ababwira abavandimwe babo bati “Nimuze ku ruhande rwacu (mureke kujyana na Muhamadi).” Kandi ntibajya bajya ku rugamba usibye gake cyane (kugira ngo babeshye abemeramana).

19. Babagirira ubugugu maze bagerwaho n'ubwoba (bw'intambara) ukabona bakureba bakanaguzwa amaso nk'umuntu urimo gusamba; ariko iyo ubwoba bushize, babasesereza bakoresheje indimi zabo zityaye, bagira ubugugu bwo gukora ibyiza. Abo ntibigeze bemera, bityo ibikorwa byabo **Allah** yabigize imfabusa. Kandi ibyo kuri **Allah** biroroshye.

20. (Kubera ubwoba bwabo) bakeka ko udutsiko tw'abanzi nta ho twagiye; nyamara utwo dutsiko turamutse tugarutse, bakwifuzu ko (tutabasanga i Madina) ahubwo babana

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ

اللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا

\* قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْرَاجِنَّهُمْ هَلُمْ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ بِالْبَأْسِ إِلَّا قَلِيلًا

أَشَحَّةٌ عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَهُ الْحَوْفُ رَأَيْتُهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدْرُرُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُعْشَى عَلَيْهِ مِنْ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْحَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِالسِّنَةِ حَدَادٍ أَشَحَّةٌ عَلَى الْحَيَّ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاحْبَطْ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

يَحْسِبُونَ الْأَحَزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحَزَابُ يَوْمًا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ

n'abanyacyaro<sup>180</sup> babaririza amakuru yanyu. Ndetse n'yo baza kuba bari kumwe namwe, ntibari kubafasha kurwana usibye gake cyane.

21. Rwose mufite urugero rwiza mukomora ku Ntumwa ya Allah (Muhamadi). Ibyo ni kuri wa wundi wizera Allah (akemera) n'umunsi w'imperuka kandi agasingiza Allah kenshi.

22. Nuko ubwo abemeramana babonaga udutsiko tw'abanzi, baravuze bati "Ibi ni byo Allah n'Intumwa ye bari baradusezeranyije. Kandi Allah n'Intumwa ye bavuze ukuri." Ibyo nta kindi byabongereye uretse kwemera no guca bugufi (kuri Allah).

23. Mu bemeramana harimo abagabo basohoje ibyo basezeranyije Allah. Muri bo hari abatabarutse, ndetse no muri bo hari abagitegereje, kandi ntibigeze bahindura (isezerano ryabo) na mba.

24. Kugira ngo Allah azagororere abanyakuri kubera ukuri kwabo, kandi nabishaka azahane indyarya cyangwa azibabarire. Mu by'ukuri Allah

يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَاءٍ كُوْرَوْكَانُوا فِيمَا قَاتَلُوا  
إِلَّا قَيْلَامٌ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَأُ حَسَنَةً لِمَنْ كَانَ  
يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

(٦١)

وَلَمَّا رَأَهَا الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدْنَا  
اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادُوهُمْ  
إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا

(٦٢)

مَنْ أَنْهَاكُمْ بِرِجَالٍ صَدَقُوا مَا عَهَدُوا اللَّهَ  
عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَنَظَّرُ وَمَا  
بَدَّلُوا تَبَدِيلًا

(٦٣)

لِيَجْزِيَ اللَّهُ الْصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ  
الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
غَفُورًا رَّحِيمًا

(٦٤)

<sup>180</sup> Abanyacyaro bavugwa aha ni abarabu babaga mu butayu.

ni Nyir'ukubabarira ibyaha,  
Nyirimpuhwe.

25. Nuko **Allah** asubiza inyuma ba bandi bahakanye (bajyana) uburakari bwabo nta cyiza bagezeho. Maze **Allah** arinda abemeramana intambara. Kandi **Allah** ni Umunyembaraga zihebuje, Nyiricyubahiro bihebuje.

26. Naho ba bandi babashyigikiye mu bahawe igitabo<sup>181</sup>, (**Allah**) abamanura mu nyubako zabo (ndende) z'imitamenwa, anabateza ubwoba mu mitima. Bityo, bamwe murabica abandi mubagira ingaruzwamuheto.

27. Maze (**Allah**) abaha kwigarurira ubutaka bwabo, amazu yabo, imitungo yabo, ndetse n'ubutaka mutigeze mukandagiraho (bwa Khayibari). Kandi **Allah** ni Ushobora byose.

28. Yewe muhanuzi (Muhamadi)! Bwira abagore bawe uti "Niba mwifuza ubuzima bw'yi si n'imitako yayo, nimuze mbakorere ibyo mwifuza maze mbasende, dutane ku neza."

وَرَدَ اللَّهُ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ أَخِيرًا  
وَكَفَى اللَّهُ أَلَّهُ أَلْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا

عَزِيزًا ﴿٢٥﴾

وَأَنْزَلَ اللَّهُ أَلَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ  
صَيَا صِيهِمْ وَقَدَّفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا  
تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فِي قِيَامًا ﴿٢٦﴾

وَأَوْرَثْكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيرَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْصَادًا  
لَمْ تَطْعُهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢٧﴾

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَاَرْجُوكَ إِنْ كُنْتَ تُرِدَنَ  
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالِمْ إِنْ أَمْتَعْكُنَّ  
وَأُسْرِحْكُنَّ سَرَاحًا جَيْلًا ﴿٢٨﴾

<sup>181</sup> Abahawé igitabo bavugwa aha ni Abayahudi babaga i Madina bo mu bwoko bwa Bani Qurayidhwa.

29. "Ariko niba mushaka (kwishimirwa na) **Allah** n'Intumwa ye ndetse (munashaka) n'ubuturo bw'imperuka (Ijuru), mu by'ukuri (mumenye ko) **Allah** yateguriye ibihembo bihambaye abakora ibyiza muri mwe."

30. Yemwe bagore b'Umuhanuzi (Muhamadi)! Muri mwe uzakora icyaha cy'urukozasoni mu buryo bugaragara, ibihano bye bizikuba kabiri, kandi ibyo kuri **Allah** biroroshye.

31. Kandi muri mwe uzumvira **Allah** n'Intumwa ye akanakora ibikorwa byiza, tuzamugororera ibihembo byikubyebabiri, kandi (ku mperuka) twanamuteguriye amafunguro meza.

32. Yemwe bagore b'Umuhanuzi (Muhamadi)! Ntabwo mumeze nk'abandi bagore basanzwe. Niba mutinya (**Allah**) muramenye ntimukoroshye amajwi (yanyu, igihe muvugana n'abandi bagabo), kugira ngo ufite uburwayi mu mutima atabifuza; ahubwo mujye muvuga mukoresheje imvugo ziboneye.

33. Mujye munaguma mu ngo zanyu kandi ntimukagaragaze imitako yanyu nk'uko abagore bo mu bihe by'ubujiji babikoraga. Mujye muhozaho

وَإِن كُنْتَ تُرْدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالْدَّارُ الْآخِرَةَ  
فَإِنَّ اللَّهَ أَعْدَ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَ أَجْرًا عَظِيمًا

٦٩

يَنِسَاءُ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ  
يُضَعَّفُ لَهَا الْعَذَابُ ضَعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ  
عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

٢٣

\* وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ  
صَلَاحًا حَقُّهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدَنَا لَهَا رِزْقًا  
كَرِيمًا

٢٤

يَنِسَاءُ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاحِدٌ مِنَ النِّسَاءِ إِنْ  
أَتَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعَنَ بِالْقُولِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي  
قُلُوبِهِ مَرَضٌ وَقُلُّنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

٢٥

وَقَرَنَ فِي بُيُوتِكُنَ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ  
الْأَوَّلَيْنَ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَأَتِيْنَ الزَّكَوَةَ

iswala, mutange amaturo kandi mwumvire Allah n'Intumwa ye. Mu by'ukuri yemwe bantu bo mu rugo (rw'Intumwa)! Allah arashaka kubakuriraho ibibi n'ibyaha ndetse no kubasukura byimazeyo.

34. Munazirikane amagambo ya Allah n'amagambo y'Intumwa bisomerwa mu ngo zanyu. Mu by'ukuri Allah ni Ugenzabuhoro, Umumenyi uhebuje.

35. Mu by'ukuri Abayisilamu n'Abayisilamukazi, abemeramana n'abemeramanakazi, abagabo n'abagore bibombarika (kuri Allah), abagabo n'abagore b'abanyakuri, abagabo n'abagore bihangana, abagabo n'abagore bicisha bugufi, abagabo n'abagore batanga amaturo, abagabo n'abagore basiba (Swawumu), abagabo n'abagore barinda ubwambure bwabo, abagabo n'abagore basingiza Allah kenshi; Allah yabateguriye kuzababarira ibyaha no kuzabaha igihembo gihambaye (Ijuru).

36. Ntabwo bikwiye ku mwemeramana cyangwa umwemeramanakazi, ko igihe Allah n'Intumwa ye baciye iteka, bagira amahitamo mu byo bagomba gukora. Kandi

وَأَطْعَنَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا

٢٣

وَأَذْكُرْ رَبَّ مَا يُتَلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَاتِ اللَّهِ وَالْحَكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَيْرًا

٢٤

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنِينَ وَالْقَنِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّدِيقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِعِينَ وَالْخَشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْحَفِظِينَ فُرُوجُهُمْ وَالْحَفِظَاتِ وَالدَّاَكِرِينَ اللَّهُ كَيْثِيرًا وَالدَّاَكِرَاتِ أَعَدَ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجَرًا

عَظِيمًا

٢٥

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخَيْرُ مِنْ أَمْرِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ صَلَّ ضَلَالًا لِمُؤْمِنًا

٢٦

uzigomeka kuri Allah n'Intumwa ye, rwose azaba ayobye ubuyobe bugaragara.

37. Unibuke (yewe Muhamadi) ubwo wabwiraga uwo Allah yahundagajeho ingabire (yo kuyoboka Islamu) ndetse nawe ukamugirira ineza (umubohoza, ari we Zayidi mwene Haritha), ugira uti "Gumana n'umugore wawe kandi utinye Allah." Wanahishe mu mutima ibyo Allah azagaragaza. Wanatinye abantu (ko bavuga ko warongoye umugore wasenzwe n'umwana wareze) kandi Allah ari We ukwiriye kugandukira. Nuko ubwo Zayidi yari amaze kubona ko atakimukene (amaze kumusenda), turamugushyingira kugira ngo bitazaba im bogamizi ku bemeramana kurongora abagore b'abana bareze, igihe batanye na bo. Kandi itegeko rya Allah rigomba kubahirizwa.

38. Nta cyaha kuba umuhanuzi (Muhamadi) yakora ibyo Allah yamutegetse (kurongora umugore wasenzwe n'umwana yareze), uko ni ko Allah yabigenzaga no ku (ntumwa) zabayeho mbere. Kandi itegeko rya Allah ni ihame ridakuka.

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَعْمَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْمَلَ عَلَيْهِ  
أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأُتْقَى اللَّهُ وَتُخْفَى فِي  
نَفْسِكَ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ  
تَخْشَلُهُ فَلَمَّا قَضَى رَيْدٌ مِنْهَا وَطَرَأَ رَجْنَكَ الْكَيْ  
لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَرْوَاحِ أَذْعِيَّاهُمْ  
إِذَا قَضَوْهُ مِنْهُنَّ وَطَرَأَ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

٣٧

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ وَسُنَّةَ  
اللَّهِ فِي الَّذِينَ حَلَوْا مِنْ قَبْلٍ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا

مَقْدُورًا

39. Ba bandi basohoza ubutumwa bwa **Allah** bakanamutinya, ndetse ntibagire undi batinya utari **Allah**. Kandi **Allah** arahagije kuba ari uhebuje mu kubarura.

40. Ntabwo Muhamadi ari se w'uwo ari we wese muri mwe, ahubwo ni Intumwa ya **Allah** akaba n'uwaso zereje abahanuzi. Kandi **Allah** ni Umumenyi wa byose.

41. Yemwe abemeye! Nimusingize **Allah** kenshi,

42. Kandi munamusingize mu gitondo no ku gicamunsi.

43. Ni We ubagirira impuhwe n'Abamalayika be (bakabasabira kubabarirwa ibyaha), kugira ngo abakure mu mwijima (ubuhakanyi) abaganisha ku rumuri (ukwemera). Kandi (**Allah**) ni Nyirimbabazi ku bemera.

44. Indamukanyo yabo umunsi bazahura na We izaba kwifurizanya amahoro (Salamu). Kandi yabateganyirije ibihembo bishimishije.

45. Yewe Muhanuzi (Muhamadi)! Mu by'ukuri twakohereje kugira ngo ube umuhamya, utanga inkuru

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ  
أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٣٩﴾

مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِجَالِكُو وَلَكِنْ رَسُولَ  
الَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهَا  
﴿٤١﴾

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا

وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾

هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلِئِكَتُهُ  
لِيُخْرِجُكُمْ مِّنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ  
بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿٤٣﴾

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ وَسَلَّمُوا وَأَعْدَ لَهُمْ أَجْرًا

كَرِيمًا ﴿٤٤﴾

يَأَيُّهَا النِّسَاءُ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا

وَنَذِيرًا ﴿٤٥﴾

nziza, ndetse ukaba  
n'umuburizi,

46. Uhamagarira (abantu)  
kuyoboka **Allah** ku  
bw'uburenganzira bwe, ndetse  
unabe itara rimurika.

47. Kandi uhe inkuru nziza  
abemeramana y'uko bafite  
ingabire zihambaye zituruka  
kwa **Allah**.

48. Ntuzanumvire abahakanyi  
n'indyarya, kandi ntukite ku  
bibi byabo (ngo bikubuze  
gusohoza ubutumwa), ndetse  
ujye uniringira **Allah**. Kandi  
**Allah** arahagije kuba umurinzi.

49. Yemwe abemeye!  
Nimurongora abemeramanakazi  
hanyuma mukabasenda mbere  
y'uko mukorana imibonano,  
(icyo gihe) nta Eda<sup>182</sup> mugomba  
kubarira. Bityo mujye  
mubaha ibibanezeza (mu  
mitungo yanyu) hanyuma  
mubasezerere ku neza.

50. Yewe Muhanuzi  
(Muhamadi)! Mu by'ukuri  
twakuziruriye (kurongora)  
abagore bawe wahaye inkwano,  
abaja utunze **Allah** yaguhaye  
nk'iminyago, abakobwa ba so  
wanyu, abakobwa ba ba  
nyogosenge, abakobwa ba

وَدَاعِيَا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسَارَ حَاجَمِينِ<sup>٦١</sup>

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَأْنَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا  
كَيْرًا<sup>٦٢</sup>

وَلَا تُطِعِ الْكُفَّارِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذْهَرُ  
وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا<sup>٦٣</sup>

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكْحُنُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ  
ظَفَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ  
عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ  
وَسَرِحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا<sup>٦٤</sup>

يَأَيُّهَا النِّبِيُّ إِنَّا أَخْلَقْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي  
ءَانَتْ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكْتِ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ  
الَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَيْنَكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ  
خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكُ

<sup>182</sup>-Eda ni igihe cyagenwe n'amategeko ya Isilamu umugore wahawwe ubutane cyangwa uwapfushije umugabo amara mu rugo rw'umugabo we hagamijwe kureba ko adatwite.

nyokorome, abakobwa ba ba nyoko wanyu bimukanye nawe (muva i Maka mujya i Madina), ndetse n'umugore (ubo ari we wese) w'umwemeramanakazi aramutse yishyingiye umuhanuzi (nta nkwano amutanzebo), hanyuma umuhanuzi akemera kumurongora (yabikora); (ariko ibyo) ni umwihariko wawe (Muhamadi) ntibireba abandi bemeramana. Rwose tuzi neza ibyo twabategetse (mu kurongora) abagore babo (batarenze bane) ndetse n'abaja babo, (ibyo ni) ukugira ngo bitazakubera imbogamizi (igihe ugize abo washaka kurongora). Kandi **Allah** ni Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

51. Wigizayo igihe (cyo kujya kurara) ku wo ushaka muri bo (abo bagore), ukankira iwawe uwo ushaka. Kandi nugira uwo wifuza mu bo wari warashyize ku ruhande (by'agateganyo), icyo gihe nta cyaha kuri wowe. Ibyo ni byo byegereye gutuma banyurwa ntibananagire agahinda, ndetse bose bakanishimira ibyo wabahaye. **Allah** azi ibiri mu mitima yanyu, kandi **Allah** ni Umumenyi uhebuje, Uworohera (abagaragu be).

وَمَرْأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ  
أَنَّهُ أَنْ يَسْتَكِحَهَا خَالِصَةً لَهُ مِنْ دُونِ  
الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي  
أَرْوَاحِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلًا  
يَكُونَ عَلَيْكَ حَجَّ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا

رَحِيمًا

\* تُرْجِحُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُنْهَايِ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ  
وَمَنْ أَبْتَغَيَتْ مِمَّنْ عَرَلتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ  
ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَخْزَنَ  
وَيَرَضِيَنَ بِمَا أَتَيْهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا  
فِي قُلُوبِكُو وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا

52. Ntabwo uziruriwe (kurongora) abandi bagore nyuma y'abo (ufite), cyangwa kubagurana abandi bagore, kabone n'ubwo washimishwa n'ubwiza bwabo; usibye gusa abaja bawe. Kandi **Allah** ni Umugenzuzi wa buri kintu.

53. Yemwe abemeye! Ntimukinjire mu ngo z'Umuhanuzi (Muhamadi) usibye igihe mwahawewe ubutumire bwo kujya (gusangira) amafunguro; bitari (ukujya) gutegereza ko ategurwa. Ariko nimutumirwa mujye mujyayo, hanyuma nimumara gufungura muhite mugenda, mudatinze mu biganiro. Mu by'ukuri ibyo bibangamira Umuhanuzi akagira isoni (zo kubasezerera). Kandi **Allah** ntagira isoni (zo kubabwira) ukuri. Nimushaka kugira icyo mubasaba (abagore b'Intumwa), mujye mukibasabira inyuma y'urusika; ibyo ni byo byeza imitima yanyu ndetse n'iyabo. Kandi ntibikwiye ko mubangamira Intumwa ya **Allah** ndetse ntibinakwiye na rimwe kurongora abagore bayo nyuma y'uko itabarutse. Mu by'ukuri ibyo ni icyaha gihambaye imbere ya **Allah**.

لَا يَحِلُّ لَكَ الْسَّاءُ مِنْ بَعْدِ وَلَا أَنْ تَبَدَّلْ بِهِ  
مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَا أَعْجَبَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَكَّتَ  
يَمْسِنُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُ بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ  
يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظَرِينَ إِنَّهُ  
وَلَكِنْ إِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوهُ فَإِذَا طَعَمْتُمْ  
فَأُنْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَغْنِيْنَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ  
كَانَ يُؤْذِنِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحِيْ مِنْكُمْ وَلَلَّهُ لَا  
يَسْتَحِيْ مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعَا  
فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ  
لِقْلُوْبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ  
تُؤْذِنُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُو مِنْ  
بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ

عَظِيمًا

54. Mwagira icyo mugaragaza (nk'umugambi wo kurongora abagore b'Intumwa nyuma yuko itabarutse) cyangwa mukagihisha, mu by'ukuri Allah ni Umumenyi wa byose.

55. Nta cyaha kuri bo (abagore b'Intumwa, baramutse batikwije) imbere ya ba se, abahungu babo, basaza babo, abahungu ba basaza babo, abahungu ba bakuru babo cyangwa barumuna babo, abagore bagenzi babo cyangwa abaja babo. Kandi mugandukire Allah. Mu by'ukuri Allah ni Umuhanya uhebuje wa buri kintu.

56. Mu by'ukuri Allah ahundagaza impuhwe ze ku Muhanuzi (Muhamadi) ndetse n'Abamalayika bakazimusabira. Yemwe abemeye! Nimumusabire impuhwe munamwifurize amahoro.

57. Mu by'ukuri ba bandi barakaza Allah (bamubangikanya) bakanabuza amahoro Intumwa ye, Allah yarabavumye hano ku isi ndetse no ku mperuka, kandi yabateganyirije ibihano bisuzuguza.

إِنْ تُبَدِّلُواْ شَيْئاً أَوْ نُخْفِهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلَيْمًا

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي إِيمَانِهِنَّ وَلَا إِبْنَاهُنَّ وَلَا  
إِخْوَنَهُنَّ وَلَا إِبْنَاءَ إِخْوَنَهُنَّ وَلَا إِبْنَاءَ إِخْوَنَهُنَّ  
وَلَا إِنْسَانٌ يُهَاجِرُ مُهَاجِرًا إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِيَنَ اللَّهَ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَشِيدًا

وَلَا إِنْسَانٌ يُهَاجِرُ مُهَاجِرًا إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِيَنَ اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلِّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ وَآتَيْهَا  
الَّذِينَ آمَنُوا صَلَوةً عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيماً

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْدِنُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَعَنْهُمُ اللَّهُ فِي

الْدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَ اللَّهُمَّ عَذَاباً مُهِينَا



58. Na ba bandi babuza amahoro abemeramana n'abemeramanakazi nta kibi bakoze, rwose baba bishyizeho umutwaro wo gushinja ikinyoma n'icyaha kigaragara.

59. Yewe Muhanuzi (Muhamadi)! Bwira abagore bawe, abakobwa bawe n'abagore b'abemeramana bambare imyambaro yabo bikwije; ibyo ni byo bizatuma bamenyekana (nk'abagore biyubashye), bityo ntibasagarirwe. Kandi Allah ni Nyir'ukubabarira ibyaha, Nyirimbabazi.

60. Indyarya n'abafite uburwayi mu mitima yabo (bwo kurarikira ubusambanyi) ndetse n'abakwirakwiza ibihuha mu mujyi wa Madina, nibatabireka, rwose tuzagushishikariza kubatera, hanyuma ntibazongere kuwuturanamo na we usibye igihe gito,

61. (Abo) ni ibivume. Aho bazasangwa hose bazafatwe maze bicwe (nta mpuhwe).

62. Uwo ni umugenzo wa Allah kuri ba bandi (indyarya) babayeho mbere. Kandi ntuzigera ubona icyasimbura umugenzo wa Allah.

وَالَّذِينَ يُؤْدِونَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ  
مَا أَكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَنَانًا وَإِنَّمَا

مُّبِينًا

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَاَرْوَاحُكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءٌ  
الْمُؤْمِنَاتِ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَبِيْهِنَّ ذَلِكَ  
أَدْنَى أَنْ يُعْرَفَ فَلَا يُؤْدِيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا

رَّحِيمًا

\* لَئِنْ لَمْ يَتَّهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ  
مَرْضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنَغْرِيْنَكَ  
بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاهُوْرُونَكَ فِيهَا إِلَّا فَلِلَّهِ

مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثَقِفُوا أُخْذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا

٦١

سُنَّةُ اللَّهِ فِي الدِّينِ خَلَوْا مِنْ قَبْلٍ وَلَنْ  
تَجَدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبَدِيلًا

63. (Yewe Muhamadi!) Abantu bakubaza (igihe) imperuka izabera. Vuga uti “Mu by’ukuri ubumenyi bw’icyo gihe bwihariwe na Allah (wenyine). Ese wabibwirwa n’iki? Wenda igihe (cy’imperuka) kiri bugufi.”

64. Mu by’ukuri Allah yavumye abahakanyi, anabateganyiriza umuriro ugurumana,

65. Bazabamo ubuziraherezo. Ntibazagira umurinzi cyangwa umutabazi.

66. Umunsi uburanga bwabo buzagaragurwa mu muriro, bakavuga batii “Iyo tuza kuba twarumviye Allah tukanumvira n’Intumwa (ye)!”

67. Bazanavuga batii “Nyagasani! Mu by’ukuri twumviye abayobozzi bacu n’ibikomerezwa muri twe, maze batuyobya inzira (itunganye).”

68. “Nyagasani wacu! Bahe ibihano byikubye kabiri, unabavume umuvumo ukomeye.”

69. Yemwe abemeye! Ntimuzabe nka ba bandi babujije amahoro (Intumwa) Musa, maze Allah akamugira umwere ku byo

يَسْكُلُكَ الْتَّاسُعُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ  
وَمَا يُدْرِكُ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿٦٣﴾

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَفَرِينَ وَأَعَذَّهُمْ سَعِيًّا ﴿٦٤﴾

خَلِيلِينَ فِيهَا أَبْدَالٌ لَا يَحْدُونَ وَلِيَأْوِلَّا نَصِيرًا ﴿٦٥﴾

يَوْمَ تُقْلَبُ رُؤْبُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَا  
أَطْعَنَا اللَّهُ وَأَطْعَنَا الرَّسُولًا ﴿٦٦﴾

وَقَالُوا رَبِّنَا إِنَّا أَطْعَنَا سَادَتَنَا وَكُبرَاءَنَا فَاضْلُونَا  
السَّيِّلَادُ ﴿٦٧﴾

رَبَّنَا إِنَّهُمْ ضَعْفَانِ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا  
كَبِيرًا ﴿٦٨﴾

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَادَفُوا  
مُوسَى فَبَرَأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ

وَجِيهًا ﴿٦٩﴾

bamuvugagaho<sup>183</sup>. Kandi (Musa) yari umunyacyubahiro imbere ya Allah.

70. Yemwe abemeye! Nimugandukire Allah kandi mujye muvuga imvugo z'ukuri.

71. (Allah) azabatunganyiriza ibikorwa byanyu anabababarire ibyaha byanyu. Kandi uzumvira Allah n'Intumwa ye, rwose azaba atsinze bihambaye.

72. Mu by'ukuri twahaye ibirere, isi n'imisozi inshingano (yo kubahiriza amategeko ya Allah) byanga kuyakira binatinya (ibihano bya Allah), ariko umuntu aba ari we uyakira. Mu by'ukuri ni umuhemu (kuko yihemukiye) ndetse ni n'injiji bihambaye.

73. (Ibyo ni) ukugira ngo Allah azahane indyarya z'abagabo n'iz'abagore, ndetse n'ababangikanyamana b'abagabo n'ab'abagore. Hanyuma Allah yakire ukwicuza kw'abemeramana n'abemeramanakazi. Kandi

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِمَّا مَنُوا أَتَقْرَأُ اللَّهَ وَقُلُّوا قَلَّا سَدِيدًا

يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن  
يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَزَّاعَظِيمًا

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
وَالْجِبَالِ فَأَبَيَّنَ أَن يَحْمِلُنَّهَا وَأَشْفَقُنَّ مِنْهَا وَحَمَلَهَا  
إِلَّا إِنَّهُ كَانَ طَلُومًا جَهُولًا

لِيَعِذَّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ  
وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى<sup>٦٧</sup>  
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا  
رَّحِيمًا

<sup>183</sup> Ibyavugwaga kuri Musa bivugwa muri uyu murongo bishingiye ku kuba Abayisiraheli barajyaga biyuhaligira hamwe bambaye ubusa, ariko kuko Musa yagiraga isoni nyinshi byatumaga ajya ahiherereye akoga wenyine, nuko bakabishingiraho bavuga ko impamu yoga wenyine ari uko afite ubusembwa ku gitsina cye. Umuni umwe ajya koga ashyira imyambaro ye ku ibuye, igihe amaze koga agiye kwambara, rya buye rihirimana ya myambaro, maze na we aryirukaho agira ngo afate imyambaro ye kugeza ubwo ageze imbere y'imbaga y'Abayisiraheli, nuko babona ko ibyo bamuvugagaho atari ukuri, kuko nta busembwa na bumwe bamusanganye.

Allah ni Nyir'ukubabarira  
ibyaha, Nyirimpuhwe.

34 - SURAT SABA-I  
(UBWAMI BWA SHEBA)

*Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirongo 54.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Ishimwe n'ikuzo byuzuye ni ibya Allah, We nyir'ibiru mu birere n'ibiru mu isi. Kandi akaba na nyir'ibisingizo byuzuye mu buzima bwa nyuma (imperuka); ndetse ni We Nyirubugenge buhambaye, Umumenyi wa byose.

2. Azi ibyinjira mu butaka n'ibusohokamo, ibimanuka mu kirere ndetse n'ibikizamukamo. Kandi ni Nyirimpuhwe, Nyir'ukubabarira ibyaha.

3. Ba bandi bahakanye baravuze bati "Imperuka ntizatugeraho!" Vuga (yewe Muhamadi) uti "Ndahiye ku izina rya Nyagasanani wanje, Umumenyi w'ibitagaragara, ko rwose izabageraho (nta kabuza); nta kimwisoba mu birere cyangwa mu isi kabone n'yo cyaba

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ  
وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْحَمِيرُ ①

يَعْلَمُ مَا يَلْحِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزَلُ  
مِنْ السَّمَاءِ وَمَا يَعْنُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ  
الْغَفُورُ ②

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِنَا أُلْسَاعَةً فُلْ بَكَ  
وَرَىٰ لَتَأْتِنَّا كُمْ عَلَمَ الْغَيْبِ لَا يَعْزِزُ عَنْهُ  
مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا

kingana n'impeke y'ururo cyangwa kiri mu nsi yacyo ndetse n'ikinini kuri cyo, usibye ko (byose) biri mu gitabo gisobanutse",

أَصْعَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ  
مُّبِينٍ ۝

4. (Ibyo ni) ukugira ngo (Allah) azagororere ba bandi bemeye bakanakora ibikorwa byiza. Abo bazababarirwa ibyaha ndetse banahabwe amafunguro yubahitse.

لِيَجِزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝

5. Naho ba bandi baharaniye kuburizamo amagambo yacu (bibwira ko) bazadutsinda, bazahanishwa ibihano bibi cyane kandi bibabaza.

وَالَّذِينَ سَعَرُ فِي إِيمَانِنَا مُعَجِّزِينَ أُولَئِكَ  
لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزِ أَيْمَمٍ ۝

6. Na ba bandi bahawé ubumenyi bw'ibyo wahishuriwe (wowe Muhamadi) biturutse kwa Nyagasani wawe, babona ko ari ukuri kandi ko biyobora biganisha mu nzira y'Umunyacyubahiro bihebuje, Usingizwa cyane.

وَيَرَقُ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ  
رِّيَكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صَرَاطِ الْعَرَبِينَ  
الْحَمِيدٌ ۝

7. Naho ba bandi bahakanye baravuze batí "Ese tubereke umuntu (Muhamadi) ubabwira ko nimupfa mugashwanyagurika mukaba ubushingwe, ko rwose muzongera mukaremwa bundi bushya?"

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَذْلُكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَتَّكِمُ  
إِذَا مُرْقَتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۝

8. Ese (Muhamadi) yaba yarahimbiye Allah ibinyoma, cyangwa yarasaze? (Oya!) Ahubwo abatemera imperuka bari mubihano no mu buyobe bukabije.

9. Ese ntibabona ikirere n'isi biri imbere yabo n'inyuma yabo? Tubishatse twabarigitisha mu butaka cyangwa tukabaturaho igice cy'ikirere. Mu by'ukuri muri ibyo harimo ikimenyetso kuri buri mugaragu (wa Allah) wicuza.

10. Kandi rwose Dawudi twamuhundagajeho ingabire ziduturutseho (tugira tuti) "Yemwe misozi n'nyoni! Nimusingize (Allah) mufatanyije na we (Dawudi)." Twanamworohereje icyuma (kugira ngo ajye agikoramo ibyo ashaka),

11. (Turamubwira tuti) "Cura ingabo nini z'amakote (y'icyuma ameze nk'utuyungirizo) kandi ugere neza utwenge twayo, ndetse munakore ibikorwa byiza." Mu by'ukuri Njye ndi Ubona bihebuje ibyo mukora.

12. Twanorohereje Sulayimani (gutwarwa n')umuyaga, wakoraga mu gitondo (kimwe) urugendo rw'ukwezi (ku muntu ugenda n'amaguru), ndetse n'umugoroba (umwe) urugendo

أَفَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ حِنْنَةٌ بِلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَدَابِ وَالضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿٨﴾

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا حَلَفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَحْسِفُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كَسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِيْنَ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ﴿٩﴾

\*وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَارِودَ مِنَ افْضَلِ الْجِبَالِ أَوْبِي  
مَعْهُ وَالظَّاهِرُ وَالنَّالُهُ الْحَدِيدَ ﴿١٠﴾

أَنْ أَعْمَلْ سَيْغَنَتِ وَقَدَرَ فِي السَّرَّدِ وَأَعْمَلْهُ  
صَلِحًا إِلَى مَا تَعَمَّلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١﴾

وَلِسُلَيْمَنَ الرِّيحَ غُدُوْهَا شَهْرٌ وَرَاحُهَا شَهْرٌ  
وَأَسْلَنَ اللَّهُ وَعِنْ أَفْطَرٍ وَمَنْ أَجْنَى مَنْ يَعْمَلْ بَيْنَ

rw'ukwezi. Twanamuuhaye isoko ivubura umushongi w'umuringa (kugira ngo awukoremo ibyo ashatse). No mu majini hari amukorera (imirimo) abiherewe uburenganzira na Nyagasani we. Kandi iryanyuranyaga n'itegeko ryacu muri yo, twarisogongezaga ibihano by'umuriro ugurumana.

13. (Amajini) yamukoreraga ibyo (Sulayimani) ashaka birimo kumwubakira ingoro, amashusho, amasiniya magari angana nk'ibizenga ndetse n'inkono zishimangiyе (aho ziteretse, maze turababwira tuti) "Yemwe bantu ba Dawudi! Mukore mushimira (**Allah**). Ariko mu bagaragu banje abashimira ni bo bake."

14. Nuko ubwo (Sulayimani) twamuciragaho iteka ryo gupfa, nta cyayamenyesheje (amajini) ko yapfuye, usibye agakoko ko mu butaka (umuswa) kariye inkoni ye (yari yishingikirije). Maze aguye hasi, amajini amenya ko iyo aza kuba azi ibiyishe atari kuba yaragumye mu bihano bisuzuguza (kuko aba yaramenye urupfu rwa Sulayimani).

يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزْعُمْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِّقُهُ  
مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٢٦﴾

يَعْمَلُونَ لَهُ وَمَا يَشَاءُ مِنْ مَحَرِّبٍ وَتَمَثِيلَ وَجْهَانِ  
كَلْجُوَابٍ وَقُدُورٍ رَّاسِكَتٍ أَعْمَلُواْ إَلَّا دَأْوِدَ  
شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الْشَّكُورُ ﴿٢٧﴾

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا  
دَآبَّةٌ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَاتِهِ فَلَمَّا حَرَّ  
تَيَنَّتِ الْحُنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَيْسُوا  
فِي الْعَدَابِ الْمُهِينِ ﴿٢٨﴾

15. Mu by'ukuri aho abantu ba Saba-i (Sheba) bari batuye hari ikimenyetso (kigaragaza ubushobozi bwacu) kuri bo; (ari cyo) imirima ibiri yari iburyo (bw'ikibaya) n'bumoso bwacyo. (Turababwira tuti) "Nimurye mu mafunguro ya Nyagasani wanyu ndetse munamushimire." (Mufite) igihugu cyiza kandi na Nyagasani (wanyu) ni Nyirimbabazi!

16. Nuko barirengagiza maze tuboherereza umwuzure usenya urugomero (unangiza imirima), hanyuma tubahinduriramo imirima ibiri y'imbuto zibishye kandi zirura, n'ibiti bitera ndetse na bimwe mu biti by'iminyinya .

17. Uko (kubahindurira tubaha imirima mibi), twabikoze (nk'ighano) kubera ubuhakanyi bwabo. Ese hari abandi duhanisha (ighano gikaze) usibye abahakanyi?

18. Twanashyize imidugudu (iri ahirengeye) hagati yabo (abantu ba Sabai) n'imidugudu twahaye imigisha, tunoroshyia ingendo hagati yayo (tugira tuti) "Ngaho nimuyigendemo amajoro n'amanywa mutekanye."

لَقَدْ كَانَ لِسَيِّئًا فِي مَسْكِنِهِمْ إِيمَانٌ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَاءٍ كُلُّوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَأَشْكُرُوا لَهُ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَنْوَنٌ

فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيِّئَاتِ الْعَرِيمِ وَبَدَلْنَاهُمْ بِحَنَّيَّهُمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاقَ أُكُلٍ حَمَطٍ وَأَثَلٍ

وَشَيْءٌ مِنْ سِدْرِ قَلِيلٍ

ذَلِكَ جَزِيَّهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ بُخْزِيَ إِلَّا الْكَفُورَ

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكَنَا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةٌ وَقَدَرَنَا فِيهَا السَّيِّرَ سِيرُوا فِيهَا إِلَيْنَا وَإِنَّمَا إِمْرَانَ

19. (Ariko iyo ngabire barayirambiwe) maze baravuga bati “Nyagasani wacu! Ingendo zazu zigire ndende (hagati muri iyo midugudu)”, nuko ubwabo barihemukira tubagira iciro ry’imigani, turanabarimbura burundu. Mu by’ukuri, muri ibyo harimo ibimenyetso kuri buri wese wihangana cyane, ushimira cyane.

20. Rwose Ibilisi (Shitani) yabasohorejeho umugambi wayo (wo kubayobya), nuko barayikurikira usibye itsinda mu bemeramana (ryashikamye ku kumvira **Allah**).

21. Kandi ntabwo (Ibilisi) yari ibafiteho ubushoboz (bwo kubayobya) usibye ko (twabikoze) dushaka kugaragaza uwemera imperuka n’uyishidikanyaho. Kandi Nyagasani wawe ni Umurinzi wa byose.

22. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Nimuhamagare ibyo mwise imana mu cyimbo cya **Allah** (mukeka ko hari icyo byabamarira), ntibitunze n’igifite uburemere bungana n’akantu gato cyane kurusha ibindi haba mu birere no mu isi. Kandi nta bufatanye byagiranye (na **Allah**, mu iremwa ry’ibiri mu

فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمْوًا أَنْفُسَهُمْ  
فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَرْقَفَهُمْ كُلُّ مُمْزَقٍ إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لَا يَكُتُبُ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿١٩﴾

وَلَقَدْ صَدَقَ عَيْنَهُمْ إِلَيْهِمْ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا  
فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾

وَمَا كَانَ لَهُ وَعَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ  
يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍ  
وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِظٌ ﴿٢١﴾

قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ  
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا  
لَهُ فِيهِمَا مِنْ شَرِيكٍ وَمَا لَهُ وَمِنْهُمْ مِّنْ ظَاهِرٍ ﴿٢٢﴾

isi no mu birere), ndetse nta n'umushyigikira afite muri byo.”

23. Kandi nta buvugizi buzagira icyo bumara kuri We (**Allah**), usibye gusa uwo yahaye uburenganzira. (Iyo **Allah** avuze, abamalayika barakangarana bakagwa igihumure) kugeza igihe imitima yabo ishiriye ubwoba, (bamwe) bakavuga bat “Nyagasani wanyu yavuze iki?” (Abandi) bat “(Yavuze) ukuri; kandi ni Uwikirenga, Usumba byose.”

24. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Ni nde ubaha amafunguro aturutse mu birere no mu isi?” Vuga uti “Ni **Allah!** Kandi mu by'ukuri, yaba twe cyangwa mwe (abahakanyi) hari abari mu nzira y'ukuri cyangwa mu buyobe bugaragara.”

25. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Ntabwo muzabazwa ku byerekeye ibyaha twakoze, kandi natwe ntitudbazwa ibyo mukora.”

26. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Nyagasani wacu azaduhuriza hamwe twese (ku munsi w'imperuka), hanyuma adukiranure mu kuri; kuko ari We Mucamanza w'ikirenga, Umumenyi uhebuje.”

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَقّ  
إِذَا فَرِّغَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ  
وَهُوَ أَعْلَى الْكَبِيرُ

\* قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْلَئِكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِ  
ضَلَالٍ مُّبِينٍ

قُلْ لَا تُشْكُرُوكَ عَمَّا أَجْرَمَنَا وَلَا سُؤْلُ عَمَّا  
تَعْمَلُونَ

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ  
الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ

27. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Nimunyereke ibigirwamana mwamubangikanyije na byo.” Nta na kimwe! Ahubwo We ni **Allah** (wenyine), Umunyacyubahiro bihebuje, Nyirubugenge buhambaye.

قُلْ أَرْوَنِي الَّذِينَ الْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّابٌ  
هُوَ اللَّهُ أَعْزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾

28. Kandi nta kindi cyatumye tukohereza usibye kuba utanga inkuru nziza no kuba umuburizi ku bantu bose; ariko abenshi mu bantu ntibabizi.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بِشِيرًا  
وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

٤٨

29. (Abahakanyi) baravuga bati “Ese ni ryari iri sezerano (imperuka) rizasohora niba koko muri abanyakuri?”

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ  
صَدِيقِينَ ﴿٢٩﴾

30. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Isezerano ryanyu ni umunsi mudashobora gutinzaho isaha n’imwe cyangwa ngo muwihutishe.”

قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمَ لَا تَسْتَخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا  
تَسْتَقِدُ مُؤْمِنَوْنَ ﴿٣٠﴾

31. Kandi abahakanye baravuze bati “Ntidushobora kwemera iyi Qur'an ndetse n'ibayayibanjirije (ibitabo). Ariko iyo uza kubona ababangikanyamana bahagaritswe imbere ya Nyagasani wabo baterana amagambo; abanyantege nke babwira abibone bati “Iyo bitaza kuba mwe, rwose twari kuba turi abemeramana.”

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا  
الْقُرْآنَ وَلَا بِالَّذِي يَأْتِيَ وَلَوْ تَرَى إِذ  
الْظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ  
بَعْصُهُمْ إِلَى بَعْضِ الْقَوْلِ يَقُولُ الَّذِينَ  
أَسْتَضْعِفُو لِلَّذِينَ أَسْتَكْبِرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنْ  
مُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾

32. Abibone bazabwira abafatwaga nk'abanyantenge nke bati "Ese koko ni twe twababujije kuyoboka, nyuma y'uko (umuyoboro) ubagezeho? Ahubwo mwari inkozi z'ibibi."

33. Nuko abagizwe abanyantenge nke babwire abibone bati "Ahubwo ni umugambi mwacuze ijoro n'amanywa, ubwo mwadutegekaga guhakana Allah no kumubangikanya n'ibigirwamana." Maze ubwo bazabona ibihano (buri tsinda) rizahisha umubabaro waryo, hanyuma dushyire iminyururu mu majosi y'abahakanye. Ese hari ibindi bazahemberwa bitari ibyo bakoraga?

34. Kandi ntabwo twohereza umuburizi mu mudugudu uwo ari wo wose ngo abakungu bawo babure kuvuga bati "Mu by'ukuri ntitiwemera ibyo mwahishuriwe."

35. Baranavuga bati "Twe dufite imitungo myinshi ndetse n'urubyaro, kandi nta n'ubwo tuzahanwa."

36. Vuga (yewe Muhamadi) uti "Mu by'ukuri Nyagasani wanjye atuburira amafunguro uwo ashaka akanayatubya (ku wo

قَالَ الَّذِينَ أَسْتَكَبُرُوا لِلَّذِينَ أَسْتُضْعِفُوا أَنْحَنُ  
صَدَّدَنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُثُمٌ  
مُّجْرِمِينَ ﴿٢٣﴾

وَقَالَ الَّذِينَ أَسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ أَسْتَكَبُرُوا بَلْ  
مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذَا تَأْمُرُونَا أَنْ تَكْفُرَ بِاللَّهِ  
وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسْرُوْ أُنْدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا  
الْعُذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَلَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ  
كَفَرُوا هُلْ يُجْرَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾

وَمَا آرَسَنَا فِي قَرَيْةٍ مِّنْ تَدْبِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرْكُوهَا  
إِنَّا بِمَا أَرْسَلْنَاكُمْ بِهِ كَفَرُونَ

وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أُمُوْلًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ  
بِمُعَذَّبِينَ ﴿٢٥﴾

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ  
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

ashaka); ariko abenshi mu bantu ntibabizi.”

37. Ntabwo ari imitungo yanyu cyangwa urubyaro rwanyu bizabegereza hafi yacu, ariko ba bandi bemeye bakanakora ibikorwa byiza, ni bo bazagororerwa ibihembo byikubye kubera ibyo bakoraga. Kandi bazaba mu magorofa yo hejuru (mu ijuru) batekanye.

38. Naho ba bandi baharaniye kuburizamo amagambo yacu, (bibwira ko) bazadutsinda; abo bazajyanwa mu bihano (by'umuriro) ku gahato.

39. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Mu by'ukuri Nyagasani wanjye atuburira amafunguro uwo ashatse mu bagaragu be, akanayatubya (ku wo ashatse)”, ndetse nta n'icyo mwatanga (mu byiza) ngo abure kukibashumbusha. Kandi ni We uebuje mu batanga amafunguro.

40. (Unazirikane yewe Muhamadi) umunsi (**Allah**) azabakoranya bose maze akabwira Abamalayika ati “Ese bariya ni mwe bajyaga basenga?”

وَمَا أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ بِالَّتِي تُقْرَبُكُمْ عِنْدَنَارْفَى  
إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءٌ  
الْصَّعَفُ بِمَا عَمِلُوا وَهُرُفُ فِي الْعُرُوفَ ءَامِنُوْنَ

٣٧

وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَاهِنَتَنَا مُعَجِّزِنَ اُولَئِكَ فِي  
الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَسْوُطُ الْرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ  
وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقَتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ  
وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

٣٩

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَئِكَةِ أَهُؤُلَاءِ  
إِيَّاكُمْ كَأُولُوْيَعْبُودُوْنَ

41. Bavuge bati “Ubutagatifu ni ubwawe! Ni wowe Murengesi wacu ntabwo ari bo. Ahubwo basengaga amajini, kandi abenshi muri bo banayemera.”

42. Bityo, kuri uyu munsi bamwe muri mwe nta cyo bamarira abandi, ndetse nta n'icyo babatwara. Tuzanabwira ababangikanyamana tuti “Nimwumve ibihano by'umuriro mwajyaga muhakana.”

43. N'yo basomewe amagambo yacu asobanutse, baravuga bati “Uyu (Muhamadi) nta kindi ashaka usibye kubabuza (kugaragira) ibyo ababyeyi banyu basengaga. Bakavuga bati “Iyi (Qur'an) ni ikinyoma cyahimbwe.” Ndetsse abahakanyi ubwo ukuri kwabageragaho baravuze bati “Iyi (Qur'an) ni uburozi bugaragara.”

44. Kandi nta bitabo twabahaye ngo babisome (maze ngo babe ari byo bishingikiriza), ndetse nta n'umuburizi twabohererere mbere yawe (wowe Muhamadi).

45. Na ba bandi babayeho mbere barahakanye, nyamara bo (bahakanyi b'i Maka) nta n'ubwo banagejeje ku cya cumi cy'ibyo twari twarabahaye (ababanjirije), ariko bahinyuye

قَالُوا سُبْحَنَكَ أَنْتَ وَلَيْسَنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَافُوا  
يَعْبُدُونَ أَجْنَانَ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾

فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِعَضِّ تَقْعِدًا وَلَا ضَرَّا  
وَنَكْوُلُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا  
تُذَكَّرُ بُوْنَ ﴿٤٢﴾

وَإِذَا تُتْنِي عَلَيْهِمْ إِيمَانُنَا بَيْنَتِ قَالُوا مَاهِنَآ إِلَّا رَجُلٌ  
يُرِيدُ أَنْ يَصْدِّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُهُ أَبْأَكُوكُ وَقَالُوا مَا  
هَذَا إِلَّا إِفْكُ مُفْتَرَى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ  
لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرُ مُنْيٍ ﴿٤٣﴾

وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا آرَسَنَا  
إِلَيْهِمْ فَبَلَّكَ مِنْ نَذِيرٍ ﴿٤٤﴾

وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مَعْشَارَ مَا  
أَتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِنَا فَكِيفَ كَانَ نَكِيرٌ ﴿٤٥﴾

Intumwa zanjye. Mbega uko ibihano byanje byari bikaze!

46. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Mu by’ukuri ndabakangurira ikintu kimwe nkomeje; ko mwarangwa no kumvira Allah, babiri babiri cyangwa umwe umwe, hanyuma mukanatekereza (ku butumwa bw’Intumwa Muhamadi).” Mugenzi wanyu (Muhamadi) ntabwo ari umusazi. Ahubwo ni umuburizi wanyu (ubaburira) ibihano bikaze (bizabashyikira).

47. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Nta gihembo mbasabye (ku butumwa nabazaniye), kuko ari ubwanyu. Igihembo cyanje kiri kwa Allah. Kandi ni Umuhanya wa buri kintu.”

48. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Mu by’ukuri Nyagasanani wanji yohereza (ubutumwa) bw’ukuri. Ni Umumenyi uhebuje w’ibiyishe.”

49. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Ukuri kwaraje (Isilamu), kandi ikinyoma (ubuhakanyi) nta gishya gishobora kuzana cyangwa ngo kigire icyo kigarura.”

\* قُلْ إِنَّمَا أَعْظُمُكُمْ بِوَحْدَةِ اللَّهِ الَّتِي لَا يَتَّقُونَ  
وَقُرَدًا ثُمَّ تَفَكَّرُوا مَا يَصْنَعُونَ  
إِنَّهُوَ الْأَنَدِيرُ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيِّ عَذَابٍ شَدِيدٍ

٤٦

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ كُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى  
اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

٤٧

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْدِفُ بِالْحَقِّ عَلَمَ الْغَيُوبِ

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبَدِّي الْبَطْلُ وَمَا يُعِيدُ

٤٨

50. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Ndamutse nyobye, naba nyobye ku bwanjye; ariko ninyoboka, bizaba bitewe n’ibyo Nyagasanwanjye yampishuriye. Mu by’ukuri We ni Uwumva bihebuje, uri hafi (ya byose).”

51. (Wari kubona ibantu bihambaye) iyo uza kubabona bahiye ubwoba, nta buhungiro bafite, bafatwa bakuwe hafi (abajanwa mu muriro).

52. (Abahakanyi ubwo bazaba babonye ibihano) bazavuga batii “Ubu twemeye (**Allah**)”; ariko se ni gute bakwakira ukwemera (bakanababarirwa ibyaha byabo) kandi bari kure (y’ubuzima bwo ku isi)?

53. Kandi bari baramuhakanye mbere (ku isi), bakanabifata uko babyumva bari kure (y’ukuri).

54. Kandi bazabuzwa kugera ku byo bifusa (ari byo kwicuza no kwemera) nk’uko byakorewe abari bameze nka bo mbere. Mu by’ukuri bari mu gushidikanya guteye inkeke.

قُلْ إِنَّ ضَلَالَكُمْ تُفَانِيْمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِيٍّ وَإِنَّ أَهَدَيْتُ فِيمَا يُوْرِحُ إِلَيْ رَبِّ إِنَّهُ وَسَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿٥١﴾

وَلَوْ تَرَىَ إِذْ فَزِعُوا فَلَأَفَوْتَ وَلَخُدُوا مِنْ مَكَانٍ

قَرِيبٌ ﴿٥٢﴾

وَقَالُوا إِمَّا مَنْتَ بِهِ وَإِنَّ أَهْمُ الْتَّنَاؤُشُ مِنْ مَكَانٍ

بَعِيدٌ ﴿٥٣﴾

وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلٍ وَيَقْدِفُونَ  
بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٤﴾

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشَهُونَ كَمَا فِعَلَ  
بِأَشْيَا عِهْمَ مِنْ قَبْلٍ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍ مُّرِيبٍ ﴿٥٥﴾

## 35 - SURAT FATWIR

(UMUHANZI WA BYOSE)

Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirongo 45.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Ishimwe n'ikuzo byuzuye bikwiye Allah, Umuhanzi w'ibirere n'isi, wagize abamalayika Intumwa zifite amababa abiri, atatu cyangwa ane. Yongera ibyo ashaka mu byo arema. Mu by'ukuri Allah ni Ushobora byose.

2. Ibyo Allah aha abantu mu mpuhwe (ze mu byiza n'ibindi) nta wabikumira, ndetse n'ibyo yahagaritse nta wabirekura usibye We. Kandi ni We Munyembaraga zihebuje, Nyirubugenge buhambaye.

3. Yemwe bantu! Nimwibuke inema za Allah yabahundagajeho! Ese hari undi muremyi utari Allah wahaha amafunguro aturutse mu kirere no ku isi? Nta yindi mana ikwiye gusengwa by'ukuri itari We. Ese ni gute muteshwa ukuri?

4. Kandi nibaramuka baguhinyuye, (umenye ko) rwose n'Intumwa zakubanjirije zahinyuwe, ndetse ko kwa Allah ari ho ibintu byose bizasubizwa.

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ  
رُسُلًا أُولَئِيْ أَجْنَاحَةٍ مَّثْنَى وَثَلَاثَ وَرُبَعَ يَزِيدُ فِي  
الْخُلُقِ مَا يَاشَأْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾

مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكٌ لَهَا وَمَا  
يُمْسِكُ فَلَا مُرْسَلٌ لَهُ وَمِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ  
الْحَكِيمُ ﴿٢﴾

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ  
خَلِيقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ  
إِلَّا هُوَ فَإِنَّ تُؤْفَكُونَ ﴿٣﴾

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِلَى اللَّهِ  
تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٤﴾

5. Yemwe bantu! Mu by'ukuri isezerano rya Allah ni ukuri. Bityo rero ubuzima bwisi ntibuzabarangaze, kandi rwose Shitani ntizabashuke (ngo ibakure mu nzira ya) Allah.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ فَلَا تَغْرِبُكُمُ الْحَيَاةُ  
الْمُدُنُّا وَلَا يَغْرِبُكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ٥

6. Mu by'ukuri Shitani ni umwanzi wanyu; bityo nimumufate nk'umwanzi. Ahamagarira abambari be kugira ngo babe mu bantu bo mu muriro ugurumana.

إِنَّ الشَّيْطَنَ لَكُمْ عَدُوٌ فَلَا تَخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا  
حَرَبَهُ وَلِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ٦

7. Ba bandi bahakanye bazahanishwa ibihano bikaze; naho abemeye bakanakora ibikorwa byiza, bazababarirwa ibyaha ndetse banagororerwe ingororano zihebuje (Ijuru).

الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا  
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ٧

8. Ese uwakundishijwe ibikorwa bye bibi, maze akabona ko ari ibyiza (ahwanye n'uwo Allah yayoboye akabasha gutandukanya ikibi n'icyiza)? Mu by'ukuri Allah arekera mu buyobe uwo ashaka akanayobora uwo ashaka. Bityo, umutima wawe ntuzababazwe na bo; kuko mu by'ukuri Allah azi neza ibyo bakora.

أَفَمَنْ زَيْنَ لَهُ وَسُوءُ عَمَلِهِ فَرَءَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضْلِلُ  
مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذَهَّبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ  
حَسَرَتٌ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ٨

9. Kandi Allah ni we wohereza imiyaga ikazamura (ikikorera) ibicu, maze tukabyerekeza ku butaka bwapfuye (bigatanga imvura), tukayibuhesha ubuzima nyuma yo gupfa

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثْبِرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ  
بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ  
النُّشُورُ ٩

kwabwo. Ni nk'uko izuka rizagenda.

10. Ushaka icyubahiro amenye ko icyubahiro cyose ari icya **Allah** (maze abe ari ho agishakira). Iwe ni ho amagambo meza yose azamuka ajya, ndetse n'ibikorwa byiza arabizamura. Naho ba bandi bacura imigambi mibisha bazahanishwa ibihano bikaze. Kandi imigambi mibisha yabo izaba imfabusa.

11. Kandi **Allah** ni We wabaremye abakomoye mu gitaka, hanyuma mu ntanga, hanyuma abagira ibitsina bitandukanye (gabo na gore). Kandi nta gitsina gore gitwita cyangwa ngo kibyare (**Allah**) atabizi. Ndetse nta n'ubaho igihe kirekire cyangwa igitu bitari mu gitabo (cy'igeno). Mu by'ukuri ibyo kuri **Allah** biroroshye.

12. Kandi inyanja ebyiri ntizishobora kumera kimwe: imwe ifite amazi y'urubogobogo amara inyota, n'indi y'urwunyunu rukaze. No muri (izo nyanja) zombi mubonamo inyama murya z'umwimerere (amafi), mukanakuramo imitako mwambara. Kandi ubona amato muri zo agenda azibeyura kugira ngo mushakishe ingabire ze,

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَزَّةَ فَلِلَّهِ الْعَزَّةُ حَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْدُعُ  
الْكِبْرُ الظَّبْيُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ  
يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكَرٌ  
أُولَئِكَ هُوَيْبُورٌ

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ  
جَعَلَكُمْ أَرْوَاحًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْشَى وَلَا تَضَعُ  
إِلَّا يُعْلَمُهُ وَمَا يُعْمَرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ  
عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبُ فُرَاتٍ سَاعِيًّا  
شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أَجَاجٌ وَمَنْ كُلَّ تَأْكُلُونَ  
لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَحْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُوهَا  
وَتَرَى الْفُلَكَ فِيهِ مَوَلَّخَ لِتَبْغَوْ مِنْ فَضْلِهِ  
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

ndetse no kugira ngo mubashe gushimira.

13. (Allah) yinjiza ijoro mu manywa akaninjiza amanywa mu ijoro. Yanorohje izuba n'ukwezi (ku bw'inyungu z'ibiremwa); buri kimwe kizenguruka (mu mbibi zacyo) ku gihe cyagenwe. Uwo ni Allah, Nyagasani wanyu; ubwami ni ubwe. Naho ibyo musaba bitari we, nta cyo bitunze habe n'agashishwa k'urubuto rw'itende.

14. Niba mubisaba ntibyumva ubusabe bwanyu, biramutse binumvise ntibyabasubiza, ndetse ku munsi w'imperuka bizahakana ibangikanya ryanyu. Kandi nta wakubwira inkuru (z'ukuri) nk'Umumenyi wa byose (Allah).

15. Yemwe bantu! Muri abakene imbere ya Allah. Ariko Allah niwe Uwihagije, Ushimwa cyane.

16. Abishatse yabakuraho maze akazana ibindi biremwa bishya (bimwumvira kubarusha).

17. Kandi ibyo kuri Allah ntibigoye.

يُولِّجُ الْيَلِ فِي النَّهَارِ وَيُولِّجُ النَّهَارَ فِي الْيَلِ  
وَسَخَّرَ السَّمَاءَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَحْرِي لِأَجَلٍ  
مُسَمَّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ  
وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ

قطمير

إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُونَ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا  
أَسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَقْرَئُونَ الْقِيَمَةَ يَكْفُرُونَ  
بِشَرِّكِكُمْ وَلَا يُتَسْتَكَّ مِثْلُ خَيْرٍ

\* يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفَقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ  
الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

إِنْ يَشَاءُ يُذْهِبَ كُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ

وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ

18. Nta we uzikorera umutwaro w'undi, kandi nihagira utabaza aremerewe n'ibyaha agira ngo yakirwe uwo mutwaro, nta na kimwe azakirwaho kabone n'iyo yatabaza abo bafitanye isano ya hafi. Mu by'ukuri (yewe Muhamadi), uburira abatinya Nyagasani wabo batamubona ndetse bakanahozaho iswala. N'uwiyejeje (yitandukanya n'ibyaha byose), mu by'ukuri aba yiyejeje ku bwe. Kandi kwa **Allah** ni ho byose bizasubira.

19. Kandi impumyi (udasobanukiwe amategeko y'idini) ntishobora kumera nk'ubona (uri mu nzira itunganye).

20. Nta n'ubwo umwijima (ubuyobe) ushobora kumera nk'urumuri (ukuyoboka).

21. Ndetsé n'ikibunda ntigishobora kumera nk'ubushyuhe.

22. Nta n'ubwo abazima (abemeramana) bamera nk'abapfu (abahakanyi). Mu by'ukuri **Allah** aha kumva (ukuri) uwo ashaka, ariko (wowe Muhamadi) ntushobora kumvisha abari mu mva.

23. Ahubwo wowe uri umuburizi gusa.

وَلَا تَزِرُ وَازْرَةٌ وَزِرَارَةٌ وَلَنْ تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَاقُرِيَّا إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَرَكَ فَإِنَّمَا يَتَرَكَ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ

وَلَا أَظْلَمْتُ وَلَا أُنْتُرُ

وَلَا أَظِلُّ وَلَا أَحْرُرُ

وَمَا يَسْتَوِي الْأَحَيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي

الْقَبُورِ

إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ

24. Mu by'ukuri twakohereje tuguuhaye ukuri (Isilamu); utanga inkuru nziza (ku bemeramana) unaburira (abahakanyi). Kandi nta muryango (Umat) wabayeho utaragezweho n'Umuburizi.

25. Kandi nibaguhinyura (uzamenye ko) rwose n'ababayeho mbere yabo bahinyuye. Intumwa zabo zabazaniye ibitangaza bigaragara, inyandiko (zikubiyemo ubutumwa) ndetse n'ibitabo bitanga urumuri (ariko barabihinyura).

26. Hanyuma mfata ba bandi bahakanye (ndabahana). Mbega uko ibihano byanje byari bikaze!

27. Ese ntubona ko Allah yamanuye amazi mu kirere, tukayameresha imbuto z'amabara atandukanye? (Twanashyize) mu misozi ibiharabuge by'amabara yera n'atukura, bifite amabara atandukanye, ndetse (n'indi misozi) yirabura cyane.

28. Ni nk'uko (twaremye) abantu, inyamaswa n'amatungo mu mabara atandukanye. Mu by'ukuri abatinyamana (nyabyo) mu bagaragu be ni abamenyi. Rwose Allah ni

إِنَّ أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِّرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ  
إِلَّا خَلَّ فِيهَا نَذِيرٌ ﴿٤٦﴾

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ  
جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالْزُّبُرِ  
وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿٤٧﴾

ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ ﴿٤٨﴾

أَلَّمْ تَرَأَنَ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا مَأْمَأَ فَأَخْرَجَنَا  
بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَوْلَاهَا وَمِنَ الْجِبَالِ  
جُدُودٌ يَضْرُبُ وَحْمَرٌ مُّخْتَلِفُ أَوْلَاهَا وَغَرَابِيبٌ

سُوْدٌ ﴿٤٩﴾

وَمِنَ النَّاسِ وَالْمَوَآبِ وَالْأَنْعَمِ مُخْتَلِفُ  
الْوَنْهُ وَكَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْتَصِي اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعَلَمُؤُمُّا  
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٥٠﴾

Umunyacyubahiro bihebuje,  
Ubabarira ibyaha.

29. Mu by'ukuri ba bandi basoma igitabo cya Allah (Qur'an), bagahozaho iswala, bakanatanga (amaturo) mu ibanga ndetse no ku mugaragaro mu byo twabafunguriye, bizeye ubucuruzi butazahomba.

30. Kugira ngo azabagororere ingororano zabo zuzuye kandi anabongerere mu ngabire ze. Mu by'ukuri ni Ubabarira ibyaha, Ushima bihebuje (ibikorwa by'abagaragu be).

31. Kandi (yewe Muhamadi) ibyo twaguhishuriye mu gitabo (Qur'an) ni ko kuri gushimangira ibyahishuwe mbere yabyo. Mu by'ukuri Allah ni Umumenyi wa byose, Ubona bihebuje abagaragu be.

32. Maze duha umurage w'igitabo abo twatoranyije mu bagaragu bacu. Muri bo hari abihemukiye (bagira ibibi bakora), abandi baba hagati (bakora ibibagomba gusa), naho abandi baza imbere mu gukora ibyiza (binyuranye) ku bushake bwa Allah. Izo ni ingabire zihambaye.

إِنَّ الَّذِينَ يَتَلَوَنَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَمُوا الصَّلَاةَ  
وَأَنَفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمْ سَرًّا وَعَلَانِيةَ يَرْجُونَ تَجْرِيَةَ  
لَنْ تَبُوَرَ ﴿٢٩﴾

لِيُوقِّيْهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ وَ  
عَفْوُرْ شَكُورٌ ﴿٣٠﴾

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ أَحَدٌ  
مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَيْرٌ  
بَصِيرٌ ﴿٣١﴾

لَئِنْ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ أَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا  
فِيمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ  
سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ

الْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾

33. Bazinjira mu busitani buhoraho (Ijuru rya Edeni), maze bazambikirwemo ibikomo bya zahabu n'amasaro arabagirana, ndetse n'imyambaro yabo izaba ari ihariri (ikoze mu budodo bw'amagweja).

34. Bazanavuga bati “Ishimwe n'ikuzo byuzuye ni ibya Allah, We watumaze agahinda. Rwose Nyagasani wacu ni Ubabarira ibyaha, Ushima (ibikorwa by'abagaragu be).”

35. We, ku bw'ingabire ze wadutuje mu nzu izahoraho, aho tutazagerwaho n'umuruho ndetse n'umunaniro.

36. Naho ba bandi bahakanye, bazahanishwa umuriro wa Jahanamu. Ntabwo uzabica ngo bapfe ndetse nta n'ubwo bazoroherezwa ibihano byawo. Uko ni ko duhemba buri muhakanyi uhambaye.

37. Bazanawuborogeramo (bagira bati) “Nyagasani wacu! Dukuremo dukore ibikorwa byiza tutajyaga dukora.” (Allah azabasubiza) ati “Ese ntitiwabahaye kubaho igihe kirekire kugira ngo utekereza? abashe gutekereza? Ndetsen'umuburizi yabagezeho. Ngaho

جَتَّتْ عَدَنْ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ  
مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ

وَقَالُوا لَهُمْ لَهُمْ أَذْهَبَ عَنَّا الْحُزْنَ إِنَّ  
رَبَّنَا الْغَفُورُ شَكُورٌ

الَّذِي أَحَدَنَا دَارَ الْمُقَامَةَ مِنْ فَصِيلَةٍ لَا يَمْسِنَا  
فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمْسِنَا فِيهَا الْغُوبُ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ نَارٌ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ  
فِيمُوتُوا وَلَا يُخْفَفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ  
يَنْجِزِي كُلَّ كَفُورٍ

وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلَ  
صَدِيقًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوْمَ نَعْمَرُ كُمَا  
يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَدَكَّرَ وَجَاءَ كُمَا الْأَنَيْرُ  
فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ

nimwumumve (ibihano). Inkozi z'ibibi ntizizagira umutabazi."

38. Mu by'ukuri **Allah** ni Umumenyi w'ibitagaragara byo mu birere no mu isi. Rwose ni We Mumenyi uhebuje w'ibiri mu bituza (by'abantu).

39. Ni We wabagize abasigire ku isi. Bityo uzahakana, ubuhakanyi bwe buzamugiraho ingaruka. Kandi ubuhakanyi nta kindi bwongerera abahakanyi imbere ya Nyagasani wabo usibye ikimwaro (ipfunwe); ndetse nta n'ikindi bubongerera usibye igihombo.

40. Vuga (yewe Muhamadi) uti "Ese ntimubona ibigirwamana byanyu mugaragira bitari **Allah**? Nimunyereke icyo byaremye ku isi. Ese byaba byaragize uruhare mu iremwa ry'ibirere, ahubwo se twaba twarabahaye igitabo bakaba ari cyo bakomoramo ibimenyetso bigaragara bagenderaho? (Oya!) Ahubwo ibyo ababangikanyamana bamwe basezeranya abandi ni ibinyoma."

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ عَيْنِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٨﴾

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ  
كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَفِيفُينَ كُفُّرُهُمْ عَنْ دِرِيَّهُمْ إِلَّا  
مَقْتَلًا وَلَا يَزِيدُ الْكَفِيفُينَ كُفُّرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٢٩﴾

فَلْ أَرَءَيْتَ شُرَكَاءَ كُلِّ الْذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ  
أَرْوَاهُنِي مَاذَا حَقَّقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شَرِيكٌ فِي السَّمَوَاتِ  
أَمْ ءَاتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَاتِ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعْدُ  
الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿٣٠﴾

41. Mu by'ukuri **Allah** ni We ufashe ibirere n'isi kugira ngo bitava mu myanya yabyo. Kandi biramutse biyivuyemo nta wundi wabifata utari We. Rwose (**Allah**) ni Uworohera (abagaragu be), Ubabarira ibyaha.

42. Banarahiye ku izina rya **Allah** mu ndahiro zabo zikomeye ko rwose nibaramuka bagezweho n'umuburizi bazayoboka kurusha abandi bose; nyamara ubwo Umuburizi (Muhamadi) yabageragaho, nta kindi byabongereye kitari uguhunga (banga ukuri),

43. Kubera uwibone bwabo ku isi n'imigambi yabo mibisha. Kandi imigambi mibisha igaruka bene yo. Ese hari ikindi bategereje kitari umugenzo (guhanwa) nk'uko byagendekeye abababanjirije? Kandi ntuzigera ubona icyasimbura umugenzo wa **Allah**, ndetse ntuzigera ubona icyahindura umugenzo wa **Allah**.

44. Ese ntibatambagira isi ngo barebe uko iherezo ry'abababanjirije ryagenze kandi bari bakomeye banafite imbaraga kubarusha? Nta cyananira **Allah** mu birere no ku isi. Mu by'ukuri (**Allah**) ni Umumenyi uhebuje, Ushobora byose.

\* إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَرُولَا

وَلَئِنْ زَلَّتَا إِنَّ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ وَكَانَ

حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٦﴾

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَنِهِمْ لِئَنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُ

أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأَمْمَرِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا

زَادُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤٤﴾

أَسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرُ السَّيِّئِ وَلَا يَحْقِيقُ

الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِآهَلِهِ وَهَلْ يُنْظَرُونَ إِلَّا سُتَّ

الْأَوْلَيْنِ فَنَّ تَحْدِلُ سُتُّنَ اللَّهِ تَبَدِيلًا وَلَنْ تَحْدِلُ سُتُّنَ

اللَّهُ تَحْوِيلًا ﴿٤٥﴾

وَلَرَ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَيْنَهُ

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ

اللَّهُ لِيُعِجِزَنَّ وَمِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي

الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا فَدِيرًا ﴿٤٦﴾

45. N'yo Allah aza kuba ari uhanira abantu ibyo bakoze, nta kiremwa na kimwe kigenda ku isi yari gusigaho; ariko arabarindiriza kugeza igihe cyagenwe. Kandi igihe cyabo nikigera (nta we uzamucika), kuko mu by'ukuri Allah ari Ubona abagaragu be bihebuje.

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ  
عَلَىٰ ظَهِيرَهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ  
إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عِبَادِهِ بَصِيرًا ﴿٤٥﴾

## 36 - SURAT YASIN

Yahishuriwe i Maka, igizwe n 'imirongo 83.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Yaa-siin<sup>184</sup>,

يَسٌ

2. Ndahiye iyi Qur'an yuje  
ubushishozi.

وَأَلْقَرْءَانِ الْحَكِيمِ ۝

3. Mu by'ukuri wowe  
(Muhamadi) uri umwe mu  
ntumwa (za Allah).

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝

4. (Kandi uri) mu nzira  
igororotse (ari yo ya Isilamu).

عَلَىٰ صَرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ۝

5. (Iyi Qur'an) yahishuwe  
n'Umunyacyubahiro bihebuje,  
Nyirimbabazi (Allah),

تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝

6. Kugira ngo uburire abantu  
(ibyo) abakurambere babo  
batigeze baburirwa, bityo  
bakaba ari indangare.

لِتُنذِرَ قَوْمًا أَنذَرَهُ أَبَوَاهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ۖ

7. Rwose imvugo (y'ibihano)  
yasohoreye kuri benshi muri  
bo, ubwo rero ntibazemera.

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ

<sup>184</sup> Inyuguti nk'izi twazivuzeho mu masura yatambutse.

8. Mu by'ukuri twashyize iminyururu mu majosi yabo (duhambira amaboko yabo) igeze ku twananwa, ari na yo mpamvu bazaba bararamye.

إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْتَقِهِمْ أَعْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ  
فَهُمْ مُقْمَدُونَ ﴿٨﴾

9. Kandi twashyize urusika imbere yabo n'inyuma yabo, maze turabapfukirana, bituma batabona.

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًا  
فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبَصِّرُونَ ﴿٩﴾

10. Wababurira utababurira, kuri bo byose ni kimwe, ntibazemera.

وَسَوْاءٌ عَلَيْهِمْ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا  
يُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾

11. Mu by'ukuri (yewe Muhamadi) uwo ushobora kuburira ni ukurikira urwibutso akanatinya (**Allah**) Nyirimpuhwe atamubona. Muhe inkuru nziza yo kubabarirwa ibyaha no kuzagororerwa ibihembo byiza (Ijuru).

إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ  
بِالْغَيْبِ فَبَشِّرُهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴿١١﴾

12. Rwose ni twe tuzura abapfuye, tukanandika ibyo bakoze n'ibyo basize (ibyiza n'ibibi), kandi buri kintu twakibaruye mu gitabo gisobanutse.

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا  
وَإِثْرَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ  
مُّبِينٍ ﴿١٢﴾

13. Unabahe urugero rw'abantu bo mu mudugudu (wa Antakiya)<sup>185</sup> ubwo Intumwa zabageragaho.

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا  
الْمُرْسَلُونَ ﴿١٣﴾

<sup>185</sup> Antakiya kuri ubu ni mu gihugu cya Turukiya.

14. Ubwo twaboherezaga Intumwa ebyiri bakazihinyura; maze tukazishyigikiza iya gatatu, nuko zikavuga ziti “Mu by’ukuri twoherejwe kuri mwe.”

15. (Abatuye uwo mudugudu) baravuga bati “Mwe nta cyo muri cyo usibye kuba muri abantu nkatwe, ndetse nta na kimwe Nyirimpuhwe yahishuye. Ahubwo mwe muri abanyabinyoma.”

16. (Intumwa) ziravuga ziti “Nyagasani wacu azi ko rwose twaboherejweho.”

17. Kandi nta kindi dushinzwe kitari uguohoza ubutumwa busobanutse.

18. (Abatuye uwo mudugudu) baravuga bati “Mu by’ukuri mwaradushingiriye (tubura imvura); nimutarekera aho, rwose turabatera amabuye, kandi ibihano bibabaza biduturutseho bizabageraho.”

19. (Intumwa) ziravuga ziti “Ni mwe mwishingiriye! Ese iyo mwibukijwe (muvuga ko ari ukubashingirira)? Ahubwo muri abantu barengera (mu gukora ibyaha).”

إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ أَنْتَنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزَنَا بِالْأَ ثِ  
فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ﴿١٦﴾

قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ  
مِنْ شَيْءٍ إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿١٧﴾

قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿١٨﴾

وَمَا عَلِيَّنَا إِلَّا أَبْلَغْنَا مُبِينًا ﴿١٩﴾

قَالُوا إِنَّا تَكْلِمَنَا كُمْ لَئِنْ لَّهُ تَنَاهَى هُوَ الْمَرْجِنَاتُ  
وَلَيَسَّنَكُمْ مَنَاعَذَابُ الْيَمِّ ﴿٢٠﴾

قَالُوا طَلِيلُكُمْ مَعَكُمْ أَنِّي دُكَّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ  
قَوْمٌ مُّسَرِّفُونَ ﴿٢١﴾

20. Nuko haza umugabo (Habibu Najar)<sup>186</sup> yihuta aturutse (kure) mu nkengero z'umujyi, aravuga ati “Bantu banje! Nimukurikire Intumwa”;

21. “Nimukurikire abatabasaba ibihembo, kandi banayobotse.”

22. “Kuki ntagaragira uwandemye kandi iwe ari na ho (namwe) muzasubizwa?”

23. “Ese nakwihitiramo izindi mana ndetse We (**Allah**)? Nyirimpuhwe aramutse ashaka ko ikibi kimbaho, nta cyo ubuvugizi bwazo bwamarira ndetse nta n’ubwo zandokora.”

24. “Mu by’ukuri ubwo naba ndi mu buyobe bugaragara.”

25. “Mu by’ukuri nemeye Nyagasani wanyu, bityo nimunyumve!”

26. (Nuko baramwica, maze abamalayika) baramubwira bati “Injira mu Ijuru.” Aravuga ati “Iyaba abantu banje bamenyaga,

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَكُوْمَ  
أَتَبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٦﴾

أَتَبِعُوا مَنْ لَا يَسْكُنُهُمْ أَجْرًا وَهُمْ  
مُهْتَدُونَ ﴿٦٧﴾

وَمَا لِي لَا عَبَدُ الَّذِي قَطَرَ فِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٦٨﴾

ءَلَّا تَخْدُ مِنْ دُونِهِ إِلَهٌ إِنْ يُرِدُنَ الْرَّحْمَنُ  
يُضْرِبُ لَا تُغْنِ عَنِ شَفَاعَتِهِمْ شَيْئًا وَلَا  
يُنْقَذُونَ ﴿٦٩﴾

إِنِّي إِذَا لَمْ يَضْلِلِ مُبِينٍ ﴿٤٤﴾

إِنِّي إِذَا مَنَّتْ بِرَبِّكُمْ فَأَسْمَعُونَ ﴿٤٥﴾

قِيلَ أَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَالَ يَكْلِيَتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾

<sup>186</sup>Habib Najar yari umwe mu bantu bakoraga ibikorwa byiza, akaba yarabuzaga abantu bo ku gihe cye kwica Intumwa z’Imana ahubwo akabashishikariza kuziyoboka.

27. Uburyo Nyagasani wanjye yangiriye ibambe, ndetse akananshyira mu bubahitse!"

بِمَا عَفَرَ لِرَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكَرَّمِينَ ﴿٢٧﴾

28. Kandi nyuma ye ntitwigeze twoherereza abantu be ingabo ziturutse mu kirere (zo kubarimbura), ndetse nta n'ubwo byari ngombwa ko tuzohereza.

\* وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمٍ مِّنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنُدٍ مِّنَ

السَّمَاءِ وَمَا كَانَ مُنْزَلِينَ ﴿٢٨﴾

29. Ukurimburwa kwabo kwabaye (gukubitwa n') urusaku rumwe gusa; nuko barazima (barapfa).

إِنْ كَانَتِ الْأَصْيَحَةُ وَحْدَةً فَإِذَا هُرْخَمِدُونَ ﴿٢٩﴾

30. Mbega akababaro ku bagaragu! Nta ntumwa yabageragaho ngo babure kuyinnyega.

يَحْسَرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ رَّسُولٍ إِلَّا  
كَانُوا بِعِيْدٍ يَسْتَهِزُونَ ﴿٣٠﴾

31. Ese ntibabona ibisekuru tworetse mbere yabo uko bingana? (Ntibabona) ko mu by'ukuri batagaruka (ngo bongere kubana na bo?)

أَلَّمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكَ كَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ  
إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٣١﴾

32. Kandi rwose, bose bazazanwa imbere yacu.

وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحَضِّرُونَ ﴿٣٢﴾

33. Kandi ikimenyetso kuri bo ni ubutaka bwapfuye (bwakakaye) dusubiza ubuzima, maze tukabukuramo imyaka bafungura.

وَإِيَّاهُ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا  
مِنْهَا حَبَّابَمْنَهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾

34. Ndetse twanabushyizeho ubusitani bw'imitende

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَبٍ  
وَفَجَرَنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿٣٤﴾

n'imirabibbu, tunavuburamo  
amasoko.

35. Kugira ngo bafungure ku mbuto zayo ndetse n'ibyakozwe n'amaboko yabo. Ese ntibashobora gushimira?

36. Ubutagatifu ni ubw'uwaremye ibitsina byombi (ikigabo n'ikigore); byaba mu bimera mu butaka byose, muri bo ubwabo (abantu) ndetse no mu byo batazi.

37. Kandi n'ikimenyetso kuri bo ni ijoro; turikuraho (umucyo w') amanywa maze bakaba mu mwijima.

38. Kandi izuba rigana mu mwanya ryashyiriweho (ni ikimenyetso kuri bo). Uko ni ukugena k'Umunyacyubahiro bihebuje, Umumenyi uhebuje.

39. Ndetse n'ukwezi (ni ikimenyetso kuri bo). Twagushyiriyebo ibyiciro kunyuramo, kugeza ubwo kongeye kuba nk'ishami ry'umutende rishaje.

40. Izuba ntirishobora guhurirana n'ukwezi cyangwa ngo ijoro rize mu mwanya w'amanwa. Kandi byose byogoga mu myanya yabyo.

لِيَاكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا  
يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلُّهَا مِمَّا  
تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمَنْ أَنْفُسُهُمْ وَمَمَّا لَا يَعْلَمُونَ

﴿٣٦﴾

وَإِيَّاهُ لَهُمْ أَيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ  
مُظْلِمُونَ ﴿٣٧﴾

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقِرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرٌ

الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٣٨﴾

وَالْقَمَرُ قَدَرَنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعَرْجُونَ

الْقَدِيرُ ﴿٣٩﴾

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا أَيْلُ  
سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ فِلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾

41. N'ikindi kimenyetso kuri bo ni uko twatwaye urubyaro rwabo mu bwato (bwa Nuhu) bwikoreye (n'ibindi).

وَإِيَّاهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذِرَّتَهُمْ فِي الْفُلُكِ الْمَسْحُونِ

٤١

42. Twanabaremeye ibindi bisa na bwo bagenderaho.

وَخَلَقْنَا لَهُم مِنْ مَثْلِهِ مَا يَرَكُونَ

٤٢

43. Kandi iyo tubishatse turabaro hamisha, maze ntibabone ubatabara cyangwa ngo barokorwe,

وَإِنَّ شَأْنًا نَغْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنَقَدُونَ

44. Uretse ku bw'impuhwe ziduturutseho, n'ibyishimo by'ihe gito.

إِلَارَحْمَةِ مَنَا وَمَتَاعًا إِلَى حِينِ

٤٣

45. N'yo babwiwe bati "Nimutinye ibiri imbere yanyu (ibihano byo ku isi) n'ibiri inyuma yanyu (ibihano byo ku mperuka), kugira ngo mugirirwe impuhwe (ntibumva)."

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَتَقُولُ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ

لَكُمْ يَوْمَ حِسْنَاتُكُمْ

٤٤

46. Kandi nta kimenyetso na kimwe mu bimenyetso bya Nyagasani wabo cyabageragaho ngo babure kugitera umugongo.

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ إِيَّاهُ مِنْ إِيَّاهُ رَبِّهِمْ إِلَّا

كَانُوا عَنْهَا مَعْرِضِينَ

٤٥

47. N'yo babwiwe bati "Nimutange mu byo Allah yabahaye, abahakanyi babwira abemeramana bati "Ese muragira ngo dufungurire uwo Allah yari gufungurira iyo aza kubishaka? Mwe nta handi muri hatari mu buyobe bugaragara."

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ

كَفَرُوا لِلَّذِينَ إِيمَنُوا أَنْطَلِعُمْ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ

أَطْعَمَهُ وَإِنَّا نَنْهَا إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

٤٦

48. Baranavuga bati “Ese iryo sezerano (izuka) rizaba ryari, niba koko muri abanyakuri?”

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ

49. Nta kindi bategereje usibye urusaku rumwe (rw'impanda ya mbere) ruzabakubita bahugiyе mu mpaka.

مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ  
يَنْصِمُونَ

50. Nuko ntibashobore kugira umurage basiga habe no gusubira mu miryango yabo.

فَلَا يَسْتَطِعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ  
يَرْجِعُونَ

51. Nuko impanda ivuzwe (bwa kabiri), maze bahite basohoka mu mva (zabo) bagana kwa Nyagasan i wabo bihuta.

وَنَفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجَدَاتِ إِلَى رَبِّهِمْ  
يَنْسِلُونَ

52. Bavuga bati “Mbega ishyano tubonye! Ni nde utuzuye akadukura mu buryamo bwacu?” (Bazabwirwa bati) “Ibi ni byo Nyirimpuhwe yasezeranyije, kandi Intumwa zavuze ukuri.”

قَالُوا يَوْيَلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ  
الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ

53. (Izurwa ryabo) rizaterwa n'urusaku rumwe (rw'impanda), nuko ubwo bahite bazanwa imbere yacu.

إِن كَانَتِ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ  
لَدِيْنَا مُحَضِّرُونَ

54. (Babwirwa bati) “Uyu munsi nta muntu n'umwe uri bugire icyo ahuguzwa, kandi nta kindi muri buhemberwe usibye ibyo mwakoraga.”

فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا يُخْزَرُونَ إِلَّا مَا  
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

55. Mu by'ukuri abantu bo mu ijuru kuri uwo munsi bazaba bahugijwe n'umunezero.

إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكَهُونَ ﴿٦٦﴾

56. Bo n'abagore babo bazaba bari mu gicucu, bicaye begamye mu bitanda by'imisego myiza.

هُمْ وَأَرْجُوهُمْ فِي ظَلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكَبُّرُونَ

٦٦

57. Bazarihabwamo imbuto (z'ubwoko bwose) ndetse banabonemo ibyo bashaka byose.

لَهُمْ فِيهَا قَكِيرَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ ﴿٦٧﴾

٦٧

58. (Bazabwirwa bati) “Salamu (mugire amahoro)!” Izaba ari imvugo iturutse kwa Nyagasani, Nyirimbabazi.

سَلَامٌ فَقَلَّ مَنْ رَبِّ رَحْمَةً

٦٨

59. Inkozi z'ibibi (zizabwirwa ziti) “Uyu munsi nimwigireyo mwa nkozi z'ibibi mwe (nimwitandukanye n'abemeramana).”

وَأَمْتَزُوا الْيَوْمَ أَيْهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٦٩﴾

٦٩

60. Ese yemwe bene Adamu! Sinabategetse ko mutagomba kugaragira Shitani kuko mu by'ukuri ari umwanzi wanyu ugaragara?

\*اللَّهُ أَعْهَدَ إِلَيْكُمْ بَيْنَ إِذَا دَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا

الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٠﴾

٦٠

61. Kandi ko mugomba kugaragira Njye (njenyenine). Iyo ni yo nzira igorotse.

وَإِنَّا عَبْدُونَ فِي هَذَا صَرْطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾

٦١

62. Rwose (Shitani) yayobeje abenshi muri mwe. Ese nta bwenge mwagiraga?

وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِلَّا كَثِيرًا فَمَا تَكُونُوا  
تَعْقِلُونَ ﴿٦٣﴾

63. Uyu ni wo muriro wa Jahanamu mwajyaga musezeranywa!

هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٦٤﴾

64. Nimuwinjiremo uyu munsi kubera guhakana kwanyu.

أَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُّرُونَ ﴿٦٥﴾

65. Uyu munsi turafunga iminwa yabo maze amaboko yabo atubwire, ndetse n'amaguru yabo ahamye ibyo bakoraga.

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ  
وَتَسْهِدُ أَرْجُلَهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٦٦﴾

66. Kandi n'yo tuza kubishaka twari kubamburgura amaso yabo (tukabagira impumyi burundi) maze bagatanguranwa (kugana) inzira (yacu); ese ubwo bari kuyibona bate?

وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا  
الصِّرَاطَ فَإِنَّمَا يُبَصِّرُونَ ﴿٦٧﴾

67. N'yo dushaka twari kubahindura (ibindi bintu) bakaguma aho bari, ntibashobore kugenda cyangwa ngo bagaruke.

وَلَوْ نَشَاءُ لَسَخَنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا  
أَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿٦٨﴾

68. Kandi uwo duhaye kuramba, tumusubiza inyuma mu miremekere (agasubira ibwana). Ese nta bwenge bagira?

وَمَنْ نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْحَقِّ أَفَلَا  
يَعْقِلُونَ ﴿٦٩﴾

69. Kandi (Muhamadi) ntitwamwigishije ibisigo ndetse ntibinamukwiye; ahubwo ibyo

وَمَا عَلِمْتُهُ الشِّعْرُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ  
وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ ﴿٧٠﴾

avuga ni urwibutso bikaba na  
Qur'an isobanutse.

70. Kugira ngo iburire abafite imitima mizima, kandi imvugo (yo guhanwa) ibe impamo ku bahakanyi.

71. Ese (abahakanyi) ntibabona ko mu byo amaboko yacu yakoze (harimo n'uko) twabaremeye amatungo bakaba bayatunze?

72. Ndetse tukanayabacishiriza bugufi, amwe muri yo bakayagendaho andi bakayarya.

73. Banayakuramo izindi nyungu ndetse n'ibyo kunywa. Ese ntibashimira?

74. Banishyiriye izindi mana zitari **Allah** biringiye ko bazatabarwa (na zo).

75. Ntizizashobora kubatabara, ahubwo zizazanwa ari ingabo zo kubarwanya.

76. (Yewe Muhamadi) ntugaterwe agahinda n'imvugo yabo (amagambo yabo). Mu by'ukuri twe tuzi ibyo bahisha n'ibyo bagaragaza.

لَيَنذِرَ مَن كَانَ حَيَا وَيَمْكُثُ الْقَوْلُ عَلَىٰ  
الْكُفَّارِ

أَوْلَئِكَ يَرْفَأُ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلْتُمْ أَيْدِينَا  
أَنْعَمْنَا فَهُمْ لَهُمْ لِكُونَ

وَذَلِكُنَّهَا لَهُمْ فِيهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ

وَلَهُمْ فِيهَا مَنْفَعٌ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ

وَاتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لَّهُمْ  
يُنْصَرُونَ

لَا يَسْتَطِعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنُدٌ  
مُّحَضَّرُونَ

فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسْرِرُونَ وَمَا  
يُعْلَمُونَ

77. Ese umuntu (uhakana izuka) ntabona ko twamuremye mu ntanga, maze nyuma akaba umunyempaka ugaragara?

أَوَ لَمْ يَرَ إِلَّا نَسْنَنُ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ  
خَصِيمٌ مُّمِينٌ ٧٧

78. Yaduhaye urugero<sup>187</sup> yibagirwa ukuremwa kwe, maze aravuga ati “Ni nde wazura aya magufa kandi yarabaye ubuvungukira?”

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ وَقَالَ مَنْ يُحْكِي  
الْعِظَلَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ ٧٨

79. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Azazurwa n’Uwayaremye bwa mbere, kandi ni We Mumenyi uhebuje wa buri kiremwa.”

قُلْ يُحَمِّلُهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَ بِكُلِّ  
خَلْقٍ عَلِيمٌ ٧٩

80. We wabashyiriye ho umuriro awuvanye mu giti kibisi hanyuma mukawucana.

الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا  
فَإِذَا آتَيْتُمْ مِّنْهُ تُوقَدُونَ ٨٠

81. Ese awaremye ibirere n’isi ntiyashobora kurema abameze nka bo? Ni byo koko! Kandi ni We Muremyi, Umumenyi uhebuje.

أَوْلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ  
عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بِلَيْلٍ وَهُوَ الْخَلَقُ الْعَلِيمُ ٨١

82. Mu by’ukuri itegeko rye iyo ashaka ko ikintu kiba, arakibwira ngo “Ba, nuko kikaba!”

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ  
فَيَكُونُ ٨٢

83. Bityo ubutagatifu ni ubw’ufite ubwami bwa buri kintu mu kuboko kwe, kandi iwe ni ho muzasubizwa.

فَسُبْحَانَ الَّذِي يَدِيهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ  
تُرْجَعُونَ ٨٣

<sup>187</sup> Urugero ruvugwa muri uyu murongo; ni umuntu utaremeraga izuka waje ku Ntumwa y’lmana (Muhamadi), maze afata igufa ryashenye akarivungagura nuko akavuga ati “Ese koko Nyagasani wawe ashobora kuzura nyir’iri gufa?”

## 37 - SURAT ASWAFATI

(ABARI KU MIRONGO)

Yahishuriwe i Maka, igizwe n 'imirongo 182.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Ndahiye (abamalayika bahagaze) ku mirongo itunganye (basenga).

وَالصَّافَاتِ صَفَّاً ﴿١﴾

2. N'abajyana ibicu (babyerkeza aho Allah ashaka).

فَالْأَرْجَاتِ نَجَّارًا ﴿٢﴾

3. N'abasoma (amagambo ya Allah) basingiza (Nyagasan wabo).

فَالثَّالِتِ ذِكْرًا ﴿٣﴾

4. Mu by'ukuri Imana yanyu ni imwe.

إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ﴿٤﴾

5. Nyagasan w'ibirere n'isi ndetse n'ibiri hagati yabyo, akaba na Nyagasan w'uburasirazuba bwose<sup>188</sup>.

رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ  
الْمَشَرِقِ ﴿٦﴾

6. Mu by'ukuri ikirere cyegereye isi twagitakishije inyenyeri.

إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّجَى بِزِينَةٍ أَكْلَمِكِ ﴿٧﴾

7. Tunakirinda buri shitani ryose ryigometse (dukoresheje ibishashi by'umuriro).

وَحَفَظَاهُمْ كُلُّ شَيْطَنٍ مَّارِدٍ ﴿٨﴾

<sup>188</sup> Izuba rirasira mu duce 365, rikanarengera mu duce 365, ari byo bingana n'iminsi igize umwaka. Buri munsi rirasira mu gice gishya kugeza umwaka urangiye, hanyuma rikazagaruka aho ryahereye nyuma y'umwaka.

8. Ntashobora (amashitani) kumviriza (ibivugwa n') abanyacyubahiro bo hejuru (abamalayika), kubera ko aterwa (ibishashi) mu mpande zose.

لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيَهْدَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ



9. Bigamije kuyirukana. Kandi (no ku munsi w'imperuka) azahanishwa ibihano bihoraho.

دُحُورًا وَأَهْمَمْ عَذَابٍ وَاصِبٌ ﴿٩﴾

10. Usibye iribashije kwiba (ibanga) bwangu nuko rigakurikizwa ibishashi by'umuriro.

إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْحَظْفَةَ فَاتَّبَعَهُ وَشَهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿١٠﴾

11. Ngaho (yewe Muhamadi) babaze (abahakanyi b'i Maka) niba iremwa ryabo ari ryo rikomeye kurusha ibyo twaremye (ibirere n'isi ndetse n'imisozi). Mu by'ukuri twabaremye mu ibumba rimatira.

فَاسْتَقْتَهُمْ أَهْمَمْ أَشْدُدْ حَلَقًا أَمْ مَنْ خَلَقَنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ

مِنْ طِينٍ لَّا زِيمٌ ﴿١١﴾

12. Ahubwo uratangazwa (no kuba bahakana izuka) naho bo banannyega (ubutumwa bwawe).

بَلْ عَجَبٌ وَيَسْخَرُونَ ﴿١٢﴾

13. N'yo bibukijwe (amagambo ya Allah) ntibibuka.

وَإِذَا ذِكْرُوا الْأَيَّدِيْكُرُونَ ﴿١٣﴾

14. N'yo babonye igitangaza (giturutse kwa Allah) bashishikarizanya kukinnyega.

وَإِذَا رَأُوا إِيَّاهُ يَسْتَسْخِرُونَ ﴿١٤﴾

15. Maze bakavuga batì "Iki si ikindi usibye ko ari uburozi bugaragara."

وَقَالُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سُحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾

16. “Ese nidupfa tugahinduka igitaka ndetse n'amagufa (akabora) tuzazurwa koko?”

أَعْذَمْتَنَا كُلَّ أَثَرٍ أَبَا وَعَظِيمًا إِنَّا لِلنَّبِيِّنَ مَبْعَدُونَ ﴿١٦﴾

17. “N'abakurambere bacu (bazazurwa) se?”

أَوْءَابَأْوَنَا الْأَوَّلُونَ ﴿١٧﴾

18. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Yego! (muzazurwa), kandi muzaba musuzuguritse.”

قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَخْرُونَ ﴿١٨﴾

19. Mu by'ukuri impanda izavuzwa rimwe, maze (bazurwe) babone (ibyo basezeranyijwe).

فَإِنَّمَا هِيَ رَجْهَةٌ وَحْدَةٌ إِنَّا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿١٩﴾

20. Nuko bavuge bati “Mbega ishyano tubonye! Uyu ni umunsi w'ibihembo.”

وَقَالُوا يَوْمَئِنَاهُنَّا يَوْمَ الْدِينِ ﴿٢٠﴾

21. Uyu ni wo munsi w'urubanza mwajyaga muhinyura.

هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢١﴾

22. (Abamalayika bazababwira) bati “Mukoranye inkozi z'ibibi n'abambari bazo ndetse n'ibyo basengaga,

\* أَخْشِرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٢٢﴾

23. “Bitari **Allah**, maze muberekeze mu nzira igana umuriro ugurumana”,

مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صَرَاطِ الْجَحِيرِ ﴿٢٣﴾

24. “Munabahagarike kuko mu by'ukuri bagomba (kubanza) kubazwa.”

وَقُفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْعُولُونَ ﴿٢٤﴾

25. (Bazabazwa bati) “Byagenze bite ko mudatabarana (nk'uko mwabigenzaga ku isi)?”

مَا لِكُمْ لَا تَاصُرُونَ ﴿٢٥﴾

26. Ahubwo kuri uwo munsi bazaba baciye bugufi (basuzuguritse).

بَلْ هُمْ يَوْمًا مُسْتَسِمُونَ ﴿٢٦﴾

27. Nuko bamwe bahindukire berekere ku bandi babazanya

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٧﴾

28. Bavuga bati “Mu by’ukuri ni mwe mwatugeragaho mwitwaje idini kandi mugamije kutuyobia.”

قَالُوا إِنَّكُمْ تُشْرِكُونَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿٢٨﴾

29. Abandi babasubize bati “Ahubwo ntabwo mwari abemeramana”,

قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُنُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٢٩﴾

30. “Kandi nta bubasha twari tubafiteho; ahubwo mwari abantu barengera (imbibi za Allah).”

وَمَا كَانَ لَتَ اعْيَكُمْ مِنْ سُلْطَنٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَغِيَّنَ ﴿٣٠﴾

٣٠

31. “None imvugo ya Nyagasani wacu idusohoreyeho ko tugomba kumva ububabare bw’ibihano.”

فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَّابِقُونَ ﴿٣١﴾

32. “Twarabayobeje kuko mu by’ukuri natwe twari twarayobye.”

فَأَعْوَيْنَكُمْ إِنَّا كَنَّا أَغْوَيْنَ ﴿٣٢﴾

33. Kuri uwo munsi bose bazaba bafatanyije ibihano.

فَإِنَّهُمْ بِوَمِيزِنِ الْعَذَابِ مُشَتَّرُكُونَ ﴿٣٣﴾

34. Mu by’ukuri uko ni ko tugenza inkozi z’ibibi,

إِنَّا لَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٤﴾

35. Kuko iyo babwirwaga ko nta yindi mana ikwiye gusengwa by’ukuri uretse Allah, baribonaga.

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٥﴾

36. Bakanavuga bati “Ese koko tureke imana zacu kubera umusizi w’umusazi?”

وَيَقُولُونَ إِنَّا أَتَارُكُمْ إِلَهَنَا إِشَاعِرٌ مَحْمُونٌ ﴿٢٦﴾

37. Ahubwo (Intumwa Muhamadi) yazanye ukuri inahamya iby’Intumwa zayibanjirije.

بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ

38. Mu by’ukuri mwe (ababangikanyamana) mugiye kumva ibihano bibabaza.

إِنَّكُمْ لَذَا يَقُولُونَ عَذَابُ الْأَلَيْمِ

39. Kandi nta kindi muri buhemberwe kitari ibyo mwakoze.

وَمَا تُنْجِرُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

40. Uretse abagaragu ba Allah b’imbonera.

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخَلِّصِينَ

41. Abo bazahabwa amafunguro azwi (mu ijuru):

وَلَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ

42. Imbuto; kandi bazaba bubashywe,

فَرَأَكُوهُمْ مُكْرُمُونَ

43. Mu busitani bwujeinema (Ijuru).

فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ

44. Bari ku bitanda berekeranye,

عَلَى سُرُرٍ مُتَقَبِّلِينَ

45. Bazengurutswamo ibrahuri by’inzoga (zidasindisha) zavomwe mu migezi itemba,

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأسٍ مِنْ مَعِينٍ

46. Zererana, ziryoheye abazinywa.

بِيَضَاءَ لَذَّةِ لِلشَّرِبِينَ

47. Nta ngaruka zizabagiraho ndetse  
nta n'ubwo zizatuma bata ubwenge

لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنَزَّفُونَ ﴿٤٧﴾

48. Kandi bazaba bafite (abagore) barinda indoro zabo, b'amaso meza manini

وَعِنْهُمْ قَصَرَتُ الظَّرِيفَيْنِ ﴿٤٨﴾

49. Bameze nk'amagi yarinzwne neza.

كَاهْنَنَ يَضْ مَكْنُونٌ ﴿٤٩﴾

50. Maze bamwe bahindukire barebe abandi babazanye.

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٥٠﴾

51. Umwe muri bo azavuga ati “Mu by'ukuri nari mfite inshuti magara (ku isi)”,

قَالَ قَابِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿٥١﴾

52. Yajyaga ivuga iti “Ese wowe koko uri mu bemera (izuka)”?

يَقُولُ أَنَّكَ لَمْنَ أَمْصَدِيقَنَ ﴿٥٢﴾

53. “Ese nidupfa tugahinduka igitaka n'amagufa (akabora), tuzabazwa ibyo twakoze koko?”

إِذَا مِنْتَأْوِيْنَ اتَّرَابًا وَعَظَلَمًا إِنَّ الْمَدِيْنُونَ ﴿٥٣﴾

54. Avuge ati “Ese mushobora kureba (mu muriro)?”

قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَلِّعُونَ ﴿٥٤﴾

55. Nuko arebe amubone hagati mu muriro ugurumana.

فَأَطْلَعَ فَرَأَهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيرِ ﴿٥٥﴾

56. Avuge ati “Ndahiye ku izina rya Allah! Wari hafi yo kunyoreka.”

قَالَ تَعْلَمَهُ إِنِّي كَدَّ لَرْدِينَ ﴿٥٦﴾

57. “Iyo bitaza kuba ku bw'inema ya Nyagasani wanjye, nanjye nari kuba mu bazanywe (mu muriro nka we).”

وَلَوْلَا يَعْلَمَهُ رَبِّ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٥٧﴾

58. (Abazaba bari mu ijuru bazavuga bat) “Ese ntabwo tuzongera gupfa?”

أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتٍ<sup>٥٨</sup>

59. “Usibye gusa urupfu rwacu rwa mbere, ndetse nta n’ubwo tuzahanwa (nyuma y’uko twinjiye mu ijuru)?”

إِلَّا مَا تَنَّا أُولَئِي وَمَا نَحْنُ بِمُعَدِّيْنَ<sup>٥٩</sup>

60. “Mu by’ukuri iyi ni intsinzi ihambaye.”

إِنَّ هَذَا الْهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ<sup>٦٠</sup>

61. Ku rugero nk’uru, ngaho abakora (ibyiza) nibakore.

لِمِثْلِ هَذَا فَيَعْمَلُ الْعَمَلُونَ<sup>٦١</sup>

62. Ese kwakirwa gutyo si ko kwiza, cyangwa (kwakirizwa) igit iya Zaqum (kigira imbuto zirura cyane, ni byo byiza)?

أَذِلَّكَ خَيْرُنَّ لَا مَ شَجَرَةُ الْزَّقْوُمِ<sup>٦٢</sup>

63. Mu by’ukuri (icyo git) twakigize ikigeragezo ku bahakanyi.

إِنَّا جَعَلْنَاهَا اِفْتَنَةً لِّلظَّالِمِينَ<sup>٦٣</sup>

64. Ni igit iishibuka mu ndiba y’umuriro ugurumana.

إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيْمِ<sup>٦٤</sup>

65. Imbuto zacyo zimeze nk’imitwe y’amashitani.

طَعْنُهَا كَانَهُ وَرَوْسُ الشَّيَاطِينِ<sup>٦٥</sup>

66. Mu by’ukuri bazazirya bazuzuze inda.

فَإِنَّهُمْ لَا يَكُونُ مِنْهَا فِي الْعُوْنَ مِنْهَا الْبُطُونَ<sup>٦٦</sup>

67. Maze barenzeho amazi avangiyе yatuye.

ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا الشَّوَّبَا مِنْ حَمِيمٍ<sup>٦٧</sup>

68. Hanyuma ukugaruka kwabo kuzabe kwerekera mu muriro ugurumana.

ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِلْجَحِيْمِ<sup>٦٨</sup>

69. Mu by'ukuri basanze abakurambere babo barayobye.

إِنَّهُمْ أَلْفَوْا إِبَاءَهُمْ صَائِلِينَ ﴿٦﴾

70. Nuko na bo bihutira kugera ikirenge mu cyabo.

فَهُمْ عَلَىٰ إِثْرِهِمْ يُهَرَّعُونَ ﴿٧﴾

71. Kandi rwose abenshi mu babayeho mbere yabo barayobye.

وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٨﴾

72. Kandi mu by'ukuri twaranabohererereje ababurizi.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ ﴿٩﴾

73. Ngaho reba uko iherezo ry'ababuriwe ryagenze.

فَانْظُرْ كَيْفَ كَاتَ عَاقِبَةُ الْمُنْذِرِينَ ﴿١٠﴾

74. Uretse abagaragu ba Allah b'imbonera.

إِلَاعِبَادَ اللَّهِ الْمُخَلَّصِينَ ﴿١١﴾

75. Kandi rwose Nuhu yaratwiyambaje kandi ni twe beza bo gusubiza (uwatwiyambaje).

وَلَقَدْ نَادَنَا فُوحٌ فَنِيَعَمَ الْمُجِيْبُونَ ﴿١٢﴾

76. Nuko tumurokorana n'abantu be mu makuba ahambaye.

وَنَجَّيْتُهُ وَأَهْلَهُ وَمِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿١٣﴾

77. Maze dusigaza abamukomokaho.

وَجَعَلْنَا ذِرَّةً هُمُ الْبَاقِيَنَ ﴿١٤﴾

78. Tunamuha kuzasigara avugwa neza mu bazabaho nyuma ye.

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٥﴾

79. Amahoro nabe kuri Nuhu mu biremwa byose.

سَلَمٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمَيْنَ ﴿١٦﴾

80. Mu by'ukuri uko ni ko tugororera abakoze neza.

إِنَّا كَذَلِكَ بَخِزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٧﴾

إِنَّمَا مِنْ عَبَادَنَا الْمُؤْمِنُونَ ﴿٨١﴾

81. Mu by'ukuri yari umwe mu bagaragu bacu b'abemeramana (twarokoye).

ثُمَّ أَعْرَقْنَا الْأَخْرَيْنَ ﴿٨٢﴾

82. Hanyuma turohamisha abandi (bahakanye).

وَإِنَّ مِنْ شَيْئَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ ﴿٨٣﴾

83. Mu by'ukuri no mu bamukurikije harimo Ibrahimu.

إِذْ جَاءَ رَبَّهُ وَيَقْلِبُ سَلِيمًا ﴿٨٤﴾

84. Ubwo yaganaga Nyagasan'i we n'umutima ukeye.

إِذْ قَالَ لِأَيْمَهُ وَقَوْمَهُ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿٨٥﴾

85. Ubwo yabwiraga se n'abantu be ati "Ibi mugaragira ni ibiki?"

أَيْفِكَاهُ اللَّهُ كَاهُ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿٨٦﴾

86. "Ese ibigirwamana mwihibiye murets'e Allah ni byo mushaka?"

فَمَا ظَنَّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾

87. "Ese mutekereza iki kuri Nyagasan'i w'ibiremwa byose?"

فَنَظَرَ نَظَرَةً فِي النُّجُومِ ﴿٨٨﴾

88. Nuko (Ibrahimu) yitegerezza inyenyeri.

فَقَالَ إِنِّي سَقِيرٌ ﴿٨٩﴾

89. Maze aravuga ati "Mu by'ukuri njye ndarwaye"<sup>189</sup>.

فَتَلَوَّأَ عَنْهُ مُذَبِّرِينَ ﴿٩٠﴾

90. Nuko barahindukira barigendera.

فَرَأَى إِلَيْهِ الْمَهَمَّهَ فَقَالَ أَلَا تَكُونَ

91. Maze yinyabya (mu ibanga) ku bigirwamana byabo, nuko aravuga ati "Ese ntimurya (aya mafunguro mwateguriwe)?"

<sup>189</sup> Ibyo yabikoze ari amayeri yo kugira ngo asigare aho basengeraga ibigirwamana byabo kugira ngo abijanjagure, ndetse no kugira ngo atajyana na bo mu mihang'o yabo ya gipagani

92. “Bite byanyu ko mutavuga?”

مَا لَكُمْ لَا تَنْطَقُونَ ﴿٩٣﴾

93. Maze arabyadukira (mu ibanga) abijanjaguza ukuboko kwe kw'iburyo.

فَرَاغَ عَيْنُهُمْ ضَرِبًا بِالْيَمِينِ ﴿٩٤﴾

94. Nuko (ba babangikanyamana) bagaruka bamuganabihuta.

فَاقْبَلُوا إِلَيْهِ يَرْفُونَ ﴿٩٥﴾

95. Arababwira ati “Ese mugaragira ibyo mwihangiye”,

قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحَتُونَ ﴿٩٦﴾

96. “Kandi Allah yarabaremye, mwe n'ibyo mukora?”

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

97. Baravuga bati “Nimumwubakire itanura maze mumujugunye mu muriro ugurumana.”

قَالُوا أَبُوهُ الْأَوَّلِ بِنْ يَكْنَى فَالْقُوْدُ فِي الْجَحِيمِ ﴿٩٨﴾

98. Bamucuriye umugambi mubisha, nuko turabasuzuguza.

فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ أَسْقَلِينَ ﴿٩٩﴾

99. Nuko (amaze kurokoka umuriro) aravuga ati “Mu by'ukuri ngannye kwa Nyagasani wanjye, azanyobora.”

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَّهَدِينَ ﴿١٠٠﴾

100. “Nyagasani wanjye! Mpa (umwana) uzaba umwe mu ntungane.”

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠١﴾

101. Nuko tumuha inkuru nziza yo kuzabyara umuhungu witonda (ari we Isimayili).

فَبَشَّرَنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿١٠٢﴾

102. Maze (umuhungu we) amaze kugera mu kigero cyo kugendana na we, (ise) aravuga ati “Mwana wanjye! Mu by’ukuri narose nkubaga (ngutangaho igitambo kwa Allah), mbwira uko ubibona. Aravuga ati “Dawe! Kora icyo wategetswe, Allah nabishaka uzansanga mu bihangana.”

103. Nuko bombi bamaze kumvira (itegeko rya Allah), (Ibrahimu) amuryamisha hasi yubitse umutwe (kugira ngo amubage).

104. Maze turamuhamagara tuti “Yewe Ibrahimu!

105. Rwose wakabije inzozi. Mu by’ukuri uko ni ko duhemba abakora neza.”

106. Mu by’ukuri iki ni cyo kigeragezo kigaragara.

107. Nuko tumucunguza igitambo gihambaye (intama).

108. Tunamuha kuzasigara avugwa neza mubazabaho nyuma ye.

109. Amahoro nabe kuri Ibrahimu.

110. Uko ni ko tugororera abakoze neza.

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبُوئَ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ  
أَنِّي أَدْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَأَبَتِ أَفْعَلَ مَا  
تُؤْمِنُ سَتَّ حَدُونِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

١٦٣

فَلَمَّا آتَلَمَا وَتَلَهُ وَلِلْجَنِينِ

وَنَدَيْنَاهُ أَنِّيَابَرَاهِيمُ

قَدْ صَدَقَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجَزِي  
الْمُحْسِنِينَ

إِنَّهَذَا الْهُوَ الْبَلْوَأُ الْمُبِينُ

وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ

وَتَرَكَنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرَتِينَ

سَلَمٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

كَذَلِكَ نَجِزِي الْمُحْسِنِينَ

111. Mu by'ukuri (Ibrahimu) yari umwe mu bagaragu bacu b'abemeramana.

إِنَّهُ مِنْ عَبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١﴾

112. Kandi twamuhaye inkuru nziza (yo kuzabyara) Isihaka, akaba umuhanuzi (ndetse akaba n'umwe) mu ntungane.

وَبَشَّرَنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الْصَّابِرِينَ ﴿١٢﴾

113. Nuko we na Isihaka tubaha imigisha. No mu rubyaro rwabo harimo abakora ibyiza ndetse n'abihemukira ku buryo bugaragara.

وَبَرَّكَنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحَسِّنٌ ﴿١٣﴾

وَظَالَ الْأَنْفُسُ إِلَيْهِ مُبْيِنٌ ﴿١٤﴾

114. Kandi rwose Musa na Haruna twabahaye ingabire (y'ubutumwa).

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَرُونَ ﴿١٥﴾

115. Maze bombi n'abantu babo tubakiza amakuba ahambaye (yo kurohama).

وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِّنَ الْكَبِيرِ الْعَظِيمِ ﴿١٦﴾

116. Turanabatabara nuko baba ari bo batsinda.

وَنَصَرَنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَلَيْلِينَ ﴿١٧﴾

117. Nuko tubaha igitabo (Tawurati) gisobanutse,

وَأَتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَيْنَ ﴿١٨﴾

118. Tunabayobora inzira igororotse.

وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١٩﴾

119. Kandi twanabahaye kuzasigara bavugwa neza mu bazabaho nyuma yabo.

وَتَرَكَنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرَتِ ﴿٢٠﴾

120. Amahoro nabe kuri Musa na Haruna.

سَلَمٌ عَلَى مُوسَى وَهَرُونَ ﴿٢١﴾

121. Mu by'ukuri uko ni ko tugororera abakoze neza.

إِنَّا كَذَلِكَ بَخْرِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢١﴾

122. Rwose bombi bari mu bagaragu bacu b'abemeramana.

إِنَّهُمْ مَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢٢﴾

123. Kandi mu by'ukuri Iliyasi yari umwe mu ntumwa.

وَإِنَّ إِلَيْا سَأَلَ مَنْ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾

124. Ubwo yabwiraga abantu be ati “Ese ntimugandukira Allah?

إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَسْتَقُونَ ﴿١٢٤﴾

125. Ese musaba *Ba'ala* (ikigirwamana) muretse Umuremyi usumba abandi?

أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَلَقِينَ ﴿١٢٥﴾

126. Allah, Nyagasan i wanyu akaba na Nyagasan i w'abakurambere banyu?”

اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ إِبْرَاهِيمَ الْأَكْلِيلِينَ ﴿١٢٦﴾

127. Nuko (Iliyasi) baramuhinyura. Mu by'ukuri bazazanwa (kugira ngo bahanwe),

فَكَذَبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَحْضُرُونَ ﴿١٢٧﴾

128. Uretse abagaragu ba Allah b'imbonera.

إِلَّا عِبَادُ اللَّهِ الْمُحَاسِنُونَ ﴿١٢٨﴾

129. Twanamuhaye kuzasigara avugwa neza mu bazabaho nyuma ye.

وَتَرَكَنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ ﴿١٢٩﴾

130. Amahoro nabe kuri Iliyasi n'abamukurikiye.

سَلَمٌ عَلَى إِلَيْا يَسِينَ ﴿١٣٠﴾

131. Mu by'ukuri uko ni ko tugororera abakoze neza.

إِنَّا كَذَلِكَ بَخْرِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣١﴾

132. Mu by'ukuri (Iliyasi) yari mu bagaragu bacu b'abemeramana.

إِنَّهُ مِنْ عَبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٢﴾

133. Kandi rwose Lutwi yari umwe mu ntumwa.

وَإِنَّ لُوطاً لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ

134. Ubwo twamurokoraga n'ab'iwe bose,

إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٣٤﴾

135. Usibye gusa umukecuru (umugore we) wabaye mu basigaye (mu bihano),

إِلَاعْجُوزًا فِي الْعَابِرِينَ ﴿١٣٥﴾

136. Hanyuma abandi (bo mu mudugudu wa Sodoma) turabarimbura.

ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرَيْنَ ﴿١٣٦﴾

137. Kandi rwose mubanyuraho (ku matongo yabo) mu gitondo,

وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَيْهِمْ مُّصَبِّحِينَ ﴿١٣٧﴾

138. Ndetse na nijoro. Ese ntimutekereza?

وَبِالْيَلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٣٨﴾

139. Kandi mu by'ukuri Yunusu yari umwe mu ntumwa.

وَإِنَّ يُولُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٩﴾

140. (Wibuke) ubwo yahungiraga (nta ruhushya rwa Allah) mu bwato bwuzuye (abantu n'ibintu).

إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلُكِ الْمَسْحُونَ ﴿١٤٠﴾

141. Maze (akemera) kuba umwe mu batombora (kugira ngo bamenyе urohwa mu nyanja), nuko aratsindwa (aba ari we uyirohwamo).

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدَحَّضِينَ ﴿١٤١﴾

142. Nuko ifi iramumira agayitse (kuko yari yakoze igikorwa cyo gusiga abantu be

فَالْتَّقْمَةُ لَهُوَ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٤٢﴾

atabiherewe uburenganzira na Allah).

143. Iyo aza kuba atari mu basingiza Allah,

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَيْحِينَ ﴿١٤٣﴾

144. Yari kuguma mu nda yayo kugeza ku munsi (abantu) bazazurirwaho.

لَلَّبَثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبَعَّثُونَ ﴿١٤٤﴾

145. Nuko tumujugunya ku butaka bw'agasi ameze nk'umurwayi,

\*فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿١٤٥﴾

146. Maze aho yari ari tuhameza uruyuzi rwera ibihaza (kugira ngo rumugirire akamaro)

وَأَنْبَثْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِيلِينَ ﴿١٤٦﴾

147. Nuko tumwohereza ku bantu ibihumbi ijana cyangwa banarenga.

وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلِفٍ أَوْ يَنْ يَدُونَ ﴿١٤٧﴾

148. Maze baremera, nuko tubaha umunezero w'igihe gito.

فَأَمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ ﴿١٤٨﴾

149. Ngaho (yewe Muhamadi) babaze uti "Ese Nyagasani wawe afite abakobwa gusa, hanyuma bo bakagira abahungu?

فَاسْتَقْتَهُمْ أَرِبِيلَكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ﴿١٤٩﴾

150. Cyangwa twaremye abamalayika b'abakobwa babireba (ikaba ari yo mpamu bavuga ko abamalayika ari igitsina gore)?

أَمْ خَلَقْنَا الْمَلِئِكَةَ إِنَّا وَهُمْ شَهِدُونَ ﴿١٥٠﴾

151. Mu by'ukuri no mu binyoma byabo (ababangikanyamana b'i Maka) baravuga (bat):

أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِنْ كَيْهُمْ لَيَقُولُونَ ﴿١٥١﴾

152. “**Allah** yarabyaye (bavugaga ko abamalayika ari abakobwa ba **Allah**)” Nyamara rwose ni abanyabinyoma!

وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ

153. None se (ni ukubera iki)  
yaba yaratonesheje abakobwa  
akabarutisha abahungu?

أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ

154. Ese mwabaye mute?  
Amahitamo yanyu ashingira  
kuki?

١٥٤ مَالِكٌ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

155. Ese ntimutekereza?

فَلَا تَذَكُّرُونَ

156. Cyangwa mufite  
ibimenyetso bigaragara?

امِلَكُ سُلْطَن مُبِينٌ<sup>۹۹</sup>

157. Ngaho nimuzane igitabo  
cyanyu, niba muri abanyakuri!

فَأَتُوا بِكِتَابٍ كُوْنُتُمْ صَدِيقِنَ

158. Kandi banashyize isano hagati Ye (**Allah**) n'amajini, nyamara amajini yo azi neza ko azazanwa (imbere ya **Allah** kugira ngo acirwe urubanza).

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسْبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ

انْهُمْ لَمْ يَحْضُرُونَ

159. Ubutagatifu ni ubwa Allah,  
nta ho ahuriye n'ibyo  
bamwitirira!

سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ  
١٥٩

160. Uretse abagaragu ba Allah b'imbonera (ni bo batajya bagira ibvo bamwitirira).

الْأَعْبَادُ لِلَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٠﴾

161. Bityo, mu by'ukuri mwe  
(ababangikanyamana) ndetse  
n'ibvo mugaragira bitari Allah.

فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ

162. Nta n'umwe (mu bemeramana) mushobora kuyobya.

مَا أَنْتُ عَلَيْهِ بِفَلْتَنِينَ ﴿١٦٣﴾

163. Uretse abazajya mu muriro ugurumana.

إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِحٌ لِجَحِيرِ ﴿١٦٤﴾

164. Kandi nta n'umwe muri twe (abamalayika) udafite umwanya uzwi (mu ijuru).

وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْوُرٌ ﴿١٦٥﴾

165. Mu by'ukuri twe (abamalayika) dutonda imirongo (dusali nk'uko Abayisilamu babigenza).

وَإِنَّا نَحْنُ الصَّانُونَ ﴿١٦٦﴾

166. Kandi mu by'ukuri ni twe dusingiza (**Allah**).

وَإِنَّا نَحْنُ الْمُسَيِّحُونَ ﴿١٦٧﴾

167. Kandi mu by'ukuri (ababangikanyamana b'i Maka) bajyaga bavuga batı:

وَإِنْ كَانُوا يَقُولُونَ ﴿١٦٨﴾

168. "Iyo tuza kugira urwibutso tuvanye ku bo hambere (mbere y'uko Intumwa Muhamadi ihabwa ubutumwa),

لَوْأَنْ عِنْدَنَا ذِكْرٌ مَنْ أَلَاَوَلَيْنَ ﴿١٦٩﴾

169. Mu by'ukuri twari kuba abagaragu ba **Allah** b'imbonera."

لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخَلَّصِينَ ﴿١٧٠﴾

170. Nyamara (nyuma y'uko Qur'an ibagezeho) barayihakanye kandi vuba aha bazaba bamenya (ukuri).

فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٧١﴾

171. Kandi rwose, isezerano ryacu ku bagaragu bacu b'Intumwa, ryaje mbere

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَمْتُنَا لِعِبَادَنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧٢﴾

172. Ko mu by'ukuri ari bo bazatabarwa.

إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ  
١٧٣

173. Ndetse ko mu by'ukuri ingabo zacu ari zo zizatsinda.

وَلَنْ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَلَبُونَ  
١٧٤

174. Bityo rero (yewe Muhamadi), birengagize igihe runaka,

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَقَّ حِينِ  
١٧٥

175. Maze ubahozeho ijisho, kuko bidatinze bazabona (ibihano).

وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبَصِّرُونَ  
١٧٦

176. Ese ibihano byacu ni byo bashaka kwihutisha?

أَفَعَدَنَا يَسْتَعْجِلُونَ  
١٧٧

177. Nyamara ubwo bizabamanukiraho, kizaba ari gitondo kibi ku baburiwe.

فَإِذَا نَزَلَ سَاحِرٌ هُوَ فَسَاءٌ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ  
١٧٨

178. Bityo rero (yewe Muhamadi), birengagize igihe runaka,

وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَقَّ حِينِ  
١٧٩

179. Unabahozeho ijisho, kuko bidatinze bazabona (ibihano).

وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبَصِّرُونَ  
١٨٠

180. Ubutagatifu ni ubwa Nyagasani wawe, Nyagasani Nyiricyubahiro! Nta ho ahuriye n'ibyo bamwitirira!

سُبْحَانَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ  
١٨١

181. Kandi amahoro nabe ku Ntumwa (zose za Allah)

وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ  
١٨٢

182. Kandi ishimwe n'ikuzo byuzuye ni ibya Allah, Nyagasani w'ibiremwa byose.

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  
١٨٣

## 38 - SURAT SWAD

Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirongo 88.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Swad!<sup>190</sup> Ndahiye iyi Qur'an  
yuje urwibutso.

صَوْلَقْرَءَانِ ذِي الْكِتَابِ ﴿١﴾

2. Nyamara abahakanye bari  
mu bwibone n'ubwigomeke.

بِلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عَزَّةٍ وَشَقَاقٍ ﴿٢﴾

3. Ese ni ibisekuru bingahe  
tworetse mbere yabo,  
bigatakamba by'impatagihe?

كَمَأْهَلَكَنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِ فَنَادَوْا قَلَاتٍ حِينَ مَنَاصٍ

﴿٣﴾

4. (Abarabu  
b'ababangikanyamana)  
batangajwe no kugerwaho  
n'umuburizi (Muhamadi)  
ubakomokamo. Nuko  
abahakanyi baravuga bati "Uyu  
ni umurozi w'umubeshyi."

وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكُفُرُونَ هَذَا

سَحْرٌ كَذَابٌ ﴿٤﴾

5. "(Arafata) imana (zacu) zose  
akazigira Imana imwe? Mu  
by'ukuri, iki ni ikintu gitangaje!"

أَجْعَلَ الْأَكْلَهَةَ إِلَهًا وَحْدًا إِنَّ هَذَا الشَّيْءُ بُعْجَابٌ ﴿٥﴾

6. Maze ibikomerezwa muri bo  
bigenda bivuga biti "Nimugende  
mutsimbarare ku mana zanyu.  
Mu by'ukuri iki ni ikintu  
gikenewe."

وَأَنْطَلَقَ الْمَلَائِكَةُ مِنْهُمْ أَنَّ أَمْشُوا وَصَبِرُوا وَأَعْلَمَ الْهَتَّاكُمْ

إِنَّ هَذَا الشَّيْءُ يُرَادُ ﴿٦﴾

<sup>190</sup> Inyuguti nk'izi twazivuzeho mu masura yatambutse.

7. Ibi ntitwigeze tubyumva mu myizerere yo hambere. Ibi nta kindi biri cyo usibye kuba ari ibihimbano.

8. Ese ni we wenyine muri twe waba waramanuriwe urwibutso? Ahubwo barashidikanya ku rwibutso rwanjye (Qur'an), kuko batarumva ku bihano byanjye.

9. Ese baba bafite ibigega by'impuhwe za Nyagasanii wawe, Umunyacyubahiro bihebuje, Ugaba bihebuje?

10. Cyangwa baba bafite ubwami bw'ibirere n'isi ndetse n'ibiru hagati yabyo? Niba ari uko bimeze, ngaho nibazamuke mu kirere bakoresheje uburyo ubwo ari bwo bwose (maze bakumire ubutumwa)!

11. Zimwe mu ngabo z'udutsiko zizakubitirwa inshuro aha ngaha (nk'uko iz'udutsiko ari ko byazigendekeye mbere).

12. Mbere yabo, abantu ba Nuhu, aba Adi ndetse na Farawo wari ufite inyubako zisongoye (piramide) barahinyuye,

13. N'aba Thamudu, abantu ba Lutwi ndetse n'aba Ayikat (b'i Madiyani), bose bari udutsiko.

مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَةِ الْأُخْرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا أَخْتِلَقُ

٧

أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْذِكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ فِي شَكٍّ مِنْ ذَكْرِي بَلْ  
لَّتَابِدُ وَفُوَاعَدَابٍ

﴿٨﴾

أَمْ عِنْدَهُمْ خَرَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَابِ

﴿٩﴾

أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَنْهَا مَا فِي زَرْقَانِ  
فِي الْأَسْبَابِ

﴿١٠﴾

جُنِدَّمَا هُنَالِكَ مَهْرُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ

﴿١١﴾

كَذَّبَتْ قَبَلَهُمْ قَوْمٌ نُوحٌ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ دُونُ  
الْأَوَّلَاتِ

﴿١٢﴾

وَتَمُودُ وَقَوْمٌ لُوطٌ وَاصْحَابُ لَفِيَّكَةَ أُولَئِكَ  
الْأَخْرَابُ

﴿١٣﴾

14. Nta na kamwe muri two katahinyuye Intumwa, nuko ibihano byanje biba impamo.

إِن كُلُّ إِلَّا كَذَبَ الرُّسُلُ فَهَقَّ عَقَابٌ

15. Aba nta kindi bategereje kitari urusaku rumwe rudasubira.

وَمَا يَنْظُرُهُؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَحْدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ

(١٥)

16. Kandi baravuze bat “Nyagasani wacu! Twihutishirize umugabane wacu (ibihano) mbere y’uko umunsi w’ibarura ugera.”

وَقَالُوا رَبَّنَا أَعْجَلْ لَنَا قِطَنًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ

(١٦)

17. Ihanganire ibyo bavuga (yewe Muhamadi), kandi wibuke umugaragu wacu Dawudi wari umunyembaraga (mu guhangana n’umwanzi). Mu by’ukuri yicuzaga kuri Allah cyane.

أَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤُودَ ذَا الْأَيْدِيْدِ إِنَّهُ أَوَّلُ بَعْضٍ

(١٧)

18. Mu by’ukuri twashoboje imisozi gufatanya na we (Dawudi) kudusingiza buri uko bwije n’uko bucyeeye.

إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُو يُسْتِحْنَ بِالْعَيْشِيِّ وَالْأَشْرَقِ

(١٨)

19. Ndetse n’inyoni zikusanyirijwe hamwe, zaramwumviye (zifatanya na we mu kudusingiza).

وَالْأَطْيَرَ مَحْشُورَةٌ كُلُّهُ وَأَوَّلُهُ

(١٩)

20. Maze dukomeza ubwami bwe, tunamuha ubushishozi no guca imanza neza.

وَشَدَّدَنَا مُلْكَهُ وَأَنْتَنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَلَ أَنْطَابٍ

(٢٠)

21. Ese (yewe Muhamadi) inkuru y'abari bashyamiranye yaba yarakugezeho, ubwo buriraga bagasanga (Dawudi) aho yasengeraga (Mih'rab).

22. Ubwo binjiraga kwa Dawudi maze akabikanga, bakavuga bati "Wigira ubwoba! Twembi twashyamiranye; umwe muri twe yahuguje undi. Bityo dukiranure mu kuri kandi ntubogame, ndetse unatuyobore inzira igororotse."

23. Mu by'ukuri uyu muvandimwe wanjye afite intama mirongo cyenda n'icyenda, mu gihe njye mfite intama imwe (gusa), ariko yavuze ati "Na yo yindagize!" (Nyamara njye simbishaka), none yandushije ijwi.

24. (Dawudi atabanje kumva undi) aravuga ati "Rwose yaguhuguje kuba yagusabye intama yawe ngo ayongere mu ze. Kandi mu by'ukuri abenshi mu bafatanyije imitungo barahuguzanya, uretse ba bandi bemeye bakanakora ibikorwa byiza; kandi ni bo bake." Nuko Dawudi amenya ko twamugerageje asaba imbabazi Nyagasani we, yitura hasi yubamye, anicuza (kuri Allah).

\*وَهَلْ أَتَدَكَ نَبَوًا لِّخَصْمٍ إِذْ سَوَرُوا الْمِحَرَابَ

٦١

إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاؤِدَ فَقَزَعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخْفِي  
خَصْمَانِ بَعْنَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَأَحْكَمَ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ  
وَلَا شُطُطٌ وَّاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الْصَّرَاطِ

٦٢

إِنَّ هَذَا آخِي لَهُو تَسْعٌ وَّتَسْعُونَ تَجَهَّةً وَّلَيْ نَجَّةً وَّجَدَهُ  
فَقَالَ أَكْلِينِيهَا وَعَزَّزَنِي فِي الْحِطَابِ

٦٣

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ سُؤَالٌ تَجْتَبِيكَ إِلَى يَعْلَجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا  
مِّنَ الْخَاطِئِينَ لَيَجْنِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ أَمْنَوْا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَلِئَنَ دَاؤُدُ أَنَّمَا

فَتَنَّهُ فَأَسْتَغْفِرَ رَبَّهُ وَحَرَرَ الْعَوْنَابَ

٦٤

25. Nuko ibyo turabimubabarira. Kandi mu by'ukuri ari hafi yacu ndetse azagira igarukiro ryiza (Ijuru).

26. Yewe Dawudi! Mu by'ukuri twakugize umusigire ku isi, bityo jya ukiranura abantu mu kuri kandi ntuzagendere ku marangamutima, kugira ngo atazavaho akuyobya inzira ya **Allah**. Mu by'ukuri abazayoba inzira ya **Allah** bazahanishwa ibihano bikaze, kubera kwibagirwa umunsi w'ibarura.

27. Ntitwanaremye ikirere n'isi ndetse n'ibiru hagati yabyo nta mpamvu. Uko ni ko abahakanye bibwira. Bityo, ibihano bikaze by'umuriro bizaba ku bahakanyi.

28. Ese abemeye bakanakora ibikorwa byiza twabafata kimwe n'abangizi ku isi? Cyangwa se twafata kimwe abagandukira **Allah** n'inkozi z'ibibi?

29. Iki ni igitabo cyuje imigisha twaguhishuriye (yewe Muhamadi), kugira ngo (abantu) batekereze ku mirongo yacyo ndetse no kugira ngo abanyabwenge bibuke.

30. Kandi Dawudi twamuhaye Sulayimani nk'impano. Yari

فَغَفَرَنَا لَهُ وَذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزَلْقَى وَحُسْنَ  
مَعَابٌ ﴿٢٥﴾

يَدَاوُدٌ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَبَعْ أَهْوَى فِي ضِلَالٍ كَعَنْ سَبِيلِ  
اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ  
شَدِيدٌ بِمَا لَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

وَمَا خَلَقْتَ أَلْسِنَةً وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلَّا دَلِيلًا  
ظُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَيُؤْلَمُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾

أَمْ نَجَعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ  
فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجَعَلُ الْمُتَقِينَ كَالْفُجَارِ ﴿٢٨﴾

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَرَّكٌ لِيَدْبَرُوا ءَايَاتِنَا  
وَلِيَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٩﴾

وَوَهَبْنَا لِدَاؤِدَ سُلَيْمَانَ نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ وَآبَوُهُ ﴿٣٠﴾

umugaragu mwiza. Mu by'ukuri yicuzaga kuri **Allah** cyane.

31. (Ibuka) ubwo nimugoroba yamurikirwaga amafarasi y'ubwoko bwiza kandi yiruka cyane.

32. Nuko akavuga ati “Nakunze imitungo y'isi kugeza ubwo nibagirwa Nyagasani wanjye, izuba ririnda rirenga!”

33. “Ngaho nimuzingarurire!” Maze atangira kuzagaza ku maguru no ku majosi.

34. Kandi rwose twagerageje Sulayimani tujugunya ikibiri<sup>191</sup> ku ntebe ye y'ubwami, (bimutera gusa nk'utakaje ubwami bwe, abona ko yageragejwe) nyuma yicuza ku Mana.

35. Aravuga ati “Nyagasani wanjye! Mbabarira, unangabire ubwami butazigera buhabwa n'umwe nyuma yanjye. Mu by'ukuri ni wowe ugaba bihebuje.”

36. Nuko dutegeka umuyaga kumwumvira, ugahuha ku itegeko rye buke buke

إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّفَنَتُ الْجَيادُ ﴿٢٣﴾

فَقَالَ إِنِّي أَحِبُّ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَثَ  
بِالْحِجَابِ ﴿٢٤﴾

رُدُّوهَا عَلَىٰ فَطَرِيقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْتَاقِ

﴿٢٥﴾

وَلَقَدْ فَتَنَنَا سُلَيْمَانٌ وَالْقِينَاءُ عَلَىٰ كُوْسِيَّهِ جَسَدًا

ثُمَّ أَنَابَ ﴿٢٦﴾

قَالَ رَبِّيْ أَغْفَرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ  
بَعْدِيِّ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ ﴿٢٧﴾

فَسَخَرَنَا لَهُ أَرْسَاحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءٌ حَيْثُ أَصَابَ ﴿٢٨﴾

<sup>191</sup> Ikibiri kivugwa muri uyu murongo ni igice cy'umubiri w'umwana wavutse ubwo Intumwa Sulayimani yari yagize umugambi wo kuzenguruka ingo ze zose mu ijoro rimwe aziteramo inda y'umuhungu kugira ngo azabyare ingabo, ntiyabiragiza Imana (avuga Insha **Allah**), nuko Imana imugergeza imuha umwana utujuje ingingo.

(akawerekeza) aho ashaka  
(kujya hose).

37. Ndetse n'amajini y'amoko  
yose; ayubaka n'ayibira mu mazi  
(twayategetse kumwumvira)

38. Naho andi  
(yamwigomekagaho  
yahambiraga) ku minyururu.

39. (**Allah** abwira Sulayimani ati)  
“Ibi ni impano yacu; bityo ha  
(ubo ushatse) cyangwa wime  
(ubo ushatse), nta cyo  
uzabazwa.

40. Kandi mu by'ukuri yari hafi  
yacu ndetse azagira igarukiro  
ryiza (Ijuru).

41. Unibuke ubwo umugaragu  
wacu Ayubu yatakambilaga  
Nyagasani we agira ati “Mu  
by'ukuri Shitani yanteje ibyago  
n'ububabare.”

42. (**Allah** aramubwira ati)  
“Kubita ikirenge cyawe hasi; ayo  
mazi akonje (avuyemo) ni ayo  
kwiyuhagira no kunywa.”

43. Nuko ku bw'impuhwe  
ziduturutseho, tumugarurira  
umuryango we uri kumwe  
n'abandi nka wo, kugira ngo  
bibe urwibutso ku  
banyabwenge.

وَالشَّيْطِينُ كُلَّ بَنَاءٍ وَغَوَّاصٍ ﴿٣٧﴾

وَإِخْرَيْنَ مُقْرَبَيْنَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٣٨﴾

هَذَا عَطَاقُنَا فَامْنُنْ أَوْمَسِكٌ بِغَيْرِ حَسَابٍ ﴿٣٩﴾

وَإِنَّ لَهُ وِعْدَنَا لَرْفَى وَحُسْنَ مَعَابٍ ﴿٤٠﴾

وَذَكْرُ عَبْدَنَا إِيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي  
الشَّيْطَانُ بُنْصِبٌ وَعَذَابٍ ﴿٤١﴾

أَرْكُضٌ بِرِجْلَكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بِارْدُ وَشَرَابٌ ﴿٤٢﴾

وَهَبَنَا اللَّهُ أَهْلَهُ وَمَشَّاهِمَ مَعَهُ رَحْمَةً مَنَا ذَكَرَى لِأُولَئِكَ الْأَكْبَرِ ﴿٤٣﴾

44. Unafate umuba w'udushari mu kuboko kwawe maze uwukubitishé (umugore wawe<sup>192</sup>), kugira ngo udatatira indahiro. Mu by'ukuri twasanze (Ayubu) ari umuntu wihangana. Mbega ukuntu yari umugaragu mwiza! Kandi rwose yicuzaga kenshi (kuri Allah).

وَخُذْ بِيَدِكَ صِعْدَةً فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ  
صَابِرًا يَعْمَلُ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٤٤﴾

45. Kandi wibuke (yewe Muhamadi) abagaragu bacu; Ibrahimu, Isihaka na Yakubu; bari abanyamurava (mu kutugaragira) bakanagira ubushishozi (mu idini).

وَذَرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَئِكُمْ  
وَالْأَبْصَرِ ﴿٤٥﴾

46. Mu by'ukuri twarabatoranyije tubaha umwihariko wo kwibuka imperuka.

إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِمَا حَصَّنُوا ذَكْرَى الدَّارِ ﴿٤٦﴾

47. Kandi rwose imbere yacu bari mu ntoranywa, mu beza kurusha abandi.

وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَينَ الْأَخْيَارِ ﴿٤٧﴾

48. Unibuke Isimayili, Aliyasa na Dhul'kifli; bose bari mu beza kurusha abandi.

وَأَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلُّ مِنْ  
الْأَخْيَارِ ﴿٤٨﴾

49. Iyi (Qur'an) ni urwibutso. Kandi mu by'ukuri abagandukira (Allah) bazagira igarukiro ryiza;

هَذَا ذِكْرٌ وَلَنَّ الْمُتَّقِينَ لَهُ سُنْنَ مَقَابٍ ﴿٤٩﴾

<sup>192</sup> Mu gihe cy'uburwayi bwa Ayubu, umugore we yaramukoshereje nuko arahirira kuzamukubita inkoni ijana nakira, maze Allah ategeka Ayubu gusohoza indahiro ye afata umuba w'udushari ijana akatumukubitisha icyarimwe inshuro imwe gusa.

50. Ijuru rihoraho,  
bazafungurirwa imiryango  
yaryo;

جَنَّتِ عَدَنٍ مُفَتَّحَةُ لَهُمُ الْأَبَوْبُ ﴿٦٠﴾

51. Aho bazaba begamye,  
batumiza imbuto nyinshi  
n'ibinyobwa.

مُتَّكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا يَذَّكَّرُهُ كَثِيرٌ وَ شَرَابٌ ﴿٦١﴾

52. Bazaba bari kumwe  
n'abagore barangamiye abagabo  
babu (gusa) kandi b'urungano.

وَعِنْهُمْ قَصْرٌ الْطَّرِيفُ أَتَرَابٌ ﴿٦٢﴾

53. Ibyo ni byo (bihembo)  
mwasezeranyijwe ku munsi  
w'ibarura.

هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٦٣﴾

54. Mu by'ukuri ibyo ni  
amafunguro yacu adateze  
kuzashira.

إِنَّ هَذَلِرِزْقُنَا مَالُهُ وَمِنْ نَفَادٍ ﴿٦٤﴾

55. Ibyo (ni byo bizagororerwa  
abemeramana). Naho  
abanyabyaha bazagira igarukiro  
ribi;

هَذَا وَإِنَّ لِلظَّاغِينَ لَشَرَّ مَيَابٍ ﴿٦٥﴾

56. Jahanamu bazahiramo.  
Mbega ubuturo bubi!

جَهَنَّمُ يَصْلُو نَهَا فِي سَعْيِ الْعَهَادِ ﴿٦٦﴾

57. Ibyo (ni byo bihano  
bazahanishwa). Bityo,  
nibabyumve; ni amazi yatuye  
n'amashyira.

هَذَا فَلِيدُ وَقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَاقٌ ﴿٦٧﴾

58. N'ibindi (bihano) bimeze nka  
byo by'ingeri nyinshi.

وَإِخْرُمُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ ﴿٦٨﴾

59. (Abayobeje abandi  
bazabwirwa batu) "Aka ni  
agatsiko kiroshye mu gihe  
kimwe namwe (mu muriro)",  
(bavuge batu) "Nta heza

هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْجِبًا بِهِمْ  
إِنَّهُمْ صَالُو الْأَنَارِ ﴿٦٩﴾

bashyikiye kuko mu by'ukuri,  
bagiye guhira mu muriro."

60. (Abayobejwe) bazavuga bati "Ahubwo ni mwe mutashyikiye aheza kuko ari mwe mwawudukururiye (umuriro); kandi ni cyo cyicaro kibi."

61. Bazavuga bati "Nyagasan i wacu! Uwadukururiye ibi mwongerere ibihano byo mu muriro byikubye kabiri."

62. Bazanavuga bati "Byatugendekeye bite ko tutabona bamwe mu bantu twabaraga mu nkozi zibibi?"

63. Ese twabibeshyagaho (ku isi) tubannyega (nahe ari abantu b'intungane, cyangwa bari kumwe natwe mu muriro) amaso yacu akaba atababona?

64. Mu by'ukuri, uko ni ko gusubiranamo kw'abantu bo mu muriro

65. Vuga (yewe Muhamadi) uti "Njye nta kindi ndi cyo usibye kuba ndi umuburizi, kandi nta yindi mana ikwiye gusengwa by'ukuri itari **Allah**; Umwe rukumbi, Umunyembaraga w'ikirenga,

قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا يَكُونُ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا  
فَيَسَّسَ الْقَرَارُ ٦٣

قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا  
فِي النَّارِ ٦٤

وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كَانَ عَدُوًّا مِّنَ الْأَشْرَارِ ٦٥

أَخْدَنَهُمْ سُحْرٌ ۖ أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَرُ ٦٦

إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَحَاصِرُ أَهْلِ النَّارِ ٦٧

قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ ۚ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ أَلَا اللَّهُ أَوْحَدَ الْقَهَّارُ ٦٨

66. Nyagasani w'ibirere n'isi ndetse n'ibiri hagati yabyo, Umunyacyubahiro bihebuje, Umunyembabazi uhebuje.”

٦٦

67. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Iyi (Qur'an) ni inkuru ihambaye,

قُلْ هُوَ بِئْرٌ عَظِيمٌ ﴿٦٧﴾

68. Ariko mwayiteye umugongo.

أَنْتُ عَنْهُ مُعَرِّضُونَ ﴿٦٨﴾

69. Nta bumenyi nari mfite ku bamalayika bo mu ijuru ubwo bajyaga impaka (ku iremwa rya Adamu).

مَا كَانَ لِمَنْ يَعْلَمُ بِالْمُلَائِكَةِ أَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٦٩﴾

70. Usibye ko nabihishuriwe kuko ndi umuburizi ugaragara.”

إِنْ يُوحَىٰ إِلَيْكَ إِلَّا آنَّمَا أَنْذِرْتُكَ مُبِينٌ ﴿٧٠﴾

71. (Ibuka) ubwo Nyagasani wawe yabwiraga abamalayika ati “Mu by'ukuri ngiye kurema umuntu mu ibumba.”

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ ﴿٧١﴾

72. Nimara kumutunganya nkanamuhuhamo roho inturutseho, mumwikubite imbere mwubamye.

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ﴿٧٢﴾

سَاجِدِينَ

73. Nuko abamalayika bose barubama,

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٧٣﴾

74. Usibye Ibilisi (Shitani) wagize ubwibone maze akaba mu bahakanye.

إِلَّا إِبْلِيسَ أَسْتَكَبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾

75. (Nuko **Allah** akavuga ati) “Yewe Ibilisi! Ni iki cyakubujije kubamira uwo naremye n'amaboko yanje yombi? Ese wagize ubwibone cyangwa wiyumva nk'uri mu bo mu nzego zo hejuru?”

76. (Ibilisi) iravuga iti “Njye ndi mwiza kumurusha kuko wandemye mu muriro, we ukamurema mu ibumba.”

77. (**Allah**) aravuga ati “Ngaho sohoka aha ( mu ijuru), kuko ubaye ikivume.”

78. Kandi rwose umuvumo wanje uzagukurikirana kuzageza ku munsi w'ibihembo.

79. (Ibilisi) iravuga iti “Nyagasani wanje! Mpa kuramba kuzageza ku munsi (abapfuye) bazazurirwaho.”

80. (**Allah**) aravuga ati “Mu by'ukuri ubaye mu bazaramba,

81. Kugeza ku munsi w'igihe kizwi.”

82. (Ibilisi) iravuga iti “Ndahiye ku bw'icyubahiro cyawe, ko rwose nzabayobya bose,

83. “Uretse abagaragu bawe b'indobanure muri bo.”

قَالَ يَأَيُّلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدِي  
أَسْتَكِبْرَتْ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيَّنَ ﴿٧٥﴾

قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ

قَالَ فَأُخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٧٦﴾

وَإِنَّ عَيْكَ لَعْنَى إِلَى يَوْمِ الْرِّيْزِينَ ﴿٧٧﴾

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبَعْثُرُونَ ﴿٧٨﴾

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٧٩﴾

إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٨٠﴾

قَالَ فَبِعِزْنَاتِ لَأُعْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨١﴾

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُحَاصِّينَ ﴿٨٢﴾

84. (Allah) avuga arahira ati “Ni ukuri, kandi ibyo mvuga ni ukuri,

قَالَ فَلَهُقُّ وَلَهُقُّ أَقُولُ ﴿٨٤﴾

85. Ko wowe na bamwe mu bazagukurikira nzabuzurisha umuriro wa Jahanamu.”

لَأَمَلَانَ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمَنْ تَبَعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٥﴾

86. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Ntabwo (kubagezaho ubutumwa) mbibasabira igihembo na kimwe, ndetse nta n'ubwo ndi mu bishushanya (bigira Intumwa batari zo, banakora ibyo batategetswe).”

قُلْ مَا أَسْأَلُكُ عَنِيهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٨٦﴾

٨٦

87. “Iyi (Qur'an) nta kindi iri cyo usibye kuba ari urwibutso ku biremwa byose.”

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَادَمِينَ ﴿٨٧﴾

88. “Kandi rwose muzamenya inkuru yayo bidatinze”

وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأً وَبَعْدَ حِينَ ﴿٨٨﴾

### 39 - SURAT A-ZUMAR

(AMATSINDA)

*Yahishuriwe i Maka, igizwe n 'imirongo 75.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Ihishurwa ry'igitabo (Qur'an) rituruka kwa Allah, Umunyacyubahiro uhebuje, Nyirubugenge buhambaye.

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾

2. Mu by'ukuri (yewe Muhamadi) twaguhishuriye igitabo mu kuri. Bityo, jya ugaragira **Allah** umuharire kugaragirwa.

3. Mumenye ko **Allah** ari We nyir'idini ritunganye. Naho ba bandi bishyiriye ibigirwamana mu cyimbo cye, (baravuga bat) "Nta yindi mpamu ituma tubisenga itari ukugira ngo bitwegereze **Allah**." Mu by'ukuri **Allah** azabakiranura ku byo batavugagaho rumwe. Rwose **Allah** ntayobora umunyabinyoma, umuhakanyi wa cyane.

4. Iyo **Allah** aza gukenera kugira umwana, yari gutoranya uwo ashaka mu byo yaremye. Ubutagatifu ni ubwe! Ni We **Allah**, Umwe rukumbi, Umunyembaraga z'ikirenga.

5. Yaremye ibirere n'isi ku mpamu z'ukuri. Yorosa ijoro ku manywa akanorosa amanywa ku ijoro. Anacisha bugufi izuba n'ukwezi; buri kimwe kigendera (mu mbibi zacyo) ku gihe cyagenwe. Mumenye ko We (**Allah**) ari Umunyacyubahiro bihebuje, Umunyembabazi uehebuje.

إِنَّا أَنَزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدْ أَللَّهَ مُخْلِصًا لِّهِ الدِّينِ ﴿٢﴾

أَلَا لِلَّهِ الَّذِينَ الْخَالِصُونَ وَالَّذِينَ اخْتَدُولُونَ  
دُونَهُ أَوْ لِيَ آءَمَانَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقْرِبُونَا إِلَى اللَّهِ  
رُلْفَ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ  
يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذِبٌ  
كَفَّارٌ ﴿٣﴾

لَوْأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَخَذِّدَ وَلَدَّا لَأَضْطَفَنَّ مِمَّا يَخْلُقُ  
مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ وَهُوَ اللَّهُ الْوَحْدَ الْقَهَّارُ ﴿٤﴾

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ  
الْيَلَى عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الْيَلِ وَسَخَّرَ  
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجْلٍ مُّسَيًّّ  
أَلَا هُوَ أَعْزِيزُ الْعَقْدِ ﴿٥﴾

6. Yabaremye abakomoye ku muntu umwe (Adamu), nuko amuremera umugore we (Hawa) amumukomoyemo. Yabaremeye amatungo umunani (ingabo n'ingore mu ngamiya, inka, intama ndetse n'ihene). Abaremera muri nyababyeyi za ba nyoko, mu byiciro bikurikirana, mu myijima itatu (mu nda, muri nyababyeyi no mu ngobyi). Uwo ni We **Allah** Nyagasan wanyu, nyir'ubwami bwose. Nta yindi mana ikwiriye gusengwa by'ukuri itari We. Ese ni gute mureka kugaragira (**Allah** wenyine)?

7. (Yemwe bantu) nimuramuka muhakanye, mu by'ukuri **Allah** arihagije (nta cyo abakeneyeho), ndetse ntiyishimira ubuhakanyi ku bagaragu be. Ariko iyo mushimiye (mukanemera), arabyishimira. Kandi nta we uzikorera umutwaro wundi. Hanyuma igarukiro ryanyu rizaba kwa Nyagasan wanyu, maze ababwire ibyo mwakoraga. Mu by'ukuri We ni Umumenyi uhebuje wibiri mu bituza (byabantu).

8. N'ijo umuntu agezweho n'amakuba, asaba Nyagasan we amwicuzaho. Nyamara (**Allah**) yamuha ku nema ze, akibagirwa uwo yatabazaga mbere, maze agashyiraho ibigirwamana

خَلَقَكُمْ مِنْ نَقْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَمِ ثَمَدِيَّةً أَرْوَحَ  
يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَتُكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ  
خَلْقٍ فِي طُلْمَكِتِ شَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ  
الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَإِنَّ تُصْرَفُونَ ﴿٦﴾

إِنْ تَكُفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَنِّي عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى  
لِعِبَادِهِ الْكُفُرُ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَرْزُ  
وَلَرْزَةٌ وَرَزَّأُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ  
فَيُبَيِّنُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلَيْمٌ بِذَاتِ  
الْأَصْدُورِ ﴿٧﴾

\*وَإِذَا مَسَ الْأَنْسَنَ ضُرُّ دَعَارَبَةٍ وَمُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا  
خَوَلَهُ وَنِعْمَةٌ مِنْهُ سَيِّ ما كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلٍ

bibangikanye na Allah, kugira ngo ayobye (abantu) kugana inzira ye. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Inezeze gake mu buhakanyi bwawe! Mu by’ukuri uri mu bazajya mu muriro.”

9. Ese wa wundi usenga (Allah) mu bihe by’ijoro, yubama, anahagarara kubera gutinya imperuka, aniringira impuhwe za Nyagasan we (ni kimwe na wa wundi uhakana Allah?) Vuga (yewe Muhamadi) uti “Ese abafite ubumenyi bahwanye n’abatabufite? Mu by’ukuri abanyabwenge ni bo babizirikana.”

10. Vuga uti “Yemwe bagaragu banjye bemeye! Nimugandukire Nyagasan wanyu; ba bandi bakoze neza kuri iyi si bazagororerwa ibyiza (Ijuru). Kandi isi ya Allah ni ngari (niba aho muri bitaborohera kugaragira Allah, nimwimukire ahandi). Mu by’ukuri abihangana bazagororerwa ibihembo byabo byuzuye, nta kugera.”

11. Vuga uti “Mu by’ukuri njye nategetswe kugaragira Allah (wenyine) nkora ibikorwa byiza kubera we;

وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنَّدَادًا لِّيُضْلِلَ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ  
بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴿٨﴾

أَمَّنْ هُوَ قَنِيتْ ءَانَّهُ أَلَيْلٌ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَخْذُرُ  
الْآخِرَةَ وَيَتَجُوَّرُ حَمَّةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ  
يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا  
الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾

قُلْ يَعْبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا مُتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ  
أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ  
وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوقَى الصَّابِرُونَ أَجْرُهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُنْخَالِلًا لِلَّذِينَ ﴿١١﴾

12. Kandi nategetswe kuba uwa mbere mu bicisha bugufi (Abayisilamu)."

13. Vuga uti "Mu by'ukuri mfite ubwoba bw'ibihano by'umunsi uhambaye, igihe naba nigometse kuri Nyagasanwanjye."

14. Vuga uti "Ngaragira Allah wenyine nkora ibikorwa byiza kubera we."

15. Ngaho nimugaragire ibyo mushaka bitari We. Vuga uti "Mu by'ukuri abanyagihombo ku munsi w'imperuka ni ba bandi bazaba bariyoretse ubwabo ndetse boreka n'imiryango yabo." Rwose icyo kizaba ari cyo gihombo kigaragara.

16. Bazaba batwikiriwe n'ibicu by'umuriro ndetse no munsi yabo hari ibindi. Ibyo ni byo Allah atinyisha abagaragu be. Ngaho bagaragu banjye, nimuntinye!

17. Naho ba bandi bitandukanyije no kugaragira ibigirwamana bakagarukira Allah (bamwicuzaho), bateganyirijwe inkuru nziza. Ngaho geza inkuru nziza ku bagaragu banjye;

وَأَمْرَتُ لِأَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٦﴾

قُلْ إِنَّمَا أَعْبُدُ مُحَاجَّاً لِّهُ دِينِي ﴿١٧﴾

فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِّنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْحَسَنَاتِ أَدِينَ  
خَيْرٌ وَّإِنَّفُسَهُمْ وَآهَلِيهِمْ بَعْدَمَا أَقْتِمَهُمْ إِلَّا ذَلِكَ هُوَ  
الْحَسَنَاتُ الْمُمِينُ ﴿١٨﴾

لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ طَلْلُ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ طَلْلُ ذَلِكَ  
يُنِيبُونَ إِلَهُ بِهِ عِبَادٌ وَّيَعْبَادُونَ فَاتَّقُونَ ﴿١٩﴾

وَالَّذِينَ أَجْتَبَيْتُمُ الظَّاهِرَاتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَّابُوا إِلَى اللَّهِ  
لَهُمُ الْبَشَرُ فَبَشِّرْ عِبَادٍ ﴿٢٠﴾

18. Ba bandi batega amatwi imvugo (nyinshi zivugwa) maze bagakurikira inziza muri zo. Abo ni bo **Allah** yayoboye kandi ni bo banyabwenge.

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ لِقَوْلٍ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ  
أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُو  
الْأَلْبَيْبِ ﴿٢٨﴾

19. Nonese wa wundi uzahamwa n'imvugo y'ibihano (washobora kumuyobora)? Ese wowe urokora uri mu muriro?

أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَنَّ تُنْقِذُ مَنْ فِي  
النَّارِ ﴿٢٩﴾

20. Ariko ba bandi bagandukira Nyagasan wabo, bazagororerwa amazu yubatse agerekerye; imigezi itemba munsi yayo. (Iri) ni isezerano rya **Allah**, kandi **Allah** ntajya yica isezerano.

لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ عُرْفٌ مِّنْ فَوْقَهَا عُرْفٌ  
مَّبْيَنَيَّةٌ تَجِيَّءُ مِنْ تَحْتِهَا أَلْأَنْهَرُ وَعَدَ اللَّهُ لَا  
يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ﴿٣٠﴾

21. Ese ntujya ubona ko **Allah** yamanuye amazi mu kirere maze akaynjiza mu butaka, hanyuma akaba amasoko nuko akayameresha ibihingwa by'ambara atandukanye, hanyuma bikuma ukabona bibaye umuhondo; nuko (byamara kumagara) akabihindura utuvungukira? Mu by'ukuri muri ibyo hari urwibutso ku banyabwenge.

أَلَّمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاً فَسَلَكَهُ  
يَنْدِيمُ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ  
ثُمَّ يَهْبِطُ فَتَرَهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ وَحْدَهُ مَإِنَّ  
فِي ذَلِكَ لَذِكْرٌ لِأُولَئِكَ الْأَلْبَيْبِ ﴿٣١﴾

22. Ese uwo **Allah** yaguriye igituza (akayoboka) Isilamu, akaba ari ku rumuri ruturutse kwa Nyagasan we (yaba kimwe n'ufite umutima winangiyé)? Bityo, ibihano bikomeye bizaba ku bafite imitima inangiyé,

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدَرَهُ وَلِإِسْلَامٍ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ  
رَّبِّهِ وَقَبِيلٌ لِلْقَسِيسَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ  
فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٢﴾

itibuka **Allah**. Abo bari mu buyobe bugaragara.

23. **Allah** yamanuye inkuru nziza kurusha izindi; ari cyo gitabo (Qur'an) gifite imirongo yuzuzanya kandi yisubiramo (itarambirana), ituma impu z'abatinya Nyagasani wabo zikangarana (iyo bayumvise isomwa), hanyuma impu n'imitima byabo bikoroha bigasingiza **Allah**. Uwo ni wo muyoboro wa **Allah** ayoboresha uwo ashaka; kandi uwo **Allah** yarekeye mu buyobe ntiyagira uwamuyobora.

24. Ese uzaba ahungisha uburanga bwe ibihano bibi byo ku munsi w'imperuka (yaba kimwe n'uzinjira mu ijuru mu buryo bworoshye)? Icyo gihe inkozi z'ibibi zizabwirwa ziti “Ngaho nimwumve (ibihano by') ibyo mwakoraga!”

25. Ababayeho mbere yabo barahakanye maze ibihano bibageraho mu buryo batiumvishaga.

26. Nuko **Allah** abasogongeza uguzugurika mu buzima bwo ku isi, kandi ibihano byo ku mperuka ni byo biruta ibindi; iyaba bari babizi.

اللَّهُ نَزَّلَ أَحَسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَكِّلًا مَّثَانِي  
نَقْشِعُرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ  
تَلِيْنَ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ  
هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنِ يَشَاءُ وَمَنِ يُضْلِلِ اللَّهُ  
فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٢٣﴾

أَفَمَنْ يَتَّقِيِّ بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَقْمَ الْقِيمَةَ  
وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ دُوْقُوا مَا كُنُّتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٢٤﴾

كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ  
مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٥﴾

فَإِذَا قَهُمُ اللَّهُ الْجَنَّى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابَ  
الْآخِرَةِ أَكَبَرُ لَوْكَافُوا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

27. Kandi rwose twahaye abantu ingero z'ubwoko bwose muri iyi Qur'an kugira ngo bibuke.

وَلَقَدْ ضَرَبَنَا لِلتَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْءَانِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ  
لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾

28. Qur'an yahishuwe mu rurimi rw'Icyarabu izira amayobera, kugira ngo batinye **Allah**.

قُرْءَانًا عَرَيَّا غَيْرَ ذِي عَوْجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَفَوَّتْ ﴿٢٨﴾

29. **Allah** yatanze urugero rw'umuntu (umugaragu) uhatswe na ba shebuja benshi batavuga rumwe, n'umuntu uhatswe na shebuja umwe. Ese abo bombi wabagereranya? Ishimwe n'ikuzo byuzuye ni ibya **Allah**, ariko abenshi muri bo ntibabizi.

صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِّسُونَ  
وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا حَمْدُ اللَّهِ  
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾

30. Mu by'ukuri wowe (Muhamadi) uzapfa kandi na bo bazapfa.

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴿٣٠﴾

31. Hanyuma mwese ku munsi w'imperuka muzajya impaka imbere ya Nyagasanani wanyu.

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِّمُونَ ﴿٣١﴾

32. Ni nde nkozi y'ibibi ya cyane kurusha uhimbira **Allah** ikinyoma, akanahakana ukuri igihe kumugezeho? Ese mu muriro wa Jahanamu si ho buturo bw'abahakanyi?

\* فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ  
بِالْأَصْدِيقِ إِذَا جَاءَهُوَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَوْيَ  
لِلْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾

33. Naho uwazanye ukuri (Qur'an) ndetse n'uwakwemeye; abo ni bo bagandukira **Allah**.

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ  
هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٣٣﴾

34. Bazabona ibyo bazifuza byose kwa Nyagasan wabo. Ibyo ni byo bihembo by'abakora ibyiza.

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ وَعِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ  
الْمُحَسِّنِينَ ﴿٣٤﴾

35. (Ibyo) ni ukugira ngo **Allah** abababarire ibibi kurusha ibindi mu byo bakoze kandi anabahembere ibyiza bakoraga.

لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا  
وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِإِحْسَانِ الَّذِي كَانُوا  
يَعْمَلُونَ ﴿٣٥﴾

36. Ese **Allah** ntahagije (kuba umurinzi w') umugaragu we? Nyamara bagukangisha ibyo basenga bitari We! Kandi uwo **Allah** yarekeye mu buyobe ntiyagira uwamuyobora.

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافِ عَبْدٌ وَمَنْ يُخَوِّفُ نَكَرًا بِالَّذِينَ  
مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلُ اللَّهُ فَمَا لَهُ وَمَنْ هَادِ ﴿٣٦﴾

37. Kandi uwo **Allah** yashoboje kuyoboka nta wamuyobya. Ese **Allah** si Umunyacyubahiru bihebuje, Nyirukwihimura.

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ وَمَنْ مُضْلَلٌ إِلَيْسَ اللَّهُ  
بِعَزِيزٍ ذِي أَنْتِقَامٍ ﴿٣٧﴾

38. Niyo ubabajije uti "Ni nde waremye ibirere n'isi"? Rwose baravuga batu "Ni **Allah**." Vuga uti "Murabona ibyo musenga bitari **Allah**, **Allah** aramutse ashaka ko icyago kimbaho byagikuraho? Cyangwa agashaka ko impuhwe zingeraho, byakumira impuhwe ze"? Vuga uti "**Allah** arampagije

وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَاقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ  
لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَءَ يَثْمَمَ مَا تَدَعُونَ مِنْ دُونِ  
اللَّهِ إِنَّ أَرَادَ فِي اللَّهِ بِضُرٍّ هُنَّ كَشَفَتُ  
ضُرُّهُ إِنَّ أَرَادَ فِي بَرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ

kandi abiringira bajye baba ari  
We biringira.”

مُمِسِّكَتْ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ  
يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣٨﴾

39. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Yemwe bantu banje! Nimukore uko mubishaka, nanje ndakora (nk'uko Allah yangetse). Hanyuma muzamenya,

قُلْ يَقُولُ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِيلٌ  
فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

40. Uzagerwaho n'ibihano bimusuzuguza (hano ku isi), ndetse akazanagerwaho n'ibihanobihoraho.”

مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحْلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ  
مُّقِيمٌ ﴿٤٠﴾

41. Rwose twaguhishuriye igitabo mu kuri kigenewe abantu bose. Bityo, uyobotse aba yigiriye neza ndetse n'uyobye aba yihemukiye. Kandi wowe ntabwo uri umuhagararizi wabo.

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ  
أَهْتَدَى فَإِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضْلُلُ  
عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿٤١﴾

42. Allah ni We utwara roho z'abantu iyo igihe cyazo cyo gupfa kigeze, ndetse n'iz'abazima basinziriye igihe cyazo cyo gupfa kitaragera (ni We uzitwara). Nuko akagumana roho z'abo yageneye gupfa, maze izindi akazohereza (mu mibiri yazo) zikabaho kugeza igihe cyagenwe. Mu by'ukuri muri ibyo harimo ibimenyetso ku bantu batekereza.

اللَّهُ يَتَوَقَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ  
تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمِسِّكُ الْأَنْفُسُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا  
الْمَوْتَ وَيُرِسِّلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لَذَّاتٍ لِّفَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾

43. Ese (ababangikanyamana) bishyiriye ho abavugizi batari **Allah**? Vuga uti “None se n’iyo baba nta cyo batunze cyangwa nta bwenge bafite (mwakomeza kubiringira)?”

44. Vuga uti “Ubuvugizi bwose ni ubwa **Allah**. Ni We nyir’ubwami bw’ibirere n’isi. Kandi iwe ni ho muzagarurwa.”

45. Kandi iyo havuzwe **Allah** wenyine, imitima y’abatemera imperuka irabyinubira, nyamara havugwa ibitari We (**Allah**), bakanezerwa.

46. Vuga uti “Nyagassani wanjye! Muremyi w’ibirere n’isi! Umumenyi w’ibitagaragara n’ibigaragara! Ni Wowe uzakiranura abagaragu bawe ku byo batavugagaho rumwe.”

47. Kandi iyo inkozi z’ibibi ziza kuba zifite ibiri mu isi byose ndetse n’ibindi nka byo, zari kubitangaho incungu kugira ngo bizirinde ibihano bibi byo ku munsi w’imperuka. Kandi bazagaragarizwa na **Allah** ibyo batakekaga (ibihano).

48. Ndetse bazanagaragarizwa ibibi bakoze, kandi bazazzengurukwa n’ibyo bajyaga bannyega.

أَمْ أَخْذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شَفَاعَةً قُلْ أَوْلَئِكُمْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ

٤٣

قُلْ لَهُ اللَّهُ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُوَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تُرْجَعُونَ

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ أَشْمَاءَ زَّمَانٍ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ

مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبِّشُونَ

قُلْ اللَّهُمَّ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

٤٤

وَلَوْلَآنِ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَلَا فَتَدَوْأَبِيهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمةِ وَبَدَأَ الْهُمَّ مِنْ أَنَّ اللَّهَ مَا لَمْ يَكُنْ فَإِنَّهُمْ بُونَ

٤٥

وَبَدَأَ الْهُمَّ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ

٤٦

49. N'yo umuntu agezweho n'amakuba, aradusaba hanyuma (ya makuba) twayahinduramo inema ziduturutseho, akavuga ati "Mu by'ukuri ibi nabihawé kubera ubumenyi bwanjye (ku bw'ibyo sinkeneye gushimira **Allah**). (Si ko bimeze) ahubwo ni ibigeragezo, uretse ko abenshi muri bo batabizi."

50. Rwose abababanjiriye bavuze nk'ibi, ariko ibyo bakoraga nta cyo byabamariye.

51. Nuko bagerwaho n'ingaruka z'ibyo bakoze. Kandi na babandi bakoze ibibi muri bo (abahakanyi b'i Maka), bazagerwaho n'ingaruka z'ibibi bakoze, ndetse ntibanananiye (**Allah** kuba yabahana bakiri ku isi).

52. Ese ntibazi ko **Allah** yongerera amafunguro uwo ashaka akanayagabanyiriza uwo ashaka? Mu by'ukuri muri ibyo hari ibimenyetso ku bantu bemera.

53. Vuga (yewe Muhamadi) uti "Yemwe bagaragu banjye mwakabije mu kwihemukira! Ntimukajye mwiheba kuko impuhwe za **Allah** (zikiriho). Mu by'ukuri **Allah** ababarira ibyaha

فَإِذَا مَسَ الْإِنْسَنَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا حَوَّلَنَاهُ نِعْمَةً  
إِنَّمَا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيَتُهُ وَعَلَى عِلْمٍ بَلْ هَيْ فِتْنَةٌ  
وَلَكِنَّ أَكَثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٩﴾

قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا  
كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٥٠﴾

فَاصْبَاهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ  
هَؤُلَاءِ سَيُصْبِيْهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ  
بِمُعْجِزِينَ ﴿٥١﴾

أَوْلَمْ يَعْمَلُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ  
وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَكُتُبُ لِفَوْهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾

\* قُلْ يَعْبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا  
تَقْنُطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ  
جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّجِيمُ ﴿٥٣﴾

byose. Kandi ni Ubabarira ibyaha, Nyirimpuhwe.”

54. Kandi nimwicuze kwa Nyagasan wanyu munamwicisheho bugufi mbere y'uko mugerwaho n'ibihano, hanyuma ntimutabarwe.

55. Munakurikire ibyiza mwamanuriwe (Qur'an) biturutse kwa Nyagasan wanyu, mbere y'uko mugerwaho n'ibihano bibatunguye mutabizi.

56. (Ibyo ni) ukugira ngo hatazagira uvuga ati "Mbega akaga ngize kubera kudohoka ku mategeko ya Allah, kandi rwose nari umwe mu bayakerensaga."

57. Cyangwa akavuga ati "Rwose iyo Allah aza kunyobora, nari kuba mu bagandukira (Allah)."

58. Cyangwa se igihe azaba abonye ibihano akavuga ati "Rwose iyaba nari mbonye amahirwe yo kugaruka ku isi, nari kuzaba mu bakora ibyiza."

59. (Azasubizwa ati) "Niko biri! Rwose wagezweho n'ibimenyetso byanjye maze urabihakana, uribona ndetse uba mu bahakanyi."

وَأَنِيبُوا إِلَيْ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ

يَا تِيكُمُ الْعَذَابُ شَدَّادٌ لَا تُصْرُونَ ﴿٥٤﴾

وَأَتَيْتُمُ الْحَسَنَ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مَنْ

قَبْلِ أَنْ يَا تِيكُمُ الْعَذَابُ بَعْتَهَ وَأَنْتُمْ لَا

تَشْعُرُونَ ﴿٥٥﴾

أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَحْسَرَتِي عَلَىٰ مَا فَرَطْتُ فِي

جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاجِدِينَ ﴿٥٦﴾

أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَنِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

٥٧

أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ

مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾

يَا قَدْ جَاءَتِكَءَ اِيَّتِي فَكَذَّبَتِ بِهَا وَأَسْتَكَبَرَتِ

وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٥٩﴾

60. Ndetse no ku munsi w'imperuka, uzabona uburanga bwa ba bandi bahimbiye Allah (ibinyoma) bwijimye. Ese muri Jahanamu si ho buturo bw'abibone?

61. Kandi Allah azarokora ba bandi batinye Nyagasan wabo abaha ibyicaro byabo byiza (mu Ijuru). Ntibazigera bagerwaho n'ikibi (icyo ari cyo cyose) ndetse ntibazagira n'agahinda.

62. Allah ni Umuremyi wa buri kintu, kandi ni na We muhagararizi wa buri kintu.

63. Ni We nyir'impfunguzo z'ibir mu birere no mu isi. Naho ba bandi bahakanye ibimenyetso bya Allah, ni bo bazaba abanyagihombo.

64. Vuga (yewe Muhamadi) uti "Ese ibitari Allah ni byo muntegeka kugaragira, yemwe mwa njiji mwe?"

65. Kandi rwose wahishuriwe (wowo Muhamadi) nk'uko Intumwa zakubanjirije zahishuriwe ko nuramuka ubangikanyije Allah, ibikorwa byawe byose bizaba imfabusa, kandi nta kabuza uzaba mu banyagihombo.

وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ  
وُجُوهُهُمْ مُسَوَّدَةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى  
لِلْمُتَكَبِّرِينَ ٦٥

وَيُنِيجِي اللَّهُ الَّذِينَ أَنْقَوْا مَفَازَتَهُمْ لَا يَمْسُهُ  
الْأَسْوَعُ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ ٦٦

اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  
وَكَيْلٌ ٦٧

لَهُ مَقَابِيلُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا  
بِإِيمَانِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ٦٨

فُلْ أَفْغَيَرَ اللَّهُ تَأْمُرُ وَنَهَا أَعْبُدُ أَيْهَا  
الْجَاهِلُونَ ٦٩

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ  
لِيَنْ أَشْرَكَتْ لِيَحْبَطَ عَمَلُكَ  
وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ٧٠

66. Ahubwo **Allah** (wenyine) ube  
ari We ugaragira, kandi ube mu  
bashimira.

67. Kandi (ababangikanyamana)  
ntabwo bahaye **Allah** icyubahiro  
kimukwiye. No ku munsi  
w'imperuka ibiri mu isi byose  
bizaba biri mu kuboko kwe (mu  
gipfunsi kimwe), ndetse n'ibirere  
bizazingazingirwa mu kuboko  
kwe kw'iburyo. Ubutagatifu ni  
ubwe kandi nta ho ahuriye  
n'ibyo bamubangikanya na byo.

68. Nuko ubwo impanda  
izavuzwa, abari mu birere no mu  
isi bazagwa igihumure (bapfe),  
uretse uwo **Allah** azashaka.  
Hanyuma yongere ivuzwe bwa  
kabiri, maze bahaguruke  
(bazuke bose) bategereje (uko  
**Allah** ari bubagenze).

69. Kandi isi izarabagirana  
biturutse ku rumuri rwa  
Nyagasani wayo, nuko buri wese  
ahabwe igitabo (cy'ibikorwa  
bye), hanyuma abahanuzi  
n'abahamya bazanwe, maze  
(abantu) bacirwe urubanza mu  
kuri, batarenganyijwe.

70. Na buri wese azahemberwa  
ibyo yakoze, kandi (**Allah**) ni We  
uzi bihebuje ibyo bakoraga.

بِكِ اللَّهِ فَاعْبُدُ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ٦٦

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا  
قَبَضَتُهُ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّتُ  
بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشَكُّرُونَ ٦٧

وَنُفِخَ فِي الْصُّورِ فَصَعَقَ مَنِ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنِ  
فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ تَرْفَعُ نُفُخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا  
هُوَ قِيَامٌ يَظْرُونَ ٦٨

وَأَشَرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رِبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ  
وَجِائِهَ بِالنَّبِيِّنَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ  
بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٦٩

وَوُفِيتَ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا  
يَفْعَلُونَ ٧٠

71. Abahakanyi bazajyanwa muri Jahanamu mu matsinda, kugeza ubwo bazayigeraho maze imiryango yayo igafunguka, nuko abarinzi bayo bavuge bati “Ese ntimwagezweho n’Intumwa zibaturutsemo, zibasomera amagambo (Ayat) ya Nyagasani wanyu, ndetse zinababurira kuzahura n’uyu munsi wanyu?” Bazavuga bati “Yego! Ahubwo imvugo y’ibihano yabaye impamo ku bahakanyi (ari bo twe).”

72. Nuko babwirwe bati “Nimwinjire mu miryango ya Jahanamu, muzabamo ubuziraherezo. Kandi ni bwo buturo bubi bw’abibone!”

73. Naho ba bandi batinye Nyagasani wabo, bazajyanwa mu ijuru bari mu matsinda, kugeza ubwo bazarigeraho maze imiryango yaryo ifunguke, nuko abarinzi baryo bavuge bati “Amahoro nabe kuri mwe! Mwakoze neza, ngaho nimuryinjiremo (muri bemo) ubuziraherezo.”

74. Na bo bavuge bati “Ishimwe n’ikuzo ni ibya Allah, We wubahirije isezerano rye akanaduha kuzungura ubutaka bw’ljuru tukaba dutuye aho dushaka. Mbega ukuntu

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زَمَرًا حَقَّ<sup>٦٣</sup>  
إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتْهَا أَلَمْ  
يَا تَكُمْ رُسُلُ مِنْكُمْ يَتَلَوَنَ عَيْنَكُمْ إِيَّا تِرِكُمْ  
وَيُنِذِّرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمَكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى  
وَلِكُنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكُفَّارِينَ<sup>٦٤</sup>

قِيلَ أَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَيَسَّ  
مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ<sup>٦٥</sup>

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْرَبُهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زَمَرًا حَقَّ<sup>٦٦</sup>  
إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتْهَا  
سَلَمُ عَيْنَكُمْ طَبَّتْ فَادْخُلُوهَا خَلِدِينَ<sup>٦٧</sup>

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ  
وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ  
نَشَاءُ فَنَعَمْ أَجْرُ الْعَمِلِينَ<sup>٦٨</sup>

ibihembo by'abakora neza ari  
byiza bihebuje!"

75. Uzabona kandi abamalayika bakikije Ar'shi<sup>193</sup>, basingiza ikuzo n'ishimwe bya Nyagasan wabo. Kandi (ibiremwa byose) bizakiranurwa mu kuri. Nuko havugwe ngo "Ishimwe n'ikuzo byuzuye ni ibya Allah, Nyagasan w'ibiremwa byose."

وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ  
يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقَبِيلَ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

#### 40 - SURAT GHAFIR

(UBABARIRA IBYAH)

*Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirongo 85.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Haa Miimu<sup>194</sup>.

١ حَمَ

2. Ihishurwa ry'igitabo (Qur'an) rituruka kuri Allah, Umunyacyubahiro bihebuje, Umumenyi uhebuje,

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ①

3. Ubabarira ibyaha, Uwakira ukwicuza, Nyiribihano bikaze, Nyirinema. Nta yindi mana

غَافِرُ الدَّنَبِ وَقَابِلُ اُنْتَوْبٍ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذِي  
الْأَطْوَلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ②

<sup>193</sup> Reba uko twasobanuye iri jambo muri Surat ul A'raf, aya ya 54

<sup>194</sup> Inyuguti nk'izi twazivuzeho mu masura yatambutse.

ibaho itari We, kandi Iwe ni ho garukiro.

4. Nta bajya impaka ku bimenyetso bya Allah, usibye ba bandi bahakanye. Bityo, ntugashukwe no kwidegembya kwabo ku isi.

5. Mbere yabo (Abakurayishi), n'abantu ba Nuhu ndetse n'udutsiko twaje nyuma yabo barahakanye. Kandi buri muryango w'abantu washakaga kwica Intumwa yawutumweho, ndetse bajya impaka zishingiye ku kinyoma bagamije kuburizamo ukuri, maze ndabafata (ndabahana). Mbega uko ibihano byanje byari bimeze!

6. Ndetse uko ni ko ijambo rya Nyagasan i wawe (ry'ibihano) ryabayi impamo kuri ba bandi bahakanye, ko rwose ari abantu bo mu muriro.

7. Ba bandi (abamalayika) bateruye Ar'shi<sup>195</sup> n'abayikikije, basingiza ikuzo rya Nyagasan i wabo bakanamwemera, bakanasabira imbabazi ba bandi bemera (bagira bat) "Nyagasan i wacu! Impuhwe n'ubumenyi byawe bigera kuri buri kintu. None babarira ibyaha ba bandi bakwicujeho,

مَا يُحَدِّلُ فِي ءَايَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرِبُكَ تَقْبِلُهُمْ فِي الْيَلَدِ ٤

كَذَّبُتْ قَبْلَهُمْ قَوْمٌ نُوحٌ وَالْأَخْرَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمْتَ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَهَّلُوا بِالْبَطْلِ لِيُدْحِصُوْهُ الْحَقُّ فَلَخَذُوهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ٥

وَكَذَّلَكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ٦

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوَّلَهُ وَيُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا وَسَعَتْ كُلُّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعَلَمًا فَاعْفُرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَيِّلَكَ وَفِيهِمْ عَذَابٌ أَلْجَاهِيمِ ٧

<sup>195</sup> Reba ibisobanuro by'iri jambo muri Suratul A'raf, Ayat ya 54.

bakanakurikira inzira yawe ndetse unabarinde ibihano byo mu muriro.”

8. “Nyagasan wacu! Unabinjize mu ijuru rihoraho (rya Edeni) wabasezeranyije, ndetse unaryinjizemo n'abari intungane mu bakurambere babo, mu bagore babo no mu rubyaro rwabo. Mu by'ukuri ni Wowe Munyembaraga zihebuje, Nyirubugenge buhambaye uhebuje.”

9. Kandi unabarinde (ibihano by') ibikorwa bibi, kuko uwo uzarinda (ibihano by') ibikorwa bibi kuri uwo munsi rwose uzaba umugiriye impuhwe. Kandi iyo ni yo ntsinzi ihambaye.

10. Mu by'ukuri ba bandi bahakanye (ubwo bazaba binjizwa mu muriro) bazabwirwa bati “Rwose uburakari bwa Allah (abafitiye) burakomeye cyane kuruta ubwo mufitanye hagati yanyu (muri mu muriro), kubera ko mwajyaga muhamagarirwa kwemera ariko mugahakana.”

11. Bazavuga bati “Nyagasan wacu! Watwambuye ubuzima ubugira kabiri (mbere y'ivuka ryacu n'igihe twavaga ku isi), unaduha ubuzima ubugira kabiri (igihe twavukaga n'igihe watuzuraga), none ubu

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدِينَ أَلَّا نِيَّرْهُمْ  
وَمَنْ صَلَحَ مِنْ أَبَابِيهِمْ وَأَرْوَاجِهِمْ  
وَذِرْرَتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٨﴾

وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقَى السَّيِّئَاتِ  
يُوَمِّدِ فَقَدْ رَحْمَتُهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ  
الْعَظِيمُ ﴿٩﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ  
مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسُكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى  
الْأَيْمَنِ فَتَكْفُرُونَ ﴿١٠﴾

قَالُوا رَبَّنَا أَمْتَنَا أُثْنَيْنِ وَأَحِيَّتَنَا أُثْتَتِينَ  
فَأَعْتَرَفَنَا بِدُونِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَيِّلٍ

twemeye ibyaha byacu. Ese haba hari inzira yo gusohoka (muri uyu muriro tukagaruka ku isi gukora ibikorwa byiza)?”

12. Ibyo ni ukubera ko iyo mwahamagarirwaga kugaragira Allah wenyine, mwarahakanaga. Nyamara yabangikanywa (n’ibindi) mukaba ari bwo mwemera. Bityo, ubucamanza ni ubwa Allah, Uwikirenga, Usumba byose.

13. (Allah) ni We ubereka ibimenyetso bye, akanabamanurira mu kirere (imvura ituma mubona) amafunguro, nyamara ntawuzirkana (ibyo bimenyetso) usibye ugarukira Allah.

14. Bityo, nimwambaze Allah wenyine mumwegurira ibikorwa byanyu, kabone n’iyo byababaza abahakanyi.

15. (Ni We) ufite urwego rusumba izindi, Nyiri Ar’shi<sup>196</sup>. Ku bw’itegeko rye, yohereza Roho (Malayika Jibril) k’uwo ashaka mu bagaragu be, kugira ngo aburire (abantu) umunsi bazahurira (hamwe).

ذَلِكُمْ يَأْنَهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ  
كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشَرِّكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَلَا حُكْمُ  
لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ﴿١٣﴾

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ أَيْتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ  
رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ﴿١٤﴾

فَادْعُوا اللَّهَ مُحْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَا كُرَّةَ  
الْكَفِرُونَ ﴿١٥﴾

رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ دُوْلُ الْعَرِشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ  
أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ  
الثَّلَاقِ ﴿١٦﴾

<sup>196</sup> Reba ibisobanuro by’iri jambo muri Suratul A’araf, Aya ya 54

16. Umunsi bose bazagaragara, nta na kimwe mu byabo kizihisha Allah. (Allah azavuga ati) "Uyu munsi ubwami ni ubwa nde?" (Allah azisubiza agira ati) "Ni ubwa Allah, Umwe rukumbi, Umunyembaraga z'ikirenga."

17. Uyu munsi buri wese arahemberwa ibyo yakoze. Uyu munsi nta mahugu (agirirwa uwo ari we wese). Mu by'ukuri Allah ni Ubanguka mu ibarura.

18. Unababurire umunsi wegereje, ubwo imitima izaba ibageze mu ngoto bafite ubwoba. Inkozi z'ibibi nta nshuti zizagira ndetse nta n'umuvugizi (zizagira) uzumvwa.

19. (Allah) azi neza amaso yuzuye uburyarya ndetse n'ibyo imitima ihishe.

20. Kandi Allahaca imanza mu kuri, naho ibyo basenga bitari We, nta bubasha na mba bifite bwo guca urubanza. Mu by'ukuri Allah ni Uwumva cyane, Ubona bihebuje.

21. Ese ntibatambagira isi ngo barebe uko iherezo ry'abababanjirije ryagenze? Bari bafite imbaraga, banasize ibisigaratongo bihambaye ku isi kubarusha, nuko Allah abahanira ibyaha byabo. Kandi

يَوْمَ هُمْ بَرِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۝  
الْمَلَكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَحِيدِ الْفَهَارِ ۱۶

الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمٌ  
الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۱۷

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزْفَةِ إِذَا الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ  
كَظِيمَنَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَيْمِرٍ وَلَا شَفِيعٍ  
يُطَاعُ ۱۸

يَعْلَمُ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ وَمَا لَخْنَفَ الصُّدُورُ ۱۹

وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُوْنَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۲۰

\* أَوْلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ

ntibigeze bagira ubarinda  
(ibihano bya) Allah.

مِنْهُمْ قُوَّةٌ وَّإِثْرَاٰ فِي الْأَرْضِ فَأَخْذَهُمُ اللَّهُ  
بِدُّلُوبِهِمْ وَمَا كَانَ أَهْمَمُ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍِ ﴿١﴾

22. Ibyo ni ukubera ko Intumwa zabo zabageragaho zibazaniye ibitangaza bigaragara, maze bagahakana. Nuko Allah arabahana. Mu by'ukuri ni Umunyembaraga, Nyiribihano bikaze.

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ  
فَكَفَرُوا فَأَخْذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدٌ  
الْعِقَابٌ ﴿٢﴾

23. Kandi rwose twohereje Musa tumuhaye ibimenyetso byacu na gihanya (ubutware) bigaragara,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِإِيمَانِنَا وَسُلْطَنِ  
مُّبِينٍ ﴿٣﴾

24. (Tumwohereza) kwa Farawo, Hamana na Qaruna, nuko baravuga bati “(Uyu) ni umurozi w'umubeshyi!”

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَنْ وَقَرْوَنَ فَقَالُوا أَسْحِرْ  
كَذَابٌ ﴿٤﴾

25. Maze ubwo (Musa) yabageragaho abazaniye ukuri kuduturutseho, baravuze bati “Nimwice abahungu mu bana b'abamwemeye, mureke abakobwa.” Ariko imigambi y'abahakanyi iganisha mu buyobe.

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا أَقْتُلُوا  
أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَلَا سَتَحْيُوا  
نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي  
ضَلَالٍ ﴿٥﴾

26. Nuko Farawo aravuga ati “Nimundeke nice Musa, maze ahamagare Nyagasani we (amutabare). Mu by'ukuri ndatinya ko yahindura idini ryanyu cyangwa agakwirakwiza

وَقَالَ فِرْعَوْنٌ ذُرْرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلِيَدْعُ رَبَّهُ  
إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي  
الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴿٦﴾

ubwononnyi mu gihugu  
(Misiri)."

27. Musa aravuga ati "Mu by'ukuri nikanze kuri Nyagasanwanje ari na We Nyagasanwanyu, ngo andinde buri wese wibona, utemera umunsi w'ibarura."

28. Maze umwemera wo mu bantu ba Farawo, wahishaga ukwemera kwe, aravuga ati "Ese murica umuntu mumuhora ko avuga ati 'Nyagasanwanje ni Allah?' Kandi abazaniye ibimenyetso bigaragara biturutse kwa Nyagasanwanyu? Niba ari umubeshyi, ikinyoma cye kizamugaruka, kandi niba ari umunyakuri, bimwe mu byo abasezeranya bizababaho. Rwose Allah ntayobora urengera (amategeko ye), umunyakinyoma."

29. (Akomeza agira ati) "Yemwe bantu banje, uyu munsi mufite ubwami, mwaratsinze ku isi, none ni nde wadutabara ibihano bya Allah biramutse bitugezeho?" Farawo aravuga ati "Nta gitekerezo nabaha uretse icyo mbona (ko cyabagirira akamaro), ndetse nta n'indi nzira mbayobora uretse kubaganisha mu nzira itunganye."

وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ  
مُتَكَبِّرِ لَا يَوْمَ يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٧﴾

وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ أَهْلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ  
إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُنَّ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ  
وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَأْكُ  
كَذِبَّاً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَأْكُ صَادِقًا  
يُصِيبُكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعْدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا  
يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسَرِّفٌ كَذَابٌ ﴿٢٨﴾

يَقُومُ لَكُمْ الْمَلَكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ  
فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَاسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ  
مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهَدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلٌ  
الرَّشَادٍ ﴿٢٩﴾

30. Nuko wa wundi wemeye aravuga ati “Yemwe bantu banje! Mu by'ukuri ndatinya ko mwazagerwaho n'ibihano nk'ibyabaye ku munsi w'udutsiko,

31. (Ibyobihano) ni nk'ibyabaye ku bantu ba Nuhu, aba Adi, aba Thamudu n'ababayeho nyuma yabo. Kandi **Allah** ntabwo ashaka kurenganya abagaragu (be).

32. “Yemwe bantu banje! Mu by'ukuri ndatinya ko mwazagerwaho (n'ibihano) ku munsi wo guhamagarana (hagati y'abantu bo mu ijuru n'abo mu muriro)<sup>197</sup>,

33. Umunsi muzahindukira muhunga (mubonye umuriro), ntimuzabona ubakiza (ibihano bya) **Allah**. Kandi uwo **Allah** yarekeye mu buyobe ntiyagira umuyobora.

34. Kandi rwose Yusuf yari yarabagezeho na mbere afite ibimenyetso bigaragara, ariko mwagumye mu gushidikanya ku byo abazaniye. Nuko ubwo yari amaze gupfa, muravuga muti “**Allah** ntazigera yohereza indi ntumwa nyuma ye. Uko ni ko

وَقَالَ الَّذِي ءَامَنَ يَقُولُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ  
يَوْمِ الْحَزَابِ ٣٠

مِثْلَ دَأْبِ قَوْمٍ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ  
بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ طُلْمَامًا لِلْعَبَادِ ٣١

وَيَقُولُونَ مُدَبِّرِينَ مَا كُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ

يَوْمَ نُولُونَ مُدَبِّرِينَ مَا كُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ فَوَمَنْ  
يُضْلِلُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ ٣٢

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلٍ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا  
رِلْتُمُ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَقًّا إِذَا هَلَكَ  
قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ  
يُضْلِلُ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ ٣٤

<sup>197</sup> -Reba Surat ul A'raf: 44-50.

Allah arekera mu buyobe wa wundi urengera, ushidikanya.”

35. Ba bandi bajya impaka ku magambo ya Allah kandi nta gihama ya yabagezeho, (ibyo) Allah arabyanga bikomeye ndetse (bikangwa) n'abemeramana. Uko ni ko Allah adanangira umutima wa buri mwibone wese w'icyigomeke.

36. Farawo aravuga ati “Yewe Hamana! Nyubakira umunara kugira ngo mbashe kugera mu mayira;

37. “Amayira yo mu birere, no kugira ngo nshobore kubona Imana ya Musa; ariko ndakeka ko (Musa) ari umubeshyi.” Uko ni ko Farawo yakundishijwe ibikorwa bye bibi maze akumirwa mu nzira y'ukuri. Kandi ubugambanyi bwa Farawo nta cyo bwamumariye uretse ko bwatumye arimbuka.

38. Naho wa wundi wemeye (wo mu bantu ba Farawo) aravuga ati “Yemwe bantu banjye! Nimunkurikire mbayobore mu nzira itunganye”;

39. “Yemwe bantu banjye! Mu by'ukuri ubu buzima bw'isi ni umunezero w'igihe gito, kandi rwose (ubuzima bw') imperuka ni bwo buturo buzahoraho.”

الَّذِينَ يُجَدِّلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنٍ  
أَتَهُمْ كَبُرُّ مُقْتَنِعًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ  
عَامَّوْا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ

جَبَارٌ ٣٥

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهْمَنْ أَبْنِ لِ صَرَحًا لَعَلَّيْ أَبْلُغُ  
الْأَسْبَابَ ٣٦

أَسْبَابَ الْسَّمَوَاتِ فَأَطْلَعَ إِلَيْهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي  
لَاَظُنُّهُ كَذِبًا وَكَذِبَ إِلَيْهِ زُبُنْ لِفِرْعَوْنَ  
سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدُّهُ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدَ  
فِرْعَوْنٌ إِلَّا فِي تَبَابٍ ٣٧

وَقَالَ الَّذِيٰ إِنَّمَا يَقُولُ أَتَيْعُونَ أَهْدِيْكُمْ  
سَبِيلَ الرَّشَادِ ٣٨

يَقُولُمْ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَّعٌ  
وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ٣٩

40. "Uzakora igikorwa kibi azahembwa ikingana na cyo, naho uzakora igikorwa cyiza, yaba umugabo cyangwa umugore akaba ari n'umwemera; abo ni bo bazinjira mu ijuru, bahabwemo amafunguro nta kugererwa."

41. "Yemwe bantu banjye! Kuki mbahamagarira kurokoka, mwe mukampamagarira kugana umuriro?"

42. "Murampamagarira guhakana **Allah** ngo mubangikanye n'ibyo ntafitiye ubumenyi? Nyamara njye ndabahamagarira kugana (**Allah**) Nyirimbaraga zihebuje, Ubabarira ibyaha."

43. "Nta gushidikanya ko ibyo mumpamagarira nta cyo byamarira mu byo nabisaba, haba ku isi cyangwa ku mperuka, kandi igarukiro ryacu ni kwa **Allah**. Kandi abarengera imbagu (za **Allah**) ni bo bantu bo mu muriro."

44. "Kandi muzibuka ibyo mbabwira! Nanjye ibyanjye mbyeguriye **Allah**! Mu by'ukuri **Allah** ni Ubona abagaragu be mu buryo buhebuje."

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ  
عَمِلَ صَلِحَّا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْتَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرَزَّقُونَ فِيهَا  
بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤١﴾

\* وَيَدْعُوكُمْ مَا لَيْ أَذْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَةِ وَتَدْعُونِي  
إِلَى الْنَّارِ ﴿٤٢﴾

تَدْعُونِي لَا كُفَّرَ بِاللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ  
لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَذْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ  
الْعَفَرِ ﴿٤٣﴾

لَا جَرَمَ أَنْمَاتَ دَعْوَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي  
الْدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرْدَنَا إِلَى اللَّهِ  
وَأَنَّ الْمُسَرِّفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴿٤٤﴾

فَسَتَدْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَقْضُ أَمْرِي  
إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعَبَادِ ﴿٤٥﴾

45. Nuko **Allah** amurinda imigambi mibisha yabo bari bagambiriye, maze ibihano bibi bigota abantu ba Farawo.

46. Umuriro bawushyirwamo mu gitondo na nimunsi (aho bari mu mva zabo), n'igihe umunsi w'imperuka wageze (abamalayika bazabwirwa bat): “Nimwinjize abantu ba Farawo mubihano (umuriro) bikaze cyane.”

47. Kandi (zirikana) ubwo bazatongana bari mu muriro (baterana amagambo), maze abanyantege nke babwire ba bandi bibonaga (ku isi) bat “Mu by'ukuri ni mwe twakurikiraga. Ese none hari icyo mwatumarira, mu kutugabanyiriza kuri ibi bishano by'umuriro?”

48. Ba bandi bibonaga (ku isi) bazavuga bat “Rwose twese tuwurimo! Mu by'ukuri **Allah** yamaze gukiranura abagaragu be.”

49. Nuko abari mu muriro bazabwire abarinzi ba Jahanamu bat “Nimudusabire Nyagasani wanyu atugabanyirize ibihano kabone n'ubwo byaba umunsi umwe.”

فَرَقَهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِهَا فِرْعَوْنُ سُوءُ الْعَذَابِ ﴿٤٥﴾

النَّارُ يُعَرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوا وَعَيْشًا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخُلُوا إِلَيْهَا فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ

وَإِذْ يَتَحَاجِجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ بَعْدًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ

قَالَ الَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ أَعْبَادِهِ ﴿٤٨﴾

وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ أَدْعُوا رَبَّكُمْ يُحَقِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ

50. Bazabbwira bati “Ese Intumwa zanyu ntizabageragaho zibazaniye ibimenyetso bigaragara?” Bavuge bati “Ni byo (zatugezeho)” (Abarinzi b’umuriro) bavuge bati “Ngaho nimusabe ariko uguusaba kw’abahakanyi nta cyo kumara uretse igihombo.”

51. Mu by’ukuri dutabara Intumwa zacu na ba bandi bemeye (Intumwa bakazikurikira) bakiri mu buzima bw’isi, no ku munsi abahamya bazahagarara (babashinja ibyo bakoze).

52. Umunsi urwitwazo rw’inkozi z’ibibi rutazagira icyo ruzimarira, ndetse bazagira umuvumo n’ubuturo bubi.

53. Kandi rwose twahaye Musa umuyoboro (Tawurati), tunaha bene Isiraheli kuba abazungura b’icyo gitabo,

54. (Ngo kibe) umuyoboro n’urwibutso ku bafite ubwenge.

55. Bityo (yewe Muhamadi) ihangane! Mu by’ukuri isezerano rya Allah ni ukuri. Kandi usabe imbabazi z’ibyahya byawe, ndetse unasingize ikuzo rya Nyagasani wawe buri uko bwije na buri uko bucyeeye.

قَاتُلُوا أَوْ لَمْ تَكُنْ تَاتِي كُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيْتِ  
قَاتُلُوا بَلَى قَاتُلُوا فَادْعُوا وَمَا دَعَوْا إِلَّا كَفَرِينَ  
إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿٥٠﴾

إِنَّا لَنَصْرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي  
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُولُونَ الْأَشَهَدُ ﴿٥١﴾

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذَرُهُمْ وَلَهُمُ الْعَذَابُ  
وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارٍ ﴿٥٢﴾

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي  
إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ ﴿٥٣﴾

هُدَىٰ وَذَكْرٍ لِأُولَئِكَ الْأَلَبِ ﴿٥٤﴾

فَاصْبِرْ إِنَّ اللَّهَ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ  
لِذَنْبِكَ وَسَيْحَنَّ مُحَمَّدَ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ  
وَالْأَبْكَرِ ﴿٥٥﴾

56. Mu by'ukuri ba bandi bajya impaka ku magambo ya Allah kandi nta gihama yabagezeho, rwose nta kindi kiri mu mitima yabo usibye ubwibone (bwo gushaka gusumba Intumwa), kandi ntibazabigeraho. Bityo, jya wikinga kuri Allah (akurinde ibibi byabo). Mu by'ukuri ni We Uwumva cyane, Ubona bihebuje.

57. Rwose iremwa ry'ibirere n'isi ni ryo rikomeye kuruta iremwa ry'abantu (no kubazura); nyamara abenshi mu bantu ntibabizi.

58. Kandi utabona ntabwo ari kimwe n'ubona, ndetse na ba bandi bemeye bakanakora ibikorwa byiza si kimwe n'abakora ibibi. Ariko ni gake mwibuka.

59. Mu by'ukuri imperuka izaza nta kuyishidikanyaho, ariko abenshi mu bantu ntibabyemera.

60. Kandi Nyagasan i wanyu yaravuze ati "Nimunsabe, ndabasubiza. Mu by'ukuri ba bandi bibona bakanga kunsenga (kunsaba), bazinjira mu muriro basuzuguritse."

إِنَّ الَّذِينَ يُجَدِّلُونَ فِيْ إِيمَانِ اللَّهِ بِغَيْرِ  
سُلطَانٍ أَتَهُمْ إِنْ فِيْ صُدُورِهِمْ إِلَّا  
كَبُرُّ مَا هُمْ يَبْلِغُونَ فَأَسْتَعِدُ بِاللَّهِ  
إِنَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿٥٦﴾

لَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَكْثَرُهُمْ  
خَلَقَ النَّاسَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا  
يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ ءامَنُوا  
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ كُلُّاً لِمَا  
تَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾

إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ  
أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٩﴾

وَقَالَ رَبُّكُمْ أَدْعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ إِنَّ  
الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ  
جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

61. Allah ni We wabashyiriye ho ijoro kugira ngo muriruhukemo ndetse anabashyiriraho amanywa kugira ngo mubashe kubona (bityo mushake ibibabeshaho). Mu by'ukuri Allah ni nyir'ingabire ku bantu; nyamara abenshi mu bantu ntibashima.

62. Uwo ni Allah Nyagasan i wanyu, Umuremyi wa buri kintu, nta yindi mana ibaho itari We. Ese ni gute mureka ukuri (mugasenga ibitari Allah)?

63. Uko ni ko abahakanaga ibimenyetso bya Allah bateshwaga ukuri.

64. Allah yabashyiriye ho isi nk'ahantu ho gutura kandi hatekanye, (anabaremera) ikirere nk'igisenge, nuko abaha amashusho maze arayatunganya, ndetse abaha n'amafunguro meza. Uwo ni we Allah, Nyagasan i wanyu. Bityo, ubutagatifu ni ubwa Allah, Nyagasan i w'ibiremwa byose.

65. Ni We Uhoro (Nyirubuzima bwuzuye), nta yindi mana ikwiye gusengwa by'ukuri uretse We. Bityo, nimumusabe mumuhariye kugaragirwa wenyine. Ishimwe n'ikuzo byuzuye ni ibya Allah, Nyagasan i w'ibiremwa byose.

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْيَلَدَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ  
وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَدُو فَضْلٌ عَلَى النَّاسِ  
وَلِكُنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ  
إِلَّا هُوَ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ ﴿٦﴾

كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الظَّرِيرَ كَافُرًا بِعِيَاتِ اللَّهِ  
يَحْكُمُونَ ﴿٦﴾

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَابًا  
وَالسَّمَاءَ بَنَاءً وَصَوَرَكُمْ فَأَخْسَرَ  
صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنْ الظَّيِّبَاتِ  
ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ  
الْعَلَمِينَ ﴿٦﴾

هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُحْلِصِينَ لَهُ  
الظَّرِيرَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿١٥﴾

66. Vuga uti “Mu by'ukuri nabuijwe kugaragira ibyo musenga bitari **Allah**, ubwo nagerwagaho n'iбimenyetso bigaragara biturutse kwa Nyagasan iwanjye. Kandi nategetswe kwicisha bugufi imbere ya Nyagasan iwanjye. Kandi nategetswe kwicisha bugufi imbere ya Nyagasan iwanjye. Kandi nategetswe kwicisha bugufi imbere ya Nyagasan iwanjye.”

67. Ni We wabaremye abakomoye mu gitaka, hanyuma mu ntanga, hanyuma mu rusoro rw'amaraso, hanyuma abasohora (muri nyababyeyi) muri impinja, kugira ngo mugere ku bukure mu bwenge no mu gihagararo, hanyuma mube abasaza. No muri mwe harimo abapfa mbere, (**Allah** abikora gutyo) kugira ngo muzageze ku gihe cyagenwe, ngo wenda mwagira ubwenge.

68. Ni We utanga ubuzima akanatanga urupfu. Kandi iyo aciye iteka ku kintu, mu by'ukuri arakibwira ngo “Ba, nuko kikaba!”

69. Ese ntubona ba bandi bajya impaka ku magambo ya **Allah** ukuntu bateshwa ukuri (bakajya mu buyobe)!

70. Babandi bahinyuye igitabo (Qur'an) ndetse n'iбindi (bitabo) twoherereje Intumwa zacu, vuba

\* قُلْ إِنِّي نُهِيَتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ  
مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِي الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَّبِّي  
وَأُمِرْتُ أَنْ أَسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ٦٦

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ  
عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّ كُمْ  
ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّ مِنْ قَبْلِ  
وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٦٧

هُوَ الَّذِي يُحْيِيهِ وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا  
يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٦٨

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُحَدِّلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّهُ  
يُصْرَفُونَ ٦٩

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا يَهُ  
رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ٧٠

aha bazaba bamenya (ko ibyo barimo atari ukuri)!

71. Ubwo bazazirikwa imigozi y'ibyuma n'iminyururu mu majosi bakururwa,

72. (Bagaragurwa) mu mazi yatuye, hanyuma batwikipirwe mu muriro.

73. Maze babwirwe bati "Biri hehe ibyo mwajyaga mugaragira (ibigirwamana)

74. Muretse **Allah**?" Bavuge bati "Twabibuze! Ahubwo na mbere nta n'ibyo twasengaga." Uko ni ko **Allah** arekera abahakanyi mu buyobe.

75. Ibyo (bihano mubihawe) kubera ko ku isi mwajyaga mwishimira (ibangikanyamana) bitari mu kuri, ndetse no kubera ko mwajyaga mwishimira cyane (ibibi mwakoraga).

76. Ngaho nimwinjire mu miryango y'umuriro wa Jahanamu, muzabamo ubuziraherezo. Kandi ni bwo buturo bubi bw'abibone.

إِذَا أَلْغَلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَسِلُ  
يُسْجَبُونَ

فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي الْتَّارِ يُسْجَرُونَ

ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشَرِّكُونَ

مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُواْ أَضْلَلُواْ عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوْا  
مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يُضْلِلُ اللَّهُ الْكَافِرِينَ

ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَقْرَهُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ  
وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ

أَدْخُلُوهُ أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِيلِينَ فِيهَا فِئَسَ مَثَوَّى  
الْمُتَكَبِّرِينَ

77. Bityo, jya wihangana (yewe Muhamadi), mu by'ukuri isezerano rya Allah ni ukuri. Kandi n'yo twakwereka bimwe mu byo tubasezeranya (ukiri ku isi), cyangwa tukakuzuriza igihe cyawe cyo kubaho (tukakwambura ubuzima), (uko byagenda kose) iwacu ni ho bazagarurwa.

78. Kandi rwose twohereje Intumwa (nyinshi) mbere yawe; muri zo hari izo twakubariye inkuru zazo, ndetse hari n'izo tutakubwiye ibyazo. Ntibyashoboka ko hari Intumwa yagira igitangaza ikora itabishobojwe na Allah. Ariko itegeko rya Allah (ry'ibihano) nirisohora, imanza zizacibwa mu kuri, kandi icyo gihe igihombo kizaba icy'abanyabinyoma.

79. Allah ni We wabahaye amatungo kugira ngo mugire ayo mugendaho ndetse n'ayo murya.

80. Munayafiteho n'izindi nyungu nyinshi ndetse anabafasha kugera ku byo mwifuza mu mitima yanyu. Muyagendaho (ku butaka) mukanagenda mu mato.

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ الْذِي نَعْدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّكَ فَإِلَيْنَا

يُرْجَعُونَ ﴿٧٧﴾

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصَنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِعَايَةً إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ

الْمُبْطَلُونَ ﴿٧٨﴾

الَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَمَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تُكُلُونَ ﴿٧٩﴾

وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفَعٌ وَلَتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلَكِ تُحْمَلُونَ

﴿٨٠﴾

81. Anabereka ibimenyetso bye. Ese ni ibihe bimenyetso bya Allah muhakana?

وَبِرِّيْكُمْ إِيْكَتِهِ فَأَيَّ إِيْكَتِهِ اللَّهُ تُنَكِّرُوهُ

(81)

82. Ese (abahakanyi) ntibatambagira isi ngo barebe uko iherezo ry'abababanjirije ryagenze? Bari benshi kubarusha banabarusha imbaraga, ndetse banasize byinshi ku isi kubarusha; nyamara ibyo bakoraga nta cyo byabamariye.

أَفَمَنْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ  
عَاقِبَةُ الْذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكَثَرَ مِنْهُمْ  
وَأَشَدُّ قُوَّةً وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا  
كَانُوا يَكْسِبُونَ

(82)

83. Nuko ubwo bagerwagaho n'Intumwa zabo zibazaniye ibimenyetso bigaragara, biratanye ubumenyi bari bafite, maze bagotwa n'ibyo bajyaga bakerensa (ibihano).

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبُيُّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا  
عِنْدَهُمْ مِنْ أَعْلَمِ وَحَافَ بِهِمْ مَا كَانُوا يَهْدِي  
يَسْتَهْزِئُونَ

(83)

84. Nuko babonye ibihano byacu, baravuga bat "Twemeye Allah wenyine, kandi duhakanye ibyo twajyaga tumubangikanya na byo."

فَمَا رَأَوْ بَأْسَنَا قَالُوا إِنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ  
وَكَفَرْنَا إِمَامَنَا بِهِ مُشْرِكِينَ

(84)

85. Ukwemera kwabo nta cyo kwabamariye nyuma yo kubona ibihano byacu. Uwo ni wo wari umugenzo wa Allah ku bagaragu be mu bihe byo hambere. Kandi icyo gihe igihombo cyabaye icy'abahakanyi (ubwo ibihano byacu byabageragaho).

فَلَمْ يَأْكُلْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْ بَأْسَنَا سُنَّتَ  
اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَقَ فِي عِبَادَوْهُ وَخَيْرَهُنَّا لَكَ  
الْكُفَّارُونَ

(85)

**41 - SURAT FUSWILAT  
(IMIRONGO ISESENGUWE)**

Yahishuriwe i Maka, igizwe n 'imirongo 54.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Haa Miim<sup>198</sup>.

١ حَمٰ

2. Ihishurwa ry'(iyi Qur'an)  
ryaturutse kwa (Allah)  
Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

تَنزِيلٌ مِّنَ الْرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٦

3. Ni igitabo gifite imirongo  
yasesenguwe, gisomwa mu  
rurimi rw'Icyarabu ku bantu  
basobanukiwe (kuko ari bo  
babimenya bakanabishyira mu  
bikorwa),

كِتَابٌ فُصِّلَتْ أَيْتُهُ وَقُرِئَ أَنَّا عَرَبِيَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

٤

4. (Icyo gitabo) kivuga inkuru  
nziza ndetse kikanaburira,  
nyamara abenshi muri bo  
bagitera umugongo, bityo  
ntibumve (ngo bacyemere).

بَشِّيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكَثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ٥

5. Baranavuga batii "Imitima  
yacu iranangiye (ntishobora  
kumva) ibyo uduhamagarira,  
kandi n'amatiyi yacu yarazibye  
ndetse hagati yacu na we hari  
urusika, bityo kora ibyaw  
natwe dukore ibyacu."

وَقَالُوا فُلُونَا فِي أَكِنَّتِهِ مِمَّا نَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي  
ءَادَانَةِ وَقْرٍ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَأَعْمَلَ إِنَّا

عَمِلُونَ ٦

<sup>198</sup> Inyuguti nk'izi twazivuzeho mu masura yatambutse.

6. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Mu by’ukuri njye ndi umuntu nkamwe, nahishuriwe ko Imana yanyu ari imwe rukumbi (**Allah**). Bityo, nimuyitunganire kandi muyicuzeho, (munamenye ko) ibyago bihambaye bizaba ku babangikanyamana.”

7. Ni ba bandi badatanga amaturo bakanahakana imperuka.

8. Mu by’ukuri ba bandi bemeye bakanakora ibikorwa byiza bazagororerwa ibihembo bihoraho.

9. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Ese mu by’ukuri muhakana uwaremye isi mu minsi ibiri ndetse mukamubangikanya n’ibigirwamana? Uwo ni We Nyagasani w’ibiremwa byose”,

10. Yayishimangiyeho imisozi ku buso bwayo ndetse anayihia imigisha, anayigenaho ibitunga (ibinyabuzima) biyiriho mu minsi ine ingana<sup>199</sup>. (Icyo ni cyo gisubizo) kubabaza (iby’iremwa ryayo).

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَّا إِلَهٌ كُلُّهُ إِلَهٌ وَحْدَهُ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَأَسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّمَنْ شَرِكَنِي ۖ

لِّمَنْ شَرِكَنِي ۖ

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الْزَّكَوَةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كُفَّارٌ ۗ

مَمْنُونٌ ۗ

\* قُلْ إِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجَعَّلُونَ لَهُ وَأَنَّدَادَكُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۚ

لِّسَائِيلِينَ ۖ

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ قَوْقَهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَرَ فِيهَا أَفْوَاتَهَا فِيْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءٌ

<sup>199</sup> Iminsi ine ingana ivugwa muri uyu murongo ihwanye n’iminsi ibiri **Allah** yaremyemo isi, hanyuma akarema ibiyiriho n’ibigomba gutunga ibiyiriho mu yindi minsi ibiri; yose hamwe ikaba iminsi ine.

11. Hanyuma yerekera ku kirere mu gihe cyari umwotsi, maze arakibwira cyo n'isi ati "Nimuze mwembi, mwanze mukunze!" Nuko biravuga biti "Tuje turi abumvira."

12. Nuko (cya kirere) aca iteka (ryo kukiremamo) ibirere birindwi mu minsi ibiri, maze ahishurira buri kirere inshingano zacyo. Kandi ikirere cyegereye isi twagitakishije amatara (inyenyeri), anakirinda (kuvogerwa n'amashitani). Uko ni ukugena kwa (**Allah**) Umunyacyubahiro bihebuje, Umumenyi uhebuje.

13. Nibaramuka birengagije (ibyo ubabwira), uvuge uti "Ndababurira kuzagerwaho n'urusaku rw'inkuba nk'urw'iayrimbuye aba Adi n'aba Thamudu."

14. Ubwo zabageragaho imbere zarababwiye ziti "Ntimukagire indi mana musenga itari **Allah**." Hanyuma baravuga bat "Iyo Nyagasani wacu ashaka (kutwoherereza Intumwa) yari kohereza abamalayika. Rwose twe duhakanye ubwo butumwa (muvuga ko mwaje) mutuzaniye."

ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا  
وَلِلأَرْضِ أَتَيْتَا طَوْعًا أَوْ كَرَهًا قَالَتْ أَتَيْنَا

طَبِيعَيْنَ

فَقَضَيْنَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْجَاهُنَّ فِي كُلِّ  
سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَاهَا بِمَصَبِّيحٍ  
وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

إِنَّ أَغْرَضُهُمْ قُلْ أَنْدَرُكُوكُ صَبِعَةً مِثْلَ صَبِعَةِ

عَادِ وَشَمُودَ

إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ  
خَلْفِهِمْ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهُ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ  
مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسَلْتُمْ بِهِ كَفِرُونَ

15. Naho aba Adi bagize ubwibone ku isi bitari mu kuri, maze baravuga bati “Ni nde waturusha imbaraga?” Ese ntibabona ko **Allah** wabaremye ari We ubarusha imbaraga? Kandi bahakanaga ibimenyetso byacu.

16. Nuko tuboherereza inkubi y'umuyaga uvuza ubuhuha mu minsi y'amakuba, kugira ngo tubasogongeze ku bihano bibasuzuguza mu buzima bwo ku isi. Kandi ibihano by'imperuka ni byo bizabasuzuguza kurushaho, ndetse ntibazanatabarwa.

17. N'aba Thamudu twabayoboye (inzira igororotse), ariko aho kuyoboka bahisemo ubuhumyi (kwirengagiza ukuri). Nuko bakubitwa n'inkuba nk'ighano gisuzuguritse cy'ibyo bakoraga.

18. Maze turokora ba bandi bemeye kandi bagandukira **Allah**.

19. (Ubibutse) umunsi abanzi ba **Allah** bazakoranyirizwa hamwe bajyanywe mu muriro; (aba mbere n'aba nyuma) nuko bawuganishweho.

فَمَمَّا عَادُ فَأَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ يَغْيِرُ الْحَقَّ وَقَالُوا  
مَنْ أَشَدُ مِنَّا قُوَّةً هُوَ أَنَّهُ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ أَنَّهُ ذِي حَلَقَهُمْ  
هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا يُبَايِنُونَ بَعْدَ حَدُودِنَ

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرَّصَرًا فِي أَيَّامٍ مَحَسَّاتٍ  
لِتُذْيِقُهُمْ عَذَابَ الْجَنَّى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلِعَذَابِ  
الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُصَرُّونَ ﴿١٦﴾

وَأَمَّا ثَمُودٌ فَهَدَيْنَاهُمْ فَأَسْتَجْبُوا لِعَهْمَى عَلَى  
الْهُدَى فَأَخْذَنَاهُمْ صَعْقَةً الْعَذَابِ أَهْمَوْنِ بِمَا كَانُوا  
يَكْسِبُونَ ﴿١٧﴾

وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ إِمْنَوْا وَكَانُوا يَسْتَقْوِنَ ﴿١٨﴾

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَهْمَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ مُؤْزَعُونَ ﴿١٩﴾

20. Maze nibamara kuwugeraho, amatwi yabo n'amaso yabo ndetse n'impuzabo bizabashinja ibyo bajyaga bakora.

21. Nuko babwire impuzabo bati "Kuki mwadushinjije (ibyo twakoze)?" Maze zivuge ziti "Allah wahaye buri kintu ubushobozi bwo kuvuga ni We watumye tuvuga. Kandi ni na We wabaremye bwa mbere, ndetse iwe ni ho muzagarurwa."

22. Nta n'ubwo mwari gushobora guhisha (ibyo mwakoraga) amatwi yanyu, amaso yanyu, cyangwa impuzanyu kugira ngo bitazabashinja. Ahubwo mwibwiraga ko Allah atazi byinshi mu byo mukora.

23. Uko kwari ugukeka kwanyu mwakekeraga Nyagasani wanyu gutumye mworama, mukaba mubaye mu banyagihombo.

24. Bityo, nibashobora kwihangana, umuriro ni wo uzaba ubuturo bwabo, kandi nibasaba binginga kugarurwa ku isi, ntibazayigarurwaho.

25. Kandi twabateguriye inshuti magara (amashitani mu bantu no mu majini) zibakundisha (ibikorwa byabo bibi) mu buzima bwo ku isi, (zinabibagiza)

حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءَهُ وَهَا شَهَدَ عَلَيْهِمْ سَمَعُهُمْ  
وَأَبْصَرُهُمْ وَجَلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦﴾

وَقَالُوا لِجَلُودِهِمْ لَئِنْ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا  
اللَّهُ أَذْنَىٰ أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَاتَمُ كُلِّ أُولَئِكَ مَرَّةٍ  
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٦﴾

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرُونَ أَنْ يَشَهَدَ عَلَيْكُمْ سَمَعُكُمْ  
وَلَا أَبْصَرُكُمْ وَلَا جَلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا  
يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٦﴾

وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرِبِّكُمْ أَرْدَدَكُمْ  
فَأَصَبَّ حُمُّرَ مِنَ الْخَيْرِينَ ﴿٦﴾

فَإِنْ يَصِرُّوْ فَاللَّارِمَشُوْ لَهُمْ وَلَنْ يَسْتَعْتِبُوْ فَمَا هُمْ  
مِنَ الْمُعْتَيِّنَ ﴿٦﴾

\*وَقَيَضَنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَرَنَّوْ لَهُمْ مَابِينَ أَيْدِيهِمْ  
وَمَا حَلَفُهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَّ

ubuzima bw'imperuka. Maze bahamwa n'invugo (y'ibihano) nk'iyahamye amajini n'abantu babayeho mbere yabo. Mu by'ukuri ni abanyagihombo.

26. Kandi ba bandi bahakanye (bajyaga babwirana) bati “Ntimukumve iyi Qur'an (igihe isomwa), ahubwo mujye muyirogoya kugira ngo mutsinde (Muhamadi).”

27. Ariko rwose ba bandi bahakanye tuzabasogongeza ibihano bikaze, kandi rwose tuzabahembera ibibi bakoraga.

28. Umuriro ni cyo gihembo cy'abanzi ba **Allah**, bazawubamo iteka, ari igihembo cy'uko bahakanaga amagambo yacu.

29. Kandi ba bandi bahakanye bazavuga bati “Nyagasani wacu! Twereke abatuyobeje bo mu majini no mu bantu, maze tubashyire munsi y'ibirenge byacu kugira ngo basuzugurike.”

30. Mu by'ukuri ba bandi bavuze bati “Nyagasani wacu ni **Allah**” hanyuma bagashikama (ku kuri), bazamanukirwa n'abamalayika (mu gihe cyabo cyo gupfa, bababwira bati) “Mwigira ubwoba ndetse n'agahinda, ahubwo nimwakire

منْ قَبْلِهِمْ مَنِ الْجِنْ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِيرِينَ

٢٥

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْءَانَ  
وَالْعَوْافِي لِعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ

فَلَنُذِيقَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا

وَلَنَجِزِّنَنَّهُمْ أَسْوَأَ الذِّي كَانُوا يَعْمَلُونَ

٢٧

ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ الْمُتَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخَلْدِ جَزَاءٌ  
بِمَا كَانُوا بِأَيْمَانِهِمْ حَدُورٌ

٢٨

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا الَّذِينَ أَضَلَّنَا مِنَ الْجِنْ وَالْإِنْسِ  
نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لَيْكُنَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ

٢٩

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ أَسْتَقْبَلُوا  
تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَا تَخَافُوا وَلَا  
تَخْرُجُوا وَلَا يَسْرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ  
تُوعَدُونَ

٣٠

inkuru nziza y'ijuru mwajyaga musezeranywa",

31. "Twebwe turi inshuti zanyu mu buzima bwo ku isi ndetse n'ubwo ku mperuka. Kandi (mu ijuru) muzahabwamo ibyo imitima yanyu izifuza, ndetse murihabwemo ibyo muzasaba byose."

32. (Ibyo) bizaba ari izimano riturutse kuri (**Allah**) Ubabarira ibyaha, Nyirimpuhwé.

33. Ni nde wavuga imvugo nziza kurusha wa wundi uhamagarira (abantu) kugana **Allah**, kandi agakora ibikorwa byiza, nuko akavuga ati "Mu by'ukuri njye ndi umwe mu bicisha bugufi" (Abayisilamu).

34. Kandi igikorwa cyiza n'ikibi ntibishobora kungana. Bityo, inabi (wakorewe) jya uyikosoza inea; ibyo bizatuma uwo mwari mufitanye urwango aba nk'inshuti yawe magara.

35. Arikó (ibyo) ntababihabwa usibye ba bandi bihangana, ndetse nta n'undi wabihabwa usibye umunyamahirwe ahambaye.

١٣  
نَحْنُ أَوْلَيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ  
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشَهَّدُونَ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ  
فِيهَا مَا تَدَعُونَ

١٤  
نُولَّا مِنْ غَفْرَرَ حَمِيرٍ

وَمَنْ أَحْسَنْ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَاهُ إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ  
صَلِحًا وَقَالَ إِنَّمَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ أَذْفَعُ بِأَنَّتِي  
هُنَّ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي يَنْكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ  
كَأَنَّهُ وَلِي حَمِيرٍ

وَمَا يُلْقَهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَهَا إِلَّا دُرُّ  
حَظِّ عَظِيمٍ

36. Kandi Shitani niramuka ishatse kugushuka, ujye wikinga kuri Allah. Mu by'ukuri (Allah) ni We Uwumva bihebuje, Umumenyi uhebuje.

37. No mu bimenyetso bye (Allah) harimo ijoro n'amanywa, ndetse n'izuba n'ukwezi. Bityo, ntimukubamire izuba cyangwa ukwezi, ahubwo mujye mwubamira Allah We wabiremye, niba koko ari We wenyine mugaragira.

38. Ariko nibibona (bakanga kugaragira Allah), bamenye ko abari kwa Nyagasani wawe (abamalayika) bamwambaza ijoro n'amanywa, batarambirwa na gato.

39. No mu bimenyetso bye (Allah) nuko ubona isi yumaganye, maze twayimanuraho amazi (imvura) ikanyeganyega ikanarumbuka, ndetse ikanameraho ibimera. Mu by'ukuri uyiha ubuzima ni na We uzazura abapfuye. Rwose ni We ufite ubushobozи bwa buri kintu.

40. Mu by'ukuri abagoreka amagambo yacu ntitudayobewe. Ese wa wundi uzajugunywa mu muriro ni we uzaba mwiza kurusha wa wundi uzaza atekanye ku munsi w'imperuka? Ngaho nimukore ibyo mushaka.

وَلَمَّا يَزَّغَنَاكَ مِنَ الشَّيْطَنِ نَزْعٌ فَأَسْتَعِدْ  
بِاللَّهِ إِنَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٢٦

وَمَنْ أَيَّتَهُ اللَّيلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسُ وَالقَمَرُ  
لَا تَسْجُدُوا لِالشَّمْسِ وَلَا لِلنَّهَارِ وَاسْجُدُوا  
لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كَنْتُمْ إِيمَانَ  
تَعْبُدُونَ ٢٧

فَإِنْ أَسْتَكِبُرُوا فَاللَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ  
يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ



وَمَنْ أَيَّتَهُ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا  
عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَرَّتْ وَرَبَّتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا  
لَمْحِي الْمُوْقِنَّ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٢٩

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي إِيمَانِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا  
أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي إِمَانًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ  
أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٣٠

Mu by'ukuri Allah ni We ubona bihebuje ibyo mukora.

41. Mu by'ukuri ba bandi bahakanye urwibutso (Qur'an) ubwo rwabageragaho (tuzabahana). Kandi mu by'ukuri urwo (rwibutso) ni igitabo cyubashywe.

42. Nta makosa akirangwamo, yaba ari muri cyo cyangwa aturutse hanze yacyo. Ni igitabo cyahishuwe giturutse kwa (Allah) Umumenyi uhebuje, Ushimwa cyane.

43. Nta byo ubwirwa (yewe Muhamadi) bitabwiwe Intumwa zakubanjirije. Mu by'ukuri Nyagasani wawe ni Nyirimbabazi, akaba na Nyiribihano bibabaza.

44. Kandi iyo (Qur'an) tuza kuyihishura mu rurimi rutari Icyarabu, (ababangikanyamana) bari kuvuga batì “Kuki imirongo yayo idasobanutse (mu rurimi rwacu twumva)?” (Allah ati) “Ese yaba itari mu Cyarabu igahishurirwa Umwarabu?” Vuga (yewe Muhamadi) uti “(Iyi Qur'an) ni umuyoboro ikaba n'umuti (ku bemeramana). Naho ba bandi batayemera, amatwi yabo yarazibye ndetse n'immitima yabo yuzuye umwijima (ntibashaka kuyisobanukirwa).

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكَتِبٌ  
عَزِيزٌ

لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ

مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِرَسُولٍ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ  
رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَدُوْعَاتِ الْيَمِينِ

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ  
إِيمَانُهُ وَإِعْجَمِيًّا وَعَرَبِيًّا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ إِمَّا  
هُدُىٰ وَشَفَاءٌ وَاللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرْ  
وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّا أُولَئِكَ يُنَادِونَ مِنْ مَكَانٍ

بَعِيدٌ

Abo bameze nk'abahamagarirwa ahantu kure."

45. Kandi rwose Musa twamuhyaye igitabo (Tawurati) ariko nticyavugwaho rumwe. N'iyo bitaza kuba ijambo riturutse kwa Nyagasan ryabanje (ryo kudahaniraho), bari guhita bacirwaho iteka (ryo kurimbuka). Mu by'ukuri bo bari mu gushidikanya guteye amakenga.

46. Ukoze igikorwa cyiza aba acyikoreye, ndetse n'ukoze ikibi aba acyikoreye. Kandi Nyagasan wawe ntarenganya abagaragu be."

47. Ubumenyi bw'umunsi w'imperuka bwihariwe na We (**Allah**). Kandi nta mbuto zishobora gusohoka mu bishishwa byazo ngo zimere, ndetse nta n'ikigore cyatwita cyangwa ngo kibyare bitari mu bumenyi bwe. N'umunsi (**Allah**) azabahamagara agira ati "Ibyo mwambangikanyaga na byo biri he?" Bazavuga batii "Ubu turakumenyesha ko nta n'umwe muri twe waba umuhamya (ko ufite uwo mubangikanye)."

48. Nuko ibyo basengaga mbere (ku isi) bizabitarura babibure! Icyo gihe ni bwo bazamenya ko nta buhungiro bafite.

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَبَ فَأَخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا  
كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ  
وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرْبِطُونَ ﴿٤٥﴾

مَنْ عَمِلَ صَلَاحًا فَإِنَّهُ مَوْجَدٌ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَيْنَاهَا  
وَمَا زَرْبَكَ يُظْلَمُ لِلْعَيْدِ ﴿٤٦﴾

\* إِلَيْهِ يُرْدُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَحْجُجُ مِنْ ثَمَرَاتِ مَنْ  
أَكَمَاهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُثْرَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ  
وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شَرَكَاهُ قَالُواْ إِذْنَاكَ مَا

مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ ﴿٤٧﴾

وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُواْ يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُواْ مَا  
لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ ﴿٤٨﴾

49. Umuntu ntajya arambirwa gusaba ibyiza, ariko iyo agezweho n'ikibi, ariheba agacika intege.

50. N'yo tumusogongeje ku mpuhwe ziduturutseho nyuma yo kugerwaho n'ingorane, rwose aravuga ati "Ibi mbibonye kuko mbikwiye, kandi sinkeka ko imperuka izabaho. Kandi nindamuka nsubijwe no kwa Nyagasani wanjye, mu by'ukuri nzagirayo ibyiza kurushaho." Rwose tuzabwira ba bandi bahakanye ibyo bakoze, ndetse tunabumvisha ibihano bikomeye.

51. Kandi iyo duhaye umuntu ingabire, arirengagiza (yanga gushimira Nyagasani we), akitaza akanishyira hejuru, ariko ikibi cyamugeraho agatakamba cyane.

52. Vuga (yewe Muhamadi) uti "Mutekereze nk'ubu iyi (Qur'an) iramutse ituruka kwa Allah hanyuma mukaba muyihakana, (icyo gihe) ni nde waba warayobye kurusha wa wundi uri mu bwigomeke bwa kure?"

لَا يَسْعُمُ الْإِنْسَنُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ  
الشَّرُّ فَيَعُوْسُ قَنُوطٌ

وَلَيْلَيْنَ أَذْفَانَهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّهُ  
لِيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا آتَنَّ الْسَّاعَةَ قَابِيَّةً وَلَيْلَيْنَ  
رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَهُ حُسْنَى فَلَنْدَيْنَ  
الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنْدِيَقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ

غَلَظٌ

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَنِ أَعْرَضَ وَنَعَّا بِحَانِيَّهِ  
وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءِ عَرِيضٍ

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ  
كَفَرْتُمْ بِهِ مِنْ أَصْلِ مِمَّنْ هُوَ فِي شَقَاقٍ

بَعِيدٌ

53. (Vuba aha) tuzabereka ibimenyetso byacu mu isanzure ndetse no muri bo ubwabo, kugeza ubwo bagaragarijwe ko iyi (Qur'an) ari ukuri. Ese ntibihagije kuba Nyagasani wawe ari We muhamya wa buri kintu?

54. Menya ko mu by'ukuri (abahakanyi) bagishidikanya kuzahura na Nyagasani wabo. Menya ko mu by'ukuri (**Allah**) ari We uzi neza buri kintu akanakigiraho ububasha bwose.

سَرِّيْهُمْ ءَايَتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ  
حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوْ مَا يَكْفِي بِرَبِّكَ

۵۳ آنَهُ وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

۵۴ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مَرْيَةٍ مِّنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ وَ  
بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ

#### 42 - SURAT A-SHURAA (KUJYA INAMA)

*Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirongo 53.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya **Allah**, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Haa Miim

حَمٌ

2.A'in Siin Qaaf <sup>200</sup>.

عَسْقٌ

3. Uko ni ko **Allah**, Umunyacyubahiro bihebuje, Nyirubugenge buhambaye,

كَذَلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَىٰ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ  
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

<sup>200</sup> Inyuguti nk'izi twazivuzeho mu masura yatambutse

yaguhishuriye (Qur'an) ari na ko yahishuriye abakubanjirije.

4. Ibiri mu birere n'ibiri mu isi ni ibye. Kandi ni We Uwikirenga, Uhambaye.

5. Ibirere byenda gusandara, bihereye ku kiri hejuru y'ibindi (kubera igitinyiro cya Allah), abamalayika batagatifuza ishimwe rya Nyagasani wabo, bakanasabira imbabazi abari ku isi. Mumenye ko mu by'ukuri Allah ari We Ubabarira ibyaha, Nyirimpuhwe.

6. Na ba bandi bishyiriraho ibigirwamana baretse We, Allah ni We Murinzi wabo, kandi wowe ntabwo ubashinzwe.

7. (Uko twahishuriye Intumwa zakubanjirije, yewe Muhamadi) ni na ko twaguhishuriye Qur'an iri mu rurimi rw'Icyarabu, kugira ngo uburire abatuye Umul Qura (Maka) n'abari mu nkengero zayo, kandi unaburire (abantu ibihano by') umunsi w'ikoraniro udashidikanywaho. Ubwo itsinda rimwe rizaba riri mu ijuru, irindi riri mu muriro ugurumana.

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ أَعْلَىٰ  
الْعَظِيمُ ﴿٤﴾

تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَنْقَطِرُنَّ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ  
يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُسْتَغْفِرُونَ لِمَنِ فِي  
الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥﴾

وَالَّذِينَ أَنْخَذُوا مِنْ دُونِهِ أُولَئِكَ اللَّهُ حَفِظَ  
عَلَيْهِمْ وَمَا أَنَّتَ عَلَيْهِمْ بِوْكِيلٍ ﴿٦﴾

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّةَ الْقُرْبَىٰ  
وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرِيَّوْمًا جَمِيعًا لَارْبَيْ فِيهِ فَرِيقٌ فِي  
الْجَنَّةِ وَفِيْ فِي السَّعِيرِ ﴿٧﴾

8. N'yo Allah aza kubishaka yari kubagira umuryango (umat) umwe (uyoboka idini rimwe), ariko yinjiza mu mpuhwe ze abo ashaka. Kandi abahakanyi ntibazagira umurinzi cyangwa umutabazi.

9. Ese (babangikanyamana) bishyiriraho abarinzi mu cyimbo cye (Allah)? Nyamara Allah ni We Murinzi akaba ari na We uzura abapfuye, ndetse ni na We Ushobora byose.

10. Kandi icyo ari cyo cyose mutavuzeho rumwe, itegeko ryacyo riba riri kwa Allah (mu gitabo cye). Uwo ni Allah, Nyagasani wanjye, ni We niringiye kandi ni na We nicuzaho.

11. Umuhanzi w'ibirere n'isi; wabaremeye abagore ababakomoyemo, ndetse no mu matungo akaremamo ay'igitsina gabu n'igitsina gore; ni muri ubwo buryo mwororokamo. Ntagira icyo asa na cyo, kandi We ni Uwumva cyane, Ubuna bihebuje.

12. Afite imfunguzo z'ibiru mu birere no mu isi. Atuburira amafunguro uwo ashaka akanayatubiriza uwo ashaka. Mu by'ukuri ni Umumenyi wa byose.

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَاهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مِنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا

نَصِيرٌ ﴿١﴾

أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْكِمُ  
الْمُوْقَرَ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢﴾

وَمَا أَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ  
ذَلِكُو اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿٣﴾

فَاطْرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ  
أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَمِ أَزْوَاجًا يَرْبُو  
فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلَهُ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿٤﴾

لَهُ، مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَسْطُطُ الْرِّزْقَ لِمَنْ  
يَشَاءُ وَيَقْدِرُ لِمَنْ وِيْكُلُّ شَيْءٍ عَلَيْهِ ﴿٥﴾

13. Ibyo yabategetse mu idini ni na byo yategetse Nuhu, ndetse n'ibyo twaguhishuriye (yewe Muhamadi), ni na byo twategetse Ibrahimu, Musa na Issa, tuvuga ko mugomba gutunganya idini mwirinda kunyuranya na ryo. Ababangikanyamana baremererwa n'ibyo mubahamagarira (byo kugaragira Imana imwe). Allah yihitiramo uwo ashaka, akanayobora inzira ye uwicuza.

14. Kandi (abayoboke b'Intumwa za mbere) batandukanye nyuma yo kugerwaho n'ubumenyi (Qur'an) bitewe no kugirirana ishyari n'inzangano. N'yo bitaza kuba ijumbo ryaturutse kwa Nyagasani wawe ryabanje ryo (kudahaniraho) kugeza igihe kizwi (imperuka), bari gucirwaho iteka (ryo kurimbuka). Mu by'ukuri ba bandi bahaweho igitabo (Tawurati na Injili) umurage nyuma y'abo (bahakanyi), bagishidikanyaho mu buryo buteye amakenga.

15. Bityo, iryo (dini ry'Ubuyisilamu ry'Intumwa zose) ube ari ryo uhamagarira (abantu), kandi ukomeze utungane nk'uko wabitegetswe, ntuzanakurikire irari ryabo.

\* شَرَعَ لَكُم مِّنَ الْدِينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالرَّأْيُ  
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ  
وَمُوسَى وَعِيسَى أَنَّ أَقِيمُوا الْدِينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا  
فِيهِ كُبُرٌ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ  
يَعْلَمُ إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴿١٢﴾

وَمَا تَنَقَّرُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْدَمَا بَيَّنَهُمْ  
وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى  
لَفِظُنِي بَيَّنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُرْثَوُا الْكِتَابَ مِنْ  
بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٌ ﴿١٣﴾

فِلَذَاتُكَ قَادِرُونَ وَأَسْتَقْمِمُ كَمَا أَمْرَتَ وَلَا  
تَتَبَعَّ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ  
كِتَابٍ وَأَمْرَتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا

Unavuge uti “Nemera ibyo Allah yahishuye mu bitabo (byahawwe Intumwa), kandi nategetswe gukoresha ubutabera muri mwe. Allah ni We Nyagasanii wacu akaba ari na we Nyagasanii wanyu. Dufite ibikorwa byacu namwe mukagira ibyanyu. Nta mpaka zikwiye kuba hagati yacu namwe. Allah azaduhuriza hamwe twese (aducire imanza). Kandi iwe ni ho garukiro (ryacu twese).

16. Na ba bandi bajya impaka ku idini rya Allah nyuma y'uko riyobotswe, impaka zabo nta shingiro zifite kwa Nyagasanii wabo. Bazagerwaho n'uburakari (bwa Allah), kandi bazahanishwa ibihano bikaze.

17. Allah ni We wahishuye igitabo gikubiyemo ukuri n'ubutabera. Ese ni iki cyakubwira ko imperuka itari hafi?

18. Ariko abatayemera bifuza ko yakwihutishwa, naho ba bandi bayemera barayitinya kandi bazi neza ko ari ukuri. Mumenye ko mu by'ukuri abajya impaka ku mperuka bari mu buyobe bwa kure.

وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَدْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لِأَحْجَةٍ  
بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ  
الْمَصِيرُ

وَالَّذِينَ يُحَاجِّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا أَسْتَحِيَّبَ لَهُ  
خُجَّلُهُمْ دَاهِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ  
وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ

اللَّهُ أَلَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا  
يُدِرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ

يَسْتَعِجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ  
ءَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا حَقٌّ أَلَّا  
إِنَّ الَّذِينَ يُمَارِوْنَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ

بَعِيدٌ

19. Allah agenza buhoro abagaragu be, aha amafunguro uwo ashaka kandi ni Umunyembaraga, Nyiricyubahiro bihebuje.

20. Ugamije gushaka ibihembo by'umunsi w'imperuka, tuzamwongererera ibihembo bye, n'ugamije gushaka ibihembo by'isi, tuzamuuhaho ariko ku munsi w'imperuka nta mugabane azagira.

21. Ese (abahakanyi) baba bafite ibigirwamana byabashyiriye ho amategeko mu idini Allah atigeze abahera uburenganzira? N'yo bitaza kuba ijambo ryo kudahaniraho, bari gucirwaho iteka (ryo kurimbuka). Kandi mu by'ukuri abahakanyi bazahanishwa ibihano bibabaza.

22. (Ku munsi w'imperuka) uzabona abahakanyi batewe ubwoba (n'ibihano) by'ibyo bakoze, kandi bigomba kubageraho nta kabuza. Nyamara ba bandi bemeye bakanakora ibikorwa byiza, bazaba bari mu busitani bwo mu ijuru, bahabwa ibyo bashaka kwa Nyagasani wabo. Izo ni zo ngabire z'ikirenga.

اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ  
الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿١٩﴾

مَن كَانَ يُرِيدُ حَرَثَ الْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي  
حَرَثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرَثَ الدُّنْيَا فَأُنْتُهُ مِنْهَا  
وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴿٢٠﴾

أَمْ لَهُمْ شُرٌّ كَوْنُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ  
يَأْذِنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَضْلِ لَقُضِيَ  
بِيَتْهُمْ وَلَمَّا أَظْلَمُمْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢١﴾

تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا  
وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا<sup>٤</sup>  
يَشَاءُونَ وَمَا عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ  
الْكَيْرُ ﴿٢٢﴾

23. Iyo ni yo nkuru nziza **Allah** aha abagaragu be bemeye bakanakora ibikorwa byiza. Vuga (yewe Muhamadi) uti "(Kubagezaho ubutumwa) simbibasabira igihembo (yemwe bantu b'i Maka), usibye gusa urukundo rw'isano (mfitanye namwe). Kandi uzakora icyiza, tuzamutuburira ibihembo byacyo. Mu by'ukuri **Allah** ni Ubabarira ibyaha, Ushima bihebuje (ibikorwa by'abagaragu be)."

24. Bavuga ko (Muhamadi) yahimbiye **Allah** ikinyoma, ariko iyo **Allah** aza kubishaka yari kudanangira umutima wawe (iyo uramuka ubikoze). Kandi **Allah** akuraho ibitari ukuri agashimangiza ukuri amagambo ye. Mu by'ukuri We ni Umumenyi uhebuje w'ibir mu bituza (by'abantu).

25. Ni na We wakira ukwicuza kw'abagaragu be, akanababarira ibibi. Kandi azi neza ibyo mukora.

26. Yakira ubusabe bwa ba bandi bemeye bakanakora ibikorwa byiza, ndetse akanabongerera mu ngabire ze. Kandi abahakanyi bazahanishwa ibihano bikaze.

ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا مَوَدَّةٍ فِي  
الْقُرْبَىٰ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ وَفِيهَا حُسْنًا إِنَّ  
اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ

أَمْ يَقُولُونَ فَتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كِذْبًا فَإِنْ يَشَاءُ اللَّهُ يَخْتِمُ عَلَىٰ  
قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ أَبْطَلَ وَيُحَقُّ الْحَقَّ بِكَلْمَاتِهِ  
إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الْأَصْدُورِ

وَهُوَ الَّذِي يَقْبِلُ أَتْوَاهَهُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوُ عَنِ  
الْسَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

وَيَسْتَحِبِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكُفَّارُ لَهُمْ عَذَابٌ  
شَدِيدٌ

27. N'ijo Allah aza gutuburira amafunguro abagaragu be, bari kwigomeka ku isi, ariko ayabamanurira ku rugero ashaka. Mu by'ukuri azi kandi abona byimazeyo iby'abagaragu be (bakora).

28. Ni na We umanura imvura nyuma y'uko (abantu) biheba, maze agasakaza impuhwe ze. Kandi ni Umurinzi, Ushimwa cyan.

29. No mu bimenyetso bye, ni iremwa ry'ibirere n'isi ndetse n'inyamaswa yakwirakwijemo. Kandi ashoboye kuzabakoranya igihe azashakira.

30. Ikibi cyose kibageraho ni ingaruka z'ibyo mukora ubwanyu. Kandi (Allah) ababarira byinshi.

31. Kandi ntabwo mwananira (Allah) ku isi, ndetse nta n'umurinzi cyangwa umutabazi mufite utari Allah.

32. Na bimwe mu bimenyetso bye ni amato manini ameze nk'imozi agendera mu nyanja.

33. (Allah) aramutse abishatse yahagarika umuyaga, maze (amato) akaguma hamwe (areremba) hejuru yayo. Mu by'ukuri muri ibyo harimo

\*وَلَوْبَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَعَدَوْ فِي الْأَرْضِ

وَلَكِنْ يُذْرِلُ بِقَدَرِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ حَيِّرٌ

بَصِيرٌ ﴿٢٧﴾

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَضَوْا وَنَشَرَ رَحْمَتَهُ وَ

وَهُوَ الْوَلِيُّ الْجَيِّدُ ﴿٢٨﴾

وَمَنْ أَءَيْتَهُ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا

مِنْ دَائِرَةٍ وَهُوَ عَلَىٰ جَمِيعِ هُنَّ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾

وَمَا أَصَبَّكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبْتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْقُوْ

عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾

وَمَا آتَنُّمْ بِمُعْجِزَتِنَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ

الَّهُ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٣١﴾

وَمَنْ أَءَيْتَهُ الْجُوارِ فِي الْبَحْرِ كُلُّ أَعْلَمٍ ﴿٣٢﴾

إِنْ يَسَّأِيْسِكِنَ الْرِّيحَ وَيَظْلِلَنَ رَوَادِكَ عَلَىٰ ظَهِيرَهِ إِنَّ فِي

ذِلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَارٍ شَكُورٍ ﴿٣٣﴾

ibimenyetso kuri buri wese  
wihangana cyane, unashimira.

34. Cyangwa akayoreka kubera  
ibyo (ba nyir'amato) bakoze.  
Kandi (**Allah**) ababarira byinshi.

أَوْ يُوْقَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنِ كَثِيرٍ ﴿٢٤﴾

35. (Ibyo twabikoraga kugira  
ngo) ba bandi bajya impaka ku  
bimenyetso byacu, bamenye ko  
nta buhungiro bazagira.

وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُحَدِّلُونَ فِي أَيَّتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ حَمِيصٍ

﴿٢٥﴾

36. Icyo muhawe cyose kiba ari  
umunezero w'igihe gito mu  
buzima bw'isi, naho ibiri kwa  
**Allah** ni byo byiza kandi  
bizahoraho kuri ba bandi  
bemeye bakaniringira  
Nyagasani wabo.

فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُوا حَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ

خَيْرٌ وَأَبْقِيَ اللَّذِينَ أَمْنَوْا عَلَى رِهْمِيَّتِكُوْنَ ﴿٢٦﴾

37. Na ba bandi birinda ibyaha  
bikomeye n'ibiteye isoni, kandi  
barakara bakabarira.

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا

غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿٢٧﴾

38. Na ba bandi bumvira  
Nyagasani wabo, bagahozaho  
iswala, bakajya inama ku byo  
bakora, ndetse bakanatanga  
mu byo twabahaye.

وَالَّذِينَ أَسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقْمُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ

بَيْنَهُمْ وَمَمَارِزَ قَنْهُمْ يُفِقُونَ ﴿٢٨﴾

39. Ndetse na ba bandi bitabara  
igihe bagiriwe akarengane.

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ أَبْعَجُهُمْ هُمْ يَتَصَرَّفُونَ ﴿٢٩﴾

40. Kandi inyiturano y'ikibi ni  
ikibi nka cyo, ariko ubabariye  
akaniyunga (n'uwanugiriye  
nabi), uwo ibihembo bye biri  
kwa **Allah**. Mu by'ukuri (**Allah**)  
ntakunda abarenganya abandi.

وَجَزَّأُوا سَيِّئَةً سَيِّئَةً مِثْلًا فَمَنْ عَفَّا وَأَصْلَحَ

فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٣٠﴾

41. Naho abazitabara nyuma yo kurenganywa, abo nta nkurikizi zizababaho.

وَلَمْنَ اَنْتَصَرْ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ  
سَيِّلٍ ﴿٤١﴾

42. Ahubwo abo inkurikizi zizababaho ni ba bandi barenganya abantu bakanakora ubwangizi ku isi banyuranyije n'ukuri, abo bazahanishwa ibihano bibabaza.

إِنَّمَا السَّيِّلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ أُنْتَاسَ وَيَجْعَلُونَ فِي  
الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾

43. Kandi uzihangana akanabarira, mu by'ukuri ibyo biri mu butwari bukomeye.

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿٤٣﴾

44. N'uwo Allah arekeye mu buyobe, nta wundi utari We (Allah) wamutabara (ngo amuyobore). Kandi (wowe Muhamadi) uzabona inkozi z'ibibi ubwo zizaba zibonye ibihano zikavuga ziti “Ese hari uburyo twasubira ku isi?”

وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى  
الْظَّالِمِينَ لَمَّا رَأُوا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرِدٍّ مِنْ  
سَيِّلٍ ﴿٤٤﴾

45. Kandi uzababona bajyanywe mu muriro, baciye bugufi basuzuguritse, batera ijisho (ku muriro). Maze ba bandi bemeye bavuge batı “Rwose abanyagihombo nyabo ku munsi w'imperuka, ni abivukije (kujya mu ijuru) bakanabivutsa imiryango yabo.” Mumenye ko rwose inkozi z'ibibi zizahanishwa ibihano bihoraho.

وَتَرَهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا حَسِيعَيْنَ مِنَ الْذُلُّ  
يَنْظُرُونَ مِنْ طَرِفٍ حَنْفَتِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ إِمَّا نَوْا  
إِنَّ الْخَسِيرَنَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَاهْلِيهِمْ  
يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِلَّا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ ﴿٤٥﴾

46. Kandi ntibazagira inshuti zitari **Allah** zizabarinda (ibihano), ndetse n'uwo **Allah** arekeye mu buyobe nta buryo yabuvamo.

47. Nimwumvire Nyagasan wanyu mbere y'uko mugerwaho n'umunsi udasubizwa inyuma wagenwe na **Allah**. Kuri uwo munsi nta buhungiro muzagira ndetse nta n'ubwo muzashobora guhakana (ibyaha mwakoze).

48. Ariko nibaramuka birengagije (kumvira **Allah**), umenye ko (yewe Muhamadi) tutakohereje kuba umugenzuzi (w'ibikorwa byabo); ahubwo icyo ushinzwe ni ugusohoza ubutumwa. Kandi mu by'ukuri iyo dusogongeje umuntu ku byiza biduturutseho, arabyishimira; ariko bagerwaho n'ikibi kubera ibyo bakoze (bagahita bibanda ku bibi byabagezeho). Mu by'ukuri umuntu ni indashima.

49. Ubwami bw'ibirere n'ubw'isi ni ubwa **Allah**. Arema ibyo ashaka. Aha uwo ashaka impano yo kubyara abakobwa, ndetseakanaha uwo ashaka impano yo kubyara abahungu,

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلَيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ  
اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ﴿٤٧﴾

أَسْتَجِيبُ لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَمَرْدَلَهُ  
مِنْ أَنْ أَنْتَ مَالَكُمْ مِنْ مَلَجَأٍ يَوْمَ إِذَا  
مِنْ نَّكِيرٍ ﴿٤٨﴾

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ  
عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلْغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَنَ مِنَ  
رَحْمَةَ فِي حَرَجٍ بِهَا وَإِنْ تُصْبِهُمْ سَيِّئَاتُ  
بِمَا قَدَّمْتَ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَنَ كَفُورٌ ﴿٤٩﴾

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ هُوَ خَلَقُ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ  
لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّهُ يَهْبِطُ لِمَنْ يَشَاءُ الْذُكُورَ ﴿٥٠﴾

50. Cyangwa akabagenera kubyara abahungu n'abakobwa, ndetse uwo ashaka akamwima urubyaro (akamugira ingumba). Mu by'ukuri (**Allah**) ni Umumenyi uhebuje, Ushobora byose.

51. Ntibibaho ko **Allah** yavugisha umuntu bitanyuze mu guhishurirwa, cyangwa (kumva ijwi rimuvugisha) riturutse inyuma y'urusika, cyangwa (**Allah**) akamwoherereza Intumwa ikamuhishurira ibyo (**Allah**) ashaka. Mu by'ukuri (**Allah**) ni Uwikirenga, Nyirubugenge buhambaye.

52. (Nk'uko twahishuriye Intumwa zakubanjirije, yewe Muhamadi) ni na ko twaguhishuriye Qur'an ku bw'itegeko ryacu. Mbere yo guhishurirwa ntabwo wari uzi igitabo (Qur'an), ndetse nta n'ubwo wari usobanukiwe ukwemera. Ariko (Qur'an) twayigize urumuri tuyoboresha abo dushaka mu bagaragu bacu. Mu by'ukuri wowe uyobora (abantu) inzira igororotse;

53. Inzira ya **Allah**, We mugenga w'ibiru mu birere n'ibiru ku isi. Mumenye ko kwa **Allah** ari ho ibintu byose bizasubira.

أَوْ يُرِّجُهُمْ ذُكْرَنَا وَإِنَّا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ

عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾

\*وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمُهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ

وَرَأَى حِجَابٍ أَوْ يُرِّجِلَ رَسُولًا فَيُؤْخَذَ بِإِذْنِهِ مَا

يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴿٥١﴾

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا

الْكِتَبُ وَلَا أَلِيمَنُ وَلَكِنْ جَعَلْنَا فُرَانَهُدِيَ بِهِ

مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهَدَى إِلَى صَرَاطٍ

مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾

صَرَاطٌ اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي

الْأَرْضِ لَأَلَّا إِلَيْهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴿٥٣﴾

43 - SURAT ZUKH'RUF  
(IMITAKO)

*Yahishuriwe i Maka, igizwe n 'imirongo 89.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Haa Miim<sup>201</sup>.

١ حم

2. Ndahiye igitabo gisobanutse.

وَالْكِتَابُ الْمُبِينٌ ①

3. Mu by'ukuri (icyo gitabo) twakigize Qur'an iri mu rurimi rw'Icyarabu kugira ngo mubashe gusobanukirwa.

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ②

4. Kandi mu by'ukuri iyo (Qur'an) iri Iwacu mu gitabo gihatse ibindi byose<sup>202</sup>, rwose irahambaye kandi yuje ubuhanga.

وَإِنَّهُوَ فِي أُمُّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا الْعِلْمُ حَكِيمٌ ③

٣

5. None se duterere iyo, tureke guhishura urwibutso (Qur'an), kubera ko muri abantu barengera (b'inikozi z'ibibi banze kurwemera)?

أَفَضَرَبْتُ عَنْكُمُ الْذِكْرَ صَفَحَانَ كُنْثُمْ ④

قَوْمًا مُسْرِفِينَ ⑤

6. Ese ni abahanuzi bangahe twohereje mu babayeho mbere yawe (yewe Muhamadi)?

وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ ⑥

<sup>201</sup> Inyuguti nk'izi twazivuze mu bice (amasura) yatambutse.

<sup>202</sup> Igitabo gihatse ibindi kivugwa muri uyu murongo ni urubaho rurinzwe rwanditsweho igeno ry'ibizaba kuzageza ku munsi w'imperuka (Lawuh ul Mah'fudhi).

7. Nta muhanuzi n'umwe wabageragaho ngo babure kumunnyega.

وَمَا يَأْتِيهِم مِّنْ بَيْنِ أَلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهِزُونَ ٧

8. Nuko turimbura abari abanyembaraga kubarusha (abahakanyi b'i Maka), kandi urugero rw'abo tworetse mbere rwaratambutse.

فَأَهْلَكَنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثْلُ

الْأَوَّلِينَ ٨

9. Kandi iyo ubabajije uti “Ni nde waremye ibirere n'isi?” Rwose baravuga batii “Byaremwe n'Umunyacyubahiro bihebuje, Umumenyi uhebuje (**Allah**).”

وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

لَيَقُولُنَّ خَلَقْهُنَّ أَعْرِيزُ الْعَلِيمُ ٩

10. We wabashyiriye ho isi ishashe, akanabashyiriraho amayira kugira ngo muyanyuremo mugere ku nt ego zanyu.

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ

لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٠

11. Ni na We wamanuye amazi mu kirere ku gipimo kiri mu rugero, nuko tuyahesha ubuzima ubutaka bwakakaye. Ndetse uko ni ko muzazurwa.

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا يُقْدَرُ فَإِنْ شَرِنَّاهُ

بِلَادَةً مَيْتَاتَكَذَالِكَ تُخْرِجُونَ ١١

12. Ni na We waremye amoko abiri abiri y'ibiremwa bitandukanye mu bintu byose. Yanabashyiriye ho (mwebwe abantu) amato namatungo mugendaho,

وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ

الْفَلَكِ وَالْأَنْعَمِ مَا تَرَكُونَ ١٢

13. Kugira ngo tuyicare ku migongo neza, maze muzirikane inema za Nyagasan wanyu mumaze kuyicaraho neza nuko muvuge muti “Ubutagatifu ni ubwa Allah, We watworoherewe ibi; kandi ntitwari kubyishoborera.

14. Kandi kwa Nyagasan wacu ni ho tuzasubira.”

15. (Ababangikanyamana) bafashe bamwe mu bagaragu ba Allah (abamalayika) barabamwitirira (babita abakobwa be). Mu by'ukuri umuntu ni indashima ku buryo bugaragara.

16. Ahubwo se (Allah) yakwigenera abakobwa mu biremwa bye<sup>203</sup>, maze mwe akabaha umwihiariko w'abahungu?

17. Kandi iyo umwe muri bo ahawe inkuru y'ibyo yitiriye Allah Nyirimpuhwe (yo kubyara umukobwa), uburanga bwe burijima akarakara.

18. Ese ukurira mu mitako, nyamara akaba atabasha kujya impaka mu bikomeye (ni we bitirira Allah)?

لَتَسْتَوُا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذَكُّرٌ وَأَيْمَمَةٌ رَّبِّكُمْ إِذَا  
أَسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَنَا  
هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿١٣﴾

وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا الْمُنْقَلِبُونَ ﴿١٤﴾

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَنَ  
لَكَ فُورٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾

إِنَّمَا أَخْذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَدُكُمْ بِالْبَيْنَ

﴿١٦﴾

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِرَحْمَنِ مَثَلًا  
ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿١٧﴾

أَوَمَنْ يُنَشَّئُ فِي الْحَلْيَةِ وَهُوَ فِي الْحَصَامِ غَيْرُ  
مُبِينٌ ﴿١٨﴾

<sup>203</sup> Muri uyu murongo Allah aranenga imyumbire idahwitse yari ifitwe n'ababangikanyamana b'i Maka batishimiraga kubyara abakobwa nyamara bakabitirira Allah.

19. Kandi bafashe abamalayika babita igitsinagore nyamara ari abagaragu ba Allah Nyirimpuhwe. Ese mu iremwa ryabo bari bahari? Ubuhamya bwabo (bw'ikinyoma) buzandikwa kandi bazabibazwa.

20. Baranavuze bati “Iyo Allah Nyirimpuhwe aza kubishaka ntitwari kugaragira ibigirwamana.” Ibyo bavuga nta bumenyi babifitiye, ahubwo ni ugushakisha gusa no kubeshya.

21. Ese twaba twarabahaye igitabo mbere yayo (Qur'an) bakaba ari cyo bihambiraho (bashingiraho ibyo bavuga)?

22. Ahubwo baravuga bati “Mu by'ukuri twasanze abakurambere bacu ari yo nzira barimo, bityo natwe turabakurikira.”

23. Uko ni na ko byagenze mbere; nta muhanuzi n'umwe twohereje mu mudugudu mbere yawe (wowe Muhamadi), ngo ibikomerezwa byawo bibure kuvuga biti “Mu by'ukuri twasanze abakurambere bacu ari yo nzira barimo (yo kugaragira ibigirwamana), bityo natwe turabigana.”

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ إِنَّا  
أَشَهَدُ لِأَخْلَقِهِمْ سَتُّكُبْ شَهَدَ نَهْمَ وَيُسْكُنَ

١٩

وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدَهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ  
مِنْ عِلْمٍ إِنَّهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٢٠﴾

أَمْ ءَاتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ يَدْعُونَ  
مُسْتَمِسِكُونَ ﴿٢١﴾

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آءَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا  
عَلَىٰهُمْ مُهَتَّدُونَ ﴿٢٢﴾

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرَيْبَةٍ مِنْ ذَنِيرٍ إِلَّا  
قَالَ مُؤْرِفُهَا إِنَّا وَجَدْنَا آءَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ  
هُمْ مُفْتَدُونَ ﴿٢٣﴾

24. (Uwo muhanuzi) akababwira ati “Ese n’iyo naba mbazaniye inzira iruta iyo mwasanganye abakurambere banyu (mwampakana)?” Baravuga batì “Mu by’ukuri ibyo mutuzaniye turabihakanye.”

25. Nuko tubihimuraho (turabibahanira). Ngaho nimurebe uko iherezò ry’abahinyuye ukuri ryagenze.

26. Kandi wibuke ubwo Ibrahimu yabwiraga se ndetse n’abantu be ati “Mu by’ukuri njye nitandukanyije n’ibyo musenga.”

27. “Usibye uwampanze (ni We nzasenga wenyine), kuko ari We uzanyobora.”

28. Maze iryo jambo (ryo kugaragira Allah wenyine) Ibrahimu ariraga abazamukomokaho, kugira ngo bagarukire (Allah).

29. Arikò abo (babangikanyamana) n’ababyeyi babo twabahaye umunezero w’igihe gito kugeza ubwo bagezweho n’ukuri ndetse n’Intumwa ibasobanurira.

\* قَلْ أَوْلَوْ حِشْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ  
أَبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا يَمَا أَرْسَلْتُمْ بِهِ كَفَرُونَ ﴿٢٤﴾

فَأَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كِيفَ كَانَ عَاقِبَةُ  
الْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٥﴾

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَيْهِ وَقَوْمَهُ إِنِّي بَرَآءٌ مِّمَّا  
تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾

إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ وَسَيَهْدِي

وَجَعَلَهَا كَلْمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٧﴾

٢٨

بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَإِبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحُكْمُ  
وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿٢٩﴾

30. Nuko bamaze kugerwaho n'ukuri baravuze bati "Ubu ni uburozi kandi turabuhakanye."

وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَفِرُونَ ﴿٣﴾

31. Baranavuze bati "Iyo iyi Qur'an (iba ari ukuri), iba yarahishuriwe umugabo w'igikomerezwa ukomoka muri umwe mu mijyi ibiri (Maka na Twaifu)."

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرِيَّتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿٢١﴾

32. Ese ni bo bagaba impuhwe (ubutumwa) za Nyagasanai wawe (aho bihitiyemo)? Ahubwo ni twe twabagabiye imibereho yabo mu buzima bw'iyi si. Tunazamura mu ntera bamwe muri bo tukabarutisha abandi kugira ngo bamwe bakenere abandi. Kandi impuhwe za Nyagasanai wawe ni zo nziza kuruta ibyo bakusanya (byo mu mibereho y'isi).

أَهُمْ يَقِسِّمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ مَنْ حَنَّ فَسَمِّنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِتَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

33. Kandi n'yo abantu baza kuba umuryango umwe (w'abahakanyi), twari guha abahakana Allah Nyirimpuhwe, inzu zifite ibisenge bya feza n'ingazi buririraho,

وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَجَعَلْنَا لَمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبِيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿٣٣﴾

34. N'amazu yabo tukayaha inzugi n'intebe zegamirwaho (byose bya Feza),

وَلِبِيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُّرًا عَلَيْهَا يَتَكَبُّرُونَ ﴿٣٤﴾

35. Ndetse n'imitako (ya Zahabu). Nyamara ibyo byose ni umunezero w'igihe gito cy'ubuzima bwo kuri iyi si.

وَزُخْرُفًا وَلَن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٥﴾

Kandi ubuzima bwo ku munsi  
w'imperuka kwa Nyagasani  
wawe ni ubw'abagandukira  
**Allah.**

36. Kandi uzirengagiza  
urwibutso rwa **Allah**  
Nyirimpuhwe, tuzamugira  
ingaruzwamuheto ya Shitani,  
maze imubere inshuti magara.

37. Mu by'ukuri (shitani)  
zibakumira kugana inzira  
igororotse, bakanibwira ko ari  
bo bayobotse,

38. Kugeza ubwo (uwirengagije  
urwibutso) azatugeraho  
(akerekwa iherezo rye ribi), maze  
avuge (abwira shitani  
yamuyobeje) ati “Iyo hagati  
yanje nawe haza kuba hari  
intera ingana nk'iri hagati  
y'uburasirazuba  
n'uburengerazuba (simbe  
narakugize inshuti). Mbega  
ukuntu wambereye inshuti  
mbi!”

39. Maze (babwirwe bati) “Ubwo  
mwakoze ibibi, nta cyo  
gusangira kwanyu ibihano uyu  
munsi biri bugire icyo  
bibamarira.”

40. Ese wowe ushobora  
kumvisha igipfamatwi cyangwa  
ukayobora impumyi ndetse n'uri  
mu buyobe bugaragara?

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُفَيَّضُ لَهُ وَشَيْلَنَا  
فَهُوَ لَهُ وَقَرِينٌ ۝

وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ  
مُهْتَدُونَ ۝

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَدَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ  
الْمَشْرِقِينَ فِيْئَسَ الْقَرِينُ ۝

وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذَا طَلَّتُمُ أَنَّكُمْ فِي  
الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوكُمْ ۝

أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمَىٰ وَمَنْ كَانَ فِي  
ضَلَالٍ مُّبِينٌ ۝

41. N'ubwo twakujyana (yewe Muhamadi, ugapfa mbere y'uko ubona ibihano tuzabahanisha), mu by'ukuri tuzabaryoza (ibyo bakoze),

فَإِمَّا نَذَّهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ﴿٤١﴾

42. Cyangwa tukakwerekwa ibyo (ibihano) twabasezeranyije. Mu by'ukuri twe tubafiteho ubushobozi.

أَوْرِينَكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقتَدِرُونَ ﴿٤٢﴾

٤٢

43. Bityo (yewe Muhamadi), komeza ushikame ku byo wahishuriwe. Mu by'ukuri uri mu nzira igororotse.

فَاسْتَمِسْكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ

مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٣﴾

44. Mu by'ukuri (iyi Qur'an) ni urwibutso kuri wowe no ku bantu bawe kandi muzayibazwa.

وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُتَشَّعُونَ ﴿٤٤﴾

وَسَعَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَنَا

مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهَةَ يُبَدِّدُونَ ﴿٤٥﴾

45. Kandi unabaze mu bo twohereje mbere yawe mu ntumwa zacu, niba twaba twarashyizeho ibigirwamana bisengwa mu cyimbo cya (Allah) Nyirimpuhwe.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِرَبِّيَتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِائِيْهِ

فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٦﴾

46. Kandi rwose twahaye Musa ibitangaza byacu tumwohereza kwa Farawo n'ibyegera bye (kugira ngo abahamagarire kuyoboka inzira igororotse). Nuko (Musa) aravuga ati "Mu by'ukuri njye ndi Intumwa ya Nyagasani w'ibiremwa byose."

47. Ariko ubwo yabageragaho azanye ibitangaza byacu, barabisetse barabinnyega.

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِمَا يَنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿٤٧﴾

48. Kandi buri gitangaza twaberekaga (Farawo n'abantu be) cyabaga kiruta kigenzi cyacyo cyakibanjirije (mu kugaragaza ukuri kwa Musa, ariko byose barabihakanye), maze tubahanisha ibihano bihambaye kugira ngo bagarukire Allah.

وَمَا نُرِيهُمْ مِنْ إِلَيْهِ أَكْبَرُ مِنْ أَخْتَهَا  
وَأَخْذَنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرَجِعُونَ ﴿٤٨﴾

49. Nuko babwira (Musa) bat "Yewe wa murozi we! Dusabire Nyagasani wawe ku bw'isezerano yaguhaye. Mu by'ukuri (naramuka adukijije ibihano) rwose turayoboka."

وَقَالُوا يَا أَيُّهُ الْسَّاحِرُ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَاهَدَ  
عِنْدَكَ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ ﴿٤٩﴾

50. Maze tubakijije ibihano, bica isezerano.

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ

51. Nuko Farawo atangariza abantu be aranguruye ijwi agira ati "Yemwe bantu banjye! Ese si njye ufite ubwami bwa Misiri n'iyi migezi itemba munsi (y'ingoro) yanjye? Ese ntimubona?"

وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَقُولُ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ  
مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَرُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا  
تُبَصِّرُونَ ﴿٥١﴾

52. "Ahubwo se si njye muntu mwiza kuruta uyu (Musa) usuzuguritse, ugorwa no kwisobanura?"

أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ  
يُبَيِّنُ ﴿٥٢﴾

53. Kuki atamanuriwe ibikomo bya zahabu, cyangwa ngo aze aherekewje n'abamalayika (bo kumushyigikira)?

فَلَوْلَا أَلِقَى عَلَيْهِ أَسْوَرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَهُ مَعْهُ  
الْمُلَكَيْكَةُ مُقْتَرِنَاتٍ ﴿٥٣﴾

54. Nuko (Farawo) agira abantu be ibicucu (arabazindaza) maze baramwumvira. Mu by'ukuri bari abantu b'inkozi z'ibibi.

فَأَسْتَخَفَ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا  
قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٥٤﴾

55. Nuko bamaze kuturakaza twarihoreye, maze tubaroha (mu mazi) bose.

فَلَمَّا آتَاهُمْ سُفُونَا أَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ  
أَجْمَعِينَ ﴿٥٥﴾

56. Nuko tubagira icyitegererezo n'iciro ry'umugani (ngo babe isomo) ku bazaza nyuma.

فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخَرِينَ ﴿٥٦﴾

57. Kandi ubwo hatangwaga urugero kuri mwene Mariyamu (Issa)<sup>204</sup>, icyo gihe abantu bawe (ababangikanyamana b'i Maka, yewe Muhamadi) bararwishimiye cyane (barukwena.)

\* وَلَمَّا ضُرِبَ أَبْنُ مَرِيمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ  
يَصُدُّونَ ﴿٥٧﴾

58. Maze baravuga batì “Ese imana zacu ni zo z'ukuri cyangwa we (Yesu ni we w'ukuri)?” Urwo rugero baguhaye byari ukukugisha impaka gusa. Ahubwo ni abantu

وَقَالُوا أَلَهُتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَاضِرُؤُهُ لَكَ إِلَّا  
جَدَلَّابُلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿٥٨﴾

<sup>204</sup> Urugero ruvugwa aha ni igihe uyu murongo wahishurwaga ugira uti: “Mu by'ukuri mwe (abahakanyi) hamwe n'ibyo mugaragira bitari Allah, muzaba ibicanwa by'umuriro wa Jahanamu; kandi mwese muzawinjiramo.” Surat Al Anbiya-u: 98. Uyu murongo wahishuwe usubiza amagambo Ibun Zibaara yavuze agira ati “Niba amagambo Muhamadi avuga y'uko twe n'ibyo tugarafigra tuzajya mu muriro, ubwo n'abamalayika bazawujyamo kuko na bo tubasenga, na Uzayiru awujyemo kuko Abayahudi bamusenga, ndetse na Yesu awujyemo kuko Abanaswara bamusenga.”

bakunda kujya impaka no guhakana.

59. (Yesu) nta kindi yari cyo usibye ko yari umugaragu wacu twahaye ingabire (y'ubutumwa), kandi tumugira igitangaza kuri bene Isiraheli.

60. Iyo tuza kubishaka (yemwe bantu) twari kubakuramo abamalayika bagasimburana ku isi.

61. Mu by'ukuri (kugaruka kwa Issa) ni ikimenyetso cy'imperuka. Bityo, ntimukagishidikanyeho ahubwo nimunkurikire. Iyo ni yo nzira itunganye.

62. Kandi rwose Shitani ntikabakumire (kugana iyo nzira), kuko mu by'ukuri ari umwanzi wanyu ugaragara.

63. Maze ubwo Issa yabazaniraga (bene Isiraheli) ibitangaza, akababwira ati "Rwose mbazaniye ubutumwa ndetse no kugira ngo mbasobanurile bimwe mu byo mutavugaho rumwe. Ngaho nimugandukire **Allah** kandi munyumvire."

64. Mu by'ukuri **Allah** ni We Nyagasani wanjye akaba ari na We Nyagasani wanyu, ngaho

إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَعْمَنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا

لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٦٩﴾

وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَنَا مِنْكُمْ مَلَكِكَةً فِي الْأَرْضِ

يَخْلُقُونَ ﴿٦٠﴾

وَإِنَّهُ لَعَلَّهُ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَ بِهَا وَاتَّبِعُونَ

هَذَا صَرْطُ مُسْتَقِيمٍ ﴿٦١﴾

وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٢﴾

وَلَمَّا جَاءَهُ عِيسَى بِالْبِينَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ  
بِالْحِكْمَةِ وَلَا يُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَخْتَفِفُونَ فِيهِ

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِي ﴿٦٣﴾

إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُهُ هَذَا صَرْطُ

مُسْتَقِيمٍ ﴿٦٤﴾

nimumugaragire. Iyi ni yo nzira itunganye.

65. Nuko amatsinda (mu bahawe igitabo) ntiyavuga rumwe (ku nkuru ya Issa). Bityo ibihano bikaze ku munsi ubabaza (imperuka) bizaba ku nkozi z'ibibi (zihimbira Yesu ibinyoma).

66. Ese hari ikindi bategereje kitari ukugerwaho n'imperuka ibatunguye batabizi?

67. Kuri uwo munsi abari inshuti magara bazaba abanzi, usibye gusa abagandukira (**Allah**),

68. (Bazabwirwa batii) “Bagaragu banje! Uyu munsi ntimugire ubwoba ndetse n'agahinda.”

69. Ba bandi bemeye amagambo yacu kandi bakicisha bugufi (bakaba Abayisilamu),

70. (Bazabwirwa batii) “Nimwinjire mu Ijuru, mwe n'abafasha banyu munezerewe.”

71. Bazazengurutswamo amasahane n'ibikombe bya zahabu (birimo ibiribwa n'ibinyobwa byiza), kandi muri ryo (Ijuru) bazabonamo ibishimishije kandi biryoheye

فَلَا خَتَّافَ الْأَخْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ وَقَبِيلٌ لِلَّذِينَ  
ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ الْآيَمِ

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَلْسَاعَةً أَنْ تَأْتِيهِمْ بَعْنَةً  
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

الْأَخْلَاءَ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِيَعْصِي عَدُوًّا إِلَّا  
الْمُتَّقِينَ

يَعْبَادُ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْرُبُونَ

الَّذِينَ ءَامَنُوا بِعِيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ

أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُخْبَرُونَ

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصَحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكَابِرٍ  
وَفِيهَا مَا شَتَّاهِيهُ الْأَنْفُسُ وَتَلَدُّ الْأَعْيُنُ  
وَأَنْتُمْ فِيهَا خَلِيلُونَ

amaso, muzanaribamo  
ubuziraherezo.

72. (Babwirwe bati) “Ngiryo Ijuru murazwe kubera ibyo mwakoraga.”

73. Muzahabwamo imbuto nyinshi muzajya murya.

74. Mu by’ukuri inkozi z’ibibi zizaba mu muriro wa Jahanama ubuziraherezo,

75. Ntibazigera boroherezwa (ibihano by’umuriro), kandi bazawubamo bihebye.

76. Nta n’ubwo twigeze tubarenganya, ahubwo ni bo bari inkozi z’ibibi.

77. Kandi (inkozi z’ibibi) zizatakamba zigira ziti “Yewe Maliki (Umumalayika urinda umuriro)! (Tubwirire) Nyagasani wawe atwice burundu!” Azavuga ati “Mu by’ukuri muzabamo ubuziraherezo.”

78. Rwose twabazaniye ukuri ariko abenshi muri mwe barakwanze.

79. Cyangwa banogeje umugambi mubisha (wo kugirira nabi Intumwa Muhamadi)? Mu by’ukuri ni twe twemeza ikigomba gukorwa.

وَتَلَكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُرِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٣﴾

لَكُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٤﴾

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿٧٥﴾

لَا يُفَرَّغُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٦﴾

وَمَا أَظَمَّنْتُهُمْ وَلَكِنَّ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴿٧٧﴾

وَنَادَوْا يَمَالِكَ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَلَكُونَ ﴿٧٨﴾

لَقَدْ جِئْتُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَاهُونَ ﴿٧٩﴾

أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا إِنَّا مُبِرِّمُونَ ﴿٨٠﴾

80. Cyangwa bakeka ko tutumva amabanga yabo ndetse n'ibyo bongorerana? Yego (turabyumva rwose)! Kandi n'Intumwa zacu (abamalayika) ziba ziri hafi yabo zandika.

أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلْ  
وَرَسُولُنَا الَّذِي هُمْ يَكْتُبُونَ ﴿٨٠﴾

81. Vuga uti “Niba (**Allah**) Nyirimbabazi yaragize umwana (nk'uko mubivuga), njye nari kuba uwa mbere mu bamugaragira.”

قُلْ إِنَّ كَانَ لِرَبِّ الْحَمْدِ وَلَدٌ فَإِنَّا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ ﴿٨١﴾

82. Ubutagatifu ni ubwa Nyagasani w'ibirere n'isi, Nyagasani nyiri Ar'shi<sup>205</sup>! Nta ho ahuriye n'ibyo bamwitirira.

سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ  
عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٨٢﴾

83. Bareke bavuge ibidafite umumaro, banikinire kugeza ubwo bazahura n'umunsi wabo basezeranyijwe.

فَذَرْهُمْ يَخْوُصُوا وَلَا يَعْبُوا حَتَّىٰ يُلَقُوا يَوْمًا مِّنْهُمْ أَلَّا يَرَوْنَ  
يُؤْعَدُونَ ﴿٨٣﴾

84. Ni We (**Allah**) Mana yonyine mu kirere, ndetse ni na We Mana yonyine ku isi. Kandi ni na We Nyirubugenge buhambaye, Umumenyi uhebuje.

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ  
الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٨٤﴾

85. Ubutagatifu ni ubw'ufite ubwami bw'ibirere n'isi ndetse n'ibiri hagati yabyo. Ni na We uzi iby'imperuka, kandi ni na We muzagarurwaho.

وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا  
بِيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٥﴾

<sup>205</sup> Reba uko twasobanuye iri jambo muri Suratul A'raf, Aya ya 54.

86. Naho ibyo basenga bitari We, nta bushobozi bifite bwo kubakorera ubuvugizi, usibye ba bandi bahamije ukuri kandi babizi (ni bo bazakorerwa ubuvugizi).

87. Kandi uramutse ubabajije uwabaremye, rwose bavuga bat “Ni **Allah**.” None se ni gute bateshwa (kugaragira **Allah** wabaremye, bakajya gusenga ibigirwamana)?

88. (Kandi **Allah** azi) imvugo ye (Muhamadi) igira iti “Nyagasani wanje! Mu by’ukuri aba bantu ntibemera!”

89. Bityo, bababarire unavuge uti “mugire amahoro (Salamu)!” Rwose bidatinze bazaba bamenya (iherezo ry’ubuhakanyi bwabo).

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ  
أَلْشَفَعَةَ إِلَّا مَنْ شَهَدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ حَلَقَهُمْ يَقُولُنَّ اللَّهُ فَإِنَّهُ  
يُوْفَكُونَ

وَقَيْلَهُ يَرَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ

فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

44 - SURAT A-DUKHANU  
(UMWOTSI)

*Yahishuriwe i Maka, igizwe n 'imirongo 59.*

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

Ku izina rya **Allah**, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi

1. Haa Miim<sup>206</sup>.

١ حم

2. Ndahiye igitabo (Qur'an)  
gisobanutse.

وَالْكِتَابُ الْمُبِينُ

3. Mu by'ukuri twakimanuye  
mu ijoro ryuje imigisha (Laylat-  
ul Qadri). Rwose turi ababurizi  
(b'uko ibihano bizashyikira  
abahakanyi).

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَرَّكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ

٢

4. Muri iryo (joro) ni bwo buri  
kintu (kizaba mu mwaka)  
kigenanwa ubuhanga  
(amafunguro, igihe cy'amavuko,  
igihe cyo gupfa, amakuba...).

فِيهَا يُفَرَّقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٌ

أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ

رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

٣

5. Ni iteka riduturutseho. Mu  
by'ukuri ni twe twohereza  
(Intumwa),

6. Ku bw'impuhwe ziturutse kwa  
Nyagasanji wawe. Mu by'ukuri  
(**Allah**) ni Uwumva bihebuje,  
Umumenyi uhebuje.

<sup>206</sup> Inyuguti nk'izi twazivuzeho mu bice (amasura) byatambutse.

7. Nyagasan i w'ibirere n'isi ndetse n'ibiri hagati yabyo; niba muri abizera b'ukuri (nimube ari We musenga wenyine).

رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُّوقِنِينَ ﴿٧﴾

8. Nta yindi mana iriho itari We (**Allah**). Ni we utanga ubuzima n'urupfu. Ni Nyagasan i wanyu akaba ari na We Nyagasan i w'abakurambere banyu.

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْكِمُ وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ إِبْرَاهِيمَ الْأَوَّلِينَ ﴿٨﴾

9. Nyamara bo bari mu gushidikanya bikinira.

بَلْ هُمْ فِي شَكٍ يَلْعَبُونَ ﴿٩﴾

10. Ngaho tegereza umunsi ikirere kizazana umwotsi ugaragara,

فَإِنَّمَا تَقَبَّلُ مِنْ أَهْلِنَا يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٠﴾

11. Uzapfukirana abantu. Icyo ni igihano kibabaza.

يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابُ الْيَمِّ ﴿١١﴾

12. (Bazavuga bat) “Nyagasan i wacu! Dukize ibihano! Mu by'ukuri turi abemeramana!”

رَبَّنَا أَكَشَّ شَفْعَنَا عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾

13. Ni gute bakwibuka kwemera (ubu), kandi bari baragezweho n'Intumwa (Muhamadi) ibasobanurira?

أَنَّ لَهُمُ الْذِكْرَ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾

14. Maze bakayitera umugongo, bakavuga bat “Uyu ni umuntu wigishijwe (n'abandi) kandi ni umusazi.”

ثُمَّ تَوَأَّمُ عَنْهُ وَقَالُوا مُعَمَّرٌ مَّجْنُونٌ ﴿١٤﴾

15. Rwose turabakuriraho ibihano mu gihe gito, kandi nta kabuza muzongera musubire (mu buhakanyi).

إِنَّا كَآكِشُونَا عَذَابًا قِيلًا إِنَّكُمْ عَادِدُونَ ﴿١٥﴾

16. Umunsi tuzabahanisha igihano gikomeye, mu by'ukuri tuzabaryoza (ibyo bakoze).

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ﴿١٦﴾

17. Kandi mbere yabo (ababangikanyamana) twagerageje abantu ba Farawo, ubwo Intumwa yubahitse (Musa) yabageragaho,

\* وَلَقَدْ فَتَنَاهُمْ قَوْمٌ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ

كَرِيمٌ ﴿١٧﴾

18. (Irababwira iti) “Nimumpe abagaragu ba Allah (mbajyane). Mu by'ukuri njye ndi Intumwa yizewe iboherejwemo.”

أَنْ أَدْوَا إِلَيْ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ

أَمِينٌ ﴿١٨﴾

19. “Ntimukanishiyire hejuru imbere ya Allah. Rwose mbazaniye ibimenyetso bigaragara.”

وَأَنَّ لَا تَعْلُوْ عَلَى اللَّهِ إِنِّي أَتَيْكُمْ سُلْطَنٍ مُّبِينٍ ﴿١٩﴾

20. “Kandi nikinze kuri Nyagasani wanje ari na We Nyagasani wanyu, kugira ngo mutantera amabuye.”

وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ﴿٢٠﴾

21. “Ariko nimutananyemera mundeke (ntimungirire nabi).”

وَإِنْ لَّمْ نُؤْمِنُ أَلِيْ فَأَعْزِلُونَ ﴿٢١﴾

22. (Nuko bashaka kumugirira nabi) maze atakambira Nyagasani we agira ati “Mu by'ukuri aba bantu ni abagizi ba nabi (ubandinde).”

فَدَعَارِيْهُ وَإِنْ هَوَلَّهُ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ ﴿٢٢﴾

23. (Allah aramubwira ati) “Ujyane n'abagaragu banje nijoro; rwose (Farawo n'ingabo ze) baraza kubakurikira.”

فَأَسْرِ عِبَادِي لَيَلَّا إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ ﴿٢٣﴾

24. (Nimumara kwambuka) ureke inyanja igume uko iri ituje. Mu by'ukuri (Farawo n'ingabo ze) baraza kurohama."

وَأَتْرُكِ الْبَحْرَ هُوَ إِنَّهُمْ جُنُدٌ مُّغَرَّبُونَ ﴿٢٤﴾

25. (Ese Farawo n'abantu be basize ubusitani n'imigezi bingana iki,

كَمْ تَرَكُ أَمْنَ جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴿٢٥﴾

26. Ibihingwa n'amazu meza,

وَزُرْوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٢٦﴾

27. Naho umudendezo babagamo banezerewe!

وَنَعْمَةٌ كَانُوا فِيهَا فَكَاهُيْنَ ﴿٢٧﴾

28. Uko ni ko byagenze! (Imitungo yabo) twayizunguje abandi bantu.

كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا أَخْرَيْنَ ﴿٢٨﴾

29. Ikirere n'isi ntibyigeze bibaririra<sup>207</sup> kandi ntibigeze bakererezwa (guhanwa).

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ﴿٢٩﴾

30. Kandi rwose twarokoye bene Isiraheli ibihano bisuzuguza,

وَلَقَدْ نَحْيَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿٣٠﴾

31. Bya Farawo, wari warishyize hejuru akaba no mu bakabya.

مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًّا أَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

32. (Bene Isiraheli) twabatoranyije tubizi tubarutisha ibiremwa (byo ku gihe cyabo),

وَلَقَدِ اخْتَرَهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٣٢﴾

<sup>207</sup> Ibn Abasi yavuze ko iyo umwemeramana apfuye, ahantu yajyaga yubama asenga ndetsen n'amareombo yo mu kirere ibikorwa bye byajyaga binyuzwamo bizamuka, bigira agahinda bikamuririra. Naho iyo umuhakanyi apfuye ntibimuririra.

33. Twanabahaye ibitangaza birimo ibigeragezo bigaragara.

وَإِتَيْنَاهُم مِّنَ الْأَكَيْتِ مَا فِيهِ بَلَوْا مُبِينٌ ﴿٣٣﴾

34. Mu by'ukuri abo (bahakanyi b'i Maka) baravuga batı:

إِنَّهُوَلَاءِ لَيَقُولُونَ ﴿٣٤﴾

35. "Rwose nta rundi rupfu ruzabaho usibye urupfu rwacu rwa mbere (abantu bose bapfa), ndetse nta n'ubwo tuzazurwa,

إِنْ هِيَ إِلَّا مَوَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ ﴿٣٥﴾

36. Ngaho nimugarure abakurambere bacu (bapfuye kera) niba muvuga ukuri (ko Allah azazura abapfuye).

فَلَوْلَا يَأْتِيَنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٦﴾

37. Ese abo (babangikanyamana) ni bo beza cyangwa se abantu ba Tubba'i<sup>208</sup>, ndetse na ba bandi babayeho mbere yabo? (Abo bose) twaraboretse kubera ko bari abagizi ba nabi.

أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ شَيْعَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكَهُمْ ﴿٣٧﴾

إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٣٧﴾

38. Ntabwo twaremye ibirere n'isi ndetse n'ibiri hagati yabyo dukina.

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ فَلِلأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾

39. Nta kindi cyatumye tubirema uretse ku mpamu z'ukuri; nyamara abenshi muri bo ntibabizi.

مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا يَلْعِقُ وَلَكِنَّ أَكَيْتَهُمْ لَا

يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

40. Mu by'ukuri umunsi w'urubanza (ubwo Allah azakiranura ibiremwa), ni wo munsi w'isezerano rya bose.

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجَمَعِينَ ﴿٤٠﴾

<sup>208</sup> Tubba'i : Bari abami bo mu gihugu cya Yemen.

41. Umunsi inshuti magara itazagira icyo imarira inshuti magara ngenzi yayo, ndetse nta n'ubwo bazatabarwa.

42. Uretse uwo **Allah** azagirira impuhwe. Mu by'ukuri (**Allah**) ni Umunyacyubahiro bihebuje, Nyirimbabazi.

43. Mu by'ukuri igiti cya Zaqumu,

44. Kizaba amafunguro y'umunyabyaha,

45. (Ayo mafunguro azaba ameze) nk'umuringa washongeshejwe, uzaba utogotera mu nda,

46. Nko gutogota kw'amazi yatuye.

47. (Hazatangwa itegeko rigira riti) “Nimumufate mumukururire mu muriro rwagati (uguramana),”

48. “Maze mumusuke amazi yatuye mu mutwe nk'igihano.”

49. (Maze abwirwe annyegwa ati) “Sogongera! Mu by'ukuri (wajyaga wibwira ko) uri umunyacyubahiro, umunyabuntu”

يَوْمَ لَا يُغَيِّرُ مَوْلَىٰ عَنْ مَوْلَىٰ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٦١﴾

إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ وَهُوَ أَعَزِيزُ الرَّجِيمُ ﴿٤٥﴾

إِنَّ شَجَرَتَ الْزَّقْوَمِ ﴿٤٣﴾

طَعَامُ الْأَثَيْرِ ﴿٤٤﴾

كَالْمُهَلَّ بَغْلَىٰ فِي الْبَطْوَنِ ﴿٤٥﴾

كَغْلَىٰ الْحَمِيمِ ﴿٤٦﴾

خُذُوهُ فَأَعْتَلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٤٧﴾

ثُمَّ صُبُّوا فَوَقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ﴿٤٨﴾

ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ أَعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴿٤٩﴾

50. Mu by'ukuri iki ni cyo  
(gihano) mwajyaga  
mushidikanyaho.

إِنَّهُذَا مَا كُنْتُ بِهِ تَمْتَرُونَ ﴿٥٠﴾

51. Mu by'ukuri abagandukira  
**Allah** bazaba bari ahantu  
hatekanye (mu Ijuru),

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِ أَمِينٍ ﴿٥١﴾

52. Mu busitani n'amasoko.

فِي جَنَّتٍ وَّعُيُونٍ ﴿٥٢﴾

53. Bazaba bambaye imyambaro  
ikoze mu ihariri (umwambaro  
ukoze mu budodo bw'amagweja)  
yorohereye ndetse n'iremereye,  
(bicaye) bateganye.

يَلْبِسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَّإِسْتَبْرِقٍ  
مُتَّقَيِّلِينَ ﴿٥٣﴾

54. Uko ni ko bizaba bimeze.  
Tuzanabashyingira Huur ul-  
a'in (abagore bo mu Ijuru  
b'igikundiro, b'amaso manini).

كَذَلِكَ وَرَقَّ جَنَّهُمْ مُحُورٌ عَيْنٌ ﴿٥٤﴾

55. Bazarisabiramo imbuto  
(z'ubwoko bwose), batekanye.

يَدْعُونَ فِيهَا كُلَّ فَدِيَةٍ إِمْنَانِينَ ﴿٥٥﴾

56. Ntabwo bazasogongeramo  
urupfu uretse urupfu rwa mbere  
(bari ku isi), kandi **Allah**  
azabarinda ibihano by'umuriro  
ugurumana.

لَا يَدْرُوْنَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا مُمْتَنَةً  
الْأُولَى وَقَاتِلُهُمْ عَذَابُ الْجَحِيرٍ ﴿٥٦﴾

57. Bizaba ari ingabire ziturutse  
kwa Nyagasani wawe! Iyo ni yo  
izaba ari intsinzi ihambaye!

فَضَلَّا مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٥٧﴾

58. Mu by'ukuri (Qur'an)  
twarayoroheje mu rurimi rwawe  
(rw'Icyarabu), kugira ngo bibuke  
(maze bibabere isomo).

فَإِنَّمَا يَسِّرَنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

59. Ngaho (yewe Muhamadi) tegereza (ibyo nagusezeranyije bizababaho), mu by'ukuri na bo bategereje (ibizakubaho).

فَارْتَقَبْ إِنَّهُمْ مُّرَّاقِبُوْنَ ٥٩

#### 45 - SURAT AL JATHIYAT

(UPFUKAMYE)

*Yahishuriwe i Maka, igizwe n 'imirongo 37.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Haa Miim<sup>209</sup>.

١ حَمٰ

2. Ihishurwa ry'igitabo (Qur'an) rituruka kwa Allah, Umunyacyubahiro bihebuje, Nyirubugenge buhambaye.

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ٦

3. Mu by'ukuri, mu birere no mu isi harimo ibimenyetso ku bemeramana.

إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَكُتُبُ لِلنَّاسِ مِنْ يَوْمٍ

4. No mu iremwa ryanyu ndetse no mu nyamaswa (Allah) akwirakwiza (ku isi), harimo ibimenyetso ku bantu bemera badashidikanya.

وَفِي خَلْقِكُو وَمَا يُثْبِتُ مِنْ دَائِيَّةٍ إِنَّهُمْ لِقَوْمٍ يُوقَنُونَ ٤

<sup>209</sup> Inyuguti nk'izi twazivuzeho mu masura yatambutse.

5. No gusimburana kw'ijoro n'amanywa ndetse n'amafunguro (imvura) Allah amanura mu kirere, akayahesha isi ubuzima nyuma yo gupfa kwayo (gukakara), ndetse n'ihindagurika ry'imiyaga; ni ibimenyetso ku bantu bafite ubwenge.

6. Ayo ni amagambo ya Allah tugusomera mu kuri (yewe Muhamadi). Ese ni ayahe magambo yandi bakwemera nyuma y'amagambo ya Allah ndetse n'ibimenyetso bye?

7. Akaga gakomeye kazaba kuri buri wese uhimba ibinyoma, w'umunyabyaha.

8. (Wa wundi) wumva amagambo ya Allah amusomerwa, maze agatsimbarara mu bwibone bwe (agatera umugongo) yibona nk'aho atayumvise. (Yewe Muhamadi, umuntu nk'ubo) muhe inkuru y'ibihano bibabaza.

9. N'yo hari icyo amenye mu magambo yacu aragikerensa. Abo bazahanishwa ibihano bisuzuguza.

وَأَخْتَافِ الْيَلَى وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفُ الْيَمَّاحِ  
ءِيمَدُّ لِقَوْمٍ بَعْقَلُونَ ﴿٦﴾

تِلْكَءَ اِيَّتُ اللَّهِ نَتَلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فِي أَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ  
الَّهُ وَإِيَّتِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾

وَقَلْ لِكُلِّ أَفَّاكِ أَشِيمِ ﴿٨﴾

يَسْمَعُ إِيَّاتِ اللَّهِ تُسَلِّيَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصْرُّ مُسْتَكِرًا كَانَ لَمَّا  
يَسْمَعُهَا فَبَشَّرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٩﴾

وَإِذَا عَلِمَ مِنْ إِيَّاتِنَا شَيْئًا أَخْزَهَاهُ فُرُوقًا أَوْ لِئَلَّا كَلَمَّا  
عَذَابُ مُهِمِّينَ ﴿١٠﴾

10. Kandi n'imbere yabo hari umuriro wa Jahanamu, kandi ibyo bakoze cyangwa izindi mana bishyiriye ho zitari **Allah** nta cyo bizabamarira. Ndetse bazahanishwa ibihano bihambaye.

11. (Iyi Qur'an) ni wo muyoboro. Naho ba bandi bahakanye amagambo ya Nyagasani wabo bazahanishwa ibihano bibi cyane kandi bibabaza.

12. **Allah** ni We waborohereje inyanja kugira ngo amato ayigendemo ku itegeko rye, no kugira ngo mushakishe ingabire ze ndetse munabashe gushimira.

13. Yanaborohoreje ibiri mu birere n'ibiri mu isi byose bimuturutseho. Mu by'ukuri muri ibyo hari ibimenyetso ku bantu batekereza.

14. (Yewe Muhamadi!) Bwira abemeye bababarire ba bandi (babagirira nabi) badatinya ibihano bya **Allah**, ko azabahanira ibibi bakoraga.

15. Ukoze ibikorwa byiza aba abyikoreye, ndetse n'ukoze ikibi aba acyikoreye. Hanyuma kwa Nyagasani wanyu ni ho muzasubizwa.

١٣  
مَنْ وَرَأَهُمْ جَهَنَّمَ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا  
وَلَا مَا أَخْتَدُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أُولَئِكَ وَلَهُمْ عَذَابٌ

عَظِيمٌ

١٤  
هَذَا هُدَىٰ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعِيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ  
مِّنْ رِّحْرَاهٍ

\* ١٥  
اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ  
بِأَمْرِهِ وَلَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ

١٦  
وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ إِنَّ  
فِي ذَلِكَ لَذَكَرٌ لَّا يَكُونُ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

١٧  
قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ  
اللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

١٨  
مَنْ عَمِلَ صَلَحًا فَإِنَّهُ مَوْهِدٌ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ  
إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ

16. Kandi rwose twahaye bene Isiraheli igitabo, ubushishozi n'ubuhanuzi. Twanabahaye amafunguro meza, tunabarutisha ibiremwa (byo ku gihe cyabo).

17. Ndetse twabahaye amategeko asobanutse. Kandi batandukanye nyuma yo kugerwaho n'ubumenyi bitewe no kugirirana ishyari n'inzangano hagati yabo. Rwose Nyagasani wawe azabakiranura ku munsi w'imperuka mu byo batavugagaho rumwe.

18. Hanyuma (yewe Muhamadi) tugushyira ku murongo w'amategeko y'idini (asobanutse). Bityo, wukurikire kandi ntuzakurikire irari ry'abadasobanukiwe.

19. Mu by'ukuri nta cyo bakumarira imbere ya Allah (aramutse ashaka kuguhan). Rwose bamwe mu nkozi z'ibibi ni inshuti z'abandi, ariko Allah ni umukunzi w'abamugandukira (abamutinya).

20. Iyi (Qur'an) ni urumuri ku bantu, ikaba umuyoboro n'impuhwe ku bizera badashidikanya.

وَلَقَدْ أَتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ  
وَأَنْبَوْهُ وَرَزَقْنَاهُ مِنَ الظَّيْتَنَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى  
الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾

وَإِذْ أَتَيْنَاهُمْ بِيَنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا أَخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ  
بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي  
بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ  
يَخْتَلِفُونَ ﴿١٧﴾

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا  
وَلَا تَنْتَبِّعْ هُوَاءَ الْذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

إِنَّهُمْ لَن يُغْنِوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ  
الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ  
﴿١٩﴾

هَذَا بَصَرٌ لِلْتَّائِسِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ  
يُوقِنُونَ ﴿٢٠﴾

21. Ese abakora ibibi bakeka ko twabafata kimwe n'abemeye bakanakora ibikorwa byiza; haba mu mibereho yabo yo ku isi ndetse na nyuma yo gupfa? Rwose bibwira nabi.

أَرْحَسَبِ الَّذِينَ أَجْرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَجْعَلُهُمْ  
كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ  
مَّحِيَا هُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٦١﴾

22. Kandi Allah yaremye ibirere n'isi mu kuri, no kugira ngo buri muntu azahemberwe ibyo yakoze, kandi ntibazigera barenganywa.

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِيقَةِ تُجْزَى  
كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٢﴾

23. Ese ntiwabonye wa wundi wagize irari rye nk'imana ye, maze Allah akamurekera mu buyobe abizi neza (ko azayoba), nuko akamuziba amatwi, akadanangira umutima we, ndetse akanashyira igikingirizo ku maso ye? Ese nyuma ya Allah ni nde wundi wamuyobora? Mbese ubu ntimwibuka?

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهًا هُوَدُوهُ وَأَضَلَّ اللَّهَ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَّ  
عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غُشَّةً فَمَنْ  
يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٣﴾

24. Kandi baravuze bati “Ubuzima nta kindi buri cyo usibye kuba ku isi, tugapfa tukanabaho, kandi nta kindi kitwareka kitari igihe. Ibyo nta bumenyi babifitiye, usibye gukeka gusa.”

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَا تُنَا الدُّنْيَا مَوْتٌ وَنَحْيَا وَمَا يَهْلِكُنَا  
إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا هُمْ بِذَلِكَ مِنْ عَلِمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظْنُونَ ﴿٦٤﴾

٦٤

25. N'yo basomewe amagambo yacu asobanutse, urwitwazo rwabo ruba kuvuga bati “Ngaho nimugarure abakurambere bacu niba muvuga ukuri (ko Allah azazura abapfuye).”

وَإِذَا نَتَّعَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّا بَيْنَنَا مَا كَانَ حُجَّةٌ هُوَ إِلَّا أَنْ  
قَالُوا أَتُؤْتُوا بِعِبَادَتِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦٥﴾

26. Vuga (yewe Muhamadi) uti “**Allah** ni We ubaha ubuzima hanyuma akabubambura (igihe cyo gupfa), maze akazabakoranya ku munsi w'imperuka, (umunsi) udashidikanywaho. Nyamara abenshi mu bantu ntibabizi.”

27. Ubwami bw'ibirere n'ubw'isi ni ubwa **Allah** wenyine, kandi umunsi w'imperuka nugera, kuri uwo munsi abanyabinyoma bazahomba.

28. (Ku munsi w'imperuka) uzanabona buri muryango (Umat) upfukamye, na buri muryango uhamagarirwa ngo ujye (gusoma) igitabo cyawo (cy'ibikorwa, maze babwirwe bat) “Uyu munsi murahemberwa ibyo mwajyaga mukora.”

29. Iki gitabo cyacu kibavugaho ukuri. Rwose twandikaga ibyo mwajyaga mukora (byose).

30. Naho abemeye bakanakora ibikorwa byiza, Nyagasani wabo azabinjiza mu mpuhwe ze (Ijuru). Iyo ni yo ntsinzi igaragara.

31. Naho ba bandi bahakanye (babwirwe bat) “Ese ntimwasomerwaga amagambo yacu? Nyamara mwishyize

قُلْ أَللَّهُ يُحِبُّكُمْ ثُمَّ يُعِذِّبُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَبَّ فِيهِ وَلَكُنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

وَلَلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسِرُ الْمُبْطَلُونَ ﴿٢٧﴾

وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاتَتْهُ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا أُلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كَانُوا تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾

هَذَا كِتَابُنَا يَنْطَقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا لَنَا نَسْتَسِعُ مَا كُنَّتمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾

فَإِنَّمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخَلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿٣٠﴾

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ إِلَيْتِي تُتَلَّى عَلَيْكُمْ فَأَسْتَكْبَرُونَ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿٣١﴾

hejuru maze muba abagizi ba nabi”

32. N'yo mubwiwe muti “Rwose isezerano rya **Allah** ni ukuri, kandi ko imperuka idashidikanyaho; muravuga muti “Ntituzi imperuka icyo ari cyo kandi icyo dukora ni ugukeka gusa, ndetse nta n'ubwo twabyemeza (ko uwo munsi uzabaho).”

33. Kandi ibibi by'ibyo bakoze (inkurikizi zabyo) bizabagaragarira, ndetse bazanatangatangwa n'ibyo bajyaga bakerensa.

34. Bazanabwirwa bati “Uyu munsi turabibagirwa nk'uko mwibagiwe guhura n'uyu munsi wanyu. Ndetse n'ubuturo bwanyu ni umuriro (wa Jahanamu), kandi ntumuzagira ababatabara.”

35. Ibyo (bibabayeho) ni ukubera ko mwakerensaga amagambo ya **Allah** ndetse mukanashukwa n'ubuzima bw'isi. Bityo, uyu munsi ntibawukurwamo (umuriro), kandi nta n'ubwo bazasubizwa ku isi (ngo bicuze).

36. Bityo, ishimwe n'ikuzo ni ibya **Allah**, Nyagasani w'ibirere,

وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَبَّ فِيهَا  
قُلْنَمْ مَا نَدَرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ تَنْظُنَ إِلَّا ظَنًّا وَمَا يَخْنُونَ

بِمُسْتَقِيقِينَ ﴿٢٦﴾

وَبَدَا لَهُمْ سِيَّاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ

يَسْتَهِنُونَ ﴿٢٧﴾

وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمَكُمْ هَذَا  
وَمَا أَوْلَكُمُ الْأَنَارُ وَمَا الْكُمُّ مِنْ تَصْرِيفٍ ﴿٢٨﴾

ذَلِكُمْ بِإِنْكُمْ أَنْتَنَمُّ إِذَا كِتَبَ اللَّهُ هُزُوا وَغَرَّتُكُمْ  
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرِجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ

يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٢٩﴾

فَلَلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ

الْعَالَمِينَ ﴿٣٠﴾

Nyagasani w'isi, akaba na  
Nyagasani w'ibiremwa byose.

37. Ni na We (wenyine)  
w'ikirenga mu birere n'isi, kandi  
ni We Munyacyubahiro uhebuje,  
Nyirubugenge buhambaye.

وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ

**46 - SURAT AL AH-QAAF**  
(AHANTU HARI HATUYE ABA AADI)  
*Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirongo 35.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya **Allah**, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Haa Miim<sup>210</sup>.

٦٣ حَمَ

٦٤

2. Ihishurwa ry'igitabo (Qur'an)  
rituruka kwa **Allah**,  
Umunyacyubahiro bihebuje,  
Nyirubugenge buhambaye.

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

3. Ntitwaremye ibirere n'isi  
n'ibiru hagati yabyo bitari ku  
mpamvu z'ukuri, ndetse  
binagenerwa igihe ntarengwa  
(bizabaho). Nyamara ba bandi  
bahakanye, ibyo baburirwa  
barabyirengagiza.

مَا خَلَقْتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَنْهَا إِلَّا لِلْحَقِّ  
وَأَجَلٌ مُسَمَّىٰ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعَرِّضُونَ

٦٥

<sup>210</sup> Inyuguti nk'izi twazivuzeho mu masura yatambutse.

4. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Ese murabona ibyo musenga bitari **Allah!** Ngaho nimunyereke icyo byaremye ku isi, cyangwa se uruhare byagize mu (iremwa ry)’ibirere? Ngaho nimunzanire igitabo (yahishuwe) mbere y’iki (Qur'an) cyangwa ibisigisigi by’ubumenyi (bigaragaza ukuri kw’ibyo musenga), niba koko muri abanyakuri.”

5. Ni nde wayobye kurusha wa wundi usenga ibitari **Allah**, bitanashobora kumusubiza kuzageza ku munsi w’imperuka? Ndetse bikaba bitanamenya ko babisaba.

6. N’igihe abantu bazakoranywa (ku munsi w’imperuka, ibyo basengaga) bizababera abanzi, ndetse binahakane kuba barabisengaga.

7. N’yo basomewe amagambo yacu asobanutse, ba bandi bahakanye ukuri (Qur'an) igihe kubagezeho, baravuga batu “Ubu ni uburozi bugaragara.”

8. Cyangwa bakavuga ko (Muhamadi) yayihimbiye (Qur'an)! Vuga uti “Niba narayihimbye, nta cyo mwamarira kuri **Allah** (aramutse ashatse kubimpanira). Ni We uzi neza ibyo tuyivugaho tuyisebya.

قُلْ أَرَءَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونَنِي مَاذَا  
خَلَقُوا مِنْ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شَرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ  
أَتُؤْنِي بِكِتَبٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةً مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُ  
صَدِيقِنَ ﴿٣﴾

وَمَنْ أَنْصَلَ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُوبِنِ اللَّهِ مَنْ لَا  
يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ  
غَافِلُونَ ﴿٤﴾

وَإِذَا حُشِرَ الْأَنْاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءٌ وَكَانُوا يَعْبَادُهُمْ  
كُفَّارِينَ ﴿٥﴾  
وَلَذَا تُشْتَأِلُ عَلَيْهِمْ أَيْتَنَا يَسْنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ  
لَمَاجَأَهُمْ هُوَ هَذَا سَحْرٌ مُبِينٌ ﴿٦﴾

أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَا قُلْ إِنْ أَفْتَرَنَا وَفَلَا تَقْلِكُنَ لِي مِنْ  
اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفْيِضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا  
بَيْنِ وَبَيْنَكُو وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٧﴾

(Allah) arahagije kuba umuhamya hagati yanjye namwe, kandi ni Ubabarira ibyaha, Nyirimpuhwe.”

9. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Ntabwo ndi icyaduka mu ntumwa (za Allah), ndetse sinamenya ibyo nzakorerwa cyangwa se ibyo muzakorerwa. Nkurikira ibyo nahishuriwe gusa, kandi nta cyo ndi cyo uretse kuba umuburizi ugaragara.”

10. Babaze (yewe Muhamadi) uti “Mutekereze nk’ubu iyi (Qur'an) ibaye ituruka kwa Allah mukaba muyihakana; nyamara umwe muri bene Isiraheli<sup>211</sup> ahamya ko ari nka yo (ari ukuri nka Tawurati), akaba anayemera mu gihe mwe mwishyira hejuru (muyihakana)!” Mu by’ukuri Allah ntayobora abantu b’abahakanyi.

11. Na ba bandi bahakanye babwiye abemeye batu “Iyo (ubutumwa bwa Muhamadi) buza kuba ari bwiza, (ababwemeye) ntibari kudutanga kubwemera.” Hanyuma iyo batemeye ko (ubwo butumwa) bubayobora

قُلْ مَا كُنْتُ بِدُعَاءِ مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي  
وَلَا يَكُونُ إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا بِإِلَّا نَذِيرٌ

مُبِينٌ ٩

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرُتُمْ بِهِ وَشَهَدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَعَامَنَ وَأَسْتَكْبَرُتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ١٠

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذَا لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيرٌ ١١

<sup>211</sup> Umwe muri bene Isiraheli uvugwa muri uyu murongo ni Abdullahi bun Salaam, Umuyahudi wabaye Umuyisilamu ndetse akaba yari n’umwe mu basangirangendo b’Intumwa y’Imana Muhamadi (Imana imuhe amahoro n’umugisha).

baravuga bati “iki ni ikinyoma gishaje!”

12. Na mbere yayo (Qur'an) hari igitabo cya Musa (Tawurat) cyari ubuyobozi n'impuhwe. Naho iki (igitabo cya Qur'an) ni igitabo gihamya ibyakibanjirije, kiri mu rurimi rw'Icyarabu, kigamije kuburira inkozi z'ibibi no gutanga inkuru nziza ku bakora ibyiza.

13. Mu by'ukuri ba bandi bavuze bati “Nyagasan wacu ni **Allah**, hanyuma bagashikama (ku kuri), nta bwoba ndetse nta n'agahinda bazigera bagira.”

14. Abo ni abantu bo mu Ijuru, bazaribamo ubuziraherezo nk'ingororano z'ibyo bajyaga bakora.

15. Twanategetse umuntu kugirira neza ababyeyi be. Nyina yamutwitanye umuruho anamubyarana umuruho; kumutwita no kumucutsa mu gihe kingana n'amezi mirongo itatu, kugeza ubwo agera mu gihe cy'ubukureakanagera ku myaka mirongo ine; maze akavuga ati “Nyagasan wanje! Nshoboza gushimira ingabire zawe wampundagajeho, njye n'ababyeyi banjye, (unanshoboze) gukora ibitunganye wishimira, kandi unantunganyirize urubyaro. Mu

وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابٌ مُّوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا  
كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ الَّذِينَ  
ظَلَمُوا وَبُشِّرَى لِلْمُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾

إِنَّ الَّذِيْتَ قَاتَلُوا رَبِّيْا اللَّهَ تَعَالَى أَسْتَقْدِمُ فَلَا خَوْفٌ  
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ ﴿١٧﴾

أَوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا  
يَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

وَوَصَّيْنَا إِلَيْنَاهُ بِوَالِدِيهِ إِحْسَنًا حَمَلْتُهُ أُمُّهُ وَكُلُّهَا  
وَضَعَتْهُ كُوْهَا وَحَمْلُهُ وَفَصَلُهُ، وَثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىْ إِذَا  
بَلَغَ أَشْدَدَهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبُّ أُوزِيْنِيَّ  
أَنَّ أَشْكُرْ نَعْمَتَكَ الَّتِي نَعْمَتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنَّ  
أَعْمَلَ صَلِحَاتَ رَضْهُ وَأَصْلِحَ لِي فِي ذُرِّيْقَ إِنِّي تُبُتُّ  
إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٩﴾

by'ukuri nkwicujijeho kandi rwose ndi mu bicisha bugufi (Abayisilamu)."

16. Abo ni bo twakirira ibyiza bakora tukanirengagiza ibibi byabo. (Bazaba ari) abantu bo mu Ijuru ku bw'isezerano ry'ukuri basezeranyijwe.

17. Naho wa wundi wabwiye ababyeyi be amagambo yo kubinuba (ubwo bamuhamagariraga kwemera Allah n'izuka) agira ati "Ese muransezeranya ko nzazurwa mu gihe hari ibisekuru byahise mbere yanje (bitigeze bizurwa)? Mu gihe (ababyeyi be) bitabaza Allah bamubwira bati "Wo kanyagwa we wakwemeye! Rwose isezerano rya Allah ni ukuri." Ariko we akavuga ati "Ibi nta kindi biri cyo usibye ko ari inkuru z'abo hambere."

18. Abo ni bo bahamwe n'imvugo (y'ibihano) nk'iyahamye amajini n'abantu babayeho mbere yabo. Mu by'ukuri ni abanyagihombo.

19. Kandi bose bafite inzego (bazahemberwa) bitewe n'ibyo bakoze, kugira ngo (Allah) azabagororere ingororano zabo zuzu ye kubera ibikorwa byabo. Kandi ntibazigera bahuguzwa.

أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمَلُوا  
وَنَتَجَاوِزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَ  
الْصَّادِقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ١٦

وَالَّذِي قَالَ لِرَبِّهِ أَفِ لَكُمَا أَتَعْدَانِي أَنْ أُخْرِجَ  
وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغْيِثَانِ اللَّهَ  
وَيَلَّا كَمَنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا  
أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ١٧

أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ  
قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا أَخْلَقِينَ ١٨

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا وَيَوْمَ يُقَسَّمُهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا  
يُظْلَمُونَ ١٩

20. Uzirikane n'umunsi ba bandi bahakanye bazagezwa imbere y'umuriro, maze (babwirwe) bati "Mwapfushije ubusa ibyiza byanyu mu buzima bw'isi mubyinezamo. Uyu munsi murahanishwa ibihano bisuzuguza kubera uko mwajyaga mwibona ku isi bitari mu kuri, no kubera ko mwajyaga mwigomeka (ku mategeko ya **Allah**)."

21. Unibuke (yewe Muhamadi) umuvandimwe w'aba Adi (Intumwa Hudu) ubwo yaburiraga abantu be bari batuye ahitwa Ah'qaf<sup>212</sup> -kandi mbere ye na nyuma ye haje ababurizi- avuga ati "Ntimukagire undi mugaragira utari **Allah**. Mu by'ukuri ndatinya ko muzabona ibihano byo ku munsi uhambaye (nimukomeza guhakana)."

22. Baravuga bati "Ese uje kudukura ku mana zacu? (Turabyanzel!) Ngaho tuzanire ibyo udusezeranya (ibihano) niba koko uri umwe mu banyakuri."

23. (Hudu) aravuga ati "Mu by'ukuri ubumenyi (bw'ibyo bihano) buri kwa **Allah**. Kandi ibyo mbagezaho ni ibyo

وَيَوْمَ يُعرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبَهُ طَيْبَتُكُوفِي  
حِيَاكُوكُ الدُّنْيَا وَأَسْتَمْتَعْمُ بِهَا فَإِلَيْهِ يَوْمُ تُحْزَنُونَ عَذَابَ  
الْهُنُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ يَغِيَرُ  
الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفَسُّقُونَ ﴿٦﴾

\* وَأَذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْدَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ  
خَلَتِ النُّدُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِهِ لَا تَبْدُوا  
إِلَّا اللَّهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُوكُ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٦﴾

قَالُوا أَجِئْنَا لِتَفِكَّا عَنْ إِلَهِنَا فَأَتَنَا بِمَا عَدَنَا  
إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾

قَالَ إِنَّمَا أَعْلَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَبِلَّكُوكُ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ  
وَلَكِنِّي أَرِدُكُوكُ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿٦﴾

<sup>212</sup> Ni izina ry'ahantu mu majyepfo y'umwigimbakirwa w'Abarabu, kuri ubu ni mu gihu cya Oman.

natumwe, ariko rwose mbona muri abantu b'injiji."

24. Maze babonye (igicu cy'ibihano) gikwiriye mu kirere kigana mu bibaya byabo (bari batuyemo, baracyishimira) maze baravuga bati "Iki gicu kiraduha imvura." (Hudu arababwira ati) "Ahubwo ni ibyo mwasabaga ko byihutishwa. Ni umuyaga urimo ibihano bibabaza",

25. Urimbura buri kintu cyose (uhuye na cyo) ku bw'itegeko rya Nyagasan i wawo. Nuko bucya nta kindi kigaragara usibye amatongo yabo. Uko ni ko duhana abantu b'inkozi z'ibibi.

26. Kandi rwose (aba Adi) twabahaye ubutware tutigeze duha mwebwe (Abakurayishi). Tunabaha amatwi, amaso n'imitima (kugira ngo batekereze), nyamara amatwi yabo n'amaso yabo ndetse n'imitima yabo, nta cyo byabamariye kubera ko bahakanaga amagambo ya Allah. Nuko bagotwa (n'ibihano) by'ibyo bakerensaga.

27. Kandi rwose (nyuma y'iyo midugudu y'aba Adi), twarimbuye imidugudu ibakikije (yemwe bantu b'i Maka), kandi twakomeje

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقِبَلَ أَوْ دِينِهِمْ قَالُوا هَذَا  
عَارِضٌ مُّمَطَّرُنَا بِلْ هُوَ مَا أَسْتَعْجَلْنُمْ بِهِ يَعْلَمُ فِيهَا  
عَذَابٌ أَلِيمٌ

تُدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِإِمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا  
مَسَكُونُهُمْ كَذَلِكَ تَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ

وَلَقَدْ مَكَثُوكُمْ فِيمَا إِنْ مَكَثَكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا أَهُمْ  
سَمَعاً وَأَبْصَرَا وَأَفْعَدَةَ فَمَا أَعْنَتِنَّهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا  
أَبْصَرُهُمْ وَلَا أَفِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ  
بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهِزُونَ

وَلَقَدْ أَهْلَكَنَا مَا حَوَلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَقَنَا  
الْأَكْيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

kubagaragariza ibitangaza  
binyuranye kugira ngo  
bisubireho (ariko bakomeza  
kwinangira).

28. Ese kuki izo mana zabo basengaga mu cyimbo cya Allah (bibwira ko) zibamwegereza zitabatabaye? Ahubwo zarabatengushye (mu gihe bahanwaga). Ibyo ni ingaruka z'ikinyoma cyabo ndetse n'iz'ibyo bahimbaga.

29. Unibuke (yewe Muhamadi) ubwo twakwerekezagaho itsinda ry'amajini kugira ngo ryumve Qur'an, ubwo yakurikiranaga (isomwa ryayo) yaravuze ati "Nimuceceke." Nuko imaze gusomwa, asubira kuburira magenzi yayo.

30. Aravuga ati "Yemwe bagenzi bacu! Rwose twumvise igitabo cyahishuwe nyuma ya Musa, cyemeza ibyakibanjirije ndetse kiyobora ku kuri no mu nzira igororotse",

31. "Yemwe bagenzi bacu! Nimwumvire umuvugabutumwa wa Allah (ibyo abahamagarira), kandi munamwemere. (Allah) azababarira ibyaha byanyu anabarinde ibihano bibabaza."

فَلَوْلَا نَصَرَهُمْ أُلَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ  
قُرْبَانًا لِهِمْ بَلْ صَلَوَاعَهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا  
كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٨﴾

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ  
الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْا  
إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذَرِينَ ﴿٢٩﴾

قَالُوا يَقُولُونَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ  
مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى  
طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٣٠﴾

يَقُومَنَا أَجِبُوْ دَاعِيَ اللَّهِ وَإِمْنُو بِهِ يَعْفَرُ  
لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُحِرِّكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٣١﴾

32. Kandi na wa wundi utazumvira umuvugabutumwa wa Allah, ntabwo ananiye (Allah kuba yamuhana akiri) ku isi. Kandi nta bandi barinzi azagira mu cyimbo cye (Allah). Abo bari mu buyobe bugaragara.

33. Ese ntibabona ko Allah waremye ibirere n'isi akaba atarananijwe no kubirema, ko ari We ushobora guha ubuzima abapfuye? Yego! Rwose ni We ufite ubushobozi kuri buri kintu.

34. Uzirikane n'umunsi ba bandi bahakanye bazagezwa imbere y'umuriro, maze (babwirwe) bat "Ese ibi (ibihano murimo) si ukuri?" Bavuge bat "Ni ukuri, turahiye ku izina rya Nyagasani wacu." (Allah) ababwire ati "Ngaho nimwumve ububabare bw'ibihano kubera ubuhakanyi bwanyu."

35. Bityo (yewe Muhamadi) ihangane nk'uko Intumwa zari zifite ubutagamburuzwa zihanganye. Ntuzihutire kubasabira (ibihano). Umunsi bazabona ibyo basezeranyijwe (ibihano), bazaba nk'aho nta gihe bamaze ku isi usibye isaha imwe y'amanywa. Ibi ni ubutumwa (mugejejweho). Ese hari abandi bakorekwa uretse abantu b'inkozi z'ibibi?

وَمَنْ لَا يُحِبُّ دَاعِيَ اللَّهِ فَإِنَّهُ مُمْعَجِزٌ فِي الْأَرْضِ  
وَلَيَسْ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْيَاءٌ وَلَيَكَفِيَنَّ بِضَلَالٍ مُّبِينٍ

(٢٣)

أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ  
وَلَمْ يَعِ بِخَلْقِهِنَّ يُقَدِّرُ عَلَىٰ أَنْ يُحْكِمَ الْمَوْتَ بِكَلَّ  
إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(٣٤)

وَيَوْمَ يُعرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَىٰ أُنْتَارِ أَلَيْسَ هَذَا  
بِالْحَقِّ قَالُوا إِنَّا وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا  
كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

(٣٥)

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزَمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا  
تَسْتَعِجِلْ لَهُمْ كَانُوكُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ  
يَبْشُرُ إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلْغَ فَهُلْ يُهَلِّكُ إِلَّا  
الْقَوْمُ الْفَسِقُونَ

## 47 - SURAT MUHAMAD

(INTUMWA MUHAMADI)

Yahishuriwe i Madina, igizwe n'imirongo 38.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Ba bandi bahakanye (Allah n'ubutumwa bw'Intumwa Muhamadi), ndetse bakanakumira (abantu) kugana inzira ya Allah, (Allah) azaburizamo ibikorwa byabo.

2. Naho ba bandi bemeye (Allah) bakanakora ibikorwa byiza, ndetse bakanemera ibyahishuriwe (Intumwa) Muhamadi; kuko ari ukuri guturutse kwa Nyagasan wabo, (Allah) azabahanaguraho ibaya anabatunganyirize imibereho.

3. Ibyo ni ukubera ko abahakanyi bakurikiye ikinyoma, naho abemeye bakurikira ukuri guturutse kwa Nyagasan wabo. Uko ni ko Allah aha abantu ingero zabo.

4. Nimuramuka muhuye na ba bandi bahakanye (ku rugamba rugamije guhesha Allah icyubahiro), mujye mubakubita ku bikanu. Nimubanesha,

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ



وَالَّذِينَ إِمَانُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَإِمَانُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ  
مُحَمَّدٍ وَهُوَ أَحْقَنُ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ  
بِالْهَمْ



ذَلِكَ يَأْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَتَبْعَوْ الْبَطَلَ وَأَنَّ الَّذِينَ إِمَانُوا  
أَتَبْعَوْ الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ ذَلِكَ يَضَرِّ اللَّهُ لِلنَّاسِ  
أَمْ شَاءُهُمْ



فَإِذَا لَقِيْمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرِبَ الْرِقَابَ حَتَّىٰ إِذَا أَخْتَنْتُمُوهُمْ  
فَشَدُّوا أَلْوَثَاقَ إِنَّمَا مَنَّا بَعْدُ وَلَمَّا فَدَأَهُ حَتَّىٰ تَضَعَ الْحُرْجُ  
أَوْ زَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَا تَنْصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ

mujye mubagira imbohe. Hanyuma mubarekure (nta cyo batanzé), cyangwa batange incungu kugeza intambara irangiye. Ni uko bimeze. N'yo Allahaza kubishaka, yari kubatsinda (nta ruhare mubigizemo); ariko ibyo yabikoze kugira ngo agerageze bamwe muri mwe akoresheje abandi. Naho ba bandi bishwe mu nzira ya Allah, ntazigera aburizamo ibikorwa byabo.

5. Azabayobora anatunganye imibereho yabo.

سَيَهِدِنِيهِ وَصَلِحُ بَالَّهُ

6. Maze anabinjize mu ijuru yabamenyesheje.

وَيَدْخُلُهُمْ أَلْبَنَةَ عَرْفَهَا اللَّهُ

7. Yemwe abemeye! Nimuharanira inzira ya Allah, azabatabara anabakomereze igihagararo.

لَيَلُوْ بَعْضَكُمْ بَعَضٌ وَالَّذِينَ قُتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ

8. Naho ba bandi bahakanye, bazarimbuka ndetse (Allah) ibikorwa byabo azabigira imfabusa.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَقَاتَهُمُ اللَّهُ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ

9. Ibyo ni ukubera ko bahakanye ibyo Allah yahishuye (Qur'an), maze na we akburizamo ibikorwa byabo.

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ

10. Ese (abahakanyi) ntibatambagira isi ngo barebe uko iherezo ry'abababanjirije ryagenze? Allah yarabarimbuye,

\* أَفَمَرَّ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَلَّهُ كَفِيرُهُمْ أَمْ تَأْلَمُ

kandi abahakanyi bazabona  
(iherezo) nka ryo.

11. Ibyo ni ibigaragaza ko Allah  
ari inshuti magara  
y'abemeramana, kandi ko  
abahakanyi nta nshuti magara  
bazagira.

12. Mu by'ukuri ba bandi  
bemeye bakanakora ibikorwa  
byiza, Allah azabinjiza mu  
busitani butembamo imigezi  
(Ijuru). Ariko ba bandi  
bahakanye, barinezeza (kuri iyi  
si by'igihe gito), bakanarya  
nk'uko amatungo arisha  
(badatekereza ku iherezo ryabo);  
umuriro ni wo uzaba ubuturo  
bwabo.

13. Ese ni imidugudu ingahe  
yarushaga imbaraga  
umudugudu wawe (wa Maka)  
wakumenesheje; nyamara  
tukaba twarayoretse? Nta  
n'umutabazi yigeze ibona.

14. Ese ba bandi bashingiye ku  
bimenyetso bigaragara biturutse  
kwa Nyagasani wabo, bamera  
kimwe nka ba bandi (Shitani)  
yakundishije ububi bw'ibikorwa  
byabo, ndetse bakanakurikira  
irari ryabo?

15. Imiterere y'Ijuru  
ryasezeranyijwe abagandukira  
Allah (ni uko) ritembamo imigezi  
y'amazi adahindura impumuro

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَ الْجَنَّةِ أَمْنَوْا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا  
مَوْلَىٰ لَهُمْ ۝

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَمْتَعُونَ  
وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوَىٰ لَهُمْ ۝

وَكَانُوا مِنْ قَوْمٍ هُنَّ أَشَدُ فُؤَادًا مِنْ قَوْمَكَ أَتَيْ  
أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكَهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ۝

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمْ زُبَّانَ لَهُ وَسُوءُ عَمَلِهِ  
وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۝

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَقْوِنَ فِيهَا أَنَّهُمْ مَنْ مَلَئَ عَيْنَ  
هَا سِنِ وَأَنَّهُمْ مَنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنَّهُمْ مَنْ خَرَجُ

n'uburyohe, imigezi y'amata atajya ahindura uburyohe, imigezi y'inzoga ziryohey abanywi (zidasindisha), ndetse n'imigezi y'ubuki busukuye; kandi bateganyirijwemo buri bwoko bw'imbuto no kubabarirwa na Nyagasan wabo. Ese abo bameze kimwe nk'abazaba mu muriro ubuziraherezo, bahabwa amazi yatuye abacagagura amara?

16. No muri bo hari abagutega amatwi (yewe Muhamadi), maze bava iwawe bakabwira abahaweb ubumenyi bati "Yahoze avuga iki?" Abo ni ba bandi **Allah** yadanangiyem imitima yabo, ndetse banakurikiye irari ryabo.

17. Naho ba bandi bayobotse, (**Allah**) abongerera ukuyoboka ndetse akanabaha ukuganduka.

18. Ese (abahakanyi) hari ikindi bategereje kitari ukugerwaho n'imperuka ibaguye gitumo? Nyamara ibimenyetso byayo byamaze gusohora; ese bakwibuka bate (imperuka) yamaze kubageraho?

19. Bityo (yewe Muhamadi) menya ko nta yindi mana ikwiye gusengwa by'ukuri uretse **Allah**, unasabe imbabazi z'iyyaha byawe, n'iyy'abemeramana n'abemeramanakazi.

Kandi

لَذَّةٌ لِلشَّرِّيْنِ وَأَنْهَرٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَنَّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ أَثْمَرٍ وَمَعْفَرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمْ هُوَ حَلِيلٌ فِي أَنَارَ وَسُقُّوْنَ  
مَآءَ حَمِيمًا فَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ۝

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ إِنَّا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَأَتَجْعَلُهُمْ أَهْوَاءَهُمْ ۝

وَالَّذِينَ أَهْتَدَ وَأَزَادُهُمْ هُدًى وَإِنَّهُمْ تَقْوَاهُمْ ۝

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيهِمْ بَعْثَةٌ فَقَدْ جَاءَهُمْ أَشْرَاطُهَا فَإِنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَهُمْ ذِكْرَهُمْ ۝

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَّقَلَّبَكُمْ وَمَثُونَكُمْ ۝

Allah azi neza ibyo mukora (ku manywa) ndetse (n'ibyo mukora nijoro) aho mutuye.

20. (Kubera iohoterwa bakorerwaga), ba bandi bemeye baravuze bati “Kuki tudahishurirwa isura [(igice cya Qur'an) (iduha uburenganzira bwo kurwanya abaduhohotera)]?” Ariko iyo isura ihishuwe (igira ibyo isobanura cyangwa itegeka) hakavugwamo imirwano, ubona ba bandi bafite uburwayi mu mitima yabo bakureba indoro isa nk’iy’uwagushijwe igihumure n’urupfu. Nyamara igikwiye kuri bo

21. Ni ukumvira (Allah) no kuvuga imvugo nziza. Nyamara biramutse bibaye ngombwa (ko bajya ku rugamba), hanyuma bakaba abanyakuri imbere ya Allah (mu byo basezeranyije), ni byo byaba ari byiza kuri bo.

22. None se muramutse muteye umugongo (mukanga kumvira Allah n’Intumwa ye), ntimwaba abangizi ku isi ndetse mugaca n’imiryango yanyu?

23. Abo ni bo Allah yavumye, abagira ibipfamatwi ndetse anabahuma amaso.

وَيَقُولُ الَّذِينَ إِمَانُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ هٰذِهِ  
أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُّحَكَّمٌ وَذُكِّرَ فِيهَا الْقِتَالُ  
رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرٌ  
الْمَعْشِيٌ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ ۝

طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ هٰذَا عَزَمُ الْأَمْرِ فَقَوْلٌ  
صَدَقَ اللَّهُ أَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۝

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ  
وَتَقْطَعُوا أَرْحَامَكُمْ ۝

أَوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعْنَهُمُ اللَّهُ فَاصْحَّهُمْ وَأَعْمَّ  
أَصْرَهُمْ ۝

24. Ese ntibatekereza kuri Qur'an? Cyangwa imitima yabo iradanangiye (ntibasha kumva ukuri)?

25. Mu by'ukuri ba bandi bahindukiye bagatera umugongo (ukwemera), nyuma y'uko basobanukiwe umuyoboro w'ukuri, Shitani yabakundishije (ibikorwa byabo bibi) inabizeza kubaho igihe kirekire.

26. (Uko kubizeza kubaho igihe kirekire) ni ukubera ko babwiye abanze ibyo **Allah** yahishuye (Abayahudi) bati “Tuzajya tubumvira ku bintu bimwe na bimwe gusa.” Nyamara **Allah** azi neza amabanga yabo.

27. Bizaba bimeze bite ubwo abamalayika bazabakuramo roho, babakubita mu buranga bwabo no mu migongo yabo?

28. Ibyo (bizaba bitewe) n'uko bakurikiye ibirakaza **Allah** bakanga ibimushimisha, maze ibikorwa byabo akabigira imfabusa.

29. Ese ba bandi bafite uburwayi (bw'uburyarya) mu mitima yabo bibwira ko **Allah** atazigera agaragaza inzika zabo (bafitiye Intumwa n'abemeramana)?

فَلَا يَدْبَرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَفْقَاهَا

إِنَّ الَّذِينَ أَرْتَدُوا عَلَى أَذْبَرِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ أُشَيَّطُنَ سَوْلَاهُمْ وَأَمْلَاهُ  
لَهُمْ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَانَزَ اللَّهُ  
سَنُنْظِعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَلَلَّهُ يَعْلَمُ  
إِسْرَارَهُمْ

فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضَرِّبُونَ  
وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَرَهُمْ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ أَتَبْعَوْا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ  
وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ وَفَأَخْبَطَ أَعْمَالَهُمْ

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ  
يُخْرِجَ اللَّهُ أَصْعَنَهُمْ

30. Kandi tubishatse twabakwereka ukababwirwa n'ibimenyetso byabo, ndetse ukanababwirwa n'ikigenderewe mu mvugo (zabo). Nyamara **Allah** azi neza ibikorwa byanyu.

وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْتَهُمْ فَلَا عَرْفٌ لَهُمْ بِسِيمَهُمْ  
وَلَا تَعْرِفُهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٠﴾

31. Kandi rwose tuzabagerageza kugeza ubwo tugaragaje abarwana (mu nzira ya **Allah**) n'abihangana muri mwe, ndetse tuzanagaragaza ibikorwa byanyu (byose).

وَلَنْ يُبُلُّنَّكُمْ حَتَّىٰ تَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ  
وَالصَّابِرِينَ وَبَتُوا أَحْبَارَكُمْ ﴿٣١﴾

32. Mu by'ukuri ba bandi bahakanye bakanakumira (abantu) kugana inzira ya **Allah**, ndetse bakananyuranya n'Intumwa (Muhamadi, bakajya mu ruhande rumurwanya) nyuma y'uko basobanukiwe umuyoboro w'ukuri, nta cyo bazatwara **Allah**. Kandi ibikorwa byabo azabigira imfabusa.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُوا  
الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَنْ يَضْرُبُوا  
اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْكَمُ أَعْمَالُهُمْ

33. Yemwe abemeye! Nimwumvire **Allah**, munumvire Intumwa (Muhamadi). Kandi ibikorwa byanyu ntimukabigire imfabusa.

\* يَا إِيَّاهُمَا الَّذِينَ إِمَّا مُؤْمِنُونَ أَطْبَعُوا اللَّهَ وَأَطْبَعُوا  
الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٢﴾

34. Mu by'ukuri ba bandi bahakanye bakanakumira (abantu) kugana inzira ya **Allah**, maze bagapfa ari abahakanyi, **Allah** ntazigera ababarira.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ  
وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴿٣٣﴾

35. Bityo, ntimuzacike intäge (ngo mugire ubwoba) maze ngo muhamagarire (abanzi banyu) guhagarika intambara kandi ari mwe muri hejuru (mufite intsinzi), kandi **Allah** ari kumwe namwe ndetse ntazigera agabanya ibihembo by'ibikorwa byanyu.

36. Mu by'ukuri ubuzima bw'isi nta kindi buri cyo uretse kuba ari umukino no kwinezeza (by'igihe gito). Ariko nimwemera (**Allah**) mukanamugandukira, azabagororera ibihembo byanyu kandi ntazigera abasaba imitungo yanyu.

37. Aramutse anayibasabye akabatitiriza, mwagira ubugugu (bwo kuyimuha), maze akagaragaza urwango rwanyu (mu kwanga kuyitanga).

38. Dore (yemwe bemerama) ni mwe muhamagarirwa gutanga mu nzira ya **Allah**, nyamara muri mwe hari abagira ubugugu. Kandi uzagira ubugugu azaba yihemukiye. Ariko **Allah** ni We Mukungu (ntakeneye ibyo mutanga), naho mwe muri abatindi. Kandi nimuramuka muteye umugongo (mukanga gutanga mu nzira ya **Allah**), azabakuraho abasimbuze abandi batari mwe, hanyuma ntibabe nkamwe.

فَلَا تَهْنُوا وَتَدْعُوا إِلَى الْسَّلَامِ وَأَنْتُمُ الْأَعَوْنَ وَاللَّهُ  
مَعَكُمْ وَلَنْ يَتَرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ

٣٥

إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعْبٌ وَلَهُوَ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَسْتَقِعُوا  
يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْلِكُمْ أَمْوَالَكُمْ

٣٦

إِنْ يَسْلِكُمْ هَا فَيُحَفِّكُمْ تَبَخَّلُوا وَيُخْرِجُ  
أَضْغَنَكُمْ

٣٧

هَانَتْ هُؤُلَاءِ تَدْعُونَ لِتُنْفِقُوا فِي سَيِّلِ اللَّهِ  
فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَنْ  
نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْعَفِيُّ وَأَنْتُمُ الْفَقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْ  
يَسْتَبِدِلُ قَوْمًا غَيْرَ كُمْثُمَ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ

٣٨

## 48 - SURAT AL FAT'HU

(INTSINZI)

Yahishuriwe i Madina, igizwe n'imirongo 29.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Mu by'ukuri (yewe Muhamadi) twaguhaye intsinzi isesuye,

إِنَّا أَفْتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴿١﴾

2. Kugira ngo Allah akubabarire ibyaha byawe byabanje n'ibaza, ndetse anagusenderezeho ingabire ze kandi anakuyobore inzira igorotse.

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقْدَمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرُ وَيُتَمَّ  
نَعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صَرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿٢﴾

3. Ndetse no kugira ngo Allah aguhe ubutabazi bukomeye.

وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيزًا ﴿٣﴾

4. Ni We wamanuye ituze mu mitima y'abemeramana kugira ngo ukwemera kwabo kwiyongere ku kwemera basanganywe. Ndetse ingabo zo mu birere no ku isi ni iza Allah, kandi Allah ni Umumenyi uhebuje, Nyirubugenge buhambaye.

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا  
إِيمَانَهُمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيًّا حَكِيمًا ﴿٤﴾

5. Kugira ngo yinjize abemeramana n'abemeramanakazi mu busitani butembamo imigezi (Ijuru) bazabamo ubuziraherezo, ndetse anabababarire ibyaha byabo. Kandi ibyo ni intsinzi ihambaye kwa Allah.

6. No kugira ngo ahane indyarya z'abagabo n'indyarya z'abagore, ndetse n'babangikanyamana b'abagabo n'babangikanyamana b'abagore, bagira ibitekerezo bibi kuri Allah. Amakuba nabe kuri bo! Kandi Allah yarabarakariye, ndetse aranabavuma anabateganyiriza umuriro wa Jahanamu, kandi ni wo garukiro ribi.

7. Ingabo zo mu birere no ku isi ni iza Allah. Kandi Allah ni Umunyacyubahiro bihebuje, Nyirubugenge buhambaye.

8. Mu by'ukuri (yewe Muhamadi) twakohereje kugira ngo ube umuhanya, utanga inkuru nziza, kandi unabe umuburizi,

9. No kugira ngo (mwe abantu) mwemere Allah n'Intumwa ye, mumutere inkunga, mumwubahe, mumuhe agaciro akwiye, kandi munasingize

لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  
الْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيُكَفَّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ  
وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٥﴾

وَيَعْذِبَ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفَقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ  
وَالْمُشْرِكَاتِ أَطْلَاهُنَّ بِاللَّهِ ظَرَبَ السَّوْءَ عَلَيْهِمْ  
دَائِرَةً السَّوْءَ وَغَضِيبَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَعَنْهُمْ وَأَعْدَدَ  
لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٦﴾

وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ  
عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٧﴾

إِنَّا أَنْزَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٨﴾

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّزُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ  
وَتُسْبِحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٩﴾

(Allah) mu gitondo na nimugoroba.

10. Mu by'ukuri abakurahiriye (yewe Muhamadi) kugushyigikira (baguhereza ikiganza) baba barahiriye gushyigikira Allah. Ukuboko kwa Allah kuri hejuru y'ibiganza byabo. Bityo uzatatira igihango cye, azaba yihemukiye. Kandi uzuzuza ibyo yasezeranyije Allah, azamuha ibihembo bihambaye.

11. Bamwe mu Barabu bo mu cyaro banze kujya ku rugamba, bazakubwira bati "Twahugijwe n'imitungo yacu ndetse n'imiryango yacu, bityo dusabire imbabazi." Bavugisha indimi zabo ibitari mu mitima yabo. Vuga uti "Ese ni nde wagira icyo abamarira kwa Allah, aramutse ashaka kubateza ikibi cyangwa ashaka kubagirira neza?" Ahubwo Allah azi neza ibyo mukora.

12. Ahubwo mwaketse ko Intumwa ndetse n'abemeramana batazagaruka mu miryango yabo, nuko ibyo bikundishwa imitima yanyu, maze mugira ibitekerezo bibi, muba abantu boramye .

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ تَكَّثَ فِي نَّمَاءٍ كُثُرًا عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ سَيِّئُتْهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦﴾

سَيُقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْتَغْفِرُ لَنَا يَقُولُونَ بِإِلَيْسَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنَّ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا ﴿٧﴾

بَلْ ظَنَنتُمْ أَنَّ لَنْ يَنْقِلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِهِمْ أَبَدًا وَرَبِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ أَنَّ السَّوءَ وَكُثُرَ قَوْمًا بُرَا ﴿٨﴾

13. Naho wa wundi utemera Allah n'Intumwa ye (ubo azaba abaye umuhakanyi), kandi rwose twateganyirije abahakanyi umuriro ugurumana.

14. Kandi ubwami bw'ibirere n'ubw'isi ni ubwa Allah. Ababarira uwo ashaka akanahana uwo ashaka. Kandi Allah ni Ubabarira ibyaha, Nyirimpuhwe.

15. Nimujya gufata iminyago, abanze kujya ku rugamba bazavuga bati "mureke tubakurikire." Bazashaka guhindura amagambo ya Allah. Uzavuge uti "Ntimuri budukurikire; uko ni ko Allah yavuze mbere." Ubwo bazavuga bati "Ahubwo ni ishyari mutugirira." Nyamara ntabwo bari basobanukiwe (ku bya Allah) uretse bike.

16. Bwira bamwe mu Barabu bo mu cyaro banze kujya ku rugamba uti "Muzahamagarirwa kujya kurwana n'abantu bafite imbaraga zihambaye; muzarwana na bo cyangwa bishyire mu maboko yanyu (babe Abayisilamu nta mirwano ibayeho). Nimuramuka mwumviye Allah, azabaha ibihembo byiza, ariko nimutera umugongo nk'uko mwabigenje

وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ﴿١٣﴾

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا أَنْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمٍ لِتَأْخُذُوهَا ذَرْوَنَا نَتَّيَعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَمَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلٍ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَخْسُدُونَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قِيلَالًا ﴿١٤﴾

قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولَئِكَ بَأْسِ شَدِيدٍ تُقْتَلُونَهُمْ أَوْ يُسَامُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتَكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْنَ كَمَا تَوَلَّمُ مِنْ قَبْلِ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٥﴾

mbere, (**Allah**) azabahanisha ibihano bibabaza.

17. Abafite ubumuga bwo kutabona n'abamugaye amaguru, ndetse n'abafite uburwayi ubwo ari bwo bwose, nta mugayo cyangwa icyaha bazabarwaho (igihe batagiye ku rugamba). Bityo, uzumvira **Allah** n'Intumwa ye, azamwinjiza mu busitani butembamo imigezi (Ijuru); naho uzatera umugongo, (**Allah**) azamuhanisha ibihano bibabaza.

18. Mu by'ukuri **Allah** yishimiye abemerama ubwo bakurahiriraga kugushyigikira (baguha ikiganza, yewe Muhamadi) munsi y'igit. (**Allah**) yari azi ibiri mu mitima yabo, nuko abamanurira ituze, anabahemba intsinzi ya bugufi,

19. Ndetse n'iminyago myinshi banyagaga. Kandi **Allah** ni Umunyacyubahiro bihebuje, Nyirubugenge buhambaye.

20. **Allah** yabasezeranyije kunyaga iminyago myinshi, kandi abanza kubihutishiriza iyi (intsinzi ya Khaybari), ndetse abarinda amaboko y'abantu (bashakaga kubagirira nabi); kugira ngo bibe ikimenyetso ku bemeramana, no kugira ngo abayobore mu nzira igororotse,

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَغْرَى حَرْجٌ وَلَا  
عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُدْخِلُهُ  
جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ وَمَن يَتَوَلَّ  
يُعَذَّبُ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴿١٧﴾

\*لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَبَاعُونَكَ  
تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ  
السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنْبَهُمْ فَتَحَاقِبُهُمْ ﴿١٨﴾

وَمَعَانِمَ كَثِيرَةٍ يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا  
حَكِيمًا ﴿١٩﴾

وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَعَانِمَ كَثِيرَةٍ تَأْخُذُونَهَا فَعَجَلَ  
لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلَتَكُونَ  
عَلَيْهِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِي كُمْ صَرَاطًا مُسْتَقِيمًا

21. N'indi (ntsinzi) mutashoboye kugeraho, Allah arayibazigamiye. Kandi Allah ni Ushobora byose.

22. N'yo abahakanyi baza kubarwanya, bari kubatera umugongo (bahunga), kandi ntibari kubona umurinzi cyangwa umutabazi.

23. Uwo ni umugenzo wa Allah (wo gutabara ingabo ze) wabayeho kuva kera. Kandi ntuzigera ubona impinduka ku migenzereze ya Allah.

24. Ni We wabarinze amaboko yabo (ntibabarwanya), ndetse n'amaboko yanyu (ntimwabarwanya) mu kibaya cya Maka (ahitwa Hudaybiyat) nyuma y'uko (Allah) abahaye intsinzi kuri bo. Kandi Allah ni Ubona bihebuje ibyo mukora.

25. Abo ni bo bahakanye bakanabakumira (mwebwe abemeramana) kugana Umusigitu Mutagatifu (w'i Maka), ndetse bakanafatira amatungo yari aziritse (yagombaga gutangwaho ibitambo) ntagere aho yagenewe gutambirwa. Iyo hataba abemeramana b'abagabo n'abemeramana b'abagore (bari mu banzi banyu mwari muhanganye) mutari muzi, mwari kubica cyangwa mukabahutaza mutabizi; nuko

وَأَخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٦﴾

وَلَوْ قَتَلَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا لَمْ لَوْا الْأَذْبَرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَإِنَّا لَأَنَصِيرُ ﴿٧﴾

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلٍ وَلَنْ يَجِدَ لِسْنَةً اللَّهِ تَبَدِّي لَا ﴿٨﴾

وَهُوَ الَّذِي كَفَ أَيْدِيهِمْ عَنْهُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ يَبْطِئُنَ مَكَاهَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَطْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٩﴾

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدَى مَعَكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحْلَهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطْهُرُهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَابَنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٠﴾

bikabatera umugayo  
(mukabarwaho icyaha) ku byo  
mutari muzi. (Ibyo byabayeho)  
kugira ngo **Allah** agirire  
impuhwe uwo ashaka. (Ariko  
abo bemeramana) iyo baza kuba  
bitandukanyije (n'abahakanyi),  
abahakanye muri bo twari  
kubahanisha ibihano bibabaza.

26. Ubwo abahakanye  
bashyiraga ubwibone mu  
mitima yabo; ubwibone bwo mu  
bihe by'ubujiji (kugira ngo  
batemera ubutumwa bwa  
Muhamadi), **Allah** yamanuye  
ituze ku Ntumwa ye no ku  
bemeramana, abategeka  
kuguma ku ijambo ryo  
kugandukira (**Allah**); kandi bari  
barikwiye ndetse ari na bo ba  
nyiraryo. **Allah** ni Umumenyi wa  
buri kintu.

27. Mu by'ukuri **Allah** yagize  
ukuri inzozi z'Intumwa ye  
(Muhamadi). Rwose **Allah**  
nabishaka, muzinjira mu  
Musigit Mutagatifu wa Maka  
mutekanye, nta bwoba mufite;  
(bamwe) mwogoshe imitwe  
yanyu (abandi) mugabanyije  
(imisatsi, nk'uko bikorwa mu  
mutambagiro mutagatifu).  
(**Allah**) yari azi neza ibyo mutari  
muzi, nuko abibahinduriramo  
intsinzi ya bugufi.

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ  
حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ  
رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْزَّمَهُمْ كَلِمَةً  
الَّتِي قَرَوْيَ وَكَانُوا أَحَقُّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ  
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولُهُ الْرُّءُوفُ يَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ  
الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِلَّا مِنْ مُحَلَّقِينَ  
رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ  
تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتَحًا قَرِيبًا

28. Ni We wohereje Intumwa ye (Muhamadi) izanye umuyoboro (Qur'an) n'idini by'ukuri, kugira ngo arisumbishe andi madini yose. Kandi **Allah** arahagije kuba umuhamya.

29. Muhamadi ni Intumwa ya **Allah**. Kandi ba bandi bari kumwe na we, bari inkazi ku bahakanyi (igihe babasagariye), bakaba abanyempuhwe hagati yabo. Ubabona bunamye banubamye (basali), bashaka ingabire za **Allah** ndetse no kwishimirwa (na We). Barangwa n'ikimenyetso kiri mu buranga bwabo (baterwa no kubama basali). Ibi ni byo bibaranga muri Tawurati. Ariko mu Ivanjili, bagaragazwa nk'ikimera cyasohoye umugondoro wacyo, hanyuma ugakomera maze (amashami yacyo) akagikomeza, kigakura kugeza gihagaze cyemye ku ruti rwacyo mu buryo bushimisha abahinzi. (Urwo rugero rw'abemeramana) rugamije kurakaza abahakanyi. **Allah** yasezeranyije abemeye bakanakora ibikorwa byiza, kuzabarirwa ndetse no kuzagororerwa ibihembo bihambaye.

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ  
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الَّذِينَ كُلُّهُمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ  
شَهِيدًا ﴿٢٨﴾

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشَدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ  
رَحْمَاءٌ بَيْنَهُمْ رَّحْمَةٌ لِّعَسْجَدَارِيَّتِهِمْ فَضْلًا مِّنْ  
اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ آثَرِ السُّجُودِ  
ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي الْتَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَرْبَعَ  
أَخْرَجَ شَطْهُهُ، فَاقْرَأَهُ، فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى  
سُوقِهِ يُعِجبُ الْرُّزَاعَ لِتَغْيِيرِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللَّهُ  
الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا أَصْبَاحَتِهِمْ مِّنْهُمْ مَغْفَرَةً  
وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾

## 49 - SURAT AL HUJRATI

(IBYUMBA)

Yahishuriwe i Madina, igizwe n'imirongo 18.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Yemwe abemeye! Ntimukajye mugira ibyo mufataho ibyemezo mbere ya Allah n'Intumwa ye. Kandi mujye mugandukira Allah; mu by'ukuri Allah ni Uwumva bihebuje, Umumenyi uhebuje.

2. Yemwe abemeye! Ntimukajye murangurura amajwi yanyu ngo muce mu ijambo Umuhanuzi (Muhamadi) igihe ari kuvuga, kandi ntimukajye muzamura amajwi yanyu igihe muvugana na We nk'uko mubigenza hagati yanyu; kugira ngo ibikorwa byanyu bitazaba imfabusa mutabizi.

3. Mu by'ukuri ba bandi bacisha bugufi amajwi yabo imbere y'Intumwa ya Allah; ni bo Allah yejeje imitima kubera kumugandukira. Bazababarirwa banahabwe ibihembo bihambaye.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُقْدِمُوا يَنْ يَدِي اللهِ  
وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١﴾

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُ أَصْوَاتَكُمْ فَوَقَ  
صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرٍ بَعْضُكُمْ  
لِبَعْضٍ أَنْ تَخْبَطْ أَعْمَالُكُمْ وَإِنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٢﴾

إِنَّ الَّذِينَ يَعْضُلُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ  
أُولَئِكَ الَّذِينَ أَمْتَحَنَ اللهُ فُلُوْبُهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ  
مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٣﴾

4. Mu by'ukuri ba bandi baguhamagara (mu ijwi riranguruye) bari inyuma y'urugo (iwawe); abenshi muri bo nta bwenge bagira.

5. Nyamara iyo baza kwihangana kugeza usohotse ubasanga, byari kuba byiza kuri bo. **Allah** ni Ubabarira ibyaha, Nyirimpuhwe.

6. Yemwe abemeye! Inkozi y'ibibi niramuka ibazaniye inkuru, mujye mushishoza kugira ngo mudahohotera abantu mutabizi, maze mukaza kwicuza ibyo mwakoze.

7. Kandi mumenye ko Intumwa ya **Allah** iri muri mwe. Iyo iza kubumvira muri byinshi, mwari kuba mu bizazane. Ariko **Allah** yabakundishije ukwemera anagutaka mu mitima yanyu, abangisha ubuhakanyi n'ubwangizi ndetse no kwigomeka. Abo ni bo bayobotse by'ukuri.

8. Izo ni ingabire n'inema bya **Allah**, kandi **Allah** ni Umumenyi uhebuje, Nyirubugenge buhambaye.

9. Kandi amatsinda abiri y'abemeramana naramuka arwanye, mujye tuyunga, ariko rimwe muri yo niryigomeka ku rindi (nyuma yo kungwa), mujye

إِنَّ الَّذِينَ يُتَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجَّارَاتِ  
أَكَثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخُرُّ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ  
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ يُنَبِّئُكُمْ بِأَنَّ  
تُصْبِيُوا قَوْمًا بِمَهْلَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ  
نَذِيرًا ﴿٦﴾

وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيهِمُ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنْ  
الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ  
وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفَّرُ  
وَالْفُسُوقُ وَالْعُصْبَيَانُ أَوْلَئِكَ هُمُ الْرَّاشِدُونَ ﴿٧﴾

فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٨﴾

وَإِنْ طَابَتِ النِّعَمَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْتَلُوا فَأَصْلِحُوا  
بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِلَهَدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا  
أُلَّا تَبْغِي حَتَّىٰ تَبِعَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَآتَتْ فَأَصْلِحُوا

murirwanya kugeza ubwo rigarukiye itegeko rya Allah. Niryisubiraho, mujye mubunga mu butabera mutabogamye. Mu by'ukuri Allah akunda abatabogama.

10. Mu by'ukuri abemeramana ni abavandimwe. Bityo, mujye mwunga abavandimwe banyu (igihe bashyamiranye), kandi mugandukire Allah kugira ngo mugirirwe impuhwe.

11. Yemwe abemeye! Ntihakagire abantu basuzugura abandi, kuko hari ubwo (abasuzuguwe) baba ari bo beza kubarusha. Kandi n'abagore ntibagasuzugure abagore bagenzi babo, kuko hari ubwo (abasuzuguwe) baba ari bo beza kubarusha. Ntimugasebanye kandi ntimugahimbane amazina mabi (atesha agaciro abandi). Mbega ukuntu ari amazina mabi (kuyita bagenzi banyu) nyuma y'uko mubaye abemeramana! Kandi ba bandi baticuza, abo ni bo nkozi z'ibibi.

12. Yemwe abemeye! Mujye mwirinda kenshi gukeka (bagenzi banyu), kuko rimwe na rimwe gukeka ari icyaha. Kandi ntimukanekane<sup>213</sup> cyangwa ngo musebanye. Ese umwe muri

بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْبِرُهُولَبِينَ أَخْوَيْكُمْ

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرَحَّمُونَ

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىَ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا يَسْأَءُ مِنْ نِسَاءٍ مِّنْ نِسَاءٍ عَسَىَ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَتَبَرَّزُوْا بِالْأَلْقَبِ بِسْنَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتَبَتَّ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَجْتَبْنُوْا كَثِيرًا مِّنَ الظَّلَمِ إِنَّ بَعْضَ الظَّالِمِ إِثْمٌ وَلَا يَجْسَسُوْا وَلَا يَغْتَبُ بَعْضُكُمْ

<sup>213</sup> Uyu murongo urabuza abantu gucukumbura no gushaka kumenya ibyo abandi babahishe batifuza ko babimenya.

mwe yakwemera kurya inyama y'umuvandimwe we wapfuye? (Ntawabyemera!) Ngaho nimubireke kandi mugandukire **Allah**. Mu by' ukuri, **Allah** ni Uwakira bihebuje ukwicuza, Nyirimbabazi.

13. Yemwe bantu! Twabaremye tubakomoye ku mugabo n'umugore, nuko tubagira amahanga n'amoko (atandukanye) kugira ngo mumenyane. Mu by'ukuri ubarusha icyubahiro imbere ya **Allah** ni ubarusha kugandukira (**Allah**). Rwose **Allah** ni Umumenyi uhebuje, Uzi byose.

14. Abarabu bo mu cyaro (batuye mu butayu) baravuze bati "Twaremeye!" Vuga (yewe Muhamadi) uti "Ntimuremera, ahubwo nimuvuge muti twabaye Abayisilamu", kuko ukwemera kutarinjira mu mitima yanyu. Ariko nimwumvira **Allah** n'Intumwa ye, nta cyo azagabanya mu bikorwa byanyu. Mu by'ukuri **Allah** ni Ubabarira bihebuje, Nyirimbabazi.

15. Mu by'ukuri abemeramana nyabo ni abemeye **Allah** n'Intumwa ye, hanyuma ntibashidikanye (ku byo bemeye), bakanaharanira inzira ya **Allah** bakoresheje imitungo

بَعْضًا أَيْحَبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهُتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ قَوْابُ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذِكْرٍ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِيلَ لِعَارِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ كُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَقْنَعُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَّمِيرٌ ﴿١٣﴾

قَالَتِ الْأَغْرَابُ إِمَّا نَاقُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسَأْمَنَا وَلَمَّا يَدْخُلُ الْأَيَمَنَ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتُكُمْ مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِمَّا مُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَأُوا وَجَاهُدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّابِدُونَ ﴿١٥﴾

yabo n'ubuzima bwabo. Abo ni bo banyakuri.

16. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Ese murigisha **Allah** iby'idini ryanyu mu gihe **Allah** azi ibiri mu birere n'ibiru mu isi? Kandi **Allah** ni Umumenyi uhebuje wa buri kintu.”

17. Barakuratira ko babaye Abayisilamu (nk'aho ari wowe bifitiye akamaro)? Vuga uti “Mwindatatira ubuyisilamu bwanyu (mwibwira ko ari njye bufitiye akamaro). Ahubwo **Allah** ni We wabagiriye ubuntu abayobora mu kwemera niba koko muri abanyakuri.”

18. Mu by'ukuri **Allah** azi ibitagaragara byo mu birere no mu isi. Kandi **Allah** ni Ubona bihebuje ibyo mukora.

قُلْ أَتَعْلَمُونَ اللَّهَ يَدِينَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي  
السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِ

١٦

يَمُؤْمِنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُؤْنُ عَلَى  
إِسْلَامِكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُؤْنُ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَذَا كُلُّ  
لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

١٧

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ  
بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

١٨

## 50- SURAT QAAF

Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirongo 45

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1.Qaaf<sup>214</sup>. Ndahiye iyi Qur'an  
yuje ikuzo.

قَ وَالْقُرْءَانُ الْمَجِيدُ ﴿١﴾

2. Ahubwo batangajwe n'uko  
umuburizi yaje aturutse muri  
bo. Bityo abahakanyi baravuga  
bati "Iki ni ikintu gitangaje."

بَلْ يَعْجُلُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذُرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ  
هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٢﴾

3. Ese nidupfa tugahinduka  
igitaka (tuzazurwa)? Uko  
kugaruka kuri kure  
(ntikwabaho).

إِذَا مِنَّا وَكَثُرَابَاذِلَّكَ رَجَعٌ بَعِيدٌ ﴿٣﴾

4. Rwose tuzi neza icyo ubutaka  
bugenda bugabanyaho (ku  
mibiri yabo igihe bari mu mva).  
Kandi dufite igitabo kirinzwe  
(kibitse buri kintu).

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْصُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعَنَّدَنَا كِتَابٌ  
حَفِيظٌ ﴿٤﴾

5. Nyamara bahinyuye ukuri  
ubwo kwabageragaho; bityo,  
barahuzagurika (ntibashobora  
gutandukanya ukuri  
n'ikinyoma).

بَلْ كَذَبُوا بِالْحَقِّ لَمَاجَأَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ ﴿٥﴾

6. Ese ntibitegereza ikirere kiri  
hejuru yabo uko twacyubatse

أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوَقَهُمْ كَيْفَ بَيْتَهَا  
وَزَيَّنَهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ﴿٦﴾

<sup>214</sup> Inyuguti nk'izi twazivuzeho mu masura yatambutse.

maze tukanagitaka, kikaba nta  
n'imyenge gifite?

7. N'isi twarayishashe maze tuyishimangiza imisozi, nuko tuyimezaho buri bwoko bw'ibimera bushimishije.

8. (Ibi twabikoze kugira ngo bibe) isomo n'urwibutso kuri buri mugaragu (wa Allah) wicuza.

9. Twanamanuye amazi yuje imigisha (imvura) aturutse mu kirere, maze tuyameresha imirima n'impeke zisarurwa,

10. N'imitende miremire ifite amaseri ahekeranye neza,

11. Kugira ngo bibe amafunguro ku bagaragu banjye. Tunayahesha ubuzima ubutaka bwapfuye. Uko ni ko izuka ry'abapfuye rizagenda.

12. Mbere yabo (abahakanyi b'i Maka), abantu ba Nuhu n'abari baturiye iriba rya Rasi ndetse n'abantu bo mu bwoko bwa Thamudu bahinyuye Intumwa zabo,

13. N'aba Adi na Farawo ndetse n'abavandimwe ba Lutwi (Loti),

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَالْقَيْنَاءِ فِيهَا رَوَىٰ وَأَنْبَثَنَا فِيهَا

مِنْ كُلِّ زَفَّاجٍ بِهِمْجٍ ﴿٧﴾

تَبَصَّرَهُ وَذِكْرَهُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَدِّكًا فَانْبَثَنَا بِهِ جَنَّاتٍ

وَحَبَّ الْحَصِيدِ ﴿٨﴾

وَالنَّحْلَ يَا سَقَاتِ لَهَا طَلْعٌ تَضَيِّدُ ﴿٩﴾

رِزْقًا لِلْعَبَادِ وَأَحَيَّنَا بِهِ بَلَدَةً مَّيَّتًا كَذَلِكَ الْحَرْوُجُ ﴿١٠﴾

۱۰

كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمٌ نُوحٌ وَاصْحَابُ الرَّبِّيْسِ وَثَمُودُ ﴿١١﴾

وَعَادٌ وَفَرْعَوْنُ وَلَجْوَنُ وَطِّ ﴿١٢﴾

14. N'abantu ba Ayikat (b'i Madiyani), n'abantu ba Tubba'i (abami bo mu gihugu cya Yemeni) bose bahinyuye Intumwa zabo, maze mbasohorezaho isezerano ryanjye (ryo kubahana).

15. Ese twaba twarananijwe n'ukurema kwa mbere (ku buryo ukurema kwa kabiri kwatunanira)? Ahubwo bari mu gushidikanya ku kurema gushya (izuka).

16. Mu by'ukuri twaremye umuntu kandi tuzi ibyo umutima we umwoshya. Kandi tumuri bugufi kurusha umutsi w'ubuzima (wo mu ijosi; ujyana amaraso mu bwonko).

17. (Zirikana) ko abakira babiri (abamalayika bashinzwe gukurikirana umuntu), bakira (ibyo avuga n'ibyo akora); umwe yicaye iburyo undi ibumoso.

18. (Umuntu) nta jambo na rimwe yavuga ngo habure umugenzi umuri hafi (uryandika).

19. Kandi ibimenyetso bibimburira urupfu bigaragaza ukuri bizaza nta kabuza.. (Maze abwirwe ati) “Ibyo ni byo wajyaga wihunza”.

وَأَحَبُّ الْأَيْكَةَ وَقَوْمٌ تَّبَعُ كُلُّ كَذَبٍ أَرْسَلَ فَقَرَأَ

وَعِيدٌ ١٤

أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبَسٍ مِّنْ حَقَّ

جَدِيدٌ ١٥

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَمُ مَا تُوسِّعُ بِهِ نَفْسُهُ وَ

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ١٦

إِذْ يَتَّلَقَّ الْمُتَّلَقِيَّانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الْشِّمَالِ قَيْدٌ

١٧

مَا يَفِئُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَيْدٌ ١٨

وَجَاءَتْ سَكُونُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحْيِدُ

١٩

20. Nuko impanda nivuzwa, uwo ni wo uzaba ari umunsi w'ibihano (umunsi w'izuka).

وَفُنِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ﴿٢٠﴾

21. Buri muntu azaza ari kumwe n'(umumalayika) umushoreye ndetse n'(umumalayika) umushinja.

وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَأِيقٌ وَشَهِيدٌ ﴿٢١﴾

22. (Umunyabyaha azabwirwa ati) "Rwose wari mu burangare (utita) kuri ibi, ariko twagukuyeho igikingirizo (cyakingirizaga umutima wawe), none uyu munsi amaso yawe yatyaye (arabona byose)."

لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفَلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ

فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿٢٢﴾

23. Umusangirangendo we (malayika umushinzwe) azavuga ati "Iki (ni cyo gitabo cy'ibikorwa bye) gitunganyije mfite."

وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَى عَيْنِي ﴿٢٣﴾

24. (Allah azabwira abo bamalayika bombi ati) "Nimujugunye mu muriro wa Jahanamu buri muhakanyi wigometse",

الْقِيَافِي جَهَنَّمَ كُلُّ هَفَارٍ عَنِيدٌ ﴿٢٤﴾

25. Ubangamira ibyiza, urengera kandi ushidikanya,

مَنَاعَ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِمٌ بِي ﴿٢٥﴾

26. Wa wundi wabangikanyije Allah n'indi mana. Nimumujugunye mu bihano bikaze.

الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخْرَ قَلِيقَاهُ فِي الْعَذَابِ

الشَّدِيدِ ﴿٢٦﴾

27. Mugenzi we (Shitani) azavuga ati "Nyagasani wacu!

\*قَالَ قَرِينُهُ وَرَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنَّ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ

Sinamuyobeje, ahubwo we yari mu buyobe buri kure (y'ukuri)."

28. (**Allah** azavuga ati) "Mwijya impaka imbere yanje kandi narababuriye mbere (ko hazabaho) ibihano",

29. "Iwanjye ijambo ntirihindurwa, kandi sinjya mpuguza abagaragu banjye."

30. Zirikana umunsi tuzabwira umuriro wa Jahanamu tuti "Ese wuzuye?" Maze uvuge uti "Ese hari inyongera (y'abandi ngo mubampe)?"

31. Kandi ijuru rizegerezwa abagandukira **Allah**.

32. (Bazabwirwa bat) "Iri (juru) ni ryo mwajyaga musezeranywa; (rigenewe) buri wese wicuza cyane kuri **Allah**, akanitwararika (ku mategeko ye),

33. Wa wundi utinya **Allah** Nyirimpuhwe atamubona, ndetse akaza afite umutima wicuza.

34. (Bazabwirwa bat) "Nimuryinjiremo (Ijuru) mu mahoro. Uyu ni umunsi w'ubuzima buzahoraho."

35. Bazabonamo ibyo bashaka byose, kandi iwacu hari

قَالَ لَا تَحْتَصِمُوا لَدَيْ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ

٢٨

مَا يَبْدِلُ الْقَوْلُ لَدَيْ وَمَا أَنَا بِظَلِيمٍ لِلْعَيْدِ

يَوْمَ تَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلْ أَمْتَلَّتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَنِيدِ

٣٠

وَأَزْلَفْتِ الْجَنَّةَ لِلْمُتَقِينَ عَيْرَ بَعِيدِ

هَذَا مَا نُوعَدُونَ كُلُّ أُوَابٍ حَفِظِ

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ

أَدْخُلُوهَا سَلَمٌ ذَلِكَ يَوْمُ الْحُلُودِ

لَهُمْ مَا يَسْأَلُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَنِيدٌ

n'inyongera (yo kubona Allah imbonankubone).

36. Ese ni ibisekuru bingahe tworetse mbere yabo, byabarushaga ubukana! Byari byarakwiriye mu bihugu byinshi bishaka ubuhungiro?

37. Mu by'ukuri muri ibyo harimo urwibutso k'ufite umutima, cyangwa uteze amatwi kandi akaba n'umuhamya (wita ku bintu).

38. Rwose twaremye ibirere n'isi n'ibiru hagati yabyo mu minsi itandatu, kandi ntitwagize umunaniro.

39. Bityo, (yewe Muhamadi) jya wihanganira ibyo bavuga, unasingize ikuzo rya Nyagasani wawe mbere y'uko izuba rirasa na mbere y'uko rirenga.

40. Ndetse no mu ijoro ujye umusingiza, na nyuma yo kubama (nyuma y'iswala).

41. Kandi uzatege amatwi umunsi uhamagara (Malayika uzavuza impanda), azahamagarira hafi.

42. Umunsi bazumva urusaku rw'impanda y'ukuri, uwo uzaba ari umunsi w'izuka.

وَكَمْ أَهْلَكَنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ

بَطْشَافَقَبُوْا فِي الْبَلْدِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ

أَلْفَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ

وَلَقَدْ حَلَقَنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَنْهَا مَا فِي

سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُؤُوبٍ

فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ حَمْدَ رَبِّكَ قَبْلَ

طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ

وَمِنْ أَلَيْلٍ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَرْ السُّجُودِ

وَاسْتَمْعْ يَوْمَ يَنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ

يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمٌ

الْحُرُوجُ

43. Mu by'ukuri ni twe dutanga ubuzima tukanabwisubiza, kandi iwacu ni ho garukiro.

إِنَّا نَحْنُ نُحْكِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ ﴿٤٣﴾

44. Umunsi isi izabasadukiraho, bakavamobihuta. Uko kuzabaari ukubakoranya koroshye kuri twe.

يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا  
يَسِيرٌ ﴿٤٤﴾

45. Tuzi neza ibyo bavuga kandi wowe (Muhamadi) ntugomba kubahatira kwemera. Ahubwo wibutse wifashishije Qur'an wa wundi utinya ibihano byanje.

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا آنَتْ عَلَيْهِمْ بِجَارٍ فَذَرْ  
بِالْقُرْءَانِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ ﴿٤٥﴾

### 51 - SURAT ADHARIYAT

(IMIYAGA)

*Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirongo 60.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Ndahiye imiyaga ihuha cyane igatatanya (ibicu, ikazamura ivumbi, umusenyi n'ibindi).

وَالْذَّرِيَّاتِ دَرَوْا ﴿١﴾

2. N'ibyikoreye imitwaro (ibicu biremereye bitwara imvura).

فَلِلْحَمْكَاتِ وَقَرَا ﴿٢﴾

3. N'ibigenda mu buryo bworoshye (amato agenda mu nyanja).

فَالْجَرِيكَاتِ يُسْرَا ﴿٣﴾

4. N'abashinzwe gukwirakwiza igeno (abamalayika).

فَالْمُؤْسَمَكِ أَمْرًا ﴿١﴾

5. Mu by'ukuri ibyo musezeranywa (izuka n'i bindi bizaba ku munsi w'imperuka) ni impamo.

إِنَّمَا نَعْدُونَ لَصَادِقٍ ﴿٢﴾

6. Kandi rwose, kuzagororerwa (cyangwa guhanwa ku bakoze ibibi) bizabaho nta kabuza.

وَلَئِنِ الَّذِينَ لَوْفَعُ ﴿٣﴾

7. Ndahiye ikirere kirimo amayira gikoze neza.

وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الْحُجُبِ ﴿٤﴾

8. Rwose mufite imvugo zitandukanye (ku byerekeye Intumwa Muhamadi ndetse n'iyyi Qur'an).

إِنَّكُمْ فِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ﴿٥﴾

9. Uteshwa (gukurikira Qur'an n'Intumwa Muhamadi) ni uwateshejwe (gukurikira ukuri).

يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفَاكَ ﴿٦﴾

10. Abanyabinyoma baravumwe,

قُتْلَ الْخَرَّاصُونَ ﴿٧﴾

11. Ba bandi bari mu bujiji, barangaye,

الَّذِينَ هُرُّ فِي عَمَرَةِ سَاهُونَ ﴿٨﴾

12. Barabaza igihe umunsi w'ibihembo uzabera,

يَسْأَلُونَ آيَانَ يَوْمَ الْيَمِينِ ﴿٩﴾

13. (Uzaba ari) umunsi bazaba bari mu muriro bahanwa.

يَوْمَ هُرُّ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ﴿١٠﴾

14. (Bazabwirwa bat) "Ngaho nimwumve ibihano byanyu; ibi ni byo mwajyaga musaba ko byihutishwa."

ذُو هُرُّ فِتَنَتُكُمْ هَذَا الَّذِي كُتُمْ بِهِ سَتَعْجِلُونَ ﴿١١﴾

15. Mu by'ukuri abagandukira Allah bazaba bari mu busitani n'amariba (yo mu Ijuru),

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٥﴾

16. Bakira ibyo Nyagasani wabo yabahaye. Mu by'ukuri mbere bari abakora ibyiza;

ءَاجِزِينَ مَا ءَاتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحَسِّنِينَ ﴿١٦﴾

17. Bajyaga baryama gake mu ijoro (kubera ko babaga basali, basingiza Nyagasani wabo),

كَانُوا قَلِيلًا مِنَ الْيَلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾

18. No mu gicuku (mu rukerera babaga) basaba imbabazi (Allah),

وَبِالْأَسْحَارِ هُنَّ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾

19. No mu mitungo yabo, habagamo umugabane bagenera abakene basaba n'abihishira.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلصَّابِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

20. No ku isi hari ibimenyetso ku bemera badashidikanya,

وَفِي الْأَرْضِ إِيْنَتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾

21. Ndetse no muri mwe ubwanyu (ibyo bimenyetso birimo). Ese ntimubona?

وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا يُبَصِّرُونَ ﴿٢١﴾

22. No mu kirere hari amafunguro yanyu ndetse n'ibyo musezeranywa.

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقٌ كُلُّ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿٢٢﴾

23. Bityo, ndahiye ku izina rya Nyagasani w'ikirere n'isi ko (ibyo musezeranywa) ari ukuri nko kuvuga kwanyu.

فَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ مِّثْلَ مَا أَنْكُمْ تَطْلِقُونَ ﴿٢٣﴾

24. Ese wamenye iby'inkuru y'abashyitsi ba Aburahamu b'abanyacyubahiro?

هَلْ أَتَنَاكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ الْمُكَرَّمِينَ ﴿٢٤﴾

25. Ubwo binjiraga iwe bakavuga bati "mugire amahoro (salamu!)" Nuko akavuga ati "Salamu, bantu batazwi."

إِذْ دَخَلُوا عَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَّمَ قَمْ مُنْكَرُونَ ﴿٢٥﴾

26. Nuko arinyabya asanga ab'iwe, azana inyana ibyibushye (inyama z'inyana yokeje).

فَأَغْرَى إِلَى أَهْلِهِ بَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴿٢٦﴾

27. Maze arazibegereza, (abonye batarambura amaboko ngo barye) aravuga ati "Ese nta bwo murya?"

فَقَرَّبَ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَكُونُونَ لُؤْنَ ﴿٢٧﴾

28. Nuko arabishisha (abonye batariye). Baravuga bati "Humura!" Hanyuma bamuha inkuru nziza (yo kuzabyara umwana) w'umuhungu uzaba afite ubumenyi (ku bijyanye na Allah).

فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِفَةً قَالُوا لَا تَحْقِّقْ وَيَسِّرْ رُوْهُ بِعُلْمِ عَلِيهِ ﴿٢٨﴾

29. Nuko umugore we aza yiyamira, akubita agashyi mu buranga bwe (atangara), aravuga ati "Umukecuru w'urubereri!"

فَأَقْبَلَتِ اُمَّرَاتُهُ وَفِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَبْرُ عَقِيمٍ ﴿٢٩﴾

30. Baravuga bati "Uko ni ko Nyagasani wawe yavuze. Mu by'ukuri ni Nyirubugenge buhambaye, Umumenyi uhebuje."

قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٣٠﴾

31. (Aburahamu) aravuga ati “None ni iki kibagenza yemwe mwa ntumwa mwe?”

\* قَالَ فَمَا خَطَبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٢١﴾

32. Baravuga bati “Rwose twoherejwe ku bantu b'inkozi z'ibibi”,

قَالُوا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٢٢﴾

33. Kugira ngo tubamanurireho amabuye y'ibumba (yacaniriwe).

لِرَسُولٍ عَيْهِ حِجَارَةٌ مِّنْ طِينٍ ﴿٢٣﴾

34. (Ayo mabuye) yashyizweho ibimenyetso kwa Nyagasani wawe, akaba ari igihano ku barengera (imbago za Allah).

مُسَوَّمَةً عِنْدَ رِبَّكَ لِمُسْرِفِينَ ﴿٢٤﴾

35. Nuko abemeramana (bari mu mudugudu w'inkozi z'ibibi) tuwubakuramo (kugira ngo ibihano bitabageraho).

فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٥﴾

36. Ariko nta n'abo twasanzemo uretse inzu imwe y'Abayisilamu (urugo rw'Intumwa Loti).

فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا عَيْرَبَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٢٦﴾

37. Nuko (nyuma yo kuwurimbura) tuwusigamo ikimenyetso ku batinya ibihano bibabaza.

وَتَرَكَنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٢٧﴾

38. No mu nkuru ya Musa (harimo isomo), ubwo twamwoherezaga kwa Farawo tumuhaye ibimenyetso n'ububasha bigaragara.

وَفِي مُوسَىٰ إِذَا أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فَرْعَوْنَ بِسُلْطَنٍ مُّبِينٍ ﴿٢٨﴾

39. Ariko Farawo yishingikirije ububasha yari afite, atera umugongo (yanga kwemera ubutumwa yari azaniwe),

فَوَلَّ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ وَّمَجْنُونٌ ﴿٢٩﴾

aravuga ati "Uyu ni umurozi cyangwa umusazi."

40. Nuko tumufatana n'ingabo ze maze tubajugunya mu nyanja kandi agayitse (kubera ibikorwa bye by'ubuhakanyi).

فَأَخْذَنَاهُ وَجُنُودَهُ وَبَنَادِئَهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿٤٣﴾

41. No mu nkuru y'aba Adi (harimo isomo), ubwo twaboherezaga umuyaga ugumbahaye (udafite icyiza na kimwe, usenya nta cyo usize),

وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ الْيَحْيَى الْعَقِيمَ ﴿٤٤﴾

42. Nta cyo wasigaga mu byo wahuraga na byo utakigize umuyonga.

مَا تَدَرُّ مِنْ شَيْءٍ أَتَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْنَاهُ كَلَّرَمِيمٍ ﴿٤٥﴾

43. No mu nkuru y'aba Thamudu (harimo isomo) ubwo babwirwaga bati "Nimwishimishe by'igihe gito."

وَفِي شَمُودٍ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَّتُوا حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٤٦﴾

44. Ariko bigometse ku itegeko rya Nyagasani wabo, maze bakubitwa n'ikibatsi cy'umuriro w'inkuba bareba.

فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخْذَنَهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ

﴿٤٧﴾

45. Ntibashoboraga guhaguruka (ngo bahunge) cyangwa ngo bitabare.

فَمَا أَسْتَطَعُوا مِنْ قِيَامٍ مَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ ﴿٤٨﴾

46. N'abantu ba Nuhu (ni uko twabagenje) mbere. Mu by'ukuri bari abantu b'ibygomeke.

وَقَوْمٌ نُوحٌ مِنْ قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٤٩﴾

47. Kandi ikirere twacyubakanye imbaraga, kandi mu by'ukuri nitwe tucyagura.

وَالْسَّمَاءَ بَيْنَهَا يَأْيِدِيهَا وَلَنَا الْمُوْسَعُونَ ﴿٥٠﴾

48. N'isi twarayishashe; kandi ni twe dusasa neza!

وَالْأَرْضَ فَرَشَنَا هَا فِيْعَمَ الْمَهِدُونَ ﴿٤٨﴾

49. No muri buri kintu twaremyemo amoko abiri (ikigabo n'ikigore, iburyo n'ibumoso, hasi no hejuru,...) kugira ngo mwibuke (ubushobozi bwa Allah).

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

50. Bityo, nimuhungire kwa Allah. Mu by'ukuri njye (Muhamadi) ndi umuburizi wanyu ugaragara umuturutseho.

فَرُوْأَ إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مَنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾

51. Kandi ntuzabangikanye Allah n'ikigirwamana icyo ari cyo cyose. Mu by'ukuri njye (Muhamadi) ndi umuburizi wanyu ugaragara umuturutseho.

وَلَا يَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخَرَ إِنِّي لَكُمْ مَنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥١﴾

52. Ni nk'uko, nta ntumwa n'imwe yageze ku babayeho mbere yabo ngo babure kuvuga bati "Ni umurozi cyangwa umusazi!"

كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مَنْ رَسُولٌ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجِنُونٌ ﴿٥٢﴾

53. Ese (imvugo nk'izi) baraziherekanyaga? (Oya, si uko bimeze), ahubwo bose bari abantu barengera (imbibi za Allah).

أَتَوْاصُوْيْهِ بِلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٥٣﴾

54. Bityo (yewe Muhamadi) birengagize kandi ntuzabigayirwa (kuko wamaze gusohoza ubutumwa).

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ﴿٥٤﴾

55. Unibutse kuko mu by'ukuri urwibutso rugirira akamaro abemeramana.

56. Kandi nta kindi naremeye amajini n'abantu bitari ukugira ngo bangaragire.

57. Simbakeneyeho amafunguro, ndetse nta n'ubwo mbakeneyeho ko bangaburira.

58. Mu by'ukuri **Allah** ni We Utanga amafunguro, Nyirimbaraga, Ukomeye bihebuje.

59. Kandi rwose abakora ibibi bazagira umugabane (w'ibihano) umeze nk'umugabane wa bagenzi babo (abababanjirije); bityo, bareke kunsaba kwihutisha (kubahana).

60. Ibihano bikomeye bizaba kuri ba bandi bahakanye bitewe n'umunsi basezeranyijwe.

وَذَكْرٌ فِيْ إِنَّ الْذِكْرَ تَنَفَّعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾

وَمَا خَلَقْتُ الْحَنَّ وَالْإِنْسَانَ لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

مَا أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أَرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ ﴿٥٧﴾

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّاقِ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾

فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنْبُهُمْ كَثِيرٌ ذُنُوبٌ أَصَحَّ حِلْمٌ فَلَا

يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥٩﴾

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي

يُوعَدُونَ ﴿٦٠﴾

## 52 - SURAT A-TWUUR

(UMUSOZI)

Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirongo 49.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Ndahiye Umusozi wa Twuur<sup>215</sup>.

وَأَطْوَرٌ ﴿١﴾

2. N'igitabo cyanditse (Qur'an),

وَكَتَبَ مَسْطُورٌ ﴿٢﴾

3. Ku mpapuro zikozwe mu ruhu (rusukuye) ruramburwa (kugira ngo gisomwe).

فِي رَقٍ مَّنْشُورٍ ﴿٣﴾

4. N'ingoro (yo mu ijuru) ihora isurwa (n'abamalayika).

وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ﴿٤﴾

5. N'igisenge gihanitse (ikirere).

وَالسَّقِيفُ الْمَرْفُوعُ ﴿٥﴾

6. N'inyanja zibirinduye (ku munsi w'imperuka)

وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ﴿٦﴾

7. Mu by'ukuri ibihano bya Nyagasani wawe bizabaho nta kabuza,

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوْقُعٌ ﴿٧﴾

8. Ntagishobora kuzabikumira.

مَالَهُ وَمَنْ دَافَعَ ﴿٨﴾

9. Umunsi ikirere kizatigita umutingito (ukomeye).

يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ﴿٩﴾

<sup>215</sup> Twuur ni izina ry'umusozi wa Sinayi Allah yavugishirijeho Intumwa ye Musa ndetsé anawumuheraho amategeko.

10. N'imisozi ikagenda (nk'uko ibicu bigenda).

وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيَرًا ﴿١﴾

11. Kuri uwo munsi ibihano bikomeye bizaba ku bahinyuye (ukuri),

فَوَيْلٌ يَوْمٌ مِّنْ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١١﴾

12. Ba bandi bahugira mu kwishimisha mu biganiro byuzuye ibinyoma, bidafite akamaro.

الَّذِينَ هُمْ فِي حَوْضٍ يَلْعَبُونَ ﴿١٢﴾

13. Umunsi bazasunikirwa mu muriro wa Jahanamu ku ngufu.

يَوْمَ يُدَعَوْنَ إِلَى نَارٍ جَهَنَّمَ دَعَّا ﴿١٣﴾

14. (Bazabwirwa batii) “Uyu ni wo muriro mwajyaga muhinyura.”

هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿١٤﴾

15. Ese ibi (bihano mubona) ni uburozi cyangwa ntimubona?

أَسْخَرُهُنَا أَنَّمَا أَنْتُمْ لَا تُصْرُونَ ﴿١٥﴾

16. Ngaho nimuhiremo, kandi mwabyihanganira cyangwa mutabyihanganira, byose ni kimwe kuri mwe. Mu by'ukuri (ibyo muri kubona) ni ibihembo by'ibyo mwakoraga.

أَصْلَاهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ

إِنَّمَا تُخَزِّنُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

17. Mu by'ukuri abagandukira (**Allah**) bazaba bari mu busitani n'inema (bihoraho).

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴿١٧﴾

18. Binezeza mu byo Nyagasani wabo yabahaye, ndetse no kuba Nyagasani wabo yabarinzze ibihano by'umuriro.

فَلِكِيهِنَّ بِمَا آتَهُمْ رَبُّهُمْ وَقَدْ هُمْ رَبُّهُمْ عَذَابٌ

الْجَحِيمُ ﴿١٨﴾

19. (Bazabwirwa batii) “Nimurye munanywe kandi mugubwe

كُلُّهُوا شَرِبُوا هَنِيَّا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾

neza kubera ibyo mwajyaga mukora.”

20. Bazaba begamye ku bitanda bitondetse ku murongo. Tuzanabashyingira Huur ul-a'in (abagore bo mu Ijuru b'igikundiro, b'amaso manini).

21. Naho ba bandi bemeye maze ababakomokaho bakabakurikira mu kwemera, tuzabahuza n'ababakomotseho (mu ijuru), kandi nta cyo tuzigera tugabanya mu bikorwa byabo. Buri muntu azabazwa ibyo yakoze.

22. Tuzabaha imbuto n'inyama (by'amoko yose) bazajya bifuza.

23. Bazajya bahererekanyamo ibirahure by'ikinyobwa kitazabatera kuvuga amagambo adafite akamaro cyangwa ngo kibatere gukora ibyaha.

24. Bazaba bazengurukwamo n'abahungu b'abahereza babo, bameze nk'inigi zishashagirana (Lu'ulu'u) zikiri mu bubiko bwazo.

25. Bamwe muri bo bazajya bahindukira barebe bagenzi babo, babazanya,

26. Bavuga bati “Mbere (ku isi) twabaga turi mu miryang'o yacu

مُتَكَبِّنَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَرَوْجَنَهُمْ بِحُورٍ

عَيْنٌ ٢٠

وَالَّذِينَ ءامَنُوا وَاتَّبَعُوهُمْ دُرِّيَتُهُمْ بِإِيمَنِ الْحَقِّ  
بِهِمْ دُرِّيَتُهُمْ وَمَا أَلْتَهُمْ مِنْ عَمَالِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ

أُمْرٍ يُمِيزُ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ٢١

وَأَمَدَّنَهُمْ بِفَلَكَهَةٍ وَلَحْمٍ مَمَّا يَشَاءُهُنَّ ٢٢

يَتَنَزَّلُ عَوْنَ فِيهَا كَاسَالًا لَغَوْ فِيهَا وَلَا تَأْشِمُ ٢٣

\* وَيَطْوُفُ عَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَانُوكُمْ لُؤْلُؤٌ

مَكْنُونٌ ٢٤

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ٢٥

قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ

dufite ubwoba n'impungenge (z'ibihano bya Allah)",

27. "None Allah yatugororeye, aturinda ibihano by'umuriro utwika."

فَمَنْ أَنْهَا اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَنَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴿٢٧﴾

28. Mu by'ukuri mbere twajyaga tumusenga (wenyine). Rwose ni We Mugiraneza, Nyirimbabazi.

إِنَّا كُنَّا مُتَّسِعِينَ قَبْلُ نَدْعُوكُمْ إِنَّهُ هُوَ أَبْرَارُ الرَّحِيمِ ﴿٢٨﴾

29. Bityo, (yewe Muhamadi) komeza wibutse! Mu by'ukuri ku bw'ingabire za Nyagasani wawe (zo kuba warahawe ubutumwa), ntabwo uri umupfumu cyangwa umusazi (nk'uko babivuga).

فَذَكِّرْ فِيمَا آتَيْتَ بِنَعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ﴿٢٩﴾

30. Ahubwo (abahakanyi) baravuga bati "(Muhamadi) ni umusizi, reka tumutege iminsi (azapfe nk'uko abandi basizi bapfuye)!"

أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ تَرَبَّصُ بِهِ رَبِّ الْمَنْوِنِ ﴿٣٠﴾

31. Babwire uti "Ngaho nimutegereze, mu by'ukuri ndi kumwe namwe mu bategereje."

فُلْ تَرَبَّصُوا فِي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبَّصِينَ ﴿٣١﴾

32. Cyangwa imitekerereze yabo ni yo ibategeka (kuvuga) ibyo? Cyangwa ahubwo ni abantu barengera (imbibi za Allah)?

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحَلَّمُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٣٢﴾

33. Ndetse bavuga ko (Qur'an) yayihimbiye? (Oya), ahubwo ntibemera!

أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ وَبَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾

34. Ngaho nibazane inkuru zimeze nk'iziyivugwamo

فَلَيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مُثِلَّهٍ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٣٤﴾

(Qur'an), niba koko ari abanyakuri.

35. Ese (bibwira ko) baremwe nta cyo bakomowemo, cyangwa ni bo baremyi?

أَمْ خَلَقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿٣٥﴾

36. Cyangwa bibwira ko baremye ibirere n'isi? Ahubwo ntibizera!

أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُؤْقِنُونَ ﴿٣٦﴾

37. Cyangwa bibwira ko bafite ibigega bya Nyagasan i wawe? Cyangwa ni bo bagenga (b'isi, bakora ibyo bashaka)?

أَمْ عِنْدَهُمْ خَرَائِينَ رِبَّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ ﴿٣٧﴾

38. Cyangwa bibwira ko bafite urwego buririraho (bajya mu ijuru) ngo bumvirize ibivugirwayo? Ngaho umwumviriza wabo nazane ibimenyetso simusiga!

أَمْ لَهُمْ سُلْطَانٌ يَسْتَمْعُونَ فِيهِ فَلَيَأْتُ مُسْتَمِعُهُمْ ﴿٣٨﴾

بِسْلَطْنٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾

39. Cyangwa bibwira ko (**Allah**) afite abakobwa, mwe mukagira abahungu?

أَمْ لَهُ الْبَنَتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ﴿٣٩﴾

40. Cyangwa bibwira ko (wowe Muhamadi) ubasaba igihembo, none bakaba baremererwa n'ubwishyu?

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمِ مُنْقَلُونَ ﴿٤٠﴾

41. Cyangwa bibwira ko bazi ibiyishe, bakaba babyandika (badakeneye ibyo ubabwira)?

أَمْ عِنْدَهُمْ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿٤١﴾

42. Cyangwa icyo bashaka ni ubugambanyi? Nyamara abahakanye ni bo bazahanirwa ubugambanyi bwabo.

أَمْ يُرِيدُونَ كِيدَافَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ﴿٤٢﴾

43. Cyangwa bafite indi mana itari Allah? Ubutagatifu ni ubwa Allah kandi nta ho ahuriye n'ibyo bamubangikanya na byo.

أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشَرِّكُونَ ﴿٤٣﴾

44. N'yo baza kubona igice cy'ikirere kigwa hasi, bari kuvuga bati "Ni igicu gicucitse!"

وَإِنْ يَرْوَأْ كُفَّارًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابَةٌ  
مَّرْكُومٌ ﴿٤٤﴾

45. Bareke kugeza ubwo bazahura n'umunsi wabo, aho bazagwa igihumure bagapfa (kubera ibihano).

فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلْقَوْا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿٤٥﴾

46. Umunsi imigambi mibisha yabo itazagira icyo ibamarira, ndetse nta n'ubwo bazatabarwa.

يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كِيدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٤٦﴾

47. Kandi mu by'ukuri abakora ibibi bazahanishwa ibindi bihano (ku isi) mbere y'ibyo (ku munsi w'imperuka); ariko abenshi muri bo ntibabizi.

وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَدَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكَثَرَهُمْ

لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٧﴾

48. Bityo (yewe Muhamadi), ihanganire itegeko rya Nyagasani wawe, kuko mu by'ukuri tuguhanzeho amaso. Ndetse unasingize ikuzo rya Nyagasani wawe igihe ubyutse (ugiye gusali),

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ إِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ

حِينَ تَقُومُ ﴿٤٨﴾

49. No mu ijoro ujye umusingiza, ndetse n'igihe urumuri rw'inyenyeri ruba rugenda rukendera.

وَمِنْ أَلَيْلٍ فَسِّحْهُ وَإِذْلَالَ النُّجُومِ ﴿٤٩﴾

## 53 - SURAT A-NAJM

(INYENYERI)

Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirongo 62

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Ndahiye inyenyeri igihe irenga!

وَالنَّجْمٌ إِذَا هَوَىٰ ﴿١﴾

2. (Ko uyu) mugenzi wanyu (Intumwa Muhamadi) atigeze ayoba ndetse ko atigeze anateshuka (ku nzira y'ukuri).

مَاضِلَ صَاحِبُكُو وَمَاغُوئِي ﴿٢﴾

3. Nta n'ubwo avuga ashingiye ku marangamutima ye.

وَمَا يَنْقِعُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٣﴾

4. Ahubwo (ibyo avuga) ni ibyo ahishurirwa (na Allah).

إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾

5. Yigishijwe (iyi Qur'an) n'umunyembaraga cyane (Malayika Jibrilu),

عَلَمَهُ وَشَدِيدُ الْفُوَىٰ ﴿٥﴾

6. Ufite ububasha kandi utagira inenge, wagragariye (Intumwa Muhamadi) mu ishusho ye y'ukuri,

ذُو مَرَّةٍ فَأَسْتَوَىٰ ﴿٦﴾

7. Ubwo (Malayika Jibrilu) yari mu kirere cyo hejuru.

وَهُوَ بِالْأَقْعُدِ الْأَعْلَىٰ ﴿٧﴾

8. Nuko yegera (Intumwa Muhamadi), maze aramanuka akomeza kuyegera,

ثُمَّ دَنَقَدَلَّ ﴿٨﴾

9. (Yamwegereye) mu ntera ingana n'iri hagati y'amahembe abiri y'umuheto cyangwa bugufi kurushaho.

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدَنِ ﴿٩﴾

10. Nuko (**Allah**) ahishurira umugaragu we (Muhamadi, abinyujije kuri Malayika Jibrilu) ibyo yagombaga kumuhiburira byose.

فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ﴿١٠﴾

11. Umutima (wa Muhamadi) ntiwigeze ubeshya ku byo wabonye.

مَا كَذَبَ الْفُؤُادُ مَارَأَىٰ ﴿١١﴾

12. None se muramugisha impaka ku byo yabonye (ubwo yazamukaga mu ijuru rya karindwi)?

أَفَتَمْرُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴿١٢﴾

13. Kandi rwose (Muhamadi) yaramubonye (Malayika Jibrilu) ubwo yamanukaga ku yindi nshuro,

وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿١٣﴾

14. Ubwo yari kuri Sidrat-il-Muntaha (Igit cya nyuma)<sup>216</sup>,

عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُتَّهَىٰ ﴿١٤﴾

15. Ni na ho hari ubuturo bw'ijuru (ry'abemeramana).

عِنْدَ هَا جَنَّةَ الْمَأْوَىٰ ﴿١٥﴾

16. Ubwo icyo gitii (Sidrat) cyatwikirwaga n'ibyagitwikiriye (urumuri rutangaje).

إِذْ يَعْشَىٰ سِدْرَةً مَا يَعْشَىٰ ﴿١٦﴾

17. Indoro (y'Intumwa y'Imana) ntiyigeze itana, cyangwa ngo

مَازَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴿١٧﴾

<sup>216</sup> Sidratil-Mun'taha: Ni igiti kiri hafi ya Ar'shi, cyiswe igiti cya nyuma kuko nta kiremwa na kimwe kikirenga.

irengere (imbibi yari  
yashyiriweho).

18. Mu by'ukuri (Intumwa Muhamadi) yabonye bimwe mu bitangaza bihambaye bya Nyagasani wayo.

لَقَدْ رَأَىٰ مِنَ إِيمَانِهِ أَكْبَرَىٰ ﴿١٨﴾

19. Ese ntimutekereza (ku bigirwamana musenga); Laata na Uza,

أَفَرَأَيْتُمْ اللَّهَ وَالْعَزَىٰ ﴿١٩﴾

20. Ndetse na Manaata, ikindi (kigirwamana) cya gatatu?

وَمِنْهُ أَثَاثَةُ الْآخَرَىٰ ﴿٢٠﴾

21. Ese mwibwira ko mufite abana b'abahungu naho We (**Allah**) akagira ab'abakobwa?

الْكَوْدُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأَنْتَىٰ ﴿٢١﴾

22. Iryo ryaba ari igabana ribogamye.

تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيَرَىٰ ﴿٢٢﴾

23. Ibyo (bigirwamana) nta kindi biri cyo usibye kuba ari amazina masa mwabihimbiye, mwe n'abakurambere banyu, **Allah** atigeze abahera uburenganzira. Rwose nta kindi bakurikira kitari ugukekeranya ndetse n'ibyo imitima (yabo) irarikira. Kandi mu by'ukuri bagezweho n'umuyoboro uturutse kwa Nyagasani wabo.

إِنْ هَيِّإِلَّا أَسْمَاءُ سَمَيَّتُوهَا أَنْتُمْ وَإِبْرَاهِيمَ كُمَا أَنْزَلَ  
اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنُّ وَمَا  
تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءُهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ ﴿٢٣﴾

24. Ese (mutekereza ko) umuntu yabona ibyo yifuza byose?

أَمْ لِلْإِنْسَنِ مَا تَمَنَّىٰ ﴿٢٤﴾

25. **Allah** ni We Mugenga w'ubuzima bw'imperuka n'ubw'isi.

فَلَلَّهِ الْأَكْرَبُ وَالْأَوَّلِ ﴿٢٥﴾

26. None se ni bangahe mu bamalayika bari mu birere, ubuvugizi bwabo butazigera bugira icyo bumara **Allah** atabanje kubitangira uburenganzira bikagirira akamaro uwo ashatse kandi yishimira?

27. Mu by'ukuri abatemera imperuka bita abamalayika amazina y'igtsina gore,

28. Kandi ibyo nta bumenyi babifitiye. Ndetse nta kindi bakurikira kitari ugukekeranya, kandi rwose ugukeka nta cyo kuvuze imbere y'ukuri.

29. Bityo, irengagize wa wundi wateye umugongo urwibutso rwacu nta kindi ashaka uretse ubuzima bw'isi.

30. (Ibyo bavuga) ni ho ubumenyi bwabo bugarukira. Mu by'ukuri Nyagasani wawe ni We uzi neza uwayobye inzira ye, kandi ni na We uzi neza abayobotse.

31. Kandi ibiri mu birere n'ibiri mu isi ni ibya **Allah**, (yashyizeho ayo mategeko) kugira ngo ahane inkozi z'ibibi kubera ibyo zakoze, ndetse anahembe ibyiza (ijuru) abakora ibyiza,

\*وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُقْنِي شَفَعَتُهُمْ

شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذِنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَتَرْضَى ﴿٦﴾

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيَسْمُونَ الْمَلَائِكَةَ

سَمِيَّةَ الْأَنْثَى ﴿٧﴾

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَعْلَمُونَ إِلَّا الظَّنُّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا

يُعْنِي مِنْ أَنْ لَقِ شَيْئًا ﴿٨﴾

فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَا يُرِيدُ إِلَّا الْحَيَاةَ

الْمُدُنِيَا ﴿٩﴾

ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ

سَيِّلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ أَهْتَدَى ﴿١٠﴾

وَلَلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْرِيَ الَّذِينَ

أَسْفَرُ أَيْمَانِهِمْ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴿١١﴾

32. Ba bandi birinda ibyaha bikomeye n'ibikozasoni uretse kuba bagwa mu byaha byoroshye; mu by'ukuri imbabazi za Nyagasan wawe ziragutse. Ni We ubazi neza kuva yabarema abakuye mu gitaka, n'igihe mwari insoro muri nyababyeyi za ba nyoko. Bityo, ntimukigire abere kuko ari We uzi neza umugandukira.

33. Ese (yewe Muhamadi) wabonye wa wundi wateye umugongo (akanga kumvira Allah)?

34. Akanatanga bike (mu byo twamuhaye), nyuma akabireka burundi?

35. Ese yaba afite ubumenyi bw'ibitagaragara akaba abona (ko ibyo Intumwa Muhamadi yahishuriwe atari ukuri)?

36. Cyangwa ntiyabwiwe ibiri mu bitabo bya Musa,

37. Ndetse n'ibiri mu bya Ibrahimu wasohoje ubutumwa,

38. Ko nta we uzikorera umutwaro w'undi,

39. Kandi ko nta cyo umuntu azabona (ku munsi w'imperuka) usibye ibyo yashyizemo umuhate,

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَتَبَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ وَالْفَوَاحِشُ إِلَّا أَلَّمَ  
إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذَا نَشَأْتُمْ  
مِّنَ الْأَرْضِ فَإِذَا أَنْتُمْ أَجْحَنَّةٍ فِي بُطُونِ أَمْهَاتِكُمْ فَلَا  
تُنْكِرُوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّ  
ۚ

وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْثَرَ

أَعْنَدَهُ عِلْمٌ الْغَنِيُّ فَهُوَ يَرَىٰ

أَمْمَمْ يُبَاتَ بِمَا فِي صُحْفِ مُوسَىٰ

وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَقَ

الْأَتَرِزُ وَازِرَةٌ وَزَرَ أُخْرَىٰ

وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنْسَنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

40. Kandi ko umuhate we uzagaragara (ku munsi w'imperuka).

وَإِنَّ سَعِيَهُ وَسَوْفَ يُرَأَىٰ ﴿٤١﴾

41. Maze akazabihemberwa ibihembo byuzuye.

ثُمَّ يُخْزَنُهُ الْجَرَاءُ الْأَوَّلُ ﴿٤٢﴾

42. Kandi ko iherezo (rya buri kintu) ari kwa Nyagasan wawe.

وَإِنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ ﴿٤٣﴾

43. Kandi ko ari We (**Allah**) utera guseka (kwishima) no kurira (kubabara).

وَإِنَّهُ هُوَ صَاحِبُ وَابْنَىٰ ﴿٤٤﴾

44. No kuba ari We wisubiza ubuzima ndetse akanabutanga.

وَإِنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ﴿٤٥﴾

45. No kuba ari we waremye ibitsina byombi, gabu na gore,

وَإِنَّهُ خَاقَ الرَّزْجَيْنِ الْدَّكَرَ وَالْأُثْنَيْنِ ﴿٤٦﴾

46. Mu ntanga igihe zisohowe.

مِنْ نُطْقَةٍ إِذَا نُمْتَنَى ﴿٤٧﴾

47. No kuba ari We uzarema bundi bushya (azura abapfuye),

وَإِنَّهُ عَلَيْهِ التَّشَاهُدُ الْأُخْرَىٰ ﴿٤٨﴾

48. No kuba ari We utanga ubukungu akanatuma abantu bagira ibyo bigezaho,

وَإِنَّهُ هُوَ عَنِي وَأَقْنَىٰ ﴿٤٩﴾

49. No kuba ari We Nyagasan wa Shi'ira<sup>217</sup>,

وَإِنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ ﴿٥٠﴾

50. No kuba ari We woretse aba Adi bo hambere,

وَإِنَّهُ شَوَّاهِدَ الْأَوَّلَىٰ ﴿٥١﴾

51. N'aba Thamudu ntiyagira uwo asigaza,

وَتَمُودُ دَفْمَانَّا بَقِىٰ ﴿٥٢﴾

<sup>217</sup>Shi'ira ni inyenyeri Abarabu b'ababangikanyamana bajyaga basenga mbere y'Ubuyisilamu.

52. Na mbere yabo, (yoretse) abantu ba Nuhu. Mu by'ukuri bari inkozi zibibi bakaba n'abarengera (amategeko ya Allah) bikabije.

وَقَوْمٌ نُوحٌ مِنْ قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظَلَمُ وَأَطْغَى

٥٦

53. Ndetse n'imidugudu (ya Sodoma) yibirinduwe, ni We wayibirinduye (ibyari hasi bijya hejuru n'ibyari hejuru bijya hasi).

وَالْمُؤْتَفَكَةُ أَهْوَى

فَغَشَّهَا مَا غَشَّى

فِي أَيِّ الْأَعْرِيَكَ تَتَمَارَى

هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى

54. Nuko (iyo midugudu) itwikirwa n'ibayitwikiriye (ibihano bigizwe n'amabuye).

55. None se (yewe muntu) ni izihe nema za Nyagasani wawe ushidikanyaho (ko atari ize)?

56. Uyu (Muhamadi) ni umwe mu (ruhererekane rw') ababurizi bo hambere.

57. Umunsi w'imperuka uregereeje.

58. Nta kindi cyawukumira usibye Allah (ushobora kuwihutisha cyangwa akawutinza).

لَيَسْ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ

أَفَمِنْ هَذَا الْحِدِيثِ تَعْجَبُونَ

وَتَضَحَّكُونَ وَلَا تَكُونُونَ

59. None se mutangajwe n'aya magambo (ya Qur'an)?

60. Mukaba museka (muyihakana) aho kurira!

61. Muhugiyē mu bibarangaza!

وَأَنْتُمْ سَلِيمُونَ ﴿٦﴾

62. Bityo, nimwubamire Allah  
munamugaragire (wenyine).

فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ﴿٦﴾

#### 54 - SURAT AL-QAMAR

(UKWEZI)

*Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirongo 55*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Igihe cy'imperuka kiregereje  
ndetse n'ukwezi  
kwarasadutse<sup>218</sup>.

أَفَرَيَتَ أَلْسَانَهُ وَأَنْشَقَ الْقَمَرَ ﴿١﴾

2. N'iyo (abahakanyi) babonye  
igitangaza, batera umugongo  
bakavuga bati “Ubu ni uburozi  
bugikomeje!”

وَإِنْ يَرَوْا إِيمَانَهُ يَعْرِضُوا وَيَقُولُوا إِسْحَارُ مُسَتَّرٍ ﴿٢﴾

3. Barahakanye banakurikira  
irari ryabo, kandi buri kintu  
kizagira iherezo.

وَكَذَّبُوا وَأَتَبَعُوا هَوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقْرٌ ﴿٣﴾

4. Kandi rwose bagezweho  
n'inkuru zibabuza (gukora  
ibibi),

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ أَلْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزَاجٌ ﴿٤﴾

<sup>218</sup> Gusaduka k'ukwezi kuvugwa muri uyu murongo, ni kimwe mu bitangaza Intumwa y'lmana Muhamadi yetetse abahakanyi b'i Maka, ubwo bayihinyuraga bayisaba ko yabereka igitangaza; maze isaba Allah kuyiha icyo gitangaza, nuko ibereka ukwezi kwasadutse. Kikaba ari na kimwe mu bimenyetsa bizabanziriza umunsi w'imperuka.

5. (Izo nkuru ziri muri Qur'an) zuje ubushishozi buhebuje, ariko uko kubaburira nta cyo kwabamariye.

حَكْمَةٌ بَلَغَهُ فَمَا تَعْنِي النُّذُرُ ﴿٦﴾

6. Bityo (yewe Muhamadi), birengagize kandi (unabitutse) umunsi umuhamagazi azahamagarira kugana ku kintu kibi cyane (gucirwa urubanza ku munsi w'imperuka),

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكَرٍ ﴿٦﴾

7. Bazaba bubitse amaso (kubera ikimwaro), basohoka mu mva bameze nk'inzige zinyanyagiye.

خُشَّعًا أَبْصَرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَانَهُمْ جَرَادٌ

مُنْتَشِرٌ ﴿٧﴾

8. Bihuta bagana uhamagara. Abahakanyi bazavuga bat "Uyu ni umunsi ugoye."

مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ

﴿٨﴾

9. Na mbere yabo, abantu ba Nuhu bahinyuye umugaragu wacu, maze baravuga bat "Ni umusazi", ndetse aranamaganwa.

\*كَذَّبُتْ قَبْلَهُمْ قَوْمٌ نُوحٌ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ

وَأَذْدِرَ ﴿٩﴾

10. Nuko asaba Nyagasani we (agira ati) "Rwose njye naneshejwe, ngaho tabara!"

فَدَعَاهُهُ وَأَتَى مَغْلُوبٍ فَأَنْتَصَرَ ﴿١٠﴾

11. Nuko dufungura amarembo y'ikirere, hamanuka amazi yisuka ari menshi.

فَفَتَحْنَا لَهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ لِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ ﴿١١﴾

فُدِرَ ﴿١٢﴾

12. Nuko isi tuyikuramo amasoko, maze amazi (yo mu nsi no hejuru) arahura ku bw'itegeko ryagenwe.

وَفَجَرَنَا الْأَرْضُ عُيُونَا فَأَلْتَقَى الْمَاءَ عَلَى أَمْرٍ قَدْ

13. Maze (Nuhu) tumutwara mu gikozwe mu mbaho n'imisumari (inkuge).

وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْوَاحِدِ وَدُسُرِ<sup>١٣</sup>

14. Cyagendaga (hejuru y'amazi) tugihanze amaso; (ibyo) biba igihembo cy'uwo bahakanye.

تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَرَاءَ لِمَنْ كَانَ كُفَّارَ<sup>١٤</sup>

15. Rwose (iyi nkuru ya Nuhu twarayiretse ngo ibe ikimenyetso (n'isomo ku bazaza nyuma ye). Ese hari uwibuka (ngo bimugirire akamaro)?

وَلَقَدْ تَرَكَنَا إِيمَانَهَا إِيَّاهُ فَهَلْ مِنْ مُّذَكَّرِ<sup>١٥</sup>

16. Mbega uko ibihano byanje no kuburira kwanje byari bimeze!

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ<sup>١٦</sup>

17. Kandi rwose Qur'an twarayoroheje kugira ngo ibe urwibutso. Ese hari uwibuka (ngo bimugirire akamaro)?

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّذَكَّرِ<sup>١٧</sup>

18. Aba Adi bahinyuye (Intumwa yabo Hudu); mbega uko ibihano byanje no kuburira kwanje byari bimeze!

كَذَبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ<sup>١٨</sup>

19. Mu by'ukuri twabohereje inkubi y'umuyaga uvuza ubuhuha ku munsi w'amakuba akomeye,

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرِّصَرًا فِي يَوْمٍ نَّحِسٍ مُّسْتَمِرٍ<sup>١٩</sup>

20. Uterura abantu bakamera nk'ingiga z'ibiti by'imitende byaranduwe.

تَنْزَعُ النَّاسُ كَانُوكُمْ أَعْجَابٌ خَلِ مُنْقَعِرٍ<sup>٢٠</sup>

21. Mbega uko ibihano byanje no kuburira kwanje byari bimeze!

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ<sup>٢١</sup>

22. Kandi rwose Qur'an twarayoroheje kugira ngo ibe urwibutso. Ese hari uwibuka (ngo bimugirire akamaro)?

وَلَقَدْ يَسَرَنَا الْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّذَكَّرٍ ﴿٦﴾

23. Aba Thamudi bahinyuye kuburira (kwacu)

كَذَبَتْ شَمُودٌ بِالنَّذْرِ ﴿٣﴾

24. Nuko baravuga bat "Ese ni gute twafata umuntu umwe unadukomokamo ngo tube ari we dukurikira? Rwose ubwo twaba turi mu buyobe n'ubusazi!"

فَقَالُوا أَبْشِرَا مِنَّا وَحِدًا نَّبِعُهُ إِنَّا إِذَا لَغَى صَلَلٍ

وَسَعْيٌ ﴿٤﴾

25. Ese ubu koko urwibutso ni we wenyine muri twe rwahawe? Ahubwo we ni umubeshyi akaba n'umwibone.

أَعْلَقَ الْذِكْرَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنَ أَبْلَهُوكَذَابٌ أَشْرٌ ﴿٥﴾

26. Bidatinze bazamenya umubeshyi w'umwibone uwo ari we.

سَيَعْلَمُونَ غَدَامِنْ الْكَذَابُ الْأَكْثَرُ ﴿٦﴾

27. Tugiyе kuboherereza ingamiya (y'ingore) kugira ngo tubagerageze; bityo bagenzure unabihanganire.

إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةَ فِتْنَةً لَّهُمْ فَأَرْتَقِبُهُمْ

وَاصْطَبِرْ ﴿٧﴾

28. Unababwire ko amazi bagomba kuyasangira na yo (ingamiya); buri wese azajya agira igihe cye cyo kuyanywaho.

وَنَنْهَمُنَ الْمَاءَ قِسْمَةً بَيْنَهُمْ كُلُّ شَرِّ مُخْضَرٌ ﴿٨﴾

29. Ariko bahamagaye mugenzi wabo (afata inkota) arayica.

فَنَادَوْصَاحِبِهِمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ﴿٩﴾

30. Mbega uko ibihano byanjye no kuburira kwanjye byari bimeze!

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيَ وَنُدُرِ ﴿١٠﴾

31. Mu by'ukuri twabohererereje urusaku rumwe gusa, maze bamera nk'ibyatsi byumye byaribaswe.

32. Kandi rwose Qur'an twarayoroheje kugira ngo ibe urwibutso. Ese hari uwibuka (ngo bimugirire akamaro)?

33. Abantu ba Lutwi bahinyuye kuburira (kwacu),

34. Twabohererereje inkubi y'umuyaga uvanze n'amabuye (ubarimbura bose), usibye gusa umuryango wa Lutwi twarokoye mu rukerera,

35. (Ibyo twabikoze) ku bw'ingabire ziduturutseho. Uko ni ko duhemba ushimira.

36. Nyamara (Lutwi) yari yarababuriye ko bazahura n'ibihano byacu, nuko bashidikanya kuri uko kuburira (kwacu).

37. Baranamwinginze (ngo abahe) abashyitsi be (kugira ngo babakorere ubutinganyi). Nuko tubahuma amaso (tuvuga tuti) “Ngaho nimusogongere ibihano byanje no kuburira (kwanjye)!”

38. Kandi rwose twabazindukirije mu bihano

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُوا كَهْشِيشُ

الْمُحْتَظِرٍ ٣١

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ وَهُلْ مِنْ مُذَكَّرٍ ٣٢

كَذَبَ قَوْمٌ لُّوطٌ بِالنُّذُرِ ٣٣

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا إِلَّا لُوطٌ بِجَحَّى هُ ٣٤

بِسْحَرٍ

يَعْمَلُهُ مَنْ عِنْدِنَا كَذِلِكَ تَجْزِي مَنْ شَكَرَ ٣٥

وَلَقَدْ أَنْذَرْهُمْ بِطَشْتَنَاقَمَارَقُ بِالنُّذُرِ ٣٦

عَذَابٍ وَنُذُرٍ ٣٧

وَلَقَدْ رَأَوْدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَدُوقُوا ٣٨

وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقْرٌ ٣٩

bikomeza (kuzageza ku munsi w'imperuka).

39. Ngaho nimusogongere ibihano byanje no ku byo najaga mbaburira!

فَذُو قُوْمٌ عَذَابِيٌ وَنَذْرٌ ﴿٣٩﴾

40. Kandi rwose Qur'an twarayoroheje kugira ngo ibe urwibutso. Ese hari uwibuka (ngo bimugirire akamaro)?

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُذَكَّرٍ ﴿٤٠﴾

41. Kandi rwose kuburira (kwanjye) kwageze ku bantu ba Farawo,

وَلَقَدْ جَاءَ إِلَيْنَا أَلْفِرْعَوْنَ الْنَّذْرُ ﴿٤١﴾

42. Bahinyuye ibitangaza byacu byose, nuko turabafata tubahanisha ibihano by'Umunyacyubahiro bihebuje, Ushobora byose.

كَبُرُوا بِمَا يَتَنَاهَا كُلُّهَا فَأَخْذُوهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٤٢﴾

٤٢

43. Ese abahakanyi banyu (b'i Maka) ni bo beza kurusha abo (abantu ba Adi, aba Thamudi, aba Nuhu n'aba Farawo, boretswe)? Cyangwa mufite ubudahangarwa bwanditse mu bitabo (bwo kutazahanwa)?

أَكُفَّارٌ كُفُّارٌ مَنْ أُولَئِكُمْ أَمْلَكُ بَرَآءَةً فِي الْأَنْزُرِ ﴿٤٣﴾

44. Cyangwa (abo bahakanyi) baravuga bat "Twe turi benshi dushyize hamwe, dushoboye kwitabara!"

أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ حَمِيمٌ مُّنْتَصِرٌ ﴿٤٤﴾

45. Nyamara abo bishyize hamwe bazatsindwa banayabangire ingata.

سَيْهَمْرُ الْجَمْعُ وَيُؤْلُونَ الدُّبُرَ ﴿٤٥﴾

46. Ahubwo umunsi w'imperuka ni cyo gihe basezeranyijwe (cyo kuzahanirwaho), ndetse imperuka izaba iteye ubwoba cyane kandi irura.

بِلِ السَّاعَةِ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمْرٌ

47. Mu by' ukuri, inkozi z'ibibi ziri mu buyobe (hano ku isi) kandi zizahanishwa umuriro utwika!

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعْرٍ

48. Umunsi uburanga bwabo buzakururirwa mu muriro (bazabwirwa bati) “Ngaho nimwumve igihano cy'umuriro.”

يَوْمَ يُسَجَّلُونَ فِي الْنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ

سَقَرَ

49. Mu by'ukuri buri kintu twakiremye ku rugero twagennye (igeno ryacyo).

إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ

50. Kandi itegeko ryacu ni (ijambo) rimwe; (ryihuta) nko guhumbya no guhumbura.

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَحْدَةٌ كَلَمْجَ بِالْبَصَرِ

51. Kandi rwose tworetse abantu bameze nkamwe (mu buhakanyi). Ese hari uwibuka (ngo bimugirire akamaro)?

وَلَقَدْ أَهْلَكَنَا آثِيَاعًا كُفَّهَلٌ مِنْ مُذَكَّرٍ

52. Kandi buri kintu cyose bakoze cyandikwaga mu bitabo (by'ibikorwa byabo).

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الْزُّبُرِ

53. Na buri kintu, cyaba gito cyangwa kinini, kiranditse.

وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ

54. Mu by'ukuri abagandukira Allah bazaba bari mu busitani n'imigezi (Ijuru),

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ

55. Mu byicaro by'icyubahiro,  
hafi y'Umwami, Ushobora byose.

فِي مَقْعَدٍ صَدِيقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِيرٍ ﴿٦﴾

### 55 - SURAT A-RAHMAN

(NYIRIMPUHWE)

*Yahishuriwe i Madina, igizwe n'imirono 78.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Nyirimpuhwe (Allah),

الرَّحْمَنُ ﴿١﴾

2. Yigishije (umuntu) Qur'an,

عَلَمَ الْقُرْءَانَ ﴿٢﴾

3. Yaremye umuntu,

حَكَّ الْإِسْنَانَ ﴿٣﴾

4. Amwigisha gusobanura (mu buryo bwumvikana).

عَلَمَ الْبَيَانَ ﴿٤﴾

5. Izuba n'ukwezi bigendera ku mubare (no kuri gahunda ya Allah).

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ كُلَّ سَبَابِينَ ﴿٥﴾

6. N'ibyatsi birandaranda ndetse n'ibiti, byose birubama (bikicisha bugufi imbere ya Allah).

وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَا نَ ﴿٦﴾

7. N'ikirere yagihanitse hejuru cyane (y'isi) ndetse ashyiraho n'ibipimo (bya buri kintu)

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ أَمْيَزَانَ ﴿٧﴾

8. Kugira ngo mutarengera mu bipimo (byagenwe).

أَلَا أَنْطَعَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾

9. Bityo, mujye mutanga ibipimo byuzuye kandi ntimukibishe iminzani.

وَأَقِيمُوا الْوَرْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

٩

10. N'isi (**Allah**) yayishyiriye ho ibiremwa.

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا الْأَنَامُ ﴿١٠﴾

11. Irimo imbuto n'imitende ifite imbuto zitwikiriwe n'bishishwa,

فِيهَا فِكْهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْعَامِ ﴿١١﴾

12. Ndetse n'impeke ziri mu bishishwa (byazo); iz'inyamisogwe n'izihumura.

وَالْحُبُّ ذُو الْعَصْفِ وَأَيْمَانُ

١٢

13. None se (yemwe bantu namwe majini) ni iyihe mu ngabire za Nyagasan wanyu mwembi muhakana?

فِيَّ إِلَّا إِرِيكُمَاتُكَذِبَانٍ ﴿١٣﴾

14. (**Allah**) yaremye umuntu (Adamu) mu itaka ryumye ukomangaho rikirangira nk'ibikoresho bibumbye mu ibumba,

خَلَقَ الْإِنْسَنَ مِنْ صَلْصَلٍ كَلْفَخَارٍ ﴿١٤﴾

١٤

15. Anarema amajini mu birimi by'umuriro.

وَهَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِيجٍ مِنْ نَارٍ ﴿١٥﴾

١٥

16. None se (yemwe bantu namwe majini) ni iyihe mu ngabire za Nyagasan wanyu mwembi muhakana?

فِيَّ إِلَّا إِرِيكُمَاتُكَذِبَانٍ

١٦

17. (Ni We) Nyagasan w'Uburasirazuba bubiri akaba

رَبُّ الْمَسْرِقَنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَنِ ﴿١٧﴾

١٧

na Nyagasan  
w'Uburengerazuba bubiri<sup>219</sup>.

18. None se (yemwe bantu namwe majini) ni iyihe mu ngabire za Nyagasan wanyu mwembi muhakana?

فِيَأَيِّهِ الَّذِي رَبُّكُمَا تَكُونُ بَانِ ﴿١٨﴾

19. Yaretse inyanja ebyiri (ifite amazi y'urubogobogo n'indi y'urwunyunu) zirahura;

مَنْحَ أَبْحَرْنِ يَلْقِيَانِ ﴿١٩﴾

20. Hagati yazo hari urubibi zitarenga (ruzitandukanya kugira ngo zitivanga).

بِئْنَهُمَا بَرَزَ لَيَعْيَانِ ﴿٢٠﴾

21. None se (yemwe bantu namwe majini) ni iyihe mu ngabire za Nyagasan wanyu mwembi muhakana?

فِيَأَيِّهِ الَّذِي رَبُّكُمَا تَكُونُ بَانِ ﴿٢١﴾

22. Muri zo havamo amasaro arabagirana (Lu-ul-u-u) na Marijani<sup>220</sup>.

يَخُوْجُ مِنْهُمَا الْقُوْلُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾

23. None se (yemwe bantu namwe majini) ni iyihe mu ngabire za Nyagasan wanyu mwembi muhakana?

فِيَأَيِّهِ الَّذِي رَبُّكُمَا تَكُونُ بَانِ ﴿٢٣﴾

24. Kandi (**Allah** ni We) ufite ububasha ku mato manini agendera mu nyanja, ameze nk'imozi.

وَلَهُ الْجَوَارُ الْمُشَكَّثُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَمِ ﴿٢٤﴾

<sup>219</sup> Uburasirazuba bubiri buvugwa muri uyu murongo wa Qur'an, ni ahantu izuba rirasira mu itumba n'aho rirasira mu Mpeshyi. Naho Uburengerazuba bubiri ni ahantu izuba rirengera mu itumba ndetse n'aho rirengera mu Mpeshyi.

<sup>220</sup> Mar'jaani: Ni bumwe mu bwoko bw'amabuye y'agaciro aboneka mu mazi.

25. None se (yemwe bantu namwe majini) ni iyihe mu ngabire za Nyagasanzi wanyu mwembi muhakana?

فِي أَيِّ الْأَرِبَكِ مَا تَكَذِّبَانِ ﴿٢٥﴾

26. Buri ikiyiriho (isi) cyose kizapfa,

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴿٢٦﴾

27. Maze hasigare gusa uburanga butagatifu bwa Nyagasanzi wawe, Nyirikuzo n'icyubahiro.

وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ دُوْلُجَلَلٍ وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾

28. None se (yemwe bantu namwe majini) ni iyihe mu ngabire za Nyagasanzi wanyu mwembi muhakana?

فِي أَيِّ الْأَرِبَكِ مَا تَكَذِّبَانِ ﴿٢٨﴾

29. Buri cyaremwe cyose kiri mu birere no ku isi kiramusaba (ibyo cyifuzza). Naho We buri munsi aba agena gahunda (z'ibiremwa).

يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأنٍ ﴿٢٩﴾

٢٩

30. None se (yemwe bantu namwe majini) ni iyihe mu ngabire za Nyagasanzi wanyu mwembi muhakana?

فِي أَيِّ الْأَرِبَكِ مَا تَكَذِّبَانِ ﴿٣٠﴾

31. Yemwe matsinda abiri (y'abantu n'amajini), tuzabacira imanza (ku munsi w'imperuka).

سَنَقُّعُ لَكُرْأَيْهُ الشَّقَالَانِ ﴿٣١﴾

٣١

32. None se (yemwe bantu namwe majini) ni iyihe mu ngabire za Nyagasanzi wanyu mwembi muhakana?

فِي أَيِّ الْأَرِبَكِ مَا تَكَذِّبَانِ ﴿٣٢﴾

33. Yemwe majini namwe bantu! Niba mufite ubushobozi bwo kugenda mukarenga imbagó z'ibirere n'isi (muhunga ibihano bya Allah), muzagende. Ariko ntimushobora kuzirenga keretse ku bw'ububasha (bwa Allah).

34. None se (yemwe bantu namwe majini) ni iyihe mu ngabire za Nyagasaní wanyu mwembi muhakana?

35. Muzoherezwa ikibatsi cy'umuriro n'umuringa (washongeshejwe), kandi ntimuzitabara.

36. None se (yemwe bantu namwe majini) ni iyihe mu ngabire za Nyagasaní wanyu mwembi muhakana?

37. (Mwibuke) ubwo ikirere kizasatagurika, maze kigahinduka nk'ururabo rutukura rumeze nk'amavuta yabize.

38. None se (yemwe bantu namwe majini) ni iyihe mu ngabire za Nyagasaní wanyu mwembi muhakana?

39. Kuri uwo munsi, nta muntu cyangwa ijini uzagira icyo abazwa ku bijyanye n'ibyaha bye (kuko bizaba bizwi neza)

يَمَعْشَرُ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنْ أُسْتَطَعُهُمْ أَنْ تَنْفُذُوا  
مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ  
إِلَّا إِسْلَاطِنٍ

فِيَأَيِّ الَّاءِ رِبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

تَنْصَرَانِ

فِيَأَيِّ الَّاءِ رِبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

فَإِذَا أَنْشَقَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرَدَةً كَالْهَانِ

۲۷

فِيَأَيِّ الَّاءِ رِبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

فِيَوْمٍ يُنْذَرُ لَا يُسْكَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِلَّا سَوْلَاجَانٌ

40. None se (yemwe bantu namwe majini) ni iyihe mu ngabire za Nyagasan wanyu mwembi muhakana?

فِيَأَيِّ الَّاءِ رَبِّكُمَا تَكِيدُ بَانٍ ﴿٤٣﴾

41. Inkozi z'ibibi zizamenyerwa ku bimenyetso byazo, kandi zizaterurwa zifatiwe mu bihorihori n'ibirenge byazo.

يُعرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالْتَّوَاصِي  
وَالْأَقْدَامِ ﴿٤٤﴾

42. None se (yemwe bantu namwe majini) ni iyihe mu ngabire za Nyagasan wanyu mwembi muhakana?

فِيَأَيِّ الَّاءِ رَبِّكُمَا تَكِيدُ بَانٍ ﴿٤٥﴾

43. Uyu ni umuriro wa Jahanamu inkozi z'ibibi zajyaga zihinyura!

هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٤٦﴾

44. Bazaba bagenda bagaruka hagati yawo n'amazi yatuye, ashushye cyane.

يَطْلُوُنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمَةَ أَنِّ ﴿٤٧﴾

45. None se (yemwe bantu namwe majini) ni iyihe mu ngabire za Nyagasan wanyu mwembi muhakana?

فِيَأَيِّ الَّاءِ رَبِّكُمَا تَكِيدُ بَانٍ ﴿٤٨﴾

46. Ariko wa wundi utinya kuzahagarara imbere ya Nyagasan we, azaba afite ubusitani bubiri (mu Ijuru).

وَلِمَنْ حَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ﴿٤٩﴾

47. None se (yemwe bantu namwe majini) ni iyihe mu ngabire za Nyagasan wanyu mwembi muhakana?

فِيَأَيِّ الَّاءِ رَبِّكُمَا تَكِيدُ بَانٍ ﴿٥٠﴾

48. (Ubwo busitani buzaba burimo ibiti) bifite amashami acucitse kandi atoshye.

ذَوَاتَ آفَقَانِ ﴿٤٨﴾

49. None se (yemwe bantu namwe majini) ni iyihe mu ngabire za Nyagasan wanyu mwembi muhakana?

فَيَأَيِّهَا لَاءِ رِبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٩﴾

50. Muri ubwo (busitani) bwombi, hazaba harimo amasoko abiri atemba.

فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴿٥٠﴾

51. None se (yemwe bantu namwe majini) ni iyihe mu ngabire za Nyagasan wanyu mwembi muhakana?

فَيَأَيِّهَا لَاءِ رِبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥١﴾

52. Muri ubwo (busitani) bwombi, hazaba harimo ubwoko bubiri bwa buri rubuto.

فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فِكْهَةٍ زَوْجَانِ ﴿٥٢﴾

53. None se (yemwe bantu namwe majini) ni iyihe mu ngabire za Nyagasan wanyu mwembi muhakana?

فَيَأَيِّهَا لَاءِ رِبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٣﴾

54. Bazaba begamye ku bitanda bishasheho ihariri iremereye, kandi imbuto zo muri ubwo busitani zizaba zibari hafi.

مُتَكَبِّرِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَاطِئِهَا مِنْ إِسْتَرَقٍ وَجَنَاحَ

الْجَنَّتَيْنِ دَانِ ﴿٥٤﴾

55. None se (yemwe bantu namwe majini) ni iyihe mu ngabire za Nyagasan wanyu mwembi muhakana?

فَيَأَيِّهَا لَاءِ رِبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٥﴾

56. (Ubwo busitani bwombi) buzaba burimo abagore bubika amaso yabo (kubera ikinyabupfura), batigeze bagira umuntu cyangwa ijini babakoraho kuva na mbere (bakiri amasugi).

فِيهِنَّ قَصَرَتُ الْأَطْرَافُ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ  
وَلَاجَانٌ ۝

57. None se (yemwe bantu namwe majini) ni iyihe mu ngabire za Nyagasan wanyu mwembi muhakana?

فِيَّ إِلَاءِ رِبِّكُمَا تَكَذِّبَانِ ۝

58. (Bazaba bafite ubwiza) nk'ubw'amabuye y'agaciro ya Yaquut<sup>221</sup> na Marjani.

كَانُهُنَّ أُلْيَا قُوَّتُ وَالْمَرْجَانُ ۝

59. None se (yemwe bantu namwe majini) ni iyihe mu ngabire za Nyagasan wanyu mwembi muhakana?

فِيَّ إِلَاءِ رِبِّكُمَا تَكَذِّبَانِ ۝

60. Ese hari igihembo cy'ibiza kitari ibyiza?

هَلْ جَزَاءُ الْإِلْحَسَنِ إِلَّا الْإِلْحَسَنُ ۝

61. None se (yemwe bantu namwe majini) ni iyihe mu ngabire za Nyagasan wanyu mwembi muhakana?

فِيَّ إِلَاءِ رِبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝

62. Kandi uretse n'ubwo (busitani) bubiri, hari ubundi busitani bubiri.

وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّاتٌ ۝

63. None se (yemwe bantu namwe majini) ni iyihe mu ngabire za Nyagasan wanyu mwembi muhakana?

فِيَّ إِلَاءِ رِبِّكُمَا تَكَذِّبَانِ ۝

<sup>221</sup> Yaaquut: Ni bumwe mu bwoko bw'amabuye y'agaciro rifite ibara ritukura ryererutse.

64. (Bufite) ibara ry'icyatsi cyijimye.

مُدَهَّأَتَانِ ﴿٦٥﴾

65. None se (yemwe bantu namwe majini) ni iyihe mu ngabire za Nyagasan wanyu mwembi muhakana?

فِيَّ إِلَاءِ رِبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٦﴾

66. Muri ubwo (busitani) bwombi, (naho) hazaba harimo amasoko abiri avubura amazi.

فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّا خَاتَانِ ﴿٦٧﴾

67. None se (yemwe bantu namwe majini) ni iyihe mu ngabire za Nyagasan wanyu mwembi muhakana?

فِيَّ إِلَاءِ رِبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٨﴾

68. Muri ubwo (busitani) bwombi, hazaba harimo imbuto, imitende n'imikomamanga.

فِيهِمَا فِكَهَهُ وَنَخْلُ وَرَمَانُ ﴿٦٩﴾

69. None se (yemwe bantu namwe majini) ni iyihe mu ngabire za Nyagasan wanyu mwembi muhakana?

فِيَّ إِلَاءِ رِبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٠﴾

70. Hazaba harimo abagore beza b'imico myiza.

فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حَسَانٌ ﴿٧١﴾

71. None se (yemwe bantu namwe majini) ni iyihe mu ngabire za Nyagasan wanyu mwembi muhakana?

فِيَّ إِلَاءِ رِبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٢﴾

72. Hazaba harimo abagore biyubashye bahora mu mahema.

حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَارِ ﴿٧٣﴾

73. None se (yemwe bantu namwe majini) ni iyihe mu

فِيَّ إِلَاءِ رِبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٤﴾

ngabire za Nyagasaki wanyu mwembi muhakana?

74. Mbere y'abo (bagabo bazaba bahawe), nta muntu cyangwa ijini wigeze ubakoraho,

75. None se (yemwe bantu namwe majini) ni iyihe mu ngabire za Nyagasaki wanyu mwembi muhakana?

76. (Abagabo babo) bazajya begama ku misego y'icyatsi, n'amagodora meza anepa atatse neza.

77. None se (yemwe bantu namwe majini) ni iyihe mu ngabire za Nyagasaki wanyu mwembi muhakana?

78. Izina rya Nyagasaki wawe, Nyirubuhambare n'icyubahiro, ryuje ubutungane n'imigisha.

أَرَيْطَمِثُنَّ إِنْسُوْ قَبَاهُمْ وَلَا جَانٌ ﴿٦٩﴾

فِيَأَيِّ الَّاءِ رِبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٠﴾

مُتَكَبِّرِينَ عَلَى رَفَقٍ خُضْرِ وَعَبْقَرِيٍّ حَسَانٍ

٧١

فِيَأَيِّ الَّاءِ رِبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧١﴾

بَدَرَكَ أَسْرُرِيَّكَ ذِي الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٧٢﴾

## 56 - SURAT AL WAAQI'AH

(KUGERA KW'IMPERUKA)

Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirongo 96

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Ubwo imperuka izaba igeze,

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ١

2. Nta we uzashobora guhinyura  
ukuza kwayo.

لَيْسَ لِوَقْتِهَا كَاذِبَةٌ ٢

3. Izacisha bugufi (abazajya mu  
muriro), inashyire hejuru  
(abazajya mu ijuru).

خَافِضَةٌ رَّفِيعَةٌ ٣

4. Ubwo isi izatigiswa  
n'umutingito ukomeye.

إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّا ٤

5. N'imisozi igahindurwa  
ubuvungukira.

وَبُسْتَ أَلْجَبَالَ بَسَّا ٥

6. Maze ikaba umukungugu  
utumuka.

فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثِتًا ٦

7. (Icyo gihe) muzaba muri mu  
byiciro bitatu:

وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةٌ ٧

8. Hari ab'iburyo<sup>222</sup>; abo bantu  
b'iburyo ni bantu ki?

فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ٨

9. N'ab'ibumoso; abo bantu  
b'ibumoso ni bantu ki?

وَأَصْحَابُ الْمَشْمَعَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْمَعَةِ ٩

<sup>222</sup> Abantu b'iburyo ni abakoze ibikorwa byiza, bazahabwa igitabo mu kuboko kwiburyo gikubiyemo ibikorwa bakoze bakiri ku isi. Naho ab'ibumoso ni abakoze ibikorwa bibi, bazahabwa icyo gitabo mu kuboko kwibumoso.

10. N'aba mbere (ni ababimburiye abandi mu gukurikiza amategeko ya Allah bakiri ku isi), abo bazaba ari bo ba mbere (mu kwinjira mu Ijuru).

وَالسَّدِيقُونَ السَّدِيقُونَ ﴿٦﴾

11. Abo ni bo bazaba bari hafi (ya Allah).

أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴿١١﴾

12. Mu ijuru ryuje ingabire.

فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴿١٢﴾

13. Abenshi (muri bo) bazaba ari itsinda rinini ryo mu bantu bo hambere (mbere y'Intumwa Muhamadi).

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾

14. Na bake mu bantu bo hanyuma (bakurikiye Intumwa Muhamadi).

وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿١٤﴾

15. Bazaba bari ku bitanda bitatswe na zahabu,

عَلَى سُرُّ مَوْضُونَةٍ ﴿١٥﴾

16. Babyegamyeho, berekeranye.

مُتَّكِّيٌّنَ عَلَيْهَا مُتَقَدِّلُينَ ﴿١٦﴾

17. Bazaba bazengurukwamo n'abana b'abahungu bahoraho (badasaza cyangwa ngo bapfe),

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَدُنْ مُخْلَدِوْنَ ﴿١٧﴾

18. (Bazaba babazengurutsamo) ibikombe, amabirika n'ibirahuri birimo ibinyobwa (byiza) byo mu masoko yo mu ijuru),

يَا أَكَابِ وَأَبَارِيقَ وَكَاسِ مِنْ مَعِينٍ ﴿١٨﴾

19. Ntibizabatera kurwara umutwe ndetse nta n'ubwo bizabasindisha.

لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنَزِّفُونَ ﴿١٩﴾

20. banazengurutswamo) (Bazaba imbuto bazihitiramo,

وَفِكْهَةٍ مَمَاتَتْخِيرُونَ ﴿٢٠﴾

21. Ndetse n'inyama z'inyoni bazifuza.

وَلَحْمٌ طَيْرٌ مَمَاتَتْهُونَ ﴿٢١﴾

22. Kandi (hazaba hari) ba Huur ul-a'in (abagore bo mu Ijuru b'igikundiro n'amaso manini).

وَحُورٌ عَيْنٌ ﴿٢٢﴾

23. Bameze nk'inigi zishashagirana (Lu'ulu'u) zikiri mu bubiko bwazo.

كَامْثَلَ الْوُلُوُّ الْمَكْوُنُونَ ﴿٢٣﴾

24. Bizaba ari ibihembo by'ibyo bakoraga.

جَرَاءٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾

25. Muri ryo (Ijuru) nta magambo adafite akamaro cyangwa se ayatuma bakora ibyaha bazumvamo,

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا أَغْوَى وَلَا تَأْشِمًا ﴿٢٥﴾

26. Uretse (imvugo yo kuramukanya, igira iti) "Salamu, Salamu (amahoro, amahoro)!"

إِلَيْكُمْ سَلَامًا سَلَامًا ﴿٢٦﴾

27. Naho ab'iburyo; ni bantu ki (mbega ibihembo by'abantu b'iburyo)?

وَاصْحَبُ الْيَمِينَ مَا أَصْحَبُ الْيَمِينِ ﴿٢٧﴾

28. Bazaba mu (ijuru rrimo) ibiti bya Sidiri bidafite amahwa,

فِي سِدْرٍ مَضْوِدٍ ﴿٢٨﴾

29. N'insina zifite ibitoki by'amaseri agerekeleranye,

وَطَلَحٌ مَنْضُودٌ ﴿٢٩﴾

30. No mu gicucu cyagutse (kandi gihoraho),

وَظَلٌّ مَمْدُودٌ ﴿٣٠﴾

31. N'amazi ahora atemba,

وَمَا عَمَّ مَسْكُوبٌ ﴿٣١﴾

32. Ndetse n'imbuto nyinshi,

وَفِلَكَهُ كَثِيرَةٌ ﴿٣٢﴾

33. Ntizizahundura (bitewe n'ihinduka ry'ibihe cyangwa ngo zigire igihe cyo kwera), kandi ntizizaba zibujijwe (kuri bo).

لَا مَقْطُوعَةٌ وَلَا مَمْنُوعَةٌ ﴿٣٣﴾

34. Bazaba banafite ibitanda biri hejuru.

وَفُرُشٌ مَرْفُوعَةٌ ﴿٣٤﴾

35. Mu by'ukuri (abagore bo ku isi bazajya mu ijuru) tuzabarema bundi bushya.

إِنَّ اَنْشَاءَنَا هُنَّ اِنْشَاءٌ ﴿٣٥﴾

36. Maze tubagire amasugi.

فَعَلَنَاهُنَّ اَبْكَارًا ﴿٣٦﴾

37. Bakunda (abagabo babo gusa), kandi ari urungano.

عُرِيَّا اَتَرَابًا ﴿٣٧﴾

38. (Ibi byose) byateganyirijwe abantu b'iburyo.

لِاصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٣٨﴾

39. Abenshi (muri bo) bazaba ari itsinda rinini ryo mu bantu bo hambere (mbere y'Intumwa Muhamadi).

ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٩﴾

40. Na benshi mu bantu bo hanyuma (bakurikiye Intumwa Muhamadi).

وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ ﴿٤٠﴾

41. Naho abantu b'ibumoso; ni bantu ki (mbega ibihano by'abantu b'ibumoso)?

وَاصْحَابُ الشِّمَالِ مَا اَصْحَابُ الشِّمَالِ ﴿٤١﴾

42. Bazaba bari mu tuyaga utwika ndetse n'amazi yatuye.

فِي سَمُورٍ وَحَمِيمٍ ﴿٤٣﴾

43. No mu gicucu cy'umwotsi w'umukara.

وَظِلٌّ مِن يَحْمُورٍ ﴿٤٤﴾

44. (Icyo gicucu) nta mafu kizatanga ndetse nta n'icyiza kizagiturukaho.

إِنَّهُمْ كَانُوا أَقْبَلَ ذَلِكَ مُتَرَفِّينَ ﴿٤٥﴾

45. Mu by'ukuri mbere bari babayeho mu buzima bwo kwinezeza (bigomeka kuri Allah).

لَا بَارِدٌ وَلَا كَرِيمٌ ﴿٤٦﴾

46. Kandi bajyaga batsimbarara ku cyaha gihambaye (cyo kubangikanya Imana, ntibagire umugambi wo kubyicuza).

وَكَائِنُوا يُصْرُونَ عَلَى الْحَنْثِ الْعَظِيمِ ﴿٤٧﴾

47. Kandi bajyaga bavuga bat "Ese nidupfa tugahinduka igitaka n'amagufa (akabora), tuzazurwa koko?"

وَكَافُوا يَقُولُونَ إِنَّا مِتَّنَا وَكَنَّا تُرَابًا وَعَظَلَمًا لَعَنَّا

لَمَّا بَعُثْنَا ﴿٤٨﴾

48. "N'abakurambere bacu (bazazurwa) se?"

أَوْءَاءَ أَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿٤٩﴾

49. Vuga (yewe Muhamadi) uti "(Yego) rwose, abo hambere n'abo hanyuma,

قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ ﴿٥٠﴾

50. Bazakoranywa ku munsi uzwi, wagenwe (umunsi w'imperuka)."

لَمَجْمُوعُونَ إِلَيْ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴿٥١﴾

51. Nuko mwe abayobye mukanahinyura ukuri,

لَئِنْ كُنْتَ أَيْمَانَ الظَّالِمِينَ الْمُكَذِّبُونَ ﴿٥٢﴾

52. Rwose muzarya ku giti cya Zaqumu,

لَا كُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقْوَنٍ ﴿٥٩﴾

53. Maze macyuzuze inda,

فَمَا كُوْنَ مِنْهَا أَبْطُونَ ﴿٦٠﴾

54. Mukirenzeho amazi yatuye,

فَشَرِّبُونَ عَلَيْهِ مِنْ الْحَمِيمِ ﴿٦١﴾

55. Muzayanywa nk'ingamiya zinywa zidashira inyota.

فَشَرِّبُونَ شَرَبَ الْهَمِيمِ ﴿٦٢﴾

56. Iryo ni ryo zimano ryabo ku munsi w'ibihembo.

هَذَا نَزَّلْنَاهُمْ يَوْمَ الْدِينِ ﴿٦٣﴾

57. Ni twe twabaremye. None se kuki mutemera (izuka)?

نَحْنُ حَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تَصْدِقُونَ ﴿٦٤﴾

58. Ese mutekereza iki ku byo musohora (amasohoro)?

أَفَرَءَيْتُمْ مَاتَمُونَ ﴿٦٥﴾

59. Ese ni mwe tuyarema cyangwa ni twe Muremyi?

إِنَّمَا تَخْلُقُنَّهُ وَأَمَّا نَحْنُ لَنَا لَهُمْ قُوَنَّ ﴿٦٦﴾

60. Ni twe twabageneye urupfu kandi ntitwananirwa,

نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٦٧﴾

61. Kubasimbuza abameze nkamwe, maze tukabaremamo (amashusho y') ibindi mutazi.

عَلَىٰ أَنْ يُنْذَلَ أَمْثَالَكُمْ وَيُنْشَئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾

62. Kandi mu by'ukuri mwamenye ukuremwa (kwanyu) kwa mbere. None se kuki mutibuka?

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّسَاءَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾

63. Ese ntimubona ibyo muhinga?

أَفَرَءَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٧٠﴾

64. Ese ni mwe mubiha kumera no gukura, cyangwa ni twe tubikora?

۶۴ ﴿أَنْتُمْ تَرْكَعُونَۚ وَأَمْ نَحْنُ الْمَرْعُونَۚ﴾

65. Tubishatse twabigira ubushingwe, maze mugakomeza kumirwa.

۶۵ ﴿لَوْنَشَاءٌ لَجَعَلْنَاهُ حَطَمًا فَظَلَّتْ تَقَهُونَۚ﴾

66. (Muvuga muti) “Rwose (twaruhiye ubusa none) dusigaye mu madeni”;

۶۶ ﴿إِنَّا مَعْرَمُونَۚ﴾

67. Cyangwa ahubwo turaburaniwe (tubuze byose).

۶۷ ﴿بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَۚ﴾

68. Ese ntimubona amazi munywa?

۶۸ ﴿أَفَرَعَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشَرَّبُونَۚ﴾

69. Ese ni mwe tuyamanura mu bicu cyangwa ni twe tuyamanura?

۶۹ ﴿أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُمْ مِنَ الْمُرْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزَلُونَۚ﴾

70. Iyo tuza kubishaka, twari kuyagira urwunyunu (ntanyobwe). None se kuki mudashimira (**Allah**).

۷۰ ﴿لَوْنَشَاءٌ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَا تَشْكُرُونَۚ﴾

71. Ese ntimubona umuriro mucana?

۷۱ ﴿أَفَرَعَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَۚ﴾

72. Ese ni mwe mwaremye igit cyawo (muwukomoramo) cyangwa ni twe Muremyi?

۷۲ ﴿أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشَعُونَۚ﴾

73. Ni twe twawugize urwibutso (rw'umuriro wa Jahanamu), ndetse n'ingirakamaro ku bagenzi (n'abandi bose bawukeneye).

۷۳ ﴿نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذَكِّرَةً وَمَتَّعَ الْمُمْقُونَۚ﴾

74. Ngaho singiza izina rya Nyagasani wawe, Uhambaye.

فَسَيِّحَ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾

75. Ndahiye ibyimbo by'inyenyeri (mu isanzure).

\* فَلَا أَقِسْمُ بِمَوْقِعِ الْتُّجُورِ ﴿٧٥﴾

76. Kandi rwose iyo ni indahiro ihambaye iyo muza kumenya,

وَإِنَّهُ لِقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٦﴾

77. Ko mu by'ukuri (iyi) ari Qur'an Ntagatifu,

إِنَّهُ لِقُرْءَانٍ كَرِيمٍ ﴿٧٧﴾

78. Iri mu gitabo kirinzwe neza (mu Ijuru),

فِي كِتَابِ مَكْحُونٍ ﴿٧٨﴾

79. Kitajya kigira ugikoraho uretse abejewe (bafite isuku).

لَا يَمْسُدُ إِلَّا الْمُظَاهِرُونَ ﴿٧٩﴾

80. Ni uguhishurwa kwaturutse kwa Nyagasani w'ibiremwa.

تَنْزِيلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾

81. Ese iyi nkuru (Qur'an) ni yo muhinyura?

أَفَهَذَا الْحَدِيثُ أَنْتُمْ مُّدَهْنُونَ ﴿٨١﴾

82. Aho (gushimira Allah) ku ngabire abaha, (mumwitura) kumuuhakana?

وَتَجَعَّلُونَ رَّقْبَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿٨٢﴾

83. None se (kuki nta cyo mukora) igihe roho (y'umuntu ugiye gupfa) igeze mu muhogo?

فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحَلْقُومَ ﴿٨٣﴾

84. Icyo gihe muba murebera,

وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَظُرُونَ ﴿٨٤﴾

85. Kandi tuba turi hafi ye kubarusha, ariko mwe ntimubibona.

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿٨٥﴾

86. None se kuki, niba mwibwira ko nta cyo muzabazwa (mukaba

فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٨٦﴾

mwibwira        ko        muri  
abanyembaraga),

87. Mutayigarura (iyo roho mu mubiri wayo), niba koko muri abanyakuri?

تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٨٧﴾

88. Niba (uwo muntu ugiye gupfa) ari mu ba hafi (ya Allah),

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٨٨﴾

89. (Ateganyirijwe) umunezero n'impumuro y'ibyishimo, ndetse n'ubusitani bwuje ingabire (Ijuru).

فَرَحْ وَرِيحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿٨٩﴾

90. (Uwo muntu ugiye gupfa) naba ari mu bantu b'iburyo,

وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩٠﴾

91. (Azabwirwa ati) "Amahoro nabe kuri wowe kuko uri mu bantu b'iburyo."

فَسَلَّمَ اللَّهُ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩١﴾

92. Ariko (uwo muntu ugiye gupfa) naba ari mu bahinyura (izuka), bayobye,

وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الظَّالِمِينَ ﴿٩٢﴾

93. Izimano rye rizaba ari amazi yatuye,

فَنُزِّلَ مِنْ حَمِيمٍ ﴿٩٣﴾

94. No kuzatwikirwa mu muriro.

وَتَصْلِيلَةُ حَمِيمٍ ﴿٩٤﴾

95. Mu by'ukuri uku ni ko kuri kudashidikanywaho.

إِنَّ هَذَا الْهَوْحُوُّ الْيَقِينِ ﴿٩٥﴾

96. Ngaho tagatifuza izina rya Nyagasani wawe, Uhambaye.

فَسَيِّدُ يَاسِرَ رَبُّ الْعَظِيمِ ﴿٩٦﴾

## 57 - SURAT AL-HADID

(ICYUMA CY'UBUTARE)

Yahishuriwe i Madina, igizwe n'imirongo 29

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Ibiri mu birere n'ibiri ku isi bisingiza Allah, kandi ni We Nyiricyubahiro bihebuje, Nyirubugenge buhambaye.

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ أَعْزَى الْحَكِيمِ

۱

2. Ubwami bw'ibirere n'ubw'isi ni ubwe. Ni We utanga ubuzima n'urupfu. Kandi ni We ufite ubushobozi bwa buri kintu.

لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَيِّبُ

۲

3. Ni We Ntangiriro akaba n'Iherezo, Ugaragara (Uri hejuru ya buri kintu) akaba n'Utagaragara (uri bugufi ya buri kintu). Kandi ni We Mumenyi uhebuje wa buri kintu.

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ

۳

4. Ni We waremye ibirere n'isi mu minsi itandatu, hanyuma aganza hejuru ya Ar'shi<sup>223</sup>. Azi ibyinjira mu butaka n'ibibusohokamo, ibimanuka mu kirere ndetse n'ibikizamukamo. Kandi aba ari kumwe namwe aho muri hose. Kandi Allah ni Ubona bihebuje ibyo mukora.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ

ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ

مَعَكُمْ أَئِنَّ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ يُمَانِعُ عَمَلَنَّ بَصِيرٌ

۴

<sup>223</sup> Reba uko twasobanuye iri jambo muri Surat al A'raf, Ayat ya 54

5. Ubwami bw'ibirere n'isi ni ubwe. Kandi kwa Allah ni ho ibintu byose bisubizwa.

6. Ynjiza ijoro mu manywa, akaninjiza amanywa mu ijoro. Kandi ni We Mumenyi uhebuje w'ibiri mu bituza (by'abantu).

7. Nimwemere Allah n'Intumwa ye (Muhamadi), munatange mu byo yabaragije; kuko bamwe muri mwe bemeye bakanatanga (mu nzira ya Allah), bazagororerwa ibihembo bihebuje.

8. None se kuki mutemera Allah kandi Intumwa ibahamagarira kwemera Nyagasani wanyu? Kandi (Allah) yaranakiriye isezerano ryanyu rikomeye; niba muri abemeramana nyakuri (ngaho nimwemere).

9. Ni We uhishurira umugaragu we (Muhamadi) amagambo asobanutse, kugira ngo abakure mu mwijima abaganisha ku rumuri. Rwose Allah ni Umunyempuhwe nyinshi kuri mwe, Umunyembabazi.

10. None se kuki mudatanga mu nzira ya Allah, kandi Allah ari We ufite izungura ry'ibirere n'isi? Abatanze bakanarwana mbere y'urugamba (rwo kubohora Maka) muri mwe,

لَهُ مَلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ



يُولِّيْهِ الْيَلَى فِي النَّهَارِ وَيُبْلِجُ النَّهَارَ فِي الْأَيَّلِ وَهُوَ عَلَيْهِ  
بِدَاتِ الصُّدُورِ ٦

إِمْنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَانْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ  
مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ إِمْنُوا مِنْكُمْ وَنَفَقُوا أَهْمَاجًا  
كَبِيرًا ٧

وَمَا الْكُفْرُ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا  
بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخْذَ مِثْقَلَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٨

هُوَ الَّذِي يُرْزِلُ عَلَى عَبْدِهِ مَا يَشَاءُ بَيْنَتِ لِيْحَرِجَكُمْ مِنْ  
أَظْلَمُمْتُ إِلَى الْمُؤْرِقِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ٩

وَمَا لَكُمْ أَلَا تُتَفَقَّوْ فِي سَيِّلِ اللَّهِ وَلَهُ مِيرَاثٌ  
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ  
قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ

ntibahwanye (na ba bandi babikoze nyuma yaho); abo (babikoze mbere) bafite urwego rusumba urw'abatanze bakanarwana nyuma. Ariko bose Allah yabasezeranyije ibyiza. Kandi Allah azi bihebuje ibyo mukora.

أَفَقُوْمٌ بَعْدَ وَقَاتِلَوْا كُلًا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَ  
وَاللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ خَيْرٌ

11. Ni nde waguriza Allah inguzanyo nziza (atanga amaturo n'ibindi bikorwa by'ubugiraneza), ngo (Allah azayimwishyure) amukubiye inshuro nyinshi, ndetse azanamugororere ibihembo bihebuje?

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرَضًا حَسَنًا إِذَا ضَعَفَهُ اللَّهُ  
وَلَهُ أَجْرٌ كَبِيرٌ

12. Umunsi uzabona abemeramana n'abemeramanakazi urumuri rwabo rukataje imbere n'iburyo bwabo (babwirwa) bati "Dore inkuru nziza yanyu uyu munsi! Ni ubusitani butembamo imigezi (Ijuru), muzabamo ubuziraherezo. Iyi ni yo ntsinzi ihambaye."

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى بُوْرُهُمْ  
بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشِّرُوكُمْ أَيْوَمَ جَنَّتٍ تَجْرِي  
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلَدِينَ فِيهَا دَلَكٌ هُوَ الْقُرْزُ الْعَظِيمُ

13. Umunsi indyarya z'abagabo n'iz'abagore zizabwira abemeramana ziti "Nimudutegereze turahure ku rumuri rwanyu!" Zizabwirwa ziti "Nimusubire inyuma (ku isi) mushake urumuri!" Maze hagati yabo hashyirwe urukuta rufite umuryango. Imbere yarwo hari

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفَقُونَ وَالْمُنْفَقَاتُ لِلَّذِينَ أَمْنَوْا  
أُنْظَرُونَا نَقْتَسِّ مِنْ بُورُوكُمْ قِيلَ أَرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ  
فَالْتَّمَسُوا بُورًا فَضَرِبَ بَيْنَهُمْ بُسُورٌ لَهُ وَبَابٌ بَاطِنُهُ  
فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ

impuhwe, naho hanze yarwo hakaba ibihano.

14. (Indyarya) zizabahamagara (abemeramana) zibabwira ziti “Ese ntitwari kumwe namwe (ku isi)?” Bazisubize bati “Yego! Ariko mwishyize mu bigeragezo, mutega iminsi (Intumwa n’abemeramana), munishyira mu gushidikanya kandi munashukwa n’irari ryanyu kugeza ubwo itegeko rya Allah (urupfu) risohoye. Nuko umushukanyi (Shitani) abatesha umurongo wa Allah.”

15. Uyu munsi nta ncungu yanyu (mwe ndyarya) cyangwa iy’abahakanye iri bwakirwe. Ubuturo bwanyu ni mu muriro. Ni wo muzabana kandi ni na wo herezo ribi.

16. Ese igihe nticyari cyagera ngo imitima y’abemeye yicishe bugufi kubera kwibuka Allah n’ibyahishuwe by’ukuri (Qur’an)? No kugira ngo ntibabe nk’abahawwe igitabo mbere yabo, nuko igihe (cyo gutegereza ibyo Intumwa zabasezeranyije) kikababana kirekire, maze imitima yabo ikinangira; kandi abenshi muri bo bari ibygomeke!

يَنَادُونَهُمْ أَلَّا نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكُمْ فَتَنَّتُمْ  
أَنفُسُكُمْ وَتَرَصَّدُتُمْ وَأَرَبَّتُمْ وَغَرَّتُمُ الْأَمَانِيَّ حَتَّى  
جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ

فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدَيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا  
مَا أَوْلَكُمُ النَّارُ هَيْ مَوْلَكُكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

\* إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَعْمَلُونَ  
لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَرَى مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا  
كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمْ الْأَمْدُ  
فَقَسَّتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسَقُونَ

17. Mumenye ko Allah aha isi ubuzima nyuma yo gupfa kwayo (gukakara). Mu by'ukuri twabasobanuriye ibimenyetso kugira ngo mutekereze.

18. Mu by'ukuri ba bandi batanga amaturo b'abagabo n'abagore, bakanaguriza Allah inguzanyo nziza, (Allah azabishyura) abakubiye inshuro nyinshi, ndetse azanabagororera ibihembo bihebuje.

19. Na ba bandi bemeye Allah n'Intumwa ze (nta n'imwe barobanuye), ni bo banyakuri ndetse bakaba n'abahamya kwa Nyagasani wabo. Bazagororerwa ibihembo byabo n'urumuri rwabo. Naho abahakanye bakanahinyura amagambo yacu, bazaba abo mu muriro.

20. Mumenye ko ubuzima bw'isi nta kindi buri cyo uretse kuba ari umukino, kwinezeka, imitako, kwiyemera hagati yanyu ndetse no kwiratana imitungo n'abana. (Ibyo biggereranywa) nk'ibimera bishimisha abahinzi nyuma yo kubona imvura, hanyuma bikuma ukabona bibaye umuhondo; nuko (byamara kumagara) bigahinduka utuvungukira. Ariko ku munsi w'imperuka hazaba ibihano

أَعْمَوْا أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَالَكُمْ  
الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾

إِنَّ الْمَصَدِّقَيْنَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَفْرَضُوا اللَّهَ قَرَضاً  
حَسَنَا يَضْعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَيْمٌ ﴿١٨﴾

وَالَّذِينَ إِمَانُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْأَصِدِّيقُونَ  
وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرٌ هُمْ وَنُورُهُمْ  
وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعِيَاتِنَا أُولَئِكَ  
أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١٩﴾

أَعْلَمُ أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعْبٌ وَأَهْوَانٌ وَزِينَةٌ  
وَتَفَاقُّرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمِثْلِ  
غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ بَنَاتُهُ ثُمَّ يَهْيِجُ فَتَرَهُ  
مُحْصِرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَّلًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ  
شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ  
الَّذِينَ إِلَّا امْتَاعُ الْغُرُورِ ﴿٢٠﴾

bikomeye (ku bahakanyi), ndetse n'imbabazi no kwishimirwa na **Allah** (ku bemeramana). Kandi ubuzima bw'isi nta cyo buri cyo uretse kuba ari umunezero ushukana.

21. Nimwihutire gushaka imbabazi ziva kwa Nyagasanai wanyu, n'ijuru rifite ubugari bungana n'ubw'ikirere n'isi; ryateguriwe abemeye **Allah** n'Intumwa ze. Izo ni ingabire za **Allah** aha uwo ashaka; kandi **Allah** ni Nyiringabire zihambaye.

22. Nta kibi cyagera ku isi cyangwa ngo kibabeho kitanditse mu gitabo (kirinzwe) mbere y'uko tukibeshaho. Mu by'ukuri ibyo kuri **Allah** biroroshye.

23. Kugira ngo mutababazwa n'ibyabacitse cyangwa ngo mwiratane ibyo mwahawe. Mu by'ukuri **Allah** ntakunda umwirasi wese, w'umwibone,

24. Ba bandi bagira ubugugu bakanabushishikariza abantu. Ariko uzatera umugongo (kumvira **Allah**, amenye ko) **Allah** ari Uwhagije, Usingizwa cyané.

25. Rwose twohereje Intumwa zazu tuzihaye ibimenyetso bigaragara n'ibitangaza, ndetse

سَابِقُوا إِلَىٰ مَعْفَرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرَضُهَا  
كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَعْدَتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا  
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ  
وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٦﴾

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَاٰ فِي  
أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَبَرَّأُوهَا إِنَّ  
ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٦﴾

لِكَيْلَاتِ أَسْوَاعِي مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَقْرَبُوا  
بِمَا إِنْتُمْ كُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوبٍ

٦٣

الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبَخْلِ وَمَنْ  
يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٦٤﴾

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا إِلَيْبِنَتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمْ  
الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ

tunazihishurira                    ibitabo  
 n'ubutabera, kugira ngo abantu                    bimakaze                    ubutabera.  
 Twanamanuye                        icyuma  
 cy'ubutare gifite imbaraga                        zihambaye kandi kinafitiye  
 abantu akamaro. (Ibyo byose byakozwe) kugira ngo **Allah**  
 yerekane                            abamutabara  
 (abatabara idini rye) ndetse  
 n'Intumwa ze kandi batamuzi.  
 Mu by'ukuri **Allah** ni  
 Umunyacyubahiro                    bihebuje,  
 Utsinda.

26. Kandi rwose twohereje Nuhuna Ibrahimu, maze duha urubyaro rwabo ubuhanuzi n'ibitabo. Muri bo hari abayobotse ariko abenshi muri bo babaye ibygomeke.

27. Hanyuma tubakurikiza (izindi) ntumwa zacu zaje zitera ikirenge mu cyabo. Twakurikijeho kohereza Issa mwene Mariyamu, tumuha Ivanjili, tunashyira ubuntu n'impuhwe mu mitima y'abamukuriye, ariko bihimbiye kwiyegurira Imana (banga gushaka cyangwa gushakwa) nyamara nta byo twabategetse, (twabategetse) gusa gushaka ishimwe rya **Allah**, gusa ntibabyubahirije nk'uko bikwiye. Bityo, abemeye muri bo twabahaye ibihembo

بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ  
 وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ وَمَنْ سُلْكَ  
 بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌ عَنِ الْغَيْبِ<sup>(٢٥)</sup>

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي  
 ذُرِّيَّتَهُمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهَتَّدٌ  
 وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ<sup>(٢٦)</sup>

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ أَثْرَهُمْ بِرُسُلَنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى  
 ابْنِ مَرِيمَ وَأَتَيْنَاهُ الْأَنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ  
 الَّذِينَ أَتَبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً  
 أَبْدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا أَبْتَغَاءَ  
 رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوهَا حَقٌّ رِعَايَتَهَا فَقَاتَيْنَا  
 الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ  
 فَسِقُونَ<sup>(٢٧)</sup>

bakwiye, nyamara abenshi muri bo bari ibygomeke.

28. Yemwe abemeye (Intumwa Musa na Issa)! Nimugandukire **Allah** kandi munemere Intumwa ye (Muhamadi)! (**Allah**) azabaha impuhwe ze zikubye kabiri, anabahe urumuri mugendana ndetse anababarire ibyaha byanyu. **Allah** ni Ubabarira bihebuje, Nyirimbabazi.

29. (Ibyo byose abikora) kugira ngo abahawe ibitabo bamenyé ko nta bushobozi ubwo ari bwo bwose bagira mu ngabire za **Allah**, kandi ko ingabire zose ziri mu biganza bya **Allah**, akaba aziha uwo ashaka. Kandi **Allah** ni Nyiringabire zihambaye.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتَقْوُ اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ  
يُؤْتُكُمْ كُفَلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلَ لَكُمْ نُورًا  
تَمْسُونَ بِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

إِنَّمَا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَا يَقْدِرُونَ عَلَى  
شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتَيْهِ  
مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

## 58 - SURAT AL-MUDJADILAT (UMUGORE UGISHA IMPAKA)

Yahishuriwe i Madina, igizwe n'imirongo 22.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

Ku izina rya **Allah**, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Mu by'ukuri **Allah** yumvise imvugo ya wa wundi (umugore witwa Khawulat bint Tha'labat) wakugishaga impaka (wowe Muhamadi) ku bijyanye n'umugabo we (Awus bin As-

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُبَدِّلُكَ فِي زَوْجِهَا  
وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ صَّمِيرٌ

Samit), anaregera Allah. Kandi Allah yumvise ikiganiro cyanyu mwembi. Mu by'ukuri Allah ni Uwumva bihebuje, Ubona cyane.

2. Ba bandi muri mwe biziririza abagore babo babita ba nyina, kandi atari ba nyina, nyamara ba nyina (b'ukuri) ari abababyaye. Mu by'ukuri baba bavuga ijambo ribi kandi ry'ikinyoma. Kandi mu by'ukuri Allah ni Nyiribambe, Ubabarira ibyaha.

3. Na ba bandi biziririza abagore babo (bavuga ko batazongera kuryamana nabo) babita ba nyina, hanyuma bakisubiraho ku byo bavuze, (icyiru cyabyo) ni uko bagomba kubohora umucakara mbere y'uko bongera kubonana (n'abagore babo). Ibyo ni inyigisho muhabwa (na Allah), kandi Allah ni Umumenyi uhebuje w'ibyo mukora.

4. Naho utamubonye (ubo mucakara ngo amubohore), agomba gusiba amezi abiri akurikiranye mbere y'uko yongera kubonana (n'umugore we), ariko utabishoboye, agomba kugaburira abakene mirongo itandatu. Ibyo ni ukugira ngo mwemere Allah n'Intumwa ye. Izo ni imbago

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ نِسَاءٍ هُمْ مَمَاهِنَ  
أُمَّهَاتِهِمْ مَنْ أُمَّهَاتِهِمْ إِلَّا اللَّهُ وَلَدَنَهُمْ وَإِنَّهُمْ  
لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْفَوْلِ وَرُزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ  
لَعَفُوٌ غَفُورٌ ﴿٢﴾

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَاءٍ هُمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا  
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مَنْ قَبْلَ أَنْ يَتَمَآسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ  
بِهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ حَبْرٌ ﴿٣﴾

فَمَنْ لَمْ يَحِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ  
يَتَمَآسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِي طَعَامِ سِتِّينَ مَسِيْكَيْنَ  
ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَلَاقَ حُدُودُ اللَّهِ  
وَاللَّكَفِرِيْنَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤﴾

zashyizweho na **Allah**, kandi abahakanyi bazahanishwa ibihano bibabaza.

5. Mu by'ukuri abaca ukubiri na **Allah** n'Intumwa ye, bazasuzuguzwa nk'uko ababayeho mbere yabo basuzugujwe. Kandi twohereje ibimenyetso bisobanutse, kandi abahakanyi bazahanishwa ibihano bisuzuguza,

6. Umunsi **Allah** azabazura bose akababwira ibyo bakoze. **Allah** yarabibaruye mu gihe bo babyibagiwe. Kandi **Allah** ni Umuhanya wa buri kintu.

7. Ese ntubona ko **Allah** azi ibiri mu birere n'ibiru ku isi? Nta biganiro byo mu ibanga bya batatu bibaho ngo abure kuba uwa kane, cyangwa ibya batanu ngo abure kuba ari uwa gatandatu, ndetse no munsi yabo cyangwa abarenzeho, ngo abure kuba ari kumwe na bo aho bari hose. Hanyuma ku munsi w'izuka akazababwira ibyo bakoraga. Mu by'ukuri **Allah** ni Umumenyi uhebuje wa buri kintu.

8. Ese ntiwabonye ababujije kugirana ibiganiro byo mu ibanga, nyuma bagasubira ku byo babujije, bakagirana ibiganiro mu ibanga bigamije icyaha n'ubugome ndetse no

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُلُّ تُوْلِمَكٌ  
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ بَيِّنَاتٍ  
وَلِلْكُفَّارِ إِنَّ عَذَابَهُمْ أَهْمَىٰ  
۝

يَوْمَ يَعْتَذِرُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَقُولُونَ هُمْ بِمَا عَمِلُوا  
أَحَصَّهُمُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ  
ۖ

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا  
يَكُونُ مِنْ نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَأَيْهُمْ وَلَا هُمْ إِلَّا  
هُوَ سَادُسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ  
مَعَهُمْ أَنَّ مَا كَانُوا لِمَ يَتَّخِذُونَ هُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمةِ  
۝  
إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  
۷

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَهُوا عَنِ النَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا  
نَهُوا عَنْهُ وَيَتَنَجَّوْنَ بِالْإِلَهِ وَالْعُدُوْنِ وَمَعَصِيَتِ  
الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَوْكَ بِمَا لَمْ يُحِسِّنْكَ بِهِ اللَّهُ

kwigomeka ku Ntumwa (Muhamadi)? N'yo baje bagusanga, bagusuza mu ndamutso **Allah** atagusuhujemo, maze mu mitima yabo bakigamba bati “Kubera iki **Allah** ataduhanira ibyo tuvuga?” Umuriro wa Jahanamu urabahagije, bazawutwikirwamo kandi ni wo herezo ribi.

9. Yemwe abemeye! Nimujya mugirana ibiganiro mu ibanga, ntimukabikore mugamije icyaha n'ubugome ndetse no kwigomeka ku Ntumwa (Muhamadi). Ahubwo mujye mubigirana mugamije ibyiza no kugandukira **Allah**, kandi mugandukire **Allah**, kuko iwe ari ho muzakoranyirizwa.

10. Mu by'ukuri kugirana ibiganiro mu ibanga hagamijwe ikibi (ubugambanyi) bituruka kwa Shitani, kugira ngo atere agahinda abemeramana, ariko nta cyo yabatwara keretse **Allah** abitangiye uburenganzira. Ngaho abemeramana nibiringire **Allah**.

11. Yemwe abemeye! Nimubwirwa muti “Nimwegerane muhane ibycaro aho muteraniye”, mujye mubikora; **Allah** azabagurira (mu mpuhwe ze).

وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يَعْدِنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ  
حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فِي سَهْلِ الْمَاصِيرِ

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَبَّغَّمُوكُمْ فَلَا تَتَنَجَّوْا بِالْأَشْرِ  
وَالْعُدُوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَجَّوْا بِاللَّرِّ  
وَالْتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

إِنَّمَا التَّنَجُّوُ مِنَ الشَّيْطَنِ لِيَحْرُنَ الَّذِينَ آمَنُوا  
وَلَيَسْ يَضْأَرُهُمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ  
فَلَيَتَوَكَّلْ كُلُّ الْمُؤْمِنُونَ

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ نَفْسَهُوْ فِي  
الْمَجَlisِ فَأَفْسَحُوهُ وَيَسْعِيَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا

Nimunabwirwa muti  
 "Muhaguruke (mujye kugaragira cyangwa mujye mu kindi gikorwa cyiza)", mujye muhaguruka. **Allah** azamura mu ntera abemeye n'abahawwe ubumenyi muri mwe. Kandi **Allah** ni Umumenyi uhebuje w'ibyo mukora.

12. Yemwe abemeye! Nimujya (mushaka) kugira ibyo muganira mu ibanga n'Intumwa (Muhamadi), mujye mubanza mutange amaturo mbere y'uko mubonana. Ibyo ni byo byiza kuri mwe kandi ni byo birushijeho kubeza (imitima). Ariko nimutayabona (amaturo, mumenye ko muzabarirwa) mu by'ukuri **Allah** ni Nyir'ukubabarira ibyaha, Nyirimpuhwe.

13. Ese mufite ubwoba (bw'ubukene) igihe mwatanze amaturo mbere yo kugirana ibiganiro by'ibanga (n'Intumwa y'Imana)? Ibyo nimutabikora kandi **Allah** yarabababariye, mujye muhozaho iswala, mutange amaturo, ndetse mwumvire **Allah** n'Intumwa ye. Kandi **Allah** azi neza ibyo mukora.

فَإِنْ شُرُّوا فَإِنَّ رَبَّهُمْ أَلَّا يَرَى مَا فِي الصُّدُقَاتِ وَالَّذِينَ أَوْتُوا  
 الْعِلْمَ دَرَجَتٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَسْنٌ ۝

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَحْشَرُ الرَّسُولَ فَقَدْ مُؤْمِنٌ  
 يَدَى بَخْوَلٍ كُصَدَّقَةٌ ذَلِكَ حَسْنٌ لَكُمْ وَاطَّهَرُ فَإِنَّ لَمْ  
 تَحْدُدُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

إِنَّ أَشَفَّتُمْ أَنْ تَقْدِمُ مُؤْمِنِينَ يَدَى بَخْوَلٍ كُصَدَّقَتِ  
 فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَإِذَا  
 الْمَزْكُوْرَةَ وَأَطْبِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ حَسْنٌ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ ۝

14. Ese (yewe Muhamadi) ntiwabonye ba bandi (indyarya) bagiranye ubucuti n'abantu **Allah** yarakariye? Ntabwo bari muri mwe (Abayisilamu) ndetse ntibari no muri bo (Abayahudi), kandi barahira mu binyoma nyamara babizi.

15. **Allah** yabateguriye ibihano bikaze. Mu by'ukuri ibyo bakoraga ni bibi.

16. Indahiro zabo bazigize ingabo (y'ibikorwa byabo bibi), banakumira abantu kugana inzira ya **Allah**. Bityo, bazahanishwa ibihano bisuzuguza.

17. Imitungo yabo n'abana babo nta cyo bizabamarira imbere ya **Allah**. Abo ni abantu bo mu muriro, bazawubamo ubuziraherezo.

18. Umunsi **Allah** azabazura bose, nuko bakamurahirira nk'uko babarahiriraga (mwe Abayisilamu), bibwira ko hari icyo bishingikirije. Mu by'ukuri ni abanyabinyoma.

19. Shitani yabagize imbata ze maze abibagiza kwibuka **Allah**. Abo ni abambari ba Shitani. Mu by'ukuri abambari ba Shitani ni bo bazaba abanyagihombo.

\***أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَاضِبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ بِهِ مَنْكُورٌ وَلَا مِنْهُمْ وَيَخْلُفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ**  
١٤

**أَعَدَ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ**  
١٥

**أَخْذُوا إِيمَانَهُمْ حَرْجَنَةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَأَهْمَمُهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ**  
١٦

**لَنْ تُغْنِيَنَّهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أُولُوْهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا  
أُولَئِكَ أَحْبَبُ الْتَّارِهُمْ فِيهَا الْخَالِدُونَ**  
١٧

**يَوْمَ يَعْنِيُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَخْلُفُونَ لَهُ كَمَا  
يَخْلُفُونَ لَكُوْنَهُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَذِبُونَ**  
١٨

**أَسْتَحْوِدُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَسْهَمْهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ  
حَرْبُ الشَّيْطَانِ لَا إِنَّ حَرْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَيْرُونَ**  
١٩

20. Mu by'ukuri abaca ukubiri na **Allah** n'Intumwa ye (Muhamadi), bazaba basuzuguritse cyane.

21. **Allah** yaciye iteka agira ati "Rwose, njye n'Intumwa zanjye tuzatsinda." Mu by'ukuri **Allah** ni Umunyembaraga, Umunyacyubahiro bihebuje.

22. Ntuzigera ubona abantu bemera **Allah** n'umunsi w'imperuka bagirana ubucuti na ba bandi baciye ukubiri na **Allah** n'Intumwa ye, kabone n'ubwo baba ari ababyeyi babo cyangwa abana babo cyangwa abavandimwe babo cyangwa se imiryango yabo. Abantu nk'abo, **Allah** yanditse ukwemera nyako mu mitima yabo, anabashyigikiza umwuka (inkunga) uturutse iwe, kandi azabinjiza mu busitani butembamo imigezi (Ijuru) bazabamo ubuziraherezo. **Allah** yarabishimiye na bo baramwishimira. Abo ni bo tsinda rya **Allah**, kandi mu by'ukuri itsinda rya **Allah** ni ryo rizatsinda.

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ

كَتَبَ اللَّهُ لِأَغْلَبِنَا وَرُسُلِنَا إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ  
عَزِيزٌ

لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُونَ  
مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَلَوْكَ اُلُوَّاءِ بَأْبَاءِهِمْ أَوْ  
أَبْنَاءِهِمْ أَوْ إِخْرَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ  
كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمْ أَلَّا يَمْنَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ  
وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ  
خَلِيلِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ  
أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ الَّذِينَ حِزْبَ اللَّهِ هُمْ  
الْمُفْلِحُونَ

## 59 - SURAT AL-HASH'RI

(UGUKORANYA)

Yahishuriwe i Madina, igizwe n'imirongo 24

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Ibiri mu birere n'ibiri mu isi byose bisingiza Allah. Kandi (Allah) ni Umunyacyubahiro bihebuje, Nyirubugenge buhambaye.

2. Ni We wamenesheje abahakanye bo mu bahawe igitabo, abakura mu ngo zabo ku ikoraniro rya mbere<sup>224</sup>. Ntimwakekaga ko bagenda kandi na bo bakekaga ko inyubako zabo z'imitamenwa zabarinda (ibihano bya) Allah! Nyamara ibihano bya Allah byabagezeho biturutse aho batakekaga, nuko abateza ubwoba mu mitima kugeza ubwo bisenyeye amazu bakoresheje amaboko yabo ndetse n'amaboko y'abemeramana. Ngaho nimubikuremo isomo yemwe abashishoza!

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ  
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۚ ۱

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ  
دِيرِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَسْرِ مَا طَنَثُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنَنُوا  
أَنَّهُمْ مَانِعُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَنَّهُمْ أَلَّا  
مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ أَرْغَبَ  
يُخْبُونَ بِيُوْنَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ  
فَاعْتَدُوا وَإِنَّمَا لِلْأَبْصَرِ ۚ

<sup>224</sup> Abahawe igitabo bavugwa muri uyu murongo ni Abayahudi bo mu bwoko bwa Bani Nadwir, bari batuye mu nkengero z'umuji wa Madina, banze kwemera Intumwa Muhamadi ndetse bagerageje kumugirira nabi, bananga no gushyira mu bikorwa amasezerano bari baragiranye n'Intumwa y'Imana. Maze Intumwa ifata icyemezo cyo kubasohora mu mujyi wa Madina.

3. N'iyo bitaza kuba ko Allah yaciye iteka ko bameneshwa, rwose yari kubahana (mu bundi buryo) hano ku isi, kandi ku munsi w'imperuka bakazahanishwa ibihano by'umuriro.

4. Ibyo ni ukubera ko baciye ukubiri na Allah n'Intumwa ye; kandi uca ukubiri na Allah (amenye ko) Allah ari Nyiribihano bikaze.

5. (Yemwe abemeye!) Ibiti by'imitende (by'abanzi banyu) mwatemye cyangwa ibyo mwaretse bihagaze ku bitsinsi byabyo, byari ku bw'uburenganzira bwa Allah, no kugira ngo asuzuguze ibyigomeke.

6. N'ibyo Allah yahaye Intumwa ye (Muhamadi) nk'iminyago bibaturutseho, ibyo ntabwo mwigeze mwiyuha akuya mukoresheje amafarasi cyangwa ingamiya; ariko Allah atiza imbaraga Intumwa ze (ngo zitsinde) uwo ashaka. Kandi Allah ni Ushobora byose.

7. Ibyo Allah yahaye Intumwa ye nk'iminyago iturutse ku bantu bo mu midugudu (hatabayeho imirwano), ni ibya Allah n'Intumwa ye, abafitanye isano rya hafi (n'Intumwa), imfubyi, abakene n'abashiriwe ku

وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي  
الْدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ أَنَّارٌ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ  
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى  
أُمُولَهَا فَإِذَا نَلَهُ اللَّهُ وَلِيُخْزِي الْفَسِيقِينَ

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَحْتُمُ  
عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ  
رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَى فَلَهُ  
وَلِرَسُولِهِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ وَابْنُ  
السَّيِّلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَعْنَيَاءِ مِنْ كُمْ

rugendo; kugira ngo bitiharirwa n'abakire muri mwe gusa. Kandi ibyo Intumwa ibahaye (mu mitungo n'ibyo yabategetse) mujye mubyakira, ndetse n'ibyo ibabujije mujye mubireka. Munatinye Allah, mu by'ukuri Allah ni Nyiribihano bikaze.

8. (Muri iyo minyago kandi harimo igice cyagenewe) abakene bimutse (bava i Maka) bameneshejwe mu ngo zabo n'imitungo yabo, (babikoze) bashaka ingabire ziturutse kwa Allah no kwishimirwa na We, ndetse no gutera inkunga Allah n'Intumwa ye. Abo ni bo banyakakuri.

9. Naho ba bandi batuye iki gihugu (cya Madina) mbere yabo, bahisemo ukwemera banakunda abimutse babagana, kandi mu mitima ntibararikire ibyo (abo bimukira) bahawe, ahubwo bagaharira abandi bo biretse, kabone n'ubwo na bo ubwabo babaga babikeneye. Kandi abarinzwé kugira ubugugu ni bo bazatsinda.

10. Na ba bandi baje nyuma yabo, baravuga bati "Nyagasani wacu! Tubabarire, twe n'abavandimwe bacu batubanjirije mu kwemera, kandi ntuzatume mu mitima yacu harangwamo urwango ku

وَمَا أَمَّا آتَيْنَاكُمْ مِّنَ الرَّسُولِ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ  
فَإِنَّهُمْ هُوَ أَنَّقُوا إِلَهًا إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

لِلْفَقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيْرِهِمْ  
وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرَضُوا كَ  
وَيَصْرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَفَلَمْ يَرَوْا لِئَلَّا هُوَ الْحَرَّارُ قُوَنَ ﴿٨﴾

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُ الدَّارَ وَأَلِيمَنَ مِنْ قَاتِلِهِمْ يُحْبِبُونَ  
مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ  
حَاجَةً مِّمَّا أَتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ  
خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ سُحْنَ نَفْسِهِ فَأَفَلَيْكَ  
هُوَ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

وَالَّذِينَ جَاءُ وَمِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَعْفِرْلَنَا  
وَلَا حَوَّنَنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِأَلِيمَنِ وَلَا تَجْعَلْ

bemeramana. Nyagasani wacu!  
Mu by'ukuri ni Wowe  
Nyirimpuhwe nyinshi,  
Nyirimbabazi."

11. Ese (yewe Muhamadi) ntiwabonye ababaye indyarya, babwira bagenzi babo bahakanye bo mu bahawe igitabo bati "Nimumeneshwa, rwose tuzajyana namwe, kandi nta muntu tuzigera twumvira nadusaba kubagirira nabi. Ndetse nimunaterwa tuzabatabara." Nyamara Allah ahanya ko ari abanyabinyoma.

12. Mu by'ukuri (Abayahudi) nibaramuka bameneshejwe, (indyarya) ntizizigera zijiyananabo, nibanaterwa ntizizabatabara. Kandi (n'iyo) zanabatabara, zizahindukira zitera umugongo maze ntibatabarwe.

13. Mu by'ukuri (yemwe abemeye) ni mwe mutinyitse cyane mu mitima yabo (indyarya) kurusha Allah. Ibyo ni uko ari abantu badasobanukiwe.

14. (Abahakanyi) ntibazigera babarwanya bari hamwe, keretse bari mu midugudu irinzwe cyangwa inyuma y'inkuta. Intambara hagati yabo iba ikaze. Ukeka ko bari kumwe nyamara imitima yabo iba

فِي قُلُوبِنَا غَلَّ لِلَّذِينَ أَمْنَوْا بَنَاءً إِنَّكَ رَءُوفٌ  
رَّحِيمٌ ۝

\*الْمَرْءُ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ  
لَا هُوَنَّهُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِئَنَّ  
أُخْرِجُوكُمْ لَّا تَخْرُجُنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُظِيعُ فِي كُمْ  
أَحَدًا أَبْدَأُوكُمْ فَوْتَلُمُكُمْ لَّا تَنْصُرُوكُمْ وَاللَّهُ يَشْهُدُ  
إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ۝

لِئَنَّ أُخْرِجُوكُمْ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُتُلُواَ  
يَنْصُرُوكُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوكُمْ هُنْ لَيُؤْلَمُ الْأَذْنَارُ مُلَامِ  
يُنْصَرُونَ ۝

لَا تَسْتُمْ أَشَدَّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنْ اللَّهِ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۝

لَا يُقْتَلُونَ كُمْ جِمِيعًا إِلَّا فِي قَرْيَ مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ  
وَرَاءِ جُدُرٍ بِأَسْهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسِبُهُمْ  
۝

itatanye. Ibyo ni uko ari abantu badafite ubwenge.

جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا

يَعْقِلُونَ ﴿١٤﴾

كَمَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِبًا ذَلِكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ  
أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٥﴾

15. (Urugero rw'ibyababayeho ni) nk'urw'ibyabaye mbere yabo gato (abahakanyi b' i Maka mu rugamba rwa Badr n'Abayahudi bo mu bwoko bwa Qayinuqa'i) basogongeye ingaruka z'ibikorwa byabo (hano ku isi), kandi (ku munsi w'imperuka) bazahanishwa ibihano bibabaza.

16. (Urugero rwabo kandi ni) nk'urwa Shitani ubwo yabwiraga umuntu iti "Hakana (**Allah**)!" Nyamara yamara guhakana, (Shitani ikamwitakana) ikavuga iti "Mu by'ukuri njye nitandukanyije nawe; njye ntinya **Allah**, Nyagasani w'ibiremwa byose."

17. Ubwo iherezo ryabo bombi ni uko bazaba mu muriro ubuziraherezo. Icyo ni cyo gihembo cy'inkozi z'ibibi.

18. Yemwe abemeye! Nimugandukire **Allah** kandi buri muntu arebe ibyo yiteganyirije ej. Munatinye **Allah**, mu by'ukuri **Allah** azi neza ibyo mukora.

كَثُلَّ الشَّيْطَانُ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَنِ أَكُنْ فُرْفَلَمًا  
كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ  
الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾

فَكَانَ عَيْتَنَهُمَا أَنَّهُمْ فِي النَّارِ خَلِدُونَ فِيهَا  
وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿١٧﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِذَا آتَمُوا أَنْقَوْا اللَّهَ وَلَنْ تُنْظَرُ نَفْسٌ مَا  
قَدَّمَتْ لِغَدِيرًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ حَرِيصٌ عَلَيْهَا  
تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

19. Kandi ntimuzanabe nk'abibagiwe **Allah** (banze kumvira **Allah**), ku bw'yo mpamu akabatera kwiyibagirwa ubwabo (bakareka gukora ibikorwa byiza). Abo ni bo byigomeke.

20. (Mumenye ko) abantu bo mu muriro n'abantu bo mu Ijuru badahwanye. Abantu bo mu Ijuru ni bo bazatsinda.

21. Iyo iyi Qur'an tuza kuyimanurira ku musozi, wari kuwubona wibombaritse ndetse ukanasatagurika kubera gutinya **Allah**. Izo ni ingero duha abantu kugira ngo batekereze.

22. Ni **Allah**, nta yindi mana ibaho itari We. Umumenyi w'ibitagaragara ndetse n'ibigaragara. Ni Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

23. Ni **Allah**, nta yindi mana ibaho itari We; Umwami, Umutagatifu, Umuziranenge, Umewishingizi, Umugenzuzi, Umunyacyubahiro uhebuje, Umunyembaraga bihebuje, Ukwiyen ikuzo. Ubutagatifu ni ubwa **Allah**, nta ho ahuriye n'ibyo bamubangikanya na byo.

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ  
أَنفُسَهُمْ أُولَئِكُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٩﴾

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ  
أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِرُونَ ﴿٢٠﴾

لَوْأَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ  
خَشِعًا مُّضَدِّعًا مِّنْ حَشْيَةِ اللَّهِ وَتَلَكَ  
الْأَمْثَلُ نَضَرِبُ بِهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَمُ الْغَيْبِ  
وَالشَّهَدَةُ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ  
السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَمِّمُ الْعَزِيزُ الْجَبَارُ  
الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشَرِّكُونَ ﴿٢٣﴾

24. Ni Allah, Umuremyi, Umuhanzi, Utanga ishusho. Afite amazina meza. Ibiri mu birere n'isi biramusingiza, kandi ni Umunyacyubahiro uhebuje, Nyirubugenge buhambaye.

هُوَ اللَّهُ الْخَلِقُ الْبَارِيُّ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ  
الْحُسْنَىٰ يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

### 60 - SURAT AL-MUM'TAHINAT (UMUGORE UGERAGEZWA)

*Yahishuriwe i Madina, igizwe n'imironzo 13*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1.Yemwe abemeye! Ntimukagire abanzi banje n'abanzi banyu inshuti, mubereka urukundo kandi barahakanye ibyabagezeho by'ukuri (kwemera Allah n'Intumwa yayo Muhamadi na Qur'an) ndetse baranamenesheje Intumwa (Muhamadi) namwe ubwanyu (bakabirukana mu gihugu cyanyu) kubera ko mwemeye Allah, Nyagasani wanyu. Niba musohotse mugiye kurwana mu nzira yanje no gushaka kwishimirwa nanje (ntimukabagire inshuti). Muhibsha urukundo mubafitiye kandi njye nzi ibyo muhibsha n'ibyo mugaragaza. Ukora ibyo

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوّي وَعَدُوّكُمْ  
أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوْدَةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ  
مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ  
رَبِّكُمْ إِنَّكُمْ بَشَّرٌ حَتَّىٰ جَهَدَّا فِي سَيِّلٍ وَأَتَيْغَاءَ  
مَرْضَاتِي تُسْرُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوْدَةِ وَأَنَا أَعْمَمُ بِمَا  
أَخْفَيْتُمُ وَمَا أَعْنَتُمْ وَمَنْ يَفْعَلُهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ

سَوَاءَ السَّيِّلِ

muri mwe, rwose yayobye inzira itunganye.

2. Baramutse babatsinze, bababera ababisha (ku mugaragaro) bakabaramburaho amaboko yabo (babica) n'indimi zabo bagamije inabi, ndetse bifusa ko muhakana.

3. (Mumenye ko) imiryango yanyu n'abana banyu nta cyo bizabamarira (imbere ya Allah). Ku munsi w'imperuka (Allah) azabakiranura. Kandi Allah ni Ubona bihebuje ibyo mukora.

4. Mu by'ukuri mwagize urugero rwiza kuri Ibrahim n'abari kumwe nave, ubwo babwiraga abantu babo bati "Rwose twitandukanyije namwe ndetse n'ibyo mugaragira bitari Allah. Turabahakanye, kandi hagati yacu namwe havutse ububisha n'ubugome bihoraho, kugeza ubwo muzemera Allah wenyine." Uretse imvugo ya Ibrahim abwira se ati "Rwose nzagusabira imbabazi (kuri Allah), ariko nta bushobozi mfite bwo kugira icyo nkumarira imbere ya Allah." (Basabye Nyagasani bagira bati) Nyagasani wacu! Ni Wowe twiringiye kandi ni nave twicuzaho ndetse iwawe ni ho garukiro (ryacu twese)'.

إِنْ يَشْفُوْكُمْ كُوْنُوا لَكُمْ أَعْدَاءٌ وَيَسْطُوْلُ إِلَيْكُمْ  
أَيْدِيهُمْ وَالسَّنَّةُ هُمْ بِالسُّوءِ وَدُوْلُ أَوْ تَكْفُرُونَ

لَنْ تَفْعَلُ كُوْرَحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ  
يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ بِصَيْرُ

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ  
إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بَرِئُونَ وَلَا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ  
مِنْ دُونِ اللَّهِ هَرَبَنَا إِلَيْكُمْ وَبِدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ  
وَالْبَغْضَاءُ أَبْدَى حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَإِلَّا قُولَّ  
إِبْرَاهِيمَ لَا يَبِدِي لَا سَتَغْفَرَنَ لَكَ وَمَا أَمْلَكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ  
مِنْ شَيْءٍ عَرَبَنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبَنَا وَإِلَيْكَ

الْمُصَيْرُ

5. "Nyagasani wacu! Ntutugire ikigeragezo ku bahakanye, kandi utubarbare Nyagasani wacu! Mu by'ukuri ni Wowe Munyacyubahiro uhebuje, Nyirubugenge buhambaye."

6. Rwose bababereye urugero rwiza (mugomba gukurikira) kuri ba bandi bizeye **Allah** n'umunsi w'imperuka. Ariko uzatera umugongo (inzira ya **Allah**, amenye ko) mu by'ukuri **Allah** ari We Uwhagije, Ushimwa cyane.

7. Hari ubwo **Allah** yashyira urukundo hagati yanyu ndetse na bamwe mu bo mufitanye urwango, kandi **Allah** ni Ushobora byose. Ndetsse **Allah** ni Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

8. **Allah** ntababuza kugirira ineza n'ubutabera abatarabarwanyije mu idini ntibana bameneshe mu ngo zanyu. Mu by'ukuri **Allah** akunda abatabera.

9. Ahubwo **Allah** ababuza kugira inshuti ababarwanyije mu idini bakanabakura mu ngo zanyu, ndetse bakanashyigikira (abandi) kubamenesha. Ariko abazabagira inshuti ni bo nkozi z'ibibi.

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَأَغْرِنَا بِإِنَّكَ  
أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦﴾

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أَسْوَهُ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ  
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ إِنَّ اللَّهَ هُوَ أَعْلَمُ الْحَمِيدُ

\*عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ  
مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَرِيرٌ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ  
يُخْرُجُوكُمْ مِنْ دِيْرَكُمْ أَنْ تَبْرُوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ  
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ  
وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيْرَكُمْ وَظَاهِرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ  
تُولُّهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

10. Yemwe abemeye! Abemeramanakazi b'abimukira nibabagana, mujye mubagerageza (kugira ngo mumenyе ukwemera kwabo). Allah ni We uzi neza ukwemera kwabo. Nimumara kumenya ko ari abemera nyakuri, ntimukabasubize mu bahakanyi. (Abo bagore) ntibaziruriwe (abagabo b'abahakanyi) ndetse na bo (abagabo b'abahakanyi) ntibabaziruriwe. Ahubwo mujye mwishyura (abagabo babo b'abahakanyi) ibyo babatanze (inkwano). Kandi nta kibi kuri mwe muramutse mubarongoye igihe mwabahaye inkwano zabo. Ntimugakomezanye umubano w'abashakanye n'abagore bahakanye, ahubwo mujye musaba gusubizwa ibyo mwatanze, maze na bo (abagabo b'abahakanyi) basabe ibyo batanze. Iryo ni itegeko rya Allah abakiranurisha. Kandi Allah ni Umumenyi uhebuje, Nyirubugenge buhambaye.

11. Nihagira umwe mu bagore banyu ubacika agasanga abahakanyi (ntibabasubize inkwano mwabatanzeho), hanyuma habaho kurwana na bo mukabatsinda (mukagira iminyago mubakuraho), mujye muha abo abagore babo bagiye (bakaza babasanga) ibingana

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنُونَ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عِلِّمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنُونَ فَلَا تُرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَإِنْ أُولُو الْمَثْقُولَاتِ لَمْ يَجِدْنَ حَلًا كُنْ تَذَكُّرُهُنَّ إِذَا أَتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُنْسِكُو أَعْصَمَ الْكُوَافِرِ وَسَاعُوا مَا أَنْفَقُوا وَلَيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۖ

وَإِنْ فَاتَكُوكُ شَيْءٌ مِّنْ أَرْوَاحِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَعَالَمُ الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَرْوَاحُهُمْ مِّثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَأَنْفَقُوا اللَّهُ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۚ

n'ibyo bari barabatzeho (inkwano). Kandi mugandukire Allah We mwemera.

12. Yewe Muhanuzi! Abemeramanakazi nibakugana bagusezeranya ko nta cyo bazabangikanya na Allah, ko bataziba, ko batazasambana, ko batazica abana babo, ko batazagira uwo bahimbira ibinyoma, kandi ko batazakwigomekaho mu byiza; ujye wakira ibyo bagusezeranyije unabasabire imbabazi kwa Allah. Mu by'ukuri Allah ni Ubabarira ibyaha, Nyirimpuhwe.

13. Yemwe abemeye! Ntimukagire inshuti abantu Allah yarakariye. Mu by'ukuri imperuka bayitereye icyizere (kuko nta cyiza bazayibonaho), nk'uko abahakanyi bari mu mva bihebye (ko batazabona imbabazi za Allah).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَارِعْنَكُمْ عَلَىٰ أَنْ لَا  
يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَرْبِّنَ وَلَا  
يَقْتُلْنَ أُولَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِيْنَ بِهَمَّةٍ بَيْتَرِينَهُ وَبَيْنَ  
أَيْدِيهِنَّ وَلَا جُلْهُنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِي مَعْرُوفٍ  
فَبَلَىٰ عَهْنَ وَأَسْتَغْفِرُ لَهُنَّ اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَحِيمٌ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَنْتَهُوا قَوْمًا غَضِيبَ اللَّهُ  
عَلَيْهِمْ قَدِيسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَسِّسُ الْكُفَّارُ  
مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ

(٢٣)

## 61 - SURAT A-SWAF

(UMURONGO)

Yahishuriwe i Madina, igizwe n'imirongo 14.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Ibiri mu birere n'ibiri ku isi bisingiza Allah; kandi ni Umunyacyubahiro uhebuje, Nyirubugenge buhambaye.

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ  
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ①

2. Yemwe abemeye! Kuki muvuga ibyo mudakora?

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِذَا مَكَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا  
تَفْعَلُونَ ②

3. Ibyo Allah abyanga bikomeye kuba muvuga ibyo mudakora!

كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا  
تَفْعَلُونَ ③

4. Mu by'ukuri Allah akunda abarwana mu nzira ye bari ku mirongo (bashyize hamwe), bameze nk'nyubako isobetse.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَا  
كَأَنَّهُمْ بُنَيَّنَ مَرْصُوصٌ ④

5. Unibuke ubwo Musa yabwiraga abantu be ati “Yemwe bantu banjye! Kuki muntoteza kandi muzi ko rwose ndi Intumwa ya Allah yaboherejweho? Nuko ubwo bayobaga (inzira ya Allah), Allah yarekeye imitima yabo mu buyobe, kuko Allah atayobora abantu b'ibygomeke.

وَإِذَا قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَقُولُونَ إِنَّا نُؤْذِنَّ نَخْرُجُ وَنَزَّلْنَا  
وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا  
رَأَوُا أَرَاءَ اللَّهِ قُلُوبُهُمْ مَرْجُونَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ  
الْفَاسِقِينَ ⑤

6. Unibuke ubwo Issa mwene Mariyamu yavugaga ati “Yemwe bene Isiraheli! Mu by'ukuri njye ndi Intumwa ya Allah yaboherejweho, nshimangira ibyambanjirije byo muri Tawurati, kandi nkanatanga inkuru nziza y'Intumwa izaza nyuma yanjye. Izina ryayo rizaba ari Ahmad (ari we Muhamadi).” Nuko ubwo yabazaniraga ibitangaza, baravuze batii “Ubu ni uburozi bugaragara!”

7. Ese ni nde nkozi y'ibibi kurusha uhimbira Allah ikinyoma, kandi ahamagarirwa kuyoboka Islamu? Kandi Allah ntayobora abantu b'inkozi z'ibibi.

8. Barashaka kuzimya urumuri rwa Allah (idini rye) bakoresheje iminwa yabo, ariko Allah azasendereza urumuri rwe kabone n'ubwo byababaza abahakanyi.

9. Ni We wohereje Intumwa ye (Muhamadi) ayihaye umuyoboro n'idini ry'ukuri, kugira ngo arirutishe amadini yose, kabone n'ubwo byababaza ababangikanyamana.

وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ تَبَّأْنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ  
مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَاتِي  
مِنْ بَعْدِي أَسْمُهُ أَخْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبُيُّنَتِ قَالُوا هَذَا  
سِحْرٌ مُبِينٌ<sup>٦</sup>

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ أَفْرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يَدْعُ إِلَى  
الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ<sup>٧</sup>

يُرِيدُونَ لِيُطْفُؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ  
وَلَوْ كَرِهَ الْكُفَّارُ<sup>٨</sup>

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ وَبِإِلَهَدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرُهُ  
عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَوْ كَرِهَ الْمُسْكِنُونَ<sup>٩</sup>

10. Yemwe abemeye!  
Mbarangire ubucuruzi  
buzabarokora ibihano  
bibabaza?

11. Nimwemere **Allah** n'Intumwa ye (Muhamadi), munaharanire inzira ya **Allah** mukoresheje imitungo yanyu namwe ubwanyu. Ibyo ni byo byiza kuri mwe, iyaba mwari mubizi.

12. (Nimubigenza mutyo, **Allah**) azabababarira ibyaha byanyu, anabinjize mu busitani butembamo imigezi, n'ubuturo bwiza mu busitani buhoraho (Ijuru). Uko ni ko gutsinda guhambaye.

13. (Azanabaha) n'ibindi mukunda: ugutabarwa guturutse kwa **Allah** n'intsinzi ya bugufi. Bityo, tanga inkuru nziza ku bemeramana.

14. Yemwe abemeye! Nimube abashygikira (idini rya) **Allah**, nk'uko Issa mwene Mariyamu yabwiye abigishwa be ati “Ni ba nde banshyigikira mu nzira ya **Allah**?” Abigishwa baravuga bat “Turi abashygikiye **Allah**.” Nuko itsinda rya bamwe muri bene Isiraheli riremera, irindi rirahakana. Maze dushygikira abemeye batsinda abanzi babo.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِمَّا مُؤْمِنُوْهُمْ أَدْلُوكُمْ عَلَى تَجْرِيَةٍ تُسْجِكُمْ مِّنْ عَذَابِ الْيَمِّ

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادُهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَا مُؤْمِنُوْهُمْ وَأَنَفْسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبُكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ وَمَسِكِنٌ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتٍ عَدِيْنِ ذَلِكَ الْفَوْزُ

وَأَخْرَى حَبْوَنَاهُ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَشَرِيفٌ الْمُؤْمِنِيْنَ

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِمَّا مُؤْمِنُوْهُمْ أَنْصَارُ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيْنَ مَنْ أَنْصَارَ إِلَيَّ اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيْنَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَقَامَتْ طَالِبَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَنَفَرَتْ طَالِبَةٌ فَأَيَّدَنَا الَّذِينَ إِمَّا مُؤْمِنُوْهُمْ أَعْدُوْهُمْ فَأَصْبَحُوْنَ

ظَاهِرِيْنَ

## 62 - SURAT AL-DJUMUAT

(UMUNSI WA GATANU)

Yahishuriwe i Madina, igizwe n'imirongo11

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Ibiri mu birere n'ibiri ku isi bisingiza Allah, Umwami, Umutagatifu, Umunyacyubahiro uhebuje, Nyirubugenge buhambaye.

2. Ni We wohereje Intumwa (Muhamadi) mu batazi gusoma no kwandika (b'Abarabu), ibakomokamo, ibasomera amagambo ye, ibeza ndetse ikanabigisha igitabo (Qur'an) n'ubushishozi (imigenzo y'Intumwa); kandi mu by'ukuri mbere bari mu buyobe bugaragara.

3. (Iyo Ntumwa yanoherejwe) no ku bandi muri bo (batari Abarabu), bari batarabakurikira (ariko bazaza). Kandi (Allah) ni Umunyacyubahiro uhebuje, Nyirubugenge buhambaye.

4. Izo ni ingabire za Allah aha uwo ashaka, kandi Allah ni Nyiringabire zihambaye.

يُسَيِّدُ اللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكُ  
الْقَدُّوسُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأَمْمَيْنِ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتَوَعَّدُهُمْ  
بِآيَتِهِ وَيُرِيكُهُمْ وَيَعَامِهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ  
وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَغَى ضَلَالٌ مُّبِينٌ ﴿٢﴾

وَإِخْرَجَنَّ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣﴾

۲

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ

الْعَظِيمُ ﴿٤﴾

5. Abaragijwe (amategeko ya) Tawurati ariko ntibayikurikize, bagereranywa n'indogobe yikoreye ibitabo (ariko ikaba itazi ibyanditsemo). Ni urugero rubi rw'abantu bahinyuye amagambo ya **Allah!** Kandi **Allah** ntayobora abantu b'abahakanyi.

6. Vuga (yewe Muhamadi) uti "Yemwe ababaye Abayahudi! Niba mwibwira ko muri inshuti za **Allah** kurusha abandi bantu bose, ngaho nimwifuze urupfu niba koko muri abanyakuri."

7. Nyamara rwose ntibarwifuza na gato kubera ibyo bakoze (bibi). Kandi **Allah** azi neza inkozi z'ibibi.

8. Babwire uti "Mu by'ukuri urupfu muhunga ruzabageraho nta kabuza, hanyuma mugarurwe kuri We (**Allah**), Umumenyi w'ibitagaragara n'ibigaragara, maze ababwire ibyo mwakoraga.

9. Yemwe abemeye! Umuhamagaro w'sengesho ry'umunsi wa gatanu (Ijuma) nuhamagarwa, mujye mwihuta mujya gusingiza **Allah**, kandi muhagarike ubucuruzi (n'ibindi bintu byose). Ibyo ni byo byiza kuri mwe, iyaba mwari mubizi.

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا أَنْتَوْرِلَةً ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا  
كَمَثَلِ الْحَمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ  
الْقَوْمَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِعَيْنِهِمْ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي  
الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥﴾

قُلْ يَأَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنْ كُمْ أَوْلَىٰ  
لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ  
حَسِيدِينَ ﴿٦﴾

وَلَا يَتَسْمَوْنَهُ أَبْدًا إِيمَانًا قَدَّمْتَ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ  
بِالظَّالِمِينَ ﴿٧﴾

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفْرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ  
مُلَاقِي كُلِّ ثُمَّرْدُونَ إِلَى عَلِيِّ الْعَيْبِ وَالشَّهَدَةِ  
فَيَنْبَئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِذَا آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمٍ  
الْجَمُوعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا أَبْيَعَ ذَلِكُمْ  
خَرْجٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعَامِلُونَ ﴿٩﴾

10. Isengesho nirirangira, mujye muhita mugendagenda ku isi, mushakisha zimwe mu ngabire za **Allah**, kandi munasingize **Allah** cyane kugira ngo mukiranuke.

11. Ariko iyo (bamwe) babonye ubucuruzi cyangwa ibindi byo kwinezeza, barabishidukira bakagusiga uhagaze wenyine (wowe Muhamadi, uri gutanga inyigisho z'umunsi wa gatanu). Vuga uti “Ibiri kwa **Allah** ni byo byiza kurusha kwishimisha n’ubucuruzi! Kandi **Allah** ni We Uhebuje mu batanga amafunguro.”

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَأَنْتَ شَرُوْفٌ فِي الْأَرْضِ  
وَأَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣﴾

وَإِذَا رَأَوْا تِجَرَّةً أَوْ لَهْوًا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا  
قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ الْتِجَرَّةِ وَاللَّهُ  
خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١٤﴾

### 63 - SURAT AL-MUNAFIQUA (INDYARYA)

*Yahishuriwe i Madina, igizwe n’imirongo 11*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya **Allah**, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Indyarya niziza zikugana (yewe Muhamadi), zizavuga ziti “Turemeza ko mu by’ukuri uri Intumwa ya **Allah**. (Ibyo zizabivuga) kandi **Allah** azi neza ko uri Intumwa ye, nyamara

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشَهِدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ  
وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهُدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ  
لَكَذِبُونَ ﴿١﴾

Allah ahamya ko indyarya ari inyabinyoma.

2. Indahiro zabo bazigize ingabo (zibahishira uburyarya bwabo), nuko bakumiriye (abantu) kugana inzira ya Allah. Mu by'ukuri ibyo bakoraga ni bibi.

3. Ibyo ni ukubera ko babanje kwemera hanyuma bagahakana. Bityo, imitima yabo yaradanangiwe, ikaba ari yo mpamvu badasobanukirwa.

4. N'yo ubarebye imibiri yabo iragushimisha, ndetse n'yo bavuze, wumva amagambo yabo. Bameze nk'ibiti byegetse (ku nkuta kubera kutumva kwabo). Bakeka ko buri nduru ivugijwe ari bo iba ivugirijwe. Ni abanzi, bityo jya ubitondera. Allah arakabarimbura! Ni gute bateshwa (inzira igorotse)?

5. N'yo babwiwe bati "Nimuze Intumwa ya Allah ibasabire imbabazi," bazunguza imitwe, ukababona basubira inyuma (bagutera umugongo), buzuye uwibbone.

6. Wabasabira imbabazi utazibasabira, byose ni kimwe kuri bo, Allah ntazigera abababarira. Mu by'ukuri Allah ntayobora abantu b'ibygomeke.

اتَّخِذُوا إِيمَنَهُمْ جُنَاحَةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ  
إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦﴾

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ أَمْنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَنُظْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا  
يَفْتَهُونَ ﴿٧﴾

\*وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا  
تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَانُوهُمْ خُشُبٌ مُّسَدَّدٌ يَحْسَبُونَ  
كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُ فَاحْذَرُهُمْ قَتَّالُهُمْ  
اللَّهُ أَنِّي يَوْمَ فَكُونَ ﴿٨﴾

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْلَا  
رُؤُوسُهُمْ وَرَأْيُهُمْ يَصْدُدُونَ وَهُمْ  
مُسْتَكِرُونَ ﴿٩﴾

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفِرَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرَ  
لَهُمْ لَنْ يَعْفُرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي  
الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٠﴾

7. Ni bo bavuga bati “Ntimukagire icyo muha abari kumwe n’Intumwa ya Allah, kugeza ubwo bitandukanyije na yo. Nyamara Allah ni we nyir’ibigega by’ibirere n’isi, ariko indyarya ntizibisobanukirwa.”

8. (Indyarya) ziravuga ziti “Nituramuka dusubiye i Madina, mu by’ukuri umunyacyubahiro cyane (ari we Abdullah bin Ubay bin Salul, wari umuyobozi w’Indyarya i Madina) azahirukana usuzuguritse cyane (Intumwa y’Imana Muhamadi).” Nyamara icyubahiro nyacyo ni icya Allah n’Intumwa ye (Muhamadi) ndetse n’abemeramana; ariko indyarya ntabwo zibizi.

9. Yemwe abemeye! Imitungo yanyu n’abana banyu ntibikabarangaze ngo bibabuze kwibuka Allah. Abakora ibyo ni bo bazaba abanyagihombo.

10. Mujye mutanga mu byo twabahaye mbere y’uko urupfu rugera kuri umwe muri mwe maze akavuga ati “Nyagasani! Iyaba wari untije igihe gito ngatanga amaturo ndetse nkaba no mu bakora ibikorwa byiza.”

هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنِفِّقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ  
رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا وَلَهُ خَرَابٌ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا  
يَفْقَهُونَ ۝

يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجُنَّ  
الْأَعَزَّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعَزَّةُ وَلِرَسُولِهِ  
وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا  
أَوْلَادُكُمْ كُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ  
فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝

وَإِنِّي فُوقُوا مِنْ مَارِزَقْتُكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ  
الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخْرَجْتَنِي إِلَى أَجَلِ فَرِيقِي  
فَأَصَدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝

11. Kandi Allah ntajya na rimwe arindiriza umuntu iyo igihe cye (cyo gupfa) cyageze. Allah ni Umumenyi uhebuje wibyo mukora.

وَلَن يُؤْخِرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَيْرٌ  
بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١﴾

#### 64 - SURAT A-TAGHABUNI

(IGIHOMBO)

*Yahishuriwe i Madina, igizwe n'imiron go 18.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Ibiri mu birere n'ibiri ku isi bisingiza Allah. Ubwami n'ishimwe ndetse n'ikuzo byuzuye ni ibye, kandi ni we Ushobora byose.

يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ  
وَلَهُ الْحَمْدُ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾

2. Ni We wabaremye, ariko bamwe muri mwe ni abahakanyi, abandi bakaba abemeramana. Kandi Allah ni Ubona bihebuje ibyo mukora.

هُوَ الَّذِي حَلَقَ كُلَّ فِينَهُ كَافِرٌ وَمَنْ كُفِّرَ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ  
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢﴾

3. Yaremye ibirere n'isi mu kuri, nuko abaha amashusho maze arayatunganya; kandi iwe ni ho garukiro (ryacu twese).

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَرَ كُلَّ فَأَحَسَّ  
صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمِصِيرُ ﴿٣﴾

4. Azi ibiri mu birere n'isi, akanamenya ibyo muhisha n'ibyo mugaragaza; kandi Allah

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ  
وَمَا تُعْلَمُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٤﴾

ni Umumenyi uhebuje w'ibiri  
mu bituza (by'abantu).

5. Ese inkuru ya ba bandi  
bahakanye mbere  
ntiyabagezeho ko basogongeye  
ingaruka z'ibikorwa byabo (hano  
ku isi), kandi (ko ku munsi  
w'imperuka) bazahanishwa  
ibihano bibabaza?

6. Ni na ko Intumwa zabo  
zabageragaho zibazaniye  
ibimenyetso bigaragara, ariko  
bakavuga bati "Ese abantu  
(bameze nkatwe)  
batuyobora?" Nuko  
bagahakana bagatera  
umugongo. Nyamara **Allah**  
arihagije, nta cyo abakeneyeho,  
kandi **Allah** ni Uwhiagije,  
Ushimwa cyane.

7. Abahakanyi bakeka ko  
batazazurwa (ngo babazwe)?  
Vuga (yewe Muhamadi) uti  
"Yego! Ndahiye ku izina rya  
Nyagasani wanjye, rwose  
muzazurwa maze mubwirwe  
ibyo mwakoze, kandi kuri **Allah**  
ibyo biroroshye."

8. Ngaho nimwemere **Allah**  
n'Intumwa ye (Muhamadi)  
ndetse n'urumuri (Qur'an)  
twahishuye. Kandi **Allah** ni  
Umumenyi uhebuje w'ibyo  
mukora.

أَلَّمْ يَأْتِكُمْ بِهُؤُلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ فَذَاقُوا وَبَالَ

أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَائِيَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا إِنَّا شَرِيكُونَا فِي إِنْدِيزَةِ الْمُحَمَّدِ  
يَهْدُونَا فَكَفَرُوا وَأَقْتَلُوا وَأَسْتَعْنُى اللَّهَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَعْلَمُ

٦

رَعَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ لَنَ يُبَعْثُرُو قُلْ بِلَّا وَرَبِّي  
أَتَبْعَثُنَّ مُّرْتَضَيْنَ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ

يَسِيرٌ

فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورُ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ حَيْرٌ

9. (Unibuke) umunsi azabakoranya (mwese) ku munsi w'ikoraniro; uwo uzaba ari umunsi w'igihombo (ku banyabyaha). Kandi uwemera **Allah** akanakora ibikorwa byiza, azamubabarira ibibi (yakoze) anamwinjize mu busitani butembamo imigezi (Ijuru), azabamo ubuziraherezo. Uko ni ko gutsinda guhambaye.

10. Naho abahakanye bakanahinyura amagambo yacu, bazaba abo mu muriro bazabamo ubuziraherezo; kandi iryo ni igarukiro ribi.

11. Nta kibi gishobora kuba (ku muntu) bitari ku burenganzira bwa **Allah**. Ndetse n'uwenemeye **Allah**, (**Allah**) ayobora umutima we (mu kwemera nyako). Kandi **Allah** ni Umumenyi uhebuje wa buri kintu.

12. Nimwumvire **Allah** kandi munumvire Intumwa (Muhamadi). Ariko nimutera umugongo, mu by'ukuri Intumwa yacu nta kindi ishinzwe uretse gusohoza ubutumwa mu buryo bugaragara.

13. **Allah!** Nta yindi mana itari We. Bityo, abemeramana ngaho nibiringire **Allah** (wenyine).

يَوْمَ يَجْمِعُ كُلُّ لِيُومٍ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّحْسِبِ وَمَنْ

يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلَاحًا يُكَفَّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتُهُ

وَيُدْخِلُهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَالِدِينَ

فِيهَا آبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ

أَصَحَّ بُلْمَارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِسْسَ الْمَصِيرِ

۱۲

مَا آصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ

بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ عَلَيْهِ

۱۳

وَأَطِيعُو اللَّهَ وَأَطِيعُو الرَّسُولَ فَإِنَّ تَوْلِيَتُ

فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَغُ الْمُبِينُ

۱۴

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلِيَسْتَوْكِلِ

الْمُؤْمِنُونَ

۱۵

14. Yemwe abemeye! Mu by'ukuri bamwe mu bagore banyu n'abana banyu, ni abanzi banyu (bashobora kubabuza kumvira **Allah**); bityo, mujye mubitondera! Ariko nimwirengagiza (amakosa yabo), mukanarenzaho, ndetse mukanababarira, mu by'ukuri **Allah** ni Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

15. Mu by'ukuri imitungo yanyu n'abana banyu ni ikigeragezo, ariko **Allah** afite ibihembo bihambaye (Ijuru).

16. Bityo, nimugandukire **Allah** uko mubishoboye, mwumve (ibyo Intumwa ibigisha) kandi mwumvire (amategeko yayo) ndetse munatange amaturo; bizaba ari byo byiza kuri mwe. Kandi abarinzwé kugira ubugugu ni bo bazatsinda.

17. Nimuramuka mugurije **Allah** inguzanyo nziza (mutanga kubera we), azayibatuburira anababarira. Kandi **Allah** ni Ushima (ibikorwa by'abagaragu be), Uworohera (abagaragu be).

18. Umumenyi w'ibitagaragara n'ibigaragara,  
Umunyacyubahiro uhebuje,  
Nyirubugenge buhambaye.

يَكَائِنُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا مِنْ أَزْوَاجِهِمْ  
وَأَوْلَادِهِمْ كُمْ عَدُوًّا لَّهُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ  
تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَعْفِرُوا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَّحِيمٌ

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ  
عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا سَتَطِعُتُمْ وَاسْمَعُوا وَاطِّبِعُوا  
وَأَنِفِقُوا خَيْرَ الْأَنْفُسِ كُمْ وَمِنْ يُوقَشَ  
نَفْسِهِ فَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعِّفُهُ لَكُمْ  
وَيَعْفُرَ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

عَلَيْهِ الْغَيْبُ وَالشَّهَدَةُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

## 65 - SURAT AT-TWALAQ

(GUSENDA)

Yahishuriwe i Madina, igizwe n'imirongo 12

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Yewe Muhanuzi (Muhamadi)! Nimusenda abagore, mujye mubasenda mukurikije igihe cyabo cyagenwe (Eda)<sup>225</sup>, ndetse mujye mubara igihe cyabo (Eda) neza, kandi munatinye Allah, Nyagasan wanyu. Ntimukabasohore mu ngo zabo cyangwa se na bo ngo bijyane, keretse bakoze icyaha cy'urukozasoni gifitiwe gihamya (ubusambanyi). Izo ni imbago zashyizweho na Allah, kandi urenze imbago za Allah, aba yihemukiye. (Wowe wasenze umugore wawe) ntiwamenya, hari ubwo nyuma yibyo, Allah yabihindura ukundi (mukaba mwakongera gusubirana).

2. Nibageza igihe cyabo, mushobora kugumana na bo ku neza cyangwa mugatandukana na bo ku neza. (Igihe mwahisemo kugumana cyangwa gutandukana na bo) mujye mubishakira abahamya babiri b'inyangamugayo muri mwe.

يَا أَيُّهَا الَّذِي إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطِلَقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ  
 وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَإِنَّمَا اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا يُخْرِجُوهُنَّ مِّنْ  
 بُوْتِهِنَّ وَلَا يَنْهَا حِنْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحْشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ  
 وَتَلَاقَ حُدُودَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ  
 نَفْسَهُ لَا تَرِدِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحِدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا



فَإِذَا بَلَغَنَ أَجَاهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ  
 فَارْفُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ  
 وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ بُوْظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ

<sup>225</sup> Eda ni igihe cyagenwe n'amategeko ya Isilamu umugore ategereza mbere yuko atandukana n'umugabo we.

Kandi (mwe batangabuhanya) mujye mutanga ubuhamya kubera Allah. Ibyo ni inyigisho ku wemera Allah n'umunsi w'imperuka. Kandi ugandukira Allah, amucira icyanzu,

3. Akanamuha amafunguro mu buryo atakekaga. Kandi uwiringira Allah, aramuhamagi. Mu by'ukuri Allah azasohoza umugambi we. Kandi buri kintu Allah yagishyiriye ho igeno (ryacyo).

4. Na ba bandi batakiyya imugongo (bacuze) mu bagore banyu (batakiyya imugongo), nimuramuka mushidikanyije (ku gihe cyabo cya Eda); igihe cyabo (bagomba gutegereza bakiri mu ngo zabo) ni amezi atatu, ni kimwe na ba bandi batari bajya imugongo (na bo igihe cyabo ni amezi atatu). Naho abatwite (baba baratandukanye n'abagabo cyangwa abagabo babo barapfuye), igihe cyabo bagombaga gutegereza (bakiri mu ngo zabo) kugeza babyaye. Kandi ugandukira Allah, amworohereza ibye.

5. Iryo ni itegeko rya Allah yabahishuriye. Kandi ugandukira Allah, azamuhanaguraho ibyaha bye anamuhe ibihembo bihambaye.

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَقَدَّمُ بِهِ فَلَا يَعْلَمُ مَحْرَاجًا

۲

وَيَرْفَعُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ أُمْرٍ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

وَأَتَئِيَ بِيْسَنَ مِنَ الْمَحِيطِ مِنْ نَسَابِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعَدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةً أَشْهُرٍ وَأَتَئِيَ لَمْ يَحْضُنْ وَأَوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَاهُنَّ أَنْ يَضَعَنَ حَمَاهُنَّ وَمَنْ يَتَقَدَّمُ اللَّهُ يَعْلَمُ لَهُ مِنْ أُمْرِهِ

يُسَرَا

ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَقَدَّمُ اللَّهُ يُكَافِرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعَظِّمُ لَهُ أَجْرًا

6. (Abo bagore bategereje igihe cyabo cya Eda) mujye mubarekera aho mutuye bijyanye n'ubushobozi bwanyu. Ntimukanabatoteze mugamije kubabuza amahwemo (kugira ngo babavire mu ngo). Nibaba batwite, mujye mubaha ibibatunga kugeza babyaye. Nibabonkereza (bakabasaba igihembo) mujye mubaha ibihembo byabo, kandi mujye mubijyaho inama ku neza. Ariko nimutumvikana, undi (mugore) yamumwonkereza.

7. (Umugabo) wishoboye, ajye atanga bijyanye n'ubushobozi bwe. N'ufite ubushobozi buciritse ajye atanga mu byo **Allah** yamuhyae (bingana n'ubushobozi bwe). **Allah** ntategeka umuntu gukora ibirenze ubushobozi yamuhyae. Rwose nyuma y'ibihe bikomeye, **Allah** aroroshyia (nyuma y'ubukene azana ubukire).

8. Ese ni imidugudu ingahe yigometse ku itegeko rya Nyagasani wayo n'Intumwa ze, nuko tukayiryoza mu buryo bukomeye ibyo yakoze, ndetse tukazanayihanisha ibihano bikaze (ku munsi w'imperuka)?

9. Bityo, (iyo midugudu) yasogongeye ingaruka z'ibikorwa byayo, kandi iherezo

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حِيثُ سَكَنُوكُمْ مِنْ وَجْدَكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ  
لِنُضَيِّقُوا عَيْهِنَّ وَإِنْ كُنْ أُولَئِكَ مُحْمَلٌ فَأَنْفِقُوا عَيْهِنَّ  
حَتَّىٰ يَصَعَّنَ حَمْلُهُنَّ إِنَّ أَرْضَنَ لَكُمْ فَاقْتُلُوهُنَّ  
أُجُورُهُنَّ وَأَتَمْرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسِرُ  
فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿١﴾

لِيُنْفِقُ دُونَسَعَةٍ مِنْ سَعَيْهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقٌ وَ  
فَلَيُنْفِقُ مِمَّا أَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا  
عَطَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ سُرًّا ﴿٢﴾

وَكَانُ مِنْ قَرِيبَةٍ عَتَّقَ عَنْ أَمْرِهَا وَرُسْلِهِ فَأَسْبَهَا  
حَسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبَهَا عَذَابًا شَدِيدًا ﴿٣﴾

فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا حُسْرًا ﴿٤﴾

ryayo      ryabaye      igihombo  
gikomeye,

10. Allah yabateguriye ibihano bikaze. Ngaho nimugandukire Allah yemwe bantu mufite ubwenge mukaba mwaranemeye! Rwose Allah yabahishuriye urwibutso,

11. (Yanabohereje) Intumwa ibasomera amagambo ya Allah (Qur'an) asobanutse, kugira ngo akure mu mwijima babandi bemeye bakanakora ibikorwa byiza anabaganishe ku rumuri. Bityo, uwemera Allah akanakora ibikorwa byiza, (Allah) azamwinjiza mu busitani butembamo imigezi (Ijuru) bazabamo ubuziraherezo. Rwose Allah yamutunganyirije amafunguro (meza).

12. Allah ni We waremye ibirere birindwi (anarema) isi (ndwi) nka byo. Itegeko rye rimanuka hagati yabyo (ibirere n'isi), kugira ngo mumenye ko Allah ari Ushobora byose, ndetse ko Allah azi neza buri kintu.

أَعَدَ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوهُ اللَّهُ يَأْوِي إِلَى الْأَلْبَيِ

الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذَكْرًا

رَسُولًا يَتَلَوَّ عَلَيْكُمْ كُلَّهُ إِنَّ اللَّهَ مُبِينٌ لَّيُخْرِجَ الَّذِينَ  
ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ  
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخَلُهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ  
نَّهَارًا لَّا نَهَارٌ خَلِيلَنِ فِيهَا أَبَدٌ أَفَذَ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ وَرِزْقًا

۱۶

الَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ  
يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بِيَنْهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  
قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحْاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمًا

۱۷

## 66 - SURAT A-TAH'RIIM

(KUZIRIRIZA)

Yahishuriwe i Madina, igizwe n 'imirongo 12

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Yewe Muhanuzi (Muhamadi)!  
 Kuki wiziririza ibyo Allah  
 yakuziruriye ugamije  
 gushimisha abagore bawe?  
 Kandi Allah ni Nyir'ukubabarira  
 ibyaha, Nyirimpuhwe.

2. Rwose (yemwe abemeramana)  
 Allah yabategetse uburyo  
 muzirura indahiro zanyu  
 (mutanga icyiru)<sup>226</sup>. Kandi Allah  
 ni Umurinzi wanyu akaba  
 n'Umumenyi uhebuje,  
 Nyirubugenge buhambaye.

3. (Zirikana) ubwo Umuhanuzi  
 (Muhamadi) yabisaga ibanga  
 umwe mu bagore be (Hafsa),  
 maze ubwo yarimenaga  
 (aribwira mukeba we Ayisha),  
 (Allah abihishurira Umuhanuzi)  
 maze (Umuhanuzi) amenyesha  
 (Hafsa) bimwe muri byo, ibindi  
 arabireka. Nuko ubwo  
 yabimubwiraga, (Hafsa)  
 aravuga ati "Ni nde wakubwiye  
 ibi?" (Intumwa) iravuga iti

يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَمْ تُحِمِّلُ مَا أَحَدَ اللَّهُ لَكُمْ تَبَغِي مَرَضَاتٌ  
 أَرْوَاحُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحْلَةً أَيْمَنَكُمْ وَاللَّهُ مُوَلَّكُكُمْ وَهُوَ  
 الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

وَإِذَا سَأَلَ اللَّهُ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا بَأْتَهُ  
 بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَغْرَضَ عَنْ  
 بَعْضٍ فَلَمَّا بَأْتَهُمْ بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكُمْ هَذَا قَالَ بَنَانِي  
 الْعَلِيمُ الْحَنِيرُ

<sup>226</sup> Icyo cyiru twagisobanuye muri Surat ya 5 (Al Maidat): Ayat 89.

“Nabibwiwe n’Umumenyi uhebuje, Uzi neza buri kintu.”

4. Nimwicuza mwembi (Hafsa na Ayisha) kuri **Allah** (bizaba ari byo byiza kuri mwe) kuko imitima yanyu yateshutse. Ariko nimumuteraniraho (Umuhanuzi, mugamije kumubuza amahoro), mu by’ukuri **Allah** ni We Murinzi we; azanatabarwa na (Malayika) Jibrilu n’abemeramana bakora ibikorwa byiza; byongeye kandi n’abamalayika bazamushyigikira.

5. (Umuhanuzi) aramutse abahaye ubutane, hari ubwo Nyagasanî we yamuguranira akamuha abagore beza babaruta: b’abayisilamukazi, abemeramanakazi, bibombarika (kuri **Allah**), bikuza, bagaragira **Allah**, basiba (Swawumu), baba barashatse cyangwa bakiri amasugi.

6. Yemwe abemeye! Nimwirinde (murinde) n’imiryango yanyu umuriro, kuko ibicanwa byawo bizaba abantu n’amabuye; (kandi) urinzwe n’abamalayika b’inkazi, b’abanyembaraga, ntibajya bigomeka na rimwe ku byo **Allah** abategetse, ahubwo bakora ibyo bategetswe.

إِن تَوْبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَّتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَهُ وَجِرِيلُ وَصَلَحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَاهِرٌ ﴿٤﴾

عَسَى رَبُّهُ أَنْ طَلَقْنَاهُ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَرْجَاحَ حَيْثَ أَمْكَنَ مُسَلِّمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَنَّتِ تَبَّاتِ عَلِيَّاتٍ سَيِّحَاتِ شَيْبَاتِ وَأَبَكَارًا ﴿٥﴾

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فَوْأَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيَّكُمْ نَارًا وَفُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غَلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾

7. (Abahakanyi bazabwirwa bati) "Yemwe abahakanye! Uyu munsi ntimuzane urwitwazo! Mu by'ukuri murahanirwa ibyo mwajyaga mukora."

8. Yemwe abemeye! Nimwicuze kwa **Allah** ukwicuza nyako, kugira ngo Nyagasanani wanyu azababarire ibyaha byanyu, anabinjize mu busitani butembamo imigezi (Ijuru), ku munsi **Allah** atazakoza isoni Umuhanuzi (Muhamadi) n'abemeye hamwe na we. Urumuri rwabo ruzaba rukataje imbere n'iburyo habo, bavuga bati "Nyagasanani wacu! Twuzurize urumuri, unatubabarire ibyaha. Mu by'ukuri ni wowe Ushobora byose."

9. Yewe Muhanuzi (Muhamadi)! Rwanya abahakanyi n'indyarya unabakarire. Kandi ubuturo bwabo ni umuriro wa Jahanamu; mbega iherezo ribi!

10. **Allah** yatanze urugero ku bahakanye: (ari bo) umugore w'Intumwa Nuhu n'umugore w'Intumwa Lutwi. (Abo bombi) bari abagore b'abagaragu bacu babiri b'intungane, ariko (abo bagore) baje kubahemukira (bahakana ubutumwa bwabo, nuko abagabo babo) ntibagira icyo babamarira kwa **Allah** (ngo

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَدُوا إِلَيْهِمْ إِنَّمَا  
يُحِلُّونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِذَا مُؤْمِنُوْا بِاللَّهِ تَوَبَّةً نَصْوَحًا  
عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ  
وَيُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّتَنَّ تَجْرِي مِنْ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ  
يَوْمًا لَا يُخَزِّنِي اللَّهُ أَنَّى وَالَّذِينَ إِذَا مُؤْمِنُوْا مَعَهُ  
لُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ  
رَبَّنَا أَتَتْمَمْ لَنَا نُورًا وَأَغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ  
شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٨﴾

يَا أَيُّهَا النَّاسُ جِهَدُ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ  
وَأَعْنَظُ عَلَيْهِمْ وَمَا وَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ  
الْمَصِيرُ ﴿٩﴾

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَمْرَاتٌ فُوجِ  
وَأَمْرَاتٌ لُوطٌ كَمَا تَأْتَى نَحْنَ بَعْدَهُنَّ مِنْ  
عِبَادَنَا صَلَاحَيْنِ فَخَاتَاهُمَا فَلَمْ يُعْنِيَا عَنْهُمَا  
مِنْ أَنَّ اللَّهَ شَيْءًا وَقِيلَ أَدْخُلَا النَّارَ مَعَ  
الْمُلَّا خَلِيلَ ﴿١٠﴾

babasabire kudahanwa), maze (abo bagore) barabwirwa bati “Nimwinjire mu muriro hamwe n’abawinjiramo.”

11. Allah yanatanze urugero ku bemeye: (ari bo) umugore wa Farawo, ubwo yavugaga ati “Nyagasanani wanje! Nyubakira inzu iwawe mu Ijuru unandinde Farawo n’ibikorwa bye, kandi undinde abantu b’inkozi z’ibibi”,

12. Na Mariyamu mwene Imrani, we warinze ubusugi bwe maze tumuhumekeramo (tubinyujije kuri) Roho wacu (Malayika Jibrilu), nuko yemera amagambo ya Nyagasanani we n’ibitabo bye (ko ari ukuri), kandi yari mu bibombarika (kuri Allah).

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا أَمْرَاتَ فِرْعَوْنَ إِذَا قَاتَلَ رَبَّ أُبْنَى لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجَّنَّى مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلَهُ وَنَجَّنَّى مِنْ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٦﴾

وَرَمِيمَ أُبْنَتَ عِمَرَانَ أُلَّا تَأْخُذَنَّ فَرَجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتِ بِكَلْمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَدِينَ ﴿١٧﴾

### 67 - SURAT AL-MULKU (UBWAMI)

*Yahishuriwe i Maka, igizwe n’imirongo 30.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Ubutagatifu ni ubwa (Allah), ufile ubwami (bwose) mu kuboko kwe, kandi ni Ushobora byose.

تَبَرَّكَ الَّذِي بَيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾

2. Ni We waremye urupfu n'ubuzima kugira ngo abagerageze hanyuma amenye ukora ibikorwa byiza kurusha abandi muri mwe, kandi ni Umunyacyubahiro uhebuje, Ubabarira ibyaha.

3. Ni We waremye ibirere birindwi bigerekeranye. Ntushobora kubona ibidatunganye mu byo (Allah) Nyirimpuhwe yaremye. Ngaho ongera wubure amaso (urebe); ese hari inenge ubona?

4. Hanyuma wongere wubure amaso ubugira kabiri, amaso aragaruka yamwaye kandi yacitse intege (kuko nta nenge yabonye).

5. Rwose ikirere cyegereye isi twagitakishije amatara (inyenyeri), tunayagira ibishashi byo gutera za shitani (amajini yigometse), kandi twanaziteguriye igihano cy'umuriro ugurumana.

6. Abahakanye Nyagasani wabo bazahanishwa ibihano by'umuriro wa Jahanamu, kandi iryo ni ryo garukiro ribi,

7. Ubwo bazaba bajugunywemo (mu muriro wa Jahanamu), bazumva utogota kandi ubira,

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكَ أَيْكُمْ أَحَسَنُ  
عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿٢﴾

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقٍ  
الرَّحْمَنُ مِنْ تَقْوَتِكَ فَأَرْجِعْ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُورٍ

﴿٣﴾

ثُمَّ أَرْجِعْ الْبَصَرَ كَمْ تَرَىٰ نِقْلَبَ إِلَيْكَ الْبَصَرُ حَاسِدًا وَهُوَ  
حَسِيرٌ

وَلَقَدْ رَبَّنَا السَّمَاءَ الْمُتْهِيَّ بِصَبِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُؤْجُومًا  
لِلشَّيْطَنِينَ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا سَعِيرًا ﴿٤﴾

﴿٤﴾

وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرِبِّهِمْ عَذَابٌ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

إِذَا أَلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا هَاشِيْقَا وَهِيَ تَقُوْرُ ﴿٥﴾

8. (Uwo muriro) uzaba wenda gusandara kubera umujinya (ufitiye abanyabyaha)! Buri uko agatsiko kazajya kawujugunywamo, abarinzi bawo bazajya bakabaza bati “Ese nta muburizi wabagezeho?”

تَكَادُ تَمَيَّزَ مِنَ الْغَيْظِ كَمَا أَنَّهُ فِيهَا فَوْجٌ سَالِهُمْ  
خَرَّبَهَا أَلَّمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿٨﴾

9. Bazavuga bati “Yego! Rwose umuburizi yatugezeho ariko twaramuhinyuye, turanavuga tuti “**Allah** nta kintu yigeze ahishura, tuti ahubwo mwe muri mu buyobe buhambaye.”

قَالُوا إِنِّي قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبُنَا وَقُلْنَا مَا مَنَّ اللَّهُ مِنْ  
شَيْءٍ إِنَّ أَنْشُرَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَيْرٍ ﴿٩﴾

10. Bazanavuga bati “Iyo tuza kumva cyangwa tukanatekereza, ntitiwari kuba mu bo mu muriro ugurumana.”

وَقَالُوا لَوْ كَانَ هَذَا سَمْعًا وَعَقْلًا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ

١٠

11. Baziyemerera ibyaha byabo (ariko nta cyo bizabamarira). Bityo, ukorama nikube ku bantu bo mu muriro ugurumana!

فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١١﴾

12. Mu by'ukuri abatinya Nyagasani wabo batamubona, bazababarirwa ibyaha ndetse banahabwe ibihembo bihebuje.

إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ  
وَأَجْرٌ كَيْرٌ ﴿١٢﴾

13. Kandi ibiganiro byanyu mwabikorera mu bwiru cyangwa mukabigaragaza, mu by'ukuri (**Allah**) ni Umumenyi uhebuje w'ibiri mu bituza (by'abantu).

وَاسِرُوا قَوْلَكُمْ أَوْ أَجْهَرُوهُ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ  
الْمُصْدُورِ ﴿١٣﴾

14. Ese Uwaremye yayoberwa (ibyo yaremye)? Kandi ni We

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْحَمِيرُ ﴿١٤﴾

Uworohera (ibiremwa bye), Uzi byimazeyo (buri kintu).

15. Ni We waborohereje isi; ngaho nimutambagire mu mpande zayo (zinyuranye), ndetse murye mu mafunguro ye (**Allah**). Kandi iwe ni ho muzazurwa mugana.

16. Ese muratekanye (yemwe bahakanyi) ku buryo (mwizeye ko) uri mu ijuru (**Allah**) atabarigitisha mu isi ikabamira? Dore izaba iri gutigita!

17. Cyangwa se muratekanye ku buryo (mwizeye ko) uri mu ijuru atabohererera inkubi y'umuyaga uvanze n'amabuye (wabarimbura mwese)? Ubwo ni bwo muzamenya uko ukuburira kwanjye (kumeze)!

18. Rwose ababayeho mbere yabo (abahakanyi b'i Maka) barahinyuye. Mbega uko uburakari bwanjye bwari bumeze!

19. Ese ntibabona inyoni hejuru yabo uko ziguruka zirambura amababa yazo zikanayahina? Ntawe uzifata (ngo zitagwa hasi) usibye (**Allah**) Nyirimpuhwe. Mu by'ukuri ni Ubona buri kintu bihebuje.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لِكُوْنَ الْأَرْضَ ذُلْلًا فَأَمْشَوْا فِي مَنَاكِبِهَا  
وَكُلُّ أُمَّةٍ مِنْ زَرْفَهُ وَإِلَيْهِ الْنُّشُورُ ﴿١٥﴾

أَمَّنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُوْنَ الْأَرْضِ فَإِذَا  
هِيَ تَمُورُ ﴿١٦﴾

أَمَّنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرِسِّلَ عَلَيْكُو حَاصِبَا  
فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ ﴿١٧﴾

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَذِيرٌ ﴿١٨﴾

أَوْ عَيْرُوا إِلَى الظَّاهِرِ فَرَقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضُنَّ مَا  
يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿١٩﴾

20. Ahubwo se uwo ni nde wababera ingabo (mwa bahakanyi mwe) ngo abatabare usibye (Allah) Nyirimpuhwe? Nyamara Abahakanyi baribeshya.

21. Cyangwa se uwo ni nde wabaha amafunguro, (Allah) aramutse ahagaritse amafunguro ye? Ahubwo (bahakanyi) bakomeje gutsimbarara mu gasuzuguro no kwanga (ukuri).

22. Ese wa wundi ugenda yubitse umutwe (ahuzagurika) ni we wayobotse kurusha wa wundi ugenda yemye mu nzira igorotse?

23. Vuga (yewe Muhamadi) uti “(Allah) ni We wabaremye, abaha ukumva (amatwi), amaso n'imitima (ibafasha gutekereza); ariko mushimira gake!”

24. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Ni We wabakwirakwije ku isi, kandi iwe ni ho muzakoranyirizwa.”

25. Baranavuga bati “Ese iryo sezerano (izuka) rizaba ryari, niba koko muri abanyakuri?”

26. Vuga uti “Mu by'ukuri ubumenyi (bw'igihe iryo zuka

أَمَنَ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدُكُمْ يَنْصُرُكُمْ مَنْ دُونَ الرَّحْمَنِ  
إِنَّ الْكَفَرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ

أَمَنَ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنَّ أَمْسَاكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُوًافِ  
عُتُوقٍ فَوْرٍ

أَمَنَ يَمْشِي مُكَبَّاً عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَنَ يَمْشِي  
سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَعَ وَالْأَبْصَرَ  
وَالْأَفْعَادَ قِيلَامًا شَكُورُونَ

قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ  
تُحْشَرُونَ

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنْذِيرُ مُّبِينٍ

rizabera) buri kwa Allah, kandi njye ndi umuburizi ugaragara.”

27. Ariko ubwo bazabibona (ibihano byo ku munsi w'imperuka) biri hafi, uburanga bw'abahakanye buzijima bugire agahinda, maze babwirwe bati “Ngibi ibyo mwajyaga musaba ko byihutishwa (ngaho byaje)”

28. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Nimumbwire! Allah aramutse anyoretse njye n'abo turi kumwe (nk'uko mubyifusa) cyangwa akatugirira impuhwe, ni nde warinda abahakanyi ibihano bibabaza?”

29. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Ni We (Allah) Nyirimpuhwe, twaramwemeye kandi ni na We twiringira. Vuba aha bidatinze muzamenya uri mu buyobe bugaragara (ibihano nibigera).”

30. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Nimumbwire! Amazi yanyu (mukoresha) aramutse arigitie ikuzimu (agakama), ni nde (utari Allah) wabagarurira amazi (y'isoko) atemba?”

فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةَ سِيَّعَتْ وَجْهُهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا  
الَّذِي كُفِرْبِهِ تَدَعُونَ ﴿٢٧﴾

قُلْ أَرَعِيْشِمْ إِنَّ أَهْلَكَنِيْ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيْ أَوْ حَمَنْ  
يُحِيرُ الْكُفَّارِ مِنْ عَذَابِ أَلَيْمِ ﴿٢٨﴾

قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ عَامَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوْكِنُ  
فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٩﴾

قُلْ أَرَعِيْتُمْ إِنَّ أَصْبَحَ مَا كُنْتُمْ غَوَّرًا فَمَنْ يَأْتِيْكُمْ بِمَاءٍ  
مَّعِيْنِ ﴿٣٠﴾

## 68 - SURAT AL-QALAM (IKARAMU)

*Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirongo 52.*

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Nuuni<sup>227</sup> Ndahiye ikaramu n'ibyo (abamalayika n'abantu) bandika!

١ ﴿ وَالْقَلْمَنْ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾

2. Ku bw'ingabire za Nyagasan wawe (z'ubutumwa wahawé), ntabwo wowe (Muhamadi) uri umusazi.

٢ ﴿ مَا أَنْتَ بِنَعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ﴾

3. Kandi mu by'ukuri uzahabwa ibihembo bidashira (ku bw'ingorane uhura na zo).

٣ ﴿ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرٌ أَغْرِيَ مَمْنُونٍ ﴾

4. Rwose mu by'ukuri uftite ubupfura buhambaye.

٤ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾

5. Bityo vuba aha bidatinze uzabona, n'abo (abahakanyi) babone,

٥ ﴿ فَسَتَبِّصُ وَرَبِّصُونَ ﴾

6. Umusazi muri mwe (uwo ari we).

٦ ﴿ يَا أَيُّهُكُمُ الْمَفْتُونُ ﴾

7. Mu by'ukuri Nyagasan wawe ni We uzi neza uwayobye inzira ye, kandi ni na We uzi neza abayobotse.

٧ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾

<sup>227</sup> Inyuguti nk'izi twazivuzeho mu masura yatambutse.

8. Bityo, ntukumvire abahinyura.

فَلَا تُطِعُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٨﴾

9. Bifuje ko waborohera (ukabakorera ibyo bashaka) na bo bakakorohera (ntibakurwanye).

وَدُوَا لَوْتَدِهِنْ فِي كِدْهُنْونَ ﴿٩﴾

10. Kandi ntukumvire buri (muntu) urahira kenshi unasuzuguritse,

وَلَا تُطِعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴿١٠﴾

11. Umuneguzi wa cyane, unabunza amagambo (agenda asebanya),

هَمَّازِ مَشَاعِ بَنَمِيمِ ﴿١١﴾

12. Ubuza ibyiza, urengera, umunyacyaha,

مَنَاعَ لِلْخَيْرِ مُعَتَدِ أَثِيمٍ ﴿١٢﴾

13. Uw'umutima winangije, hejuru y'ibyo akaba ari ikinyendaro (atazwi inkomoko ye kwa se)<sup>228</sup>.

عُتْلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴿١٣﴾

14. Yitwaza ko afite umutungo mwinshi n'urubyaro (rwinshi),

أَنْ كَانَ ذَامِلٌ وَّبَنِيتَ ﴿١٤﴾

15. Iyo asomewe amagambo yacu, aravuga ati "Ni inkuru z'abo hambere."

إِذَا شَلَّى عَلَيْهِ إِيْتُنَا قَالَ أَسْطِيرُ الْأَوَّلَيْتَ ﴿١٥﴾

16. Tuzamushyiraho ikimenyetso ku mutonzi (ku zuru rye).

سَنَسِمْهُ، عَلَى الْحَرْطُومِ ﴿١٦﴾

<sup>228</sup>-Umuntu uvugwa muri yi mirongo ni uwitwa Al Walid ibun al Mughirat, umwe mu babangikanyamana b'i Maka warwanyaga Intumwa y'Imana Muhamadi.

17. Mu by'ukuri (abantu b'i Maka), twarabagerageje nk'uko twagerageje abantu bari bafite umurima ubwo barahiraga ko rwose bawusarura mu rukerera.

إِنَّا بَلَوَنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَفْسَمُوا لِيَضْرِبُهُمْ

مُصْبِحِينَ ﴿١٧﴾

18. Ariko ntibavuze (In-sha-**Allah**, Imana nibishaka).

وَلَا يَسْتَثِنُونَ ﴿١٨﴾

19. Bityo, ikiza (inkongi y'umuriro) giturutse kwa Nyagasan i wawe kirawugota, mu gihe bo bari baryamye.

فَطَافَ عَلَيْهَا طَالِيفٌ مِّنْ رَّبِّكَ وَهُمْ نَاءِمُونَ ﴿١٩﴾

20. (Umurima wabo) uhinduka nk'uruuhira.

فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيرِ ﴿٢٠﴾

21. Nuko bucyeye barahamagarana,

فَتَنَادُوا مُصْبِحِينَ ﴿٢١﴾

22. Bagira bati "Nimuzindukire mu murima wanyu niba mugikomeje umugambi wo kuwusarura."

أَنْ أَغْدُوْنَا عَلَى حَرْثِكُونَ كُنْتُمْ صَدِّيقِينَ ﴿٢٢﴾

23. Nuko bagenda bongorerana,

فَانْظَلَقُوا وَهُمْ يَخْفَتُونَ ﴿٢٣﴾

24. (Bagira bati) "Uyu munsi ntihagire umukene n'umwe uwubinjiranamo (umurima).

أَنْ لَا يَدْخُلَنَا الْيَوْمَ عَيْكُوكُ مَسِكِينٌ ﴿٢٤﴾

25. Nuko bazinduka baganayo (mu murima wabo) biyumvamo ubushobozi (bwo kwima abakene).

وَغَدْرًا عَلَى حَرْدَقَدِرِينَ ﴿٢٥﴾

26. Maze bawubonye baravuga bati "Mu by'ukuri twayobye (inzira)!"

فَأَمَّارًا وَهَا قَاتِلًا إِنَّا لَضَالُونَ ﴿٢٦﴾

27. Ahubwo twimwe (umusaruro wawo kubera umugambi wacu mubi wo kwima abakene).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

28. Ushyira mu gaciro muri bo  
aravuga ati “Sinari nababwiye  
ko iyo muza gusingiza (**Allah**  
mukanamushimira,  
mukanavuga muti: In-sha-  
**Allah**, mutari guhura n’ibi  
byago)?”

٢٨ ﴿ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَمْ أَقْلَ لَكُمْ لَوْلَا تُسْبِحُونَ

29. Baravuga bati "Ubutagatifu ni ubwa Nyagasani wacu, mu by'ukuri twari inkozi z'ibibili!"

٤٩ ﴿أَنَا أَنَا أَكَظِلُ الْمِنَ

30. Nuko bamwe batangira  
guhindukirira abandi (bitana  
bamwana) bavevana,

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَوِّمُونَ

31. Baravuga bati "Mbega ishyano tubonye! Mu by'ukuritwari abarengera (imbibi za Allah)."

٣١ قَالُوا يَا يَوْمَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ

32. Hari ubwo Nyagasanzi wacu yadushumbusha (umurima) mwiza kuwuruta. Rwose twerekeje ibyifuzo byacu kwa Nyagasanzi wacu.

عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُدِلَّنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ

33. Uko ni ko ibihano (bya Allah  
ku isi) bimera! Ariko ibihano byo  
ku        munsi        w'imperuka  
birahambaye cyane, iyaba bari  
babizi.

كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعْذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ كُلُّهُمَا يَعْلَمُونَ

34. Mu by'ukuri abagandukira  
(Allah) bazagororerwa Ijuru

إِنَّ لِمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ الْتَّعْدِيمِ

ryuje ingabire kwa Nyagasan  
wabo.

35. Ese abicisha bugufi imbere  
ya Allah (Abayisilamu) twabafata  
kimwe n'inkozi z'ibibi?

۲۵ أَفَنَجِعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ

36. Ese mwabaye mute?  
Mubona ibintu mute?

۲۶ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

37. Cyangwa mwaba mufite  
igitabo musomamo (ko abicisha  
bugufi ari kimwe n'inkozi  
z'ibibi)!

۲۷ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ

38. Mu by'ukuri mukaba  
mufitemo (muri icyo gitabo) aho  
mukura ibyo?

۲۸ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَانَخِرُونَ

39. Cyangwa mudufiteho  
amasezerano ntakuka afite  
agaciro kugeza ku munsi  
w'imperuka yo kuzabona ibyo  
mwifuza?

۲۹ أَمْ لَكُمْ أَيْمَنٌ عَيْنًا بِلَغَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا

تَحْكُمُونَ

40. Babaze (yewe Muhamadi)  
uti "Ni nde muri bo  
wabyishingira (akabibera  
umuhamya)?"

۳۰ سَلَّهُمْ أَعُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيرُ

41. Cyangwa se (abahakanyi)  
baba bafite ibigirwamana  
(bizabafasha ku munsi  
w'imperuka)? Ngaho nibazane  
ibyo bigirwamana byabo niba ari  
abanyakuri.

۳۱ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءَ فَلَيَأْتُوا بِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ

42. (Ibuka) umunsi (ibantu bizaba bikomeye kandi biteye ubwoba), ubwo igice cyo hepfo cy'ukuguru (kwa Allah) kizagaragarizwa (ibiremwa), nuko (abahakanyi) bagahamagarirwa kubamira (Allah) ariko ntibabishobore<sup>229</sup>

يَوْمَ يُكَسَّفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا  
يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٦﴾

43. Bazaba bubitse amaso (kubera ikimwaro), batwikiriwe n'ugusuzugurika. Nyamara bajyaga bahamagarirwa kubamira Allah ari bazima (ntibabikore kubera ubwibone).

خَشِعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرَهُقُهُمْ ذَلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ﴿٤٧﴾

44. Bityo, (yewe Muhamadi) ndekera uwo ari we wese uhinyura iyi nkuru (Qur'an). Rwose (abo bayihinyura) tuzabatwara buhoro buhoro (tubaganisha mu bihano) mu buryo batazi.

فَذَرْنَاهُ وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدِرُهُمْ  
مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٨﴾

45. Nzanabaha igihe (bibwire ko batazahanwa); mu by'ukuri imigambi yanjye irakomeye.

وَأَمْلَى لَهُمْ أَنَّ كَيْدِي مَاتِينُ ﴿٤٩﴾

46. Cyangwa (bibwira ko wowe Muhamadi) ubasaba igihembo, none bakaba baremererwa n'ubwishyu?

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمِ مُّشْكُونَ ﴿٥٠﴾

47. Ahubwo se bibwira ko bazi ibitagaragara, bakaba babishingiraho bandika (ibyo

أَمْ عَنْدُهُمْ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿٥١﴾

<sup>229</sup>Imyemerere ya Isilamu igaragaza ko Allah afite ibimuranga, bimwe bikaba bihuje inyito n'iby'ibiremwa ariko bidahuje imiterere, kuko Allah atagira icyo asa na cyo. Imvugo y'Intumwa y'Imana Muhamadi igaragaza ko ku munsi w'imperuka Allah azerekwa ibiremwa bye igice cyo hepfo cy'ukuguru kwe (umurundi). Icyo gihe abemererama bazubamira Allah, ariko abajyaga bubamira Allah ku isi bagamije kwiyerakana, ntibizabashobokera.

bishakiye, badakeneye ibyo  
ubabwira)?

48. Bityo (yewe Muhamadi),  
ihanganire itegeko rya  
Nyagasan wawe, kandi ntube  
nk'umwe wamizwe n'ifi  
(Umuhanuzi Yunusu) ubwo  
yadutakambiraga n'agahinda  
kenshi.

49. Iyo bitaza kuba ingabire  
iturutse kwa Nyagasan we  
yamugezeho, (ifi) yari kumuruka  
ku musenyi wo ku nkcombe  
kandi umugayo umuriho.

50. Nuko Nyagasan we  
aramutoranya, maze amushyira  
mu ntungane.

51. Kandi iyo abahakanye  
bumvise urwibutso (Qur'an),  
bakurebesha indoro ikomeye,  
bifuza ko wagwa igihunga kugira  
ngo bavuge bati "Rwose ni  
umusazi."

52. Kandi (Qur'an) nta kindi iri  
cyo usibye kuba ari urwibutso  
ku biremwa byose.

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رِبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ

نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿٤٨﴾

لَمَّا أَنْ تَدَرَّكَهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ لَنِيَّدٌ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ

مَدْمُومٌ ﴿٤٩﴾

فَأَجْتَبَهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿٥٠﴾

وَإِنْ يَكُدُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَزْلُفُونَكَ بِأَبْصَرٍ هُمْ مَا

سَمِعُوا الْذِكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿٥١﴾

وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٥٢﴾

## 69 - SURAT AL-HAAQAT

(UKURI KUDAKUMIRWA)

Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirongo 52.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1.Ukuri kudakumirwa (umunsi w'izuka).

الْحَقَّاتُ ١

2. Ukuri kudakumirwa ni iki?

مَا الْحَقَّاتُ ٢

3. Ni iki kizakubwira ukuri kudakumirwa?

وَمَا آذَرَكَ مَا الْحَقَّاتُ ٣

4. Aba Thamudu n'aba Adi bahinyuye umunsi w'imperuka.

كَذَبَتْ شَوْدُو عَادٌ بِالْقَارِعَةِ ٤

5. Aba Thamudu borekeshejwe urusaku ndengakamere.

فَأَمَّا ثَمُودُ فَاهْلَكُوا بِالظَّاغِنَةِ ٥

6. Naho aba Adi borekeshwa umuyaga uvuza ubuhuha, usenya.

وَأَمَّا عَادٌ فَاهْلَكُوا بِرَبِيعِ صَرَصَرِ عَاتِيَةِ ٦

7. (Allah) yawubateje mu gihe cy'amajoro arindwi n'amanywa umunani bikurikiranye. Wabonaga abantu ari imirambo irambaraye imeze nk'ingiga z'ibiti by'imitende (byaranduwe) birangaye (birimo ubusa mo imbere).

سَخَّرَهَا عَيْهِ هُرْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَنَيْةً أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ

فِيهَا صَرَعٌ كَأَنَّهُمْ أَعْجَزُهُنَّ خَوَيْهِ ٧

8. Ese urabona hari n'umwe wasigaye muri bo?

فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ٨

9. Farawo n'ababayeho mbere ye ndetse n'abo mu midugudu yabisinduwe (abantu ba Loti) bakoze ibyaha,

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفَكَتُ بِالْحَاطِعَةِ ﴿١﴾

10. Nuko bigomeka ku Ntumwa ya Nyagasan wabo, maze (**Allah**) abahanisha ibihano bikaze.

فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخْذَهُمْ أَخْذَهُ رَبِّهِمْ ﴿٢﴾

11. Mu by'ukuri ubwo amazi yarengaga inkcombe (mu gihe cy'umwuzure wo ku bwa Nuhu, abamwemeye) twabatwaye mu bwato.

إِنَّ الْمَاطِعَ الْمَاءَ حَمَنَنَا كُنْدُكُنْ في الْجَارِيَةِ ﴿٣﴾

12. Kugira ngo tubigire urwibutso kuri mwe ndetse n'amati yumva abizirikane.

لِنَجْعَلَهَا الْجُنُبَةِ وَتَعِيَهَا أَذْنَ وَعِيَةً ﴿٤﴾

13. Ubwo impanda izavuzwa inshuro imwe (ya mbere).

إِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفَخَةٌ وَحْدَةٌ ﴿٥﴾

14. Isi n'imisozi bigaterurwa, bigahondwa inshuro imwe.

وَحُمِّلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَكَادَكَةً وَاحِدَةً ﴿٦﴾

15. Kuri uwo munsi, imperuka izaba igeze.

فِي يَوْمٍ مِّنْ وَقَعَتْ أُولَئِكَةُ ﴿٧﴾

16. N'ikirere kizasatagurika, maze uwo munsi kibe cyoroshye (ku buryo cyakwiyasagura).

وَانْشَقَتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمٌ مِّنْ وَاهِيَةٍ ﴿٨﴾

17. N'abamalayika bazaba bakizengurutse (ikirere) impande zacyo. Kandi kuri uwo munsi abamalayika umunani biyongera kuri abo bazaba

وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَاهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوَفَهُمْ

يَوْمٌ مِّنْ ثَمَنَةِ

bateruye Ar'shi<sup>230</sup> ya Nyagasan  
wawe.

18. Uwo munsi muzahagarikwa  
(imbere ya Allah). Nta kintu na  
kimwe cyanyu kizayo berana.

يَوْمَذِيْ عَرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴿١٨﴾

19. Bityo, uzahabwa igitabo cye  
mu kuboko kw'iburyo, azavuga  
(aratira abandi) agira ati  
“Nimuze musome igitabo  
cyanjye.”

فَأَمَّا مَنْ أُولَئِنِي كَتَبَهُ وَ يَمْبَينِهِ فَيَقُولُ هَآفُمُ أَقْرَءَهُ وَ

كِتْبَيَةٌ ﴿١٩﴾

20. Rwose njye nari nzi neza ko  
nzahura n'ibarura ryanjye nk'iri  
(kubera ibikorwa byiza nakoze).

إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَقِّ حَسَابِيَّهُ ﴿٢٠﴾

21. Azaba mu buzima  
bw'umunezero,

فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَاضِيَّهُ ﴿٢١﴾

22. Mu busitani buhebuje,

فِي جَنَّةٍ عَالِيَّهُ ﴿٢٢﴾

23. Imbuto zabwo zizaba ziri  
bugufi (yabo).

فُطُوفُهَا دَانِيَّهُ ﴿٢٣﴾

24. (Bazabwirwa batii) “Nimurye  
munanywe kandi muryoherwe,  
ibyo ni ukubera ibyo mwakoze  
mu minsi yahise (mukiri ku isi).”

كُلُّوْ أَشَرْبُوْهُنِيَّهُ بِمَا أَسْلَفْتُمُ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَّهُ ﴿٢٤﴾

25. Naho uzahabwa igitabo cye  
mu kuboko kw'ibumoso,  
azavuga (yicuza n'agahinda  
kenshi) ati “iyaba ntari mpawee  
iki gitabo cyanjye!”,

وَأَمَّا مَنْ أُولَئِنِي كَتَبَهُ وَ يَشْمَالِهِ فَيَقُولُ يَا يَتَّنِي لَمْ أُوتَ

كِتْبَيَهُ ﴿٢٥﴾

26. Sinamenye iby'ibarura  
ryanjye!

وَلَمْ أَدِرِّ مَاجِسَابِيَّهُ ﴿٢٦﴾

<sup>230</sup> Reba ibisobanuro by'iri jambo muri Surat ul A'raf, Aya ya 54

27. Iyaba urupfu (rwanjye napfuye mva ku isi) rwari rwo rwa burundu.

يَلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ﴿٢٧﴾

28. Umutungo wanjye nta cyo wamariye!

مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيَةٌ ﴿٢٨﴾

29. N'ubutware bwanjye bwabaye imfabusa (bwancitse).

هَلَكَ عَنِي سُلْطَنِيَةٌ ﴿٢٩﴾

30. (Abarinzi b'umuriro bazabwirwa bati) “Mumufate mumubohe,

خُدُودُهُ فَغَلُوْهُ ﴿٣٠﴾

31. Maze mumutwikire mu muriro,

ثُمَّ الْجَنَّمَ صَلُوهُ ﴿٣١﴾

32. Nyuma mumuboheshe umunyururu ufite uburebure bwa Dhira'a<sup>231</sup> mirongo irindwi.

ثُمَّ فِي سَلِيلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَأَسْلَكُوهُ ﴿٣٢﴾

33. Mu by'ukuri ntiyemeraga Allah w'ikirenga.

إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ﴿٣٣﴾

34. Nta n'ubwo yajyaga ashishikariza (abantu) kugaburira abakene.

وَلَا يَحْضُّ عَلَى طَعَامِ الْمُسِكِينِ ﴿٣٤﴾

35. None hano uyu munsi nta nshuti ari bugire (yamuvuganira cyangwa ngo imurinde ibihano)

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَهُنَّ حَمِيمٌ ﴿٣٥﴾

36. Nta n'ibyo kurya (ari buhabwe) uretse amashyira (y'abantu bo mu muriro),

وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مَنْ غَسَلَ يَدَيْهِ ﴿٣٦﴾

37. Nta bandi (bahabwa) ibyo biribwa uretse abanyabyaha.”

لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا لَحْظَتُهُنَّ ﴿٣٧﴾

<sup>231</sup> Dhira'a ni bumwe mu buryo bwa kera bwifashishwaga mu gupima uburebure bw'ikintu. Dhira'a imwe ingana na santimetero hafi mirongo irindwi n'eshanu (75 cm).

38. Rwose ndahiye ibyo mureba,

فَلَا أَقِسْمُ بِمَا تَصْرُونَ ﴿٢٩﴾

39. Nibyo mutareba.

وَمَا الْأَتْبِصُرُونَ ﴿٣٠﴾

40. Mu by'ukuri iyi (Qur'an) ni ijambo (rya Allah risomwa) n'Intumwa yubahitse (Muhamadi).

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَيْرِي ﴿٣١﴾

41. Ntabwo ari imvugo y'umusizi. Dore ko mwemera gake!

وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ قَيْلَامًا تُؤْمِنُونَ ﴿٣٢﴾

42. Nta n'ubwo ari imvugo y'umupfumu. Ariko mwibuka gake!

وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ قَيْلَامًا تَذَكَّرُونَ ﴿٣٣﴾

43. (Ahubwo ni igitabo) cyahishuwe giturutse kwa Nyagasani w'ibiremwa.

تَزَيِّنُ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٤﴾

44. N'yo (Muhamadi) aza kugira ibyo aduhimbira (tutavuze),

وَلَوْ تَقُولَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَفَوَيْلِ ﴿٣٥﴾

45. Twari kumufatisha imbaraga n'ukuboko kw'iburyo.

لَأَخْذَنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٣٦﴾

46. Maze tukamuca umutsi w'umuhyana w'ibanze (uvana amaraso mu mutima uyohereza hose mu mubiri).

ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٣٧﴾

47. Nta n'umwe muri mwe wari kugira icyo amumarira (ngo amutabare).

فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴿٣٨﴾

48. Kandi mu by'ukuri (Qur'an) ni urwibutso ku bagandukira Allah.

وَإِنَّهُ لَتَذَكَّرٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾

49. Rwose tuzi neza ko muri mwe hari abahinyura (iyi Qur'an).

وَإِنَّا نَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾

50. Kandi rwose (ku munsi w'imperuka, Qur'an) izaba amakuba ku bahakanyi.

وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكُفَّارِينَ ﴿٥٠﴾

51. Kandi mu by'ukuri (Qur'an) ni ukuri kudashidikanywaho.

وَإِنَّهُ لَحَقٌ لِّلْيَقِينِ ﴿٥١﴾

52. Bityo, tagatifuza izina rya Nyagasan i wawe, Uhambaye.

فَسَيِّدُنَا يَسِيرٌ رَّبُّ الْعَظِيمِ ﴿٥٢﴾

## 70 - SURAT AL-MAARIJ

(AMAYIRA AZAMUKA)

*Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirono 44*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Usaba yasabye ko ibihano bigomba kuzabaho bisohora,

سَأْلَ سَاءِلٍ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴿١﴾

2. (Nyamara ibyo bihano) nta kizabibuza kugera ku bahakanyi,

لِلْكُفَّارِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ﴿٢﴾

3. (Bizabageraho ku munsi w'imperuka) biturutse kwa

مِنْ أَنَّهُ ذِي الْمَعَارِجِ ﴿٣﴾

Allah, nyir'amayira azamuka (agana mu ijuru).

4. Abamalayika ndetse na Roho (Malayika Jibrilu) bazamuka iwe (Allah) mu gihe cy'umunsi umwe ungana n'imyaka ibihumbi mirongo itanu (ya hano ku isi, abandi batari bo bakoresha muri urwo rugendo).

5. Bityo, ihangane (yewe Muhamadi) wifashishije ukwihangana kwiza.

6. Mu by'ukuri bo babona (imperuka) iri kure,

7. Nyamara twe tukabona iri hafi.

8. Umunsi ikirere kizaba nk'umushongi w'umuringa.

9. N'imisozi ikaba nk'ubwoya (bukemurwa ku matungo bukorwamo imyambaro)

10. Kandi nta nshuti izigera ibaza iby'insuti yayo,

11. N'ubwo bazaba barebana (ndetse bakanamenyana, ariko nta cyo bazamarirana). Kubera ibihano by'uwo munsi, umunyabyaha azifuza gutangaho incungu abana be,

12. Umugore we, umuvandimwe we,

تَرْجُحُ الْمُلَكَّيَةِ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ

مَقْدَارُهُ هُمْ سَيِّدُنَا مَحَمَّدٌ أَلْفَ سَنَةٍ

فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا

إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ وَيَعْيَدُهُ

وَنَزَلَهُ قَرِيبًا

يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهَلِّ

وَتَكُونُ الْجَبَالُ كَالْعَهْنِ

وَلَا يَسْكُنُ حَيْثُ يُحِبُّ

يُبَصِّرُ وَنَهْمُ بُودُ الْمُجْرِمُ لَوْيَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْحِسْنَى

بَيْنَهُ

وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ

13. N'umuryango we yahungiragaho (akiri ku isi igihe ahuye n'ibimuteye uwomba).

وَفَصِيلَاتِهِ الَّتِي شُوِّهَتْ  
١٣

14. Ndetse n'abari mu isi bose (azifuza kubatangaho incungu) kugira ngo arokoke.

وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا شَوَّهَهُ نَحْنُ هُوَ  
١٤

15. Ariko nta cyo bizamumarira! Ahubwo azajya mu muriro ugurumana,

كَلَّا إِنَّهَا لِظَلَى  
١٥

16. Uhubuzaho uruhu rw'agahanga,

نَرَاعَةً لِلشَّوَّى  
١٦

17. Uzaba uhamagara uwo ari we wese wateraga umugongo akanirengagiza (ukuri gukubiye muri Qur'an),

تَدْعُوا مَنْ أَبْرَأَ وَتَوَلَّ  
١٧

18. Akanakusanya (umutungo) akawuhunika (ntawukoreshe mu nzira ya Allah).

وَجْمَعَ قَوْعِيَ  
١٨

19. Mu by'ukuri umuntu yaremanywe ukutihangana,

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوقًا  
١٩\*

20. Iyo ikibi kimugezeho, ariheba cyane.

إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جُزُوعًا  
٢٠

21. Naho icyiza cyamugeraho, akaba umunyabugugu cyane.

وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَوْعًا  
٢١

22. Uretse abakora iswala,

إِلَّا الْمُصْلِينَ  
٢٢

23. Ba bandi bahozaho iswala zabo,

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ  
٢٣

24. Na ba bandi bagena umugabane uzwi (Zakat) mu mitungo yabo,

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ﴿٢٤﴾

25. Wagenewe usaba n'uwiyumanganyije (nyamara akeneye ubufasha);

لِسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

26. Na ba bandi bemera ko umunsi w'ibihembo ari ukuri,

وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ يَوْمَ الْلِّيْلَيْنَ ﴿٦﴾

27. Na ba bandi batinya ibihano bya Nyagasan wabo.

وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَدَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿٦﴾

28. Kubera ko mu by'ukuri ibihano bya Nyagasan wabo nta n'umwe wakwizera ko bitamugeraho.

إِنَّ عَدَابَ رَبِّهِمْ عَيْرَ مَأْمُونٍ ﴿٦﴾

29. Na ba bandi barinda ubwambure bwabo (ubusambanyi),

وَالَّذِينَ هُمْ لَفُوْرُ جَهَنَّمَ حَفَظُونَ ﴿٦﴾

30. Uretse ku bagore babo cyangwa se ku bo bafiteho ububasha (abaja). Mu by'ukuri bo ntibabigayirwa.

إِلَّا عَلَى أَزْرَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَيْرُ مُلُومِينَ ﴿٦﴾

31. Arikó abazashaka (kwinezeza) ku batari abo (bavuzwe), rwose abo bazaba batandukiriye.

فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٦﴾

32. Na ba bandi barinda ibyo baragijwe ndetse bakubahiriza n'amasezerano yabo.

وَالَّذِينَ هُمْ لَا مُنْتَهِيهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٦﴾

33. Na ba bandi batanga ubuhamya bw'ukuri.

وَالَّذِينَ هُمْ يَشَهَدُونَ هُمْ قَائِمُونَ ﴿٦﴾

34. Na ba bandi bahozaho  
iswala zabo (ku bihe byagenwe);

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٢٤﴾

35. Abo bazajya mu busitani  
(Ijuru) kandi bubashywe,

أُولَئِكَ فِي جَنَّتٍ مُّكَرَّمَةٍ ﴿٢٥﴾

36. None se ni iyihe mpamvu  
ituma abahakanyi bakugana  
(yewe Muhamadi)bihuta  
(bashaka kukumva, kandi  
batakwemera)?

فَالَّذِينَ كَفَرُواْ قَبْلَكَ مُهَاجِّعِينَ ﴿٢٦﴾

37. (Bicaye) mu matsinda iburyo  
n'ibumoso bwawe?

عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَاءِ عَنِينَ ﴿٢٧﴾

38. Ese buri wese muri bo  
ararikiye kuzinjizwa mu Ijuru  
ryuje ingabire?

إِذَا تَضَعَ كُلُّ أُمَّرَىٰ مِنْهُمْ أَنْ يُخْلَجَ جَنَّةً نَّعِيمًا ﴿٢٨﴾

39. Ntabwo ari ko bimeze! Mu  
by'ukuri twabaremye  
tubakomoye mu byo bazi<sup>232</sup>  
(ariko banga kwemera).

كُلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِمَّا يَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾

40. Bityo, ndahiye ku izina rya  
Nyagasanii w'Uburasirazuba  
bwose n'Uburengerazuba  
bwose, ko rwose dushoboye,

فَلَا أَقِسْمُ بَيْنَ الْمَشَرِّقِ وَالْمَغَرِّبِ إِنَّا لَقَدْ رُونَ ﴿٣٠﴾

41. Kubasimbuza abeza  
kubarusha, kandi  
ntibyatunananira.

عَلَىٰ أَنْ تُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٣١﴾

42. Bityo, bareke bavuge  
ibidafite umumaro, banikinire  
kugeza ubwo bazahura  
n'umunsi wabo basezeranyijwe.

فَذَرُوهُمْ يَحْضُرُواْ وَلَا يَعْبُوْ أَحَدٌ يُلْقَوْيُهُمُ الَّذِي

يُوعَدُونَ ﴿٣٢﴾

<sup>232</sup> Ibyo bazi bivugwa muri uyu murongo ni igitaka n'intanga umuntu yaremewemo.

43. Umunsi bazasohoka mu mva zabo bihuta, nk'uko bihutaga bagana amabuye ashinze (ibigirwamana byabo).

يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجَدَاثِ سِرَاعًا كَانَهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ

يُوْفَضُونَ

44. Bazaba bubitse amaso (kubera ikimwaro), batwikiriwe n'ugusuzugurika. Uwo ni wo munsi bajyaga basezeranywa.

خَسِعَةً أَبْصَرُهُمْ رَهْقَهُرُ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا

يُوعْدُونَ

71 - SURAT NUHU  
(INTUMWA NOWA)  
Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imironzo 28.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

Ku izina rya **Allah**, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Mu by'ukuri twohereje Nuhu ku bantu be (tugira tuti) "Burira abantu bawe mbere y'uko ibihano bibabaza bibageraho."

إِنَّا رَسَلْنَا لَوْحًا إِلَىٰ قَوْمَهُهُ أَنْ نَذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ

أَنْ يَأْتِيهِمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

2. (Nuhu) aravuga ati "Bantu banjye! Mu by'ukuri njye ndi umuburizi wanyu ugaragara,

قَالَ يَقُومٌ إِلَىٰ لَحْنَذِيرٍ مُّبِينٌ

3. (Ubaburira ko) mugomba kugaragira **Allah** (wenyine), mukanamugandukira kandi mukanyumvira.

أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَأَنْقُوهُ وَأَطِيعُونَ

4. (Ibyo nimubikora, **Allah**) azababarira ibyaha byanyu, anabahe kubaho kugeza igihe cyagenwe. Mu by'ukuri iyo igihe ntarengwa (cyo gupfa) **Allah** yagennye kigeze nticyongerwa, iyaba mwari mubizi.”

5. (Nuhu) aravuga ati “Nyagasani wanje! Mu by'ukuri nahamagariye abantu banje ijoro n'amanywa (ko bagomba kugaragira Imana imwe)”,

6. Ariko uguhamagara kwanje nta cyo kwabongereye uretse guhunga (ukuri).

7. Kandi mu by'ukuri buri uko nabahamagariraga (kwemera Imana imwe) kugira ngo ubababarire ibyaha byabo, bashyiraga intoki mu matwi, bakitwikira imyambaro, bagatsimbarara ndetse bakanibona cyan.

8. Hanyuma kandi nabahamagaye ku mugaragaro.

9. Hanyuma nanabatangarije (mu ijwi riranguruye) ndetse nanabbwira mu ibanga.

10. Narababwiye nti “Nimusabe imbabazi Nyagasani wanyu, mu by'ukuri ni We uhebuje mu kubabarira ibyaha.”

يَغْفِرُ لَكُم مَّن ذُنُوبُكُمْ وَيُؤْخِذُ إِلَيْ أَجَلِ مُسَمًّٰ  
إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤْخِرُ كُلُّ تَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَرْمَى لَيْلًا وَنَهَارًا ﴿٧﴾

فَمَرِيَزَدْهُمْ دُعَاءِي إِلَّا فَرَارًا ﴿٨﴾

وَإِنِّي لَكَمَادَعَوْتُهُمْ لَتَغْفِرَ لَهُمْ جَاعُوا أَصْبِعَهُمْ فِي  
إِذَا نَاهُمْ وَأَسْتَغْشَوْ إِثْيَا بَهُمْ وَأَصْرُوا وَأَسْتَكْبَرُوا  
أَسْتَكْبَرَارًا ﴿٩﴾

ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا ﴿١٠﴾

ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ﴿١١﴾

فَقُلْتُ أَسْتَغْفِرُ وَأَرْبَكُ إِنَّهُ كَانَ عَفَارًا ﴿١٢﴾

11. (Kugira ngo) azabohereze imvura nyinshi (ihagije),

يُرِسِّلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مَدْرَارًا ﴿١١﴾

12. Anabongerere imitungo n'urubyaro, abahe ubusitani (Ijuru) ndetse abahe n'imigezi (yaryo).

وَنُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَيْنَ يَدَيْكُمْ جَهَنَّمٌ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿١٢﴾

13. Kubera iki mudaha **Allah** icyubahiro kimukwiye?

مَالِكُ الْأَرْضِ لَا تَرْجُونَ لَهُ وَقَارًا ﴿١٣﴾

14. Kandi ari We wabaremye mu byiciro (bitandukanye)!

وَقَدْ خَلَقْتُكُمْ أَطْوَارًا ﴿١٤﴾

15. Ese ntumubona uburyo **Allah** yaremye ibirere birindwi bigerekeranye?

أَلَمْ تَرَوْ كَيْفَ حَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طَبَاقًا ﴿١٥﴾

16. Hanyuma akabishyiramo ukwezi akakugira urumuri ndetse n'izuba akarigira itara?

وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿١٦﴾

١٦

17. Kandi **Allah** yabakujije abakuye mu butaka nk'ibimera.

وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ بَنَاتًا ﴿١٧﴾

18. Hanyuma azabubasubizamo (igihe cyo gupfa) ndetse anabubasohoremo (ku munsi w'izuka).

ثُمَّ يُعِدُّكُمْ فِيهَا وِجْهًا كُمْ لِخَرَاجًا ﴿١٨﴾

١٨

19. Kandi **Allah** ni We wagagiriye isi nk'isaso,

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ يَسِاطًا ﴿١٩﴾

20. Kugira ngo tuyigendeho (mugendera) mu mayira magari.

لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِي جَاجَاجًا ﴿٢٠﴾

٢٠

21. Nuhu aravuga ati "Nyagasani wanje! Mu by'ukuri (abantu banjye) banyigometseho, banakurikira

قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَرِدْهُ مَالُهُ وَ

وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ﴿٢١﴾

٢١

uwo imitungo n'abana bitagize  
icyo byongerera uretse  
igihombo."

22. Nuko (abantu be) bacura  
umugambi mubi (wo  
kubangamira ubutumwa bwe).

23. Baranavuga bati "Rwose  
ntimuzareke imana zanyu,  
kandi ntimuzareke (kugaragira)  
Wadan, Suwa'a, Yagutha,  
Ya'uqa ndetse na Nasra<sup>233</sup>

24. (Nuhu aravuga ati) "Kandi  
rwose (ibyo bigirwamana)  
byayobeje benshi. Bityo (yewe  
**Allah**), ntuzagire ikindi  
wongerera ababangikanyamana  
kitari ubuyobe."

25. Kubera ibyaha byabo,  
bararohamishijwe kandi  
bazinjizwa mu muriro, ndetse  
ntibazigera babona ababatabara  
batari **Allah**.

26. Nuhu aravuga ati  
"Nyagasani wanjye! Ntuzagire  
n'umwe muri aba bahakanyi  
usiga ku isi."

27. Kuko mu by'ukuri  
nubareka, bazayobya abagaragu  
bawe, kandi ntibazigera babyara  
abandi batari abanyabyaha  
b'bahakanyi.

وَمَكَرُوا مَكْرَهُ اكْبَارًا

وَقَالُوا لَا تَدْرُنَّ إِلَيْهِمْ وَلَا تَدْرُنَّ وَلَا أَسْوَعُكُمْ

وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَسَرَا

وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا

مِمَّا حَطَّتِ يَدُهُمْ أَعْرِقُهُ فَأَدْخَلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ

مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَدْرُنَّ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَفَّرِ بِنَدِيَّا

٦٦

إِنَّكَ إِن تَدْرُهُمْ يُضْلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا

فَأَحْرَكَهُمْ فَارَا

<sup>233</sup> Ayo yari amazina y'ibigirwamana abantu ba Nuhu basengaga.

28. (Nuhu aravuga ati)  
 “Nyagasani wanje! Mbabarira,  
 njye n’ababyeyi banjye,  
 n’uzinjira mu nzu yanje ari  
 umwemeramana, ndetse  
 n’abemeramana  
 n’abemeramanakazi. Kandi  
 ntuzagire ikindi wongerera  
 abahakanyi kitari ukorama.”

رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَلَوْلَدَيْ وَلَمَنْ دَخَلَ بَيْتِيْ مُؤْمِنًا  
 وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ<sup>٣٤</sup> وَلَا تَرِدُ الظَّالِمِينَ  
 إِلَيْ الْأَبْتَارِ<sup>٣٥</sup>

## 72 - SURAT AL-DJINI

(AMAJINI)

Yahishuriwe i Maka, igizwe n’imirongo 28.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Vuga (yewe Muhamadi) uti  
 “Nahishuriwe ko hari itsinda  
 ry’amajini ryateze amatwi  
 (Qur’an isomwa), nuko rikavuga  
 riti “Mu by’ukuri twumvise  
 Qur’an itangaje”,

قُلْ أَرْحَى إِلَى أَنَّهُ أَسْتَمَعُ نَفَرٌ مِّنْ أَجْنِينَ فَقَالُوا إِنَّا  
 سَمِعْنَا قُرْءَانًا بَعْجَبًا<sup>١</sup>

2. “Iyobora iganisha ku kuri,  
 nuko turayemera kandi  
 ntituzigera tubangikanya  
 Nyagasani wacu (Allah) n’icyo ari  
 cyo cyose.”

يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَإِمَانَابِهٖ وَلَنْ شُرِكَ بِرِبِّنَا أَحَدًا<sup>٢</sup>

3. “Kandi ko icyubahiro  
 cy’ikirenga ari icya Nyagasani  
 wacu, utarigeze umugore  
 cyangwa umwana.”

وَإِنَّهُ وَتَعَالَى جَدُورِنَا مَا أَنْخَذَ صَحِّهَةً وَلَا وَلَدًا<sup>٣</sup>

4. "Kandi ko umunyabwenge buke muri twe (Shitani) yajyaga avuga ibidahwitse kuri **Allah**."
  5. "Kandi mu by'ukuri twakekaga ko abantu n'amajini badashobora guhimbira **Allah** ikinyoma."
  6. "Kandi mu by'ukuri mu bantu hari abagabo bajyaga biyambaza amajini y'igitsinagabo, ariko (ibyo) byongererera (abo bantu) gukora ibyaha (ndetse n'ayo majini bikayongerera kwibona)."
  7. "Kandi mu by'ukuri batekerezaga nk'uko mwatekerezaga ko **Allah** atazigera agira n'umwe azura."
  8. "Kandi twagerageje kugera mu kirere dusanga cyuzuye abarinzi bakomeye ndetse n'ibishirira."
  9. "Kandi mu by'ukuri twajyaga tuhagira ibyicaro kugira ngo twumvirize (ibivugirwa mu Ijuru), ariko ubu uwagerageza kumviriza yahura n'igishirira kimwubikiriye."
  10. "Kandi ntituzi niba hari ikibi giteganyirizwa abari ku isi, cyangwa niba Nyagasani wabo abashakira kuyoboka inziraigororotse."

وَإِنَّهُ وَكَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطاً

وَإِنَّا خَلَقْنَا آنَّ لَنْ تَقُولَ إِلَّا نُسْ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴿٥﴾

فَرَادُوهُمْ رَهْفَةٌ

وَأَنْهُمْ ظَنُوا كَمَا ظَنَّتُمْ أَن لَّن يَعْثَلَ اللَّهُ أَحَدًا

وَإِنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِيثًا حَرَسًا  
شَدِيدًا وَشَهِيدًا ﴿٨﴾

وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَعِدًا لِلسمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعُ  
الآن يَخْدُلُهُ وَشَيْءًا يَأْرِصُهُ

وَإِنَّا لَا نَدْرِي أَشَرُّ أُيُّدَّةٍ مَّنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ

11. "Kandi ko muri twe hari abakora ibyiza n'abatameze batyo. Turi amatsinda afite imyizerere itandukanye."

وَإِنَّمَا الْصَّالِحُونَ مَنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَّابِيْقَ قَدَّادَا

١١

12. "Kandi twizeraga ko tudashobora kunanira Allah (aramutse ashaka kuduhana) ku isi, cyangwa ngo tube twagira aho tumuhungira."

وَإِنَّا طَنَنَّا أَنَّ لَنْ تُعْجِزَ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ

تُعْجِزَهُ وَهُرَبَّا

١٢

13. "Kandi ko mu by'ukuri ubwo twumvaga umuyoboro (Qur'an) twarawukurikiye. Kandi uwemeye Nyagasani we, ntatinya kugabanyirizwa (ibihembo bye) cyangwa ngo abe yatinya kongererwa (ibihano)."

وَإِنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىَءَ امْتَابَهُ فَمَنْ يُؤْمِنْ

بِرِّيهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَارَهَقًا

١٣

14. "Kandi ko muri twe harimo abicishije bugufi (Abayisilamu) n'abatanny. Nyamara abicishije bugufi ni bo bagannye inzira igororotse."

وَإِنَّمَا الْمُسْلِمُونَ وَمَنَا الْقَسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ

فَأُولَئِكَ تَحْرُقُ أَرْشَادًا

١٤

15. "Naho abatanny bazaba inkwi z'umuriro wa Jahanamu."

وَأَمَّا الْقَسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا

١٥

16. "Kandi ko iyo (abahakanyi) baza kuyoboka inzira igororotse (bakayishikamamo), rwose twari kubaha amazi (imvura) menshi (kandi y'umugisha)",

وَأَلَّا أَسْتَقْمُوا عَلَى الْطَّرِيقَةِ لَا سَقَيْهُمْ مَاءَ غَدَقًا

١٦

17. "Kugira ngo tuyabageragereshe. Kandi uzirengagiza urwibutso rwa Nyagasani we, azamuhanisha ibihano bigenda byiyongera."

لَنْقَتَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعرضَ عَنْ ذِكْرِ رِّبِّهِ يَسْلُكُهُ

عَذَابًا صَعِدًا

١٧

18.“Kandi ko imisigit iyo se ari iya **Allah** (wenyine). Bityo, ntimukagire undi musaba mumubangikanyije na **Allah**.”

وَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾

19. Kandi ubwo umugaragu wa **Allah** (Muhamadi) yahagurukaga amusaba (mu iswala), (amajini) yabaga amuzengurutse (kugira ngo yumve Intumwa isoma Qur'an).

وَإِنَّهُ لَمَاقَمَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ  
لِيَكَدَأ ﴿١٩﴾

20. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Mu by'ukuri njye nsaba Nyagasani wanjiye wenyine nta wundi mubangikanyije na We.”

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوْرِيٰ وَلَا أَشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ﴿٢٠﴾

21. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Mu by'ukuri nta bubasha mfite bwo kuba nagira ikibi mbakorera, cyangwa ngo mbe nabayobora (mu nzira igororotse).”

قُلْ إِنِّي لَا أَمِلُكُ لَكُمْ ضَرًا وَلَا رَشْدًا ﴿٢١﴾

22. Vuga uti “Mu by'ukuri nta n'umwe wandinda (ibihano bya **Allah** (ndamutse mwigometseho), ndetse nta n'ahandi nabona ubuhungiro hatari kuri We.”

قُلْ إِنِّي لَنْ يُحِيرَنِي مِنْ أَنَّ اللَّهَ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ  
مُلْتَحَدًا ﴿٢٢﴾

23. “(Umurimo wanjiye nta wundi) usibye gusohoza (ukuri) n'ubutumwa biturutse kwa **Allah**. Ariko uzigomeka kuri **Allah** n'Intumwa ye, azahanishwa umuriro wa Jahanamu azabamo ubuziraherezo.”

إِلَّا بِالْغَامِنَ اللَّهِ وَرِسْلَتِهِ وَمَنْ يَعْصِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
فَإِنَّهُ لَهُ نَارٌ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿٢٣﴾

24. Kugeza ubwo (ababangikanyamana) bazabona ibyo basezeranyijwe, ni bwo bazamenya ufite abatabazi b'abanyantenge nke n'ufite bake.

حَقٌّ إِذَا رَأَوْ أَمَّا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مِنْ أَضَعَفِ  
نَاصِرًا وَأَقْلَ عَدَادًا ﴿٤٦﴾

25. Vuga (yewe Muhamadi) uti "Sinzi niba (ibihano) musezeranywa biri bugufi cyangwa niba Nyagasanwanjye azabiha igihe kirekire."

قُلْ إِنَّ أَدْرِي أَقْرَبَ مَا نُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّنَا أَمَّا  
﴿٤٧﴾

26. Ni We (wenyine) mumenyi w'ibitagaragara kandi nta n'umwe ajya ahishurira ibye,

عَلِمَ الْغَيْبُ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ﴿٤٨﴾

27. Uretse uwo yishimiye mu ntumwa ze, akamwoherereza abarinzi (abamalayika) bamugenda imbere n'inyuma.

إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولِنَا فَيَسْكُنُ مِنْ بَيْنِ  
يَدِيهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿٤٩﴾

28. (Ibyo **Allah** abikora) kugira ngo amenye ko (Intumwa) zasohoje neza ubutumwa bwa Nyagasanwanjye. Kandi (ko **Allah**) azi neza ibyo zitunze ndetse azi byimazeyo umubare wa buri kintu.

لِيَعْلَمَ أَنَّ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَتِنَا عَلَيْهِمْ وَأَحَاطُوكُمْ بِمَا  
لَدَيْهِمْ وَأَخْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَادًا ﴿٥٠﴾

## 73 - SURAT AL-MUZAMMIL

(UWIYOROSHE)

Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirongo 20.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Yewe uwiyoroshe (uvugwa  
aha ni Intumwa Muhamadi)!

يَا إِيَّاهَا أَمْرِنِي مُ  
ۚ

2. Byuka (usenge) nijoro, uretse  
igice gito (cyaryo),

قُلْ أُتَّلِيلٌ إِلَّا قَيْلَىٰ  
ۚ

3. Kimwe cya kabiri cyaryo  
cyangwa igiton kuri cyo,

نَصْفَهُ وَأَوْنَصْصِهِ قَلِيلًا  
ۚ

4. Cyangwa wongereho gato.  
Unasome Qur'an neza (mu ijwi  
rituje kandi ryiza).

أَوْ زَدَ عَيْهِ وَرَقِيلٌ الْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا  
ۚ

5. Mu by'ukuri tuzaguhishurira  
ijambo riremereye (ari ryo  
Qur'an ikubiyemo amategeko  
n'amabwiriza).

إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلَاتَ قَلِيلًا  
ۚ

6. Mu by'ukuri iswala y'ijoro ni  
ingirakamaro (ku mutima)  
ndetse inatuma (umuntu  
atekereza ku magambo ya Allah,  
atuje).

إِنَّ نَاسَةَ الْتَّلِيلِ هِيَ أَشَدُ وَطَأَ وَقْمُ قَلِيلًا  
ۚ

7. Mu by'ukuri ku manywa uba  
uhugije muri byinshi.

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبَّحَاتٌ طَوِيلًا  
ۚ

8. Kandi ujye wibuka izina rya  
Nyagasani wawe  
unamwiyegurire utizigama.

وَذَكِرْ أَسْمَ رَبِّكَ وَتَبَّلِيلٌ إِلَيْهِ تَبَتِيلًا  
ۚ

9. Nyagasani w'Uburasirazuba n'Uburengerazuba; nta yindi mana ikwiye gusengwa itari We. Bityo, mugire umurinzi (wawe).

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَلَتَخِذُوهُ كِيلًا

١

10. Unihanganire ibyo (abo bahakanyi) bavuga, kandi unabitarure mu buryo bwiza.

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا حَيْلًا

11. Maze undekere abahinyura (amagambo yanje); bahawe ingabire (yo kubaho mu buzima bwiza), unabarindirize igihe gito.

وَذَرْنِي وَالْمُكْتَبِينَ أُولَئِكُنَّ نَعَمَةً وَمَهْلَكَهُمْ قَلِيلًا

12. Rwose dufite iminyururu n'umuriro ugurumana (ibyo kuzabahanisha ku munsi w'imperuka),

إِنَّ لَدِينَنَا آنَكَالًا وَجَحِيمًا

13. N'ibyo kurya bizabaniga ndetse n'ibihano bibabaza.

وَطَعَامًا دَأْعُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا

14. Umunsi isi n'imisozi bizatigita, maze imisozi ikaba nk'ikirundo cy'umusenyi wanyanyagijwe.

يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجَهَالُ وَكَانَتِ الْجَهَالُ كَثِيرًا

مَهِيلًا

15. Mu by'ukuri twaboherereje Intumwa (Muhamadi) ngo ibabere umuhanya nk'uko twoherereje Farawo Intumwa (Musa).

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا

16. Ariko Farawo yigometse ku ntumwa (Musa), nuko turamufata tumuhanisha ibihano bikomeye.

فَصَقَىٰ فَرْعَوْنُ أَرْسَلُوا فَأَخْذَنَهُ أَخْذًا وَيَلَا

17. Ni gute mwakwirinda ibihano kandi muhakana umunsi uzagira abana abasaza (kubera uko uzaba uteye ubwoba)?

18. Kuri uwo munsi ikirere kizasatagurika. Isezerano rye (**Allah**) rizasohora nta gushidikanya.

19. Mu by'ukuri ibi ni urwibutso. Bityo ushaka nayoboke inzira imuganisha kwa Nyagasani we.

20. Mu by'ukuri Nyagasani wawe azi ko wowe (Muhamadi) n'itsinda muri kumwe mubyuka mugasenga hafi bibiri bya gatatu by'ijoro, cyangwa icya kabiri cyaryo, cyangwa se icya gatatu cyaryo. Kandi **Allah** ni We ugena indeshyo y'ijoro n'amanywa. Azi ko mutari gushobora kugaragira ijoro ryose, bityo yabagiriye impuhwe (araborohereza). Ku bw'ibyo, mujye musoma ibiboroheye muri Qur'an. Azi ko muri mwe hazabamo abarwayi, abandi bakaba bari mu ngendo bashakisha ingabire za **Allah**, naho abandi bakazaba bari ku rugamba barwana mu nzira ya **Allah**. Bityo, mujye musoma ibiboroheye muri yo, muhozeho iswala, mutange amaturo, munagurize **Allah** inguzanyo

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرُتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوَلَدَانَ

شِبَابًاٖ

السَّمَاءُ مُنَفَّطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَقْعُولًا

إِنَّ هَذِهِ تَذَكِّرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا

\* إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقْرُمُ أَذْنَى مِنْ ثُلُثِ الْيَلَى وَنَصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَالِبَةً مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقْدِرُ الْيَلَى وَالْهَارَ عَلَوْ أَن لَّمْ تُحْصُهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلَوْ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَتَغَوَّنُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاعْلُوْ الْرُّكُوْةَ وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا وَمَا تَقْدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَحْدُوْهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

nziza (mutanga kubera We). Kandi icyiza cyose mwiteganyirije imbere, muzagisanga kwa Allah ari cyiza kurushaho kandi gifite ibihembo bihebuje. Munasabe imbabazi Allah, kuko mu by'ukuri Allah ari Nyir'ukubabarira ibyaha, Nyirimpuhwe.

## 74 - SURAT AL-MUDATHIR

(UWITWIKIRIYE)

Yahishuriwe i Maka, igizwe n 'imirongo 56

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Yewe uwitwikiriye (uvugwa aha ni Intumwa Muhamadi)!

يَا إِلَيْهِ الْمُدَّثِرُ ﴿١﴾

2. Haguruka uburire (ibiremwa),

فَقُوَّانِزَرٌ ﴿٢﴾

3. Unahe ikuzo Nyagasani wawe.

وَرَبِّكَ فَكِبِيرٌ ﴿٣﴾

4. Unasukure imyambaro yawe.

وَشَيَّابَكَ فَطَّاهِرٌ ﴿٤﴾

5. Unitarure ibigirwamana.

وَالْجَرْفَاهْجُورٌ ﴿٥﴾

6. Ntukanatange (ikintu) ugamiye indonke zitubutse.

وَلَا تَنْعُنْ تَسْتَكِيرٌ ﴿٦﴾

7. Kandi ujye wihangana kubera  
Nyagasani wawe.

وَلَرِبِّكَ فَاصْبِرْ ٧

8. Ubwo impanda izavuzwa.

فَإِذَا نُقْرَ في الْنَّاقُورِ ٨

9. Uwo munsi uzaba ari umunsi  
ukomeye,

فَذَلِكَ يَوْمٌ مِّنْ يَوْمَ عَسِيرٍ ٩

10. Uzaba utoroheye  
abahakanyi.

عَلَى الْكُفَّارِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ١٠

11. (Yewe Muhamadi) ndekera  
uwo naremye ari wenyingine  
(uvugwa aha ni Al Walid bun al  
Mughirat),

ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَجِيدًا ١١

12. Nkamuha imitungo  
itubutse,

وَجَعَلْتُ لَهُ وَمَا لَأَمْمَدُ وَكَانَ ١٢

13. N'urubyaro rumukikije,

وَبَيْنَ شُهُودًا ١٣

14. Nkanamworohereza  
ubuzima.

وَمَهَدَتْ لَهُ وَنَهَيْدًا ١٤

15. Nyuma y'ibyo byose, akaba  
yifuza ko namwongera,

لَمْ يَطْمَعْ أَنْ أَرِيدَ ١٥

16. Oya! Mu by'ukuri yajyaga  
ahinyura amagambo yacu  
cyane.

كَلَّا إِنَّهُ وَكَانَ لَا يَتَنَاهِيَنَا ١٦

17. Nzamunaniza muhanisha  
ibihano bikomeye.

سَأُرْهِقُهُ وَصَعُودًا ١٧

18. Mu by'ukuri yaratekereje  
maze afata umwanzuro (wo  
gutuka **Allah** n'Intumwa ye  
ndetse na Qur'an),

إِنَّهُ فَكَرَ وَقَدَرَ ١٨

19. Bityo, navumwe kubera umwanzuro yafashe!

فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَرَ ١٩

20. Niyongere avumwe kubera umwanzuro yafashe!

ثُرِقْتَ كَيْفَ قَدَرَ ٢٠

21. Nuko (yubura amaso) areba (abari bamukikije),

ثُرِبَ نَظَرٌ ٢١

22. Maze azinga umunya, akambya agahanga,

ثُرِبَسَ وَبَسَ ٢٢

23. Nuko atera umugongo (ukuri), maze aribona.

ثُرِبَرَ وَأَسْتَكَبَرَ ٢٣

24. Aravuga ati “Ibi (Muhamadi yigisha) nta kindi biri cyo uretse ko ari uburozi (akomora ku barozi bo hambere bakomeye)!”

فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سَحْرٌ يُفْتَنُ ٢٤

25. “Ibi (Muhamadi yigisha) nta kindi biri cyo uretse ko ari amagambo y’umuntu!”

إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ٢٥

26. Nzamutwikira mu muriro.

سَاصِلِيهِ سَقَرَ ٢٦

27. N’iki cyakumenyesha uwo muriro?

وَمَا أَدْرَنَاكَ مَا سَقَرَ ٢٧

28. Nta cyo ureka ndetse nta n’icyo usigaza,

لَا تُبْقِي وَلَا تَدْرُ ٢٨

29. Utwika imibiri ukayishiririza.

لَوْحَةُ لِلْبَشَرِ ٢٩

30. Urinzwe (n’abamalayika) cumi n’icyenda.

عَلَيْهَا إِسْعَةُ عَشَرَ ٣٠

31. Kandi nta bandi twagize abarinzi b'umuriro batari abamalayika. Ndetsse twanashyizeho umubare wabo (cumu n'icyenda) kugira ngo tugergeze abahakanyi, no kugira ngo abahawe ibitabo bemere badashidikanya (ko Qur'an ari ukuri kuko ihuriye kuri uwo mubare wanditse mu bitabo byabo); ndetsse no kugira ngo abemeramana barusheho kwemera, no kugira ngo abahawe igitabo n'abemeramana batagira ugushidikanya (ku byo bemeye), ndetsse no kugira ngo abafite uburwayi (bw'uburyarya) mu mitima n'abahakanyi bavuge bati "**Allah** yari agamije iki mu gutanga uru rugero?" Uko ni ko **Allah** arekera mu buyobe uwo ashaka akanayobora uwo ashaka. Kandi nta wamenya ingabo za Nyagasani wawe utari We. Kandi uyu (muriro) nta kindi uri cyo usibye ko ari urwibutso ku bantu.

32. Oya si ko biri! Ndahiye ukwezi.

33. N'ijoro igihe ricyeye.

34. N'igitondo igihe gitangaje.

وَمَا جَعَنَا أَحَبَّ الْأَنَارِ إِلَّا مَلِكَةٌ وَمَا جَعَنَا عَذَّبَهُمْ  
إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَقِنَ الَّذِينَ أَتُوا الْكِتَابَ  
وَيَرْدَادُ الَّذِينَ إِمَّا مُؤْمِنُونَ وَلَا يَرْتَابُ الَّذِينَ أَتُوا الْكِتَابَ  
وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَيَقُولُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ  
وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذِلِكَ يُصْلِلُ  
اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّهِ  
إِلَّا هُوَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ

كَلَّا وَلَقَمَرٌ

وَالْيَلِ إِذَا دَبَرَ

وَالصَّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ

35. Mu by'ukuri uwo (muriro) ni  
kimwe mu (byago) bihambaye,

إِنَّهَا لِأَحَدٍ كُبِّرٌ ﴿٣٥﴾

36. Ukaba n'umuburo ku bantu;

نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ﴿٣٦﴾

37. Ku wo ari we wese muri mwe  
ushaka kujya imbere (yiyyegereza  
Nyagasaní      we)                cyangwa  
gusubira                         inyuma  
(amwigomekaho).

لِمَنْ شَاءَ مِنْ كُوَنْ يَقْدِمُ أَوْ يَتَّخِرُ ﴿٣٧﴾

38. Buri wese azafungirwa (mu  
muriro) bitewe n'ibibi yakoze.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

39. Uretse abantu b'iburyo  
(b'abemera nyakuri),

إِلَّا أَحَدٌ حَبَّ الْيَمِينِ ﴿٣٩﴾

40. Bazaba bari mu busitani  
(Ijuru), babazanya

فِي جَنَّاتِ يَسَّارَةِ لُونَ ﴿٤٠﴾

41. Ku byerekeye inkozi z'ibibi,  
(maze bazibaze batí)

عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٤١﴾

42. "Ni iki cyabateye kuba muri  
mu muriro?"

مَاصَلَكُكُمْ فِي سَقَرَ ﴿٤٢﴾

43. (Izo nkozi z'ibibi)  
zizavuga ziti "Ntitwari bamwe  
mu basenga,"

قَالُوا إِنَّا نَأْنَى مِنَ الْمُصَلِّيِّينَ ﴿٤٣﴾

44. Nta n'ubwo twajyaga  
tugaburira abakene,

وَلَمْ نَأْنَى نُطْعِمُ الْمَسَكِينَ ﴿٤٤﴾

45. Kandi twajyaga tugirana  
ibiganiro n'abavuga ibidafite  
umumaro,

وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْحَابِضِينَ ﴿٤٥﴾

46. Ndetse twajyaga duhinyura  
umunsi w'ibihembo (imperuka).

وَكُنَّا نَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٤٦﴾

47. Kugeza ubwo ukuri kudashidikanywaho (urupfu) kutugezeho.

حَتَّىٰ أَتَنَا الْيَقِينُ ﴿٤٧﴾

48. Bityo, nta buvugizi bw'abavugizi buzagira icyo bubamarira.

فَاتَّفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّفَعِينَ ﴿٤٨﴾

49. None se ni iyihe mpamu ituma (abahakanyi) batera umugongo urwibutso?

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذِكَرَةِ مُغَرِّضُونَ ﴿٤٩﴾

50. Bameze nk'indogobe z'agasozi ziruka (zifite ubwoba),

كَانُهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنِفَرَةٌ ﴿٥٠﴾

51. Zihunga intare!

فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴿٥١﴾

52. Ahubwo buri wese muri bo aba ashaka ko yahishurirwa ibitabo birambuye (bishimangira ko Isilamu ari idini ry'ukuri).

بَلْ يُرِيدُ كُلُّ أَمْرِيٍّ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحْفًا مُنْشَرَةً ﴿٥٢﴾

٥٢

53. Oya si ko biri! Ahubwo ntibatinya umunsi w'imperuka.

كَلَّا لَأَنَّهُمْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ﴿٥٣﴾

54. Oya si ko biri! Mu by'ukuri iyi (Qur'an) ni urwibutso.

كَلَّا إِنَّهُ وَتَذَكِّرٌ ﴿٥٤﴾

55. Bityo, ushaka (ko imubera urwibutso) nayibuke (ayisoma, anatekereza ku nyigisho ziykubiyemo).

فَمَنْ شَاءَ ذَكَرُهُ وَمَنْ

56. Kandi ntibashobora kwibuka keretse **Allah** abishatse. Ni We ukwiriye gutinywa, ndetse ni na We utanga imbabazi.

وَمَا يَدْكُرُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ ﴿٥٦﴾

وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴿٥٧﴾

## 75 - SURAT AL-QIYAMAT

(IZUKA)

Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirongo 40.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Ndahiye umunsi w'izuka,

لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ١

2. Nanarahiye umutima  
(w'umwemeramana) ugaya  
nyirawo (kubera guteshuka ku  
nzira igorotse).

وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفِيسِ الْوَرَمَةِ ٢

3. Ese umuntu (w'umuhakanyi)  
akeka ko tutazakoranya  
amagufa ye (tumuzura)?

لَيَحْسَبُ الْإِنْسَنُ أَنَّ نَجْمَعَ عَظَامَهُ ٣

4. Ni byo! Dushoboye no  
kuringaniza imitwe y'intoki ze  
(imirongo iyiriho igasubira  
nk'uko yari imeze mbere).

بَلْ قَدْ رَأَى عَلَىٰ أَنْ شُوَّيْ بَنَانَهُ ٤

5. Ahubwo umuntu (ahakana  
izuka) ashaka icyatuma  
akomeza kwibera mu bwangizi!

بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَنُ لِيَفْجُرَ مَآمِمَهُ ٥

6. Abaza (akerensa) ati “Uwo  
munsi w'izuka uzaba ryari?”

يَسْأَلُ إِيَّانِيَّوْمُ الْقِيَامَةِ ٦

7. (Uwo munsi uzaba) igihe  
amaso azakanaguzwa (kubera  
ubwoba),

فَإِذَا بَرَقَ الْصَّرْوُ ٧

8. N'ukwezi kukazima,

وَخَسَفَ الْقَمَرُ ﴿٨﴾

9. Ndetse izuba n'ukwezi bigahurizwa hamwe (kimwe kikinjira mu kindi).

وَجْمَعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴿٩﴾

10. Icyo gihe umuntu azavuga ati “Ni he ho guhungira?”

يَقُولُ الْإِنْسَنُ يَوْمَئِذٍ أَمْ فَرُّ ﴿١٠﴾

11. (Azabwirwa ati) “Oya! Nta ho guhungira hahari!”

كَلَّا لَا وَرَرَ ﴿١١﴾

12. Kuri uwo munsi, igarukiro rizaba ari kwa Nyagasan wawe (wenyine).

إِلَى رِبِّكَ يَوْمَئِذٍ أَمْسَقَرُ ﴿١٢﴾

13. Kuri uwo munsi, umuntu azabwirwa ibyo yakoze mbere n'ibyo yaherutse (byaba ibyiza cyangwa ibibi).

يُبَدِّلُ الْإِنْسَنُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخْرَى ﴿١٣﴾

14. Ahubwo umuntu azibera umuhamya w'ibyo yakoze (kuko ingingo z'umubiri we ari zo zizamushinja ibyo yakoze).

بَلِ الْإِنْسَنُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴿١٤﴾

15. Kabone n'ubwo yatanga impamvu ze (agamije kwiregura).

وَلَوْ أَلْقَى مَعَادِنَرُو ﴿١٥﴾

16. (Yewe Muhamadi), ntukanyeganyeze ururimi rwawe kubera ubwira ngo (Qur'an) itagucika (ugira ngo uvuge ibyo uhishurirwa, ahubwo ujye utega amatwi wumve ibyo uba uhishurirwa na Malayika Jibrilu).

لَا تُحِسُّ كَيْفَ يَهُ لِسَانَكَ لَتَعْجَلَ بِهِ ﴿١٦﴾

17. Mu by'ukuri ni twe tuzayikusanyiriza (mu gituza cyawe) kandi ni natwe tuzakwigisha kuyisoma (Qur'an),

إِنَّ عَلَيْنَا جَمِيعُهُ وَقُرْءَانُهُ ﴿١٧﴾

18. Nituyigusomera (binyuze kuri Malayika wacu), ujye ukurikira isomwa ryayo.

فَإِذَا قَرَأَنَاهُ فَاتَّبَعَ قُرْءَانَهُ ﴿١٨﴾

19. Hanyuma ni twe (Allah) tuzayigusobanurira.

شُئْلَانَ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿١٩﴾

20. (Ibyo mukeka ko mutazazurwa mukanabazwa ibyo mwakoze) si ko biri; ahubwo mukunda ubuzima bwo ku isi butaramba,

كَلَّا لَنْ تُحْبُّونَ الْعَاجِلَةَ ﴿٢٠﴾

21. Mukirengagiza imperuka.

وَتَذَرُّونَ الْآخِرَةَ ﴿٢١﴾

22. Kuri uwo munsi, uburanga (bw'abemeramana) buzaba burabagirana,

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾

23. Bureba Nyagasani wabwo.

إِلَى رِبَّهَا نَاطِرَةٌ ﴿٢٣﴾

24. Kuri uwo munsi kandi, uburanga (bw'abahakanyi) buzaba bwijimye,

وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴿٢٤﴾

25. Bibaza ko bagiye guhura n'ishyano.

تَنْهَىٰ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿٢٥﴾

26. Uramenye (utazarutisha isi imperuka, kuko) iyo (roho) igeze mu ngoto (igihe cyo gupfa),

كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ الْتَّرَاقِ ﴿٢٦﴾

27. Hanyuma hakavugwa ngo  
“Ni nde wamutabara  
(akamurinda urupfu)?”

وَقَبِيلَ مِنْ رَاقٍ ﴿٢٧﴾

28. Nuko (ugiye gupfa)  
akamenya ko igihe cyo  
gutandukana (gupfa) cyageze.

وَظَنَّ أَنَّهُ الْفَرَاقُ ﴿٢٨﴾

29. Maze (kubera ububabare  
bwo gukurwamo roho), ukuguru  
kwe kuzahuzwa n'ukundi.

وَلَتَقَنَّ مُلْسَاقُ بِالسَّاقِ ﴿٢٩﴾

30. Kuri uwo munsi, (wowe  
muntu ukuwemo roho)  
uzerekezwa kwa Nyagasan  
wawe.

إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴿٣٠﴾

31. Ariko (umuhakanyi) ntiyigeze  
yemera ndetse nta n'ubwo yigeze  
asali,

فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى ﴿٣١﴾

32. Ahubwo yahinyuye (Qur'an)  
maze ayitera umugongo,

وَلِكُنْ كَذَبَ وَتَوَلََّ ﴿٣٢﴾

33. Hanyuma akagenda yibona  
yerekeza mu muryango we,

لَمْ يُذْهَبْ إِلَى أَهْلِهِ يَمْضِيَ ﴿٣٣﴾

34. Ufite akaga (yewe muntu  
w'umuhakanyi)! Kandi na none  
ufite akaga!

أَوْلَى لَكَ فَاؤَلَى ﴿٣٤﴾

35. Nyamara ufite akaga (yewe  
muntu w'umuhakanyi)! Kandi  
ufite akaga!

ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَاؤَلَى ﴿٣٥﴾

36. Ese umuntu yibwira ko  
azarekwa gusa (atabajijwe ibyo  
yakoze ngo abihamberwe  
cyangwa ngo abihanirwe)?

يَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنَّ يُتْرَكَ سُدًّا ﴿٣٦﴾

37. Ese ntiyari intanga mu masohoro asohowe?

أَلَّرَبِيُّكُ نُطْفَةٌ مِّنْ مَّنِ يُمْنَى ﴿٢٧﴾

38. Hanyuma akaba urusoro rw'amaraso, maze Allah akamurema, akanamutunganya (akaba umuntu wuzuye)?

ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَىٰ ﴿٢٨﴾

39. Maze akamuremamo ibitsina bibiri: gabo na gore,

فَجَعَلَ مِنْهُ أَزْوَاجَيْنِ الْدَّكَرَ وَالْأَنْتَيْ ﴿٢٩﴾

40. Ese uwo (Allah ukora ibyo) si We ushoboye kuzura abapfuye?

أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْكِي أَمْوَاقَ ﴿٣٠﴾

## 76 - SURAT AL-INSAN

(UMUNTU)

*Yahishuriwe i Madina, igizwe n'imirongo 31.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Ese nta gihe kirekire cyabayeho umuntu ari ikintu kitazwi?

هَلْ أَتَىٰ عَلَىٰ إِلَيْسَنِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَّدْكُورًا ﴿١﴾



2. Mu by'ukuri twaremye umuntu mu ntanga zivanze (iz'umugabo n'iz'umugore) kugira ngo tumugerageze. (Ni yo mpamu) twamuhaye kumva no kubona.

إِنَّا خَلَقْنَا إِلَيْسَنَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجَ نَبَتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ

سَمِيعاً بَصِيرًاً ﴿٢﴾

3. Mu by'ukuri twamweretse inzira; kugira ngo nabishaka ahitemo kwemera cyangwa guhakana (Nyagasan we).

إِنَّهَدَيْنَاهُ السَّيْلَ إِمَامَشَاكِرًا وَإِمَامَكَهُورًا ٣

4. Mu by'ukuri abahakanyi twabateguriye (kuzabahanisha) iminyururu, ingoyi ndetse n'umuriro ugurumana.

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَفَرِينَ سَلَسِلًا وَأَغْلَلَوْسَعِيرًا ٤

5. Mu by'ukuri abakiranutsi bazanywera mu kirahuri (cy'ikinyobwa kidasindisha) kivanze n'amazi ya Kafuur,

إِنَّ الْأَجْرَارَ يَشْرُونَ مِنْ كَاسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ٥

6. (Iyo Kafuur) ni isoko y'amazi (yo mu ijuru) abagaragu ba Allah bazanywaho, ikazajya ivubura amazi menshi (bakayerekeza aho bashaka),

عَيْنَا يَشْرُبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُ وَهَا قَبِيجَرًا ٦

7. (Abo bakiranutsi) ni abesa imihigo (yabo bahigiye Allah), bakanatinya umunsi ikibi cyawo kizakwira hose (umunsi w'imperuka),

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُهُ وَمُسْتَطِيرًا ٧

8. Bakanaha amafunguro abakene, imfubyi n'imbohe, kabone n'yo na bo baba bayakeneye,

وَيُطْعِمُونَ الْطَّعَامَ عَلَى حُجَّهِ مَسِكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ٨

9. (Bavuga bati) "Rwose, turabagburira kubera gushaka kwishimirwa na Allah. Nta nyiturano cyangwa ishimwe tubashakaho."

إِنَّمَا نُطْعِمُ مُكْرِمَةً لِوَجْهِ اللَّهِ لَا تُرِيدُ مِنْ كُلِّ جَزَاءٍ وَلَا شُكُورًا ٩

10. "Rwose dutinya umunsi ukomeye kandi uzaba urimo

إِنَّا نَخَافُ مِنْ زِينَاتِنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمَطَرِيرًا ١٠

ingorane, uturutse kwa  
 Nyagasani wacu, uzatuma  
 (uburanga bw'abahakanyi)  
 bwijima."

11. Bityo, **Allah** azabarinda  
 (abamwemeye) ibibi by'woo  
 munsi, kandi azabaha  
 kurabagirana (mu buranga  
 bwabo) ndetse n'ibyishimo.

12. Azanabagororera ijuru  
 n'imyambaro y'ihariri kubera ko  
 barangwaga no kwihangana,

13. Bazaba begamye ku bitanda  
 bitatse, (kandi mu Ijuru)  
 ntibazigera bahumva  
 ubushyuhe bw'izuba cyangwa  
 imbeho bikabije,

14. Kandi igicucu (cy'ibiti byo  
 mu ijuru) kizaba kibegereye,  
 ndetse n'imbuto zabyo  
 zizabegerezwa.

15. Bazazengurutswamo  
 amasahane ya Feza (ariho  
 ibiribwa byiza) n'ibikombe  
 bikozwe mu birahuri,

16. Ibirahuri bikoze muri Feza,  
 byuzuye neza (bijyanye  
 n'ibyifuzo bya buri wese).

17. Bazanahabwa ikirahuri  
 (cy'ikinyobwa kidasindisha)  
 kivanze na tangawizi,

فَوَقَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَدْ هُمْ نَصَرَةٌ وَسُرُوكًا ﴿١١﴾

وَجَزَّهُمْ بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةٌ وَمَهْرِبًا ﴿١٢﴾

مُتَّكِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَأِيِّ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا  
 زَمْهَرِيَّا ﴿١٣﴾

وَدَانِيَةٌ عَلَيْهِمْ ظَلَلَاهَا وَذِلَّتْ قُطُوفُهَا تَذَلِّلًا ﴿١٤﴾

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِعَيْنِهِ مِنْ فِضَّةٍ وَلَا كَوَافِرَ كَانَ قَوَافِرًا ﴿١٥﴾

قَارِبُرَا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرَ وَهَا تَقَبِّرِيَّا ﴿١٦﴾

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأسًا كَانَ مِزاجُهَا نَجِيلًا ﴿١٧﴾

18. Izavomwa mu isoko yitwa Salisabila.

عَيْنَا فِيهَا سَمِّيَ سَاسِيْلَا ﴿١٨﴾

19. Bazaba bazengurukwamo n'abana b'abahungu bahoraho (badasaza cyangwa ngo bapfe, babaha amafunguro), ubabonye wagira ngo ni inigi zishashagirana (Lu'ulu'u) zanyanyagijwe.

\*وَيَطْرُفُ عَلَيْهِمْ وَلَدَنْ مُخْلَدُونَ إِذَا رَأَيْتُمْ حَسِبَتُهُمْ لُؤْلُؤًا

مَنْثُرًا ﴿١٩﴾

20. Kandi nunarebayo (mu Ijuru) uzabona ingabire (zitagereranywa) ndetse n'ubwami buhebuje.

وَإِذَا رَأَيْتَ شَرَائِتَ نِعِمَّا وَمُلْكًا كَيْرًا ﴿٢٠﴾

21. Bazaba bambaye imyambaro y'icyatsi kibisi ikoze mu ihariri yorohereye n'iremereye. Bazanambikirwamo ibikomo bya Feza kandi Nyagasani wabo azabaha ikinyobwa gisukuye.

عَلَيْهِمْ شَيْأُبُ سُنْدِسْ خُضْرُ وَسَبَرْ قُوْقُ وَحُلُولُ أَسَلَوْرَ

مِنْ فَضْلَةِ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿٢١﴾

22. (Bazanabwirwa bat) "Mu by'ukuri ibi ni ibihembo byanyu, kandi umuhate wanyu warakiriwe."

إِنَّ هَذَا كَانَ لِكُجُونَ زَرْ جَزَاءً وَكَانَ سَعِينُكُمْ مَشْكُورًا ﴿٢٢﴾

23. Mu by'ukuri (yewe Muhamadi) ni twe twaguhishuriye Qur'an mu byiciro,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ﴿٢٣﴾

24. Bityo, ihanganire itegeko rya Nyagasani wawe, kandi ntuzumvire umunyabyaha cyangwa umuhakanyi muri bo.

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رِبِّكَ وَلَا قُطْعَ مِنْهُمْ إِذَا مَا أَوْكَفُوكُمْ فُورًا

٤٤

25. Kandi ujye usingiza izina rya Nyagasani wawe mu gitondo no ku gicamunsi,

وَأَذْكُرْ أَسْمَرِيْكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٢٥﴾

26. Na nijoro umwubamire kandi unamusingize igihe kirekire mu ijoro.

وَمِنَ الْيَلِ فَأَسْجُدْ لَهُ وَسَيِّحَهُ لَيَلَّا طَوِيلًا ﴿٢٦﴾

27. Mu by'ukuri abo (bahakanyi) bakunda ubuzima bwo ku isi butaramba, bakirengagiza umunsi uremereye (w'ibihano).

إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذْرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا

ثَقِيلًا ﴿٢٧﴾

28. Ni twe twabaremye dukomeza ingingo zabo. Kandi tubishatse twabasimbuza abandi bameze nka bo.

نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَّدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شَئْنَا بَدَّلْنَا

أَمْثَالَهُمْ تَبَدِّيلًا ﴿٢٨﴾

29. Mu by'ukuri iyi (mirongo ya Qur'an) ni urwibutso, bityo ushaka nayoboke inzira imuganisha kwa Nyagasani we.

إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَيِّلًا

٢٩

30. Kandi nta cyo mwashaka (ngo mukigereho) keretse Allah abishatse. Mu by'ukuri Allah ni Umumenyi uhebuje, Nyirubugenge buhambaye.

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلَيْمًا حِكَمًا ﴿٣٠﴾

31. Yinjiza mu mpuhwe ze uwo ashaka. Naho inkozi z'ibibi yaziteguriye ibihano bibabaza.

يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعْدَادُهُمْ

عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣١﴾

## 77 - SURAT AL-MUR'SALAAT

(IBYOHEREZWA)

Yahishuriwe i Maka, igizwe n imirongo 50.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Ndahiye imiyaga yoherezwa  
ikurikiranye,

وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ﴿١﴾

2. N'imiya y'inkubi,

فَالْعَصَفَاتِ عَصْفًا ﴿٢﴾

3. N'imiya ikwirakwiza ibicu  
n'imvura,

وَالنَّشَرَاتِ نَشَرًا ﴿٣﴾

4. N'(imirongo ya Qur'an)  
itandukanya ukuri n'ikinyoma,

فَالْفَرِيقَاتِ فَرَقًا ﴿٤﴾

5. N'abamalayika bazanira  
amahishurirwa (Intumwa za  
Allah),

فَالْمُلْقَيَّاتِ ذِكْرًا ﴿٥﴾

6. Kugira ngo avaneho  
urwitwazo cyangwa kugira ngo  
aburire.

عُذْرًا أَوْنُذْرًا ﴿٦﴾

7. Mu by'ukuri ibyo  
musezeranywa bizasohora.

إِنَّمَا تُوَدُّونَ لَوْقًا ﴿٧﴾

8. Igihe inyenyeri zizakurwaho  
(urumuri rwazo rukazima),

فَإِذَا النُّجُومُ طَمَسَتْ ﴿٨﴾

9. N'igihe ikirere kizasandazwa,

وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ﴿٩﴾

10. N'igihe imisozi izariturwa  
igatumuka nk'ivumbi,

وَإِذَا الْجِبَالُ سُفَّتْ ﴿١٠﴾

11. N'igihe Intumwa zizakoranyirizwa hamwe ku gihe cyagenwe (kugira ngo zitange ubuhamya ku bo zatumweho),

وَلَاذَ الرَّسُولُ أَقْتَتْ ۝

12. Ni uwuhe munsi (ibyo byose) byarindirijwe?

لَأَيِّ يَوْمٍ أَجْلَتْ ۝

13. Ni ku munsi w'urubanza (ubwo **Allah** azakiranura ibiremwa).

لِيَوْمِ الْفَصْلِ ۝

14. Ni iki cyakumenyesha umunsi w'urubanza icyo uzaba uri cyo?

وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۝

15. Kuri uwo munsi (w'izuka), ibihano bikaze bizaba kuri ba bandi bahinyuraga (uwo munsi).

وَيَلِ يَوْمِ مِيزِ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝

16. Ese ntitworetse abo hambere?

أَمْ نَهْلِكُ الْأَوَّلِينَ ۝

17. Nuko tukabakurikiza abo hanyuma?

ثُمَّ نَتِعْهُمُ الْآخِرِينَ ۝

18. Uko ni ko tugenza inkozi z'ibibi,

كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ۝

19. Kuri uwo munsi (w'izuka), ibihano bikaze bizaba kuri ba bandi bahinyuraga (uwo munsi).

وَيَلِ يَوْمِ مِيزِ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝

20. Ese ntitwabaremye mu mazi aciriritse?

أَمْ نَخْلُقُكُمْ مِّنْ مَاءٍ مَّهِينٍ ۝

21. Nuko tukayashyira mu cyicaro gitekanye (nyababyeyi),

فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝

22. Kugeza igihe kizwi.

إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴿٢٢﴾

23. Nuko tukagena (imikurire y'umwana n'ivuka rye) kandi ni twe duhebuje mu kugena.

فَقَدْرَنَا فِيْعَمَ الْقَدَرُونَ

24. Kuri uwo munsi (w'izuka), ibihano bikaze bizaba kuri ba bandi bahinyuraga (uwo munsi).

وَيَلِّيْوَمِيْذِ لَّمُكَذِّيْنَ ﴿٢٤﴾

25. Ese isi ntitwayigize ihuriro,

أَنَّمَا نَجْعَلُ الْأَرْضَ هَقَاتًا ﴿٢٥﴾

26. Ry'abazima (bayituyeho) n'abapfuye (bayishyinguwemo)?

أَحْيَاهُ وَأَمْوَاتَهُ ﴿٢٦﴾

27. Hanyuma tukanayishyiramo imisozi miremire, ndetse tukabaha n'amazi y'urubogobogo?

وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوْسَى شَمْخَتٍ وَأَسْقَيْنَاهُ مَاءً فُرْتَانًا ﴿٢٧﴾

28. Kuri uwo munsi (w'izuka), ibihano bikaze bizaba kuri ba bandi bahinyuraga (uwo munsi).

وَيَلِّيْوَمِيْذِ لَّمُكَذِّيْنَ ﴿٢٨﴾

29. (Abahakanyi bazabwirwa bati) “Ngaho nimujye aho mwajyaga muhinyura (mu muriro wa Jahanamu)!”

أَنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَبِّرُونَ ﴿٢٩﴾

30. “Ngaho nimujye mu gicucu (cy'umwotsi wa Jahanamu) kigabanyijemo amashami atatu”,

أَنْطَلِقُوا إِلَى ظَلِيلِ ذِي ثَلَاثَ شَعَبٍ ﴿٣٠﴾

31. “Nta bwugamo gitanga ndetse nta n'ubwo kirinda ikibatsi cy'umuriro”,

لَا ظَلِيلٌ وَلَا يُغْنِي مِنَ الْهَبِ ﴿٣١﴾

32. Mu by'ukuri (uwo muriro)  
utera ibishashi bingana  
n'inyubako nini,

إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرِ الْقَصْرِ

33. (Ibyo bishashi) bimeze  
nk'ingamiya z'amagaju.

كَانَهُ وَجْهَتْ صُفْرٌ

34. Kuri uwo munsi (*w'izuka*),  
ibihano bikaze bizaba kuri ba  
bandi bahinyuraga (*uwo munsi*).

يَوْمَكُذِّبِينَ

35. Kuri uwo munsi, nta cyo  
bazaba bashobora kuvuga.

هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ

36. Nta n'uburenganzira  
bazahabwa bwo kugira  
urwitwazo batanga.

لَا يُؤْذِنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ

37. Kuri uwo munsi (*w'izuka*),  
ibihano bikaze bizaba kuri ba  
bandi bahinyuraga (uwo munsi).

يَوْمَكُذِّبِينَ

38.Uwo uzaba ari umunsi  
w'urubanza, ubwo (mwe) n'abo  
hambere, tuzaba  
twabakoranyirije hamwe.

هذا يوم الفصل <sup>صل</sup> جمعناكم وألأولين

39. Niba hari amayeri mufite (yo  
guhunga ibihano byanje),  
ngaho nimuyankorere.

٣٩ ﴿ إِنَّمَا كَانَ لَكُمْ يَعْدُونَ فِي كِيدُونَ ﴾

40. Kuri uwo munsi (*w'izuka*),  
ibihano bikaze bizaba kuri ba  
bandi bahinyuraga (uwo munsi).

يَوْمَ يُبَرَّأُ الْمُكَذِّبُونَ

41. Mu by'ukuri abagandukira  
**(Allah)**, (ku munsi w'imperuka)  
bazaba bari hagati y'ibicucu  
(by'ibiti byo mu ijuru) ndetse  
n'amasonko (atemba),

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعِيُونٍ ﴿١﴾

42. (Bazaba bahabwamo) n'imbuto (z'amoko anyuranye) bazajya bifuza;

وَفِوْكَهَ مِمَّا يَشَاءُ هُوَنَ ﴿٢٥﴾

43. (Bazabwirwa bati) “Nimurye, munywe kandi mugubwe neza kubera ibyo mwajyaga mukora.”

كُلُّوا وَأَشْرُوُا هَنِيَّا بِمَا كَنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٦﴾

44. Mu by'ukuri uko ni ko tugororera abakoze neza.

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي أَلْمُحْسِنِينَ ﴿٢٧﴾

45. Ibihano bikaze bizaba kuri ba bandi bahinyura (umunsi w'izuka).

وَيَلْ يَوْمَ مِيزِ لَمْكَذِيْنَ ﴿٢٨﴾

46. (Yemwe bahakanyi) “Nimurye munishimishe by'igihe gito (mu buzima bwo ku isi), kuko rwose muri inkozi z'ibibi.”

كُلُّوا وَتَمَسَّعُوا قَيْلًا إِنَّكُمْ جُنُّمُونَ ﴿٢٩﴾

47. Ibihano bikaze bizaba kuri ba bandi bahinyura (umunsi w'izuka).

وَيَلْ يَوْمَ مِيزِ لَمْكَذِيْنَ ﴿٣٠﴾

48. N'yo babwiwe bati “Nimwuname (musali)!” Ntabwo bunama (ngo basali).

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أُرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ﴿٣١﴾

49. Ibihano bikaze bizaba kuri ba bandi bahinyura (umunsi w'izuka).

وَيَلْ يَوْمَ مِيزِ لَمْكَذِيْنَ ﴿٣٢﴾

50. None se nyuma y'yi (Qur'an) ni ayahe magambo yandi bazemera?

فَإِنَّ حَدِيثَ بَعْدِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾

## 78 - SURAT A-NABA-U

(INKURU)

*Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirongo 40.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Ni iki (abahakanyi  
b'abakurayishi) babazanyaho?

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴿١﴾

2. Ku nkuru ihambaye (Qur'an  
n'umunsi w'imperuka),

عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ ﴿٢﴾

3. (Iyo nkuru) batavugaho  
rumwe (hagati y'abayemera  
n'abayihakana).

الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ﴿٣﴾

4. Oya! Rwose bidatinze  
bazamenya!

كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٤﴾

5. Oya nanone! Bidatinze  
bazamenya!

كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

6. Ese isi ntitwayigize nk'isaso?

أَلَّا نَجْعَلُ الْأَرْضَ مِهْدَادًا ﴿٦﴾

7. N'imisozi tukayigira  
nk'imambo?

وَلَيَجِدَ الْأَوْقَادَ ﴿٧﴾

8. Tukanabarema muri ibitsina  
byombi (gabo na gore)?

وَخَلَقْنَا كُلَّ أَرْوَاحَ ﴿٨﴾

9. Kandi ibitotsi byanyu  
twabigize uburyo bw'ikiruhuko.

وَجَعَلْنَا لَوْمَةً كُمْ سُبَاتًا ﴿٩﴾

10. N'ijoro turigira  
nk'umwambaro (binyuze mu  
mwijima waryo).

وَجَعَلْنَا أَيْلَلٍ لِبَاسًا ﴿١٠﴾

11. N'amanywa tuyagira ayo gushakiramo imibereho.

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿١١﴾

12. Tunubaka hejuru yanyu (ibirere) birindwi bikomeye.

وَبَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَادِدَادًا ﴿١٢﴾

13. Ndetse (n'izuba) turigira itara rimurika cyane.

وَجَعَلْنَا إِرَاجًا وَهَاجَا ﴿١٣﴾

14. Tunamanura mu bicu amazi menshi yisuka,

وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمَعْصَرَتِ مَاءً شَجَاجًا ﴿١٤﴾

15. Kugira ngo tuyamereshe impeke n'ibimera,

لَنْخِرَجَ بِهِ حَبَّا وَبَاتَانًا ﴿١٥﴾

16. N'imirima y'ibiti by'inzitane.

وَجَعَلَتِ الْفَافًا ﴿١٦﴾

17. Mu by'ukuri umunsi w'urubanza ufite igihe ntarengwa,

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ﴿١٧﴾

18. Umunsi impanda izavuzwa, maze mukaza muri amatsinda.

يَوْمَ يُنْفَحُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْرَاجًا ﴿١٨﴾

19. N'ikirere kizakingurwa maze gihinduke nk'amareombo,

وَفَتَحَتِ السَّمَاءَ فَكَانَتْ أَبْوَيَا ﴿١٩﴾

20. N'imisozi izakurwa mu myanya yayo, imere nk'ibirorirori.

وَسُرِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿٢٠﴾

21. Mu by'ukuri umuriro wa Jahanamu urarekereje,

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٢١﴾

22. Ni wo garukiro ry'ibygomeke,

لَأَطْرِغَنَّهُ عَابِرًا ﴿٢٢﴾

23. Bizawubamo imyaka n'imyaniko.

لَيَشِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ﴿٢٣﴾

24. (Ibyo byigomeke) ntibizawumvamo amafu cyangwa ikinyobwa,

لَآيْدُ وَقُوَّةٍ فِيهَا بَرَدٌ وَلَا شَرَابٌ ﴿٢٤﴾

25. Uretse amazi yatuye n'amashyira,

إِلَّا حَيْمَمًا وَغَسَاقًا ﴿٢٥﴾

26. (Ibyo bikazaba) ari igihembo gikwiye (ibikorwa bibi bakoraga).

إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿٢٦﴾

27. Kuko mu by'ukuri batayaga bicerca ibarura,

وَكَذَبُوا بِعَايِتَنَا كِذَابًا ﴿٢٧﴾

28. Ndetse banahinyuraga amagambo yacu cyane.

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ﴿٢٨﴾

29. Kandi byose twarabibaruye mu nyandiko.

فَذُوقُوا فَلَنْ تَزِيدَ كُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿٢٩﴾

30. Ngaho nimusogongere (ingaruka z'ibikorwa byanyu bibi), kandi nta kindi tubongerera usibye ibihano.

إِنَّ الْمُؤْتَقِينَ مَفَازٌ ﴿٣٠﴾

31. Mu by'ukuri abagandukira Allah bazabona intsinzi (Ijuru);

حَدَّاقٌ وَأَعْنَبًا ﴿٣١﴾

32. Ubusitani n'imizabibu,

وَكُواعِبٌ أَتْرَابًا ﴿٣٢﴾

33. N'inkumi z'urungano (Huur-ul Ayn),

وَكَاسَادِهَا قًا ﴿٣٣﴾

34. Ndetse n'ibirahuri byuzuye (ibinyobwa bidasindisha).

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا الْغَوَّا وَلَا كِذَابًا ﴿٣٤﴾

35. Nta magambo adafite umumaro cyangwa ikinyoma bazumviramo.

36. (Ibyo bizaba) ari ibihembo biturutse kwa Nyagasan wawe; impano ikyanye (n'ibikorwa byabo).

جَرَاءَ مِنْ رَّيْكَ عَطَاءِ حَسَابًا ﴿٣٦﴾

37. Nyagasan w'ibirere n'isi n'ibiri hagati yabyo, Nyirimpuhwe. (Ku munsi w'imperuka), nta bushobozi bwo kugira icyo bamuvugisha bazaba bafite (keretse abishatse).

رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ رَحْمَنَ لَا يَمْلِكُ كُوْنَ ﴿٣٧﴾

مِنْهُ خَطَايَا ﴿٣٧﴾

38. Umunsi Roho (Malayika Jiburilu) n'abandi bamalayika bazahagarara ku mirongo, ntibazavuga keretse uwo (**Allah**) Nyirimpuhwe azabihera uburenganzira, kandi akavuga ibiri ukuri.

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّا لَا يَتَكَبَّرُونَ إِلَّا

مَنْ أَذْنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٣٨﴾

39. Uwo munsi ni ukuri (uzaza nta gushidikanya). Bityo, ubishaka yawkiteganyiriza kwa Nyagasan we aho azashyikira.

ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَعَابًا ﴿٣٩﴾

40. Mu by'ukuri twababuriye ibihano byegereje; umunsi umuntu azabona ibyo yakoze, naho umuhakanyi akazavuga ati "Iyaba nari mbaye igitaka."

إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمُرْءُ مَا قَدَّمَ

يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلَيَّتِي كُنْتُ تُبَابًا ﴿٤٠﴾

## 79 - SURAT A- NAAZI'AT

(ABASHIKANUZA)

*Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirongo 46.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya **Allah**, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Ndahiye abamalayika  
bashikanuza (roho  
z'abahakanyi) n'ubukana  
buhambaye,

وَالْتَّرَعَتِ غَرَقًا ﴿١﴾

2. N'abamalayika bakuramo  
(roho z'abemeramana) bitonze,

وَالْتَّشَطَّطَتِ شَطَّا ﴿٢﴾

3. N'abamalayika bogoga ikirere  
bihuta (batwaye izo roho),

وَالسَّيِّحَاتِ سَبَّحاً ﴿٣﴾

4. N'abamalayika bihutana  
(ubutumwa babuzaniye  
Intumwa za **Allah** ku isi).

فَالسَّدِيقَاتِ سَبَّقاً ﴿٤﴾

5. N'abamalayika bashyira mu  
bikorwa ibyo bategetswe.

فَالْمُدَّرَّاتِ أَمْرًا ﴿٥﴾

6. Umunsi (impanda ya mbere  
izavuzwa), maze isi n'imisozi  
bigatigita bikabije (buri kiremwa  
kigapfa),

يَوْمَ تَرْحُفُ الْرَّاجِفَةُ ﴿٦﴾

7. (Umutingito wa mbere)  
uzakurikirwa n'undi mutingito  
(maze buri kiremwa kizuke),

تَجْرِيَهَا الْرَّادِفَةُ ﴿٧﴾

8. Uwo munsi imitima (ya  
bamwe) izaba ifite ubwoba  
n'agahinda,

فُؤُوبُ يَوْمِيْذِ وَاجْفَةً ﴿٨﴾

9. Ndetse n'indoro yabo izaba yaciye bugufi (isuzuguritse).

﴿٩﴾ أَبْصِرُهَا خَيْشَعَةً

10. Bazavuga bati “Ese mu by'ukuri tuzasubizwa mu buzima (bwacu bwo ku isi) twahozemo?”

﴿١٠﴾ يَقُولُونَ إِنَّا مَرْدُودُونَ فِي الْحَكِيرَةِ

11. “Ese n'yo twaba twabaye amagufa ashangutse?”

﴿١١﴾ إِذَا كُنَّا عَظِمَّا لَخَرَّةً

12. Bazavuga bati “Uko kugaruka kwacu (ku isi twifuza) kwaba ari igihombo!”

﴿١٢﴾ قَالُوا تَلَكَ إِذَا كَرَّةُ خَاسِرَةٍ

13. Mu by'ukuri hazabaho indi mpanda izavuzwa rimwe gusa.

﴿١٣﴾ فَإِنَّمَا هِيَ بَرْحَةٌ وَحْدَةٌ

14. Icyo gihe bazisanga imusozи (bongeye kuba bazima nyuma yo gupfa).

﴿١٤﴾ فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ

15. Ese inkuru ya Musa yakugezeho?

﴿١٥﴾ هَلْ أَتَنَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ

16. Ubwo Nyagasani we yamuhamagaraga ari mu kibaya gitagatifu cya Tuwa (agira ati),

﴿١٦﴾ إِذْ نَادَهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمَقْدَسِ لُوحِي

17. “Jya kwa Farawo kuko rwose yigometse.”

﴿١٧﴾ أَذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغِي

18. Umubwire uti “Ese ushobora kwiyeza (ukareka icyaha cy'ubuhakanyi, ukaba umwemeramana)?”

﴿١٨﴾ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَرْكَ

19. “Nkakuyobora kwa Nyagasani wawe kugira ngo umutinye?”

﴿١٩﴾ وَأَهْدِيَكَ إِلَى رِبِّكَ فَتَخْشِي

20. Nuko (Musa) amwerek  
igitangaza gihambaye.

فَارِيْهُ الْأَيْةُ الْكُبْرَىٰ ﴿٢٥﴾

21. Ariko (Farawo) yarahinyuye  
aranigomeka;

فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ﴿٢٦﴾

22. Maze atera umugongo  
akataza (ashishikariza abantu  
be kudakurikira Musa).

ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ ﴿٢٧﴾

23. Nuko akoranya (abantu be),  
avuga mu ijwi riranguruye,

فَخَشَرَ فَنَادَىٰ ﴿٢٨﴾

24. Agira ati “Ni njye nyagasan  
wanyu w'ikirenga.”

فَقَالَ أَنَا رَبُّ الْأَعْلَىٰ ﴿٢٩﴾

25. Bityo **Allah** amuhana  
by'intangarugero kubera icyaha  
cyo nyuma (yakoze) n'icya mbere  
<sup>234</sup>.

فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالًا لِّآخِرَةٍ وَأَلْأَوَىٰ ﴿٣٠﴾

26. Mu by'ukuri muri ibyo  
harimo isomo kuri buri wese  
utinya **Allah**.

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعْبَرَةً لِّمَنْ يَخْشَىٰ ﴿٣١﴾

27. Ese (yemwe bantu) iremwa  
ryanyu ni ryo rikomeye,  
cyangwa ikirere (**Allah**) yubatse  
(ni cyo gikomeye)?

إِنَّمَا أَنْتَ شَدُّ حَقَّاً لِّمَنِ السَّمَاءُ بَنَاهَا ﴿٣٢﴾

28. Yazamuye igisenge cyacyo,  
maze aragitunganya.

رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّهَا ﴿٣٣﴾

29. Ijoro ryacyo arigira  
umwijima, amanywa yacyo  
arayakesha.

وَأَغْطَشَ لِيَهَا وَأَخْرَجَ صُحْنَهَا ﴿٣٤﴾

<sup>234</sup> Icyaha cyo kuba Farawo yaravuze ko ari we Nyagasan w'ikirenga, nk'uko byavuzwe muri iki gice (Surat), umurongo wacyo wa 24. Naho icya mbere ni ukuba yarabwiye ibyegera bye ko atazi ko bafite indi mana itari we nk'uko byavuzwe mu gice (Surat) cya 28, umurongo wacyo wa 38.

30. Nyuma y'ibyo arambura isi,

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحْمَهَا ﴿٣٠﴾

31. Ayisohoramo amazi yayo  
n'inzuri zayo,

أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءً هَا وَمَرَّ عَلَيْهَا ﴿٣١﴾

32. Anashimangira imisozi,

وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ﴿٣٢﴾

33. Kugira ngo bibagirire  
akamaro, mwe namatungo  
yanyu.

مَتَعَالَكُمْ لَا نَعْمَلُ ﴿٣٣﴾

34. Ariko igihe icyago gihambaye  
(umunsi w'imperuka) kizaza,

فَإِذَا جَاءَتِ الْأَطَامَةُ الْكُبْرَىٰ ﴿٣٤﴾

35. Umunsi umuntu azibuka  
ibyo yashyizemo umuhate,

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ إِلَيْهِ الْإِنْسَنُ مَا سَعَىٰ ﴿٣٥﴾

36. Umuriro wa Jahanamu  
ukagaragarizwa (buri wese)  
ureba.

وَبُرْرَتِ الْجَحِيمُ إِمَّا نَيَرَىٰ ﴿٣٦﴾

37. Ubwo wa wundi wigometse,

فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ ﴿٣٧﴾

38. Agahitamo ubuzima bwo  
kuri iyi si (agakurikira ibibi  
aterwa n'irari rye),

وَإِذَا رَأَىَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾

39. Mu by'ukuri umuriro wa  
Jahanamu uzaba ubuturo  
(bwe).

فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿٣٩﴾

40. Ariko wa wundi watinye  
kuzahagarara imbere ya  
Nyagasani we, akanabuza  
umutima we kurarikira ibibi,

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَىَ النَّفَسَ عَنِ  
الْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾

41. Mu by'ukuri, ubusitani  
(Ijuru) buzaba ubuturo (bwe).

فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿٤١﴾

42. (Abahakanyi) barakubaza (yewe Muhamadi) ku bijyanye n'ihi imperuka izabera

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا ﴿٤٣﴾

43. Nta bumenyi ufite bwo kugira icyo uyivugaho,

فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذَكَرَهَا ﴿٤٤﴾

44. Ubumenyi bwayo bwihariye Nyagasani wawe.

إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَهَا ﴿٤٥﴾

45. Ahubwo wowe (Muhamadi) nta kindi uri cyo uretse kuba uri umuburizi w'abatinya (umunsi w'imperuka).

إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذُرٌ مَنْ يَخْشَهَا ﴿٤٦﴾

46. Umunsi bazawubona, bazamera nk'aho babaye ku isi ikigoroba kimwe cyangwa igitondo kimwe.

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ

صُحَّهَا ﴿٤٧﴾

## 80 - SURAT ABASA

(YAZINZE UMUNYA)

*Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirono 42*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya **Allah**, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. (Intumwa Muhamadi) yazinze umunya inatera umugongo.

عَبَسَ وَتَوَلَّ ﴿١﴾

2. Ubwo umuntu utabona (Abdullah bin Umm-Maktum) yari aje ayisanga (igihe yigishaga

أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ﴿٢﴾

bamwe mu bikomerezwa  
by'Abakurayishi).

3. Ese wabibwirwa n'iки? Wenda arashaka kwiyeza?

وَمَا يُدْرِكُ لَعْلَهُ يُزَكَّى ﴿٢﴾

4. Cyangwa akakira urwibutso, hanyuma urwibutso rukamugirira akamaro?

أَوْيَدَكُ فَتَنَفَعَهُ الْذِكْرُ ﴿٣﴾

5. Naho wa wundi wirata yumva ko adakeneye (kuyoboka),

أَمَّا مَنْ أَسْتَغْفَى ﴿٤﴾

6. Ni we witaho,

فَأَنْتَ لَهُ وَصَدَّى ﴿٥﴾

7. Kandi nta cyo wabazwa aramutse atijejeje (ngo ave mu buhakanyi, kuko wowe icyo ushinzwe ari ugusohoza ubutumwa bwa **Allah** gusa).

وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكِّي ﴿٦﴾

8. Ariko wa wundi uje akugana yihuta,

وَأَمَّا مَنْ جَاءَ لَقَبْعَدٍ يَسْعَى ﴿٧﴾

9. Kandi akaba atinya (**Allah** n'ibihano bye),

وَهُوَ يَخْشَى ﴿٨﴾

10. Uramwirengagiza (ukita ku bandi),

فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ﴿٩﴾

11. Oya ntibikwiye! Mu by'ukuri (iyi Qur'an) ni urwibutso.

كَلَّا إِنَّهَا تَذَكَّرَةٌ ﴿١٠﴾

12. Bityo, ubishaka nayizirikane.

فَنَ شَاءَ ذَكَرُهُ وَمَا

13. (Iri) mu nyandiko zirinzwe mu cyubahiro (Lawuhul Mahfudh),

فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ﴿١٣﴾

14. Zubahitse kandi zejejwe,

مَرْفُوعَةٌ مُظَهَّرٌ ﴿١﴾

15. Ziri mu maboko y'abanditsi  
(abamalayika bajyana  
ubutumwa ku bantu),

بِأَيْدِي سَقَرَةٍ ﴿٥﴾

16. B'abanyacyubahiro kandi  
b'inyangamugayo.

كَامِبَرَرَةٍ ﴿٦﴾

17. Umuntu (w'umuhakanyi)  
navumwe! Mbega ukuntu ari  
umuhakanyi (w'indashima)!

قُتِلَ الْإِنْسَنُ مَا أَكَّفَرَهُ وَ ﴿٧﴾

18. Ese (**Allah**) yamuremye mu  
ki?

مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَ ﴿٨﴾

19. Yamuremye mu ntanga,  
arangije amugenera uko  
azabaho,

مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ وَ فَقَدَرَهُ وَ ﴿٩﴾

20. Nuko amworohereza inzira  
(y'imibereho ye).

ثُمَّ السَّيْلَ يَسِّرُهُ وَ ﴿١٠﴾

21. Nyuma amugenera urupfu  
no gushyingurwa,

ثُمَّ أَمَاتَهُ وَ فَاقْبَرَهُ وَ ﴿١١﴾

22. Kandi igihe azabishakira  
azamuzura.

ثُمَّ أَذْسَأَهُ أَنْشَرَهُ وَ ﴿١٢﴾

23. Oya! Nyamara (umuntu)  
ntarakora ibyo yamutegetse.

كَلَّا لَمَّا يَقْضِي مَا أَمْرَهُ وَ ﴿١٣﴾

24. Ngaho umuntu niyitegerez  
amafunguro ye;

فَإِنَّهُمْ لِلْأَنْسَنِ إِلَى طَعَامِهِ وَ ﴿١٤﴾

25. Uko tumanura amazi (mu  
kirere) yisuka ari menshi,

أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّاً ﴿١٥﴾

26. Nuko tugasatura ubutaka  
uko bikwiye (kugira ngo amazi

ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّاً ﴿١٦﴾

abashe kubwinjiramo n'imbuto  
zimere),

27. Maze tukabumezamo  
impeke,

فَإِنَّنَا فِيهَا حَاجَةٌ  
٢٧

28. N'imirabibu n'imboga,

وَعَنْبَأْ وَقَضَبَ  
٢٨

29. N'imirizi n'imitende,

وَزَيْتُونَأْ وَخَلَّا  
٢٩

30. N'imirima igizwe n'ibiti  
by'inzitane,

وَحَدَّاقَ غُلْبَا  
٣٠

31. N'imbuto n'ubwatsi,

وَفَكِهَةَ وَبَاتَ  
٣١

32. Kugira ngo bibagirire  
akamaro, mwe namatungo  
yanyu.

مَتَعَالَكُمْ وَلَا نَعْمَمُكُمْ  
٣٢

33. Ariko ubwo urusaku ruziba  
amatwi (impanda y'imperuka)  
ruzaza,

فَإِذَا جَاءَتِ الْصَّاحَةُ  
٣٣

34. Uwo munsi umuntu  
azahunga umuvandimwe we,

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرءُ مِنْ أَخِيهِ  
٣٤

35. (Ahunge) nyina na se,

وَأُمَّهُ وَأَبِيهِ  
٣٥

36. N'umugore we n'abana be,

وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ  
٣٦

37. Kuri uwo munsi, buri muntu  
azaba afite ibimuhangayikishije  
(bituma atita ku bandi).

لِكُلِّ أُمَّرِيٍّ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَانٌ يُغَنِّيهِ  
٣٧

38. Kuri uwo munsi, uburanga (bw'abemeramana) buzaba bwererana,

وُجُوهٌ يَوْمَيْذٍ مُسْفَرَةٌ ﴿٢٨﴾

39. Bamwenyura, bishimiye inkuru nziza bahawe (y'Ijuru).

صَاحِكَةُ مُسْتَبِشَرَةٌ ﴿٣٩﴾

40. Naho uburanga (bw'abahakanyi) kuri uwo munsi buzaba bwuzuye umukungugu,

وَوُجُوهٌ يَوْمَيْذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٤٠﴾

41. Bwarenzwe n'umwijima.

تَرَهْقَهَا قَاتَرَةٌ ﴿٤١﴾

42. Abo ni bo bahakanyi b'inkozi z'ibibi.

أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿٤٢﴾

### 81 - SURAT A-TAK'WIIR

(KUZINGAZINGA)

*Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirongo 29.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Igihe izuba rizazingwazingwa (urumuri rwaryo rukazimira),

إِذَا الشَّمْسُ كُوَرَّتْ ﴿١﴾

2. N'igihe inyenyeri zizijima,

وَإِذَا النُّجُومُ انْكَرَتْ ﴿٢﴾

3. N'igihe imisozi izakurwa mu myanya yayo,

وَإِذَا الْجِبَالُ سُرِّرَتْ ﴿٣﴾

4. N'igihe ingamiya zihaka zizarekwa (ntizitabweho),

وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ﴿٤﴾

5. N'igihe inyamaswa z'inkanzi zizakoranyirizwa hamwe,

وَإِذَا الْوُحُوشُ حُسِّرَتْ ﴿٥﴾

6. N'igihe inyanja zizaka umuriro,

وَإِذَا الْبَحَارُ سُجِّرَتْ ﴿٦﴾

7. N'igihe roho zizasubizwa mu mibiri yazo (abeza bakajya ukwabo n'ababi bakajya ukwabo).

وَإِذَا النُّفُوسُ رُسِّجَتْ ﴿٧﴾

8. N'igihe umwana w'umukobwa wahambwe ari muzima azabazwa<sup>235</sup>,

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُيَّلَتْ ﴿٨﴾

9. Icyaha yakoze cyatumye yicwa,

يَأَيِّ ذَنْبٍ قُتِّلَتْ ﴿٩﴾

10. N'igihe ibitabo (bikubiyemo ibikorwa byiza n'ibibi bya buri muntu) bizaramburwa (bigakwirakwizwa),

وَإِذَا الْصُّحْفُ لُشِّرَتْ ﴿١٠﴾

11. N'igihe ikirere kizakurwaho igishishwa cyacyo (inyenyeri zavuyeho),

وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِّطَتْ ﴿١١﴾

12. N'igihe umuriro wa Jahanamu uzenyegezwa,

وَإِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ ﴿١٢﴾

13. N'igihe Ijuru rizigizwa hafi,

وَإِذَا الْجَنَّةُ أَرْفَثَتْ ﴿١٣﴾

<sup>235</sup> Mbere y'uko Intumwa y'lmana Muhamadi (Imana imuhe amahoro n'imigisha) ihabwa ubutumwa, Abarabu b'icyo gihe iyo babyaraga umwana w'umukobwa, bamuhambaga ari muzima kuko byabaga ari igisebo ku muryango ngo kuko babonaga nta cyo amaze! Arikoo nyuma y'aho Intumwa y'lmana iziye, ibyo byaraciwe. Kuba ari we uzabazwa ni ibigaragaza uburemere bw'icyaha cy'uwamwishe uzaba agiye guhura n'urubanza rukomeye ku munsi w'ibarura.

14. Icyo gihe buri muntu azamenya ibyo yakoze.

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ ﴿١٤﴾

15. Bityo, ndahiye inyenyeri zitagagaragara ku manywa zikongera kugaragara nijoro,

فَلَا أُقْسِمُ بِأَنْحِسَ ﴿١٥﴾

16. Zigenda zihuta kandi zikanihisha,

أَجْوَارُ الْكُسَيْسِ ﴿١٦﴾

17. Nanarahiye ijoro igihe riguye,

وَالْيَلِ إِذَا عَسَسَ ﴿١٧﴾

18. N'igitondo igihe gitangaje,

وَالصُّبْحُ إِذَا تَفَسَّ ﴿١٨﴾

19. Mu by'ukuri (Qur'an) ni ijambo ryazanywe n'Intumwa yubahitse [(Malayika Jibrilu), (riturutse kwa Allah)],

إِنَّمَا لِقَوْلِ رَسُولِ كَبِيرٍ ﴿١٩﴾

20. (Iyo ntumwa) ifite imbaraga (n'urwego rwo hejuru) yahawe na nyiri Ar'shi<sup>236</sup> y'icyubahiro (Allah).

ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢٠﴾

21. Yumvirwa (n'abamalayika mu ijuru) kandi ikaba yizewe (kwa Allah).

مُطَاعٌ ثَمَّ مَكِينٍ ﴿٢١﴾

22. Kandi (yemwe bahakanyi) mugenzi wanyu (Intumwa Muhamadi ibakomokamo) si umusazi.

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْهُونٍ ﴿٢٢﴾

23. Kandi rwose yamubonye (Malayika Jibrilu) ari mu kirere gikeye.

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْوَقِ الْمُبِينِ ﴿٢٣﴾

<sup>236</sup> Reba uko twasobanuye iri jambo muri Surat ul A'raf, aya ya 54.

24. Kandi (Intumwa Muhamadi) ntigundira ibyo yahishuriwe (ngo ireke kubyigisha abantu).

وَمَا هُوَ عَلَىٰ إِغْيَبٍ بِضَيْنَانِ ﴿٤﴾

25. Kandi (Qur'an) si ijambo rya Shitani wavumwe.

وَمَا هُوَ يَقُولُ شَيْطَنٌ رَّجِيمٌ ﴿٥﴾

26. None se muragana he?

فَأَيْنَ تَدْهُبُونَ ﴿٦﴾

27. Mu by'ukuri iyi (Qur'an) nta kindi iri cyo usibye kuba ari urwibutso ku biremwa (byose).

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٧﴾

28. Kuri wa wundi muri mwe ushaka gukurikira inzira igororotse.

لِمَنْ شَاءَ مِنْ كُوَنْ يَسْتَقِيمَ ﴿٨﴾

29. Kandi nta cyo mwashaka (ngo kibe) keretse Allah, Nyagasani w'ibiremwa (byose) aramutse agishatse.

وَمَا تَشَاءُ وَنَـٰ إِلَّا أَنْ يَشَاءُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٩﴾

## 82 - SURAT AL-INFITWAAR

(UGUSATAGURIKA)

*Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirono 19*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Igihe ikirere kizasatagurika,

إِذَا السَّمَاءُ انْفَضَرَتْ ﴿١﴾

2. N'igihe inyenyeri zizanyanyagira,

وَإِذَا الْكَوَافِرُ انتَرَتْ ﴿٢﴾

3. N'igihe inyanja zizuzura (amazi yazo akarenga inkombe),

وَإِذَا الْبَحَارُ فُجِّرَتْ ﴿٧﴾

4. N'igihe imva zizabirindurwa (zigakurwamo ibizirimo),

وَإِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ﴿٨﴾

5. (Icyo gihe) umuntu azamenya ibyo yakoze mbere n'ibyo yigijeyo ngo azabe abikora (byaba ibyiza cyangwa ibibi).

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَآخَرَتْ ﴿٩﴾

6. Yewe muntu! N'iki cyaguteye kwirengagiza Nyagasani wawe, Nyirubutagatifu?

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَنُ مَا عَرَّفَكَ رَبُّكَ أَكْبَرُ ﴿١٠﴾

7. We wakuremye akagutunganya ndetse akanaguha imiterere igukwiye?

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّكَ فَعَدَّكَ ﴿١١﴾

8. Yaragutunganyije aguha ishusho ashaka.

فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَبُّكَ ﴿١٢﴾

9. Oya! Nyamara muhakana umunsi w'ibihembo.

كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِاللَّهِينَ ﴿١٣﴾

10. Ariko mu by'ukuri mufite ababagenzura (abamalayika babashinzwe),

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَفْظِينَ ﴿١٤﴾

11. Bubashywe kandi bandika (ibikorwa byanyu byiza n'ibibi),

كَرَامًا كَيْتَيْنَ ﴿١٥﴾

12. Bazi ibyo mukora byose.

يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿١٦﴾

13. Mu by'ukuri abakora ibyiza bazaba mu munezero uhambaye (Ijuru);

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نِعَمٍ ﴿١٧﴾

14. Naho abangizi bazaba mu muriro ugurumana,

وَإِنَّ الْفُجُّارَ لَفِي جَحَّمٍ ﴿١٨﴾

15. Bazawuhiramo ku munsi w'ibihembo,

يَصُلُّونَهَا يَوْمَ الدِّينِ ١٥

16. Kandi ntibazigera bawuvamo.

وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَافِلِينَ ١٦

17. None se ni iki kizakumenyesha umunsi w'ibihembo?

وَمَا آتَدْرِيكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ١٧

18. Nanone, ni iki umunsi w'ibihembo?

ثُمَّ مَا أَدْرِكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ١٨

19. (Uzaba) ari umunsi umuntu atazagira icyo amarira undi, kandi kuri uwo munsi itegeko ryose rizaba ari irya **Allah**.

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّتَقْسِيسِ شَيْئًا وَلَا أَمْرٌ يَوْمَ إِذِ  
لَلَّهُ ١٩

**83 - SURAT AL MUTWAFIFINA  
(ABATUZA IBIPIMO)**  
*Yahishuriwe i Maka, igizwe n imirongo36.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya **Allah**, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Ibihano bikomeye bizahanishwa abatuzuza ibipimo,

وَيَلِ الْمُطَّفِقِينَ ١

2. Ba bandi igihe bapimiwe n'abandi bantu, basaba kuzurizwa ibipimo,

الَّذِينَ إِذَا أَحْكَمُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ٢

3. Nyamara bo bapimira (abandi), bakabaha ibituzuye.

وَإِذَا كَانُوا هُمْ أَوْ زَوْهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٢﴾

4. Ese bakeka ko batazazurwa (ngo babazwe),

أَلَا إِيَّنُ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَعْبُوثُونَ ﴿٣﴾

5. Ku munsi uhambaye?

لِيَوْمِ عَظِيمٍ ﴿٤﴾

6. Umunsi abantu (bose) bazahagarara imbere ya Nyagasani w'ibiremwa?

يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٥﴾

7. Oya! Mu by'ukuri igitabo cy'inkozi z'ibibi (cyanditsemo ibikorwa byazo) gishyinguwe mu bubiko bwabugenewe bwitwa Sijiini.

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفَجَارِ لَفِي سِجِّينٍ ﴿٦﴾

8. None se ni iki cyakumenyesha Sijiini?

وَمَا أَدْرِيكَ مَا سِجِّينٌ ﴿٧﴾

9. Ni igitabo cyanditse mu buryo bunoze kandi budasibama.

كِتَابٌ مَرْفُومٌ ﴿٨﴾

10. Uwo munsi ibihano bikaze bizaba kuri ba bandi bahinyura,

وَيُنْهَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٩﴾

11. Ba bandi bahinyura umunsi w'bihembo.

الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ يَوْمَ الدِّينِ ﴿١٠﴾

12. Kandi nta wundi uwuhakana usibye urengera (imbibi za Allah) w'umunyabyaha,

وَمَا يَكْذِبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِ أَثِيمٍ ﴿١١﴾

13. (Wa wundi) usomerwa amagambo yacu (yo muri Qur'an) akavuga ati "Ni inkuru z'abo hambere."

إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ إِيمَنَا قَالَ أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٢﴾

14. Oya! Ahubwo ibyo bakoraga (ibyaha) byatwikiriye imitima yabo.

كَلَّا بَلْ رَأَنَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾

15. Oya! Mu by'ukuri kuri uwo munsi bazabuzwa kureba Nyagasani wabo.

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنِ الرَّحْمَةِ وَمِنْذِ لَمْ حَجُّوْنَ ﴿١٥﴾

16. Maze bahire mu muriro ugurumana.

نَمَّ إِنَّهُمْ لَصَاحُوْلُ الْجَحِيمِ ﴿١٦﴾

17. Nuko babwirwe bati “Ibi ni byo mwajiyaga muhinyura.”

ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَبِّرُونَ ﴿١٧﴾

18. Oya! Mu by'ukuri igitabo cy'abakora ibyiza (cyanditsemo ibikorwa byabo) gishyinguwe mu bubiko bwabugenewe bwitwa Iliyyuna.

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عَلَيْنَ ﴿١٨﴾

19. None se ni iki cyakumenyesha Iliyuna?

وَمَا أَدْرَاكَ مَا عَلَيْنَ ﴿١٩﴾

20. Ni igitabo cyanditse mu buryo bunoze kandi budasibama.

كِتَابٌ مَّرْفُوعٌ ﴿٢٠﴾

21. (Abamalayika) begereye Allah ni bo bazakibera abahamya.

يَشَهِّدُهُ الْمُقْرَنُونَ ﴿٢١﴾

22. Mu by'ukuri abakora ibyiza bazaba mu munezero uhambaye (Ijuru);

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَعَنِ نَعِيَّهٖ ﴿٢٢﴾

23. Bicaye ku bitanda byiza, bitegerezza (ibyiza barimo, harimo no kureba uburanga bwa Nyagasani wabo).

عَلَى الْأَرَأِيِّ يَنْظُرُونَ ﴿٢٣﴾

24. Uzabona uburanga bwabo burabagirana kubera ibyishimo.

تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَصْرَةً النَّعِيْمِ ﴿٢٤﴾

25. Bazahabwa ikinyobwa gipfundikiye,

يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ﴿٢٥﴾

26. Intama ya nyuma (y'icyo kinyobwa) izaba ifite impumuro y'umubavu wa Miski. Kubera ibyo rero, ngaho abarushanwa nibarushanwe.

خَتَمَهُ مِسَكٌ وَفِي ذَلِكَ فَيَتَنَاهُسْ ﴿٢٦﴾  
الْمُتَنَفِّسُونَ

27. (Icyo kinyobwa) kizaba kivanze na Tas'niim (amazi y'isoko ituruka mu iriba ryo mu ijuru)

وَمِزَاجُهُ مِنْ سَيْنِيمٍ ﴿٢٧﴾

28. Isoko izanyobwaho n'abazaba bari hafi (ya Allah).

عَيْنَا يَشْرِبُ بِهَا الْمُرْقَبُونَ ﴿٢٨﴾

29. Mu by'ukuri (ku isi) inkozi z'ibibi zabyaga ziseka abemeramana,

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَافُوا مِنَ الَّذِينَ إِمْنَأْيَضَ حَكُونَ ﴿٢٩﴾

30. Bazinyuraho zikabaryanira inzara.

وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَغَامِرُونَ ﴿٣٠﴾

31. Zaba zisubiye mu miryangoyazo, zikabagira urwenya.

وَإِذَا أَنْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ أَنْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿٣١﴾

32. N'yo zababonaga, zaravugaga ziti "Mu by'ukuri bariya barayobye."

وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُولُونَ ﴿٣٢﴾

33. Nyamara ntabwo (izo nkodzi z'ibibi) zashinzwe kuba abagenzuzi (b'abemeramana).

وَمَا أَرْسَلُوا عَلَيْهِمْ حَفْظِينَ ﴿٣٣﴾

34. Ariko uyu munsi, abemeramana ni bo bari buseke abahakanyi.

فَالْيَوْمَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ  
يَضْحَكُونَ ﴿٣٤﴾

35. Bicaye ku bitanda byiza, bitegereza (ibyiza barimo, harimo no kureba uburanga bwa Nyagasan wabo).

عَلَى الْأَرْضِ يَنْظُرُونَ ﴿٣٥﴾

36. Ese abahakanyi ntabwo bahembewe ibyo bajyaga bakora?

هَلْ ثُبَّ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾

#### 84 - SURAT AL IN'SHIQAQ

(UGUSANDARA)

*Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirongo 25.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya **Allah**, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Igihe ikirere kizasandara (ku munsi w'imperuka),

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَتْ ﴿١﴾

2. Nuko kikumvira (itegeko rya) Nyagasan wacyo, kandi ibyo birakwiye (ko kimwumvira),

وَإِذَا لَرَنَّاهَا وَهَقَتْ ﴿٢﴾

3. N'igihe isi izaringanizwa,

وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ﴿٣﴾

4. Maze igasohora ibiyirimo (abapfuye), igasigarira aho,

وَإِذَا الْأَرْضُ مَافِيهَا وَخَلَّتْ ﴿٤﴾

5. Nuko ikumvira (itegeko rya)  
Nyagasani wayo, kandi ibyo  
birakwiye (ko imwumvira),

وَأَذِنْتَ لِرِبَّهَا وَحْقَّ<sup>٥</sup>

6. Yewe mutu! Mu by'ukuri  
ukorana umuhate imirimo yawe  
ugana kwa Nyagasani wawe,  
kandi muzahura (ku munsi  
w'imperuka).

يَا إِيَّاهَا إِلَيْسَنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رِبِّكَ كَدَ حَافِلٌ قَيْمِيهِ<sup>٦</sup>

٦

7. Bityo, uzahabwa igitabo cye  
(cy'ibikorwa bye) mu kuboko  
kw'iburyo,

فَآمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَيَسِّمِينَهُ<sup>٧</sup>

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حَسَابًا سَيِّرًا<sup>٨</sup>

8. Azabarurirwa mu buryo  
bworoshye,

وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا<sup>٩</sup>

9. Kandi azasubira mu bantu be  
(umuryango we wakoze neza ku  
isi, ndetse n'abagore  
azagororerwa bo mu ijuru)  
yishimye!

وَآمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهَرَهُ<sup>١٠</sup>

فَسَوْفَ يَدْعُو أُبُورًا<sup>١١</sup>

وَيَصْلِي سَعِيرًا<sup>١٢</sup>

إِنَّهُ وَكَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا<sup>١٣</sup>

إِنَّهُ وَظَنَّ أَنَّ لَنْ يَجُورَ<sup>١٤</sup>

10. Naho uzahabwa igitabo cye  
(cy'ibikorwa bye, akacyakirira)  
inyuma y'umugongo,

11. Azisabira kurimbuka,

12. Kandi azahira mu muriro  
ugurumana.

13. Mu by'ukuri (mu buzima  
bwo ku isi) yabaga mu  
muryango we yishimye,

14. Mu by'ukuri yibwiraga ko  
atazagaruwa (kwa Nyagasani  
we).

15. Nyamara si byo! Mu by'ukuri Nyagasani we yabaga amubona neza.

بَلْ إِنَّ رَبَّهُ وَكَانَ بِهِ بَصِيرًا ﴿١٥﴾

16. Bityo, ndahiye igicu gitukura cy'izuba rirenga,

فَلَا أَفِسْمُ بِالشَّفَقِ ﴿١٦﴾

17. N'ijoro n'ibyo ritwikira (byose),

وَالْأَيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿١٧﴾

18. N'ukwezi igihe kuzuye,

وَالْقَمَرِ إِذَا أَتَسَقَ ﴿١٨﴾

19. Ko rwose muzanyura mu byiciro bitandukanye (mu buzima bwa hano ku isi no ku munsi w'imperuka)

لَتَرْكِبُنَ طَبَقًا عَنْ طَبَقِ ﴿١٩﴾

20. Ese babaye bate, kuki batemera?

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾

21. Ndetse n'ijo basomewe Qur'an ntibajya bubama.

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿٢١﴾

22. Ahubwo abahakanye bahinyura (Intumwa Muhamadi n'inyigisho ze).

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ ﴿٢٢﴾

23. Kandi **Allah** azi neza ibyo bahisha (mu mitima yabo).

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوَعِّدُونَ ﴿٢٣﴾

24. Bityo, bagezeho inkuru y'ibihano bibabaza.

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٤﴾

25. Uretse abemeye bakanakora ibikorwa byiza, bazagororerwa ibihembo bidashira (Ijuru).

إِلَّا الَّذِينَ إِمَّا نَهَىٰ عَنِ الْمُحْمَدِ فَلَمْ يَتَّبِعْهُ إِلَّا مَنْ نُودِيَ بِهِ مَمْنُونٌ ﴿٢٥﴾

## 85 - SURAT AL BURUDJI

(INYENYERI NINI)

*Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirono 22*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya **Allah**, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Ndahiye ikirere gifite inyenyeri  
nini nyinshi (zimurika nijoro),

وَالسَّمَاءَذَاتِ الْبُرْوَجِ ①

2. N'umunsi w'isezerano  
(umunsi w'imperuka),

وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ②

3. N'umunsi w'ubuhamya  
(umunsi wa Idjuma) ndetse  
n'umunsi w'ikoraniro (umunsi  
wa Arafat).

وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ③

4. Abantu bacukuriye  
abemeramana imyobo (yo  
kubatwikiramo) baravumwe<sup>237</sup>,

قُتِلَ أَصْحَابُ الْأَخْدُودُ ④

5. Ubwo bacanaga umuriro  
ugurumana cyane,

النَّارِذَاتِ الْوَقْدِ ⑤

6. Ubwo babaga bawicaye  
impande,

إِذْ هُمْ عَلَيْهَا فَاعُودُ ⑥

7. Kandi babaga bashungereye  
ibyo bakoreraga abemeramana  
(babatwika).

وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَعْمَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ⑦

<sup>237</sup> Muri uyu murongo wa Qur'an haravugwamo amateka y'umwami witwa Dhu Nuwasi w'ahitwa Najirani, wategekaga abantu guhakana Imana, maze abanze akabacukurira imyobo ayicanamo umuriro akajya abajugunyamo ari bazima.

8. Kandi nta kindi babahoraga usibye kuba baremeye **Allah**, Umunyacyubahiro uhebuje, Ushimwa cyane,

وَمَا نَقْمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ  
الْحَمِيدُ

9. Ufite ubwami bw'ibirere n'isi! Kandi **Allah** ni Umuhamya wa buri kintu.

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ  
شَيْءٍ شَهِيدٌ

10. Mu by'ukuri abatoteje abemeramana  
n'abemeramanakazi (babakorera iyicarubozo), nyuma ntibicuze (kuri **Allah**), bazahanishwa ibihano by'umuriro wa Jahanamu, banahanishwe ibihano bitwika.

إِنَّ الَّذِينَ فَتَوْا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يُبُوْلُوا  
فَأَهْمُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَأَهْمُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ

11. Mu by'ukuri abemeye bakanakora ibikorwa byiza, bazagororerwa ubusitani butembamo imigezi (Ijuru). Iyo ni yo ntsinzi ihebuje.

إِنَّ الَّذِينَ إِمَّا مَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّتٌ  
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا نَهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ

12. Mu by'ukuri ibihano bya Nyagasani wawe (yewe Muhamadi) birakaze.

إِنَّ بَطْشَ رِيَّاكَ لَشَدِيدٌ

13. Mu by'ukuri ni We waremye (ibiremwa bitari biriho) kandi ni na We uzabigarura (ku munsi w'imperuka).

إِنَّهُ هُوَ بِدِئْ وَيُعِيدُ

14. Kandi ni We Ubabarira ibyaha, Umukunzi (w'abemeramana),

وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ

15. Nyiri Ar'shi<sup>238</sup>, Nyirikuzo,

ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿١٥﴾

16. Ukora ibyo ashaka  
akanabinoza.

فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٦﴾

17. Ese wamenye inkuru  
z'ingabo?

هَلْ أَتَنَاكَ حَدِيثُ الْجَنُودِ ﴿١٧﴾

18. Za Farawo n'iz'aba  
Thamudu?

فَرْعَوْنَ وَثُوَّادَ ﴿١٨﴾

19. Ahubwo abahakanye  
(bakomeje) guhinyura (ukuri).

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ﴿١٩﴾

20. Kandi Allah azi neza  
ibikorwa byabo byose (kandi  
azabibahanira).

وَاللَّهُ مِنْ وَرَاءِهِمْ مُّحِيطٌ ﴿٢٠﴾

21. Ahubwo iyi ni Qur'an  
yubahitse,

بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مَّجِيدٌ ﴿٢١﴾

22. (Yanditse) ku rubaho  
rurinzwe (Lawuhul Mahfudh).

فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ﴿٢٢﴾

<sup>238</sup> Reba uko twasobanuye iri jambo muri Surat ul A'araf, Aya ya 54.

## 86 - SURAT AT TWARIQ

(INYENYERI IMURIKA NIJORO)

Yahishuriwe i Maka, igizwe n 'imirongo 17.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya **Allah**, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Ndahiye ikirere n'ikimurika  
nijoro;

وَالسَّمَاءُ وَالظَّارِقَةُ ①

2. Ni iki cyakumenyesha  
ikimurika nijoro?

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الظَّارِقَةُ ②

3. Ni inyenyeri imurika cyane  
(irabagirana).

النَّجْمُ الظَّارِقُ ③

4. Nta muntu utagira  
umugenzi (abamalayika  
bashinzwe kugenzura ibikorwa  
bya muntu).

إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلِيَّهَا حَافِظٌ ④

5. Ngaho umuntu niyitegerez  
icyo yaremwemo!

فَيَنْظُرُ إِلَيْهِ الْإِنْسَنُ مِمَّ خُلِقَ ⑤

6. Yaremwe mu mazi ataruka  
(intanga),

حُكْمٌ مِّنْ مَّا يُدَافِقُ ⑥

7. Aturuka hagati y'umugongo  
n'imbavu (zo mu gituza)

يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الْصُّلْبِ وَالثَّرَابِ ⑦

8. Mu by'ukuri (**Allah** waremye  
uwo muntu mu ntanga) afite  
ubushobozi bwo kumuzura.

إِنَّهُ عَلَى رَحْمَةِ رَحِيمٍ لَّقَادِرٌ ⑧

9. Umunsi amabanga  
azahishurwa,

يَوْمَ تُبَلَّى أَسْرَارُهُ ⑨

10. Icyo gihe (umuntu) nta mbaraga azaba afite cyangwa ngo agire umutabara.

فَمَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ﴿١٥﴾

11. Ndahiye ikirere gitanga imvura igenda igaruka,

وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الرَّجْعَ ﴿١٦﴾

12. N'isi isaduka (kugira ngo ibiti n'ibimera bimere),

وَالْأَرْضُ ذَاتُ الصَّدْعَ ﴿١٧﴾

13. Mu by'ukuri iyi (Qur'an) ni imvugo itandukanya (ukuri n'ikinyoma),

إِنَّهُ لِقَوْلٌ فَصَلٌ ﴿١٨﴾

14. Kandi ntabwo ari imvugo idafite umumaro.

وَمَا هُوَ بِالْهَرَلِ ﴿١٩﴾

15. Mu by'ukuri (abahinyura ukuri) bacura umugambi mubisha (wo kurwanya ubutumwa bw'ukuri),

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿٢٠﴾

16. Maze nanjye (**Allah**) nkaburizamo umugambi wabo.

وَأَكِيدُ كَيْدًا ﴿٢١﴾

17. Bityo, abo bahakanyi bahe igihe (yewe Muhamadi), ubarindirize gato (bazibonera ibizababaho).

فَهُمْ أَكْفَارٌ أَمْهَلُهُمْ رُؤْيَاً ﴿٢٢﴾

## 87 - SURAT AL-A'ALA

(UWIKIRENGA)

Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirongo 19.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Singiza izina rya Nyagasan  
wawe, Uwikirenga,

سَيِّدُ أَسْمَرِيَّاتِ الْأَعْلَى ①

2. We waremye akanatunganya  
(buri kintu),

الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ②

3. Akanakigenera (gahunda  
yacyo yose), hanyuma  
akayikiyoboramo,

وَالَّذِي قَدَرَ فَهَدَى ③

4. Ni na We umeza ubwatsi mu  
nzuri,

وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى ④

5. Hanyuma akabwumisha  
bugahindura ibara.

فَعَلَهُ دُعَاءُ حَوَّى ⑤

6. Rwose (yewe Muhamadi)  
tuzakwigisha (gusoma Qur'an),  
bityo ntuzayibagirwa,

سَنْقُرُوكَفَلَاتَسَى ⑥

7. Keretse ibyo Allah azashaka  
(ko wibagirwa). Mu by'ukuri azi  
ibigaragara n'ibitagaragara.

إِلَامَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهَرَ وَمَا يَخْفِي ⑦

8. Tuzanakorohereza inzira yo  
gukora ibyiza.

وَنَيْسِرُوكَلِيْسَرَى ⑧

9. Bityo, ibutsa (abantu) igihe  
urwibutso rwabagirira akamaro,

فَذِكْرٌ إِنْ تَقْعَطِ الْذِكْرُى ⑨

10. Mu by'ukuri hazibuka wa wundi utinya (**Allah**),

سَيِّدُكُمْ مَنْ يَخْشَىٰ ﴿١٠﴾

11. Ariko inkozi y'ihibi izarugendera kure (urwibutso),

وَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ ﴿١١﴾

12. (Uwo) ni we uzajya mu muriro uhambaye (akawuhiramo),

الَّذِي يَصْلِي النَّارَ الْكَبِيرَىٰ ﴿١٢﴾

13. Aho atazapfa (ngo aruhuke) cyangwa ngo agiriremo ubuzima (bwiza).

ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿١٣﴾

14. Mu by'ukuri wa wundi wiyejeje (akirinda ibyaha) yamaze kubona intsinzi

قَدْ أَفَلَّ مَنْ تَرَىٰ ﴿١٤﴾

15. Akanasingiza izina rya Nyagasani we ndetse akanakora iswala.

وَذَكْرُ أَسْمَرَبِهِ فَصَلَّىٰ ﴿١٥﴾

16. Ariko mwe mwikundira ubuzima bwo kuri iyi si,

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿١٦﴾

17. Nyamara ubwo ku mperuka ari bwo bwiza kurushaho ndetse buzanahoraho.

وَالْآخِرَةُ حَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿١٧﴾

18. Mu by'ukuri ibi (mubwirwa) biri mu byanditswe byo hambere,

إِنَّ هَذَا لِفِي الصُّحْفِ الْأُولَىٰ ﴿١٨﴾

19. Inyandiko (zahishuriwe) Ibrahim na Musa.

صُحْفٌ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴿١٩﴾

## 88 - SURAT AL-GHASHIYAT

(IGITWIKIRA)

Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirongo 26.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Ese inkuru y'ikizatwikira  
(abantu ku munsi w'imperuka)  
yakugezeho?

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَشِيشَةِ ﴿١﴾

2. Kuri uwo munsi, uburanga  
bwa bamwe buzaba  
busuzuguritse,

وُجُوهٌ يَوْمَئِينِ خَيْشَعَةٌ ﴿٢﴾

3. (Igihe bari ku isi) babaga  
bakora bashishikaye (basenga  
ibindi bitari Allah), (ariko ku  
mperuka) bazaba bananiwe  
(kandi bafite ikimwaro).

عَامِلَةُ تَاصِبَةٍ ﴿٣﴾

4. Bazajya mu muriro utwika  
(bawuhiremo);

تَصْلِيَ نَارًا حَامِيَةً ﴿٤﴾

5. Kandi bazanyweshwa ku  
isoko (y'amazi) yatuye,

تُسْقَى مِنْ عَيْنِ إِنِيَّةٍ ﴿٥﴾

6. Nta byo kurya bazaba bafite  
uretse ibyatsi birura kandi bifite  
amahwa,

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرَبِ ﴿٦﴾

7. (Ibyo byo kurya) ntibizigera  
bibabyibushya cyangwa ngo  
bibamare inzara.

لَا يُسِمُّ وَلَا يُنْعِي مِنْ جُوعٍ ﴿٧﴾

8. Kuri uwo munsi kandi  
(ubundi) buranga buzaba  
bukeye;

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ<sup>٨</sup>

9. Bwishimiye ibikorwa byabwo,

لِسْعِيهَا رَاضِيَةٌ<sup>٩</sup>

10. (Ba nyirabwo bazaba bari)  
mu Ijuru ry'ikirenga,

فِي جَنَّةٍ عَالِيَّةٍ<sup>١٠</sup>

11. Aho batazumva amanjwe,

لَا سَمْعٌ فِي هَا لِغَيْةٍ<sup>١١</sup>

12. Hazaba harimo isoko  
itemba,

فِي هَا عَيْنٍ جَارِيَّةٌ<sup>١٢</sup>

13. Hazaba harimo ibitanda  
byigiye hejuru,

فِي هَا سَرْرَةٌ مَرْفُوعَةٌ<sup>١٣</sup>

14. N'ibikombe biteguwe (neza),

وَأَكَوَابٌ مَوْضُوعَةٌ<sup>١٤</sup>

15. N'imisego itondetse ku  
mirongo (neza),

وَنَارِقٌ مَصْبَوَفَةٌ<sup>١٥</sup>

16. N'amatapi arambuye  
(biryoheye ijisho).

وَزَرَابٌ مَبْشُونَةٌ<sup>١٦</sup>

17. Ese ntibitegerezza uko  
ingamiya zaremwe?

أَفَلَا يُظْرِونَ إِلَى الْأَيْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ<sup>١٧</sup>

18. N'uburyo ikirere  
cyahanitswe?

وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ<sup>١٨</sup>

19. N'uburyo imisozi  
yashimangiwe (mu butaka)?

وَإِلَى الْجَبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ<sup>١٩</sup>

20. N'uburyo isi yarambuwe?

وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ<sup>٢٠</sup>

21. Bityo, (yewe Muhamadi)  
bibutse kuko mu by'ukuri wowe  
uri uwibutsa,

فَذِكْرٌ لِمَا أَنْتَ مُذَكَّرٌ<sup>٢١</sup>

22. Ntukabashyireho igitugu.

لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ۝

23. Ariko utera umugongo (urwibutso) akanahakana,

إِلَّا مَنْ تَوَلَّ وَكَفَرَ ۝

24. Allah azamuhanisha ibihano bihambaye.

فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ أَلَّا يَبْرُرَ ۝

25. Mu by'ukuri iwacu ni ho garukiro ryabo,

إِنَّ إِلَيْنَا آتَيَاهُمْ ۝

26. Hanyuma mu by'ukuri ni twe tuzabakorera ibarura

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابُهُمْ ۝

### 89 - SURAT AL-FAJ'RI (UMUSEKE)

*Yahishuriwe i Maka, igizwe n 'imirongo 30.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Ndahiye umuseke,

وَالْفَجَرِ ۝

2. N'amajoro cumi (ya mbere y'ukwezi gutagatifu kwa Dhul-Hijja),

وَلِيَالٍ عَشَرِ ۝

3. N'ikitari igiharwe ndetse n'igiharwe (mu biremwa byose bya Allah),

وَالشَّفْعُ وَالْوَتْرُ ۝

4. N'ijoro iyo rihiita,

وَالْأَيَّلُ إِذَا يَسِيرِ ۝

5. Ese muri izo (ndahiro ntiharimo ibimenyetso bifatika

هَلْ فِي ذَلِكَ قَسْمٌ لِّذِي حِجَرٍ ۝

ku muntu ufite ubwenge  
(bituma areka ibyaha  
n'ubuhakanyi)?

6. Ese (yewe Muhamadi)  
ntiwamenye uko Nyagasan  
wawe yagenje aba Adi?

أَلَّا تَرَكِيفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ⑥

7. (Abantu b') Irama (bari  
barebare cyane), bafite  
n'inyubako ndende (zifite inkingi  
ndende),

إِرَمَ دَاتِ الْعِمَادِ ⑦

8. Bo (abo ba Irama) ntihigeze  
haremwa abandi bameze nka bo  
mu yindi mijyi.

أَلَّيْ لَمْ يُخْلِقْ مِثْلُهَا فِي الْبَلَدِ ⑧

9. N'aba Thamudu bacongaga  
urutare mu bibaya  
(bakarukoramo inyubako)?

وَشَمُودَ الَّذِينَ جَاءُوا الصَّحْرَ بِالْوَادِ ⑨

10. Na Farawo wari ufite  
imambo (yazirikagaho abantu  
abakorera iyicarubozo)?

وَفَرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ⑩

11. Ba bandi bakoze ubugizi  
bwa nabi mu mijyi,

الَّذِينَ طَعَوْا فِي الْلَّهِ ⑪

12. Maze bayikwizamo  
ubwangizi bukabije,

فَأَكَّثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ ⑫

13. Nuko Nyagasan wawe  
abasukaho ibihano bibabaza,

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ⑬

14. Mu by'ukuri Nyagasan  
wawe yiteguye guhana (inkozi  
z'ibibi).

إِنَّ رَبَّكَ لِيَأْمُرَ صَادِ ⑭

15. Iyo Nyagasanai agerageje umuntu, akamwubahisha akanamuhundagazaho ingabire, aravuga ati “Nyagasanai wanje yanyubahishije.”

16. Nyamara yamugerageza akamugabanyiriza amafunguro, akavuga ati “Nyagasanai wanje yaransuzuguje!”

17. Oya! Ahubwo ntimugirira neza imfubyi,

18. Ndetse nta n'ubwo mubwirizanya kugaburira abakene!

19. Kandi murya imirage (y'abandi) mukayimara,

20. Ndetse mugakunda imitungo bikabije.

21. Oya! Umunsi isi izasandazwa (igacikamo ibice),

22. Nuko Nyagasanai wawe akaza (guca imanza) ndetse n'abamalayika bari ku mirongo ikurikiranye,

23. Kandi uwo munsi umuriro wa Jahanamu uzazanwa. Kuri uwo munsi, umuntu azibuka, ariko se uko kwibuka kuzamumarira iki?

فَمَمَّا أَلِّيْسَنُ إِذَا مَا أُبْتَلَنُهُ رَبُّهُ وَفَكَّرَمَهُ  
وَنَعَمَهُ وَفَيَقُولُ رَبِّيْ أَكْرَمِيْنَ ﴿١٥﴾

١٥

كَلَّا لَكَ لَا تَكُونُ مُؤْنَى الْيَتَيْمَ ﴿١٦﴾

وَلَا تَخْحُضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿١٧﴾

وَتَأْكُلُونَ الْرِّثَانَ أَتَّلَّمَّا ﴿١٨﴾

وَتُخْبِئُونَ الْمَالَ حُبَّا جَمِّا ﴿١٩﴾

كَلَّا إِذَا دَكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّأَدَكَّا ﴿٢٠﴾

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَائِكُ صَفَّا صَفَّا ﴿٢١﴾

وَجِئَيْهِ يَوْمَيْدِنْ بِهَمَّنَّ يَوْمَيْدِنْ يَتَذَكَّرُ  
إِلَيْسَنْ وَأَذَلَّهُ الْذِكْرَى ﴿٢٢﴾

24. Azicuza avuga ati “Iyaba nari narateganyirije ubuzima bwanjye (nkora ibikorwa byiza)!

يَقُولُ يَنَاهِيَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاٰتِي ﴿٦٤﴾

25. Kuri uwo munsi ibihano (**Allah**) azahanisha nta wundi ushobora kubihanisha.

فِيَوْمَئِذٍ لَا يُعَدُّ بُعَذَابَهُ أَحَدٌ ﴿٦٥﴾

26. Kandi azanaboha (abahakanyi) ukuboha kutashoborwa n’undi uwo ari we wese.

وَلَا يُؤْتَقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ﴿٦٦﴾

27. (Umwemeramana azabwirwa ati) “Yewe roho ituje!”

يَأَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطَمَّنَةُ ﴿٦٧﴾

28. “Garuka kwa Nyagasan i wawe umwishimiye na We akwishimiye!”

أَرْجِعِي إِلَى رِبِّكَ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً ﴿٦٨﴾

29. “Maze winjire mu bagaragu banjye (b’intungane)”,

فَادْخُلِي فِي عِبْدِي ﴿٦٩﴾

30. “Uninjire mu Ijuru ryanje!”

وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴿٧٠﴾

### 90 - SURAT AL-BALAD

(UMUJYI)

*Yahishuriwe i Maka, igizwe n’imirongo 20.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya **Allah**, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Ndahiye uyu mujyi (wa Maka),

لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴿١﴾

2. Nawe (Ntumwa Muhamadi)  
utuye uyu mujyi,

وَأَنْتَ حَلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴿٢﴾

3. N'umubyeyi (Adamu) n'abo  
yabyaye,

وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ﴿٣﴾

4. Mu by'ukuri twaremye  
umuntu (agomba kunyura) mu  
ngorane.

لَقَدْ خَلَقْنَا إِلَّا نَسَنَ فِي كَيْدِ ﴿٤﴾

5. Ese akeka ko nta n'umwe  
wamushobora?

إِيَّاهُ سَبَّ أَنَّ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ﴿٥﴾

6. Aravuga ati “Nakoreshje  
umutungo mwinshi.”

يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لَأَلْبَدَأَ ﴿٦﴾

7. Ese akeka ko nta n'umwe  
umubona?

إِيَّاهُ سَبَّ أَنَّ لَمْ يَرِهُ أَحَدٌ ﴿٧﴾

8. Ese ntitwamuhye amaso  
abiri,

أَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ وَعِينَيْنِ ﴿٨﴾

9. Ndetse n'ururimi n'iminiwa  
ibiri?

وَلَسَانًا وَشَفَتَيْنِ ﴿٩﴾

10. Tukanamwereka inzira ebyiri  
(iy'icyiza n'ikibi)?

وَهَدَيْنَا لِلْجَدِينَ ﴿١٠﴾

11. Ariko ntiyigeze ashaka  
kunyura mu nzira igoranye  
(iganisha ku byiza n'intsinzi).

فَلَا أُقْتَحِمُ الْعَقَبَةَ ﴿١١﴾

12. Ese ni iki cyakumenyesha  
yo nzira igoranye?

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾

13. (Ni) ukubohora umucakara,

فَكُلْ رَقَبَةً ﴿١٣﴾

14. Cyangwa gutanga  
amafunguro ku munsi  
w'amapfa,

أَوْ طَعْمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْعَبَةٍ ﴿١٤﴾

15. (Ayo mafunguro ukayaha) imfubyi mufitanye isano rya bugufi,

يَتَسَمَّا ذَا مَقْرَبَةٍ ١٥

16. Cyangwa umukene wambaye ubusa (ubayeho mu kaga).

أَوْ مَسِكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ١٦

17. Hanyuma akaba umwe mu bemeramana, bakanagirana inama zo kwihangana ndetse bakanagirana inama zo kugira impuhwe.

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبَرِ  
وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ١٧

18. Abo ni abo mu kuboko kw'iburyo (mu Ijuru).

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ١٨

19. Naho abahakanye amagambo yacu, ni abo mu kuboko kw'ibumoso (mu muriro).

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِإِيمَانِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشَمَّةِ ١٩

20. Bazaba bafungiranye mu muriro (badafite aho binjirira n'aho basohokera).

عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَوَّدَةٌ ٢٠

## 91 - SURAT A-SHAM'S

(IZUBA)

*Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirono 15.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya **Allah**, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Ndahiye izuba n'urumuri rwaryo,

وَالشَّمَسُ وَضُحَاهُهَا ١

2. N'ukwezi igihe kurikurikiye,
- وَالْقَمَرٌ إِذَا أَنْتَ هَامَهَا ﴿٢﴾
3. N'amanywa igihe agaragaje urumuri (rw'izuba),
- وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّهَا ﴿٣﴾
4. N'ijoro igihe riritwikiriye,
- وَاللَّيْلٌ إِذَا يَعْشَشُهَا ﴿٤﴾
5. N'ikirere ndetse n'Uwagihanze,
- وَالسَّمَاءُ وَمَا بَنَاهَا ﴿٥﴾
6. N'isi n'Uwayirambuye,
- وَالْأَرْضُ وَمَا طَحَّهَا ﴿٦﴾
7. Na roho n'uwayitunganyije;
- وَنَفْسٌ وَمَا سَوَّدَهَا ﴿٧﴾
8. Hanyuma akayigaragariza ikibi n'icyiza,
- فَالَّهُمَّ هَا فُجُورَهَا وَتَقْوَنَهَا ﴿٨﴾
9. Mu by'ukuri uweza roho ye (akubaha **Allah** kandi agakora ibikorwa byiza) yaratsinze,
- قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَكَبَهَا ﴿٩﴾
10. Kandi rwose uwartereranye roho ye ari mu gihombo,
- وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا ﴿١٠﴾
11. Abantu ba Thamudu bahinyuye (Intumwa yabo) kubera kwigomeka,
- كَذَّبَتْ شَمُودٌ بَطَعَوْهَا ﴿١١﴾
12. Ubwo ubarusha ububi yahagurukanaga ibakwe (akajya kwica ingamiya y'imbyeyi),
- إِذَا أَبْعَثْتَ أَشْقَانَهَا ﴿١٢﴾
13. Nuko Intumwa ya **Allah** (Swaleh) irababwira iti "Muramenye! Iyo ni ingamiya ya **Allah** (ntimuyigirire nabi), kandi ntimuyibuze gushoka!"
- فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةُ اللَّهِ وَسُقِينَهَا ﴿١٣﴾

14. Ariko baramuhinyuye (ya ngamiya) barayica. Nuko Nyagasanji wabo arabarimbura ku bw'icyaha cyabo, ndetse bose abarimbura mu buryo bureshya (baba abakuru n'abato, abakire n'abakene, ndetse n'abakomeye n'abaciriritse).

15. Kandi (**Allah**) ntatinya ingaruka zabyo.

فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ

فَسَوَّهَا

وَلَا يَخَافُ عَقْبَهَا

**92 - SURAT A-LAYL  
(IJORO)**

*Yahishuriwe i Maka, igizwe n 'imirongo 21.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya **Allah**, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Ndahiye ijoro igihe riguye,

وَأَتَيْلَ إِذَا يَغْشَىٰ ﴿١﴾

2. N'amanywa igihe atangaje,

وَالْهَارِإِذَا أَنْجَلَّ ﴿٢﴾

3. N'uwaremye ikigabo n'ikigore,

وَمَا حَلَّكَ الْدُّكُورُ وَالْأَنْتَ ﴿٣﴾

4. Mu by'ukuri ibikorwa byanyu biratandukanye,

إِنَّ سَعِينَكُمْ لَشَتَّىٰ ﴿٤﴾

5. Wa wundi utanga (amaturo) akanagandukira (**Allah**),

فَإِمَّا مَنْ أَعْطَيْتَهُ وَاتَّقَىٰ ﴿٥﴾

6. Kandi akizera icyiza (Ijuru),

وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿٦﴾

7. Tuzamworohereza inzira  
y'ibiza.

فَسَيِّئَتْ وُلْيَسْرَى ٧

8. Ariko uzaba umunyabugugu,  
akirata yumva ko yishoboye,

وَأَمَّا مَنْ يَخْلُ وَاسْتَغْفِنَ ٨

9. Akanahinyura icyiza,

وَكَذَبَ بِالْحُسْنَى ٩

10. Tuzamworohereza inzira  
y'ibibi,

فَسَيِّئَتْ وُلْيَسْرَى ١٠

11. Kandi ubwo azaba arimbuka  
(ajyanywe mu muriro),  
umutungo we nta cyo  
uzamumarira.

وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَا لَهُ إِذَا تَرَدَّ ١١

12. Mu by'ukuri ukuyobora ni  
ukwacu.

إِنَّ عَلَيْنَا اللَّهُمَّ ١٢

13. Kandi mu by'ukuri ni natwe  
tugenga iby'imperuka n'ibibanza  
(iby'isi).

وَإِنَّ لَنَا لِآخِرَةٍ وَأَلْوَانِي ١٣

14. Bityo, mbaburiye umuriro  
ugurumana.

فَإِنَّدَرِثْ كُنَّا نَارًا تَأْطِي ١٤

15. Nta we uzawinjiramo utari  
inkozi y'ibibi,

لَا يَصْلَهَا إِلَّا أَلَّا شَقَى ١٥

16. Wa wundi wahinyuye (ukuri)  
akanagutera umugongo.

الَّذِي كَذَبَ وَتَوَلََّ ١٦

17. Ariko ukora ibikorwa byiza,  
azawurindwa,

وَسَيُجْبَهَا الْأَنْقَى ١٧

18. Wa wundi utanga umutungo  
we kugira ngo yiyeze,

الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ بِيَزْكِي ١٨

19. Kandi ntashishikazwe no  
kwiturwa n'uwo yagiriye neza.

وَمَا إِلَّا حَدَّ عَنْهُ مِنْ يَعْمَةٍ تُجَزِّي ١٩

20. Ahubwo (akabikora agamije) gushaka kwishimirwa na Nyagasan we, Uwikirenga.

إِلَّا بُتَغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعَمَّ ﴿٢٠﴾

21. Kandi rwose azishima (ubwo azinjira mu Ijuru).

وَلَسَوْفَ يَرَضَى ﴿٢١﴾

### 93 - SURAT A-DWUHAA

(AGASUSURUKO)

*Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirongo 11.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Ndahiye agasusuruko,

وَأَضْحَى ﴿١﴾

2. N'ijoro igihe ryijimye,

وَأَيَّلَ إِذَا سَجَنَ ﴿٢﴾

3.(Yewe Muhamadi), Nyagasan wawe ntiyagutereranye kandi nta n'ubwo yakwanze.

مَا دَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَاتَكَ ﴿٣﴾

4. Kandi rwose ubuzima bw'imperuka ni bwo bwiza kuri wowe kurusha ububanza (ubw'isi).

وَلِآخِرَةٍ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَلْأَوَى ﴿٤﴾

5. Mu by'ukuri Nyagasan wawe azaguha kandi uzishima.

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرَضَى ﴿٥﴾

6. Ese ntiyagusanze uri imfubyi akaguha icumbi (abakwitaho)?

أَفَرَيْحِيدُكَ يَتِيمًا فَأَوَى ﴿٦﴾

7. Akanagusanga  
udasobanukiwe (Qur'an  
n'amategeko yayo), nuko  
akakuyobora?

وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ ﴿٧﴾

8. Akaba yaranagusanze uri  
umukene maze  
akagukungahaza (akaguha  
kunyurwa)?

وَوَجَدَكَ عَابِلًا فَأَعْنَىٰ ﴿٨﴾

9. Bityo, ntugahutaze imfubyi,

فَمَا أُلْتَيْمَ فَلَا تَقْهَرَ ﴿٩﴾

10. Ntukanakankamire uje  
asaba.

وَمَا أَسَلَّمَ فَلَا تَنْهَرَ ﴿١٠﴾

11. Kandi ingabire za Nyagasani  
wawe (yaguhaye), ujye  
uzigaragaza (umushimira).

وَمَا بِنْعَمَةٍ رَّبِّكَ خَدِّثَ ﴿١١﴾

#### 94 - SURAT A-SHAR'H (UKWAGURA)

*Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirongo 8.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Ese (yewe Muhamadi)  
ntitwakwaguriye igituza?

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدَرَكَ ﴿١﴾

2. Tukagutura umutwaro  
(tukorohereza gusohoza  
ubutumwa),

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ﴿٢﴾

3. Wari ukuremereye umugongo? الَّذِي أَنْقَضَ ظَاهِرًا ۚ ۲
4. Tukanamenyekanisha izina ryawe? وَرَفَعَنَا لَكَ ذِكْرًا ۖ ۳
5. Mu by'ukuri nyuma y'ingorane haza ibihe byiza. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۴
6. Rwose, nyuma y'ingorane haza ibihe byiza. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۵
7. Bityo nuhuguka, ujye ushishikara (mu kugaragira Allah). فَإِذَا فَرَغْتَ فَأُنْصَبْ ۶
8. Kandi (imigambi n'ibyiringiro byawe) ujye ubitura Nyagasan i wawe (wenyine). وَإِلَىٰ رِيَكَ فَأُنْزَبَ ۷

**95 - SURAT AT-TIIN  
(UMUTINI)**

*Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirongo 8.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya **Allah**, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Ndahiye igitи cy'umutini n'icy'umuzeti, وَالْتَّيْنِ وَالرَّيْتُونَ ۱
2. N'umusozi wa Sinayi, وَطُورِسِينِينَ ۲
3. N'uyu mujyi utekanye (Maka), وَهَذَا الْبَلْدَ الْأَمَمِينَ ۳

4. Mu by'ukuri twaremye umuntu mu ishusho nziza,

لَقَدْ خَلَقْنَا إِلَيْنَا إِنْسَنًا فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿١﴾

5. Hanyuma tuzamushyira mu rwego rwo hasi cyane (ageze mu zabukuru atagishoboye kugira icyo yimarira).

ثُرَدَّنَاهُ أَسْفَلَ سَفِلِينَ ﴿٢﴾

6. Uretse babandi bemeye bakanakora ibikorwa byiza (n'iyo bageze mu zabukuru, hari ibikorwa byo kwiyegereza Imana bakomeza gukora); abo bazagororerwa ibihembo bidashira (Ijuru).

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ أَجْرُهُمْ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٣﴾

7. None se nyuma y'ibyo (yewe muntu), ni iki kigutera guhakana umunsi w'ibihembo?

فَمَا يُكَذِّبُ بَعْدَ بِالَّذِينَ ﴿٤﴾

8. Ese **Allah** si We Mucamanza usumba abandi?

أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمُ الْحَكَمَيْنَ ﴿٥﴾

### 96 - SURAT AL ALAQ

(URUSORO RW'AMARASO)

*Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirongo 19.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya **Allah**, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Soma ku izina rya Nyagasani wawe waremye (ibiriho byose),

أَقْرَأْ يَا سِمْرَىكَ الَّذِي حَلَقَ ﴿٦﴾

2. Yaremye umuntu mu rusoro rw'amaraso,

خَلَقَ إِلَيْنَا إِنْسَنًا مِنْ عَلِقٍ ﴿٧﴾

3. Soma! Kandi Nyagasan wawe ni Nyirubuntu uhebuje,

۴ أَفْرَأَ وَرَبُّكَ الْأَكَرْمُ ﴿٣﴾

4. We wigishije (umuntu kwandika) akoresheje ikaramu,

۵ الَّذِي عَلِمَ بِالْقَلْمَرِ ﴿٤﴾

5. Yigishije umuntu ibyo atari azi.

۶ عَلِمَ الْإِنْسَنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

6. Oya! Mu by'ukuri umuntu ararengera (arahakana kandi agakora ibibi),

۷ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَنَ لَيَطْغَى ﴿٦﴾

7. Iyo amaze kubona ko yihagije (kubera ibyo atunze).

۸ أَنَّ رَءَاهُ أُسْتَغْنَى ﴿٧﴾

8. Mu by'ukuri (umenye ko) kwa Nyagasan wawe ari ho garukiro.

۹ إِنَّ إِلَيْ رَبِّكَ الرُّجُوعَ ﴿٨﴾

9. Ese (yewe Muhamadi) wabonye wa wundi (Abu Jahl) ubuza

۱۰ أَرْعَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ ﴿٩﴾

10. Umugaragu (wacu Muhamadi) kugaragira?

۱۱ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ﴿١٠﴾

11. Ese (yabuza ate umugaragu wacu) aramutse ari mu nzira y'ukuri,

۱۲ أَرْعَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ ﴿١١﴾

12. Cyangwa ari gukangurira (abantu) kugandukira **Allah** (mbwira icyaba iherezo ry'umubuza)?

۱۳ أَوْ أَمَرَ بِالْتَّقْوَىٰ ﴿١٢﴾

13. Ngaho mbwira (Abu Jahl) aramutse ahinyura (ukuri) akanatera umugongo,

۱۴ أَرْعَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَقَوْلَىٰ ﴿١٣﴾

14. Ese ntabwo azi ko Allah abona (ibyo akora)?

الَّهُ يَعْلَمُ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى ﴿١٥﴾

15. Oya! Natarekera aho, tuzamufata uruhanga rwe turukururire mu muriro,

كَلَّا لَيْنَ لَمْ يَتَهَلَّسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ﴿١٦﴾

16. Uruhangga rubeshya, rw'urunyabyaha.

نَاصِيَةٌ كَذِبَةٌ حَاطِئَةٌ ﴿١٧﴾

17. Ngaho nahamagare abambari be,

فَكَيْدُ نَادِيُهُ ﴿١٨﴾

18. Natwe tuzahamagara abamalayika bacu barinda umuriro (kugira ngo bamukanire urumukwiye).

سَنْجَعُ الرَّبَانِيَةِ ﴿١٩﴾

19. Oya! (Yewe Muhamadi), ntukamwumvire (Abu Jahali), ahubwo ujye wubama (usali) uniyegereze Allah

كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْرِبْ ﴿٢٠﴾

### 97 - SURAT AL QADRI (IJORO RY'IGENO)

*Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirongo 5.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Mu by'ukuri (iyi Qur'an) ni Twe twayikumanuriye mu ijoro ry'igeno,

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١﴾

2. Ni iki cyakumenyesha ijoro ry'igeno?

وَمَا أَدْرَاكَ مَا لِلَّهِ الْقَدْرُ ⑤

3. Ijoro ry'igeno riruta amezi igihumbi (ibyiza bikozwe muri iryo joro birusha ibihembo ibikozwe mu gihe kingana n'amezi igihumbi)!

لِيَلَهُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ②

4. Abamalayika na Roho (Malayika Jibril) barimanukanamo babiherewe uburenganzira na Nyagasani wabo, kubera igeno (bazanye amategeko agenga) buri kintu cyose,

تَنْزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ

أَمْرٍ ③

5. Iryo (joro ryose) riba ryuje amahoro (n'impuhwe za Allah ku bagaragu be) kugeza umuseke utambitse.

سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْعَجْرِ ④

### 98 - SURAT AL-BAYYINAT (GIHAMYA IGARAGARA)

*Yahishuriwe i Madina, igizwe n'imirono 8.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Ba bandi bahakanye bo mu bahawe igitabo ndetse n'ababangikanyamana, ntibashobora kureka ubuhakanyi (bwabo) kugeza

لَمَّا كُنُّ الَّذِينَ هَرَوْا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ  
مُنْفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيهُمُ الْبَيِّنَاتُ ①

bagezweho n'ikimenyetso  
kigaragara;

2. (Icyo kimenyetso ni) Intumwa (Muhamadi) iturutse kwa **Allah**, ibasomera inyandiko zejejwe (Qur'an).

3. Zikubiyemo inkuru n'amategeko bitunganye.

4. Kandi abahawe igitabo bacitsemo ibice nyuma y'uko bagezweho n'ikimenyetso kigaragara (kuko mbere y'uko Intumwa Muhamadi ihabwa ubutumwa, bose bayemeranyagaho kuko yari yarahantuwe mu bitabo byabo, ariko imaze kuza bamwe barayihakana).

5. Kandi (no mu bitabo byabo) nta kindi bari barategetswe kitari ukugaragira **Allah**, bakaba ari we biyegurira wenyine, bahozaho iswala, ndetse bakanatanga amaturo. Kandi iryo ni ryo dini ritunganye.

6. Mu by'ukuri abahakanye bo mu bahawe igitabo ndetse n'ababangikanyamana bazaba mu muriro wa Jahanamu ubuziraherezo; abo ni bo babi mu biremwa.

رَسُولُ مِنَ اللَّهِ يَتَلَوُ صُحُفًا مُطَهَّرَةً ﴿٦﴾

فِيهَا كُتُبٌ قِيمَةٌ ﴿٣﴾

وَمَا نَقَرَقَ الَّذِينَ أَتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا

جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ﴿٤﴾

وَمَا أَمْرَوْا إِلَّا يَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ

حُفَّاءٌ وَيُقْرِبُونَ الصَّالِوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوَةَ وَذَلِكَ دِينُ

الْقِيمَةُ ﴿٥﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي

نَارٍ جَهَنَّمَ حَلَّىٰ إِنَّ فِيهَا أُولَئِكَ هُمُ شَرُّ الْبَرِّيَّةِ ﴿٦﴾

7. Naho abemeye bakanakora ibikorwa byiza; abo ni bo beza mu biremwa.

8. Ibihembo byabo kwa Nyagasan i wabo bizaba Ijuru rihoraho, ritembambo imigezi; (iryu Juru) bazaribambo ubuziraherezo. **Allah** yarabishimiye na bo baramwishimira. Ibyo (bihembo) ni iby'utinya Nyagasan we.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِّيَّةِ

جَزَأُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ حَتَّىٰ عَدُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِيلِنَّ فِيهَا أَبْدَارَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ دَلِكَ لِمَنْ حَشِّيَ رَبُّهُ

### 99 - SURAT A-ZALZALAT

(UMUTINGITO)

*Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirongo 8.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya **Allah**, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Ubwo isi izatigiswa n'umutingito ukomeye,

إِذَا زُلِّلَتِ الْأَرْضُ زُلِّلَاهَا ①

2. Nuko isi igasohora imitwaro yayo (ibiyirimo),

وَلَخَرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ②

3. Umuntu azavuga ati “Ese noneho (isi) yabaye iki?”

وَقَالَ إِلِيُّ اسْنُ مَا لَهَا ③

4. Uwo munsi (isi) izavuga inkuru zayo (z'iбыайберејејо),

يَوْمَئِذٍ تُحَدَّثُ أَخْبَارَهَا ④

5. Kubera ko Nyagasan i wawe azaba yayibitegetse.

بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا ⑤

6. Kuri uwo munsi, abantu bazasohoka (mu mva) batatanye kugira ngo berekwe ibikorwa byabo.

يَوْمَذِي صُدُرُ النَّاسُ أَشْتَأَنَ الْيَوْمَ أَعْمَانَهُمْ ⑥

7. Icyo gihe uzaba yarakoze icyiza gifite uburemere bungana n'akantu gato cyane kurusha ibindi, azakibona (agihemberwe).

فَنَّ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ⑦

8. N'uzaba yarakoze ikibi gifite uburemere bungana n'akantu gato cyane kurusha ibindi, azakibona (agihanirwe).

وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ⑧

### 100 - SURAT AL-ADIYAT

(AMAFARASI YIRUKA)

*Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirongo 11.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya **Allah**, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Ndahiye amafarasi yiruka cyane avuza imirindi,

وَالْعَدِيَّاتِ ضَبَحَا ①

2. Akubita (ibinono) bigatarutsa ibishashi by'umuriro,

فَالْمُورِيَّاتِ قَدَحَا ②

3. N'amafarasi agaba igitero mu rukerera,

فَالْمُغَيْرَاتِ صُبَحَا ③

4. Akanatumura umukungugu,

فَأَثْرَنَ بِهِ نَقَعَا ④

5. Akinjira hagati mu ngabo z'umwanzi.

فَوَسْطَانٍ بِهِ جَمِعًا ﴿٥﴾

6. Mu by'ukuri umuntu ni indashima kuri Nyagasani we,

إِنَّ الْأَنْسَنَ لِرِبِّهِ لَكَوْدٌ ﴿٦﴾

7. Kandi rwose ibyo yabibera umuhamya,

وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ﴿٧﴾

8. Ndetse akunda imitungo bikabije.

وَإِنَّهُ لِحِبْ أَخْيَرٍ لَشَدِيدٌ ﴿٨﴾

9. Ese ntazi ko hari igihe abari mu mva bazazurwa?

\*أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بَعْثَرَ مَا فِي الْقُبُوْرِ ﴿٩﴾

10. N'ibiru mu bituza (by'abantu) bigashyirwa ahagaragara?

وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ﴿١٠﴾

11. Mu by'ukuri uwo munsi Nyagasani wabo azaba azi neza ibyabo.

إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمٌ مِّنْ حَيْرٍ ﴿١١﴾

### 101 - SURAT AL-QAARIAT

(IKIZAHONDA)

*Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imironko 11.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya **Allah**, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Ikizahonda (umunsi w'imperuka)!

الْقَارِئَةُ ﴿١﴾

2. Ikizahonda ni iki?

مَا الْقَارِئَةُ ﴿٢﴾

3. Ni iki kizakumenyesha ikizahonda?

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِئَةُ ٣

4. Ni umunsi (w'imperuka), ubwo abantu bazamera nk'ibinyugunyugu binyanyagiye,

يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمُبَثُوثِ ٤

5. N'imosi ikamera nk'amoya (akemurwa ku matungo) atumuka

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعَهِينَ الْمَنْفُوشِ ٥

6. Bityo, uwo umunzani we (w'ibikorwa byiza) uzaremera (bikaruta ibibi),

فَأَمَّا مَنْ ثَقَلَتْ مَوَازِينُهُ ٦

7. Azaba mu buzima bw'umunezero (Ijuru),

فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَاضِيَةٍ ٧

8. Ariko uwo umunzani we (w'ibikorwa byiza) uzaba utaremereye (bikarutwa n'ibibi),

وَأَمَّا مَنْ حَفَّتْ مَوَازِينُهُ ٨

9. Ubuturo bwe buzaba ari mu muriro witwa Hawiya.

فَأُمَّهُ وَهَاوِيَةٌ ٩

10. Ni iki cyawukumenyesha (umuriro wa Hawiya)?

وَمَا أَدْرَاكَ مَاهِيَةً ١٠

11. Ni umuriro ugurumana bikabije!

نَارٌ حَامِيَةٌ ١١

102 - SURAT AT-TAKAATHUR  
(UKWIGWIZAHO)

Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirongo 8.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Mwarangajwe no gushaka kwigwizaho ubutunzi,

أَهْمَكُكُ التَّكَاثُرُ ١

2. Kugeza ubwo mugeze mu mva,

حَتَّىٰ زَرْتُ الْمَقَابِرَ ٢

3. Oya ntibikwiye! Bidatinze muzamenya (ko ubuzima bw'imperuka ari bwo bwiza kuri mwe).

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ٣

4. Oya na none! Bidatinze muzamenya.

ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ٤

5. Oya! Iyo muza kugira ubumenyi budashidikanywaho (bw'ibijyanye n'iherezo ryo kurangazwa no kwigwizaho imitungo, ntimwari guhugira mu by'isi).

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عَمَّا يَقِينُونَ ٥

6. Mu by'ukuri muzabona umuriro wa Jahiim!

لَتَرُونَ جَهَنَّمَ ٦

7. Rwose muzawibonera imbonankubone.

ثُمَّ لَتَرُونَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ٧

8. Kandi rwose, kuri uwo munsi muzabazwa ku ngabire (mwahawe muri ku isi).

ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ٨

## 103 - SURAT AL-AS'R

(IGIHE)

Yahishuriwe i Maka, igizwe n 'imirongo 3.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya **Allah**, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Ndahiye igihe,

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾

2. Mu by'ukuri umuntu ari mu  
gihombo,

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾

3. Uretse abemeye bagakora  
ibikorwa byiza, bakagirana  
inama z'ukuri kandi  
bakanagirana inama zo  
kwihangana.

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا  
بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّدَرِ ﴿٣﴾

## 104 - SURAT AL-HUMAZAT

(UNEGURA)

Yahishuriwe i Maka, igizwe n 'imirongo 9.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya **Allah**, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Ibihano bikomeye bizaba kuri  
buri wese unegura abandi,  
usebanya,

وَيَلْكُلُ كُلَّ هَمَزَةٍ لَمَرَّةٍ ﴿١﴾

2. Urundanya imitungo agahora  
ayibara.

الَّذِي جَمَعَ مَا لَأَوْعَدَهُ ﴿٢﴾

3. Yibwira ko umutungo we uzatuma abaho ubuziraherezo!

يَحْسَبُ أَنَّ مَا لَهُ أَخْلَدَهُ ۝

4. Oya! Mu by'ukuri azajugunywa mu muriro witwa Hutwama (ushwanyaguza).

كَلَّا إِنَّمَا يُنَذَّرُ فِي الْحُطْمَةِ ۝

5. Ni iki kizakumenyesha Hutwama?

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطْمَةُ ۝

6. Ni umuriro wa Allah wenygejwe,

نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةُ ۝

7. (Uwo muriro) uzajya uzamuka ugere ku mitima (y'abazaba bawurimo),

أُلَّا تَصْلِعُ عَلَى الْأَفْعَادِ ۝

8. Mu by'ukuri bazaba bawufungiwemo,

إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ ۝

9. (Baziritse) ku nkingi ndende (kugira ngo batawusohokamo).

فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ ۝

### 105 - SURAT AL-FIIL

(INZOVU)

*Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirongo 5.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Ese (yewe Muhamadi) ntiwamenye uko Nyagasanii wawe yagize abagabye igitero

أَلَّا تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۝

bari ku nzovu (baje gusenya ingoro ya Al Kaabat iri i Maka)?

2. Ese umugambi wabo mubisha ntiyawuburijemo?

أَنْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ﴿٢﴾

3. Nuko akabohereza uruhuri rw'inyoni,

وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طِيرًا أَبَايِيلَ ﴿٣﴾

4. Zikabatera amabuye y'ibumba yacaniriwe,

تَرْمِيهِمْ بِحَجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلٍ ﴿٤﴾

5. Maze akabagira nk'ibyatsi byakanjakanjwe.

فَعَاهُمْ كَعَصْفِ مَأْكُولٍ ﴿٥﴾

### 106 - SURAT QURAYSH (ABAKURAYISHI)

*Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirongo 4.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya **Allah**, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Kubera akamenyero k'Abakurayishi (mu mujyi wabo),

لِإِلَيْكِ فُرِيشٌ ﴿١﴾

2. No kubera amasezerano yabo arebana n'ingendo (z'ubucuruzi) zo mu gihe cy'ubukonje no mu cy'impeshyi (batekanye),

إِلَيْهِمْ رِحْلَةُ الشَّتَاءِ وَالصَّيفِ ﴿٢﴾

3. Ngaho nibagaragire (**Allah**) Nyagasani nyir'iyi ngoro (Al Ka'abat),

فَلَيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ﴿٣﴾

4. (We) wabagaburiye mu gihe cy'amapfa, ndetse akanabaha umutekano mu gihe cy'ubwoba.

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَأَمْنَهُمْ مِّنْ

خَرْفٍ ﴿٤﴾

107 - SURAT AL-MA'UN

(IBIKORESHO BYO MU RUGO)

*Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirongo 7.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Ese wamenye uhinyura umunsi w'ibihembo?

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾

2. Uwo ni wa wundi uhutaza imfubyi,

فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتَمَّ ﴿٢﴾

3. Ntanashishikarize (abandi) kugaburira abakene,

وَلَا يَحُضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾

4. Bityo, ibihano bikomeye biri ku basenga,

فَوَيْلٌ لِلْمُصْلِّيْنَ ﴿٤﴾

5. Ba bandi birengagiza iswala zabo (ntibazikorere ku bihe byazo byagenwe)

الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْرٌ ﴿٥﴾

6. Ba bandi bakora ibyiza bagamije kwiyerekana,

الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُوْنَ ﴿٦﴾

7. Kandi bakanga (gutiza) ibikoresho byo mu rugo (ababikeneye).

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

## 108 - SURAT AL-KAWTHAR

(UMUGEZI WO MU IJURU)

*Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirongo 3.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Mu by'ukuri (yewe Muhamadi) twaguhaye (ibyiza byinshi birimo) umugezi wo mu Ijuru witwa Kawthar.

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۚ

2. Bityo, ujye usali unatange ibitambo kubera Nyagasani wawe.

فَصَلِّ لِرِبِّكَ وَأَخْرُجْ ۚ

3. Mu by'ukuri ukwanga ni we nyakamwe (ntazigera abona ibyiza haba ku isi ndetse no ku mperuka).

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۚ

## 109 - SURAT AL-KAFIRUNA

(ABAHAKANYI)

*Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirongo 6.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Vuga (yewe Muhamadi) uti "Yemwe bahakanyi!"

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۚ

2. Singaragira ibyo mugaragira,
3. Kandi namwe ntimugaragira uwo ngaragira.
4. Ndetse nanje sinzigeragira ibyo mugaragira,
5. Kandi namwe ntimuzigera mugaragira uwo ngaragira.
6. Mufite idini ryanyu, nanje nkagira idini ryanje.”

لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾

وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾

وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ﴿٤﴾

وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينٌ ﴿٦﴾

110 - SURAT A-NAS'R  
(UBUTABAZI)

*Yahishuriwe i Madina, igizwe n'imirongo 3.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Igihe ubutabazi bwa Allah (kuri wowe Muhamadi) buzaza, ndetse n'intsinzi (yo kubohora umujyi wa Maka),

إِذَا جَاءَهُ نَصْرٌ اَللَّهُ وَالْفَتْحُ ﴿١﴾

2. Nuko ukabona abantu binjira mu idini rya Allah ku bwinshi,

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ

أَفْوَاجًا ﴿٢﴾

3. Uzasingize ikuzo rya Nyagasani wawe (aho uri hose), unamusabe imbabazi; kuko ari

فَسَيِّحٌ بِحَمْدٍ رَّيْتَ وَأَسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ

كَانَ تَوَّابًا ﴿٣﴾

We Uwakira ukwicuza  
(kw'abagaragu be).

## 111 - SURAT AL-MASAD

(UMURUNGA)

*Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirongo 5.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Amaboko yombi ya Abu Lahab<sup>239</sup> arakorama (kubera ko yayakoreshaga abangamira Intumwa y'Imana), ndetse na we ubwe azorame.

تَبَّعَ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ

2. Umutungo we n'urubyaro rwe nta cyo bizamumarira.

مَا أَعْنَى عَنْهُ مَالُهُ، وَمَا كَسَبَ

3. Azahira mu muriro ugurumana,

سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ

4. Ndetse n'umugore we watwaraga ibiti (by'amahwa yajyaga atega mu nzira Intumwa y'Imana yanyuragamo).

وَأَمْرَأَتُهُ، حَمَالَةُ الْحَاطِبِ

5. Mu ijosi rye (uwo mugore) hazaba hari umurunga wo mu muriro.

فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ

<sup>239</sup> Abu Lahab yari se wabo w'Intumwa Muhamadi, akaba yari umwe mu banzi bakomeye b'idini rya Isilamu, barwanyije bakanatoteza Intumwa Muhamadi.

**112 - SURAT AL-IKH'LAS**  
**(KWIYEGURIRA)**

*Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirongo 4.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya **Allah**, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Vuga (yewe Muhamadi) uti

“We ni **Allah**, umwe Rukumbi,”

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ①

2. **Allah**, Uwishingikirizwa,

اللَّهُ الصَّمَدُ ②

3. Ntiyabyaye kandi  
ntiyanabyawe,

لَا يَلِدُ وَلَا يُوْلَدُ ③

4. Ndetse nta na kimwe ahwanye  
na cyo.

وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ ④

**113 - SURAT AL-FALAQ**  
**(IGITONDO)**

*Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirongo 5.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya **Allah**, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Vuga (yewe Muhamadi) uti  
“Niragije (**Allah**), Nyagasani  
w'umuseke”,

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ①

2. “Ngo andinde inabi y'iþyo  
yaremye,”

إِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ②

3. “Anandinde ikibi cyo mu ijoro  
ryijimye igihe riguye,”

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ③

4. “Anandinde ikibi cy'abarozikazi bahuha ku mapfundo,”

وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿١﴾

5. “Ndetse anandinde inabi y'umunyeshyari igihe arigize.”

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٢﴾

### 114 - SURAT A-NAAS

(ABANTU)

*Yahishuriwe i Maka, igizwe n'imirongo 6.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi.

1. Vuga (yewe Muhamadi) uti “Niragije (Allah), Nyagasani wabantu,”

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾

2. “Umwami wabantu,”

مَلَكِ النَّاسِ ﴿٢﴾

3. “Imana yabantu,”

إِلَهِ النَّاسِ ﴿٣﴾

4. “Ngo andinde ububi bwa (shitani) yoshyia gukora ibibi, nyuma ikabireka (igihe umuntu yibutse Allah),”

مِنْ شَرِّ الْوَسَوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾

5. “Yoshyia imitima yabantu gukora ibibi;”

الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾

6. “Yaba (shitani) yo mu majini cyangwa mu bantu.”

مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾



**URUTONDE RW'AHAGARAGARA KUBAMA (SUJUUD) MURI  
QUR'AN.**

Iyo Umuyislamu ari gusoma Qur'an akagera hamwe muri aho hantu, ni byiza ko yubama agasingiza Imana.

Nº	IZINA RYA SURAT	NIMERO YA SURAT	NIMERO YA AYAT
1	Al-A'araaf	7	206
2	A-Ra'ad	13	15
3	A-Nah'l	16	50
4	Al-Isra-u	17	109
5	Mar'iham	19	58
6	Al-Hadj	22	18
7	Al-Hadj	22	77
8	Al-Furqan	25	60
9	A-Nam'lu	27	26
10	A-Saj'dah	32	15
11	Swaad	38	24
12	Fuswilat	41	38
13	A-Nadj'm	53	62
14	Al-In'shiqaaq	84	21
15	Al-Alaq	96	19

## **AMAZINA Y'INTUMWA Z'IMANA N'ABAHANUZI BAVUZWE MURI QUR'AN.**

Imana yohereje Intumwa n'Abahanuzi benshi batazwi umubare, tugomba kubemera ko babayeho kandi ko bari baroherejwe n'Imana. Muri abo bahanuzi n'Intumwa z'Imana harimo makumyabiri n'eshanu, Imana yagaragaje amazina yabo muri Qur'an ntagatifu mu bice bitandukanye.

Abo ni aba bakurikira:

<b>Nº</b>	<b>MU CYARABU</b>	<b>MU KINYARWANDA</b>
1	Adam	Adamu
2	Nuhu	Nowa
3	Ismail	Ishimayeli
4	Ibrahim	Aburahamu
5	Lutw	Loti
6	Isihaq	Isaka
7	Yaqu'b	Yakobo
8	Yusuf	Yozefu
9	Dawud	Dawidi
10	Sulayman	Salomo
11	Ayub	Yobu
12	Yunusu	Yona
13	Al-yasa'a	Eliya
14	Idrissa	Enoki
15	Musa	Musa
16	Haruna	Aroni

17	Shu'aib	Swayibu
18	Hud	Hudu
19	Dhul-Kifl	Dhul-Kifli
20	Swaleh	Salehe
21	Il'y'aas	Eliyasa
22	Zakariya	Zakariya
23	Yah'ya	Yohana
24	Issa	Yesu/Yezu
25	Muhamad	Muhamadi

## **TAWHID**

### **I- KUKI IMANA YOHEREJE INTUMWA N'ABAHANUZI?**

Imana yohereje Intumwa n'Abahanuzi inabahishurira ibitabo bikubiyemo ubutumwa bugamije kwerekana umurongo n'inzira Imana ishaka ko abantu bakurikira, ibyo Imana yabikoze kugira ngo hatazagira umuntu ugira urwitwazo ku munsi w'urubanza avuga ko atamenye Imana ndetse atanamenye inzira y'ukuri yagombaga gukurikira.

Buri uko abantu bahimbaga uburyo bushya bwo kubangikanya Imana bagaragira ibindi bitari yo, Imana yabohererezaga Intumwa n'Abahanuzi kugira ngo zibahamagarire kuyisenga yonyine nta kindi bayibangikanyije nacyo.

Izo ntumwa n'abahanuzi zabaga zifite inshingano zo guhamagarira abantu kuva mu mwijima wo kubangikanya Imana n'ibiremwa byayo, bakagana mu rumuri rwo gusenga Imana yonyine. Intumwa zose zigishaga kwizera no gusenga Imana imwe rukumbi (ari byo Tawhiid). Imirongo yo muri Qur'an ikurikira ishimangira ibi tuvuze: Surat ya 7: 59, 65, 73, 85 ndetse na Surat ya 16: 36.

Buri ntumwa yoherezwaga ku bantu ikomokamo kugira ngo ibayobore, ariko umwihariko w'ubutumwa bw'Intumwa Muhamadi (Imana iyihe amahoro n'imigisha) bwabaye ubwa rusange ku bantu bose ndetse n'amajini, nk'uko bigaragara muri Qur'an, Surat ya 7:158.

Intego yo kohereza Intumwa n'abahanuzi ku bantu n'amajini, yari uko bagomba kugaragira Imana yonyine nk'uko Imana ubwayo ibishimangira muri Qur'an, Surat ya 51:56.

Kugaragira Imana bivuga kuyisenga, kuyubaha ndetse no kuyibombarikaho, hashyirwa mu bikorwa ibyo yategetse byose ndetse no kwirinda ibyo yabujije byose. Abazumvira Imana bazagororerwa Ijuru, naho abazayigomekaho bazahanishwa Umuriro utazima.

## **IBICE BIGIZE TAWHID**

Muri Isilamu, gusenga Imana imwe (Tawhid) bigizwe n'ibice bitatu:

1. **Tawhid a-Rububiyyat:** bivuga guharira Imana ibikorwa byayo ukemera ko ari yo yonyine ifite ubushobozi bwo kubikora kandi nta mufasha igira.

**Ingero :** bivuga kwemera ko Nyagasanai ari umwe ku biremwa byose. We wabihanze, wabiremye, we ubibeshaho; uwo akaba ari we **Allah**.

2. **Tawhid al Uluhiyat:** bivuga kwemera ko ugusengwa ari ukwa Nyagasanai wenyine, ko atabangikanywa n'ikindi icyo ari cyo cyose.
3. **Tawhid al Asma-i wa Swifaat:** bivuga kwemera ko Imana Nyagasanai ari yo yihariye ibisingizo byuzuye ndetse n'amazina matagatifu.

Ibi bisobanuye ibi bikurikira:

- a) Kudaha ibisingizo Imana bitari ibyo yo ubwayo yiyise cyangwa ibyo Intumwa n'Abahanuzi bayise, cyangwa se uko bayisingije;
- b) Kudafata amazina cyangwa ibisingizo Imana yihariye ngo ubihe ikindi kintu kitari yo.

**Ingero:** Kwita umuntu rimwe mu mazina y'Imana nka: A-Swamad (Nyirukwiringirwa) ndetse n'andi. Aha, umuntu yitwa Abdu Swamad, bivuga umugaragu wa Nyirukwiringirwa.

- c) Kwemera ibisingizo byose by'Imana yagaragaje mu gitabo cyayo gitagatifu, Qur'an cyangwa ibyigishijwe n'Intumwa yayo Muhamadi (Imana iyihe amahoro n'imigisha), nta cyo duhinduyeho cyangwa ngo tubigereranye n'ibiremwa.

### **Ingero:**

- Muri Surat ya 20:5, **Allah** avuga ko aganje kuri Ar'shi ye y'icyubahiro. Uku kuganza kuvugwa muri uyu murongo ntaho guhuriye n'uko abantu batekereza, kuko kwhariwe na Nyagasanai wenyine.

- Muri Surat ya 48:10, **Allah** ashimangira ko afite amaboko abiri, ariko ayo maboko ntaho ahuriye na gato n'ay'ibiremwa yaremye, kuko Imana nta na kimwe isa nacyo. Bityo n'ibiyiranga ntabwo bisa n'iby'ibiremwa byayo.

Ngibyo ibyo abemera nyakuri bemera kandi uko ni ko kuri Intumwa n'Abahanuzi bigishije, uhoreye ku wabanje kugera ku wabasozereje; ari we Muhamadi (Amahoro y'Imana abasakareho bose). Ibyo bice uko ari bitatu ni byo bigize ijambo "*La ilaha ila llahu*", bisobanuye ngo "Nta yindi mana ikwiye gusengwa by'ukuri uretse Imana imwe rukumbi, **Allah**".

Mu bisobanuro bigize *Tawhid al Uluhiyat*, hakubiyemo guhamya ko Muhamadi ari Intumwa y'Imana. Ibyo bisobanuye ko ari ngombwa gukurikira no gukurikiza inyigisho yigishije, kandi ko nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kwitwa, gufatwa ndetse no gukurikirwa nk'Intumwa, kuko nyuma ye, nta ntumwa cyangwa umuhanuzi uzigera ubaho.

## **II. UBUHAMYA (SHAHADAT).**

Byagaragaye ko bamwe mu bantu iyo babaye Abayisilamu, badasobanukirwa neza ukuri kw'ibisobanuro by'ihame ry'ibanze idini rya Islamu ishingiyeho, ari ryo: "ASH'HADU AN LA ILAAHAILA LLAHU WA ASH'HADU ANA MUHAMMADA RASUULU LLAHI"; bisobanuye ngo "Ndahamya mbivanye ku mutima, mbivugisha ururimi ko nta yindi mana ikwiye gusengwa by'ukuri uretse **Allah**, kandi ngahamya ko Muhamadi ari Intumwa ya **Allah**".

Ni ngombwa ko hasobanurwa iri hame rishingiye kuri iyi nteruro ikubiyemo isezerano rihambaye umuntu aba yiye meje kugirana na Nyagasani we igihe abaye Umuyisilamu. Ibisobanuro by'iyi nteruro bikubiyemo ibice bitatu:

1- Kuba wiyemeje kugirana isezerano na Nyagasani, Umuremyi w'ibirere n'isi, Umugenga wa buri ikiriho cyose, Nyiricyubahiro gihambaye. Ibi na byo bikaba bishingiye ku ngingo enye:

**a.** Guhamya bivuye ku mutima ko Umuremyi wa buri kintu ari **Allah**; we utegura umugambi w'ibikorwa byose by'ibiremwa, we utanga

ubuzima agatanga n'urupfu, akaba ari na we dukesha ibyiza byose. Iki gice nk'uko twabivuze mu nyandiko zabanje, ni cyo cyitwa *Tawhid al-Rububiyyat*, ari nabyo bivuze kwemera ko Umuremyi w'abantu bose ndetse na buri kintu cyose, cyaba ikigaragara n'ikitagaragara ari **Allah**.

**b.** Guhamya bivuye ku mutima ugira uti “Ndemeza ko nta wundi ukwiye gusengwa by'ukuri uretse **Allah** wenyine, kandi ko nta cyo abangikanywa na cyo, icyo ari cyo cyose”. Iki gice ni cyo cyitwa *Tawhid al-Uluhiyyat*, bisobanuye ko **Allah** ari we wenyine ugomba kugaragirwa.

**c.** Guhamya bivuye ku mutima ugira uti “Yewe Nyagasani wanjye! Ndahamya rwose ko amazina yawe n'ibisingizo byawe, byaba ibyo wivugiye mu Gitabo cyawe Gitagatifu cya Qur'an, cyangwa ibyo Intumwa yawe Muhamadi yakuvuzeho, mbyemera nta cyo mpinduyeho”. Muri bimwe mu bisingizo bya **Allah**, harimo ko yihariye kumva no kubona bitagereranywa n'iby'umuntu cyangwa iby'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Nk'uko biri muri Qur'an, Surat ya 42 :11. Iki gice ni cyo cyitwa “*Tawhid ul Asma-i wa Swifat*.”

**d.** Guhamya bivuye ku mutima, ugira uti “Yewe Nyagasani wanjye! Ndemeza ko Muhamadi (Imana imuhe amahoro n'imigisha) ari Intumwa yawe. Ibyo bivuze ko nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kuba yakwiyita Intumwa nyuma y'Intumwa Muhamadi, we wasozereje Intumwa n'Abahanuzi; nk'uko **Allah** abivuga muri Qur'an, Surat ya 33:40, Surat ya 59:7 ndetse na Surat ya 3:31.

2-Kuvuga ijambo “La ilaha ila llahu, Muhamadu Rasulullah” bigomba kuba bivuye ku mutima bikaturwa ku rurimi.

Iri jambo iyo urivuze ubikuye ku mutima, uba abaye Umuyisilamu, ndetse ukaba ubaye umwemeramana. Se wabo w'Intumwa Muhamadi (Imana iyihe amahoro n'imigisha), witwaga Abu Twalib ubwo yari hafi yo kwitaba Imana, Intumwa Muhamadi (Imana iyihe amahoro n'imigisha) yamubwiye ko navuga ijambo “LA ILAAHAILA LLAHU, MUHAMADU RASULU LLAH; ari bwo azashobora kubona uko amuvuganira imbere ya **Allah** ku Munsi w'Imperuka.”

3- Kuvuga ijambo “La ilaha ila llahu, Muhamadu Rasulullah” bigomba kujyana n'ibikorwa ndetse n'imyifatire y'urivuze. Uzavuga iryo jambo aryemera, yemera ibisobanuro byaryo kandi akarivuga

arikuye ku mutima kubera Nyagasan we, uwo agomba kwirinda kugwa mu byaha Imana yaziririje birimo nko:

- Gutegera abantu ku nzira ugamije kubambura ibyo bafite;
- Kwica;
- Kwiba;
- Gusambana;
- Kurya inyama y'ingurube;
- Kunywa ibisindisha ndetse n'ibiyobyabwenge;
- Kurya umutungo w'impfubyi;
- Kwiba mu bucuruzi;
- Ruswa ndetse no kubona amafaranga binyuze mu nzira zitemewe n'amategeko ya Islam;
- Kubeshya,
- Gusebanya, n'ibindi.

Umunwa ndetse n'ibindi bice by'umubiri w'umuntu ukora ibyaha tuvuze haruguru, bizahamya byemeza ko nyirabyo yabeshye **Allah** ubwo yagiranaga isezerano na we avuga ijambo “LA ILAHAILA LLAHU, MUHAMAD RASULULLAH”, hanyuma akabirengaho. Umuntu aramutse akoze kimwe mu byaha byavuzwe haruguru, yagombye kumenya ko ari ngombwa kwicuza ku Mana akayisaba imbabazi, kuko ku munsi w'izuka ibice by'umubiri we bizamushinja ibyo byaha azaba yarakoze. Kuvuga iri jambo ni isezerano rihambaye umuntu aba yiyeje kubahiriza kandi icyo gihe aba abaye Umuyisilamu.

4-Umuntu uvuze ijambo “LA ILAHAILA LLAHU, MUHAMAD RASULULLAH”, aba ategetswe kubahiriza inkingi eshanu za Isilamu, nk'uko zigaragara mu mvugo y'Intumwa y'Imana (Imana iyihe amahoro n'imigisha).

Izo nkingi ni izi zikurikira:

1. Guhamya ko nta yindi mana ikwiye gusengwa by'ukuri uretse Imana imwe rukumbi, kandi ko Muhamadi ari Intumwa yayo.
2. Guhozaho Iswala eshanu (ku munsi);
3. Gutanga amaturo (Zakat);
4. Gusiba ukwezi kwa Ramadhan;
5. Gukora umutambagiro mutagatifu (Haj) k'ubishoboye.

Kuva ubwo kandi aba anategetswe kwemera inkingi esheshatu z'ukwemera, ari zo:

1. Kwemera Imana imwe rukumbi (**Allah**);

2. Kwemera Abamalayika;
3. Kwemera Ibitabo by'Imana;
4. Kwemera Intumwa;
5. Kwemera Umunsi w'Imperuka;
6. Kwemera igeno ry'Imana ry'uko icyiza n'ikibi bituruka ku Mana.

### **ICYITONDERWA:**

Kugira ngo umuntu yemererwe ibikorwa byiza yakoze, bigomba kuba bishingiye kuri ibi bintu bibiri bikurikira:

1. Kugira umugambi (Niyat) wo gukora igikorwa, kandi kigaharirwa **Allah** wenyine ku buryo agikora agamije gushimwa n'Imana gusa, nta bwibone cyangwa kwigaragaza biranze nyir'ukugikora;
2. Buri gikorwa kigomba kuzuzwa kikananozwa, ndetse kikanakorwa hashingiwe ku mugenzo (Sunat) w'Intumwa y'Imana Muhamadi (Imana iyihe amahoro n'imigisha). Igikorwa cyose cyo kwiyegereza Imana kitakozwe n'Intumwa y'Imana cyitwa ighimbano mu idini, bityo ugikoze aba akoze icyaha kandi nta n'ubwo icyo gikorwa akoze Imana icyakira.

### **III. KUBANGIKANYA IMANA.**

#### **(a) Kubangikanya Imana (Shirk)**

Ni ngombwa kuvuga ku bijyanye n'icyaha kiruta ibindi byose Imana itazigera ibabarira umuntu naramuka apfuye atacyicujije. Icyo cyaha ni ukubangikanya Imana. Kubangikanya Imana (Shirk) bivuga kwiyegereza kimwe cyangwa byinshi mu biremwa byayo, ubiha agaciro cyangwa icyubahiro gikwiye Imana; ibyo rimwe na rimwe bikanavamo kubigaragira, kubisaba, kubisenga; wiringira ko imbaraga, imigisha, amizero, ugukizwa waba ukeneye cyangwa ufite ubibona biturutse kuri ibyo biremwa. Ibyo tubisanga mu mirongo ya Qur'an ikurikira: Surat ya 4:48 na Surat ya 23: 117.

#### **Amoko y'ibangikanyamana.**

Ibangikanyamana ririmo amoko atatu:

- 1) **A-Shirk al Akbar** (Ibangikanyamana rikuru);

- 2) **A-Shirk al Asghar** (Ibangikanyamana rito);
- 3) **A-Shirk al Khafiyu** (Ibangikanyamana ritagaragara).

**a) A-Shirk al Akbar (Ibangikanyamana rikuru)**

Iri bangikanyamana rigaragarira muri ibi bikurikira:

- **Shirk a-Du'a** (Kubangikanya Imana mu gusaba). Iri bangikanyamana rigaragara iyo umuntu asabye cyangwa akiyambaza ibindi bitari Imana, mu gihe abisaba ikintu kiri mu bubasha bwihariwe n'Imana yonyine. Surat yaa 29: 65

**Urugero:** Kujya mu bapfumu kuraguza ubasaba urubyaro, imitungo no kugira amahirwe mu buzima cyangwa ubasaba kukurinda ibyago runaka.

- **Shirk a-Twa'at** (Kubangikanya Imana mu kumvira). Iri bangikanyamana rishingiye ku kumvira no kubaha ibiremwa, ukabiha icyubahiro kingana cyangwa kirenze igikwiye Imana. Ibi tubisanga muri Surat ya 9:31.
- **Shirk al Mahabat** (Kubangikanya Imana mu gukunda). Iri bangikanyamana rishingiye ku kuba umuntu yagira ibindi biremwa akunda urukundo rungana cyangwa rurenze urwo yagakunze Imana. Ibi tubisanga muri Surat ya 2: 165.

**b) A-Shirk al Asw'ghar/ a-Riya'u** (Ibangikanyamana rito). Iri bangikanyamana rishingiye ku bikorwa by'idini umuntu akora agamije ko abantu bamubona cyangwa bamwumva gusa. Ibi tubisanga muri Surat ya 18:110.

**c) A-Shirk al Khafiyu** (Ibangikanyamana ritagaragara). Iri bangikanyamana rishingiye ku kuba umuntu ashobora kuba muri we atishimiye ibyo Imana yamugeneye, bityo umutima we ugahora umucira urubanza umubwira ko iyo aza kuba yarakoze iki n'iki cyangwa atarakoze iki n'iki, biba bitaragenze uku n'uku cyangwa aba yarageze kuri iki n'iki.

Ubu bwoko bw'ibangikanyamana ritagaragara kandi riboneka mu mvugo umuntu ashobora kuvuga agira ati: “Iyo bitaza kuba Imana na kanaka ntabwo nari kugera kuri ibi n'ibi”. Gukoresha iyi mvugo birimo

ibangikanyamana ryishihe kuko uyikoresheje aba ashizye uwo muntu mu rwego rw'Imana, kuko aba avuze ko ibyo yagezeho yabigejejweho n'ubushake bw'Imana bufatanyije ku rwego rumwe n'ubushake bw'uwo muntu. Mbese uwo muntu aba amuringanije n'Imana kandi ibyo ntabwo byemewe. Ahubwo imvugo yemewe mu gihe hari umuntu wagize uruhare mu byo yagezeho, yavuga ati: "Iyo bitaba Imana mbere ya byose, hanyuma ntibibe n'uruhare rwa kanaka, ntabwo nari kugera kuri ibi n'ibi".

Iyi mvugo yo iremewe, kuko ubushake bw'Imana ntabwo yabushyize ku rwego rumwe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo ubushake bw'Imana ni bwo bwabanje, maze akurikizaho ijambu hanyuma abona kugaragaza uruhare rw'umuntu kanaka wabigizemo uruhare kugira ngo bishoboke.

### **IBISOBANURO BY'IJAMBO JIHADI, IMPAMVU ZAYO NDETSE N'AMATEGEKO AYIGENGA MURI ISILAMU.**

Ubundi 'Jihadi' ni ijambu riri mu rurimi rw'Icyarabu risobanura "Kugira umurava n'umuhate kugira ngo ugere ku ntego zawe".

'Jihadi' nanone bisobanura "Guharanira inzira y'Imana mu buryo bunyuranye bugamije kwamamaza idini rya Isilamu; nko gukoresha ururimi, kwandika ibitabo, gukora filimi n'ikinamico ugaragariza abandi ishusho nyayo ya Isilamu."

'Jihadi' nanone kandi ishobora gukorwa hatangwa imitungo mu gutera inkunga ibikorwa bisabwa n'idini; nko gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi, kubaka amashuri n'amavuriro, imisigitu ndetse n'ibindi bikorwa by'ingirakamaro.

Hari n'ubundi bwoko bwa Jihadi bwitwa 'Jihadi y'umutima'; bisobanura "Kuganza ibishuko by'umutima woshyu gukora ibibi ukabinesha".

Jihadi kandi ishobora no gukorwa mu rugamba rwo kwitabara iyo bibaye ngombwa, mu gihe hari abibasiye Abayisilamu babica bakanabatoteza babaziza ukwemera kwabo. Icyo gihe ubuyobozi bukuru bw'Abayisilamu bumaze kubyigaho neza ndetse no gushakisha inzira zindi zo gukemura ibyo bibazo cyangwa kubigabanya bikananirana, na nyuma yo kureba ko ubushoboz bwo

kurwanya umwanzi buhari kandi buhagije, icyo gihe ubuyoboz  
bwemerewe gushyiraho gahunda zo kwitabara no kwirwanaho nk'uko  
n'undi wese utewe yitabara.

### **Jihadi y'urugamba yashyizweho igamije kwitabara no kurwanya akarengane, ntabwo ari ukurenganya cyangwa guhohotera abandi.**

Jihadi yashyizweho mu rwego rwo kwitabara no kurwanya akarengane  
ubwo abantu bemeye ubutumwa bw'Intumwa Muhamadi (Imana  
imuhe amahoro n'imigisha) batotezwaga mu mujyi wa Maka, kugeza  
ubwo bamwe bahungiye muri HABASHA (akarere ko mu ihembe rya  
Afurika k'ubu), abandi barimo n'Intumwa Muhamadi (Imana imuhe  
amahoro n'imigisha) bagahungira i Madina, mu birometero birenga  
magana ane uvuye i Maka. Kuba baremeye gusiga ibyabo bagahunga  
ababatotezaga, byari ikimenyetso kigaragaza ko ari abanyamahoro  
badashaka imirwano.

Bageze i Madina, ababarwanyaga i Maka barabakurikiranye muri iyo  
ntera yose babasangayo babaziza ukwemera kwabo. Ni bwo hahishuwe  
umurongo wa mbere muri Qur'an, Imana ibemerera kwitabara no  
kwirwanaho. Imana yaravuze iti: "*(Abemeramana) bahawé  
uburenganzira bwo kwirwanaho igihe batewe kubera ko  
barenganyijwe, kandi rwose Allah ashobora kubatabara; Ba bandi  
bameneshejwe mu ngo zabo barenganyijwe, nta kindi bazira uretse  
gusa kuba baremeye Imana bavuga bati "Nyagasaní wacu ni Allah."*"  
*Nyamara iyo Allah ataza kurinda abantu (akarengane) akoreshje  
abandi, inzu z'abihayimana, insengero, amasinagogi ndetse n'imisigit  
ivugirwamo izina rya Allah kenshi, byari gusenywa. Kandi rwose Allah  
azatabara abaharanira idini rye. Mu by'ukuri Allah ni Umunyembaraga  
uhebuje, Ushobora byose.*" **Qur'an 22: 39-40.**

Jihadi kandi yashyiriweho kurwanya akarengane igihe hari abantu  
b'abagizi ba nabi bibasiye abandi babatoteza, ndetse bakanabica  
babarenganyije. Icyo gihe, Isilamu itegeka ababishoboye guhaguruka  
bakajya mu rugamba rwo kurwanya abo bagizi ba nabi mu rwego rwo  
gutabara abarengana. Imana yaravuze iti: "*Ni iki kibabuza kurwana mu  
nzira ya Allah mu gihe mubona abanyantege nke mu bagabo, abagore  
n'abana (barenganywa, batakamba) bavuga bati "Nyagasaní wacu!  
Dukure muri uyu mudugudu (kuko) bene wo ari inkozi z'ibibi, kandi*

*uduhe umurinzi uturutse iwawe, ndetse unaduhe umutabazi uturutse iwawe.” Qur'an 4: 75.*

Jihadi y'urugamba igira amategeko ayigenga agomba kubahirizwa; harimo kuba icyemezo cyo kuyitangiza gifatwa n'Umuyobozi Mukuru w'ighugu cya Kisilamu, yaba adahari icyo cyemezo kigafatwa n'Umuyobozi Mukuru wa Isilamu mu gihugu. Hari kandi kubanza kumenyesha abo bazarwana bagasabwa guhagarika aka karengane n'itotezwa babakorera; babiagarika ubwo impamvu y'urugamba rwa Jihadi ikaba ivuyeho.

Muri Jihadi kirazira kurwanya utakurwanya ndetse no guhohotera abatari mu mirwano, kirazira kandi guhohotera no kwica abana, abagore, abasaza, abantu bibereye mu nsengero zabo, abaragiye amatungo, ndetse n'abibereye mu mirimo yabo itandukanye. Kiranazira gusenya amazu, kwangiza ibikorwa remezo, kwica amatungo, kwangiza ibidukikije, gukurikirana abahunga, ndetse no gushinyagurira imirambo.

Nyuma y'uko habayeho impamvu zemewe za Jihadi y'imirwano, maze abarenganyaga bakanatoteza abandi bakiyemeza kubiagarika bagahitamo inzira y'amahoro n'imishyikirano, icyo gihe amategeko y'idini rya Isilamu ategeka Abayisilamu guhita bahagarika urugamba bakemera inzira y'imishyikirano igamije gutanga amahoro. Imana yaravuze iti: *Ariko nibahitamo inzira y'amahoro, na we uzayigane kandi wiringire Allah. Mu by'ukuri ni We Uwumva bihebuje, Umumenyi uhebuje.” Qur'an 8: 61.*

### **Muri Isilamu kirazira kwihimura kubo watsinze**

Iyo Abayisilamu batsinze urugamba barwanagamo n'ababatotezaga, babujije kwihimura kubo batsinze, ahubwo basabwa kubabarira ababahemukiye ndetse bakabakira, kandi bagakomeza kubana neza n'abantu bose muri rusange babereka ineza n'urukundo by'idini rya Isilamu. Imana yaravuze iti “*Kandi igikorwa cyiza n'ikibi ntibishobora kungana. Bityo, inabi wakorewe jya uyikosoza ineza; ibyo bizatuma uwo mwari mufitanye urwango aba nk'insuti yawe magara.” Qur'an 41:34.*

Hashingiwe kuri aya mategeko agenga Jihadi, birashimangira ko ibikorwa by'imitwe y'iterabwoba ikora hirya no hino nta sano bifitanye na Jihadi yemewe muri Isilamu, kuko bitubahiriza amategeko agenga Jihadi. Bityo, ibyo bikorwa ni ubwangizi ndetse ni n'ubugizi bwa nabi, ababikora bakwiye kurwanywa no kwamaganwa na buri wese ndetse bagakurikiranwa, bakanashyikirizwa ubutabera kugira ngo baryozwe ibyo byaha bakora.

### **UKO UMUYISILAMU ASABWA KUBANIRA ABO BADAHUJE UKWEMERA**

Idini rya Isilamu itegeka Abayisilamu ubworohherane, ubwubahane no kubanira neza abo badahuje imyemerere. Imana yaravuze iti “*Allah ntabwo ababuza kugirira ineza no gukoresha ubutabera ku batabarwanya mu idini ntibananabameneshe mu ngo zanyu (babarenganyije). Mu by'ukuri, Allah akunda abakoresha ubutabera.*”

#### **Qor'an 60: 8.**

Urugero rw'iyi mibanire myiza hagati y'Abayisilamu n'abo badahuje ukwemera twarufatira ku mibereho n'imibanire byaranze Intumwa Muhamad (Imana imuhe amahoro n'imigisha), kuko yabaniye neza abantu batari Abayisilamu mu buryo butandukanye. Ibyo bishimangirwa n'ingero nyinshi zirimo izi zikurikira:

- Intumwa Muhamadi yakiriye mu musigitu wayo uri mu mujyi wa Madina Abanaswara baje bayigana baturutse mu mujyi wa Najirani baje kuyibaza ibibazo ku idini rya Isilamu;
- Intumwa Muhamadi yatabarutse ingabo yayo igwatirijwe ku Muyahudi wari warayiguriye umutungo; ibyo ni ikimenyetso kigaragaza ko Intumwa Muhamadi yari ifitanye umubano n'imikoranire myiza n'uwo Muyahudi.
- Intumwa Muhamadi kandi yabanye n'Abayahudi bari batuye mu mujyi wa Madina ndetse banagirana amasezerano y'imibanire myiza, ubufatanye n'ubworohherane. Mu ngingo zari zigize ayo masezerano harimo kuba abo Bayahudi bari bafite uburenganzira ku myemerere yabo kandi bari batuye mu gihugu cya Kisilamu kiyobowe n'Intumwa y'Imana Muhamadi (Imana iyihe amahoro n'imigisha).

- Intumwa Muhamadi ubwo yari kumwe n'umusangirangendo wayo witwaga Abubakari, bari mu nzira bahunze bava i Maka bajya i Madina, bayobowe n'umuntu utari Umuyisilamu kuko batari bazi inzira ibagezayo.
- Kuva idini rya Isilamu ryagera mu Rwanda, Abayisilamu baranzwe no kubana neza n'abo badahuje imyemerere; uwo mubano ukaba wararanzwe n'ubwubahane, ubufatanye, ubworoherane, ubusabane ndetse no kuzuzanya mu buryo butandukanye.

Ibi byose bikaba bishimangira ko Isilamu ari idini ry'amahoro, ubworoherane no kubanira neza abandi, bikanagaragaza ko Umuyisilamu nyawe ari ubanira neza abantu bose ndetse akarangwa n'urukundo, impuhwe, ubunyangamugayo n'ukuri mu mikoranire ye n'abandi.

# **ISHAKIRO**

IJAMBO RYA MUFTI W'U RWANDA.....	iii
IJAMBO RY'IBANZE RY'ICAPWA RYA KABIRI.....	iv
IRIBURIRO RY'ICAPWA RYA KABIRI. ....	x
1 - SURAT AL FATIHAT .....	1
2 - SURAT AL BAQARAT.....	2
3 - SURAT AL IM'RAN.....	92
4- SURAT AN-NISAU .....	135
5 - SURAT AL MAIDAT .....	184
6 - SURAT AL AN'AM .....	221
7 - SURAT AL A'ARAF.....	262
8 - SURAT AL AN'FAL.....	303
9 - SURAT A- TAWUBAT.....	321
10 - SURAT YUNUS.....	355
11 - SURAT HUD .....	380
12 - SURAT YUSUF .....	409
13 - SURAT AR'AADU .....	434
14 - SURAT IBRAHIM .....	445
15 - SURAT AL HIJRI .....	458
16- SURAT A-NAHLI.....	471
17- SURAT AL ISR'A-U .....	498
18 - SURAT AL KAH'FU .....	522
19 - SURAT MARIAM.....	545
20 - SURAT TWAHA .....	560
21 - SURAT AL ANBIYA-U .....	583
22 - SURAT AL HAJJ.....	603
23 - SURAT AL MUUMINUNA .....	621
24 - SURAT AN NUR.....	639
25 - SURAT AL FUR'QAN.....	657
26 - SURAT ASHU-ARA-U.....	671
27 - SURAT ANAM'LU.....	697

28 - SURAT AL QASWASW	714
29 - SURAT AL ANKABUT	733
30 - SURAT A-RUUM	747
31 - SURAT LUQMAN	760
32 - SURAT SAJDAT	767
33 - SURAT AL AHZAB	773
34 - SURAT SABA-I	791
35 - SURAT FATWIR	803
36 - SURAT YASIN	815
37 - SURAT ASWAFATI	827
38 - SURAT SWAD	845
39 - SURAT A-ZUMAR	857
40 - SURAT GHAFIR	873
41 - SURAT FUSWILAT	891
42 - SURAT A-SHURAA	902
43 - SURAT ZUKH'RUF	914
44 - SURAT DUKHANU	929
45 - SURAT AL JATHIYAT	936
46 - SURAT AL AH-QAAF	943
47 - SURAT MUHAMAD	952
48 - SURAT AL FAT'HU	960
49 - SURAT AL HUJRATI	968
50 - SURAT QAAF	973
51 - SURAT ADHARIYAT	979
52 - SURAT A-TWUUR	987
53 - SURAT A-NAJM	993
54 - SURAT AL-QAMAR	1000
55 - SURAT A-RAHMAN	1007
56 - SURAT AL WAAQI'AH	1017
57 - SURAT AL-HADID	1026
58 - SURAT AL-MUDJADILAT	1033

59 - SURAT AL-HASH'RI .....	1040
60 - SURAT AL-MUM'TAHINAT .....	1046
61 - SURAT A-SWAF .....	1051
62 - SURAT AL-DJUMUAT .....	1054
63 - SURAT AL-MUNAFIQUNA .....	1056
64 - SURAT A-TAGHABUNI .....	1059
65 - SURAT AT-TWALAQ .....	1063
66 - SURAT A-TAH'RIIM .....	1067
67 - SURAT AL-MULKU .....	1070
68 - SURAT AL-QALAM .....	1076
69 - SURAT AL-HAAQAT .....	1083
70 - SURAT AL-MAARIJ .....	1088
71 - SURAT NUHU .....	1093
72 - SURAT AL-DJINI .....	1097
73 - SURAT AL-MUZAMMIL .....	1102
74 - SURAT AL-MUDATHIR .....	1105
75 - SURAT AL-QIYAMAT .....	1111
76 - SURAT AL-INSAN .....	1115
77 - SURAT AL-MUR'SALAAT .....	1120
78 - SURAT A-NABA-U .....	1125
79 - SURAT A-NAAZI'AT .....	1129
80 - SURAT ABASA .....	1133
81 - SURAT A-TAK'WIIR .....	1137
82 - SURAT AL-INFITWAAR .....	1140
83 - SURAT AL MUTWAFIFINA .....	1142
84 - SURAT AL IN'SHIQAQ .....	1146
85 - SURAT AL BURUDJI .....	1149
86 - SURAT AT TWARIQ .....	1152
87 - SURAT AL-A'ALA .....	1154
88 - SURAT AL-GHASHIYAT .....	1156
89 - SURAT AL-FAJ'RI .....	1158

90 - SURAT AL-BALAD .....	1161
91 - SURAT A-SHAM'S .....	1163
92 - SURAT A-LAYL.....	1165
93 - SURAT A-DWUHAA .....	1167
94 - SURAT A-SHAR'H.....	1168
95 - SURAT AT-TIIN .....	1169
96 - SURAT AL ALAQ .....	1170
97 - SURAT AL QADRI.....	1172
98 - SURAT AL BAYYINAT .....	1173
100 - SURAT AL-ADIYAT .....	1176
101 - SURAT AL-QAARIAT .....	1177
102 - SURAT AT-TAKATHUR .....	1179
103 - SURAT AL-AS'R.....	1180
104 - SURAT AL-HUMAZAT .....	1180
105 - SURAT AL-FIIL.....	1181
106 - SURAT QURAYSH .....	1182
107 - SURAT AL_MA'UUN.....	1183
108 - SURAT AL-KAWTHAR.....	1184
109 - SURAT AL-KAFIRUNA .....	1184
110 - SURAT A-NAS'R .....	1185
111 - SURAT AL-MASAD .....	1186
112 - SURAT AL-IKH'LAS .....	1187
113 - SURAT AL-FALAQ .....	1187
114 - SURAT A-NAAS .....	1188
 URUTONDE RW'AHAGARAGARA KUBAMA (SUJUUD) MURI QUR'AN....	1188
 AMAZINA Y'INTUMWA Z'IMANA N'ABAHANUZI BAVUZWE MURI QUR'AN.....	1189
 KUKI IMANA YOHEREJE INTUMWA N'ABAHANUZI? .....	1191
 IBICE BIGIZE TAWHID.....	1192

IBISOBANURO BY'IJAMBO JIHADI, IMPAMVU ZAYO NDETSE  
N'AMATEGEKO AYIGENGA MURI ISILAMU. ....1198

UKO UMUYISILAMU ASABWA KUBANIRA ABO BADAHUJE  
UKWEMERA.....1201

Iyi Qur'an isobanuye mu kinyarwanda ntabwo ari umwihariko w'uwo  
ari we wese. Bityo uwashaka kuyikoporora cyangwa kuyifotora  
cyangwa kuyisakaza abiherewe uburenganzira ariko atagize icyo  
ahindura na kimwe mu nyandiko zayo.

Aramutse agize icyo ashaka kuyihinduraho, icyo gihe nibwo  
azabisabira uburenganzira